

المُكْوَب - آنکھ کے پھولے والا۔
 كَوْكَبِي كَوْكُوبَةٌ الرَّجُلُ: تیز چلنے میں
 جھومنا۔ پتہ قد کا دوڑنا۔
 الكَوْكَاةُ وَالْكُوكَاةُ: پتہ قد۔
 الْمُكْوَكِي - بے برکت۔ گیزا۔
 تَكْوَلُ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا (وانکال انکیلا)
 الْقَوْمُ عَلَيْهِ: مار پیٹ گالی گلوچ کے لیے کسی پر
 ٹوٹ پڑنا۔
 تَكَاوَلُ الرَّجُلُ: کوتاہی کرنا۔ باز رہنا۔
 الْكَوْلَانُ وَالْكَوْلَانُ: بردی نام کی ایک
 گھاس واحد کولانہ۔
 الْاَكْوَالُ: پہاڑ کی مانند بلند زمین۔ ج
 اكاول
 كَام (ن) كَوْمًا و كَوْمَةٌ الْجَارِيَةُ:
 جماع کرنا الفرس وغیرہ: جفتی کرنا۔
 كَوْمَتْ (س) كَوْمًا النَّاقَةَ: اونٹنی کا بڑی
 کوبان والی ہونا۔
 كَوْمٌ تَكْوِيمًا التَّرَابُ: مٹی کو تودہ تودہ کرنا
 الصَّمَاعُ: سامان کا ڈھیر لگانا ثیابہ فی ثوب
 وَاوْحِدٌ: کپڑوں کو ایک کپڑے میں باندھنا۔
 اِكْتَامًا اِكْتَامًا الرَّجُلُ: پیر کی انگلیوں کے
 اطراف پر بیٹھنا۔
 الْكُؤْمُ - اونٹوں کا گھہ۔ ج اَكْوَامُ: بلند جگہ۔
 نِيلُهُ جِ يَمَانُ -
 الْكُؤْمَةُ وَالْكُؤْمَةُ: مٹی کا ڈھیر۔ ج كُؤْم
 وَاكْوَامُ
 الْاَكْوَامُ - بلند۔ بڑے کوبان والا اونٹ۔
 مَوْئِفٌ كُؤْمَاءٌ جِ كُؤْمُ
 الْكُؤْسِيُونَ: بڑھئی کی اجرت۔ کیشن ایبٹ کی
 اجرت۔ سیاق و تجارتی معاملات کو درست
 کرنے کے لئے ایک منظم جماعت جس کو عربی
 میں "اللَّحْنَةُ" بولتے ہیں۔ الْكُؤْمَسِيُونَجِي
 سامان برآمد کرنے والا۔
 كَان يَكُونُ كَوْنًا و كَيَانًا و كَيْوْنَةٌ
 الشَّيْءُ: نوید ہونا۔ واقع ہونا۔ پایا جانا۔ ہونا۔
 كَان اِفْعَالٌ نَاقِصٌ فِي سَعْيِهِ - مبتدا و خبر پر
 داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب

دیتا ہے اور خبر کو مبتدا کے لیے ثابت کرتا ہے
 اور مبتدا کو اسم کان کہا جاتا ہے جیسے "كَانَ
 زَيْدٌ قَانِمًا" اور کبھی تامہ ہوتا ہے جیسے
 "فَقَالَ الَّذِي لَيْكُنْ نَوْرًا فَكَانَ نَوْرًا" اور
 ثبت کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "كَانَ
 اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ" اور حصر کے معنی میں
 بھی جیسے "أَنَّ كَانَ ذُو عَشْرَةٍ فَطَرَهُ إِلَى
 مِيسِرَةٍ" اور وقع کے معنی میں جیسے "مَا شَاءَ
 اللَّهُ كَانَ" اور يسغي کے معنی میں جیسے
 "مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَسْبُوا شَجْرَهَا" اور
 استتقال کے معنی کے لیے جیسے "يُخَافُونَ
 يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطْبِرًا" اور زمانہ ماضی
 کے لیے جیسے "كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ
 رَهْطٍ" اور زمانہ حال کیلئے جیسے "كُنْتُمْ خَيْرَ
 أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" اور کبھی دوام و
 استمرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے "كَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا" اور کہا جاتا ہے "صَارَ إِلَى
 كَانٍ" یعنی مر گیا اور مٹی اور جمع میں کہا جاتا
 ہے "صَارَ إِلَى كَانًا" صَارُوا إِلَى كَانُوا
 اور "كُنْتُ الْكُؤْفَةَ" یعنی میں کوفہ میں تھا
 "وَمَنْزِلُ اِفْتَرَسَ كَانٌ لَمْ يَكُنْهَا أَحَدٌ"
 یعنی منازل خالی ہو گئے گویا کہ وہاں کوئی نہیں تھا
 "وَكُنْهَمْ" بمعنی كُنَّا لَهُمْ
 كَان يَكُونُ كَوْنًا و كَيَانًا عَلَى فُلَانٍ:
 ضامن ہونا۔ ذمہ دار بننا۔
 كَوَّنَ تَكْوِينًا الشَّيْءُ: پیدا کرنا۔ ایجاد
 کرنا۔
 تَكْوَنُ - پیدا ہونا۔ ایجاد ہونا۔ متحرک ہونا۔
 اِكْتَانَ اِكْتِيَانًا بِفُلَانٍ و عَلَيْهِ: ضامن
 ہونا۔ ذمہ دار بننا۔
 اِسْتَكَانَ اِسْتِكَانَةَ فُلَانٍ: فروتنی کرنا۔
 عاجزی ظاہر کرنا۔
 الْكُؤْنُ - سہ عالم وجود۔
 الْكُؤْنِي - کون کی جانب منسوب۔
 الْكُؤْنِي - عمر رسیدہ۔ بڑی عمر والا۔
 الْكِيَانُ - سر۔ طبیعت۔ فطرت۔
 الْكِيَانَةُ - ضمانت۔ کفالت۔

التكويين - سہ معدوم کو عدم سے وجود میں
 لانا۔ سفر التكويين: بائبل کی پہلی کتاب
 موسوم بہ کتاب پیدائش۔
 الْكَانِنُ - فادہ ہونے والا۔ واقعہ۔ حادثہ۔
 الْكَانِنَةُ: مؤنث کانن۔ حادثہ۔ کائنات و
 کوانن۔ الْكَانِنَاتُ: موجودات۔
 الْكَنْسِي وَالْكَنْسِي - بڑی عمر والا۔ گویا کہ وہ
 اپنے قول "كُنْتُ فِي شَبَابِي كَذَا و كَذَا"
 کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تم کہتے ہو
 "أَصْبَحْتُ كَنْسِيًا" یعنی میں بڑی عمر والا
 ہو گیا ج کَنْسِيُونَ و كَنْسِيُونَ اور كَنْسِي
 میں نون و قایہ ہے تاکہ ضمہ ظاہر ہو جائے جس
 طرح کی ضربی میں فتح ظاہر ہونے کیلئے
 نون لاتے ہیں۔
 الْمَكَانُ - کسی شے کے ہونے کی جگہ ج
 اَمَاكِنُ و اَمْكِنَةٌ و اَمْكِنٌ (انجیر نار ہے)
 الْمَكَانَةُ - موضع۔ جگہ۔ مرتبہ ج
 مَكَانَاتُ
 الْمَكِينُ - مرتبہ والا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ
 مَكِينٌ عِنْدَ فُلَانٍ" فلاں فلاں کے نزدیک
 صاحب مرتبہ ہے۔ کہا جاتا ہے مَكُونٌ فِيهِ:
 یعنی موجود۔
 كَوَّه (س) كَوْهًا - متعیر ہونا۔
 كَاه يَكُوهُ كَوْهًا الشَّيْءُ: منہ سو گھہ کر بو
 معلوم کرنا۔
 كَوَّه النَّارُ: آگ بھڑکانا۔
 تَكْوَهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: پراگندہ پریشان ہونا۔
 كَوَّوِي فِي دَارِهِ كَوَّوِي: روشندان بنانا۔
 تَكْوَوِي تَكْوَوِيًا الرَّجُلُ: تنگ جگہ میں داخل
 ہونا اور سٹھنا۔
 الْكُؤُ وَالْكُؤُ وَالْكُؤُ: روشن دان۔ ج
 كَوَاءٌ و كُؤِي و كَوَاتٌ و كَوَاتٌ
 كُؤِي النَّهْرُ: دریا کے نالے۔
 كُؤِي يَكُؤِي كَيْفًا فُلَانًا: لوہے وغیرہ سے
 داغ دینا۔ كَوْتُ الْعَقْرَبُ فُلَانًا: چھو کا
 ڈسنا۔ وَكَمَ مَرَانًا - کہتے ہیں "كُوَانِي بَعِينًا"
 یعنی اس نے مجھ کو تیز نظر سے دیکھا۔

کرا۔
الکَيْصُ - مص - سخت بخیل - درشت خو۔
گٹھے ہوئے بدن کا پرتہ قد۔

كَيْصٌ وَ كَيْصِي وَ كَيْصِي وَ كَيْصِي
تہا اترنے والا۔ تہا کھانے والا اور کسی کا خیال نہ
کرنے والا۔
الکَيْصُ وَ الْكَيْصُ مِنَ الرِّجَالِ: مضبوط

ٹٹھے والا۔
كَاعٌ يَكْبَعُ كَيْعًا وَ كَيْعُوَّةٌ عَنْهُ: پرول
ہونا۔ چائف ہونا۔ صفت كَاعٌ وَ كَانِعٌ ج
كَاعَةٌ۔

كَافٌ يَكَيْفُ كَيْفًا الشَّيْءُ: کاٹنا۔
كَيْفُ الشَّيْءِ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کیفیت
معلوم ہونا۔

تَكَيْفٌ مَكْرُومٌ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کسی کیفیت پر ہونا۔
اِنْكَافٌ اِنْكَيَافًا الشَّيْءُ: کاٹنا۔

كَيْفٌ اسم مبہم بنی علی الفتح ہے اور اکثر اس کا
استعمال استفہام کے لیے ہوتا ہے جیسے "كَيْفُ
زَيْدٌ" اور کبھی شرط کے لیے آتا ہے جیسی "مَا"
لگا کر ہیں اور کبھی نہیں جیسے كَيْفَمَا تَصْنَعُ
اصْنَعُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ اصْنَعُ اور کہا جاتا
ہے "كَيْفَ لِي بَفُلَانٍ" اس کے جواب میں
تم کہتے ہو شُكْلُ الْكَيْفِ ج کے ساتھ۔ مثل
دوسرے معربات کے اور فتح کے ساتھ اپنی
حالت پر پاتی رہتے ہوئے۔
كَيْفِيَّةُ الشَّيْءِ: صفت۔ حالت ج كَيْفِيَّاتٍ۔
الْكَيْفَةُ كَيْفٌ: کال کا ٹکڑا جس سے کرتے
کے دامن کے اگلے حصہ میں چوند
لگا کر۔ ج كَيْفٌ۔
الْكَيْفَةُ: ایڑا۔ ج الْكَيْفِيَّةُ اور تصغیر
كَيْفِيَّةٌ وَ كَيْفِيَّةٌ۔

كَالٌ يَكَيْلُ كَيْلًا وَ مَكَيْلًا وَ مَكَاوًا وَ
كَيْلُ الْقَمْحِ وَ غَيْرُهُ: ناپنا اور کبھی دو مفعول
کی طرف متعدی ہوتا ہے جیسے "كَلَّتْ زَيْدًا
الطَّعَامَ" اور کبھی مفعول اول پر لام داخل ہوتا
ہے جیسے "كَلَّتْ زَيْدًا الطَّعَامَ" کال
الذَّرَاهِمُ: جیسے
تَوَلَّى الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: اندازہ کرنا

اور کہا جاتا ہے "هَذَا طَعَامٌ لَا يَكَيْلُنِي" یعنی
اس پیمانہ کا غلہ میرے لیے کافی نہیں۔
كَالٌ يَكَيْلُ كَيْلًا الزَّئِدُ: چھتاق کا بے
آگ ہونا۔

كَيْلُ الْقَمْحِ: گیہوں ناپنا الرَّجُلُ: پرول
ہونا۔

كَائِلَةٌ مُكَابِلَةٌ: دوسرے کے قول یا فعل کی
مانند کہنا یا کرنا۔ گالی دینا اور بڑھ جانا اور کہا جاتا
ہے "كَائِلْتُ فُلَانًا" یعنی اس نے میرے
لیے اور میں نے اس کے لئے ناپا۔ دونوں
مُكَابِلَانِ کے جاسیں گے "وَ كَائِلُ الْفَرَسِ
الْفَرَسُ فِي الْحَجْرِ" یعنی ایک گھوڑے نے
دوسرے گھوڑے کا دوڑنے میں مقابلہ کیا اور کہا
جاتا ہے "كَابِلُنَاهُمْ صَاعًا بِصَاعٍ" یعنی ہم
نے ان کو پورا پورا بدلہ دیا۔

تَكَيْلُ الرَّجُلِ: میدان جنگ میں آخری
صف میں کھڑا ہونا۔

تَكَايَلُ الرَّجُلَانِ: گالی اور کینہ میں ایک
دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ ایک کا دوسرے کیلئے
ناپنا۔
اِكْتَالٌ اِكْتِيَالًا مِنْهُ وَ عَلَيْهِ: اپنے لیے

ناپنا۔
اَلْكَالُ - ایک ٹیڑھا سا آلہ ہے جو قلمہ کے
گرانے میں کام آتا ہے۔

الْكَيْلُ - مص - ناپنے کا آلہ - چنگاری جو
چھتاق سے گرے۔ ج اَكْيَالٌ۔

الْكَيْلَةُ: کال کا اسم مرثیہ ناپنے کا برتن فی بَرِّ
الشَّامِ: دوہ کا بیانا۔ ج كَيْلَاتٌ اور عَرَبِ
کے امثال میں سے ہے "اِحْشَفَا وَ سُوءُ
كَيْلَةٍ" اس وقت بولا کرتے ہیں جب کہ دو
بری باتوں کو کوئی جمع کرے۔ مراد یہ کہ بری
کچھ اور پھر اس پر بری قول بھی۔

الْكَيْلَةُ: کال کا اسم۔ اور اسم نوع۔
الْكَيْالَةُ: ناپنے کا پیشہ۔ ناپنے کی اجرت۔

الْكَيْالُ: وہ شخص جو ناپنے کا پیشہ اختیار
کرے۔
الْكَيْوَلُ: میدان جنگ کی آخری صف۔

أَوْحَى زَمِينَ - پرول (والکَيْلُ) چنگاری جو
چھتاق سے چھڑے۔

المَكَيْلُ وَ الْمَكَيْلَةُ ج مَكَايِلُ
وَ الْمَكَايِلُ ج مَكَايِلُ: جس سے ناپا
جائے۔

اَلْكَيلُوسُ: ایک سفید مائع مادہ جو کہ زود مضام
مطعمات کا جوس ہوتا ہے۔

اَلْكَيلُو غرام کلو گرام جو کہ ہزار گرام وزن کا
ہوتا ہے اور گرام اوقیہ کا چوبیسواں جز ہوتا ہے۔

المَكَيْلُ وَ الْمَكَيْوَلُ: ناپنا ہوا۔
الْكَيْمِيَاءُ وَ الْكَيْمِيَاءُ: کیمیا۔ کیمیا۔ جس کے

متعلق خیال تھا کہ اس سے سونا چاندی بن جایا
کرتا ہے عِلْمُ الْكَيْمِيَاءِ او الْكَيْمِيَاءُ عِنْدَ
الْقَدَمَاءِ: وہ علم ہے جس میں اس سے بحث کی
جائے کہ کس طرح ایک معدنی چیز کو دوسرے

کی طرف خصوصاً سونے کی طرف تبدیل کر
سکتے ہیں اور یا تمام امراض کیلئے دوا کا استنباط
عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ: وہ علم ہے جس میں اجسام
کے طبع و خواص سے بواسطہ حل و ترکیب کے

بحث ہو۔ اور نسبت کے وقت کیمیائی و
کیمیائی کہتے ہیں۔ ج كَيْمِيَوْنٌ وَ
كَيْمِيَوْنٌ۔

كَانَ يَكِينُ كَيْنًا لِفُلَانٍ: فروتنی کرنا۔

عاجزی ظاہر کرنا۔
اِكَاَنَةُ اِكَاَنَةً اللّٰهُ: عاجز کرنا۔ مطیع کرنا۔

فرمانبردار بنانا۔
اِكْتَانَ اِكْتِيَانًا: عملیں ہونا اور غم کو چھپانا۔


اِسْتِكَانٌ: کون کے مادہ میں مذکور ہے۔
الْكَيْنَةُ: پیری۔ ضمانت۔

الْكَيْنَةُ: سختی۔ ذلت حالت۔ کہا جاتا ہے
"بَاتَ فُلَانٌ بِكَيْنَةٍ سُوءَةٍ" یعنی اس نے

بری حالت میں رات گزاری۔
الْكَيْنَةُ: کونین (ذخیل)

كَاهٌ يَكِيهُ كَيْهًا فُلَانًا: منہ سوگھ کر بو
معلوم کرنا۔

الْكَيْهَةُ: وہ شخص جو اپنے جلد سے عاجز آچکا
ہو۔



اللّامُ بنیادی حروف میں سے تیسواں حرف ہے۔ یہ حروف ذلیف سے ہے۔ لام بحساب جمل اس کا عدد (۳۰) تیس ہے۔ اللّام تین قسمیں ہیں۔

(۱) عامل بعل جزم (۲) عامل بعل جزم (۳) غیر عامل۔

(۱) جارہ۔ اسم ظاہر اور ضمیر واحد متکلم کے ساتھ مکسور ہوتا ہے جیسے لَزِيدٌ وَلِيٌّ اور مستغاث بیا اور ضمائر غیر واحد متکلم کے ساتھ مفتوح جیسے يَااللّٰهَ وَلَكَ وَلَنَا وَلَهُ یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل ہونے والا کئی معنوں میں آتا ہے۔

(۱) اختصاص جیسے "الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِ بَنَاتٍ مَّوْسَىٰ" کے لیے خاص ہے۔

(۲) استحقاق جیسے "الْعِزَّةُ لِلّٰهِ" عزت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔

(۳) ملکیت جیسے (لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہیں۔

(۴) تبلیغ جیسے "قُلْتُ لَهُ و فَسِّرْتُ لَهُ" میں نے اس سے کہہ دیا میں نے اس سے بیان کر دیا۔

(۵) تعدیہ جیسے "مَا اَشَدَّ حُبَّ زَيْدٍ لِعَمْرٍو زَيْدٌ كُوْمَرٌ" کتنی شدید محبت ہے۔

(۶) قسم جیسے "لِلّٰهِ لَافْعَلْنَ هٰذَا" قسم اللہ کی میں اس کو ضرور کروں گا۔

(۷) حیرت جیسے "وَلِدَ الْاِنْسَانُ لِحَيٰوةٍ"

أَبَدِيَّةٌ" انسان ہمیشہ کی زندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو لام عاقبت اور لام المال بھی کہتے ہیں۔

(۸) تغلیل جیسے "وَيَوْمَ عَقُرْتُ لِّلْعَدَاوِي مَطِيَّبِيٌّ" اور اس دن کہ بارہ چھو کریوں کیلئے میں نے اپنی اونٹنی کو ذبح کیا۔

(۹) موافقت الی جیسے "بَانَ رَبُّكَ اَوْحَىٰ لَهَا"

(۱۰) موافقت علی جیسے "يَخْرُوْنَ لِلاَّذْقَانِ" (۱۱) موافقت فی جیسے "وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِيَسَطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"

(۱۲) بمعنی عند جیسے "كِنْبَةَ لِحُمْسٍ خَلُوْنَا" پانچویں تاریخ کے گزرنے پر میں نے اس کو لکھا۔ اور اس کو لام تاریخ بھی کہتے ہیں۔

(۱۳) موافقت بعد جیسے "قِمِ الصَّلٰوةَ لِذُلُوْكَ الشَّمْسِ"

(۱۴) موافقت مع جیسے "فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَانِي وَمَالِكًا لَطُوْلُ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبْتِ مَعًا"

(۱۵) موافقت من جیسے "سَمِعْتُ لَهُ صُرَاخًا" میں نے اس سے سنی۔

(۱۶) موافقت عن جیسے "قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ"

(۱۷) زائدہ جیسے "ضَرَبْتُ لَزَيْدٍ" میں نے زید کو مارا اور فعل پر داخل ہونے والا۔ تقدیر اُن سے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور ان مع اپنے مدخول کے مصدر مجرور باللہ کی تاویل

میں ہوتا ہے اور یہ یا تو تغلیل کے لیے ہوتا ہے جیسے "جَنَّكَ لِتَعْلَمَنِي" میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ تو مجھے تعلیم دے۔ اور یا تاکید نفی کے لئے۔ اور اس صورت میں کان مفتوحی اس سے پہلے آتا ہے اور اس کو لازم خود کہتے ہیں جیسے "مَا كَانَ زَيْدٌ لِيُكْرِمَكَ" زید ہرگز تیری تعظیم کے لیے نہ تھا۔

(۲) لازم جازمہ۔ اور وہ لام امر ہے اور اس کا نام لام طلب بھی ہے اور یہ مکسور ہوا کرتا ہے جیسے "لِيَحْكُمَ اللّٰهُ" اور کبھی مفتوح بھی ہوتا ہے اور واؤ اور فا کے بعد اکثر ساکن ہوتا ہے جیسے "فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلِيَوْمِئِذٍ اَبِيْ" اور ثم کے بعد بھی کبھی ساکن ہوتا ہے جیسے "ثُمَّ الْيَقْضُوْا"

(۳) غیر عاملہ۔ اور یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور وہ لام ابتداء ہے جیسے "لَزَيْدٍ قَاتِمٌ وَاِنْ زَيْدًا لِقَاتِمٌ"

اور لام جواب بعد لَوْ وَلَوْ لَا و قسم جیسے "لَوْ عَدْتُمْ لَعَدْنَا و لَوْ لَا زَيْدٌ لَهْلَكْنَا" و "وَاللّٰهُ لَزَيْدٌ كَرِيْمٌ" اور لام زائدہ جیسے "اِنَّكَ لَشَابِيْمٌ"

اور مجملہ انہیں غیر عاملہ کے وہ لام ہے جو بعد پر دلالت کرنے کیلئے اسمائے اشارہ کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور اصلا یہ ساکن ہوتا ہے جیسے تِلْكَ فِيْ مِغْرٍ ذَلِكُ فِيْ اجْتِمَاعِ سَاكِنِيْنَ كِي دَجِّ سَ كَرِهَ دِيَا كِيَا هَ۔

لا تین طرح پر ہے۔

(۱) تانیف۔ اور یہ چار طرح پر مستعمل ہے۔
(الف) نفی جس کے لئے۔ اس صورت میں اس کا اسم بنی بر فتح ہوتا ہے اور مضاف اور شبہ مضاف کی صورت میں منصوب ہوتا ہے جیسے "لا رجل فی الذاریعہ" میں کوئی مرد نہیں "ولا غلام رجل" حاضر تزد کا کوئی غلام حاضر نہیں۔

(ب) بمعنی لیس اس صورت میں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ نفی واحد کے لیے ہے جیسے "لا رجل فانما مرد قائم نہیں۔ اور لانی جنس اور لامعنی لیس میں فرق یہ ہے کہ جب تم لا رجل فی الذاریعہ کوے تو اب اس کے بعد بل رجلین او رجال کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسلئے کہ اس مثال میں جنس رجال کی نفی کر دی گئی ہے۔ بخلاف لا رجل فی الذاریعہ کے وہاں بل رجلین او رجال کہنا صحیح ہوگا اس لیے کہ لامعنی لیس صرف واحد کی نفی کرتا ہے اسو کی نہیں۔

(ج) لانی عطف کے لیے جیسے "جاء زیداً لا عمرو و زید آیانہ کہ عمرو۔"
(د) حرف جواب تقیض نعم جیسے کوئی پوچھے "اقام زید تو تم اس کے جواب میں کہو "لا"

(۲) طلب ترک فعل کے لیے اور اس کا نام لانی ہے اور یہ صرف مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے جیسے "لا تخف مت ذر۔"

(۳) زائدہ۔ اور یہ تقویت معنی کیلئے ہوتا ہے حذف کر دینے سے ظلل واقع نہیں ہوتا جیسے "ما منعک ان لا تقوم بمعنی" ما منعک ان تقوم"

لات حرف نفی ہے لیس کا عمل کرتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی معمول ذکر کیا جاتا ہے اور عموماً اسم ہی مخدوف ہوا کرتا ہے جیسے ندم البغاة ولات ساعة مندم معنی لات الساعة ساعة مندم معنی باغی پشیمان

ہوئے مگر وقت اب پشیمانی کا نہیں رہا۔

المُتَلَبِّ سیدھا۔

اللازور دلا جو رد۔ ایک مشہور معدنی چیز ہے جو آرمینیا اور فاس کے پہاڑوں میں ہوتا ہے اور عمدہ وہ ہوتا ہے جو صاف شفاف نیگوں مائل بہ سرخی یا سبزی ہو۔ زیورات میں لگایا جاتا ہے اور بہت مفید چیز ہے۔

اللازور دمی جو لا جو رد کے رنگ کا ہو۔

لاظلاف) لاط اصرار سے کسی کام کے لیے کہنا۔ لاط علی فلان جتنی کرنا۔ لاط بفسہم تیر مارنا۔ لاط فلان فی مؤزورہ بغیر ادھر ادھر التفات کے تیز بھاگنا فلان تیر تک دیکھتے رہنا یہاں تک کہ نظر سے غائب ہو جائے ذہ بالعضا یعنی سے مارنا۔

لاظلاف) لاطا تمکین کرنا۔ دھتکارنا۔ مقابلہ کرنا فلان فی التقاضی بقاضا کرنے میں سختی و اصرار کرنا۔

لافلان) لافا الطعام چھٹی طرح سے کھانا۔

الاکة الاکة الی فلان پیغامبری کرنا۔ کہا جاتا ہے "الکئی الی فلان یعنی میرا پیغام اس کو پہنچا دو (اصل الالکبہ) استتلاک لپیغام لے جانا۔

الملاک والملاکة پیغام۔

الملاک والملاک فرشتہ جو اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ج ملائکة و ملائک و املاک اور مفرد ملاک اور جمع ملئک کفائی جاتی ہے۔

لا لا لاة السجم او البرق بتارہ یا بجلی کا چمکتا۔ لا لات النار آگ کا روشن ہونا۔ بھڑکنا۔ لا لا الشور بذنہ بجل کا دم بلانا۔

لا لات النواہج بین کرنے والی عورتوں کا ہاتھوں کو اٹھانا۔ لا لا الدمع انسوبان۔

تلا لا السجم او البرق او النار بمعنی لا و جہ پچھوہ کا دک اٹھنا۔

اللؤلؤ موتی۔ واحد لؤلؤج لالی۔ اللؤلئی واللؤلؤان موتی کے رنگ کا۔

اللالة موتی فروشی کا پیشہ۔

الملاء بہت زیادہ خوشی۔ لالاء السراج چراغ کی روشنی (واللأل واللاء) موتی فروش۔

لاؤف) لائما ولام تلینما الرجل: کینتکی کی طرف نسبت کرنا السہم تیر پر لگانا۔ الجرح زخم باندھنا (لام ف) لائما ولام تلینما ولام اللاما الشئی درست کرنا۔ جمع کرنا اور باندھنا۔ الام الرجل کینتے بچوں کا باپ ہونا۔ ایسا کام کرنا جس سے لوگ کینتے کہیں۔

لؤوک) لؤوما و ملامہ و لام مذنی الاصل ہونا۔ بخیل ہونا۔ ذلیل ہونا۔ صفت لئینہ لئام ولؤوما۔

لاء م ملاء مہ الشئی درست کرنا۔ جمع کرنا۔ لاء مہ الشئی موافقت کرنا۔ لاء م بین القوم صلح کرنا۔

تلام و تلام م۔ الشئی الفاسد درست ہونا۔ تلام لامتہ انی ذر عذیرہ پہننا۔

التام الفاسد درست ہونا الشئی بنا اور چٹ جانا الجرح انگور بنا اور لہتا ہونا القوم اکٹھا ہونا الشیان متفق ہونا الفریقان مصالحت کرنا۔

استلام استلاما طزرہ پہننا۔ کینوں میں شادی کرنا اصهارا کینوں کو داماد بنانا الحجر الاسود جو منا الایکینہ چاب والا ہونا۔

اللام م۔ جمع لام معنی زرہ۔ شخص۔ ہر سخت چیز۔ کہا جاتا ہے "شئی لام معنی چیز"۔ سہم لام بڑگا ہوا تیر۔

اللیہج الام ولنام۔ واللما شل۔ مانند اللہ لوگوں کے درمیان اتفاق۔ توار شہد اللہ تمین سے لے کر دس تک مردوں کی جماعت۔ ج للمات کہا جاتا ہے "ہو لنا مہ لہ اس کی مانند ہے۔

اللؤوام حاجت۔

اللمقہ۔ ج لآم ولؤوم

اللؤمة اوزار کاشت کاری۔ ہر نفیس چیز جس پر بخل کیا جائے۔ دوسروں کے فعل کی نقل کرنے والا۔

الملمم۔ کمینہ۔ بخیل۔ ذفی ااصل۔ بہت زیادہ حریص۔ ذیل۔ ج لئام و لؤماء۔

الملمم شہر

الملام والملام والملمم۔ کینوں کی عذر خواہی کرنے والا۔ ندا کے موقع پر یا ملام بمعنی یا لیم کہا جاتا ہے۔

الامان واللؤمان والملممان۔ ذفی الطبع۔ اور یہ ندا کے لیے مخصوص ہے۔

الملام۔ زرہ پینے والا ”رجل ملام“ کمینگی کی طرف منسوب مرد۔

الملمم۔ کمینہ۔ کینوں کے پاس آنے جانے والا۔

لائی یلای لایا۔ دیر کرنا۔ رکنا۔

الای الاء۔ سختی میں پڑنا۔

الئای الئناء۔ دیر کرنا۔ تنگ گزران والا ہونا۔ مفلس ہونا۔

الای والای والؤاء۔ سختی۔ رنج و تکلیف۔ الای۔ ڈھال۔ جنگلی بیل۔ مؤنث لآء۔ ج الاء۔

لب (ن) لبًا بالمکان۔ اقامت کرنا الدابة: جانور کے سینہ پر تنگ باندھنا للؤؤة: بادام توڑ کر گری کا لالو جل۔ سینہ پر مارنا۔

لب (س) لبًا و لبًا و لبًا و لبًا عطفند ہوتا۔ لب لبب بھی بیان کیا گیا ہے مگر یہ مضاعف میں نادر ہے۔

لب (ض) لبًا و لبابة۔ عطفند ہونا۔ اور لببت و لببت تلک بھی آیا ہے مگر باب فعمل یفعل سے اس کے سوا کوئی نہیں اور حقیقت میں یہ باب تداخل سے ہے۔

لب تللبیا الحب: دانہ کا گودے دار ہونا فلانا: گریبان پکڑ کر کھینچنی الامر: تردد کرنا۔

لب بالمکان: اقامت کرنا علی الامر: لازم ہونا الدابة: جانور کے سینہ پر تنگ

باندھنا السرج: زین کا تنگ بنانا له الشی: پیش آنا۔ اور کہا جاتا ہے ”دار فلان تلب ذاری“ فلاں کا مکان میرے مکان کے مقابل ہے۔

تللب للقتال: مستعد ہونا۔ کرکنا الرجلان: ہر ایک کا دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر کھینچنا۔

استلب: زیندا: عقل کی آزمائش کرنا۔ اللہ: قرہی مہربان۔ مؤنث لبء۔ ج لیاب رجل لب علی الامر: کام سے لازم رہنے والا مرد لبء: مہربان ماں۔

اللب: ہر چیز کا خالص۔ خالص عقل۔ جو وہم وغیرہ کی آمیزش سے پاک ہو یا تیز فہمی۔ اسلے لب پر عقل کا اطلاق ہوگا مگر عقل پر لب کا اطلاق ضروری نہیں۔ اللب: دل۔

زہر۔ ج لباب و لب و اللب (آخری جمع صرف اشعار میں آتی ہے) اللب من الحوز واللوز ونحو ذلك: بادام اخروٹ وغیرہ کی گری۔ ج لبوب۔

اللبء لب کا اسم مرآة سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ شوہر کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنے والی عورت۔ ج لببات۔

اللب: س۔ سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ سینہ کا اوپر کا حصہ۔ باریک ریت۔ گھوڑے وغیرہ کے سینہ پر باندھنے کا تنگ۔ ج اللباب۔ اور کہا جاتا ہے ”فلان فی لب رخی“ فلاں آسودہ حال ہے۔ اللب: دل۔ کہا جاتا ہے ”هو رخی اللب“ وہ کشادہ دل ہے۔

اللباب: تھوڑی گھاس۔ کہا جاتا ہے ”لباب لب“ کوئی حرج نہیں۔ اللباب: ہر چیز کا خالص۔ برگزیدہ۔ کہا جاتا ہے ”فلان لب قومہ وهم لباب قومہم وہی لب قومہا“ فلاں اپنی قوم کا برگزیدہ ہے ”حسب لباب و عیش لباب“ خالص حسب۔ خالص زندگی لباب الحوز و نحوہ: اخروٹ وغیرہ کی گری۔ اللامة لباس جو لڑائی کے وقت کپڑوں پر پہنا

جائے۔ لبالب الحفول: کھیتی کے درمیان پھیلنے والا پودا جو کھیتی کو نقصان دیتا ہے۔

اللب: عطفند۔ ج اللباء مؤنث لبیبة ج لبیات و لبائب۔ رجل لبیب: کام سے چٹے رہنے والا۔ سستی نہ کرنے والا بنات اللب: دل کی چند رنگوں کا نام جو مرکز لطف و مہربانی میں کہا جاتا ہے ”انا احبک من بنات اللبی“ میں تجھ سے یہ دل سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللب کی جمع اللباب اور تصغیر لبیب۔

التلبیب: س۔ گریبان ج تلایبب التلبیب: تکلف عقل کا اظہار۔

الالبوب: سیر کی کھلی۔ کہا جاتا ہے ”لئیک“ میں حاضر ہوں۔ میں موجود ہوں میں تمہاری طاعت پر قائم ہوں۔ تشبیہ تاکید کے لیے ہے اور نصب مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کی اصل لب لبک الالباب بعد اللباب ہے۔

الملبوب: جودت عقل سے متصف۔ المتلبب: سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ لبیبة بغیر آستینوں کی قمیص۔

لبا (ف) لبًا الشاة: بکری کی پیوس دوہنا۔ لبات الام و لدها: ماں کا بچہ کو پیوس پلانا لبًا الزرع: بھلی بار پانی دینا والبا القوم: پیوس کھلانا اللبا: پیوس تیار کرنا البات الشاة: پیوس اتارنا الجذی: بکری کے بچہ کا خود پیوس پی لینا البات القوم: بہت پیوس والا ہونا الفصیل: پیوس پینے کے لیے تھن سے لگا دینا۔

لبات تلبة الشاة: بکری کے تھن میں پیوس اتارنا صفت ملیبی: لبًا بالحق: لئیک اللهم لئیک کہا (مانتلبی لیبی ناقص یا ی کے۔ اور اصل میں ہمزہ نہیں بلکہ یا ہے) اللبا: الشاة: بکری سے پیوس دوہنا اللبا: پیوس پیلا و استلبان الجذی الشاة: پیوس پینا۔

محقق دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللَّبَا - بیوی - کھیں۔
 اللَّبَاةُ وَاللَّبَائَةُ وَاللَّبْوَةُ وَاللَّبْوَةُ
 وَاللَّبْوَةُ وَاللَّبْوَةُ وَاللَّبَاةُ وَاللَّبْ
 ثِيرُنِي - لَبَاتٌ وَلَبَا وَلَبْوَةٌ وَلَبْوَاتٌ
 لَبْتُ (ن) لَبْتًا يَدُهُ: ہاتھ اٹھنا۔ مروڑنا
 فَلَانًا: کسی کے سینہ پھینک کر پر لاشی سے
 مارنا۔
 لَبْتُ (س) لَبْتًا وَ لَبْتًا وَ لَبْتًا وَ لَبْتًا وَ
 لَبْتًا وَ لَبْتًا وَ لَبْتًا وَ لَبْتًا: بالمکان:
 ٹھہرنا۔ اقامت کرنا اور کہا جاتا ہے "مَا لَبْتُ
 أَنْ فَعَلَ كَذَا" اس نے ایسا کرنے میں تاخیر
 نہیں کی۔
 لَبْتُ وَ اللَّبْتُ فَلَانًا فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔
 مقیم کرانا۔
 تَلَبَّتْ بِالْمَكَانِ: ٹھہرنا۔
 اسْتَلَبْتُ - سَتَّسْتُ پانا۔ سَتَّسْتُ سَجَّنا۔
 اللَّابِثُ وَاللَّبْتُ بِالْمَكَانِ: اقامت
 گزیر۔ ٹھہرنے والا۔
 اللَّبِثَةُ تَهْوِي دِيرَ:
 اللَّبِثَةُ - مختلف قبائل کی جماعت۔ ج
 لَبَاثٌ
 لَبِجٌ (ن) لَبِجًا بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر پلک
 دینا اور پھار دینا۔ اور کہا جاتا ہے "لَبِجٌ
 بِالرَّجُلِ أَوْ الْبَعِيرِ" یعنی مرض یا ٹھکن کی
 وجہ سے گر پڑنا۔ مَفْتَلِبِجٌ هُ بِالْعَصَا:
 لاشی سے مارنا۔
 اللَّبِجَةُ وَاللَّبِجَةُ شَاخٌ دَارٍ لَوْهَا جَسَءٌ
 بَهْرِيٌّ كَوْشَاكٌ كَمَا جَاتَا - لَبِجٌ وَ لَبِجٌ
 اللَّبَاجُ - بیوقوف۔ کمزور عقل والا۔
 لَبِجٌ (س) لَبِجًا وَ لَبِجٌ وَ اللَّجُّ الرَّجُلُ:
 بڑھا ہونا۔
 اللَّبِجُ - بوڑھا۔ عمر رسیدہ۔ بہادری۔
 لَبِجٌ (ف) لَبِجًا فَلَانًا: مارنا۔ گالی دینا۔ قتل
 کرنا الرَّجُلُ: پکڑنے کے لیے حیلہ کرنا
 الشَّيْءُ لِيَا لَبِجًا جَسَدُهُ: بہت گوشت
 والا ہونا۔ مَفْتَلِبِجٌ
 لَا يَبِخُ لِبَاخًا وَ مَلَابِجَةٌ - ہاتھ طمانچہ مارنا۔

بہت مال گویا کہ ایک پر ایک جمع ہے اَبُولْبِدِ:
 شیر۔
 اللَّبْدُ - بال یا اون تہ بتہ شدہ۔ اون کا چھوٹا
 - عمدہ لَبُودٌ وَ اللَّبَادُ - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
 لَا يَبِخُ لِبْدُهُ" فلاں کا عرق گیر خشک نہیں
 ہوتا یعنی وہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔
 اللَّبَادَةُ اون کی ایک چیز جو سر پر پہنی جاتی ہے
 یا عمدہ کی قبا۔
 اللَّبْدَةُ تہ بتہ جما ہوا بال یا اون۔
 کپڑے کا ٹکڑا جس سے کرتے کے سامنے کا پونڈ
 لگایا جائے۔ ران کا اندرونی حصہ۔ ٹڈی۔
 اللَّبْدَةُ تہ بتہ جما ہوا بال یا اون۔
 اللَّبْدَةُ وَاللَّبْدَةُ شِيرٌ كَيْ يَلِدُ وَ
 لَبْدٌ وَ اللَّبَادُ وَ لَبُودٌ
 اللَّبَادُ - قاشیر۔ کہا جاتا ہے "مَا لَبَادٌ"
 یعنی بہت مال۔
 اللَّبَادُ - عمدہ بنانے والا۔
 اللَّبُودُ - چمپڑی۔
 اللَّبِيدُ - تورہ۔ چھوٹا بورلا و اللَّبَادِيُّ
 وَ اللَّبَادِيُّ وَ اللَّبِيدِيُّ) ایک قسم کا پرندہ۔ جو
 بغیر اڑانے نہیں اڑتا اور ہر وقت زمین ہی سے
 چمٹا رہتا ہے اللَّبِيدِيُّ: جمع شدہ لوگ۔
 اللَّبِيدُ - فال۔ زمین پر پلک دینے والا۔
 کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَلِيدٌ" ای فقیر مُدْفَعٌ
 یعنی بہت زیادہ فقیر ہے۔ شیر۔ زمین سے چمٹنے
 والا۔
 اللَّبُودُ وَ اللَّبِيدُ وَ اللَّبِيدُ - پوند لگا ہوا
 تَيْسٌ مَلْبُودٌ: ٹھوس گوشت والا بکر۔
 لَبْرَةٌ (ض) لَبْرًا - بہت سخت مارنا لَبْرًا
 الشَّيْءُ: بہت تیز کھانا۔ تَوْفَلَانًا: عیب لگانا
 - برالقب دینا۔ چوہ پر ہاتھ سے مارنا۔
 لَبَسٌ (ض) لَبَسًا عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتہر کر
 دینا۔ گڑ بڑ کر دینا۔
 لَبَسَهُ (ن) لَبَسًا - شہ میں ڈال دینا۔ تم کہتے
 ہوا لَبَسِيٌّ" یعنی اس نے ایسا کر دیا کہ میں
 اپنے معاملہ میں شہ میں پڑ گیا۔
 لَبَسٌ (س) لَبَسًا الْقَوْبُ: کپڑا پہننا

ہاتھ مار پیٹ کرنا۔
 تَلَبَّخٌ - مٹک لگانا۔
 اللَّبِخُ - ایک درخت ہے جس کے پتے
 اخروٹ کے پتوں کے مانند ہوتے ہیں۔ واحد
 لَبِخَةٌ
 اللَّبِخُ - زیادہ گوشت والا۔
 اللَّبِخَةُ مٹک کا ناندہ۔
 لَبَدٌ (ن) لَبُودًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 الْقَوْمُ بِالرَّجُلِ: لازم ہونا الشَّيْءُ: چٹنا
 الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: گتہ جانا الْقَوْبُ: کپڑے میں
 پوند لگانا۔
 لَبَدٌ (س) لَبَدًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 لَبَدٌ (ض) لَبَدًا الصَّوْفُ: اون دھک کر
 پانی میں تر کر کے عمدہ بنا لَبَدٌ الصَّوْفُ بمعنی
 لَبَدُهُ الْكِسَاءُ: پوند لگا لَبَشِيٌّ: عمدہ جیسا
 ہوا بِالمَطْرِ الْأَرْضُ: تر کر ہشعرہ۔ لبس
 دار چیز یا گوند سے چمکانا۔
 اللَّبَدُ بِالْأَرْضِ: چٹ جانا بِالْمَكَانِ:
 اقامت کرنا بِالسَّرْحِ: زین کے لیے عمدہ بنانا
 الْفَرَسُ: گھوڑے پر عمدہ باندھنا الشَّيْءُ
 بِالشَّيْءِ: چمکانا بِالرَّجُلِ رَأْسَهُ: دروازہ میں
 داخل ہونے کے وقت سر جھکانا الْحَرَقُ:
 پوند لگانا بِالصَّرْحِ الْمَصْلِيِّ: سجدہ گاہ میں نگاہ
 ہونا۔
 تَلَبَّدَ الصَّوْفُ وَ نَحْوُهُ: عمدہ بنا لَبَطَانُ
 بِالْأَرْضِ: پرندہ کا زمین پر بیٹھنا بِالرَّجُلِ:
 دیکھ کر معلوم کرنا تَلَبَّدَتِ الْأَرْضُ
 بِالْمَطْرِ: بارش کی وجہ سے زمین کا ٹھوس
 ہونا۔
 التَّبَدُّدُ الْوَرَقُ وَ نَحْوُهُ: آپس میں چمٹنا۔
 الشَّجَرَةُ: بہت پتوں والا ہونا۔
 اللَّبِيدُ - عمدہ۔ کہا جاتا ہے "مَا لَهُ سَبِيدٌ
 وَلَا لَبْدٌ" اس کے پاس نہ بال ہے نہ اون یعنی نہ
 قلیل ہے نہ کثیر۔
 اللَّبِيدُ - تہ بتہ شدہ بال۔
 اللَّبِيدُ وَ اللَّبِيدُ - جو سفر نہ کرے اور ہمیشہ گھر
 ہی میں رہے۔ کہا جاتا ہے "مَا لَبْدٌ" یعنی

لبنۃ۔
 اللبن واللبنون۔ دودھ کا خواہش مند۔ دودھ
 پینے والا۔ لبن القميص۔ کرتے کی کلی۔
 مجلس لبن۔ فیصلے کی مجلس۔ اللبنۃ
 واللبنیۃ۔ دودھ والی۔
 اللبنان۔ سینہ یادوں پستان کا درمیان اور اکثر
 استعمال گھوڑے وغیرہ کے سینے کیلئے ہوتا ہے۔
 اللبنان۔ دودھ پلانا۔ کہا جاتا ہے هو اخوة
 بلبان أمہ اور بلبان أمہ نہیں کہا جاتا۔
 اللبنان۔ صنوبر۔ کنڈر۔ ایک قسم کا گوند جو
 دھونی کے کام میں آتا ہے۔
 اللبنانۃ۔ حاجت۔ ضرورت۔ ج لبنانات و
 لبان۔
 لبنان۔ ملک شام کا ایک پہاڑ جس کی چوٹی پر
 ہمیشہ برف رہتی ہے۔
 اللابن۔ ف۔ دودھ والا۔ زیادہ دودھ والا دودھ
 پلانے والا۔ مؤنث لابنۃ ج لبنات لبان۔
 اللدبان۔ تھن۔
 اللبؤن واللبنونۃ۔ دودھ والی۔ ج لبان و
 لبین و لبین و لبین و لبان۔ کہا جاتا ہے
 "کم لبین غنمک" تمہاری بیویوں میں کتنی
 دودھ والی ہیں۔
 اللبیین۔ دودھ سے پرورش پایا ہوا۔
 دودھار۔ مؤنث لبیین کرتے کی کلی۔
 اللبئی۔ ایک درخت ہے جس سے شہد کی
 مانند دودھ نکلتا ہے اور کبھی اس سے دھونی کا کام
 لیا جاتا ہے غسل اللبئی۔ لبئی درخت کا
 دودھ۔
 اللبان واللبین۔ ایٹھیں بنانے والا۔
 التلبین والتلبینۃ۔ بھوسی دودھ شہد سے بنا
 ہوا حیرہ۔
 اللبیین۔ دودھ صاف کرنے کا چھنڈا۔ دودھ
 دھونے کا برتن۔ اینٹ بنانے کا سانچہ۔ کچی
 ایٹوں کو جس میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری
 جگہ لے جائیں۔
 اللببون۔ دودھ سے پرورش پایا ہوا۔ دودھ
 پینے سے جس کو نشہ جیسا ہو۔

الملبنة۔ چچہ۔
 غشب ملبنة۔ زیادہ دودھ والی گھاس۔
 اللبؤۃ واللبنونۃ شیرنی اس کو لبؤۃ اور
 لبانۃ اور لبانۃ بھم کہا جاتا ہے (لبا کے مادہ
 میں ذکر ہو چکا ہے)
 لبی لبی لبیا نس الطعام۔ بہت کھانا۔
 لبی تلبیۃ الرجل۔ جواب دینا۔ لبیک
 کہنا۔ کہا جاتا ہے لبینہ الملبنیۃ۔ ان کے
 درمیان ایسی موافقت ہے کہ ان میں سے کوئی
 اپنے راز کو دوسرے سے نہیں چھپاتا۔
 لب (ن) لبنا الشی۔ کوٹا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔
 پینا۔ ہاندھنا التوبق۔ ستو کو پانی سے تر
 کرنا۔ سخی ملانا الماء الشیاب وغیرھا۔ تر
 کرنا۔ صفت لاث۔
 لب فلان بفلان۔ چٹنا۔
 البطان۔ پرندہ کا پنے سر کو پروں میں
 چھپانا۔
 اللات واللات۔ زمانہ جاہلیت کے ایک
 بت کا نام۔
 اللب۔ س۔ کھاڑی۔ بڑا کھاڑا۔
 اللبات۔ درخت کی چھال جو پارک کی
 جائے۔ کہا جاتا ہے "ما بقی منی المرض
 الا لبانا" مرض نے مجھ میں سوائے خشک
 کھال کے کچھ نہیں چھوڑا۔
 لبنا (ف) لبنا فلانا فی صدرہ۔ دکھا دینا۔
 کہا جاتا ہے "لبنا بہ أمہ" اس کی ماں نے
 اس کو جتا ہ حجر۔ پتھر مارنا۔ لبنا الیہ
 بعینہ۔ گھورنا۔ تیز نظر سے دیکھنا الشی۔ کم
 کرنا الحجاریۃ۔ جماع کرنا۔ لبنا موز کرنا۔
 اللبئی ہمیشہ اپنی جگہ پر رہنے والا۔
 لب (ن) لبنا و لبنا بہ۔ چکنا۔ فیہ
 ثابت رہنا فی منحر الناقۃ۔ بھالا مارنا
 (ولتب) السرج علی الفرس زین کنا۔
 اور کہا جاتا ہے "لب علیہ ثوبہ" جب کہ
 کپڑا اپنے اور اتارنا چاہے۔
 لب علیہ الامر واجب کرنا۔
 تلاب الفود۔ قوم کا باہم ملنا بالرماح

ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔
 التلب۔ التوب۔ کپڑا پہننا۔
 اللاتب۔ چکنے والا۔ ثابت رہنے والا۔
 الملب۔ ہمیشہ گھر میں رہنے والا۔ گوشت
 نشین۔
 الملبات۔ برائے کپڑے۔
 لبنا (ف) لبنا کنکری مار کر چہرہ یا جسم کو
 زخمی کرنا۔ بصرہ۔ نگاہ ڈالنا۔ سب کچھ
 لے لینا کچھ باقی نہ چھوڑنا الحجاریۃ۔ جماع کرنا۔
 لبنا بیدہ۔ ہاتھ سے مارنا۔
 لبنا (س) لبنا بھوکا ہونا۔ صفت لبنا
 مؤنث لبنا۔
 رجل لبنا و لاتب و لاتب و لبنا۔
 چالاک عقل مند ج لاتب۔ کہا جاتا ہے "هو
 البش شعرا أمہ" وہ بہ نسبت اس کے معافی پر
 زیادہ قابو یافتہ ہے۔
 لبنا (ف) لبنا آلودہ کرنا الشی۔
 پھاڑنا۔
 لبنا بالشی۔ آلودہ ہونا۔
 لبنا (ض ن) لبنا فلانا بیدہ۔ مکارنا۔
 لبنا (ض ن) لبنا مکارا کرنا۔
 لبنا (ف) لبنا فلانا۔ و سنا۔ بیدہ۔ ہاتھ
 سے مارنا۔
 اللبنا۔ جھوٹی قسم۔
 اللبنا۔ بے فائدہ کلام۔ کم قیمت کاموں میں
 مشغول ہونا۔ اس کا باپ لبنا لبنا لبنا
 وہی لبنا۔
 لبنا (ض ن) لبنا۔ ہاتھ پر نیزہ مارنا۔
 لبنا السہم۔ تیر پھینکانا۔ لبنا تیر مارنا
 فلان بشفرتہ فی لبنا بعیرہ۔ اونٹ کے
 لمبے پر چھری چلانا۔ لبنا الحجاریۃ۔ رجل
 الماشی۔ پتھروں کا چلنے والے کے پیر کو زخمی
 کرنا۔
 اللبنا۔ زخم۔
 اللبنا۔ لاتبینون و لاتبینون۔
 لاتبینون۔ لاتبینات۔ لاتبینون کی طرف
 نسبت یعنی اٹلی کا مقام مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے۔

حصہ۔ دروازے کی چوکت۔ ج الحِجْفَة
ولُحْف۔

اللَّحِيفَةُ، دروازے کے پہلو۔

بِنْرِ مَلْتَحِفَةً، منہدم کنواں۔

لَجْلَج لَجْلَجَةً وَ تَلَجْلَج، تھلانا۔

فِي صَدْرِهِ شَيْءٌ كَهَلَاكَ لَجْلَجِ اللَّحْمَةِ

فِي فِيهِ، بغیر چبانے کے منہ میں پھراتا۔

تَلَجْلَجَ بِالشَّيْءِ سَبَقَتْ كَرَانَا اور کہا جاتا ہے

"تَلَجْلَجَ ذَارَهُ مِنْهُ" یعنی اس نے اس کے

گھر کو لے لیا۔

لَجَمَ (ن) لَجَمًا التَّوْبَ كَبُرَ اسِنَا۔

الْجَمَ الدَّابَّةَ، چوپایہ کو گام لگانا۔

الْقَدْرُ، دیک کے کڑے میں لکڑی لگا کر

أَهْمَاءَ النَّاقَةِ، گام سے داغ لگانا عَنْ

حَاجَتِهِ رَوَّكْنَا، کہا جاتا ہے "نَكَلِمَ فَالْجَمْتُهُ

وَالْقَمْتُهُ الْحَجَرُ" اس نے گفتگو کی تو میں

نے اسے بند کر دیا۔

الْجَمَ وَلَجَمَ الْمَاءَ فَلَانَا، پانی کا منہ تک

پہنچنا۔

الْتَجَمَتِ الدَّابَّةُ، گام لگانا۔

اسْتَلْجَمَ فَلَانَا الْفَرَسَ، گام لگانے کو کہنا۔

اللَّجَمَ، زمین نہ پست نہ بلند۔ ج الْحَامِ،

(واللَّجَمَ واللَّجَمَ) گرگٹ۔ مینڈکیں۔

جانور جس سے بد فالی لیں۔ اللَّجَمَ، فضاء

آسمانی۔

اللَّجَامَ، گام۔ ج لَجَمَ وَ لَجَمَ وَالْجَمَةَ،

اُونٹوں کا نشان اور کہا جاتا ہے "جَاءَ فَلَانٌ

وَقَدْ لَفَظَ لِجَامَتِهِ" یعنی فلاں شخص اپنی

حاجت سے تھک کر واپس ہوا اور عرب کے

امثال میں سے ہے "اتَّبَعَ الْفَرَسَ لِجَامَتِهَا"

بھلائی کو پورے طریقے سے کرنے کیلئے کہنے

کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔

اللَّجَامَ، لگائیں بنانے والا۔

اللَّجَامَ، جس سے بد گفتگوئی لی جائے۔

اللَّحْمَةُ وَالْمَلْجَمَ، گام دینے کی جگہ۔

اللَّحْمَةُ، لَجَمَ کا واحد۔ زمین کے لیے

علم۔ لَجَمَةُ الْوَادِي، کنارہ وادی۔

کم دودھ والی ہونا۔ زیادہ دودھ والی ہونا۔ لَجَبِه

بِالسَّيْفِ، تلوار سے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الْمَلْجَبُ، مصل۔ گھوڑے کی ہینہاٹ۔

بہادوروں کا شور۔ کہا جاتا ہے "بَحْرُ ذُو

لَجَبٍ" شور مچانے والا سمندر۔

الْمَلْجَبُ، شور مچانے والا۔ سخت شور مچانے

والا۔ کہا جاتا ہے "جَيْشٌ لَجِبٌ" شور مچانے

والی فوج۔

اللَّحْبَةُ وَاللَّحْبَةُ وَاللَّحْبَةُ وَاللَّحْبَةُ

وَاللَّحْبَةُ وَاللَّحْبَةُ، کم دودھ والی بکری۔

زیادہ دودھ والی بکری۔ ج لِحَابٌ وَلِحَبَاتٌ

الْمَلْجَابُ، تیر کہ جس میں پر لگا دیئے گئے

ہوں اور پریکان نہ ہو۔

لَجَذٌ (ن) وَلَجَذٌ (س) لَجَذًا وَ لَجَذًا

الْكَلْبُ الْإِنَاءُ، کتے کا برتن کو اندر سے چاشنا

(لَجَذًا) الرَّجُلُ، کھانا، ایک دفعہ دیئے

جانے کے بعد زیادہ سوال کرنا الْحِمَارُ،

گدھے کا پہلی مرتبہ چرنا الْمَاشِيَةُ الْكَلَاءُ،

جانور کا گھاس کو دانتوں کے اطراف سے کھانا

مِنَ الشَّيْءِ، تھوڑا سا لینا فَلَانًا، براہینتہ کرنا۔

تم کہتے ہو "لَجَذَ نِي عَلِيٍّ كَذَا" اس نے

مجھ کو فلاں کام پر براہینتہ کیا۔

لَجَفَهُ (ن) لَجْفًا، سخت مارنا۔

لَجِفَتْ (س) لَجِفًا الْبَيْتُ، کتوں وسیع و

کشادہ ہونا۔ صفت لَجْفَاءُ،

لَجِفَ الْبَيْتُ، کتوں کو وسیع کرنا الشَّيْءُ،

جوانب سے کشادہ کرنا۔

تَلَجَّفَ الْبَيْتُ، جوانب سے کھودنا۔ تَلَجَّفَتْ

والتَّجَفَّتِ الْبَيْتُ، جوانب سے کھدا ہوا ہونا۔

کتوں کا گرنا۔ منہدم ہونا۔ تَلَجَّفَ الْوُحْشُ

الْكِنَاسُ، وحشی جانور کا ہرن کی جھاڑی کے

ارد گرد کھودنا۔

اللَّجْفُ، مصل۔ کتوں کے جوانب میں

کھدائی۔ کتوں کی تہ کا وہ حصہ جس کو پانی گرا

دے۔ سیلاب کے بند ہونے کی جگہ۔ وسط

وادی۔ ج لَجَافٌ

الْلَجَافُ، پہاڑ میں غار کے اوپر بڑھا ہوا

اللَّجُ، پانی کا بڑا حصہ۔ بڑی جماعت۔ وادی کا

کنارہ۔ تلوار۔ پہاڑ میں سخت جگہ۔ کہا جاتا ہے

"فَرَسٌ أَذْهَمٌ لَجٌ" بہت سیاہ گھوڑا۔

اللَّجَةُ، پانی کا بڑا حصہ۔ بڑی جماعت۔

چاندی۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَجَّةٌ وَاسِعَةٌ"

فلاں کشادگی میں سمندر کے مشابہ ہے۔ ج لَجٌ

وَلِحَجٌ وَ لِحَاجٌ اللَّحْبَةُ، آئینہ۔

اللَّحْيُ، لَجٌ کی جانب منسوب۔ کہا جاتا ہے

"بَحْرٌ لَجِيٌّ" یعنی بحر بے پیاں۔ اتھاہ

سمندر۔

اللَّحْبَةُ، لَجٌ کا اسم مرۃ شور۔

اللاجُ وَاللَّجُوجُ وَاللَّجُوجَةُ وَاللَّحْبَةُ

وَالْمَلْجَاجُ، سخت جھگڑاؤ۔

الْمَلْتَجَةُ، بہت سیاہ آنکھ۔ بہت سبزہ زار

زمین۔

لَجَأٌ (ف) لَجَأٌ وَ لَجُوءٌ وَ لَجِيٌّ (س)

لَجَأٌ وَ التَّجَأُ إِلَى الْحِضْنِ وَ غَيْرِهِ، قلعہ

وغیرہ کی پناہ لینا۔

لَجَأٌ تَلَجَيْتُهُ، فَلَانٌ مَالَهُ، بعض درتاء کے

لے خاص کر دینا (وَالْحَجَمُ) فَلَانٌ، مظفر

کرنا۔ مجبور کرنا۔ الْجَاهُ، پیمانہ۔ الْجَا أَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ، سپرد کرنا۔

تَلَجَأَ إِلَيْهِ، سہارا لینا مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے

علیحدہ ہونا اور دوسروں کا سہارا لینا۔

اللَّجَأُ، سر۔ قلعہ۔ جائے پناہ۔ ج الْجَاءُ،

وارث۔ بیوی۔ کچھوے کی ایک قسم جو خشکی اور

تری دونوں میں رہتا ہے واحد اس کا لَجَأَةٌ ہے۔

التَّلَجَيْتُهُ، سرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، کسی ایسے فعل

کے کرنے پر مجبور کرنا جس کا ظاہر باطن کے

خلاف ہو۔

اللَّحْجَانَةُ، ایک پہاڑی پودا جس کے پھول سبزی

ہوں۔

الْمَلْجَأُ، جائے پناہ۔ قلعہ۔ پناہ لینا۔ ج

مَلَا حَجِيٌّ،

لَجِبٌ (س) لَجِبًا الْبَحْرُ، سمندر کا جوش

میں آتا الْقَوْمُ، شور مچانا۔

لَجِبْتُ (س) لَجُوبَةٌ وَ لَجِبْتُ الشَّأُ،

اللحمہ۔ مسطح پہاڑ۔ زمین کے لیے علم لجنۃ الوادی۔ وادی کا کنارہ۔

المسکيات المسلحہ۔ ڈھائی صاع کا پیانہ۔ لحن (ن) لحن و لحن و ورق الشجر و نحوہ۔ پتوں کو کوٹ کر آٹایا جو ملا کے چارہ تیار کرنا۔

لحن (ن) لحن و لحن العیر۔ اونٹ کا اڑیل ہونا شی المسی آہستہ چلنا۔

لحن (س) لحنہ۔ چٹنا۔ تلحش الشی لیس دار ہونا راسدہ میلا ہونا القودہ۔ پتے اور آٹایا جو ملا کر چارہ بنانا۔ اللحن۔ میلا۔

اللحنین۔ کئے ہوئے پتے اور آٹایا جو ملا کر تیار کیا ہوا چارہ۔

اللحنۃ۔ جماعت۔ پارٹی۔ اللحنون من الجمال او النوق۔ ست رفتار اونٹ یا اونٹنی۔

اللحنین۔ چاندی (تغییر ہی کے وزن پر مستعمل ہے)

اللحنینۃ۔ دراہم۔ (لحنین کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے)

النجی الی غیر قومہ۔ غیر قوم کی طرف اپنے کو منسوب کرنا۔

لحت (س) لحن و لحن العین۔ کچھڑ سے لپکوں کا چپکانا۔

الح فی السؤال۔ سوال میں اصرار کرنا المسحاب بالمسطر۔ بادل کا لگاتار برسنا المسطی۔ سواری کا تھک کر دیر کرنا القتب

علی ظہر الدابة۔ پالان کا چوپایہ کی پیٹھ کو زخمی کرنا الجمال۔ اونٹ کا اڑیل ہونا۔

تلحح علیہ۔ مثل الح علیہ۔ اللح۔ سر کہا جاتا ہے۔ "هو ابن و عسی لحن" وہ میرا قریبی بیچا زاد ہے۔ اور لحن حالت کی بنا پر منسوب ہے اس لیے کہ اس کا مقبل معرفہ ہے اور نکرہ کی صورت میں تم کہو گے "هو ابن عہ لحن" جس کے ساتھ اس لیے کہ یہ عم کی صفت ہے اور ایسا ہی مؤنث اور مثنیہ اور

مجمع۔ اللاح۔ فار۔ مکان لاج و لحن۔ تنگ جگہ۔

الملحاح۔ بہت اصرار کرنے والا۔ پالان جو پیٹھ کو زخمی کر دے۔ سحاب ملحاح۔ لگاتار برسنے والا بادل۔

لحب (ف) لحن الطریق۔ راستہ پر چلنا۔ راستہ کو واضح کرنا الشی۔ اثر کرنا بفلان الارض۔ زمین پر پیک دینا۔ بچھاڑ دینا۔ ہ

بالسیف۔ تلوار سے مارنا اللحم۔ گوشت کو لبائی میں کاٹنا اللحم عن العظم۔ گوشت کو ہڈی سے جدا کرنا الرجل۔ سیدھا چلنا تیز چلنا۔

کہا جاتا ہے "مر یلحب (لحنوا) الطریق" راستہ کا واضح ہونا ظہیر الغرس۔ گھوڑے کی پیٹھ کا تھوڑی سی پستی کے ساتھ چلنا ہونا

المراة۔ جماع کرنا۔ لحب (س) لحن الرجل۔ بڑھاپے کی وجہ سے ڈبلا ہونا لحم زبد۔ لاغر ہونا۔

لحب الشی۔ اثر کرنا۔ نشان چھوڑنا۔ نکلنے نکلنے کرنا فلاناً۔ ذلیل کرنا۔ ہ

بالسیف۔ تلوار سے مارنا۔

الحنب الطریق۔ راستہ پر چلنا۔ اللحب۔ سر (والاحب) کشادہ راستہ۔ کہا جاتا ہے "طریق لحن و لاحب" کشادہ راستہ۔

اللحب۔ پیٹھ پر کم گوشت والی اونٹنی۔ الملحب۔ بہت گالی بکنے والا بد زبان۔ کاٹنے یا پھیلنے کا اوزار۔ فصیح زبان۔

المنحوب من رجل ملحوب۔ لاغر مرد۔ طریق ملحوب و ملحب۔ واضح راستہ۔

لحت (ف) لحن العضا۔ لاشمی کو چھیلنا فلاناً بالعضا۔ لاشمی سے مارنا الرجل۔ سب کچھ لے لینا اور کچھ نہ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "لحنوکم کما یلحن القضیب"

انہوں نے تم سے مال وغیرہ لے کر تم کو ایسا تنگ کر دیا جس طرح شاخ چھیل دی جاتی ہے۔

اللحت۔ سر۔ خالص۔

الملحاة۔ اتاری ہوئی چھال۔

لحجہ (ف) لحن مارنا ہ بعینہ۔ نظریہ لگانا۔ لحن الیہ۔ پناہ لینا۔

لحن (س) لحن السیف و نحوہ۔ تلوار کا میان میں چمٹ کر رہ جانا بالمکان۔ لازم پکڑنا الشی۔ تنگ ہونا اللحنی۔ کج ہونا۔

صفت الحج۔ لحن عینہ۔ کچھڑ والی آنکھ ہونا۔

لحن علیہ الحبر۔ غلط خبر دینا۔

الحج۔ الیہ۔ مجبور کرنا۔

الحنح الیہ۔ مائل ہونا الیہ۔ مائل کرنا۔ مجبور کرنا۔

تلحن الامر علی فلان۔ ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔

استلحن الباب۔ دروازہ کا بند ہونا۔

اللحن۔ سر آنکھ کا گڑھا۔

اللحن آنکھ کا گڑھا۔ گھر کا گوشہ۔ کجاوہ۔ پہاڑ کا انحراف ہوا حصہ۔ وادی کا گوشہ و کنارہ۔ ج

الحاج۔ مکان لحن۔ تنگ مکان۔

اللحن۔ آنکھ کی کچھڑ۔

الملحنج و المنلحنج۔ جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے "ان فی الناس لمنلحنج" لوگوں میں جائے پناہ ہے فقل ملحنج۔ بند تالا۔

الملاحح۔ تنگیاں۔

الملاحح۔ پہاڑ کے تنگ راستے۔

لحوج علیہ الامر۔ ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔

لحد (ف) لحد۔ المیت۔ میت کو دفن کرنا اللحد۔ کھودنا للمیت۔ بطنی قبر کھودنا

السنہم عن الہدف۔ نشانہ سے خطا کرنا الی فلان۔ مائل ہونا فی الدین۔ بے دینی اختیار کرنا علی فی شہادۃ۔ گنہگار ہونا۔

الحد الحداد۔ المیت۔ مردہ کو دفن کرنا اللحد۔ کھودنا للمیت۔ بطنی قبر کھودنا عن الدین۔ دین سے ہٹنا۔ دین میں طعن کرنا۔

بجھڑا کرنا۔ احکام خداوندی کو چھوڑنا اور ظلم کی

ملأ اللحم الرجل مرنا۔
 تلاحم القوم: باہم مقابلہ کرنا۔
 تلاحمت الشجعة: زخم کا بھر جانا اور
 درست ہو جانا (التحيم) الشی: جڑ جانا اور
 درست ہونا التحمت الحزب بینہم
 گھسان کی جنگ ہونا۔ "التحيم الجرح"
 للبرء: زخم بھر جانا اور درست ہو جانا۔
 استلحم الطريق: راستہ کا کشادہ ہونا۔
 الطريق او الطريدة: پیچھے پڑنا الخطب
 فلاناً: مشغول کر دینا الزرع: گنجان ہونا۔
 استلحم الرجل: جنگ میں پھنس جانا اور
 رہائی نہ ملنا۔
 اللحم واللحم من جسم الحيوان:
 گوشت۔ لحم ولحم و لحمان و
 لحمان و اللحم: لحم كل شيء: مغز
 لحم البحر: ایک کپڑا ہے۔ کہا جاتا ہے
 "أكل لحمي ورتع لحمي" یعنی میری
 غیبت کی۔
 اللحم: گوشت کا ایک ٹکڑا لحمة
 الثوب کپڑے کا ٹکڑا۔
 اللحم: قربانیت۔ کپڑے کا ٹکڑا۔ باز کو اس
 کے شکار سے جو کھلایا جائے۔ لحم
 اللحم: جس سے پھنسن کو درست کیا
 جائے۔
 اللحم: گوشت بیچنے والا۔
 اللحم: گوشت کھلانے والا۔ جس کے پاس
 گوشت ہو یا زلاحم: گوشت کھانے والا یا
 گوشت کا خواہش مند باز۔
 اللحم: جسم میں زیادہ گوشت والا۔ گوشت کا
 زیادہ خواہش مند یا زلاحم: گوشت کھانے
 والا یا گوشت کا خواہش مند باز اللحم: شیر۔
 اللحم: جسم میں زیادہ گوشت والا۔ مقول۔
 اور کہا جاتا ہے "هذا لحمي ذاك" یعنی یہ اس
 کے موافق اور ہم شکل ہے۔
 اللحم: منع۔ گوشت کھانے کا عادی۔ قوم
 کے ساتھ ملا ہوا قیدی۔ ایک قسم کا کپڑا جس کا
 تانہ شیم کا اور بانا غیر شیم کا ہوتا ہے۔

الملحم: فا۔ گوشت کھلانے والا یا جس کے
 پاس گوشت زیادہ ہو۔
 اللحم: گھسان کی جنگ کا موقع۔ ج
 ملأحم۔
 اللحم من الحيوان: مضبوط جی ہوئی
 رسی۔ کہا جاتا ہے شجعة ملاحمة: زخم کہ
 جس میں گوشت پھٹ جائے اور پھر جڑ جائے۔
 المستلحم: فا۔ شیر۔
 لحن (ف) لحناً و لحناً و لحنوناً و
 لحنانة و لحنانية في كلامه او في
 القرائة: اعرابی غلطی کرنا۔ صفت لاجن و
 لحنان و لحنانة (لحناناً لفلان: کسی سے
 اشارہ کنایہ میں بات کرنا تاکہ دوسرا نہ سمجھ
 سکے۔ صفت لاجن اور لحنان نہیں کہا جاتا
 اليه: قصد کرنا۔ مائل ہو کر بولنا: سمجھنا۔
 لحن (س) لحننا الرجل: ذہن ہونا۔ اپنی
 دلیل سے خبردار ہونا کلام: سمجھنا۔
 لحنه: غلطی کی طرف منسوب کرنا لحن
 في القراءة: خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا۔
 لاجن القوم: گفتگو کو ایک دوسرے پر
 دہرانا۔
 الحن فلاناً القول فليحنه: اس نے فلاں
 کو بات سمجھائی پس وہ سمجھ گیا۔
 اللحن: من الاضواء: موزوں آواز
 قومہ سر۔ ج لحنان و لحنون. صناعة
 الالحن: فن موسیقی لحن الكلام:
 مضمون کلام اللحن في الكلام: اعراب و
 بنا کی غلطی۔
 اللحن: لغت۔ سمجھ۔
 اللحن: زیرک۔ سمجھ دار۔
 اللاجن: فا۔ تانہ کلام کا جاننے والا۔
 اللحنه: وہ شخص جس کی غلطی لوگ بہت
 پکڑیں۔
 اللحنه: بہت غلط بولنے والا۔ جو لوگوں کی
 غلطی بہت پکڑے۔
 الالحن: بہت زیادہ سمجھ دار۔ خوش آوازی
 سے گانے والا یا پڑھنے والا۔

لحا يلخو لخوا و التلخي التحاء:
 الشجرة: درخت کو چھیلنا۔ لحاء: گالی
 دینا۔
 الملخى: لکڑی چھیلنے کا اوزار۔
 لخواج لخواجة عليه الخبز: گڑ بڑ کرنا اور
 ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔
 لحي يلخي لحياناً الشجرة: درخت کو
 چھیلنا فلاناً: ملامت کرنا۔ گالی دینا۔ عیب
 نکالنا۔
 صفت قائل لاج: صفت مفعول لحي: کہا
 جاتا ہے "لحا الله فلاناً" اللہ فلاں پر لعنت
 کرے۔
 لآخي لحاء و ملاحاة الرجل: جھگڑا کرنا
 اور اسی سے مثل ہے "من لآحاك فقد
 عاداك" جس نے تم سے جھگڑا کیا اس نے تم
 سے دشمنی کی فلاناً: دفع کرنا۔ منع کرنا۔ ایک
 دوسرے کو ملامت کرنا۔
 ألخي الحاء: قابل ملامت کام کرنا۔
 العود: چھیلنے جانے کے قابل ہونا۔
 تلخي تلخياً: ٹھوڑی کے نیچے عمامہ پیشاب۔
 تلاحى تلاحياً القوم: باہم لعن کرنا۔ باہم
 گالی گلوچ کرنا۔ باہم ملامت کرنا۔ باہم بغض
 رکھنا۔ باہم جھگڑنا۔
 التلخي التحاء: داڑھی اگنا۔ داڑھی رکھنا
 العود: لکڑی چھیلنا۔
 اللغى: جڑا۔ داڑھی اگنے کی جگہ لحيان
 دونوں جڑے لحياناً العديب: تالاب کے
 دونوں کنارے۔ بلخ و لحي:
 اللحاء: بس۔ لکڑی یا درخت کی چھال۔ اور
 امثال عرب سے ہے لا يَدْخُلُ بَيْنَ الْعَصَا
 وَ لِحَائِنَهَا" لاشی اور اس کی چھال کے
 درمیان داخل مت ہوں اور دو دستوں کے حق
 میں بولتے ہیں جن کے درمیان کوئی فساد نہ کرا
 سکے۔
 اللحيان: لمبی داڑھی والا۔ مؤنث لحيانة
 اللحينه: داڑھی۔ بلحی و لحي اور
 نبت كليله حوي. لحيانة الحمار:

پرساؤشاں (نام ایک دوا کا) لُخِيَةُ النَّبِسِ:
نام ایک نباتات کا جس کے پتے گندنا کے پتے
کے مانند ہوتے ہیں لیکن اس سے بلند ہوتے
ہیں۔

اللُّخِيَانُ - تھوڑا پانی۔ سیلاب کے بنائے
ہوئے گڑھے۔ واحد لُخِيَانَةٌ
الْأَلْحَى وَاللُّخِيَانِيُّ - بسبب یا بڑی داڑھی والا۔
لُخَهُ (ن) لُخًا طمانچہ مارنا لُخُ الخَيْرِ:
پوری خبر معلوم کرنا فی الکَلَامِ: مشتہ اور
سر بہت بات کہنا بِالطَّبِيبِ: خوشبو لگانا فی
الجَبَلِ: پہاڑ میں پھینچا کرنا فی الحَفْرِ:
کھودنے میں جھکانا۔

لُخْتُ لُخًا وَ لُخِيخًا وَ لُخِيخْتُ (س)
لُخَخًا عَيْنُهُ: زیادہ آنسو اور موٹی پلکوں والا
ہونا۔ مَفْتُ لُخِيخَةٌ
الْتَّخُّ الْأَمْرُ: غلط ملط ہونا۔ کہا جاتا ہے "الْتَّخُّ
عَلَيْهِ الْأَمْرُ" معاملہ ان کے اوپر غلط ملط
ہو گیا۔

العَشْبُ: گھنٹن و گنجان ہونا۔
تَلَاخُ الْوَادِي: گھٹ وادی ہونا اور درختوں
سے بھری ہوئی ہونا۔

وَادٍ لَاحٍ تَحْتِهَا وَرِخْتُونَ وَوَادِي -
اللُّخَةُ: ناکِ اِمْرَاةٌ لُخَةٌ: گندی بدبودار
عورت۔ اَصْلُ لُخُوخٍ: عیب دار اصل۔
سَكْرَانٌ مُلْتَخٌ: بدست۔ ہوش و حواس
زائل شدہ وَادٍ مُلْتَخٌ: بہت اور گنجان
درختوں والی وادی۔

لُخِيَةٌ (ف) لُخِيًا وَ لُخِيَةً مَلَاحِيَةٌ
طمانچہ مارنا الجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔
النَّخْبُ: گول گل کا درخت۔ واحد لُخِيَةٌ
المَلْتَخُ: طمانچہ مارا ہوا۔ جھگڑوں میں پھنسا
ہوا۔

اللُّخُجُ: آنکھ کی بڑی کچھڑ۔
اللُّخْلُ: تیز چھری۔
لُخِصٌ (س) لُخِصًا: اوپر کے موٹے
پوٹے والا ہونا۔ لُخِصْتُ عَيْنَهُ: آنکھ کے
ارد گرد کا متورم ہونا۔ مَفْتُ لُخِصٌ:

آنکھ کی مَفْتُ لُخِصًا: مَفْتُ لُخِصٌ:

لُخِصُ الْكَلَامِ: مختصر کرنا۔ خلاصہ کرنا۔
کھول کر بیان کرنا اور کہا جاتا ہے "لُخِصْتُ لِي
خَبِيرًا" مجھ سے اپنی خبر کو تھوڑا تھوڑا بیان
کر۔

الشَّيْ: خالص لینا۔
اللُّخِصُ: س۔ خَلَقْنَا - آنکھ کے پونے کی
موتائی۔
اللُّخِصَةُ: آنکھ کے اندر کا گوشت۔ ج
لُخِصًا:

الْأَلْحِصُ: ظاہر۔ مختصر۔
ضَرَعُ لُخِصٌ: زیادہ گوشت والا تھن جس
سے دودھ مشکل سے نکلے وَرَجُلٌ لُخِصٌ:
اوپر کے موٹے پوٹے والا مرد۔ اور کہا جاتا ہے
"بُحِقَ لُخِصًا" موٹا ہونا۔

المَلْتَحِصُ: بن کہا جاتا ہے "هَذَا مَلْتَحِصٌ
مَا قَالُوهُ" یہ لوگوں کے قول کا خلاصہ ہے۔
لُخْفَةٌ (ف) لُخْفًا: زور سے مارنا۔
اللُّخْفُ: س۔ پتے جھاگ۔
اللُّخْفَةُ: سفید باریک پتھر لُخْفًا:
لُخْمَةٌ (ن) لُخْمًا: طمانچہ مارنا لُخْمٌ
الشَّيْ: کائنا۔

لُخْمٌ (ف) لُخْمًا الرَّجُلُ: پر گوشت
چرے والا ہونا۔
لُخْمَةٌ لُخْمًا وَ مَلَاحِمَةٌ: باہم طمانچہ
بازی کرنا۔
اللُّخْمَةُ سُسْتِي: افسردہ دلی۔
رَجُلٌ لُخْمَةٌ وَ لُخْمَةٌ افسردہ دل مرد
۔ لُخْمَةٌ:

اللُّخْمَةُ: سخت زمین میں دشوار گزار جگہ۔
اللُّخَامُ: پٹیاں۔
لُخِنٌ (س) لُخِنًا: بدبودار ہونا الرَّجُلُ:
نخش کلائی کرنا۔ بن ران وغیرہ میں بدبو ہونا۔
مَفْتُ لُخِنٌ: مؤنث لُخِنَاءُ: ج لُخِنٌ:
لُخِنَةٌ: یا ابن اللُّخَاءُ کہا۔

اللُّخِنُ: س۔ غیر مَخْتُونٌ بچے کے قلمہ کی
سپیدی۔

لُخَاهُ يَلْخُوهُ لُخْوًا: ناک میں دوائی
چڑھانا۔

لُخَاهُ يَلْخِيهِ لُخِيًا وَ لُخَاهُ: مال دینا۔ ناک
میں دوائی چڑھانا۔ حلق میں دوا پکانا۔
لُخِي يَلْخِي لُخِي - ہرزہ سرانی کرنا۔ کبواس
کرنا۔

لَاخِي لُخَاءٌ وَ مَلَاحِيَةُ الرَّجُلِ: دوستی
کرنا۔ مخالفت کرنا۔ باہم نرمی برتنا فَلَانًا عَلِي
فَلَانٍ اَسْمَانًا: بھڑکانا بہ: چغل خوری کرنا۔
الْتَّخِي التَّخِيَاءُ: الضَّبِي: ترک کردہ روٹی کھانا
اسم لُخَاءُ ہے۔

اللُّخَا وَ اللُّخِي وَ اللُّخَاءُ وَ المَلْتَحِي -
جس سے ناک میں دوا چڑھائی جائے۔
الْأَلْحِي - ہرزہ سرا۔ کبواس کرنے والا
(وَاللُّخِي مِنَ الْجِمَالِ) جس کا ایک گھٹنا
دوسرے سے بڑا ہو۔

الْلُّخُوَاءُ: الْلُّخِي كَامُونُث - عقاب کراس
کی چوچ کے اوپر کا حصہ نیچے سے بڑا ہو۔
لُدٌّ (ن) لُدًّا وَ لَادٌ لِدَادًا وَ مَلَادَةٌ وَ الْدُّ
الرَّجُلُ: سخت جھگڑا کرنا اور غائب ہونا۔ لُدَّةٌ
عَنِ الشَّيْ: منع کرنا۔ لَادٌ عَنَهُ: مدافعت
کرنا۔

لُدٌّ (ن) لُدًّا وَ لُدًّا وَ الْدُّ الرَّجُلُ: منہ
کے کنارے سے دو اپنانا۔ لُدًّا اللُّخُوْدُ: منہ
کے کنارے سے پلائی جانے والی دواتار کرنا۔
الْدَّةُ: سخت جھگڑا پوانا الْدَّبِي: ماننا۔ کہا جاتا
ہے الْدُّوْثُ بِهِ: میں نے اس سے جھگڑا
کرنے میں سختی کی۔

لُدٌّ (س) لُدًّا: بہت جھگڑا ہونا۔ مَفْتُ
الْدُّ - کہا جاتا ہے "هُوَ الْدُّ بَيْنَ الْدَّدِ" یعنی
وہ بہت ہی سخت جھگڑا لیا ہے۔
لُدْدَةٌ: حیران کرنا لُدْدِيَّةً: بدنام کرنا۔
تَلْدُدٌ - تمجیر ہونا۔ دائیں بائیں دیکھنا فی
الْمَكَانِ: مٹھرنا۔

الْتَّدُ: منہ کے کنارے سے دو اپنانا۔
عَنِ الشَّيْ: مائل ہونا۔ ٹیڑھا ہونا۔
الْدُّ: س۔ پور۔

پازووں کو تھوڑا سا حرکت دینا۔

تَلَدَّعٌ - دائیں بائیں متوجہ ہونا۔ ذہین ہونا۔

تیز ذہین ہونا تَلَدَّعَتِ النَّارُ: آگ بجڑ کرنا۔

التَّدَاعُ: در میں سوزش ہونا۔

اللَّادِعَةُ لادِعٌ کا مؤنث۔ رج لَوَادِعُ

لَوَادِعُ الكَلَامِ: تکلیف دہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے

”تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لَوَادِعِهِ“ ہم اس کی تکلیف

دہ گفتگو سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

اللَّدَاعُ: اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ

مَدَاعٌ لَدَاعٌ“ یعنی بڑا خلاف وعدہ۔ اسلئے کہ

زبان سے خیر کا وعدہ کرتا ہے پھر خلاف وعدگی

کر کے تکلیف پہنچاتا ہے۔

اللُّوْدُعُ وَاللُّوْدُعِيُّ: تیز ذہین۔ تیز

خاطر۔ فصیح۔

اللَّادِقِيَّةُ شام کے ایک شہر کا نام۔ اور نسبت

کے لِلَّادِقَانِي وَاللَّادِقِيَّةُ

لَلَّذِي۔ چست و پھر تیز ہونا۔

اللَّدْلَادُ۔ چست و پھر تیز۔ بھیڑنا۔

لِذْمَةٍ (س) لِذِمَّا الشَّيْءِ: تعجب میں ڈالنا۔

بوسہ دینا۔

لِذِمٍ (س) لِذِمًّا بِالْمَكَانِ: چپے رہنا

بِالشَّيْءِ: حریص ہونا۔ شیفٹہ ہونا۔

الْذِمَّةُ الشَّيْءُ وَبِهِ: حریص بنانا۔ شیفٹہ کرنا۔

هُوَ: يَفْلَانُ: لازم کرنا الذَّمَّ بِالْمَكَانِ:

ثابت رہنا۔ اور کہا جاتا ہے ”الذَّمَّ بِفِلَانٍ

كَرَّامَتِكَ“ یعنی ہمیشہ کرو۔

الذَّمَّ بِفِلَانٍ: فریفتہ کیا جانا۔

الذَّمَّةُ: گھر سے جدا نہ ہونے والا۔ کسی چیز

کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا۔

رَجُلٌ لَذِمٌ وَلِذْمٍ وَمِلْذَمٌ بِالشَّيْءِ: چیز کا

شو قین۔ المِلْذَمُ: بہادر۔

اللاذِنُ وَاللاذِنَةُ: گوند کی ایک قسم۔

لِذِي يَلْذِي لِذِي بِالْأَمْرِ: لازم ہونا۔ جدا

نہ ہونا۔ شیفٹہ ہونا۔

الْكَذْبِيُّ: اسم موصول ہے اور اس میں پانچ

لغات ہیں اللَّذُّ وَاللَّذِي وَاللَّذِي

وَلِذِي مَوْطَأَتِي (مادہ ل ت ی میں ذکر ہو

چکا) شتیبہ اللَّذَانِ اللَّذَّاءُ وَاللَّذَانِ وَاللَّذِينِ

وَاللَّذَاوِدُ وَاللَّذَاوِدُ: اور بعضوں نے کہا ہے

کہ الْكَذْبُ حالت رفعی میں اور الْكَذِبُ یہ

حالت نصی و جری میں۔ اور الْكَذْبِيُّ کی تصغیر

اللَّذِيَا اور شتیبہ کی اللَّذِيَانِ اور جمع کی

اللَّذِيُونَ۔

لَرٌّ (ن) لَرًّا وَ لَرًّا وَ لَرًّا. الشَّيْءُ

بِالشَّيْءِ: باندھنا۔ ملانا۔ لازم کرنا الشَّيْءُ

بِالشَّيْءِ: ملنا لِقَوْمٍ: اکٹھا ہونا۔ بھیڑ کرنا۔

لَرٌّ بِالرُّمْحِ: نیزہ مارنا۔

هُوَ: إِلَى كَذَا: مجبور کرنا۔

لَرٌّ لِلَّهِ فَلَانًا: مضبوط جسم والا بنانا۔

لَارٌّ لِرِزَاوًا وَ مَلَارَةٌ: چمٹنا اور جھگڑے میں

تھک کرنا۔

الَّرُّ الشَّيْءِ: باندھنا اور چمٹانا۔

التَّرْبَةُ: چمٹنا۔ ملنا۔

اللَّرُّ: س۔ دروازہ کا حلقہ۔

اللَّرْزُ وَاللَّرْزَا: س۔ دروازے کی لمبی تخت

جھڑا۔

الْمَلْرُ: چیزے یا سٹیل کی سوراخ دار وائل جو بیچ

کے نیچے مضبوطی کے لئے ڈالی جاتی ہے۔ اس کو

روندل بھی کہتے ہیں۔

الْمَرْ: چمٹنے والا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ لُرٌّ شَرٌّ وَ

لُرٌّ يَنْزُرُ شَرًّا“ فلاں شر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس

سے جدا نہیں ہوگا۔

الْكَرَابُ: سرو کے درختوں میں سے ایک بڑا

درخت اس کے پتے تریان درخت کے پتوں

کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی لکڑی عمدہ قسم کی

لکڑی ہوتی ہے۔

عَيْشٌ لَرٌّ: تھک زندگی۔

اللزِيْرَةُ لَرِيْرٌ كَا مَوْثٌ يَخْرَانُ. اللزائر

سید کی ہڈیاں۔

الْمَلْرُ: تخت جھگڑا (نہ کرو مؤنث)

لَرًّا (ف) لَرًّا وَ لَرًّا وَ لَرًّا. الإِنَاءُ: برتن

بھرنا۔ الماشية جانور کو سیر کر لیا فَلَانًا:

دینا۔ کہا جاتا ہے ”لِرِزَانَةِ أُمِّهِ“ اس کی ماں نے

اس کو جتا۔

تَلَرًّا الْإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔

لَرَّبٌ (ن) لَرَّبًا - مضبوطی سے قائم رہنا۔

بہ: چمٹنا لَرَّبَتِ السَّنَةُ خَشَكًا سَالِيًا هَوَانًا قَطُ

ہوئا۔

لَرَّبَتْ (ض) لَرَّبًا. العُفْرُبُ فَلَانًا: بچھو کا

ڈننا۔

لَرَّبٌ (س) لَرَّبًا وَ لَرَّبٌ (ك) لَرَّبًا وَ

لَرَّبًا الطَّيْنُ: چپکنے والی اور سخت ہونا لَرَّبٌ

الشَّيْءِ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

قَلَزَبَ الشَّيْءُ: تہ بہ تہ ہونا۔

الْمَلْرَبُ: تھک راستہ۔

الْمَلْرَبُ: فَا - ثابت۔ کہا جاتا ہے ”صَارَ

الْأَمْرُ ضَرْبَةً لَرَّبًا“ یعنی لازم و ثابت

ہو گیا طَيْنٌ لَرَّبٌ: ہاتھ میں چپکنے والی

مٹی۔

الْمَلْرَبُ: کم۔ تھوڑا۔ مَلْرَبًا - کہا جاتا ہے

”هُوَ عَزَبَ لَرَّبًا“ اس کے نہ جو رو ہے نہ

جاتا۔

الْمَلْرَبَةُ: سختی۔ قَطُ - مَلْرَبٌ وَ لَرَبَاتُ سَنَةٍ

لَرَبَةٌ: سخت سال۔

الْمَلْرَبُ: بڑا کجوس۔ مَلْرَبًا

لَرَجٌ (س) لَرَجًا وَ لَرَجًا: لیس دار ہونا۔

چپکنے والا ہونا۔ مَفْتَلَرَجٌ: لَرَجٌ العَسَلُ

بِاصْبَعِهِ: شہد کا انگلی میں چپکنا۔

تَلْرَجٌ: چپکنے والا ہونا۔ البَقْلُ: نرم ہونے کی

وجہ سے بعض کا بعض پر جھکا۔ الدَابَّةُ البَقُولُ:

سبزی کے لیے جانا۔

الْمَلْرُوجَةُ: چپک۔ چسپیدگی۔

رَجُلٌ لَرَجَةٌ وَ لَرَجَةٌ لَرِيْرَةٌ: گھری پر

رہنے والا۔ جدا نہ ہونے والا۔

لَرِقٌ (س) لَرِقًا وَ التَّرِقُ بِهِ: چپکنا

(لَرِقًا) الرِّقَةُ بِالْحَنْبِ: پیاس کی وجہ سے

پھیپھڑوں کا پہلو سے چپکنا۔

لَارِقُهُ لَرِقًا وَ مَلَارِقَةٌ: چپکنا۔

الرَّقَةُ بِهِ: چپکنا۔

لَرِقٌ الشَّيْءِ: چپکنا۔ بغیر مضبوطی کے کام

کرنا۔

لَسْمٌ (ن) لَسْمًا - چمکانا کہا جاتا ہے "مَا لَسْمٌ لِسَامًا" یعنی کچھ نہیں چمکا۔

لَسِيمٌ (س) لَسِيمًا - حیایا عاجزی کی وجہ سے چپ رہنا۔

لَسِيمَةٌ لَسُومًا - لازم ہونا۔

الْسَمَةُ كَلَامًا: سمجھانا۔ کلام سکھانا۔
الطَّرِيقُ: راستہ اختیار کرنا۔ الْسَمُ
وَالْمَسْمُومُ الشَّيْءُ: ڈھونڈنا۔

لَسِينٌ (س) لَسِينًا - فصیح و بلیغ ہونا۔

لَسْنٌ (ن) لَسْنًا فَلَانًا: بہتر بیان والا ہونا۔

برائی سے یاد کرنا۔ گفتگو میں غالب آنا۔ لَسْنَتُهُ

العُقْرُبُ: ڈسٹا (وَلَسْنٌ) الشَّيْءُ: کنارہ کو

زبان کے کنارہ کی مانند بنانا۔ زُبان کی شکل کا بنانا اور تیز کرنا۔

لَا سَنَ مَلَا سَنَةَ الرَّجُلِ: جھگڑے اور گفتگو

میں غالب ہونا۔

السِّنُّ فَلَانًا قَوْلًا او رِسَالَةً: پہنچانا۔ کہا

جاتا ہے "السَّبِيءُ فَلَانًا وَالسِّنُّ لِي فَلَانًا

كَذَا و كَذَا" یعنی فلاں کو میری فلاں فلاں

بات پہنچا دو۔

تَلَسَّنَ عَلَى فَلَانٍ: جھوٹ بولنا۔ افترا کرنا

الْجَمْرُ: چنگاری سے زُبان کی مانند شعلہ بلند

ہونا۔

اللسن - زُبان - لغت - گفتگو۔

اللسن - فصاحت۔

اللسان - زُبان (مذکر و مؤنث) مذکر اکثر

استعمال ہوتا ہے ج لَسِنَةٌ و السِّنُّ و لَسْنٌ و

لِسَانَاتٌ لغت - پیغام - لِسَانُ الْعَرَبِ:

عرب کی زُبان لِسَانُ الْقَوْمِ: قوم کا ترجمان۔

لِسَانُ الْحَالِ: زُبان حال یا کسی چیز کی ظاہری

کیفیت۔ لِسَانُ الصِّدْقِ: اچھی شہرت۔

لِسَانُ الْمِيزَانِ ترازو کا وہ حصہ جو تولنے وقت

ہاتھ سے پکڑا جائے۔ لِسَانُ النَّارِ: شعلہ۔

لِسَانُ الْحَمَلِ و النَّوْرُ و الْكَلْبُ و

السَّعْ و الْعَصَافِيرُ: مختلف نباتات کے

نام۔ و الحروف اللسانية ر. ز. س.

ش. ص. ض. کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ذُو

لِسَانَيْنِ" یعنی فرسی دعا باز۔ مناقب - نصیحت
کرنے والا "وَالسِّنَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ حَسَنٌ"
لوگوں کی ثنا و تعریف اس کے حق میں اچھی
ہے۔

اللسن - جو چیز زُبان کی طرح نوکدار ہو
(وَاللَّسِنُ) فصیح بلیغ - مؤنث لَسْنَاءُ ج
لَسْنٌ.

المُلسِنُ - فاعل - فصیح بولنے والا۔

الجلسن - پتھر جس کو دروازہ کے اوپر کے

حصے میں لگا دیتے ہیں اور اس کے نیچے گوشت کا

تکڑا رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی درندہ آتا ہے اور

اس گوشت کو لینا چاہتا ہے تو پتھر گر پڑتا ہے اور

دروازہ کو بند کر دیتا ہے جس میں درندہ بند ہو

جاتا ہے۔

المُلسِنُ - س. زُبان کی طرح نوک دار بنایا

ہوا۔

المُلسِنُ - فاعل - حیرت یا لگن کی وجہ سے زُبان کو

دبانے والا۔

المُلسُونُ - جمونا - باتنی کام چور۔ زُبان

بریدہ۔

لَسَا يَلْسُو لَسْوًا - تھوڑا کھانا۔

لَسُوهُ (ن) لَسُوًا - دھکا کرنا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔

اللَّشُّ - س. ماش۔

لَشْلَشٌ - گھبراہٹ کی وجہ سے جگر وغیرہ کا

کانپنا۔

الشلال - گھبراہٹ کی وجہ سے جگر وغیرہ کا

کانپنے والا۔

لَسَا يَلْسُو لَسْوًا - رفعت کے بعد خیس

ہونا۔

لَأَشَى مُلَا شَاةَ الشَّيْءِ: لاشی کر دینا۔

معدوم کر دینا (یہ لاشی سے بنایا گیا ہے)

تَلَا شَى تَلَا شِيَا الشَّيْءِ: معدوم ہونا۔

مضعل ہونا۔

التلاشي - س. اضحلال۔

لَصٌ (س) لَصًّا و لَصَاصًا و

لُصُوصِيَّةً و لُصُوصِيَّةً - چور ہونا۔

لَصٌ (ن) لَصًّا الْبَابُ: بند کرنا الشَّيْءِ:

چرانا۔ خفیہ طریقہ سے کرنا۔

لَصَّصَ الْبَيْتَانَ: مضبوط بنانا۔ لغت ہے

رَصَّصَ میں۔

تَلَصَّصَ: چور ہونا۔ چوروں کی عادات اختیار

کرنا۔

اللُّصُّ و اللُّصُّ و اللُّصُّ - چور۔ ج

لُصُوصٌ و اللُّصَّاصُ و لُصُوصَةٌ و لُصَّاصٌ

مؤنث لُصَّةٌ ج لُصَّاتٌ و لُصَّائِصٌ.

اللُّصُّ - س. موٹھوں کا یاد اڑھ کا قریب

قریب ہونا۔ اور یہ عیوب انسانی سے ہے۔

الالُّصُّ - قریب قریب موٹھوں والا۔

اللُّصَّاءُ. اللُّصُّ کا مؤنث۔ تنگ پیشانی۔ وہ

بکری جس کا ایک سینگ آئے اور دوسرا پیچھے

ہو۔ ج لُصٌّ.

المُلَّصَّةُ - بہت چوروں والی سرزمین۔ اسم

جمع بمعنی لُصُوصٌ.

أَصِيبٌ (س) لَصَبًا. الْجِلْدُ بِاللَّحْمِ:

گوشت کا کھال سے لاغری کی وجہ سے چمٹنا۔

الْحَتَامَةُ فِي الْأَضْبَعِ: انگوٹھی کا انگلی میں

تنگ ہونا۔ السَّيْفُ فِي الْعَمْدِ: تلوار کا میان

میں چمٹ کے رہ جانا۔

النَّصَبُ الشَّيْءُ: تنگ ہونا۔

اللُّصْبُ - وادی میں تنگ جگہ۔ پہاڑ کی چھوٹی

گھاٹی۔ ج لُصُوبٌ و لُصَّابٌ.

اللُّصْبُ - تخیل۔ تنگ اخلاق والا۔

المُلَوَّاصِبُ - گہرے تنگ کونیں۔

کہا جاتا ہے "سَيْفٌ مِلَّصَابٌ" میان میں

پھینکے رہنے والی تلوار۔

طَرِيقٌ مُلْتَصِبٌ - تنگ راستہ۔

اللُّصْتُ و اللُّصْتُ و اللُّصْتُ - چور۔ ج

لُصُوتٌ.

لَصَعٌ (ف) لُصُوعًا الْجِلْدُ: کھال کا

لاغری کی وجہ سے ہڈی پر خشک ہونا۔

لَصِيفٌ (س) لَصْفًا الْجِلْدُ: کھال کا ہڈی پر

خشک ہونا اور چمٹنا۔

لَصِفٌ (ن) لَصْفًا الْحِجَارَةُ: ترتیب

سے جوڑنا (لَصْفًا و لَصِيفًا و لُصُوفًا)

کرنا الشئی: بگاڑنا۔ خراب کرنا ؕ الأَمْرُ: دشواری ہونا۔

تَلَطَّكَ المَوْجُ: موجوں کا ٹکرانا القَوْمُ: ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارنا۔

المَلَّاطُ: جسم کے وہ حصے جو مارا یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے دو کر رہے ہوں۔

لَطَّحَهُ (ف) لَطَّحًا: باطن کف دست سے مارنا۔ تھکی دینا۔ لَطَّحَ بِهِ: زمین پر ٹک دینا۔

لَطَّخَ (ف) لَطَّخًا و لَطَّخَ الشئی بِالْمَدَادِ و نَحَوَهُ: آلودہ کرنا ہِشْرُ: شرکی نسبت کرنا۔

تَلَطَّخَ: آلودہ ہونا بِأَمْرِ قَبِيحٍ: لوث ہونا ہِشْرُ: برائی کا ارتکاب کرنا۔

اللَطِّخِ: تھوڑا سا۔ کہا جاتا ہے سَمِعْتُ لَطَّخًا مِنْ خَبْرٍ میں نے تھوڑی سے خبر سنی

”وَفِي السَّمَاءِ لَطَّخٌ مِنَ السَّحَابِ“ آسمان میں تھوڑا سا بادل ہے۔

اللَطِّخِ: گندی غذا کھانے والا۔ وہ چیز جو اپنے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ میں نشیبی گنی ہو۔

اللَطُّوخُ: جس سے کسی چیز کو آلودہ کریں۔ اللَطِّخَةُ بِرُؤُفٍ: ج لَطَّخَاتٍ۔

اللَطِّخِ: بیوقوف۔

لَطَّسَهُ (ن) لَطَّسًا: طمانچہ مارنا۔ چوڑی چیز سے مارنا۔ لَطَّسَ الشئی: سخت کوٹنا ؕ

بِحَجَرٍ: پتھر مارنا الشئی: سخت روندنا الحجر بِالْحَجَرِ: پتھر کو پتھر سے مارنا۔

لَاطَسَهُ مَلَّاطَسَةً: آلودہ ہونا۔ تھوڑا۔ تَلَاطَسَ المَوْجُ: موجوں کا ٹھیسڑے مارنا۔

المَلَّاطَسُ ج مَلَّاطِسٍ. المَلَّاطَسُ: ج مَلَّاطِسٍ: گھمٹی توڑنے کا پتھر۔ پتھر توڑنے کی سخت اور بڑی کدال۔ پتھر یا چکی میں کھودنے کا آلہ۔ اونٹ کا کھر۔

لَطَّشَ يَلطِّشُ: ہاتھ کے ساتھ مارنا۔ لَطَّشَ القِيَابَ: کپڑے خراب کرنا۔

لَطَّعَ (ف) و لَطَّعَ (س) لَطَّعًا الشئی بِلِسَانِهِ: زبان سے چاٹنا فَلَانًا: پیچھے سے

معاٹے میں سخت کرنا الغَرِيمُ: حق روکنا فَلَانًا: مدد کرنا۔ أَلَطَّ بِالْحِجَابِ: پردہ لٹکانا (و تَلَطَّطَ) حَقَّ فَلَانًا: انکار کرنا۔ اور تین طا کے اٹھا ہونے کی وجہ سے تَلَطَّى حَقَّهُ بھی کہا جاتا ہے۔

الِنَطَّ جَمِينًا الشئی: چھپانا۔ النَطَّ بِالْمَسْكِ: مشک سے لت پت ہونا۔

النَطَّ: س اندرائن کے رنگین دانوں کا ہار۔ ج لَطَّاطٌ بِاللَطِّ: خصم۔

اللَطَّةُ و اللَطِيظَةُ: سواں۔ اللَطَطُ: قرض خواہ کا حق روکنا۔ دانوں کا

گرنا یاد آنتوں کا ہدر جانا۔ چیز کا چھپانا۔ اللطاط و المَلطاط: پہاڑی بالائی چوٹی کا

کنارہ۔ پہاڑ کا پہلو۔ اللطاط: وادی کا کنارہ۔

اللاطُ (ف) و المَلطُ: خبیث۔ وہ شخص جس کے ساتھی بھی سب خبیث ہوں۔

اللاطُ: جس کے دانت گر گئے ہوں یا جس کے دانوں کو کیڑوں نے کھا لیا ہو اور جزیں باقی رہ گئی ہوں۔

المَلطاط: سندر کا کنارہ۔ کشادہ راہ گزر گھر کا صحن۔ پلاستر کرنے والوں کی کرنی۔ میلن۔

چکی یا تھہ چکی۔ زخم جو دماغ تک پہنچ جائے۔ وادی کا کنارہ۔

المَلطوطُ: مفع تَرَسَ مَلطوطًا: اونٹنی کی ہوئی ڈھال۔

لَطَّأَ (ف) لَطَّوْنَا و لَطَّيْنَا لَطَّأً بِالْأَرْضِ: زمین سے چٹنا۔ لَطَّأَ بِالْعَصَا: پیٹھ پر لٹائی

سے مارنا۔ اللاطفة اچھا نہ ہونے والا چھوڑا۔ زخم جو دماغ تک پہنچ جائے۔ چھوٹی ٹوپی جو سر سے چپک کے

رہ جائے۔ اللطآ: بخیر یا۔ شکاری۔ المَلطَا و المَلطَاةُ: سر کے گوشت اور ہڈی کے درمیان باریک جھلی۔

لَطَّفَنَهُ (ن) لَطَّنًا: چوڑی چیز سے مارنا۔ تھپڑ مارنا ؕ بِحَجَرٍ: پتھر مارنا۔ لَطَّكَ الشئی: جمع

لَوْنُهُ: رنگ کا چکنا۔ لَصِقَ (س) لَصِقًا و لَصُوقًا و التَّصَقَ بالشئی: چپکنا۔

الَصِقَ الشئی بالشئی: چپکنا۔ بَعْرُ فَوْبٍ البعير: زخمی کرنا۔

لَا صَفَةَ مَلَّاصَفَةً: چپکانا۔ اللصق و اللصيق: جو شخص یا چیز قریب

ہو۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ لِصِيقِي و بِلِصْفِي و لِصِيفِي“ وہ میرے پہلو میں ہے۔

الَلصُوقُ: زخم کا مرمم جو چپکار ہے۔ عضو پر باندھنے کی پٹی۔

المَلصِقُ: بن۔ خاندان میں ملایا ہوا۔ منہ بولا بیٹا۔ مَوْنَتٌ مَلصِقَةٌ۔

لَصَلَصَ الوَتَدُ و نَحَوَهُ: اکھیرنے کیلئے ہلانا۔

لَصَا يَلصُو لَصُوعًا. المَرْأَةُ: عورت پر تہمت لگانا۔ گالی دینا۔ لَصَاهُ و لَصَا إِلَيْهِ: تہمت و شک کی وجہ سے ملنا۔

لَصِيَ يَلصِي لَصِيًا و لَصِيَ يَلصِي لَصِيًا إِلَيْهِ: تہمت و شک کی وجہ سے ملنا۔ لَصَاهُ لَصِيًا: عیب لگانا۔ و لَصِيَ الرَّجُلُ: گتہ بگاہ

ہونا۔ اللصاة: عیب۔

لَضَلَصَ لَضَلَصَةً: دائیں بائیں بہت زیادہ

الفتات کرنا۔ اللضلاص: ماہر راہبر۔

لَضَمَهُ (ن) لَضَمًا: سختی کرنا۔ اصرار کرنا۔ لَصَا يَلصُو لَصُوعًا الرَّجُلُ: راہبری میں

ماہر ہونا۔ لَطَّ (ض) لَطَّأَ البَابُ: دروازہ بند کرنا

الشئی: چھپانا البِسْرُ: پردہ لٹکانا الرَّجُلُ حَقَّهُ و عَن حَقَّهُ: حق کا انکار کر دینا عَنهُ و عَلَيهِ الخَيْرُ: پوشیدہ رکھنا بِالْأَمْرِ: لازم ہونا الشئی بِكَذَا: چٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنبِهَا: اونٹنی کا

دوڑنے میں دم کو راتوں میں دالینا۔ لَطَّهُ (ن) لَطَّأً بِالْعَصَا: لاٹھی مارنا۔

أَلَطَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ: چھپانا الرَّجُلُ: جھگڑے یا

ہلاتا۔

اللُّط - س تخت عادت کا مرد - کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ لَطٌّ كَطٌّ“ کظ تابع مہمل ہے۔

المُلَطَّة پیغام۔

المِلَطُّ والمِلَطَّظ - سخت اصرار کرنے والا۔

اللطَّاء - تھوڑی چیز۔

لَطَّلَطْتُ لَطَّلَظَةً الْحَيَّةَ رَأْسَهَا: سانپ کا سخت غصہ سے سر ہلانا۔

تَلَطَّلْتُ الْحَيَّةَ: سانپ کا سخت غصہ سے لہرانا۔

اللطَّلَظ من الرِّجال: درشت خو - سخت کرنے والا۔ فُجج - يَوْمٌ لَطَّلَظَ: گرم دن۔

لَطَّيْتُ تَلَطَّيْتُ لَطَّيْتُ النَّارَ: آگ کا بھڑکانا۔

لَطَّيْتُ تَلَطَّيْتُ النَّارَ: آگ کا بھڑکانا۔

تَلَطَّيْتُ وَالتَّلَطَّيْتُ النَّارَ: آگ کا بھڑکانا۔

تَلَطَّيْتُ وَ التَّلَطَّيْتُ فَلَانَ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔

تَلَطَّيْتُ الْمَفَازَةَ: بیابان میں گرمی کی بھڑک کا تیز ہونا الْحَيَّةُ مِنَ السَّمِّ: پھینکانا۔

اللطِّي: س۔ آگ یا آگ کی بھڑک۔

لطِّي مَعْرِفَةٌ: دوزخ۔ کلمہ تانیہ اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

أَلَعَ الْمَكَانَ: ابتدائی روئیدگی کو اگانا۔

تَلَعَّى اللُّعَاعَ: ابتدائی روئیدگی کو کھانا۔

ابتدائی روئیدگی کو جمع کرنا (اصل تَلَعَعَ ہے ایک عین کو یا سے بدل دیا گیا ہے)۔

اللُّعَاعُ: ابتدائی روئیدگی واحد لُعَاعَةٌ ہے اور اسی سے ہے ”أَلَمَّا الدُّنْيَا لُعَاعَةً“ یعنی دنیا

ابتدائی روئیدگی کی مانند ہے جس کے لیے بقا نہیں۔

اللُّعَاعَةُ كاسَنِي - از رزائی سال - دنیا ایک گھونٹ لُعَاعَةُ الْإِنَاءِ: برتن کا خالص حصہ

اور کہا جاتا ہے ”مَا بَقِيَ إِلَّا لُعَاعَةٌ“ یعنی صرف تھوڑا سا باقی رہا۔ ج لُعَاعُ

اللُّعَاعَةُ حِكْفَتُ قَوْمٍ سَرَكَانٍ وَاللَّاءُ - کہا جاتا ہے ”مُطِرٌ لُعَاعَةٌ“

اللُّعَةُ مِنَ النِّسَاءِ: خوبصورت پاک دامن عورت۔

عَسَلٌ مُتَلَعٌ - شہد جس کا گاڑھے پن کی وجہ سے تار نہ ٹوٹے۔

لَعَبٌ وَ لَعِبٌ (س) لَعِبًا الصَّبِيُّ: رال بچکانا۔

لَعِبٌ (س) لَعِبًا وَ لَعِبًا وَ لَعِبًا كَهَيْلٍ كَرْنَا - مزاح کرنا۔ لذت و تفریح کے لیے کوئی فعل کرنا۔ ایسا فعل کرنا جس پر کوئی نفع

متصور نہ ہو بگنا۔ کھیل کی چیز بنانا فی الأمر۔

سبک سمجھنا۔ لَعِبْتُ الرِّيحَ بِالذَّبَابِ: گھروں پر ہوا میں قابض ہو گئیں یعنی مکانات ویران و برباد ہو گئے۔

لَعَبٌ - بمعنی لَعِبٌ۔

الْعَبُّ بمعنی لَعِبٌ: کھلانا یا کھیل کی چیز لانا الصَّبِيُّ رال بچکانا۔

لَاعِبَةٌ مُلَاعِبَةٌ: باہم کھیلنا۔ عورتوں کے ساتھ کھیل کود کرنا۔

تَلَاعَبٌ وَ تَلَعَبٌ بمعنی لَعِبٌ کہا جاتا ہے

”لَعِبْتُ بِهِمُ الْهَمُومُ وَ تَلَعَبْتُ بِهِمْ“ ان کے ساتھ غموں نے کھیل کود کیا یعنی ان پر غم

واقع ہوئے۔

اسْتَلَعَبْتُ النَّخْلَةَ: خرما باقی رہتے ہوئے دوبارہ ٹھکڑو دار ہونا۔

اللُّعْبَةُ: لَعِبٌ کا اسم مرۃ۔

اللُّعْبَةُ: لَعِبٌ کا اسم نوح۔

اللُّعْبَةُ: کھیل۔ کھیل کی باری۔ کہا جاتا ہے

”أَفْعَدْتُ حَتَّى افْرَغَ مِنْ هَذِهِ اللُّعْبَةِ“ جب تک میں اس کھیل کی باری سے فارغ ہوں

بیٹھوں۔ جس سے کھیلنا جائے جیسے شطرنج۔ گڑیا وغیرہ۔ جو توقف جس کا مذاق بنایا جائے۔ کہا جاتا

ہے ”رَجُلٌ لُفَّةٌ“ یعنی ایسا مرد جس سے کھیل و تفریح کیا جائے۔ ج لَعِبٌ

الْأَلْعُوبَةُ: کھیل۔

اللُّعَابُ: منہ کی رال۔ لَعَابُ النِّخْلِ: شہد لَعَابُ الْحَيَّةِ وَ نَحْوُهَا: سانپ وغیرہ کا

زہر۔ لَعَابُ الشَّمْسِ: وہ چیز جو گرمی کے

زمانہ میں دوپہر کے وقت چھلپاتی دھوپ میں

کڑی کے چالے کی مانند فضا میں اوپر سے نیچے

اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس کو مَخَاطُ الشَّيْطَانِ بھی کہتے ہیں۔

لَعَابُ السَّفَرِ جَلٍ وَ نَحْوِهِ: ایک قسم کی دوا ہے جو بہی کے بیج سے تیار کی جاتی ہے۔

اللُّعَابِيُّ: لَعَابٌ کی جانب منسوب۔

اللُّعَابِيَّةُ: بچوں کا رس۔

اللُّعْبُ: سر کھیلنے والا۔

اللُّعُوبُ: ناز و انداز والی حسینہ۔ کہا جاتا ہے

”جَارِيَةٌ لُعُوبٌ“ ج لَوَاعِبُ وَ لَعَابُ

اللُّعْبَةُ وَ اللُّعَابُ وَ اللُّعَيْبُ وَ التَّلْعَابُ وَ التَّلْعَابُ وَ التَّلْعَيْبَةُ وَ التَّلْعَيْبَةُ وَ التَّلْعَابَانُ: بڑا

کھلاڑی۔ بڑا مذاق کرنے والا۔ اللُّعَابُ: بازی

کر۔

المَلْعَبُ: کھیل کی جگہ۔ ج مَلَاعِبُ

مَلَاعِبُ الرِّيحِ: ہواؤں کی آمد و رفت کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”تَرَكْنَاهُ فِي مَلَاعِبِ

الْجَنِّ“ میں نے اس کو گنہگار جگہ میں چھوڑ دیا۔

المَلْعَبَةُ وَ المَلْعَبَةُ: بے آستین کی قمیص کہ جس کو پھین کر بچے کھیلنے ہیں۔

المَلَاعِبُ: فلد مَلَاعِبُ ظِلِّهِ: ایک پرندہ ہے جس کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اور بازو بڑے

ہوتے ہیں۔

نُفْرٌ مَلْعُوبٌ: رال بہانے والے دانت۔

لَعِبْتُ (س) لَعَبًا: بست ہونا۔ صفت الْعَبِثِ

مُؤَنَّثٌ لُعَاعًا: ج لَعِبٌ

لَعْنَتُمْ وَ تَلَعْنَتُمْ فِي الْأَمْرِ: توقف کرنا۔

شہرنا۔ غور سے دیکھنا۔ بت جانا۔ کہا جاتا ہے

”مَسَّأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَتَلَعْنَمْ“ یعنی میں نے اس سے فلاں چیز کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی ”وَمَا تَلَعْنَمْ عَنْ شَيْءٍ“ نہ تو وہ مجھے جانا اور نہ تاخیر کی۔

لَعَجٌ (ف) لَعَجًا الصَّرْبُ فَلَانًا: تکلیف پہنچانا۔ اور کھال میں سوزش ہونا الشَّيْءُ فِي

صَدْرِهِ: كَلْنَا الْحُبَّ أَوْ الْحَزْنَ فِي قَلْبِهِ: گرمی چھوکتا۔

لَا عَجَهْ مَلَاعِجَةَ الْأَمْرِ: سخت ہونا۔ دشوار ہونا۔

أَلْعَجُ النَّارِ فِي الْحَطَبِ: آگ کو سلاگنا۔
التَّعَجُّ: غم سے جلنا۔

اللاعج: نا۔ دل سوز سخت۔ ج لواعج۔
اللّعج: ہر جلانے والی چیز۔ مار کی تکلیف۔
جلن۔

لَعَذَمٌ فِي الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ توقف کرنا۔
تامل کرنا۔

تَلَعَذَمَ عَنِ الْكَلَامِ: حیرت سے متردد ہونا۔
کہا جاتا ہے ”قَرَأْنَا مَا تَلَعَذَمَ“ اس نے پڑھا تو
نہ تو ٹھہر اور نہ متردد ہوا ”وَمَا تَلَعَذَمْنَا
شَيْئًا“ ہم نے کچھ نہیں کہا۔
اللغذمی: لاپٹی۔

لَعَزَةٌ (ف) لَعَزًا: ہٹانا اور مکارنا۔ لَعَزَتْ
النَّاقَةُ فَصَيَلَهَا: بچے کو زبان سے چاٹنا
المَرَاةُ: جماع کرنا۔

لَعَسَةٌ (ن) لَعَسًا: دانت سے کاٹنا۔
لَعَسَ (س) لَعَسًا: سیاہی مائل سرخ ہونٹ

والا ہونا۔ خوبصورت سیاہ ہونٹ والا ہونا۔
صَفَتِ الْعَسَّ مَوْتٌ لَعَسًا: ج لَعَسًا و
لَعَسَتْ: الشَّفَةُ: سیاہی مائل سرخ ہونا۔

بہترین سیاہ ہونا۔
اللعسة: سیاہی مائل سرخ رنگ۔ کہا جاتا ہے
”مَا ذُقْتُ لَعُوسًا“ میں نے کچھ نہیں چکھا۔

اللغوس: کم خوراک۔ حریص۔ بھیرا۔ ج
لعاوس۔

الالْعَسُ مِنَ النَّبَاتِ: بھنجانا پودہ۔
المتلْعَسُ مِنَ الرِّجَالِ: بہت کھاؤ۔

لَحْمٌ مَلْعُوسٌ: کچا سرخ گوشت۔
تَلَعَسَمَ فِي الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ توقف کرنا۔

لِعَصَ (س) لَعَصًا الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔
الرَّجُلُ فِي الْأَخْلِ وَالشَّرْبِ: بہت حرص

سے کھانا پینا۔ صفت لِعَصَ۔
تَلَعَصَ عَلَيْنَا: سختی کرنا الرَّجُلُ: کھانے

پینے میں بہت حریص ہونا۔

لَعَصَهُ (ف) لَعَصًا بِلِسَانِهِ: زبان سے
لیٹا۔

اللغوض: گھبر۔

لَعَطَ (ف) لَعَطًا: دوڑنا۔ لَعَطَتِ الْإِبِلُ:
گھروں کے ارد گرد چرنا: گردن کے عرض

میں داغ لگانا: بآبِنَاتٍ: اشعار میں جو کرنا ہ
بَسْتَهُمْ أَوْ بَعَيْنٍ: تیر مارنا یا نظر بد لگانا ہ
بِحَقِّهِ: نال منول کرنا المَانِسِيَةَ النَّبَاتِ:

جانور کا نباتات کو چرنا۔
أَلْعَطَ الرَّجُلُ: پہاڑ کے دامن میں چلنا۔

التَّعَطَّتِ الْإِبِلُ: چراگاہ میں دور نہ جانا اور
گھروں کے ارد گرد ہی چرنا۔

اللغط: س۔ واحد الألعاط: سیاہ یا زرد خطوط
جو عورتیں اپنے چہرہ پر کرتی ہیں۔

اللغط: دیوار یا پہاڑ کا پہلو۔ لَعَطَ الرَّمَلِ:
ریت کا گوشہ۔ لَعَطَ الْجَبَلِ: دامن کوہ۔

اللغطة: اسم ہے لفظ کا سیاہی یا زردی کا خط جو
عورتیں اپنے رخسارے پر کرتی ہیں۔ بکری

کے گردن کی سیاہی۔ شکرے کے چہرے کی
تیرگی۔

اللغطاء: گردن میں سیاہ داغ والی بکری۔
الملعط: گھروں کے ارد گرد کی چراگاہ۔ ج

ملاعط۔
المُلَطَّعَةُ: فریہ دراز لڑکی۔

أَلْعَفَ وَ تَلَعَفَ الْأَسَدُ أَوْ الْجَبِيذُ: شیر یا
اونٹ کا بار بار آنکھ کھولنا اور بند کرنا۔ غضبناک

ہونا اور حملہ کے لیے تیار ہونا۔
لَعِقَ (س) لَعَقًا وَ لَعَقَةً وَ لَعَقَةَ الْعَسَلِ وَ

نَحْوَهُ: شہد کو زبان یا انگلی سے چاٹنا۔ صفت
لَا عِجْ ج لَعَقَةً کہا جاتا ہے ”لَعِقَ فَلَانٌ

إِضْبَعَهُ“ یعنی مر گیا۔
الْعَقُ وَ لَعَقٌ: چٹانا۔ العَقُ النَّسَاجُ

النَّوْبُ: بیکے کتابی کے دھاگے سے بنا۔
الْبَعِقُ لَوْنُهُ: رنگ سے سفید ہونا۔

اللغقة: س۔ اسم مرؤہ۔ کہا جاتا ہے ”فِي
الْأَرْضِ لَعَقَةٌ مِنَ رَيْبِ“ زمین میں توڑی

کی بڑی ہے۔

اللغقة: س۔ چھپ یا انگلی میں جتنا آئے۔ چاٹنے
کے قابل چیزوں میں سے تھوڑا سا۔ کہا جاتا ہے

”رَجُلٌ وَعِيقٌ لَعِقٌ“ یعنی لاپٹی مرد۔

اللغاق: چاٹی ہوئی چیز کا وہ حصہ جو منہ میں
باقی رہ جائے۔

اللغوق: ہر وہ چیز جو چاٹی جاسکے جیسے شہد ادا
وغیرہ۔ چٹنی۔ تھوڑا سا توشہ۔ کہا جاتا ہے ”مَا

مَعَنَا إِلَّا لَعُوقٌ“ ہمارے ساتھ صرف
تھوڑی سی چیز ہے۔

الملغقة: چچ۔ ج ملاعق۔
اللغفظ: بد زبان عورت۔

لَعَلٌ: حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ اسم کو
نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور توجہ کا فائدہ دیتا

ہے جیسے لَعَلَّ الْحَبِيبَ قَادِمٌ أَوْ خَوْفَ كَيْ
مَوْجِعٍ يَرْجَى بَوْلًا جَاتَا جَيْسَ ”لَعَلَّ الشَّدَّةَ

نَازِلَةً“ اور ایسے ممکن کے ساتھ خاص ہے
جس کے حصول کا وثوق نہ ہو۔ (مفردات امام

راغب اسفہانی میں ہے کہ بعض مفسرین نے
بیان کیا ہے کہ لَعَلَّ جب باری تعالیٰ عَزَّ وَجَلَّ

کی طرف سے ہو تو وجوب کے معنی ہوتے
ہیں۔ اور قرآن پاک کے بہت سے مواقع میں

لَعَلَّ کی تفسیر گئی ہے کہ گئی ہے) اس کے نام
اول کو حذف کر کے عَلَّ بھی کہا جاتا ہے اور

اس پر ماکذ بھی داخل ہوتا ہے جیسے لَعَلَّمَا
أَصْنَاءُ ث لَكَ النَّارُ اور اس کے ساتھ جب

یاء متکلم متصل ہو تو اکثر نون وقایہ نہیں لاتے۔
کہا جاتا ہے ”لَعَلِّي“ اور لَعَلَّنِي بھی۔

اللغلل: ایک مشہور نہایت بیش قیمت پتھر۔
لَعَلَعُ الْعَظْمِ وَ نَحْوَهُ: ہڈی توڑنا الرَّغْدُ:

بادل کا گر جتا السَّرَابُ: سراب کا چمکانا مِنْ
السُّبْحِيِّ: تنگ دل ہونا۔ زوج ہونا مِنْ الْجُوعِ:

بھوک کی وجہ سے ٹھکنے ہونا بِالْعَاثِرِ: پھسلنے
والے سے لَعَّ يَالَعَلَّغَ يَالَعَلَّغَا:

تَلَعَلَعٌ: ٹوٹنا مِنْ الْجُوعِ: بلبلانا اور بچ و
تاب کھانا الرَّجُلُ: مسکن یا مرض کی وجہ سے
کمزور ہونا السَّرَابُ: سراب کا چمکانا الكَلْبُ:

الْأَشْجَارُ مَعْجَانٌ هُونًا۔
 لَفَتْ (س) لَفًا وَ لَفْفًا۔ پر گوشت راتوں والا ہونا۔ صفت لَفَتْ مَوْطَلَفًا لَفَتْ۔
 لَفْفٌ بِمَعْنَى تَشْدِيدِ مَبَاهِلَةِ كَيْلِهِ۔
 لَافَ الصَّقْرُ الصَّيْدَ شَكَرًا كَشَّارًا پَرِ
 ثُوْتُ يَزُتَا اَوْرِ بَجُورٍ مِثْلٍ كَرِيْمًا۔ کہا جاتا ہے
 "لَا لَفْفًا الْقَوْمُ" یعنی ہم قوم سے مل گئے۔
 أَلْفٌ الطَّائِرُ رَأْسُهُ۔ پرندہ کا پروں میں سر کو
 چھالنے والا رَأْسُهُ: جے میں سر کو چھال لینا۔
 الْتَفُّ وَ تَلَفُّ فِي تَوْبِهِ: کپڑے میں پلٹنا۔
 عَلَيْهِ الْقَوْمُ: انکا ہونا۔ التَّفُّ النَّبَاتُ:
 مَعْجَانٌ هُوَ عَلَى حَقِّهِ: غضبناک ہو کر پلٹنا
 الشَّيْءُ مَعْجَانٌ هُونًا۔
 تَلَفَّ الْقَوْمُ: ہا ہم بنا۔
 الْتَفُّ: من کہا جاتا ہے جَاءُوا بِالْقَهْمِ وَ
 بِالْقَهْمِ" یعنی جماعت کے ساتھ سب آئے۔
 الْبَفُّ: پارٹی۔ گروہ۔ اکٹھی قوم۔ جو ادھر
 ادھر سے جمع کیا جائے۔ مَعْجَانٌ بَارِعٌ الْبَفَّافُ
 وَ لَفُوفٌ: کہا جاتا ہے جَاءَ الْقَوْمُ وَمِنْ
 لَفَتْ لِقَهُمْ اَوْ لَقَهُمْ اَوْ لَقَهُمْ" قوم آئی اور
 ان کے ساتھ ان کے گئے بندھے بھی آئے۔
 "وَجَاءَ وَالْقَافُ" مختلف قسم کے لوگوں کی
 جماعت آئی وَصَّةٌ لَفَتْ وَ لَفَتْ وَ لَفَّةٌ وَ
 لِفَّةٌ وَ لَفَاءٌ مَعْجَانٌ بَارِعٌ۔
 الْبِفَافَةُ: جو چیز کسی چیز پر لپٹی جائے ول پر
 لپٹی ہوئی چربی۔ سگریٹ (مولدہ) ج
 لَفَائِفُ
 الْلَفْفُ: کام کرنے والے کے بازو کی رگ کا
 مڑ جانا جس کی وجہ سے وہ کام میں بیکار ہو جاتا
 ہے۔ کھانے میں ملانا جلانا اور زیادہ کھانا جس چیز
 کو قوم یہاں وہاں سے جمع کرے۔
 الْلَفِيْفُ: جنڈ دار اور مَعْجَانٌ درخت مختلف
 قسم کے لوگوں کی جماعت جس میں شریف
 رزیل، فرمانبردار، فرمان، قوی، کمزور سبھی قسم
 کے ہوں۔ اور کہا جاتا ہے "طَعَامٌ لَفِيْفٌ"
 مخلوط رکھنا "هُوَ لَفِيْفٌ فَلَانٌ" وہ فلاں کا
 دوست ہے "جَمْعٌ لَفِيْفٌ" ہر جگہ سے اکٹھا

کھا ہوا۔
 الْلَفِيْفَةُ: مجموعہ۔ اونٹ کی پیٹھ کا گوشت۔
 سگریٹ۔ لَفَائِفُ
 الْاَلْفُ: بازو کی ایک رگ۔ گنگو میں عاجزو
 در ماندہ۔ کاموں میں عاجز و سست۔ طے
 ہوئے ابروؤں والا۔ لوگوں سے بھری ہوئی
 جگہ۔ مَوْطَلَفًا لَفَتْ۔ فَخَذَ لَفَاءً: موٹی
 ران۔
 التَّلَافِيْفُ: مَعْجَانٌ گھاس من الْأَمْعَاءِ
 وَ الدِّمَاغِ فِي اصطلاح الطَّبِّ: ایک کے
 اوپر ایک لپا ہوا۔
 الْمَلْفُفُ وَ الْمَلْفَافُ: چادر۔ لَفَافُ۔
 وَ الْمَلْفُفُ فِي اصطلاح عِلْمَاءِ الْكَهْفِ
 بِنَائِيَّةٍ چکر جس پر تار پلٹا جائے۔
 الْمَلْفُوفُ: من ایک قسم کی نباتات۔ واحد
 مَلْفُوفَةٌ۔
 لَفَا (ف) لَفًا وَ لَفًا الْعُوْدُ: کڑی پھیلنا۔
 اللَّحْمُ عَنِ الْعِظْمِ: گوشت اتارنا لِرَفِيْحٍ
 السَّحَابِ عَنِ وَجْهِ الْأَرْضِ: بادلوں کو
 پر اگندہ کر دینا فَلَانًا عَنِ مَرَادِهِ: رو کرنا۔
 بَنَاءً: غیبت کرنا حَقَّهُ: حق سے کم دینا۔
 پورا حق دینا بِالْعَصَا: لاشی مارنا۔
 لَفِي (س) لَفًا الشَّيْءُ: باقی رہنا۔
 أَلْفًا الْفَاءُ الشَّيْءُ: باقی رکھنا۔
 الْتَفَا الْعُوْدُ: کڑی پھیلنا۔ چمکا اتارنا۔
 الْلَفَاءُ: مٹی۔ تھوڑی چیز۔ حق سے کم۔
 الْلَفِيْفَةُ: بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا۔ ج
 لَفَايَا وَ لَفِيٌّ
 لَفَتْ (ش) لَفْنَا الشَّيْءُ: دائیں یا بائیں
 موڑنا وَ دَانَهُ عَلَى عُنُقِهِ: چادر کو گردن پر
 موڑنا فَلَانًا عَنِ رَأْيِهِ: رائے سے پھیرنا
 لَرِيْشٌ عَلَى السَّهْمِ: پر کو تیر پر کھینا اتقن لگا
 دیا وَ لِعَرَايِ الْمَاشِيَةِ: مارنا اور اس کی پروانہ
 کرنا کہ کس کو گلاب لہلہا عَنِ الشَّجَرَةِ:
 درخت سے چھال اتارنا الْكَلَامُ: لاپرواہی سے
 گنگو کرنا۔ کہا جاتا ہے لَفْتَهُ بَكْدًا" یعنی اس
 نے اس کو دیا۔

لَفَتْ الشَّيْءُ: موڑنا۔

الْتَفَّتْ وَ تَلَفَّتْ إِلَيْهِ: چہرہ پھیرنا۔

الْتَفَّتْ بِوَجْهِهِ يَمَنَةً اَوْ يَسْرَةً: جھکا۔

الْلَفْتُ: شافم۔

الْلَفْتُ: چیز کی ایک جانب گائے۔ بیوقوف

عورت۔

الْلَفْتُ فِي التَّيْسِ: مینڈھے کے ایک

سینگ کا ٹیڑھا ہونے اَلْإِنْسَانِ: بائیں ہاتھ

سے کام کرنا۔

الْلَفَاتُ: بیوقوف۔ سخت خو۔

الْلَفْتَةُ: جانوروں کو ہمیشہ مارنے والا چرواہا۔

الْاَلْفُتُ: ایک بیچ دار سینگ والا ببر۔ مضبوط

ہاتھ والا۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔

بیوقوف۔ بھیرکا۔ مَوْطَلَفًا لَفَتْ

الْلَفُوتُ: سخت خو۔ چغل خور عورت۔

اونٹنی جو دوہنے کے وقت بے قرار رہے۔

عورت جس کی نگاہ ایک جگہ نہ ٹھہرے۔

الْلَفِيْفَةُ: ایک قسم کا کاڑھا حلوا۔

الْمَلْفُفَةُ: کندھے کی ہڈی کا اوپر کا کھنڈ۔

الْمَلْفُفُ: باہر نکالنا۔ چیز کی حقیقت کو پہنچانا۔

خبر کو چھپانا۔ حاجت روائی کرنا۔ تمام چارے کو

کھانا۔

الْفَحُّ: مفلس ہونا۔ بے مال دولت ہونا۔

عَمٌّ وَ غَيْرُهُ كِي وَ جِهَةٌ مِنْ عَمٍّ جَمْعٌ رَهْمًا۔

فَلَانٌ: محتاج بنانا۔ مجبور کرنا۔

الْفَلْحُ: ذلت۔

الْمَلْفُجُ وَ الْمُسْتَلْفُجُ: مفلس۔ لاغری کی

وجہ سے زمین سے چینی والا الْمُسْتَلْفُجُ:

خوف کی وجہ سے پر اگندہ دل۔

لَفْحٌ (ف) لَفْحًا فَلَانًا بِالسَّيْفِ: تلوار

مار لَفْحَتُ (ف) لَفْحًا وَ لَفْحَانًا النَّارُ

وَ السَّمُومُ بِحَرِّهَا فَلَانًا: مجلس دینا۔

نَارٌ لَفُوحٌ وَ لَفَاحٌ: جلانے والی آگ۔ ج

لَوَافِحُ: کہا جاتا ہے أَصَابَهُ مِنَ الْحَرِّ لَفْحٌ

وَ مِنَ الْبَرْدِ نَفْحٌ

الْلَفَّاحُ: ایک قسم کا پودہ۔ وَطَلْفَاحَةٌ:

لَفْحَةٌ (ف) لَفْحًا فِي اَوْ عَلَى رَأْسِهِ

مارتا۔
اللفح من سارے سر پر مارنا۔
لَفَّظَ (ض) و لَفَّظَ (س) لَفَّظًا الشَّيْءُ و
بِالشَّيْءِ مِنْ فَمِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔
صفت مفعول لَفِظْتُ و مَلْفُوظٌ الْبَحْرُ دَابَّةٌ:
دریا کا کنارے پر پھینک دینا۔ فَلَانَ نَفْسَهُ او
عَصَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو
منہ سے جھٹ کر نکل ہو جاتا ہے) اور کہا جاتا
ہے "لَفَّظْتُ لَيْنًا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی
ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفَّظَ
لِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور
تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا (وَتَلَفَّظَ)
بِالْكَلَامِ: بولنا۔
اللفظ: جس کلمات جو بولے جائیں۔
تکلام: ج لفاظا۔
اللفظة: لفظ کا اسم مرہ۔ کلمہ ج لفظات۔
اللافظه: لافظ کا مؤنث۔ سمندر اس وجہ
سے کہ جو اہر کو پھینکتا ہے (ہا مبالغہ کیلئے ہے)
چلی۔ دنیا۔
اللاظفة: سمندر۔ اور یہ علت اور تانیث کی
وجہ سے غیر منصرف ہے۔
اللفاظ: جو پھینکا جائے۔
اللفاظ: تزکاری۔
اللفاظه: جو منہ سے پھینکا جائے۔ جو دستر
خوان سے جھاڑا جائے۔ کسی چیز کا تھوڑا سا بقیہ۔
ج لفاظ و لفظات۔ کلام۔
اللفيظ: جھینکی ہوئی چیز۔
اللفظي: جس کا لفظ ہے تعلق ہو۔
لَفَّعَ (ف) لَفَّعًا الشَّيْبَ رَأْسَهُ: سارے
سر کا سفید ہونا۔ لَفَّعَتَهُ النَّارُ: بھڑک اور شعلہ
پھینچنا۔
لَفَّعَ بِحَسْبِ لَفَّعِ الْعِلَامِ: اپنی جانب کھینچ کر
بغل گیر ہونا۔ فَلَانَ: بہت کھانا اور کہا جاتا ہے
"لَفَّعَ رَأْسَهُ" جبکہ ڈھانپ لے۔
تَلَفَّعَ: پڑھنا۔ أَنَا: تَلَفَّعَتِ النَّارُ: شعلہ
پھونکنا۔ الْحَرْبُ بِالشَّرِّ: سبھی کو گھیر لینا
الْمَالِ: مال یعنی مویشیوں کو چرنے سے نفع

پھینچنا۔ الْقَوْمَ عَلَى جَيْشِ الْعَدُوِّ: دشمن کی
فوج کو گھیر لینا اور سب کو قتل کر دینا
(وَالشَّجَرُ) الرَّجُلُ بِالنَّوْبِ وَالشَّجَرُ
بِالْوَرْدِ: لپٹنا۔ ڈھک جانا
الْأَرْضُ: سبزی سے ڈھک جانا۔
التَّضَعُ لَوْنَهُ: رنگ خفیہ ہونا۔
اللفاع: چادر یا کپڑا۔ اونٹنی کا تھنوں میں
سے لگے تھن۔
الذَّفَاعَةُ وَالْفَيْعَةُ: قیس کا پوند۔
المِلفعة: چادر یا کپڑا وغیرہ۔
لَفَّقَ (ض) لَفَّقًا الثَّوْبَ: پٹڑے کو دو برابر کر
کے سینا۔ الْأَمْرُ: طلب کرنا اور نہ پانا۔ الصَّفْرُ:
شکار پر چھوڑا جانا اور شکار نہ کرنا۔
لَفَّقَ الْحَدِيثَ: باطل سے مزین کرنا۔
الرَّجُلُ: طلب کرنا اور نہ پانا الشَّقِيْنِ:
دووں پر ہرے ملا کر سینا۔ اور کہا جاتا ہے "لَفَّقَ
بَيْنَ التَّوْبِيْنِ" جبکہ دو برابر کر کے بیٹے۔
تَلَفَّقَ بِهِ: لاجن ہونا۔ مَا بَيْنَهُمْ: درست ہونا۔
تَلَفَّقَ الْقَوْمَ: معاملات درست ہونا۔
المِلفق: چادر کے دوپٹوں میں سے ایک پاٹ۔
اور دو آدمی جو حدانہ ہوں۔ ان کے متعلق کہا
جاتا ہے "هُمَا لِفْقَانٌ"
اللفاق: مطلوب کو نہ پانے والا۔
المِلفاق: دو پٹڑے جو ایک ساتھ ملا کر جوڑے
گئے ہوں اور ان میں سے ہر ایک پٹڑے کو
لفاق کہتے ہیں۔
اللفيْكَ وَالْأَلْفَيْكَ: بیوقوف۔
اللَّفِيْكَ: بائیس ہاتھ سے کام کرنے والا۔
لَقَّفَ: جھٹکنو میں عاجز و پدہا نہ ہونا۔ خوب
اچھی طرح سے کھانا فنی تو بہ پٹڑے میں
لپٹنا۔
تَلَفَّفَ بِثَوْبِهِ: پٹڑے سے لپٹنا۔
الْمَلْفَلْفُ وَالْفَلْفَلُ: کمزور (و الْمَلْفَلْفُ)
کلام میں عاجز و پدہا نہ۔
لَقَمْتُ (ض) لَقَمًا و تَلَقَمْتُ و التَّمَمْتُ
الْمَرْأَةُ: عورت کا نقاب ڈالنا۔ ناک پر نقاب
باندھنا۔ تَلَقَمَ بِعَمَامَتِهِ: ڈھاننا باندھنا۔

لَقَمْتُ الْمَرْأَةَ فَاها: منہ پر نقاب ڈالنا۔
لَقَمَةٌ: مضبوط باندھنا۔
اللقام: ناک کے اوپر کا نقاب۔
لَقًا يَلْفُو لَقْرًا فَلَانًا حَقَّةً: حق کم کرنا
اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔
أَلْفَاهُ الْفَاءُ: پانا۔
تَلَفَّى الْأَمْرَ: تدارک کرنے کا۔
اللقية: گوشت کا ٹکڑا۔ ج لَقِيَا
اللقاء: ملنے۔ خسیس۔ حقیر۔ اور کہا جاتا ہے
"رَضِيَ فَلَانٌ مِنَ الْوَفَاءِ بِاللِّقَاءِ" فلاں
شخص اپنے پورے حق میں سے تھوڑے پر
راضی ہو گیا۔
التلافي: کسی خون کا بدلہ حاصل کرنا۔
لَقَّ (ن) لَقًّا عَيْنَهُ: آنکھ پر ہاتھ سے مارنا۔
لَقَّ ج لَقْفَةً:
صفت اللق: سر زمین میں شگاف۔ بلند زمین۔ بہت
بولنے والا۔ رنگ اور لمبی زمین۔
اللقفة: لاق کی جمع۔ جسکے منہ کے گڑھے۔
کہا جاتا ہے "رَجُلٌ لَقَاقٌ بَقَاقٌ" بہت باتونی
مرد۔
لَقَّبَ فَلَانًا بِكَذَا: لقب دینا۔
لَاقِبَةٌ: بڑے القاب سے گالی دینا۔
تَلَقَّبَ بِكَذَا: لقب پانا۔
تَلَقَّبَ الْقَوْمَ: ایک دوسرے کو بڑے لقب
سے گالی دینا۔
اللقب: اصلی نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام جو
اپنے وضع اول کے اعتبار سے مدح یا ذم کی
طرف متوجہ ہو۔ ج القاب۔
لَقَّحَ (ف) لَقَّحًا النَّخْلَ: نر کھجور کا شگون
مادہ کھجور میں ڈالنا۔ لَقَّحًا و لَقَّحًا و لَقَّحًا
لَقَّحَتْ (س) النَّاقَةُ و نَحْوَهَا: حاملہ ہونا۔ صفت
لَقَّوْحٌ (لَقَّحًا) الْحَرْبُ: سکون کے بعد
بھڑک اٹھنا۔
الْمَرْأَةُ أَوْ النَّخْلَةُ: حاملہ ہونا۔
أَلَقَّحَ النَّخْلَةَ: نر کھجور کا شگون مادہ کھجور میں
ڈالنا۔

الفحل الناقفة:

حاملہ کرنا۔ کا مہن کرنا۔
ملقوحة۔ ج ملاقیح الفح
منبت مفعول
بینہم شرا۔ فاد پیدا کر دینا۔
الرویح الشجر او السحاب باردار کرنا۔
لقح النخله: زکھور کا گھونڈ مادہ کھجور میں

ڈالنا۔
تلقحت الناقفة: حاملہ نہ ہوتے ہوئے حاملہ
جیسی معلوم ہونا۔ کہا جاتا ہے "تلقح زید
علی" زید نے میری طرف ناکردہ گناہ کی
نسبت کی نڈاہ: گفتگو کرنے میں دونوں ہاتھوں

سے اشارہ کرنا۔
التقحبت الانثی: مادہ منویہ کو قبول کرنا۔
استلقحت النخله: زکھور کے گھونڈ کو
مادہ کھجور میں ڈالنے کا وقت قریب آنا۔
اللقاح: س۔ زکھور کا گھونڈ جو مادہ کھجور میں

ڈالا جائے۔
اللقاح: لقوح کی جمع۔ گھوڑے اونٹ کا مادہ
منویہ۔
اللقح: س۔ حاملہ ہونا۔

اللقحة والی بلائی۔ عقاب۔ کو۔ ج لقح و
لقاح اللقحة نفس۔ ج لقاح
اللقحة واللقحة۔ ج لقح و لقاح
واللقوح ج لقاح و لقاح: بہت روہ

دینے والی اونٹنی۔
اللقح: فار ریح لاقح: وہ ہوا جس سے
درخت باردار ہو جائیں۔ وہ اونٹنی جو مادہ منویہ
کو قبول کرے۔ ج لواقح
اللقوح: وہ اونٹنی جو مادہ منویہ کو قبول کر
ے۔ ج ملقح

الواقح والملاقح: حاملہ عورتیں۔
الواقح من الرياح: درختوں کو باردار
کرنے والی ہوائیں۔ بارش لانے والی ہوائیں۔
الواقح: کوڑے۔

الملاقح: حاملہ کرنے والے۔ واحد ملقح۔
حاملہ عورتیں واحد ملقحة۔
الملقح: س۔ آرمودہ کار۔
الملاقح: مائیں۔ واحد ملقوحة۔ جنین۔

بادہ منویہ۔

لقظه (ن) لقزا۔

کارنا۔

لقسه (ن ض) لقسا۔ عیب لگانا۔ صفت

لاقس۔

لقست (س) لقسا نفس فلان الی

الشئی ول کھینچنا۔ مائل ہونا۔ نفسہ من

الشئی: جی متلانا۔ صفت لقسه۔ و لقس

بأمر: سمجھنا۔ صفت لقس۔

لاقس لقسا و ملاقسه۔ ایک دوسرے کو

بُرقبہ بنا۔

تلقت نفسه من الشئی: تک ہونا۔

تلاقس القوم: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

الملقس والملاقس: خارش۔

الملقس: لوگوں کا مذاق اڑانے والا اور برے

القاب دینے والا۔ بدخلق۔ ہر چیز کا لالچی۔ جو

ایک طریقہ پر مستقل نہ رہے۔

الملاقس: صبر کرنے والا۔ سن لقش:

برائی تک۔

لقص (ض) لقصا الشئی جلدہ: کمال کو

جلانا۔

لقص (س) لقصا الشئی: تک ہونا۔

لقصت نفسه: جی متلانا۔

القص الشئی: لینا۔

القص: تک۔ شرارت میں جلدی کرنے

والا۔ بہت باتونی۔

لقط (ن) لقطا: الشئی زمین سے اٹھانا

العلم من الكتب: مختلف کتابوں سے

حاصل کرنا الثوب: پیوند لگانا الطائیر

الجب: پرندہ کا چوچ سے چکنا۔ صفت لاقط

و لقاط۔

لاقطه لقاط و ملاقطه: مقابل ہونا۔

لاقط الفرس: چاروں ٹانگیں پکڑ لینا۔

اللقط الشئی: بغیر قصد و طلب کے مطلع

ہو یا الشئی: زمین سے اٹھانا اللقاط: جمع کرنا

(و تلقط) الشئی: اوہ اوہر سے جمع کرنا۔

اللقط: اٹھائی ہوئی چیز۔ چھوڑے وغیرہ کا

چھاور۔ واحد لقطه لقط المعدن: سونے

وغیرہ کے کلے جو کان میں ملیں۔ کہا جاتا ہے
"فی المكان لقط لک الشی" یعنی مکان
میں جانور کے لیے تھوڑا سا چارہ ہے۔

اللقطة: ایک قسم کی اچھی بڑی جس کے
جانور حریص ہوتے ہیں۔ ج لقط

اللقطة واللقطة: وہ چیز جو تم کو راستہ میں
پڑی ہوئی ہے اور تم اٹھاؤ یا وہ شے متروک جس

کا ایک معلوم نہ ہو۔
اللقاط والمقاط: خوشہ جس کو کھیتی کاٹنے

والا خطا چھوڑ دے اور لوگ اس کو چین لیں۔
بڑی ہوئی چیز جو تمہیں ملے اور تم لے لو۔

المقاط: گرے ہوئے خوشوں کا جمع کرنا۔ اور
کہا جاتا ہے "ذآره بلقاط ذآری" اس کا

مکان میرے مکان کے مقابل ہے۔ و "لقیته
لقاطا" میں اس سے رو در ملا۔

المقاطه: گرے ہوئے خوشے۔ گری پڑی
بے قیمت چیز۔ ج المقاط

الملاقط: قا۔ کھیتی کٹنے کے بعد خوشے چننے
والا۔ آزاد کردہ غلام۔

الملاقطة لاقط کامؤنث۔ اور اسی سے مثل
ہے۔ "لکل مساقطة لاقطة" یعنی ہر کلہ

جو ضمہ سے نکلے اس کیلئے کوئی نہ کوئی سننے والا
ہے (حفاظت زبان کی فیحت کے موقع پر بولا

جاتا ہے) الملاقطة رذیل مرد یا عورت۔
لاقطة الحصى: پرندہ کا سنگدانہ۔

المقاط والمقاطه: بہت اٹھانے والا۔
المقبط: اٹھایا ہوا۔ نومولود بچہ جو پھیک دیا

جائے۔
المقبطه: لقیط کامؤنث۔ رذیل مرد یا

عورت ج لقاط: کہا جاتا ہے: رجل
لقیطی خلیطی: چٹلی کھانے کے لیے

خبروں کے کھونج میں رہنے والا مرد۔
اللاقاط: آوارہ و اہمیش لوگ۔ تھوڑے

مترقب لوگ۔
الملقط مطلب: دعات کی کان۔ کہا جاتا

ہے بالملقطان: یعنی اے بیوقوف۔ مؤنث
ملقطانہ۔

المَلْقَطُ. جس سے اٹھایا جائے جیسے دہنہ۔
 مویجان۔ ج ملاقط۔
 المَلْقَاطُ. قلم۔ نقش کرنے کا آلہ۔ مکاری۔
 ج ملاقیط۔
 المَلْقُوطُ. مینو مولود پھینکا ہوا بچہ۔ جو اٹھایا
 جائے۔ ج ملاقیط۔
 لَقَعَ (ف) لَقَعًا الشَّيْءُ: پھینکا فلاناً بعینہ:
 نظر بد لگانا۔ لَقَعْتُهُ الحَيَّةُ: سانپ کا ڈنسا۔
 لَقَعَ فلاناً: عیب لگانا لَقَعَهُ بالكلام: کلام
 میں غالب آنا۔
 لَقَعَ (ف) لَقَعَانًا: تیر گزرتا (لَقَعًا) عیب
 دار ہونا۔
 لَاقَعَ فلاناً بالكلام: کلام میں غالب آنا۔
 تَلَقَّعَ بالكلام: بکواس کرنا۔
 التَّلْعُ لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا۔
 اللِّقَاعُ واللِّقَاعُ: سبز رنگ کی کھسی جو
 لوگوں کو کاٹتی ہے۔ واحد لِقَاعَةٌ و لِقَاعَةٌ.
 اللِّقَعَةُ اللِّقَاعَةُ واللِّقَاعُ واللِّقَاعُ و
 اللِّقَاعَةُ: بیوقوف۔ لوگوں کے عیوب
 نکالنے والا۔ برے لقب رکھنے والا۔ بہت
 باتوں کا کہا جاتا ہے امْرَأَةٌ تَلْقَاعُ و
 مَلْقَعَةٌ بیودہ کو عورت۔
 لَقِفَ (س) لَقْفًا و لَقْفَانًا و التَّقْفُ
 الشَّيْءُ: جلدی سے لینا۔
 لَقِفَ (س) لَقْفًا الحَوْضُ: چمچے سے گر کر
 وسیع ہونا۔ صفت لَقِفَ الحَائِطُ: دیوار کا
 گریٹ۔
 لَقَفَهُ الشَّيْءُ: زحمت کیلئے پھینکا ہوا الطَّعَامُ:
 ٹکڑیاں۔ لَقِفَ الطَّعَامُ: کھانا لَقِرَسُ: دو اگلی
 ناگوں سے سختی سے روندنا۔
 تَلَقَّفَ الشَّيْءُ: جلدی سے لینا الطَّعَامُ: کھانا
 الحَائِطُ او الحَوْضُ: دیوار یا حوض کا منہ م
 ہونا۔ گریٹ۔ کہا جاتا ہے "تَلَقَّفَ مِنْ فِيهِ
 كَذَا" جبکہ کسی سے سن کر یاد کرے۔
 المَلْقَفُ: سر کنوئیں یا حوض کا کنارہ۔
 ج اللِّقَافُ اللِّقَفُ: بمعنی اللِّقَافُ و
 تَلَقَّفَ یعنی جلدی سے لینا۔

اللِّقَافَةُ: خدانت۔ ہوشیاری۔
 المَلْقَفُ و المَلْقَفُ و اللِّقَفُ مِنَ الرِّجَالِ
 چست و زبرک۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ تَقَفَ
 لَقْفٌ و تَقَفَ لَقْفٌ و تَقِفٌ لَقِيفٌ"
 تَلَقَّقَ: اللِّقَافُ: سارس کا آواز کرنا۔
 لَقَلَّقَتِ الحَيَّةُ: سانپ کا زبان نکالنا۔ تَلَقَّقَ
 الشَّيْءُ: حرکت دینا۔
 تَلَقَّقَ الشَّيْءُ: ہلانا۔ اللِّقَافُ ج لَقَالِقُ
 و اللِّقَافُ: سارس کی قسم کا ایک پرندہ ہے
 جس کی گردن اور ٹانگیں لابی ہوتی ہیں اور
 سانپوں کو کھاتا ہے۔ ذکات اور فطانت کے
 ساتھ متصف ہے۔ اور اس کی کنیت
 "أَبُو حُدَيْجٍ" ہے اللِّقَافُ: زبان۔
 اللِّقَافُ: آواز۔ شور۔
 اللِّقَافَةُ: سارس کی آواز۔ ہر آواز جس میں
 حرکت و اضطراب ہو۔ اور کہا جاتا ہے "فِي
 لِسَانِهِ لَلِّقَافَةُ" یعنی اس کی زبان میں رکاوٹ
 ہے۔ ج لَقَالِقُ
 حُرُوفُ اللِّقَافَةِ: ب، ج، و، ط، ق۔ طَرَفٌ
 مُلَقَّقٌ: تیز نگاہ جو ایک جگہ میں نہ ٹھہرے۔
 لَقِمَ (ن) لَقْمًا الطَّرِيقَ و غَيْرَهُ: راستہ کا
 دہاندہ بن کرنا۔
 لَقِمَ (س) لَقْمًا الطَّعَامَ: جلدی کھانا ہڑپ
 کرنا۔
 لَقِمَهُ و اللِّقْمَةُ الطَّعَامُ: لقمہ لقمہ کھلانا۔ کہا
 جاتا ہے "اللِّقْمَةُ الحَجَرُ" یعنی اس نے اسے
 خاموش کر دیا۔
 تَلَقَّمَ الشَّيْءُ: جلدی سے کھانا۔ ہڑپ کرنا۔
 المَاءُ فِي بَطْنِهِ: پانی کا زیادتی کی وجہ سے
 پیٹ میں بولنا۔
 اللِّقْمَةُ الطَّعَامُ: کھانا۔ کہا جاتا ہے "اللِّقْمَةُ
 أَذُنُهُ" یعنی چپکے چپکے کان میں بات کی۔
 اللِّقْمُ و اللِّقْمُ: راستہ کا بڑا حصہ۔ راستہ کا
 درمیان۔
 اللِّقْمَةُ: لقمہ کا اسمِ قرۃ۔
 اللِّقْمَةُ: ایک مرتبہ جتنا کھلا جائے۔ ج لَقِمَ
 اللِّقْمِ: لقمہ۔

اللِّقَامُ و التَّلْقَامَةُ و التَّلْقَامُ و التَّلْقَامَةُ
 بڑے بڑے لقمے لقمے والے۔
 رَكِيَّةٌ مُتَلَقِّمَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔
 لَقِنَ (ك) لَقَانَةً: تیز فہم و ذکی ہونا۔
 لَقِنَ (س) لَقْنَا و لَقْنَةً و لَقَانَةً و لَقَانِيَّةٌ
 و تَلَقَّرَ الكَلَامَ مِنْ فلَانٍ: بالمشافہ حاصل
 کرنا اور سمجھنا۔
 لَقْنَةُ الكَلَامِ: بالمشافہ سمجھنا۔
 اللِّقْنُ الكَلَامِ: جلدی سے یاد کرنا۔
 اللِّقْنُ ستون۔ کنارہ۔
 اللِّقَانَةُ و اللِّقَانِيَّةُ: سر زود فہمی۔
 اللِّقْنُ: زود فہم۔ تیز سمجھ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 يَلْقَفُ لَقِنًا" یعنی وہ سنی ہوئی چیز کو بہت جلدی
 سمجھنے اور یاد کرنے والا ہے۔
 اللِّقْنُ: گن (دخیل)
 أَلَلَقْنُ: تانبے کا برتن تاحمد دھونے کے لئے۔
 اللِّوَالِقُ: پیٹ کا پخلا حصہ۔
 لَقَا يَلْقَوْنَ لِقْوًا فلَانًا: جتلائے قہوہ کرنا۔
 لَقِيَ لِقْوًا: جتلائے قہوہ ہونا۔
 اللِّقْوَةُ: ایک بیماری ہے جس سے منہ ایک
 جانب کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے (و اللِّقْوَةُ) نادر
 عقاب۔ تیز عقاب۔ ج لِقَاءُ و اللِّقَاءُ۔
 المَلْقُوفُ: قہوہ زدہ۔
 لَقِيَ يَلْقَى لِقَاءً و لِقَانَةً و لِقَانِيَّةً و لِقَانَةً
 و لِقِيَانًا و لِقِيَانًا و لِقِيَانَةً و لِقِيَاءً و لِقِيَاءً و
 لِقِيَةً و لِقِيَةً و لَقِيَ فلَانًا: استقبال کرنا۔
 پانا۔ دیکھنا۔ ملاقات کرنا۔
 لَقِيَ تَلْقِيَةً فلَانًا الشَّيْءُ: پھینکانا۔
 لَاقَى لِقَاءً و مَلَاقَاةً الرِّجُلَ: پانا۔ ملاقات
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَاقَى بَيْنَ طَرَفَيْ
 القَضِيْبِ" شاخ کے دونوں کنارے موڑ کر
 ملانا اور کہا جاتا ہے "لَوَقِي بَيْنَهُمَا"
 لَقِيَ الشَّيْءَ إِلَى الأَرْضِ: ڈال دینا إِلَيْهِ
 القَوْلُ و بِالقَوْلِ: پہنچانے کا قول: المَاءُ
 کرنا۔ پہنچانے کا قول: لَقِيَ الشَّيْءُ: رکھانے کا قول:
 ڈال دینا إِلَيْهِ السَّمْعُ: کان لگانا إِلَيْهِ خَيْرًا:
 بہتر سلوک کرنا إِلَيْهِ بَالًا: پروا کرنا۔ اور لَقِيَ

جاتا ہے "الْقَيْتُ إِلَيْهِ الْمَوَدَّةُ وَبِالْمَوَدَّةِ" میں نے اس سے محبت کی۔

تَلَقَى الشَّيْءُ بِلَنَا: استقبال کرنا الشَّيْءُ مِنْهُ: سیکنا تَلَقَّتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا حاملہ ہونا۔ صفت مُتَلَقٍ۔

التَّلَقَى الشَّيْءُ بِلَنَا (و تَلَقَى) الْقَوْمُ بِأَيْم بِلَنَا: و تَلَقُوا بِأَيْم بَحْمَلًا كَرَانَا۔

اِسْتَلَقَى عَلَيَّ قَفَاهُ: چت سونا۔ اللَقَى بَحْمَلًا: ہوئی چیز۔ جِ الْآفَاءِ۔

اللَّقِيَّةُ وَاللَّقِيَّةُ: من۔ اللَّقِيَّةُ لَقِيَ كَالِمْ مَرَّةً۔ جِ لَقِيَ: کہا جاتا ہے "لَقِيْتَهُ لَقِيَ كَحَبِيْرَةٌ" میں نے اس سے بہت ملاقات کی۔

اللَّقِيُّ: پرندے۔ درد۔ تمام حیوان جو جلدی گا بھن ہو جائیں۔ اللَقِيَا: لِقَا كَالِمْ ہے۔

الْيَلْقَاءُ: لِقَاءُ كَالِمْ۔ ملاقات کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "جَلَسَ تِلْقَاءَهُ" یعنی وہ اس کے مقابل بیٹھا "و فَعَلَ الْأَمْرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ" یعنی اس نے اس کام کو خود بخود بغیر کسی کے مجبور کئے ہوئے کیا۔

اللِقَاءُ: راستہ کا درمیان۔ اللَقِيُّ: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور اکثر استعمال شری کیلئے ہوتا ہے۔ مؤنث لَقِيَّةٌ اللَقِيُّ: آنے سانے آنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُمَا لَقِيَانٌ وَ لَقِيَانٌ" وہ دونوں آنے سانے آنے والے ہیں۔ "وَهُوَ شَقِيٌّ لَقِيٌّ" کے جملہ میں لقی تابع کھل ہے۔

اللِقَاءُ: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ شر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

الْأَلْقِيَّةُ: چستان۔ بھیل۔ جِ الْآفِيُّ: الْآفِيُّ: بھتیاں۔

الْمَلْقَى وَالْمَلْقَى: ملنے کی جگہ۔ الْمَلْقَى: مَلْقَى كَالِمْ۔ جِ مَلْقَى: الْآخِفَانُ: بچوں کے ملنے کی جگہ۔

التَّلَاقِي: من۔ يَوْمُ التَّلَاقِي: قیامت کا دن۔ الْمُتَلَاقِي: فا۔ اوزان شعر میں سے ایک وزن۔

التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور

التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور

التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور

التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور

التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور

التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور التَّلَاقِي: خیر یا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور

الْمُلْقَى خَيْرٌ ذُلِّ كِي جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مُلْقَى الْكُنَاسَاتِ" یہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہے۔ و "فَنَاءُ فَلَانٌ مُلْقَى الرِّحَالِ" فلاں کا صحن دار کجاووں کے اتارنے کی جگہ ہے۔ کنایہ ہے اس سے کہ فلاں بڑا مہمان نواز ہے۔

الْمُلْقَى وَالْمُلْقَى: خیر یا شر کے لیے ملاقات کرنے والا۔ شر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مُلْقَى" فلاں مصائب سے آزما ہوا ہے۔ وَالشَّجَاعُ مُوَفِّي وَالْحَيَانُ مُلْقَى: کہا جاتا ہے "هُوَ جَارِي مُلْقَى" وہ میرا مقابل پڑوسی ہے۔

لَكَا (ل) لَكَا: گدی پر مکا مارنا۔ بھینچنا۔ لَكَّ الدَّخْمُ: گوشت کو ہڈی سے جدا کرنا الشَّيْءُ طَلَا الْجِلْدَ: تک سے کھال رگتنا۔

التَّلَكُ: لَوِزْدُ: گھٹ پر آنے والوں کا بیہر کرنا العَسْكَرُ: لشکر کا آپس میں ملنا۔ ہجوم کرنا فِی كَلَامِهِ: غلطی کرنا فِی حُجَّتِهِ: دیر لگانا۔ اللِّكَاكُ: بھینچنا۔ اژدھام۔ سخت گوشت والی اُونْتِي: جِ لِكْكَ وَ لِكَاكُ۔

اللِّكُ: من۔ گوشت۔ ایک سرخ رنگ جس سے کھال رنگتے ہیں۔ ایک نباتات جس سے گوند بناتے ہیں عِنْدَ حُسْبَابِ الْمُؤَلَّدِيْنَ: لَاهُجُ الْكَاكُ وَ لِكُوْكُ۔

اللِّكُ وَ اللُّكُ: نباتات مذکور کا عصارہ یا اس کی تھمت۔ لک سے رنگی ہوئی کھال کا چھیلن۔ سخت پر گوشت۔ اللِّكَةُ: شدت۔

اللِّكَاءُ: مِنَ الْجُلُوْدِ: لک سے رنگی ہوئی کھال۔ رَجُلٌ لِكِيٌّ: موٹا سخت گوشت والا آدمی۔

اللِّكِيْكُ: مَحْمَانُ: لشکر۔ سخت گوشت۔ سخت اور موٹے گوشت والا۔ قَطْرَانُ: ایک کمزور درخت۔ جِ لِكَاكُ۔

المُلْكُ: سخت موٹے گوشت والا۔ المُلْكُ: سخت موٹے گوشت والا۔ المُلْكُ: سخت موٹے گوشت والا۔ المُلْكُ: سخت موٹے گوشت والا۔

السُّكْرَانُ: مُلْتَكٌ: مست جو مستی کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو۔

لَكَا (ف) لَكَا: بالَسُوْطِ: کوڑے سے مارنا۔

فَلَانًا: بَحْمَلًا: بہ الارض۔ زمین پر چلک دینا الرُّجُلُ: پورا تھوڑا دینا۔ لِكِيٌّ (س) لَكَا: بِالْمَكَاَنِ: اقامت کرنا بَفْلَانٍ: لازم ہونا۔ چٹنا۔

تَلَكَا: تَلَكُوْا عَلَيْهِ: عذر کرنا۔ بہانہ کرنا عَنِ الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ توقف کرنا۔ بھینچنا۔ لِكْنَةُ (ن) لَكْنَا: بِالَسُوْطِ: کوڑے سے مارنا۔ لَكْتُ فَلَانًا: طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا۔

لِكْتُ (س) لَكْنَا: بِالْبَعِيْرُ: منہ میں پھنسیوں والا ہونا الوَسْخُ عَلَيْهِ: بہ: میل جتنا۔ اللِّكْتُ: من۔ دودھ کا میل جو دودھ کے برتن کے کناروں پر جم جائے۔ اُونْتِ: کے منہ کی پھنسیاں۔ نَاقَةُ لِكْنَةٍ: موٹی اونٹنی۔

اللِّكَاثُ: اُونْتِ: کے منہ کی پھنسیاں۔ چونے کے چپکنے والے پتھر۔ اللِّكَاثِيُّ: بہت سفید۔ اللِّكَاثُ: چونہ بنانے والا۔

لِكْحَةُ (ف) لَكْحًا: مکا مارنا۔ لِكْذُهُ (ن) لَكْذًا: ہاتھ سے مارنا۔ ہٹانا۔ لِكْذُ (س) لَكْذًا: الوَسْخُ: علی فَلَانٍ: وہ: میں جتنا۔ چٹنا۔ لَكْذُ الشَّعْوُ: بالوں کا گتھا ہوا ہونا۔

لَا كَذُ: الغُلُّ: طوق سے لگے رہنا قِيْدُهُ: بیڑی کی وجہ سے اچھی طرح سے نہ چل سکتا فَلَانًا: لازم ہونا۔ چٹنا۔

تَلَكْذُ فَلَانٍ: موٹے گوشت والا ہونا۔ الشَّيْءُ: جتنا بہ او عَلَيْهِ الوَسْخُ: میل کا جم جانا فَلَانًا: گردن میں ہاتھ ڈالنا۔ التَّلَكْذُ فَلَانًا وَ بَفْلَانٍ: چٹنا اور چدانہ ہونا۔ اللِّكْدُ: بد خلق۔ ٹھیل۔

الْأَلَكْدُ: کمینہ قوم سے ملا ہوا۔ المِلْكُدُ: کوٹنے کا دستہ۔ لِكْزُهُ (ن) لَكْزًا: مکا مارنا۔ لَا كِزَّةُ: مکا بازی کرنا۔ ایک دوسرے کو مکا

مارنا۔ تَلَكَرًا۔ ایک دوسرے کو مکارنا۔
 اللکاز۔ چیترا جس سے چرنی کے دھرے کو
 تک کرتے ہیں۔
 اللکج۔ بخیل۔
 المُلکُز۔ ذیل۔ دروازاں سے ہٹایا ہوا۔
 لکس۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ شَكِسٌ
 لکس" یعنی مرد شوارخ۔ سرکش نافرمان۔
 لکسۃ (ض) لکسۃ۔ مکارنا۔
 لکصۃ (ن) لکصا۔ مکارنا۔
 لکغۃ (ف) لکغا العقرُب: بچھو کا ڈنٹا
 لکع الرُّجُل: سخت سستا الولد: بچے کا
 دودھ چھوٹے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "تَرَسْتَهُ يَلْجَع" میں نے اس کو کھاتا پیتا
 چھوڑا۔
 لکع (س) لکعا و لکاعا۔ لیسیم ہونا۔
 بیوقوف ہونا (لکعا) عَلَيْهِ الْوَسْخُ: میل
 جانا۔ کہا جاتا ہے امْرَأَةٌ لَكَاعٍ۔ مبنی علی
 الکسر: یعنی اے لیسیم اور نداہی میں استعمال
 ہوتا ہے۔
 رَجُلٌ لَكَاعٌ۔ لیسیم و کینہ مرد۔
 اللکاعۃ۔ ایک قسم کا کانٹے دار پودہ۔ ج
 لکاع۔
 اللکع۔ پستہ قد۔
 اللکع۔ کینہ۔ اور کہا جاتا ہے نداہ کی صورت
 میں یا لکع اور نداہ شنیہ کی صورت میں یا
 ذوی لکع۔ اور معرفہ کی صورت میں غیر
 منصرف ہوگا۔ اس لیے کلمہ اَلْکَع سے
 معدول ہے۔ اللکع: غلام۔ بیوقوف۔
 گھوڑے کا بچہ۔ گدھے کا بچہ۔ چھوٹا بچہ۔ میلا
 پھیلا۔ گھوڑا۔ یا وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے
 ہوں۔
 اللکعۃ۔ کینہ۔ گھوڑی۔
 الالکع۔ مؤنث لکعۃ ج لکع واللکوع
 واللیکع: کینہ۔ الالکع: وہ گھوڑا جس کے
 دانت گر گئے ہوں۔
 الملکعان۔ کینہ۔ مؤنث ملکعانۃ۔

اللککک۔ پستہ قد (واللککک) موٹا
 اُونت۔
 لکمۃ (ن) لکما۔ مکارنا۔ ہٹانا۔ کہا جاتا
 ہے "لکم السیل عَرَضَ الْجَبَل" سیلاب
 نے دامن کوہ میں نشان چھوڑا۔
 لاکمۃ مَلَکَمۃ۔ ایک دوسرے کو مکارنا۔
 بالکم۔ بعض کا بعض کو طمانچہ مارنا۔
 تَلَکَمَا۔ ایک دوسرے کو طمانچہ مارنا۔
 اللکمۃ۔ گھونسا۔ مکا۔
 رَجُلٌ مَلَکَمٌ۔ بہت گھونے مارنے والا۔
 المملکوم۔ مظلوم۔
 حُفٌّ لکَامٌ و مَلَکَمٌ و مَلَکَمٌ۔ سخت کھر
 جو پتھر کو توڑ دے۔
 المملکم۔ بیوند لگایا ہوا۔ چری موزہ۔
 لکِن (س) لکنا و لکنة و لکونة و
 لکونة الرُّجُل: گفتگو میں اکتنا۔ ہکنا۔
 صفت الکن مؤنث لکنا ج لکن۔
 تَلَکَنَ فِی کَلَامِهِ: ہسانے کیلئے ہکلا کے
 بولنا۔
 اللکنة۔ س۔ ہکلا پن۔ تھلاہٹ۔
 لکِن۔ اس کی اصل لاکن ہے۔ الف کتابت
 میں محذوف ہے پڑھنے میں نہیں۔ اس کی دو
 قسمیں ہیں۔
 (۱) یہ کہ ثقیلہ سے مخفف ہو اس صورت میں
 عمل باطل ہوتا ہے اور حرف ابتداء ہے دو
 جملوں پر داخل ہوتا ہے اور کبھی واو کے ساتھ
 بھی ہوتا ہے جیسے قَامَ زَيْدٌ وَلَکِن عَمْرُو
 جَالِسٌ۔
 (۲) یہ کہ اصل وضع سے خفیف ہو اور اس
 وقت یہ حرف عطف ہے اگر عطف جملہ علی
 الجملہ ہو تو واؤ لانا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے
 بعد مفرد ہو تو واجب ہے کہ واؤ نہ آئے اور اس
 سے پہلے نفی یا نہی کا ہونا ضروری ہے جیسے "مَا
 قَامَ زَيْدٌ لَکِن عَمْرُو" و "لَا تَحْضُرُ
 زَيْدًا لَکِن عَمْرُو"
 اللکن۔ لکن۔ ج الکان (دخیل)
 لکن۔ اس کی اصل لکن ہے۔ الف کتابت

میں محذوف ہے پڑھنے میں نہیں۔ اور یہ
 حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصب
 اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اور استدرک یعنی دفع
 تو ہم کیلئے آتا ہے۔ جیسے "قَامَ الْقَوْمُ لَکِن
 زَيْدًا جَالِسًا" اور بھی تاکید کیلئے جیسے
 لَوْ زَارَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُهُ لَکِن لَمْ يَجِيءْ لَآ
 سے جو نفی سمجھ میں آتی تھی اس کی لکن سے
 تاکید ہو گئی۔

لکي یلکي لکي یہ: مشتاق ہونا۔ چٹنا۔
 صفت لکي۔ لکي بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 اللاکي۔ عیب جو (لَا مَلَکَ کَا مَقْلُوبَ هِ)۔
 لم۔ حرف بزم ہے۔ فعل مضارع کو ماضی
 متغی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لَمْ يَأْخُذْ
 اس نے نہیں لکھایا۔ اور لم پر ہمزہ استفہام داخل
 ہوتا ہے۔ لم کا عمل باقی رہتا ہے اور تقریر و توجیح
 کا فائدہ دیتا ہے جیسے "أَلَمْ أَقُلْ لَکَ" کیا میں
 نے تم سے نہیں کہا۔ اور بھی ہمزہ اور لم کے
 درمیان واؤ اور فا بھی لاتے ہیں۔ جیسے أَقَلَمْ
 أَقُلْ لَکَ اَوْ لَمْ اَوْ ذَبْکَ۔

لما۔ تین صورتوں سے مستعمل ہے۔
 (۱) لم کی طرح فعل مضارع کو ماضی متغی کے
 معنی میں کر دیتا ہے مگر مندرجہ ذیل پانچ باتوں
 میں فرق ہے۔

(الف) حرف شرط کے ساتھ نہیں آتا مثل ان
 لَمَّا تَقَمُّ نَمِیْسٌ نَمِیْسٌ نَمِیْسٌ نَمِیْسٌ نَمِیْسٌ
 کہا جاتا ہے۔

(ب) لَمَّا کے متغی میں استغراق ہے اور لم
 کے متغی میں انقطاع جیسے لَمْ یُکِن شَیْئًا
 مَذْکُورًا۔ اور اسی وجہ سے "لَمْ یُکِن نَمِیْسٌ
 نَمِیْسٌ" کہا جاتا ہے اور "لَمَّا یُکِن نَمِیْسٌ نَمِیْسٌ"
 نہیں کہہ سکتے۔

(ج) لَمَّا کا متغی اکثر حال کے قریب ہوتا ہے
 بخلاف متغی لم کے۔

(د) لَمَّا کا متغی متوقع ہوتا ہے بخلاف متغی لم
 کے۔

(ه) لَمَّا کے متغی کو قرینہ کی بنا پر حذف کیا جاتا
 ہے جیسے "فَعَبْتُ فَبُورَهُمْ بَدَعًا و لَمَّا"

بِحَنِ لَمَّا أَكُنْ بَدَيْءًا أَقْبَلَ ذَلِكَ اور
”وَصَلْتُ إِلَى بَغْدَادَ وَلَمْ“ یعنی لم
اَدْخُلَهَا کہا جائز نہیں۔

(۲) لَمَّا ضی کے ساتھ مختص ہے۔ دو جملوں
پر داخل ہوتا ہے جس میں سے فعل ثانی کا وجود
فعل اول پر موقوف ہے جیسے لَمَّا جَاءَ نَبِيٌّ
اَكْرَمْتُهُ اور اس صورت میں اس کو حرف وجود
لو جود کہا جاتا ہے (اور بعض حرف وجوب
لو جوب کہتے ہیں) اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ
فعل کیلئے ظرف ہے جو غیر کے واقع ہونے
سے واقع ہو۔ اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ
حین کے معنی میں ظرف ہے۔

(۳) لَمَّا حرف استثناء ہے الّا کے معنی میں۔
جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ”اَنْ كُلُّ
نَفْسٍ لَمَّا عَلَيَهَا خَافِطٌ“ ان لوگوں کی
قربانیت میں جو میم کو مشدد پڑتے ہیں۔ اور
ماضی لفظ پر داخل ہوتا ہے جیسے اَنْشُدَكَ اللّٰهَ
لَمَّا فَعَلْتَ یعنی مَا اَسْأَلُكَ اِلَّا فَعَلْتُكَ
لَمْ (ن) لَمَّا الشّیءُ: جمع کرنا۔ اٹھا کرنا۔
کہا جاتا ہے ”لَمْ اللّٰهَ شَعْتُ فُلَانًا“ یعنی اللہ
تعالیٰ فلاں کے مختلف و پر آگندہ امور کو درست
کر دیں۔ لَمْ بِفُلَانٍ کِسَى کے پاس آکر نازل
ہونا۔

لَمْ فُلَانٌ: کچھ جنون لاحق ہونا۔ صفت
مَلْمُومٌ۔

الْمُ: چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہونا۔
الْعَلَامُ: بلوغ کے قریب پہنچنا۔ صفت مُلِمٌ۔
الْمَمْتِ النَّخْلَةُ: پختگی کے قریب ہونا یہ
مرضٌ: مرض لاحق ہونا بِالْقَرْمِ وَعَلَى
الْقَرْمِ: آکر اتر پڑنا بِالْمَعْنَى: سمجھ لینا
بِالذُّبِ: گناہ کرنا الشّیءُ: قریب ہونا
بِالْأَمْرِ: غور نہ کرنا بِالطَّعَامِ: کھانے میں
اسراف نہ کرنا اور کبھی سَکَادَ کے معنی میں
استعمال کیا جاتا ہے جیسے ”الْمُ يَفْعَلُ كَذَا“
بمعنی سَکَادَ يَفْعَلُ كَذَا۔

الْعَمُّ فُلَانًا: زیارت کرنا بِالْقَرْمِ: آکر اترنا۔
الْلَامَةُ: نظر بد۔ ہر گنہگار بہت اور خوف کی

چیز۔ کہا جاتا ہے ”أَعِيذُهُ مِنْ كُلِّ هَامِيَةٍ
وَلَامِيَةٍ“ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَزُورُنَا لَمَامًا“ وہ
ہم سے ناغہ سے ملاقات کرتا ہے۔

اللَّمُّ: سب سے شارب جماعت۔
الْمَمُّ: تھوڑی سی دیوانگی۔ گناہ کے قریب
ہونا۔ چھوٹے گناہ۔
الْمَمَّا: ایک قسم کی مچھلی۔

اللَّمَّةُ: لم کا اسم مرہ۔ سختی۔ جمع شدہ چیز۔ کہا
جاتا ہے ”أَصَابَتْهُ لَمَّةٌ مِنَ الْجِنِّ“ یعنی اس
پر جنات کا کچھ اثر پہنچا۔ اللَّمَّةُ زمانہ۔ اور کہا
جاتا ہے ”لِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ“ یعنی شیطان کے
لیے قربت ہے۔

اللَّمَّةُ: ساتھی۔ ہم سفر۔ کہا جاتا ہے ”لَا
تُسَافِرُوا حَتَّى تُصَيِّبُوا لَمَّةً“ مت سفر کرو
یہاں تک کہ ہم سفر یاؤ۔ مونس۔ (واحد و جمع)
اللَّمَّةُ: بالوں کی زلف جو کانوں کی لو سے
تجاوز ہو۔ پر آگندہ بال۔ ج لَمَمٌ و لِمَامٌ۔

الجَلْمُ: ہر چیز میں سے سخت۔ کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ مَلَمٌ“ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو جمع
کرنے والا۔ ”و رَجُلٌ مَلَمٌ مَعَهُ“ لوگوں
کے امور کی اصلاح اور عموماً ان کے ساتھ
بھلائی کرنے والا مرد۔

المَلِئمةُ: دنیاوی مصیبتوں میں سے سخت
مصیبت۔ درخت خرم جو پکنے کے قریب ہو۔
المَلْمُومُ: جس کو تھوڑی سی دیوانگی ہو۔ گول
جمع کیا ہوا۔

كَلْبِيَّةٌ مَلْمُومَةٌ: گنجان فوج۔ صَخْرَةٌ
مَلْمُومَةٌ: سخت گول چٹان۔

لَمَاءٌ وَلَمَاءٌ عَلَيْهِ (ف) لَمَاءٌ: ہاتھ ڈالنا
الشّیءُ: سب لے لینا۔ دیکھنا یہ: مشتمل
ہونا۔ اور کہا جاتا ہے ”مَا لَمَاءُ فَمَهُ بِكَلِمَةٍ“
یعنی کسی فصیح بات کے بولنے کو وہ کوئی بڑی بات
نہیں سمجھتا۔

الْمَاءُ: اللصُّ عَلَى الشّیءِ وَبِالشّیءِ: چور
کا کسی چیز کو چوری سے لے جانا عَلَى حَقِّهِ:
حق کا انکار کرنا۔ الْمَاءُ الدَّوَابُّ الْمَكَانُ:
جانوروں کا جگہ کو خالی چھوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے

”كَانَ بِالْأَرْضِ مَرَعَى فَهَاجَتِ الدَّوَابُّ
فَالْمَاءُ“ زمین میں چراگاہ تھی چوپائے پل
پڑے عَلَى الشّیءِ: مشتمل ہونا بِمَا فِي
الْحَفْنَةِ: اپنے لیے خاص کر لینا۔ کہا جاتا ہے
”مَا أَذْرَى أَيْنَ الْمَاءِ مِنْ بِلَادِ اللّٰهِ“ مجھے
نہیں معلوم کہ کہاں گیا۔

تَلَمَّاتٌ تَلَمَّوا الْأَرْضَ بِهِ وَعَلَيْهِ: گھیر
لینا۔ تَلَمَّأَ وَتَلَمَّأَ بِمَا فِي الْحَفْنَةِ وَ
إِلْتَمَّأَ: اپنے لئے خاص کر لینا اور غالب ہونا۔
الْتَمَّي لَوْنَ الرَّجُلِ: رنگ متغیر ہونا۔
الْمَلْمُومَةُ: جگہ جو لی جائے یا جہاں کوئی چیز
پائی جائے۔ جال۔

لَمَحَ (ن) لَمَجًا الشّیءُ: منہ کے اطراف
سے کھانا المَرَاةُ: جمع کرنا کہا جاتا ہے ”مَا
لَمَجُوا ضَيْفَهُمْ بِشَيْءٍ“ انہوں نے اپنے
مہمان کو ناشتہ نہیں دیا۔

تَلَمَّحَ الرَّجُلُ: غذا سے پہلے کچھ کھانا۔ کہا
جاتا ہے ”رَأَيْتَهُ يَتَلَمَّحُ بِالطَّعَامِ“ میں نے
اس کو دیکھا کہ وہ کھانے کو کچھ رہا تھا۔

الْمَلْمَاجُ وَالمَلْمُوجُ: تھوڑی خوراک۔ کہا جاتا
ہے ”مَا تَلَمَّخْتَ عِنْدَهُ بِالْمَاجِ“ یعنی میں
نے اس کے پاس کچھ نہیں چکھا۔

المَلِجُ وَالمَلِيجُ: بہت کھانے والا۔
کہا جاتا ہے ”سَمِجَ لَمِجٌ وَ سَمِجَ لَمِجٌ وَ
سَمِجِجَ لَمِيجٌ“ یعنی بہت برا۔

الْمَلْمِجَةُ: غذا سے پہلے کا ناشتہ۔ ج لَمِجٌ۔
المَلْمِيجُ: منہ کے ارد گرد۔
رَمَحَ مَلْمِجٌ: زرم چوکنا تیز۔

لَمِجَ (ف) لَمَحًا البَصْرَ: نگاہ اٹھنا
الرَّجُلُ الشّیءُ وَالِی الشّیءُ: دزدیدہ نظر
سے دیکھنا۔ اور اسم اللَمْحَةُ ہے الشّیءُ
بِالبَصْرِ: نگاہ ڈالنا۔

لَمِجَ (ف) لَمَحًا وَ لَمَحَانًا وَ تَلَمَّحًا
النَّجْمُ: ہو البَرْقُ سِتَارَهُ يَابِجًا كَالْجَلْمَاةِ۔ صفت
لَامِجٌ وَ لَمُوحٌ وَ لَمَّاحٌ۔
لَامِحُهُ: دزدیدہ نگاہی کرنا۔

لَمِجَ تَلْمِيحًا إِلَى الشّیءِ: اشارہ کرنا الْمَحِ

إِلَى فُلَانٍ : اچھی ہوئی نظر ڈالنا الشئ :
چکدار بنانا۔ دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا الرَّجُلُ :
دکھانا۔

الْمَمَازِ وَالْمَمَزَّةُ : لوگوں کے عیوب نکالنے
والا۔ سامنے عیب بیان کرنے والا۔ الْمَمَازِ :
چغل خور۔

الْمَمَحَّةُ : نظر خفیف سے دیکھنا۔
الْمَمَحُّ بِبَصْرَةٍ : نگاہ جاتا رہنا۔
الْمَمَحُّ : س۔ کہا جاتا ہے ”لَا رَيْبَ لَكَ لَمَحًا
بِأَبْصَارِهَا“ میں تم کو صاف و روشن معاملہ
دکھاؤں گا۔ اکثر اس کا استعمال وعید کے موقع
پر ہوتا ہے۔

الْمَمَازِ : سامنے غیبت کرنے والے۔
لَمَسَهُ (ن ض) لَمَسًا جھونا۔ لَمَسَ
الشئُ : طلب کرنا الشئُ : چھونے کے قابل
ہونا الْمَمَزَّةُ : جماع کرنا زَيْدًا امْرَأَةً : نکاح کرا
دینا۔ کہا جاتا ہے ”لَهُ شُعَاعٌ يَكَاذُ يَلْمُسُ
الْبَصْرَ“ اس کیلئے شعاع ہے جو نگاہ کو چکا
چوند کر دے۔

الْمَمَحَّةُ : جلدی کی نگاہ۔ اسم ہے لُحْ كَا۔
مَلَامِحٌ : کا واحد۔ کہا جاتا ہے ”زَايِنَةٌ لَمَحَةٌ
الْبَرْقِ“ میں نے اس کو دیکھا اتنی دیر جتنی دیر
میں ایک مرتبہ بجلی چمکتی ہے۔

لَامَسَهُ : ایک دوسرے کو چھونا۔ جماع کرنا۔
الْمَمَسُ فُلَانًا : ڈھونڈنے میں مدد کرنا۔
زَيْدًا امْرَأَةً : نکاح کرا دینا۔
تَلَمَّسَ الشئُ : بار بار طلب کرنا۔
الْتَمَسَ الشئُ مِنْ فُلَانٍ : مانگنا۔ طلب
کرنا۔

الْمَلَامِحُ : فَا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ لَامِعٌ
عَظِيمٌ“ یعنی وہ خود پسند ہے۔ اَبْيَضُ
لَمَاحٌ : بہت زیادہ سفید۔

الْمَلَمَاسَةُ وَالْمَلَمَاسَةُ : قریبی حاجت۔
الْمَلَمَسُ : س۔ حواسِ خمسہ ظاہرہ میں ایک
حاسہ جس سے حرارت و برودت رطوبت
بیوست معلوم ہوتی ہے۔

الْمَلَامِحُ : مشابہ۔ چہرے کے خط و خال۔
لَمَحَ كِي جَمْعٍ : کہا جاتا ہے ”فِي فُلَانٍ لَمَحَةٌ مِنْ
أَبِيهِ أَوْ مَلَامِحٌ مِنْ أَبِيهِ“ فلاں میں اس کے
باپ کی مشابہت ہے۔

الْمَلَمَسُ : نازک بدن عورت۔
الْمَلَمُوسُ : مُنْذِرٌ يُولَا بَيْنَا جَسَدِ كَيْسٍ
عَيْبٌ هُوَ : کہا جاتا ہے كُذِّبَ لَمَاسٌ أَوْ كُذِّبَ
الْمُتَلَمَّسَةُ یعنی مرض کی جگہ میں داغ لگا۔
الْمَلَمَاسَةُ : س۔ فِي الْبَيْعِ : کپڑے چھو کر
بیع کو واجب سمجھنا۔

لَمَحَهُ (ف) لَمَحًا : طمانچہ مارنا۔
لَامَحَهُ مَلَامِحَةً وَ لَمَاحًا : ایک دوسرے
کو طمانچہ مارنا۔
تَلَمَّحَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ : بری گفتگو کرنا۔
لَمَدَهُ (ن) لَمَدًا : فرد تنی کرنا۔ اَعْرَاسِي
کرنا۔

الْمَلَمَسُ : چھونے کی جگہ۔
الْمَلَمُوسُ : س۔ کہا جاتا ہے ”اِكْتَاثُ
مَلَمُوسٍ الْاِحْتِاٰءِ“ پالان جس کی کچی وغیرہ
ہموار کر دی گئی ہو۔
الْمَلَمُوسَاتُ : قُوَّةُ لَامِسَةٍ كَيْسٍ كَرَامَتِ
اَو اَكْلُ مَحْسُوسَاتِ۔

اَلْاَلْمَدُ وَالْمَلْمَدَانُ : عاجز۔ ذلیل۔
لَمَدَهُ (ن) لَمَدًا : مُنْذِرٌ كَيْسٍ كَرَامَتِ
(ج میں ایک لغت ہے)
لَمَادًا : کلمہ نرکب ہے لام تعلیل اور ما
استفہامیہ اور ڈالسم اشارہ ہے۔

لَمَزَهُ (ن ض) لَمَزًا : عیب لگانا۔ آنکھ سے
اشارہ کرنا۔ ہٹانا۔ مارنا۔ لَمَزَهُ الشَّيْبُ :
پوچھا ظاہر ہونا۔
لَا مَزَّةَ : اشارہ کنایہ سے گفتگو کرنا۔
تَلَمَّزَهُ : ڈھونڈنا۔ تَلَمَّزَ فِي السَّبْرِ :
دوڑنا۔

اَلْاَلْمَدُ وَالْمَلْمَدَانُ : عاجز۔ ذلیل۔
لَمَدَهُ (ن) لَمَدًا : مُنْذِرٌ كَيْسٍ كَرَامَتِ
(ج میں ایک لغت ہے)
لَمَادًا : کلمہ نرکب ہے لام تعلیل اور ما
استفہامیہ اور ڈالسم اشارہ ہے۔

کوالنگی کے کنارے سے لینا اور چائنا فُلَانًا چکی
لینا : نقل اتارنا۔ عیب لگانا۔ مُنْذِرٌ چرانا۔
الصَّبِيُّ : پیشاب کر دینا۔
الْمَمَصُ الشَّجَرُ : انگلی سے پکڑنے کے قابل
ہونا۔ الْمَمَصُ الْكُرْمُ : انگور کی تیل میں نرم
انگور ہونا۔

الْمَلْمَصُ : س۔ لوگوں کی غیبت کرنا۔
الْمَلْمِصُ : انگور کی تیل کا محافظ۔
الْمَلْمُوسُ : جھوٹا۔ فریبی۔ غیبت کرنے والا
چغل خور۔

لَمَطَهُ (ن) لَمَطًا بِالرُّمُوحِ : نیزہ مارنا۔
لَمَطَ فُلَانًا : گھبرانا۔ مضطرب ہونا۔
الْتَمَطَ : حَقَّقِي : حق مار لینا۔
لَمَطَ (ن) لَمَطًا : کھانے پینے کے بعد زُبان
سے ہونٹ چائنا۔ کھانے کے بعد زُبان سے
دانتوں کے درمیان کا نکالنا فُلَانًا مِنْ حَقِّهِ :
حق میں سے کچھ دینا الْمَاءُ : زُبان کے کنارے
سے چھٹنا۔

لَمَطَهُ مِنْ حَقِّهِ : حق میں سے کچھ دینا۔ کہا
جاتا ہے ”لَمَطَ فُلَانًا لَمَاطَةً“ تھوڑا سا
چکھانا۔

الْمَطَطُ : ہونٹوں پر پانی ڈالنا۔ الْمَطَطُ عَلَيَّ
فُلَانٍ : غَصَّةٌ دَلَانَا۔ الْمَطَطُ فُلَانًا : آہستہ نیزہ
مارنا الْبَعِيْرُ بِذَنَبِهِ : اُونٹ کا ناگوں کے
درمیان دم کو دبانا الرَّجُلُ الْقَوَسُ : کمان پر
تانت باندھنا۔

تَلَمَّطَ الرَّجُلُ : کھانے کے بعد زُبان نکال کر
ہونٹوں کو چائنا۔ کھانے کو مُنْذِرٌ میں پھرانا۔ اور کہا
جاتا ہے ”تَلَمَّطَ بِذِكْرِهِ“ یعنی عیب لگایا۔
تَلَمَّطَتِ الْحَيَّةُ : سانپ کا زُبان نکالنا۔
الْتَمَطَ الشئُ : جلدی سے مُنْذِرٌ میں ڈالنا
الطعامُ : کھانا بِحَقِّهِ : حق مار لینا بِالشئِ : لپٹنا
بِشَقِيَّتِيهِ : ہونٹوں کو اس طرح ملانا کہ آواز
نکلے۔

الْمَطُ الْفَرَسُ : نیچے کے ہونٹ پر سفیدی
والا ہونا۔
الْمَطَا : تھوڑی سی چیز جو چکھی جائے۔ کہا

جاتا ہے "مالئہ۔ اس کے پاس ایسی چیز بھی نہیں جس کو چکھے۔ "وَمَا ذُقْتُ لَمَاطًا" میں نے کچھ نہیں چکھا "وَشَرِبَهُ لَمَاطًا" یعنی اس نے زبان کے کنارے سے چکھا۔

اللَّمَاظَةُ: فصاحت۔ زبان کی روانی۔

اللَّمَاظَةُ: منہ میں بقیہ کھانا۔ تھوڑی سی چیز کا بقیہ۔ کہا جاتا ہے "مَا الذُّبَابُ إِلَّا لَمَاطَةٌ أَيَّامٌ" دیا صرف دنوں کا بقیہ ہے۔

اللمظ: گھوڑے کے پیچھے کے ہونٹ کی سفیدی۔

اللمظة: گھوڑے کے پیچھے کے ہونٹ کی سفیدی یا ہونٹوں کی سفیدی۔ دل کا سیاہ نقطہ تھوڑا سا بھی وغیرہ جس کو انگلی میں لے سکیں۔

الآلَمَظُ مِنَ الخَيْلِ: نیچے کے ہونٹ میں سفیدی والا گھوڑا۔

اللبمَاط: جو کسی کی دوستی پر قائم نہ رہے۔ مؤنث تلبمَاطة: التلبمَاطة: بیپورہ بکواس کرنے والی عورت۔

مَلَامِظُ: الإنسان: منہ اور ہونٹ کا گردا گرد۔

المُتَلَمِّظُ: تبسم کرنے کی جگہ۔

لَمَعَ (ف) لَمَعًا و لَمَعَانًا و لَمُوعًا و لَمِيعًا و تَلَمَعًا البَرَقُ و غَيْرُهُ: بجلی وغیرہ کا چمکانا۔ روشن ہونا۔

صَرَخَ النَّاقَةُ: تھن کا دودھ اترنے کے وقت رگٹیں ہوتا فلاں بالشئی لے جا بیٹیدہ او بٹو بہ او بسنیفہ: ہاتھ یا کپڑا یا تلوار سے اشارہ کرنا الطائرُ بجناحیه: پرندہ کا بازو پھڑ پھڑانا فَلَانٌ البَابُ: دروازے سے لگانا۔

الْمَعْبُ الشَّاةُ بَدْنِهَا: بکری کا ذم اٹھانا جس سے معلوم ہو کہ گا بھن ہوگی۔ صفت ملبعة و ملمع الأنثی: پیت میں بچہ کا حرکت کرنا فَلَانٌ بالشئی و غلبیه: ایک لیٹا۔ چرانا۔ لے جانا۔ الْمَعْبُ البِلَادُ: خشک گھاس والا ہونا یا بہت گھاس والا ہونا۔ اَلْمَعُ الی فَلَانٍ بٹو بہ: کپڑے سے اشارہ کرنا

الْفَرْمُ و نَحْوُهَا: حمل کی وجہ سے تھنوں کا چمک اٹھنا اور تھنوں کے سرے کا کالا ہونا الطائرُ بجناحیه: پرندہ کا بازو پھڑ پھڑانا۔

لَمَعَ النَسَجُ: مختلف رنگوں کا بننا۔ تَلَمَعَ الشئی و التلمعة: ایک لیٹا البَرَقُ و غَيْرُهُ: بجلی وغیرہ کا روشن ہونا۔ اَلتَمَعَ القَوْمُ: لے جانا۔

الْتَمَعَ و اَلتَمَعَ لَوْنُهُ: رنگ جاتا رہتا اور متغیر ہونا۔

اللمامع: فـا۔ ج لَمَعَ: کہا جاتا ہے "مَا بِالذَّارِ لَامِعٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

اللامامعة: لامع کا مؤنث۔ بچہ کی چندیا جب تک نرم رہے۔ ج لَوَامِعُ:

اللمعة: گھاس کا خشک شدہ حصہ۔ لوگوں کی جماعت۔ تھوڑا سا گزارہ زندگی۔ کہا جاتا ہے "مَعَهُ لَمْعَةٌ مِنَ العَيشِ" اس کے ساتھ

تھوڑا سا گزارہ زندگی ہے جو اس کے لیے کفایت کرے مِنَ الجَسَدِ: جسم کے رنگ کی چمک۔ اور بقول بعض لَمْعَةٌ خاص کر بدن کا سیاہ حصہ۔ اور بقول بعض ہر رنگ جو اصلی رنگ کے مخالف ہو۔ جسم کا وہ حصہ جو نہانے یا وضو کرنے میں خشک رہ جائے ج لَمَعَ و لَمَاعُ:

اللماع: لامع کا اسم مبالغہ۔ اللماعة: عقاب۔ میدان جس میں سراب

چمکے۔ بچہ کی چندیا جب تک نرم رہے۔ اللموع: چمکنے والا۔ تیز چمکنے والا عقاب۔

الالَمَعُ و الالَمَعِيُّ: تیز ذہن۔ تیز فہم۔ الالَمَعِيَّةُ: ذکاوت۔

کہا جاتا ہے ذَهَبَتْ نَفْسُهُ لِمَاعًا اس کی جان آہستہ آہستہ نکلے۔ التلميع في الخيل و غيرها: جسم کے رنگ کے مخالف داغ۔ ج تَلَامِيعُ: کہا جاتا ہے "فِيهِ تَلْمِيعٌ و تَلَامِيعٌ" جب کہ جسم میں مختلف رنگ ہوں۔

وَلَمَعًا الطَّائِرُ: پرندہ کے دونوں بازو۔ الملمع من الخيل و غيره: جسم کے رنگ کے مخالف داغ والا۔

أَرْضٌ مُلْمَعَةٌ و مُلْمَعَةٌ و مُلْمَعَةٌ: زمین جس میں سراب چمکے۔

خَذَّ مُلْمَعٌ: چمک دار رخسارہ۔ اَلْيَلْمَعُ: بے بارش کی بجلی۔ سراب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ اِخْتَذَبَ مِنْ يَلْمَعٍ" فلاں سراب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اور اس سے جھوٹے کو

تشبیہ دی جاتی ہے کہا جاتا ہے "اِنَّمَا هُوَ يَلْمَعٌ" یعنی وہ جھوٹا ہے۔ ج يَلْمَعُ: و اَلْيَلْمَعُ مِنَ السَّلَاحِ: چمکنے والے ہتھیار جیسے خود زور وغیرہ۔ ج يَلْمَاعُ:

اليلمعي: ذہین۔ تیز فہم۔ جھوٹ ج ملانے والا۔

لَمَعَةٌ (ن) لَمَعًا و لَمُوعًا: لکھنا۔ مٹانا۔ لَمَعَ عَيْنُهُ: آنکھ ملانا۔ کالی کرنا۔ لَمَعَ إِلَيْهِ: دیکھنا۔ بَصْرُهُ: دیر تک دیکھنا۔

تَلَمَعُ: چمکانا۔ اللماق: چمکنے کی تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے "مَا ذُقْتُ لَمَاقًا" میں نے کچھ نہیں چکھا

"وَمَا بِالْأَرْضِ لَمَاقٌ" زمین میں چراگاہ نہیں۔ لَمَعَ الطَّرِيقُ: راستہ کا درمیان۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ فِي لَمَعِ الطَّرِيقِ" یعنی راستہ کے

وسط میں چلا۔ اَلْيَلْمَقُ: روئی دار تہا۔ (دخیل) لَمَكٌ (ن) لَمَكًا العَجِينُ: نرم گوندھنا۔

تَلَمَكَ البَعِيرُ: اونٹ کا جڑوں کو حرکت دینے ہوئے کھانا۔

اللَمَّاكُ: چمکنے کی چیز۔ صرف نفی ہی میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "مَا تَلَمَكَ بَلْمَاكٌ" یعنی کچھ نہیں چمکا۔

اللَمَّاكُ و اللَمَّاكُ و اللَمَمُكُ: سرمہ۔ اللميك: سرمہ لگایا ہوا۔

اليلمك: قوی جوان۔ مردوں ہی کے لیے خاص ہے۔ اور حرف یازا نڈ ہے۔

تَلَمَّلَ بِفَمِهِ: کھانے کے بعد زبان کو ادر اور پھرانا۔

اللَمَالُ و اللَمَالُ: سرمہ۔

لَمَلَمَ الْحَجَرَ: پتھر کو گول گھرنے والی شئی: جمع کرنا۔

تَلَمَمَ: گول ہونا۔ جمع ہونا۔

اللَّمْلَمُ: بہت جمع شدہ فوج۔

الْمَلْمُومُ: جماعت۔

رَجُلٌ مَلْمُومٌ وَجَمَلٌ مَلْمُومٌ: گنہگار بن کر مرد اور اونٹ۔ شعر مَلْمُومٌ: تیل گے ہوئے بال۔

الْمَلْمُومَةُ مَلْمُومَةٌ كَالْمَوْتِ: ہاتھی کی سونڈ۔ لَمَّا يَلْمُوكَ لَمُوكًا: سب لے لینا۔

اللَّمَّةُ: جماعت۔ تین سے لے کر دس تک کے ساتھی۔ ہم عمر۔ ہم شکل۔ بیرونی کے لیے نمونہ۔ عِلْمَاتُ:

لَمِي يَلْمِي لَمِيًا وَ لَمِي يَلْمِي لَمِيًا الْغُلَامُ: لڑکے کا سیاہ ہونٹوں والا ہونا۔ صفت مذکر لَمِي: صفت مؤنث لَمِيًا:

الْمِي الْمَاءُ: اللَّصُّ بَكْدَا: چور کا چپکے سے لے جانا۔ اِزَالَةٌ:

تَلَمَّتِ الْأَرْضُ بِهِ وَ عَلَيْهِ: حاوی ہونا۔ مشتمل ہونا۔

الْحَمِي الْيَمَاءُ: لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا بہ: اپنے لیے خاص کرنا اور غالب ہونا۔

الْمَمِي: بتسلط اللام: ہونٹ کے اندرونی حصہ میں گندم گونی یا سیاہی۔

الْأَلْمِيُونُ: گھاس کی قسم سے ایک پودا جس کے پتے گھنے پھول سفید یا گلابی ہوتے ہیں بے آباد زمین میں ہوتا ہے۔

الْأَلْمِي: گندم گوں یا سیاہ ہونٹ والا۔ اَلْمِي الْمَمِي: مضبوط و گندم گوں نیزہ۔ ظَلَّ الْمَمِي:

گنجان سایہ۔ شَجَرٌ الْمَمِي: گنجان سایہ دار درخت۔ غَلَامُ الْمَمِي: سرد تھوک والا لڑکا۔

مُؤَنَسَلْمِيَاءُ: عِلْمِي: لَفَةٌ لَمِيَاءُ: کم خون والا اور بقول بعض کم گوشت والا سوسڑھا۔

لَن: مضارع کے حروف ناصر میں سے ہے نئی اور استقبال کا فائدہ دیتا ہے جیسے لَن الْفَعْلُ

الْمَنْكُورُ مَا يَبْقِيَتْ: جب تک زندہ رہوں گا امور منکرہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اور دُعا کے

موقع پر بھی آتا ہے جیسے لَن تَزَالُوا مَلْمُوجًا الْفَقِيرُ: ہمیشہ فقیر کے پتار ہو۔

لَهُ (ن) لَهَا الشَّعْرُ: نازک و ستمن شعر کہنا۔

لَهَبْتُ (س) لَهَبًا وَ لَهَبًا وَ لَهَبًا وَ لَهَبًا: آگ بھڑکانا۔ الشَّارُ: شعلہ بھڑکانا۔

لَهَبْتُ (س) لَهَبًا وَ لَهَبًا الرَّجُلُ: پیاسا ہونا۔ صفت لَهَبَانُ:

لَهَبُ النَّارِ فَتَلَهَبْتُ وَالْهَبَاءُ فَالْتَهَبْتُ آگ بھڑکانا۔ یہاں تک کہ شعلہ ہو کر بھڑک اُٹھنا۔ التَهَبُ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ عُصَّةُ

سے جلتا اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَلَهَّبُ" او يَتَلَهَّبُ جَوْعًا: فلاں بھوک سے بھڑک رہا ہے۔

الْهَبُ: النَّارُ: آگ بھڑکانا الْفَرَسُ: گھوڑے کا دوڑنے میں غبار اڑانا الْبَرْقُ: بجلی کا

پیانے کو دنا۔ الْهَبُ فِي الْكَلَامِ: جلدی سے کہہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "الْهَبَةُ لِلْأَمْرِ"

اس نے اس کو کام کے لیے اکسایا۔

الْهَابُ: س۔ پیاس۔ اللهَابَةُ: ایک قسم کی کملی جس میں پتھر رکھ کر

ہودج یا بوجھ کے ایک جانب کو جھکا تے ہیں۔ اللهَابُ: دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی یا

پہاڑی دراز۔ الْهَابُ وَ الْهَوْبُ وَ الْهَابُ وَ الْهَابَةُ:

الْهَبُ: س۔ بے دھوئیں کا شعلہ۔ بلند غبار۔

الْهَبَانُ: سر گرمی کی شدت۔ گرم دن۔ پیاس۔

الْهَبَةُ: پیاس۔ خالص سفیدی۔ اللهَابُ: س۔ آگ کی گرمی۔ الْمَلْهُوبُ:

حق کے نہ ملنے کی وجہ سے بھڑکنے والا۔ الْالْهُوبُ: گھوڑے کی دوڑ کی تیزی جس سے

غبار اڑے یا اس کے کھرے آگ نکلے۔ الْمَلْهَبُ: نہایت خوبصورت۔

الْمَلْهَبُ: تیز دوڑنے والا غبار اڑانے والا گھوڑا۔

الْمَلْهَبُ مِنَ الْقِيَابِ: کم سرخی والا کپڑا۔

الْلَاهُوتُ: خداوندی۔ اور اس کی اصل "لَاة" بمعنی اللہ ہے واد اور تا کی زیادتی مبالغہ کیلئے ہے جیسے جبروت و ملکوت میں۔ عِلْمُ

الْلَاهُوتِ: عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا علم۔ اللاهوتی عقائد متعلقہ ذات و

صفات باری کا عالم۔ لَهْتُ وَ لَهْتُ لَهْتًا وَ لَهْتًا الْكَلْبُ وَ غَيْرُهُ: کتے وغیرہ کا اپنے میں زبان نکالنا۔

لَهْتُ (س) لَهْتًا وَ لَهْتَانًا وَ لَهْتَانًا الرَّجُلُ: پیاسا ہونا۔ صفت مذکر لَهْتَانُ:

صفت مؤنث لَهْتِي:

الْمَهْتُ الْكَلْبُ: کتے کا اپنے میں زبان نکالنا۔ اللهَاتُ: سر پیاس کی جلن۔ موت کی سختی۔

تم کہتے ہو "هُوَ يَفْأَسِي لَهَاتِ الْمَوْتِ" وہ موت کی سختی کو برداشت کر رہا ہے۔

الْمَهْفَةُ: تھکن۔ پیاس۔ لَهَجُ (س) لَهَجًا بِالشَّيْءِ: شیفہ ہونا۔

صفت لَهَجٌ وَ لَهَجُ الْفَصِيلِ أُمَةٌ: چوستا الْفَصِيلُ بامه: ماں کے دودھ پینے کا عادی

ہونا۔ صفت لَهَجٌ: لَهَجُ الْقَوْمِ: کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ

کھلانا۔ اَلْهَجُ الرَّجُلُ: دودھ پینے کے عادی بچوں

والا ہونگلا نا بِالشَّيْءِ: فریفتہ کرنا۔ شیفہ بنانا۔

الْفَصِيلُ: مُنْذٌ میں لکڑی باندھنا تاکہ دودھ نہ پی سکے (آخری معنی میں ہمزہ سلب کے لیے ہے)

اَلْهَجُ بِالشَّيْءِ: شیفہ و فریفتہ ہونا۔ اَلْهَاجُ اِلَيْهِجًا الشَّيْءُ: گڈ گڈ ہونا۔

الْهَاجَتُ عَيْنُهُ: اونگھ آنا اَلْهَاجُ الْكَلْبُ: دودھ کا ناقص طریقے سے جمانا۔

الْلَهْجَةُ: زبانی یا نوک زبانی۔ مادری زبانی۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ فَصِيحٌ اَلْلَهْجَةِ وَ

صَادِقٌ اَلْلَهْجَةِ"

الْلَهْجَةُ: کھانے سے پہلے کا ناشتہ۔ اَلْمَلْهَجُ: س۔ وہ شخص جو سو رہے اور کام

کرنے سے عاجز ہو۔

لَهْوَجُ الشَّيْءِ: ملانا الامر۔ اوھرا کرنا۔
مستحکم نہ کرنا الشَّوَاءَ: نیم پخت کرنا۔ اچھی
طرح سے نہ بھونا۔ کہا جاتا ہے شِوَاءٌ
مُلَهْوَجٌ: اچھی طرح سے نہ بھنا ہوا۔
حَدِيثٌ مُلَهْوَجٌ وَرَأَى مُلَهْوَجٌ: غیر محکم
بات ورائے۔

تَلَهْوَجُ الشَّيْءِ: جلدی کرنا اللحم: گوشت
کو نیم پخت کرنا۔ اچھی طرح سے نہ بھونا۔
تَلَهْوَجُ الشَّيْءِ: شیفٹ ہونا الطَّرِيفُ: واضح
ہونا۔ چلنے والوں کے پیر کا نشان ہونا۔

اللَهْجَمُ: کشادہ چلنا ہوا راستہ۔ بڑا پیالہ۔
لَهْدَةٌ لَهْدًا لِحِمْلٍ: بوجھل کرنا۔ دہانا۔
صفت مفعولی مُلَهْوَذٌ وَ لَهَيْدٌ: لَهْدٌ ذَاتِنَهْ:
چوپایہ کو تھکانا۔ لاغر کرنا الشَّيْءُ: کھانا یا چائنا
فَلَانًا: ذلیل کر کے بھانا یا پستان کی جڑ میں یا
مونڈھے کی جڑ میں مارنا یا چھوٹا۔

لَهْدٌ فَلَانًا: بمعنی لَهْدَةٌ اور تشدید بخشیر کیلئے

الْهَدَّةُ: ظلم کرنا۔ الْهَدْبِيَّةُ: ذلیل کرنا۔ حقیر
سمجھنا الْهَدَى إِلَى الْأَرْضِ: بوجھ کی وجہ سے
زمین کی طرف جھکتا یا بقلان: دولڑنے والوں
میں سے ایک کو پھیلانا اور دوسرے کو چھوڑ
دینا۔

الْهَادُ: پھکی۔
الْهَيْدُ: اس ایک مرض ہے جو انسان کی ٹانگ یا
رانوں میں ہوتا ہے۔ صدمہ وغیرہ کی وجہ سے
اُونٹ کے سینہ میں شگاف لگتی۔ سست و ناکارہ
مرد۔

الْهَيْدُ: عاجز۔ تھکا ہوا۔
الْهَيْدَةُ: ایک نرم قسم کا حلوا۔
الْمُكَلِّدُ: یعنی ”رُجُلٌ مُكَلِّدٌ“ کوزر و ذلیل۔
درد و زوں سے دھکا دیا ہوا۔
الْهَذَبُ: ہمیشہ ثابت رہنے والی چیز۔

لَهْدَمَةٌ: کاٹنا۔
تَلَهْدَمَةٌ: کاٹنا تَلَهْدَمُ الشَّيْءُ: کھانا۔
الْلَهْدَمُ: تیز کانٹے والا۔ تلوار۔ بھالا۔ دانت

وغیرہ ج لَهَادِمٌ وَ لَهَادِمَةٌ۔

اللَهَادِمَةُ: چوروں کی جماعت۔

لَهَزَ (ف) لَهْزًا الشَّيْءُ فَلَانًا: کسی چیز کا کسی
کے اندر ظاہر ہونا القَوْمُ: قوم میں مل جانا۔
لَهْزَةُ الشَّيْبِ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔ صفت
مفعولی مُلَهْوَزٌ: لَهْزَةٌ بِالرَّمْحِ: سینہ میں نیزہ
مارنا۔ لَهْزَ فَلَانًا: مکار مارنا اور بقول بعض کان
کے نیچے کی ہڈی اور گردن پر مکار مارنا الفَصِيلُ
ضَرْعُ أُمِّهِ: دودھ پیتے ہوئے سر سے تھن کو
مارنا۔

لَهْزَةٌ تَلَهِيْزًا: کان کے نیچے کی ہڈی اور
گردن پر مکار مارنا۔

اللَاهِزُ: فاب پہاڑ اور نیلہ جو راستہ کو تنگ اور
ڈھوار گزار کر دے۔ اور جب دو پہاڑ اسٹے
قریب ہوں کہ ان کے درمیان کار راستہ پتی گلی
کی مانند ہو جائے تو ان دونوں پہاڑوں کو لابران
کہتے ہیں گے۔

اللِهَازُ: چیتھڑا یا پچڑ جس سے چرخی وغیرہ کے
سوراخ کو تنگ کریں۔

اللَهْزُ: سخت۔
اللَهْزَةُ: کان کے نیچے جڑے میں ابھری ہوئی
ہڈی۔

الْمَلْهَزُ: کان کے نیچے کی ہڈی اور گردن پر مکار
مارنے والا۔

الْمَلْهَوُزُ: تھگھے بدن والا۔ جیزے کی ہڈی
پر داغ لگا ہوا۔

لَهْزَمَةٌ: جیزے کی ہڈی کو کاٹنا۔ لَهْزَمٌ
الشَّيْبُ حَدْبِيَّةٌ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔

اللَهْزِيْمَةُ: کان کے نیچے جڑے کی ابھری
ہوئی ہڈی ج لَهْزَامٌ۔

لَهَسَ (ف) لَهْسًا الشَّيْءُ: چائنا (حس میں
لغت ہے) الصَّبِيُّ نَدَى أُمِّهِ: بے چوسے
ہوئے چائنا عَلَى الطَّعَامِ: حرص کی وجہ سے
بھوم کرنا۔

لَاهَسَ مَلَاهَسَةً عَلَى الطَّعَامِ: کھانے پر
بھوم کرنا لَقَوْمٌ إِلَى الشَّيْءِ: سبقت کرنا اور
بھوم کرنا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ يَلَاهِسُ بَنِي

فَلَانٍ“ جبکہ کھانے کے وقت پہنچ جائے۔

اللَاهِسُ: جلد باز۔ چابک دست۔ ج
لَوَاهِسُ:

اللَهَاسُ وَاللَهَاسَةُ: تھوڑی خوراک۔

اللَهْسَةُ: چائے کے قابل چیز۔ کہا جاتا ہے
”مَالِكٌ عِنْدِي لَهْسَةٌ“ تمہارے لیے
میرے پاس کچھ نہیں۔

لَهَسَمَ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ: دستر خوان سے
سب کچھ کھالینا۔

اللَهَاسِمُ: وادی کی تنگ نالی یا واحد لَهَسِمٌ۔
لَهْطَةٌ (ف) لَهْطًا: تھپڑ مارنا۔ لَهْطًا
بَسْمًا: تیر مارنا۔ لَهْطُ الثَّوْبِ: کپڑا سینا بہ

الْأَرْضُ: زمین پر پھجڑانا۔ لَهْطَتْ أُمُّهُ بِهِ:
جننا۔

الْلَاهِطُ: فاب اپنے گھر کے دروازے پر
چھڑ کا ڈکرنے والا اور صاف ستر ہار کھنے والا۔

لَهْطَةٌ مِنَ الْخَبْرِ: افواہ جس کی نہ تم تصدیق
کرو نہ بخندید۔

لَهَيْعٌ (س) لَهَيْعًا وَ لَهَيْعَةً الرَّجُلُ: ہر ایک
سے بے تکلف ہونا۔ صفت لَهَيْعٌ وَ لَهَيْعٌ وَ
لَهَيْعٌ فِي الْكَلَامِ: خوب بڑھ بڑھ کر باتیں
کرنا۔

اللَهَيْعَةُ: غفلت۔
اللَهَيْعُ: کارگزاری میں تیز۔

اللَهَيْعَةُ: غفلت۔ سستی، کاہلی،
خرید و فروخت میں سستی کرنا یہاں تک کہ

نقصان ہو جائے۔
لَهَيْفٌ لَهْفًا: ظلم کیا جانا۔

لَهَيْفٌ (س) لَهْفًا: عَلَي مَأْفَاتٍ: غمگین
ہونا۔ افسوس کرنا۔ صفت لَهَيْفٌ وَ لَهَيْفٌ۔

لَهْفٌ فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ أُمَّهُ: وانفسا و
أُمِّيَاہُ وَاللَهْفَاہُ کہنا اور کہا جاتا ہے ”لَهْفٌ
أُمِّيَّةٌ“ یعنی اُبویہ: یہاں پر لفظ ام کو اب پر غلبہ
دیا گیا ہے اس لیے کہ ماں کی مانتا مشہور ہے۔

اور کہا جاتا ہے ”لَهْفٌ إِلَيْكَ تَلَهْفِيْنَا“ یعنی
میں نے تجھے سے فریاد کر لی۔

الْهَفُ: حریص ہونا۔ نہایت خواہش مند

ہونا۔
تَلَهَّفَ عَلَيْهِ: غمگین ہونا۔ افسوس کرنا۔
التَهَفَتِ النَّارُ: آگ کا بھڑکانا۔ التَهَفَ
فَلَانٌ: کسی مصیبت کے نازل ہونے پر غم سے
بھڑک اٹھا۔
اللاهِفُ: فَا۔ مظلوم۔ مضطر۔ فریادی۔
افسوس کرنے والا۔ مَوْضِعٌ لَاهِفٌ وَ لَاهِفَةٌ:
اور کہا جاتا ہے ”هُوَ لَا هِفَ الْقَلْبِ“ وہ
شکستہ دل ہے۔
اللاهِفَةُ: لَاهِفٌ کا مؤنث۔ ج لاهفات
ولو اهِفُ.
اللَّهْفُ: س۔ يَلْهِفُ فَلَانٌ: کلمہ ہے جس
سے مافات پر افسوس کیا جاتا ہے یعنی فلاں پر
کس قدر افسوس ہے اور کہا جاتا ہے ”يَا لَهْفِي
عَلَيْكَ وَ يَا لَهْفَ وَ يَا لَهْفًا وَ يَا لَهْفَ
أَرْضِي وَ سَمَائِي عَلَيْكَ وَ يَا لَهْفَاهُ“ یعنی
تیرے اوپر افسوس ہے۔
اللَهْفَانُ: افسوس کرنے والا۔ غمزدہ۔ مؤنث
لَهْفِي نَهَافِي وَ لَهْفُ.
اللَهْفَةُ: لَهْفٌ کا اسمِ مرفوعہ اور فوت شدہ کے
افسوس کیلئے کہا جاتا ہے ”يَا لَهْفَةُ وَ يَا لَهْفَتَاهُ
وَ يَا لَهْفَتِيَا“
اللَهْوُفُ: مؤنث۔ لمبا۔ افسوس کرنے والا۔
مؤنث للهِوْفَةِ.
اللَهْيَفُ: مضطر۔ افسوس کرنے والا۔ سَوْجُلُ
لَهْفِ الْقَلْبِ: سوختہ دل۔ نہ لہاف۔
المَلْهُوْفُ: غمگین جس کا مال ضائع ہو گیا ہو یا
کوئی قریب فوت ہو گیا ہو۔ فریاد کرنے والا
مظلوم رَجُلٌ مَلْهُوْفٌ الْقَلْبِ: سوختہ دل
مرد۔
لَهَقَ (ف) وَلَهَقَ (س) لَهَقًا وَ لَهَقًا
الشَّيْءُ: بہت مفید ہونا۔
تَلَهَّقَ الشَّيْءُ: بہت مفید ہو کر رَجُلٌ: زیادہ
گنتگو کرنا۔
اللَهَاقُ: سفید یا سفید تیل۔ کہا جاتا ہے
”أَبْيَضُ لَهَاقٌ أَوْ لَهَاقٌ“ بہت سفید
”وَبَقْرَةٌ لَهَاقٌ“ بہت سفید گائے۔

اللَّهِقُ وَاللَّهَقُ: سفید تیل۔ سفید۔ مؤنث
لَهَقَةٌ وَ لَهَقَةٌ: ج لَهَقَاتٌ وَ لَهَاقٌ: کہا
جاتا ہے ”أَبْيَضُ لَهَقٌ وَ لَهَقٌ“ بہت سفید۔
مَلْهَقُ الْوَلَدِ: سفید رنگ والا۔
لَهْلَهَةٌ لَهْلَهَةٌ: النَّسَاجُ الثَّوْبُ: باریک بنا
(هَلْهَلٌ) کا مقلوب ہے)
تَلَهْلَهَةُ الثَّوْبِ: باریک بنا ہوا بولکچلا۔
تھوڑی سی گھاس کے درپے ہونا۔
اللَهْلَهَةُ مِنَ الثَّيَابِ أَوْ الْكَلَامِ أَوْ الشَّعْرِ:
ردی کپڑا یا گفتگو یا شعر۔
اللَهْلَهَةُ: بد صورت۔ بِلْدٌ لَهْلَهَةٌ: کشادہ مقام
جہاں سراب بہت ہوں۔ ج لَهْلَهَةٌ
(وَاللَهْلَهَةُ) کشادہ زمین۔
اللَهْلَهَةُ: کسی چیز سے رجوع کرنا۔ باریک
بناؤ۔
لَهْمٌ (س) لَهْمًا وَ لَهْمًا الشَّيْءُ: ایک ہی
مرتبہ میں لگانا۔ گھونٹ لینا۔
أَلْهَمَهُ الشَّيْءُ: لَقُوا نَا۔ أَلْهَمَ اللَّهُ فَلَانًا
خَيْرًا: وحی کرنا۔ سکھانا۔ توفیق دینا۔ دل میں
ڈالنا۔
تَلَهَّمُ وَ التَّهَمُّ الشَّيْءُ: ایک ہی دفعہ میں
لگانا۔ بڑپ کرنا۔ (التَّهَمَةُ ہی بولا جاتا ہے)
أَتَهَمُ لُونَهُ: رنگ متغیر ہونا۔
اسْتَلْهَمَ اللَّهُ خَيْرًا: اللہ سے خیر کے الہام
کی دُعا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اسْتَلْهَمَ اللَّهُ
الرَّشَادَ“ اللہ سے رشد و ہدایت کے الہام کی
دُعا کرتا ہوں۔
الِلْهَامُ: بڑا لشکر۔
الِلْهَمُ: عمر رسیدہ۔ طُهْمُومُ.
رَجُلٌ لَهْمٌ وَ لَهْمٌ: کھاد۔ پیٹھ۔
اللَهْمَةُ مِنَ السَّوْفِقِ: ایک مرتبہ بھانکنے کی
مقدار ستو۔
اللَهْمُ: بہت بخشش والا۔ بڑا دالو۔ بڑا سمندر۔
کھاد۔ سبقت کرنے والا گھوڑا یا آدمی سَوْجُلُ
لَهْمٌ: مرد روشن رائے بخشش کرنے والا۔
کفایت کرنے والا۔ تَلْهَمُونَ (عورتوں کے
وصف میں واقع نہیں ہوتا) رَجُلٌ لَهْمُومٌ: کھاد

مرد۔
اللَهْمُ وَ أُمُّ اللَهْمِ: موت۔ بخار۔
مصیبت اللَهْمِ: کشادہ رنگ۔
الإلْهَامُ: س۔ اللہ کا انسان کے دل میں الہا
داعیہ پیدا کرنا جو کسی فعل کے کرنے یا چھوڑنے
پر آمادہ کرے۔
الْمِلْهَمُ وَ الْمَلْهَمُ مِنَ الرِّجَالِ: کھاد۔
پیٹھ۔
لَهْمَسٌ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ: دست خوان سے
سب کچھ کھالینا۔
اللَهْمُومُ: بڑا لشکر۔ سخی آدمی۔ عمدہ گھوڑا۔
بے شمار۔ بہت برسنے والا بادل۔ بہت دودھ
والی اونٹنی۔ ج لَهْمِيمٌ وَ لَهْمِيمٌ النَّاسُ:
سخی لوگ۔
اللَهْمِيمُ: سبقت کرنے والا گھوڑا یا آدمی۔
لَهْنُ الْقَوْمِ وَ لِقَوْمٌ: ناشتہ کھانا۔ سفر سے
واپس پر تھک دینا۔
أَلْهَمَهُ: مسافر کو سفر سے واپسی پر تھک دینا۔
تَلَهَّنَ الرَّجُلُ: ناشتہ کھانا۔
اللَهْنَةُ: تھک جو مسافر سفر سے واپسی پر دے۔
ناشتہ۔ تھک جو مسافر کو سفر سے واپسی پر دیا
جائے تھن۔
لَهَا يَلْهَوُ لَهْوًا: الرَّجُلُ: کھیلنے۔ فریفتہ
ہونا۔ لَهْوًا وَ لَهْوًا (لَهْوًا) الْمَرْأَةُ إِلَى حَدِيثِ
الرَّجُلِ: مانوس ہونا۔ پسند کرنا (لَهْيًا وَ
لَهْيَانًا) عَنِ الشَّيْءِ: غافل ہونا۔ ذکر چھوڑنا۔
بھولنا۔
لَهْيٌ يَلْهِي لَهَا بَكْدًا: محبت کر غننے۔ تسلی
پانا۔ غافل ہونا۔ ذکر چھوڑنا۔ روگردانی کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”إِلَهُ لَهْ كَمَا يَلْهِي لَكَ“ تم بھی اس
کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ
کرتا ہے۔
لَهَاهُ تَلْهِيَةٌ عَنِ كَذَا: غافل کر دینے
بگذا: مشغول کرنا۔
لَاهَا مَلَاهَاةٌ: قریب ہونا۔ بھڑا کرنا۔
لَا هِيَ الشَّيْءُ: نزدیک ہونا الغلام: دودھ
چھوڑنے کے قریب ہونا۔

فائے ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے جیٹلو
نَزَلَ عِنْدَنَا فَتَنْبِئْ خَيْرًا“ اگر تم ہمارے
پاس آئے تو بھلائی کو بتائیے۔
(۶) تَقْلِيلٌ كَيْلٌ جِيصَصَدْفُوْا وَّلَوْ يَظْلِفُ
سُخْرِيْ“ صدقہ کرو اگرچہ چلا ہو اگھر ہی کیوں
نہ ہو۔

لَا بَ يَلُوْبُ لُوْبًا وَّلُوْبًا وَّلُوْبَانَا الرَّجُلُ
وَالْبِعِيْرُ: مرد یا اونٹ کا پیاسا ہونا۔ پانی کے
ارد گرد بغیر اس تک پہنچے ہوئے گھومنا لسم
لَلُوْبِ وَاللُّوْبِ وَاللُّوْبِ وَاللُّوْبِ
لُوْبُهُ تَلُوْبِيْنَا: ملا (ایک قسم کی خوشبو)
ملنا (دیکھئے صلاب)

اَلْاَبُ الْاِبْنَةُ الرَّجُلُ: پیاسے اونٹوں والا
ہوتا۔
الْمَلَابِ: لاج لُوْبُوْبٌ وَّلُوْبٌ: کہا جاتا
تھیل لُوْبٌ او نخل لُوْبٌ وَّلُوْبِ
پیاسے پانی سے دور۔
المَلَابِ: لمعاب

الْمَلُوْبَاءُ وَالْمَلُوْبِيَّاءُ وَالْمَلُوْبِيَا: لوبیا۔ لوبیا کی
بھل (دخیل)
الْمَلُوْبَةُ: جماعت جو دوسری جماعت کے
ساتھ رہے مگر شریک مشورہ نہ کی جائے۔
سنگارخ سوختہ لُجَبِ

المَلُوْبِ: گوشت کا ٹکڑا جو دیگ میں پھرے۔
شہد کی کھسی۔
الْمَلَابَةِ: سنگارخ سوختہ۔ لُجَبَاتٌ وَّلَابِ
الْمَلَابَةِ: کالے اونٹ مع شرفہ۔
المَلَابِ: ایک قسم کی خوشبو جو زعفران کے
مشابہ ہے۔

المَلُوْبِ: سب سے زیادہ لوبا۔
المَلُوْبِ: سب سے زیادہ کیل۔ لُجَبِ
المَلُوْبِي: لُوْبِ کی بیٹ پر ہو۔
المَلُوْبِ: سرمد کی سلائی۔
لَا تَ يَلُوْبُ لُوْتًا الرَّجُلُ: بغیر پوجھے
ہوئے خردیل بخیر: خبر کو چھپانا: حق
گھانا۔
الآتِ: زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔

المَلَاهِي: آلات موسیقی۔
لَهْوَجٌ: مادہ ج میں گزر چکا۔
لَهْوَقٌ لَهْوَقَةٌ وَّلَهْوَقُ الرَّجُلُ: جو اپنے
اندر نہ ہو اسے ظاہر کر لھی العمل
وَالكَلَامِ: ترک مبالغہ کرنا۔

رَجُلٌ لَهْوَقٌ: ڈینگ مارنے والا۔ جو اپنے
اندر نہ ہو اسے ظاہر کرنے والا۔
لَوٌ: یہ حرف طریقے سے مستعمل ہے۔
(۱) زمانہ ماضی میں شرط کیلئے جیٹلو جہا نی
لا سُخْرِيْنَا“ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کا
اکرام کرتا۔ یہ تین باتوں کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک
شرط۔ دوسرے شرط کو زمانہ ماضی کے ساتھ
متقید کرنا۔ تیسرے امتناع اور اسی وجہ سے بعض
لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حرف امتناع لامتناع ہے
یعنی شرط کے منقشی ہونے کی وجہ سے جہا
منقشی ہوتی ہے مناطق نے اس کو ادوات اتصال
قرار دیا ہے جیسے لُوْكَانَ زَيْدٌ حَجْرًا كَانُ
جصاڈا“

(۲) زمانہ مستقبل میں شرط کیلئے مگر یہ جازمہ
نہیں جیسے لُوْكَانَ تَلَسَّقِيْ اَصْدَاءَ نَا بَعْدُ
لُوْتِنَا“ الخ۔ اور اس قسم میں اور پہلی قسم میں
فرق یہ ہے کہ شرط جب مستقبل ہو لُوْا نِ
کے معنی میں ہوتا ہے اور جب ماضی ہو تو حرف
امتناع ہوتا ہے اور جب اس کے بعد فعل
مضارع واقع ہو تو ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے
جیٹلو تَقُوْمُ اَقُوْمُ بِمَعْنَى قُمْتُ فَمَتَّ
(۳) یہ کہ حرف مصدری ہو بجز لُوْا نِ کے مگر
یہ نصب نہیں دیتا۔ اور اَكُوْدُ بُوْدُ کے بعد
واقع ہوتا ہے جیسے لُوْا نِ لُوْا قَاتِيَهُمْ“ وہ تمنا
کرتے ہیں کہ تم ان کے پاس آؤ بُوْدُ
اَحَدُهُمْ لُوْ يَعْمُرُ“ ان میں ایک عمر دیے
جانے کی تمنا کرتا ہے۔

(۴) یہ کہ تمنا کیلئے ہو۔ اس کا جواب منصوب
اور فا کے ساتھ ہوتا ہے جیسے لُوْا قَاتِيَنِي
فَتَحَدَّثَنِي“ تمنا ہے کہ تم میرے پاس آتے
اور مجھ سے باتیں کرتے۔

(۵) عرض کیلئے مانگنے والا کے اس کا جواب بھی
المَلَاهِي: اللُّعْبُ عَنِ كَذَا: غافل
کرنا فُلَانٌ الشَّيْءُ: عاجزی سے چھوڑ دینا
الرَّحَى وَفِي الرَّحَى وَ لِلرَّحَى: چکی میں
کول ڈالنا لھی الرَّجُلُ: بہتر اور کثیر عطیہ
دینا۔
تَلَهَّى تَلَهَّى بِكَذَا: کسی چیز پر توجہ یا اعراض
سے دل بہلانا لَشَيْءٌ: مشغول ہونا۔
تَلَاهَى تَلَاهَى بِالْمَلَاهِي: کھیل کود میں
مشغول ہونا قَوْمٌ: باہم کھیلنا۔
انتهى الرَّجُلُ بِذَيْئِيْ: کھیلنے بغیر: مشغول
ہونا۔

استنهي استنهي: صاحبه: ساتھی کا
انتظار کرنا۔ ضمير المتنى: زیادہ لینا۔ لگانا۔
اللَّهَاءُ: مقدار۔ کہا جاتا ہے "هَمْ لَهَاءُ
مِيَاتِهِ" وہ لوگ سو (۱۰۰) کی مقدار ہیں۔
اللَّهُو: کھیل کود۔ وہ چیز جس سے انسان
لذت حاصل کرے۔ عورت جس سے کھیل
کود کیا جائے۔ ذمول۔ فرزند۔

اللَّهَاءُ: خلق کا کوہ لَهْوَاتٌ وَّلَهِيَاتٌ و
لَهْيٌ وَّلَهْيٌ وَّلَهَا وَّلَهَا وَّلَهَا وَّلَهَا
اللَّهُوَةُ: لَهَا کا اسم مرہ۔ عورت جس سے
کھیل کود کیا جائے۔
اللَّهُوَةُ وَاللَّهُوَةُ: پیتے ہوئے چکی میں ایک
مرتبہ جتنی مقدار میں غلہ ڈالیں۔ عطیہ۔ بہتر و
کثیر عطیہ۔ لپ بھر مال۔ لھی
اللَّهُيَّةُ: عطیہ یا بہتر و کثیر عطیہ۔ کہا جاتا ہے
"فُلَانٌ لَهْوٌ عَنِ الْخَيْرِ" فلاں بھلائی سے
بہت غافل ہے۔

اللَّهُوِي: لَهَاءُ کی طرف منسوب۔
وَالْحَرْفَانِ اللَّهُوِيَانِ: قوک۔
الْاَلَهُوَةُ وَالْاَلَهُيَّةُ وَالْتَلَهِيَّةُ: جس سے
کھیل کود کیا جائے۔

المَلَهِي: کھیل کود۔ کھیل کود کا زمانہ۔ کھیل
کود کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَلَهِي الْقَوْمِ"
یعنی یہ ان کی اقامت کی جگہ ہے "وَهَذَا
مَلَهِي الْاَثْنِي" یہ پایہ دیدگان کی جگہ ہے۔
المَلَهِي: کھیل کود کا آلہ۔ مَخْلَاهُ: آلات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لَا ت. حرف نفی ہے لیس کا عمل کرتا ہے مگر اس کے بعد دو معمول میں سے ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے اور عموماً مرفوع محذوف ہوتا ہے جیسے ”وَلَا تَحِينَ مَنَاصَ“ تقدیر عبارت کی ہوں ہے ”وَلَا تَحِينَ حِينَ مَنَاصَ“ لَا تَ يَلُوْتُ لَوْثًا. الْعَمَامَةُ عَلَى رَأْسِهِ:

سر پر عمامہ لیٹنا الصَّبَابُ بِالْمَجْلِ: کہہ رہے کا پہاڑ کو ڈھانکتا بِفَلَانٍ: پناہ لیٹا۔ لَا تَ بِهِ النَّاسُ ارد گرد جمع ہونا دَافِعًا: ہمیشہ گھر میں رہنا الشَّيْءُ: منہ میں چپا ہلی الأَمْرُ: دیر کرنا۔ عَنِ الْحَاجَةِ: سستی کرنا ثَوْبُهُ بِالطَّيْنِ:

کپڑے کو کچھڑ میں تھیرنا الشَّيْءُ: ہنگامہ کرنا۔ لَا تَ فَلَانًا: کھومنا۔ کہا جاتا ہے ”لَا تَ لَوْثًا مِّنَ الْكَلَامِ“ بات کو اس نے چپا چاکے کہا صاف نہیں بیان کیا۔ ”وَمَا لَا تَ فَلَانًا أَنْ كَوْتُ يَلُوْتُ لَوْثًا فِي الْأَمْرِ: تاخیر کرنا۔ لَوْثٌ تَلَوْنًا الشَّيْءُ: بھگو ہوا الماء: کھلا کرنا

يَبَانُهُ بِالطَّيْنِ: کپڑوں کو کچھڑ میں تھیرنا۔ التَّيْنُ بِالْقَتِّ: بھوسہ کو چارے میں ملانا فَلَانًا عَنِ كَذَا: روکنا الأَمْرُ: مشتبہ کرنا۔ آلا تَ الْإِثْمَةَ مَالَهُ بِفَلَانٍ: وادیت رکھنا۔ الْوَثُّ الْوَاتَا. الْأَرْضُ: خشک گھاس میں تر

اگانا۔ تَلَوْتُ تَلَوْنَا ثَوْبَهُ بِالطَّيْنِ: کپڑے کا کچھڑ میں تھیرنا زَيْدٌ يَعْمُرُو: پناہ لیٹا اور نَفْعٌ كِي أُمِدَّ سَ صَحْبَتِ فِي رَهْنًا۔

إِنَّمَا الْيَبَانَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ: پیچیدہ ہونا۔ بَرْدَانِهِ: لپٹنا فِي الْعَمَلِ: دیر کرنا فِي كَلَامِهِ: حجت سے عاجز رہنا بِالْمَدِّ: خون سے تھیرنا۔ آلودہ ہونا الْعَبِيْرُ: اونٹ کا مونا اور قوی ہونا فَلَانًا عَنِ كَذَا: روکنا۔

الْبَلَاثُ: فاشیر۔ نَبَاتٌ لَا يَبُتُ: آپس میں لپٹے ہوئے پودے۔ اللَّوَاثُ: ٹیٹھیں۔ اللَّوَاثَةُ: پلٹھیں۔ جماعت۔ وہ شخص جو ہر چیز میں آلودہ ہو جائے۔

اللَّوْثُ: سر۔ قوت۔ برائی۔ زخم۔ کینہ کے مطالبات۔ کمزور ثبوت۔ اللَّوْثُ: ڈھیل ڈھال۔ اللَّيْثُ: سخن باتات۔ اللَّوْثَةُ: لَا تَ كَأَسْمِ مَرَّةٍ: بیوقوفی۔ اللَّوْثَةُ: ڈھیل ڈھال۔ تاخیر۔ بیوقوفی۔ زبان

میں رکاوٹ۔ اثر جنون۔ کہا جاتا ہے ”بِهِ لَوْثَةٌ“ اس کے ساتھ جنون کا اثر ہے۔ گوشت و چربی کی زیادتی اور کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ ذُو لَوْثَةٍ“ ست و کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے: نَبَاتٌ لَيْثٌ: سخن پودہ۔

اللَّوْثَةُ: جماعت۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّ الْمَجْلِسَ لِيَجْمَعُ لَوْثَةً مِّنَ النَّاسِ“ مجلس مختلف قسم کی جماعتوں کو جمع کر لیتی ہے۔ الْآلَوْتُ: ڈھیل ڈھال۔ قوی۔ ست۔ موٹی زبان والا۔ کمزور عقل والا۔ مَوْنْتُ لَوْثًا: ج

لوٹ۔ المَلَاثُ وَالْمَلَوْتُ: سردار شریف جس کی پناہ لی جائے۔ ج المَلَاوُثُ وَالْمَلَاوُثَةُ وَالْمَلَاوِثُ کہا جاتا ہے ”ہم ملاوٹ“ لیتی وہ اشراف ہیں۔

وَإِنَّهُ لَيُعِمُّ الْمَلَاثَ لِلضُّيْفَانِ وَهُ مِهَانُونَ كَيْلَهُ بَهْرِنَ جَائِعًا نَاهٍ۔ المَلَاثُ: مرکز۔ وہ جگہ جس پر کوئی چیز

گھومے۔ المَلِيْثُ: موٹاپے کی وجہ سے۔ دِيْمَةٌ لَوْثًا: لگا تار بارش جو گھاس کو بکھیر دے۔ لَاحٌ يَلُوْحُ لَوْحًا الشَّيْءُ: منہ میں پھرانا۔ لَاحٌ يَلُوْحُ لَوْحًا الشَّيْءُ: ظاہر ہونا البَرْقُ:

بجلی کا چمکتا النَجْمُ: ستارہ کا ٹکنا البُرْدُ: زردیدہ ٹکڑے دیکھنا الشَّيْءُ: دیکھنا کہا جاتا ہے ”لَا حَهُ يَبْصُرُهُ لَوْحَةً“ جبکہ دیکھے اور پھر پوشیدہ ہو جائے العَطَشُ او السَّفَرُ فَلَانًا: متخیر کرنا۔ رنگ بدل دینا لَوْحًا و لَوْحًا و لَوْحًا و لَوْحًا و لَوْحَانًا الرَّجُلُ: پیاسا ہونا۔

لَوْحٌ تَلَوْنًا وَرَّيْءٌ شَارَهُ كَرْنَا لَوْحٌ بِسَيْفِهِ: تلوار چکانا يَتَوَبَّه: کپڑا بلند کر کے

ہلانا۔ کہا جاتا ہے ”لَوْحٌ لِلْكَلْبِ بَرِّعِيْفٍ فَتَبَعَهُ“ اس نے کتے کو روٹی ہلا کر دکھائی وہ پیچھے ہوا السَّفَرُ وَالْعَطَشُ فَلَانًا: چہرہ متخیر کر دینا الشَّيْبُ فَلَانًا: سفید بالوں والا کر دینا فَلَانًا بِالْعَصَا وَالسَّيْفِ وَالسَّوْطِ وَالنَّعْلِ: اٹھانا اور مارنا۔

الشَّيْءُ بِالنَّارِ: آگ سے گرم کرنا۔ الْآخُ الْآخَةُ الشَّيْءُ: ظاہر ہونا البَرْقُ: بجلی کا چمکتا النَجْمُ: ستارے کا روشن ہونا بِسَيْفِهِ او ثَوْبِهِ: تلوار یا کپڑے سے اشارہ کرنا بِحَقِّهِ: حق مار لینا فَلَانًا: ہلاک کرنا مَنَةً: خوف کرنا۔ پریز کرنا مِّنَ الْقَوْلِ: شرمانا عَلَى الشَّيْءِ: اعتماد کرنا۔

تَلَوْحٌ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا۔ التَّاحُ الْيَبَاخُ: پیاسا ہونا۔ اِسْتِلَاحٌ فِي الْأَمْرِ اِسْتِلَاحًا: غور کرنا۔ اِسْتِلَاحٌ: پیاسا ہونا۔

الْيَاحُ وَالْيَبَاخُ: صبح۔ جنگلی تیل۔ سفید اور تاکید کے موقع پر بولا جاتا ہے ”اَبْيَضُ يَاحُ او يَاحُ“ خالص سفید۔ اللَاحِيْحَةُ لَانِحٌ كَمَا مَوْنْتُ: ظاہر ہونے والی۔ ج لَوَانِحٌ کہا جاتا ہے ”نَظَرْتُ اِلَى لَوَانِحِهِ وَالْوَاخِجُ“ میں نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھا۔ اللَاحِيْحَةُ رَجْسٌ:

جس میں حساب درج کیا جائے۔ (مولدہ) اللَوْحُ: تختی۔ ہر چوڑی چیز کھڑی ہو یا ہڈی یا لوہا ج الوَاحُ: لَوْحُ الْجَسَدِ: ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈی کے علاوہ ہڈی۔ یا ہر وہ ہڈی جو چوڑی ہو۔ ج الوَاحُ ج الوَانِيْحُ. الْوَاخُ:

السَّبَاحُ: چمکدار ہتھیار۔ اللَوْحُ: پیاس۔ فضاء آسمانی۔ اِبْلٌ لَوْحِيٌّ: پیاسے اونٹ۔ التَّلَوْنِيْحَاتُ: کتاب کے حواشی نوٹ۔ المَلْتَحُ: دھوپ یا سفر کی وجہ سے متخیر رنگ

والا۔ الجِلْوَاخُ: لہا۔ بولا۔ جلد دہلی ہونے والی عورت۔ بڑی اور چوڑی چمکی ہڈی والا۔ اَلْوَجْسُ

کی ٹانگ کو باز کے شکار کرنے کے لیے باندھ دیا جائے۔
 المِلْوٰحُ والمَلْوَحُ والمِلْيٰحُ. جلدی پیسا ہونے والا۔ ج مَلَوَيْحُ. کہا جاتا ہے ”اِبِلٌ مَلَوَيْحٌ“ جلدی پیاسے ہونے والے اونٹ۔
 قِدْحٌ مَلْوَحٌ. آگ سے متغیر شدہ تیر۔
 لَاحَةٌ يَلْوُحُهُ لَوْحًا. ملانا۔
 اِنْعَاقُ النَّبِيَاخِ. مَالِ الْعَجِيْنِ. گندھے ہونے آنے میں خمیر اٹھنا۔
 اللِّوَاخَةُ وَاللِّوَاخَةُ. مکھن دودھ سے ملا ہوا۔
 لَوْدٌ يَلْوُدُ لَوْدًا. سرکش ہونا۔ نافرمان ہونا۔
 الْاَلْوُدُ. سرکش۔ نافرمان۔ جو عدل کی طرف مائل نہ ہو۔ سوئی گردن۔ مَلْوُوْدٌ۔
 لَاؤٌ يَلْوُدُ لَوْدًا و لَوَادًا و لَوَادًا و لِيَادًا. بِالْجَبَلِ: پہاڑ میں چھپنا۔ پناہ گیر ہونا بِالْقَوْمِ: پناہ میں اَلطَّرِيقِ بِاللِّدَارِ: راستہ کا گھرتے متصل ہونا۔
 لَاوْدٌ لَوَادًا و مَلَاوْدَةٌ بِفُلَانٍ: پناہ میں آنا عَنهُ: فریب دینا فُلَانًا: مخالفت کرنا۔
 الْقَوْمِ: مدارات کر الْقَوْمِ: ایک دوسرے کی پناہ لینا بِالْقَوْمِ: گرد گھومنا۔
 الْاَدُّ الْاِدَّةُ بِالْجَبَلِ و بِالْقَوْمِ: بمعنی لَاؤٌ۔
 الطَّرِيقِ بِاللِّدَارِ: احاطہ کرنا اور متصل ہونا۔
 الْاَدْبُتُ الدَّارُ بِالطَّرِيقِ: گھر کا راستہ سے متصل ہونا۔
 اللُّوْدُ: سہ پہاڑ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے اِغْتَصَمَ بَلُوْدُ الْجَبَلِ و بِالْوَادِیْہِ اس نے پہاڑ کے کنارے پناہ لی۔ وادی کا موڑ۔ کہا جاتا ہے ”نَزَلُوْا بَلُوْدَ الْوَادِیْ“ وہ لوگ وادی کے گوشے میں اترے۔ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ يَطْوِفُ فِی الْوَادِی الْبَلَادِ“ فلاں ملک کے اطراف میں پھرتا ہے ”وَهُوَ لَوْدَةٌ“ وہ اس سے قریب ہے۔ ج لَوَادُ۔
 لَوْدَانُ الشَّیْءِ: جانب۔
 اللُّوْدَانِیَّةُ. فریب دہی۔

اللَّؤْدَةُ. سرخ ریشی کپڑا۔ ج لَاؤٌ۔
 التَّلْوَادُ. اسم سے بمعنی مَلَاوْدَةٌ. کہا جاتا ہے ”لَهُمْ تَلْوَادٌ“ یعنی بعض بعض کی پناہ لینا ہے۔
 لَوَادٌ الشَّیْءِ: قریب قریب۔ کہا جاتا ہے ”لِنِی مِنَ الدَّرَاهِمِ مِائَةٌ اَوْ لَوَادُهَا“ میرے پاس سو یا اس کے قریب قریب درہم ہیں۔
 الْمَلَاوِدُ. قلعہ۔ جائے پناہ۔
 الْمَلَاوِدُ. ازاریں۔ واحده مَلْوُوْدٌ۔
 الْمِلْوُوْدَةُ. جائے پناہ۔
 الْمَلْوُوْرُ: گاڑھا دودھ۔ جو بیوسی اور پیر کے درمیان ہو۔ جس کو اہل شام قَرْنِشَةَ کہتے ہیں۔
 لَاؤٌ يَلْوُدُ لَوْدًا. الْيَبِ: پناہ لینا۔ رہائی پانا الشَّیْءِ: کھانا۔
 لَوَزٌ تَلْوِيْزًا. التَّمْرُ: چھوڑے میں بادام بھرتا۔
 اللُّوْزُ: بادام۔ واحده لَوْزَةٌ۔
 اللُّوْزَةُ. حلق میں کوئے کے قریب کا گوشت اور وہ دودھ ہوتے ہیں۔ اللُّوْزَتَانِ: سرین کے دو گڑھے۔ کہا جاتا ہے ”اِنَّهُ لَعَوَزٌ لَوْزٌ“ یعنی وہ محتاج ہے۔ لَوْزٌ تابع ہے۔
 اللُّوْزِيُّ: بادام کی شکل کا۔
 الْمَلَاوَزُ. جائے پناہ۔
 اَرْضٌ مَلَاوَزَةٌ. بادام والی سرزمین۔
 الْمَلْوُوْرُ: بادام سے بھری ہوئی کھجور۔ وَجْهٌ مَلْوُوْرٌ: حسین و بیچ چہرہ۔
 اللُّوْزِيْجُ. ایک قسم کا حلوا۔ لوزینہ۔
 لَاصٌ يَلْوُسُ لَوْسًا. الْحَلَاوَاتُ و غَيْرَهَا: کھانے و غیرہ کیلئے مٹھائی وغیرہ ڈھونڈنا۔ صفت لَاسٌ و لَوُوسٌ و لَوُاسٌ و الْوُوسُ الشَّیْءِ: چکھنا الشَّیْءِ فِی فَمِہِ: منہ میں پھرانا اور کہا جاتا ہے ”هُوَ لَا يَلْوُسُ كَذَا“ وہ اتنا نہیں دیتا۔
 الْمَلْوِاسَةُ. لقمہ۔
 اللُّوْسُ: جمع لَاسٌ (جیسے بَازِلٌ و بَزْلٌ) کھانا۔ کہا جاتا ہے مَا ذُقْتُ لَوُوسًا اَوْ

لَوْسًا یعنی میں نے نہیں چکھا۔
 لَاصٌ يَلْوُسُ لَوْسًا. دروازے کی جھری سے دیکھنا عَنهُ: الگ ہونا۔ بٹنا۔
 لَوُوسٌ تَلْوِوَسًا. خالص شہد خالص۔
 لَاصٌ مَلَاوِصَةٌ. دروازے کی جھری سے دیکھنا الْيَبِ: اس طرح دیکھنا گویا کسی ارادہ سے فریب دے رہا ہے فُلَانًا عَن كَذَا: فریب دینا الشَّجَرَةَ: درخت کو کلباڑی سے کانٹے کے ارادہ سے دائیں بائیں دیکھنا۔
 الْاَلَاصَةُ الْاَلَاصَةُ عَلٰی الشَّیْءِ: گھماتا۔ چکر دینا۔ ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا اَلَصْتُ اَنْ اَخْذَ مِنْهُ شَيْئًا“ میں نے اس سے کچھ لینے کا ارادہ نہیں کیا۔
 اَلْبَيْضُ الرَّجُلِ: کپکپی زدہ ہونا۔
 تَلْوُوسٌ تَلْوِوَسًا. لپٹنا۔ لوٹ پوٹ: دانا۔
 اللُّوُوسُ: سہ۔ کان یا سینہ کا درد۔
 اللُّوَاوِسُ. شہد خالص۔
 اللُّوِصَةُ. پیٹھ کا درد۔
 الْمَلَاوِصُ: چاہلوسی کرنے والا۔ فریبی۔
 لَاطٌ يَلْوُطُ لَوْطًا الْحَوْضُ: حوض کو منی سے لینا الشَّیْءِ بِالشَّیْءِ: پینا یا انسان: مارنا۔ دھکارتا۔ کہا جاتا ہے ”لَاطَ الشَّیْءُ بِقَلْبِیْ“ چیز میرے دل میں جم گئی فُلَانًا بعین: نظر بد کر فُلَانًا بِسَهْمٍ: تیر بد کر فُلَانًا بِفُلَانٍ: لائق کرنا۔ نسبت کر الشَّیْءِ: چھپانا (لَاطًا) فِی الْاَمْرِ: اصرار کرنا لَوْطًا و لَوِاطَةٌ و لَآوِطٌ و تَلْوُوطٌ) انجام کرنا۔
 لَوُطَہُ تَلْوِیْطًا بِالطَّبِیْبِ: خوشبو سے لت پت کرنا۔
 اِنْتَاطَةُ الْبِنَايَا و اِسْتَاطَةُ: سبستلاطہ منہ بولا بیٹا بنانا۔
 اِنْتَاطٌ حَوْضًا: اپنے لیے حوض میں مٹی نگانا۔ کہا جاتا ہے ”اِنْتَاطٌ بِقَلْبِیْ“ یعنی میرے دل میں جم گیا۔
 الْبِنَاطُ. سود۔ بیاج۔
 اللُّوْطُ. مص۔ چادر۔ پھر تیل مرد۔ سود۔
 چپکنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے ”اِنِّیْ لَا جِدَّ لَہُ فِی“

قَلْبِي لَوْطًا“ میں اپنے دل میں اس کی پیوست
محبت کو محسوس کرتا ہوں۔

الْأَلْوَطُ اسم تفضيل۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ
الْوَطُّ بِقَلْبِي“ وہ میرے دل کے ساتھ زیادہ
چسپاں ہے۔

المستلطا. منہ بولا بیٹا۔
لَاظَةً يَلُوظُهُ لَوْطًا. بمعنى لَاطَةً.
التَّاطَبُ الْحَاجَةُ. دشوار ہونا۔

المَلُوْطُ چچی یا کوڑا۔

لَاغَهُ يَلُوغُهُ لَوْغًا. الحُبُّ: پیار کر دینا۔

لَاغَتِ الشَّمْسُ فَلَانًا. رنگ بدل دینا
(لَوْغًا و لَوْغًا) الرَّجُلُ: بزدل یا لاپٹی اور

بد اخلاق ہونا۔

لَاغَ يَلُوغُ و يَلَاغُ لَوْغَةً. گھبراتا۔ شگدل
ہونا۔ پامریض ہونا۔ غم یا عشق سے دل جلنا۔

لَوْغَةً تَلْوِيغًا. الحُبُّ: پیار کر دینا۔ عوام
کہتے ہیں ”لَوْغٌ فَلَانًا“ یعنی عذاب دینا۔

الْأَعْتَةُ الْإِلَاعَةُ الشَّمْسُ: رنگ بدل دینا۔
التَّدْيُ: پستان کے سرے کا کالا اور متغیر

ہونا۔

التَّاعُ الْبِيَاعَا قَلْبُهُ: دل کا غم یا عشق سے
جل اٹھنا۔ کہا جاتا ہے ”رُجُلٌ هَانِعٌ لَانِعٌ

و هَانِعٌ و لَانِعٌ یعنی بزدل اور خائف اور مؤنث
کے لیے ”هَانِعَةٌ لَانِعَةٌ“

اللاع. خائف یا بزدل۔ مریض۔ ج لاغون
و لَاعَةٌ و الْوَاغُ.

اللاعاة اللاع کا مؤنث۔ تیز خاطر۔ ج
لَاعَاتُ.

اللَّوْغَةُ: لَاعٌ کا اسم مرؤ۔ غم یا عشق و محبت
کی جلن۔ کہا جاتا ہے ”فِي قَلْبِهِ لَوْغَةٌ“ اس

کے دل میں سوز ہے۔ پستان کے سرے
کی سیاہی۔

لَاغٌ يَلُوغُ لَوْغًا الطَّعَامُ: کھانا یا چنانا۔
لَاغَتِ الدَّابَّةُ الْكَلَا: چوپایہ کا سوکھی گھاس

کھانا۔

اللُّوفُ: سر من الكلا او الطعام: غیر
مرغوب گھاس یا کھانا۔

اللُّوفُ. ایک قسم کا پودہ ہے جس کی جڑ میں
جنگلی پیاز کی طرح نکلتا ہے۔ واحد لَوْفَةٌ.

اللُّوْفِيُّ. ایک قسم کی نباتات ہے جو پرانے
اسہال کے لیے مجرب ہے۔

اللِّيفُ. خشک گھاس۔ (اصل اس کی لِيُوفُ
ہے)

اللُّوْفَةُ. بلیتھن۔

اللُّوْفُ. شطرنجی ساز۔ کہا جاتا ہے كَلَّأُ
مَلُوفٌ. بارش سے تر گھاس۔

لَاغَهُ يَلُوغُهُ لَوْغًا نرم کرنا۔ لَاقَ عَيْنَهُ: آنکھ
پر بارنا الدَّوَاةُ: دوات میں روشنائی درست

کرنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ لَا يَلُوغُ عِنْدَكَ“ وہ
تمہارے پاس نہیں ٹھہرتا ہے۔

لَوْقٌ تَلْوِيغًا. الطَّعَامُ: کھنی یا کھن سے تیار
کرنا۔

اللُّوْقُ. نرم کی ہوئی چیز۔

اللُّوْقُ. بیوتونی۔

اللُّوْفَةُ: لَاقٌ کا اسم مرؤ۔ وقت۔ کہا جاتا ہے
”ذَهَبَ فَلَانٌ لَوْفَةً“ فلاں اسی وقت گیا۔ کہا

جاتا ہے مَا ذَاقَ لَوْفًا اس نے کچھ نہیں
چکھا۔

اللُّوْفَةُ بِأَلَا لَوْفَةً. کھن۔

الْأَلْوُقُ. بیوتوف۔

المَلُوْقُ. دوا فروش کا بچہ۔ (مولدۃ)

لَاك يَلُوْكُ لَوْكًا اللَّقْمَةُ لقمہ کو آہستہ چپانا
اور منہ میں پھرانا الْقُرْسُ اللِّجَامُ: چپانا اور

کاٹنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَلُوْكُ أَعْرَاضَ
النَّاسِ“ وہ لوگوں کی عیب گیری کرتا ہے

وَالْكَنْيُ إِلَى فَلَانٍ مِيرَايِحَامُ فلاں کو پہنچا
دو۔

اللُّوَاكُ چپانے کی چیز۔ کہا جاتا ہے ”مَا ذَاقَ
لَوْاَكًا“

اللُّوْلَاءُ: سختی و تکلیف۔ کہا جاتا ہے وَقَعَ فِي
الزُّلْيَاءِ وہ سختی میں پڑا۔

لَوْلَا. حرف تخصیص و تہدیم ہے۔ تین
طریقوں سے مستعمل ہے۔

(۱) دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جس میں پہلا

جملہ اسمیہ اور دوسرا فعلیہ ہوتا ہے اور اول کے
وجود سے اتفاق ثانی پر دلالت کرتا ہے جیسے

”لَوْلَا زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُكَ“ اگر زید موجود نہ
ہوتا تو میں تیرا اکرام کرتا۔ اور جب لَوْلَا کے

بعد ضمیر واقع ہو تو ضمیر مرفوع ہونا چاہئے جیسے
”لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ“

اور لَوْلَايَ لَوْلَاكَ لَوْلَاهُ بہت کم سنا گیا
ہے۔

(۲) اور تخصیص اور عرض کے لیے اس
صورت میں مضارع کے ساتھ خاص ہے

چاہے حقیقتاً ہو یا تاویلا ”جیسے“ ”لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ“ کیوں تم اللہ سے استغفار

نہیں کرتے۔ اور ”لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ“

(۳) تویح اور تہدیم کیلئے۔ اس صورت میں
ماضی کے ساتھ خاص ہے جیسے ”لَوْلَا جَاءَ وَآ

عَلَيْهِ بَارِبَعَةَ شَهَدَاءَ“ اور اصل لولاء کی کو
ہے جو لا کے ساتھ مرکب ہے اور اس کیلئے

جواب کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے جواب
میں لام اکثر آتا ہے مگر جبکہ منفی بلکہ ہو تو لام

کا داخل ہونا مستحب ہے۔
اللُّوْلُبُ. دیکھو مادہ ”لُوبُ“

لَوْلِي لَوْلَاةٌ. پشت پھیرنا۔ کہا جاتا ہے
”لَوْلَا مُذْبِرًا“.

لَا مَهُ يَلُوْمُهُ لَوْمًا و مَلَامًا و مَلَامَةٌ فِي
كَذَا و عَلَى كَذَا: ملامت کرنا۔ صفت

فاعل۔ لَائِمٌ و صفت مفعولی مَلُومٌ و مَلِيْمٌ.
لَيْمٌ بِهِ: کاٹنا جانا۔

لَوْمًا تَلْوِيْمًا. ملامت کرنا۔ تشدید مبالغہ کے
لئے ہے۔ لَوْمٌ لَامًا: حرف لام لکھنا۔

لَاوْمَهُ مَلَاوْمَةٌ و لَوَامًا. ایک دوسرے کو
ملامت کرنا۔

الْأَمَةُ الْإِلَامَةُ. ملامت کرنا۔ صفت فاعل مَلِيْمٌ
اور صفت مفعولی مَلَامٌ اور اسم الملامة۔ ج

مَلَاوِمٌ. الْآمُ الرَّجُلُ: مستحق ملامت فعل
کرنا۔
تَلَوَّمٌ تَلْوَمًا فِي الْأَمْرِ: انتظار کرنا۔ دیر کرنا۔

تَلَاوُمُوا. بعض کا بعض کو ملامت کرنا۔

الْتِمَامُ التَّيْمَانَا. ملامت قبول کرنا۔

اِسْتِلَامٌ اِسْتِلَامًا. مستحق ملامت ہونا۔

الْحِيَاةُ صَيْفِيَّةٌ: اچھا سلوک نہ کرنا اِلَيْهِمْ: ایسا فعل کرنا جس پر لوگ ملامت کریں۔

الْلَّائِمُ: فاعل لُؤْمٍ و لُؤَامٍ و لَيْمٍ.

الْلَّائِمَةُ: لائِمٌ کا مؤنث۔ ملامت۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَحَقَّ اللَّائِمَةَ" مستحق ملامت ہے۔

ح لُؤْمٍ.

الْلَّؤْمُ: خوف۔ وجود۔ نزدیکی۔ ہر چیز کا سخت۔

حرف لام۔ ح لامات۔

الْلُؤْمُ: من ملامت۔ خوف۔

الْلُؤْمُ: لوم کا تخفیف شدہ۔

الْلُؤْمُ: بہت ملامت۔

الْلُؤْمِيُّ و اللُّؤْمَاءُ: ملامت۔

الْلَامَةُ: خوف۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِلَامَةٍ" قابل ملامت فعل کیا۔

الْلُؤْمَةُ: لَامٌ کا اسم مرثہ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِلُؤْمِيَّةٍ" ایسا کام کرنا جس پر ملامت کی جائے۔

الْلُؤْمَةُ: جس کو لوگ ملامت کریں۔ انتظار۔

کہا جاتا ہے "لِي فِيهِ لُؤْمَةٌ" مجھے اس کا انتظار ہے۔

الْلُؤْمَةُ: جو لوگوں کو بہت ملامت کرے۔

الْلُؤَامُ و اللُّؤَامَةُ: بہت ملامت کرنے والا۔

"النَّفْسُ اللُّؤَامَةُ" وہ نفس جو کسی غلطی کے ارتکاب پر ملامت کرے۔

الْلَامِيُّ: لام کی جانب منسوب۔

لَامِيَّةُ الْعَجْمِ: ظفرانی کا قصیدہ لایمیہ۔

لَامِيَّةُ الْعَرَبِ: شہری کا قصیدہ لایمیہ۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ الْوَمُّ مِنْ فُلَانٍ" تو فلاں سے زیادہ قابل ملامت ہے۔

الْمُتْلَمُّ: فاعل لُؤْمٍ سے قابل ملامت حاجت پوری کرنے کا منتظر۔

لُؤْنٌ تَلَوْنًا الشَّيْءُ: رنگین کرنا اِلْسُورُ: چنگلی کا اثر ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "لُؤْنٌ الشَّيْءِ فِيهِ" بالوں میں سفیدی ظاہر ہوئی۔

تَلَوْنُ الشَّيْءِ: رنگین ہونا۔ مختلف رنگ کا ہونا۔

الرَّجُلُ: متلون مزاج ہونا۔

الرُّؤْيُ الْوِنَانَا: بمعنى تَلَوْنٌ.

الرُّؤْيُ: جو ایک چیز کو دوسرے سے ممتاز کر دے۔ رنگ۔ ح اَلْوَانِ.

الرُّؤْيُ: قسم۔ کہا جاتا ہے "عِنْدَهُ لُؤْيٌ مِنَ النَّيَابِ" اس کے پاس کپڑے کی ایک قسم ہے۔

"وَتَنَاوَلُ كَذَا وَكَذَا لُؤْنًا مِنَ الطَّعَامِ" اس نے فلاں فلاں قسم کے کھانے کھائے۔ اور کہا جاتا ہے "اتَّيْتُ بِالْوَانِ مِنَ الْحَدِيثِ" اس نے مختلف قسم کی باتیں کیں۔

التَّلَوْنُ: من تَلَوَّ اور تَلَذَّذَ کیلئے مختلف قسم کے کھانے پیش کرنا۔ کلام میں ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کو اختیار کرنا۔

الْمُتَلَوْنُ: فاعل جو ایک حالت و کیفیت پر قائم نہ رہے۔

لَاةٌ يَلُؤُهُ لُؤْهَا و لُؤْهَانَا و تَلُؤُهُ السَّرَابُ: چمکنا۔

اللَّاهَةُ: سانپ۔

لُؤُهُ السَّرَابِ و لُؤْهُنَّ و لُؤْهُنَّ: سراب کی چمک۔

لُؤَاهُ (وَأَوِيَّةُ الْعَيْنِ وَاللَّهِ) يَلُؤِيهِ لُؤِيًا و لُؤِيًا و لُؤِيَانَا و لُؤِيَانَا دِينَهُ و بَدَنِيهِ: قرض میں ٹال منول کرنا فُلَانًا بِحَقِّهِ: حق کا انکار کرنا۔

لُؤِيٌ يَلُؤِي لُؤِيًا الْقِدْحُ او الرَّمْلُ: تیریا ریت کا ٹیزھا ہونا اَلنَّبْتُ: نباتات کا خشک ہونا

الْمِعْدَةُ او الطَّهْرُ: معدہ کارروالا ہونا۔ پیٹھ کا خمیدہ ہونا۔ صفت مذکر لُؤِيٌ۔ صفت مؤنث لُؤِيَةٌ۔ لُؤِيْتُ لُؤِيٌ: الْحَيَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔

لَاوْتُ مَلَاوَةٌ و لُؤَاءُ: الْحَيَّةُ الْحَيَّةُ: سانپ کا سانپ پر پلٹنا۔

الْوِي الْوِيَاءُ الْقَوْمُ: ریت کے موڑ پر پہنچنا۔ الرَّجُلُ: خشک کھیتی والا ہونا۔ دوسرے کیلئے جو کھانا چھپا کر رکھا ہو اس کو کھانا۔ امیر کے

جھنڈے کو سینا اَلْأَمِيرُ لَهُ لُؤَاءُ: امیر کا کسی کیلئے جھنڈا نصب کرنا اَلْبَقْلُ: سبزی کا مر جھانا

فُلَانٌ: بہت تمنا کرنا بِيَدِهِ او بِقُوْبِهِ: ہاتھ یا

کپڑے سے اشارہ کرنا یہ: لے جانا بِحَقِّ فُلَانٍ: حق کا انکار کرنا بِمَا فِي الْإِنَاءِ: اپنے لیے خاص کرنا بِهَمِ الدَّهْرُ: ہلاک کرنا بِكَلَامِهِ: کلام میں تبدیلی کرنا اَلنَّبْتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ فُلَانٌ اللُّؤَاءُ: بلند کرنا اور نصب کرنا۔

تَلَوَّى تَلَوِيًا الشَّيْءُ: مڑنا اَلْبَرْقُ فِي السَّحَابِ: بجلی کا بادل میں پر اگندہ چمکنا۔

تَلَاوَزًا و تَلَاوِيًا عَلَي فُلَانٍ: بیچ ہونا۔ و تَلَاوِيًا اِوَدُوسَرُ: پر پلٹنا۔

اَلتَّوِي اَلتَّوِيَاءُ الْقِدْحُ او الرَّمْلُ: تیریا ریت کا ٹیزھا ہونا عَلَيهِ الْاَمْرُ: دشوار ہونا

الشَّيْءُ: مڑنا لُؤِيَةٌ: دوسرے کے لیے کھانا چھپا کر رکھنا۔

اِسْتَلُوِي بِهَمِ الدَّهْرُ: ہلاک کرنا۔

الْلُؤُوْنُ و اللُّؤُوْرُ: اَلذَّيْنِ كِي جَمْعِ اَللَّؤِيِ: اسم فاعل۔ ح لَاوُوْنٌ و لُؤَاءُ.

اللاوِي لادى بن يعقوب بن الحق بن ابراهيم عليهم السلام کی جانب منسوب۔

سَفَرُ اللَّاوِيِيْنِ: موجودہ بائبل کی کتابوں میں سے ایک کتاب۔

اَللُّؤَاءُ: فوج کا ایک عہدہ جو جزل کے مساوی ہوتا ہے۔ جماعت کا قائد۔ شہروں میں سے ایک حصہ کا نام۔ خاص کنتی شدہ لشکر۔ اسی لئے امیر اللؤاء کا لفظ فوجی عہد کے لئے بولا جاتا ہے۔

اللُّؤَاءُ: جھنڈا۔ اور یہ روایت سے چھوٹا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لُؤَاءُ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بڑے ہونے کی وجہ سے موڑ کے رکھا جاتا ہے اور ضرورت ہی کے وقت کھولا جاتا ہے۔ ح اَلْوِيَّةُ و اَلْوِيَاتُ: کہا جاتا ہے بَعَثُوا بِالسَّوَاءِ و اللُّؤَاءِ.

اللُّؤِي: من معدہ کاررو۔ پشت کی کچی۔

اللُّؤِي: بمعنى اللانسي مع الاني.

اللُّؤِي: باطل باتیں۔

اللُّؤِي: ریت کا موڑ۔ یاریت کی تنگ جگہ ح اَلْوَاءُ و اَلْوِيَّةُ.

الاولواء، وادی کے موڑ۔ مملکت کے اطراف۔
 اللوآء ایک پرندہ۔
 اللیاء مؤنث الومنیانی سے دور جگہ۔
 اللوآیاء ایک قسم کی گھاس درغ کرنے کا آلہ۔
 اللوآہ بد صورتی۔
 اللوآہ واللیآہ جود جس کی دھونی دی جائے۔
 اللیقر، تین۔
 اللآث زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔
 اللوئی خشک گھاس۔ مرجھائی ہوئی گھاس۔
 اللوئی ایک درخت کا نام۔
 اللوئیۃ دوسرے کیلئے چھپا کر رکھا ہوا کھانا ج لوایا۔
 الالوی، سخت جھڑالو۔ سخت جنگجو۔ تہا۔
 گوشہ نشین۔ مؤنث لیاء۔ الالوی میں الطریق، دور کا غیر معروف راستہ۔ ٹیڑھا سینگ۔
 خلقنا مؤوی ہوئی دم۔ ج لئی بالصم اور قیاس کے مطابق لئی کسرہ یاہ کی مناسبت سے ہونا چاہئے۔ کہا جاتا ہے رَمَاهُ اللہ یاخوی الومنی خدا اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کرے۔
 لوی (وَاوِيَّةُ الْعَيْنِ يَابِيهِ اللَّامُ) يَلْوِي لِيًا و لَوِيًا و لَوِيًا الْحَبْلُ نَزِي بُنَا۔ مؤنث الغلام لڑکے کا بیس سال کا ہونا عَنِ الْأَمْرِ: سستی کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَوْتُ اللَّيَالِي كَفَّهُ عَلَى الْعَصَا" یعنی بوڑھا بنا دیا (لِيًا و لِيَانًا) أَمْرًا عَنِي بِوَشِيدِهِ رَكْنَا سِرَّةً مَجْهَاتَا الْحَزُونُ قَلْبُهُ بِمِيرِدِيَا عَلَيْهِ مَزَانِيَا نِيَا نْتَظَارُ كَرْنَا۔ کہا جاتا ہے "مَرَّ لَا يَلْوِي عَلَى أَحَدٍ" وہ اس حال میں گزرا کہ نہ تو ٹھہرتا ہے نہ انتظار کرتا ہے۔ رَاسَهُ أَوْ بَرَأْسِهِ بِمِيرِنَا عَرَاضُ كَرْنَا۔ لَوْتُ النَّاقَةَ بَدْنِيهَا حَرَكْتُ دِيَا فَلَانًا غَلِي فَلَان: فضیلت دینا۔ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَلْوِي ظَهْرَهُ" جبکہ شدت بیان کرنی مقصود ہو۔
 لَوِي تَلْوِيَةً عَلَيْهِ الْأَمْرُ ذُشَارُ كَرْنَا۔ کہا


جاتا ہے "لَوِي أَعْنَاقُ الرَّجَالِ بَعْنِي ان کے اوپر غالب آگیا۔
 أَلْوِي الْوَاءُ. بِرَأْسِهِ بِمِيرِنَا۔ الْوَتِ النَّاقَةُ بَدْنِيهَا مَلَانَا۔
 تَلْوِي تَلْوِيًا و التَوِي الْوَاءُ الْحَبْلُ: رسی کا بنا جانا۔
 تَلَوْتُ الْحِيَةَ لَدَلِي مَارْنَا۔
 التَوِي. الْأَمْرُ ذُشَارُ هَوْنَا عَنِ الْأَمْرِ: سستی کرنا۔
 المَلَاوِي مَرَّ هُوَ رَأْسُهُ۔ کہا جاتا ہے "سَلَكُوا الْمَلَادِي" مُتَلَوِي. الْوَادِي دَاوِي كَا مَوْزُ۔
 اللَّيَّةُ. لَوَكَا اسمرتہ۔ ج لَوِي. أَلِيَاثُ الْيَاءُ. النَّاقَةُ نَوْنِي كَا سْتِ جَلْنَا۔
 لَاتَهُ يَلِيْتُهُ لِيْنَا. عَنِ كَذَّارُ كَرْنَا۔ پھیرنا۔
 لَاتَ زَيْدًا حَقَّهُ جَن كَا گھٹانا۔
 الْآتَهُ الْآتَهُ. عَنِ كَذَّارُ كَرْنَا۔ پھیرنا۔ کہا جاتا ہے "مَّا الْآتَهُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا" اس نے اس کے عمل میں کچھ نہیں کیا۔
 الْبَلِيْتُ. كَنَارُهُ كَرْنَا۔ مُشْتَى لِيْتَانِ ج أَلِيَاثُ لَاتَ دِكْهَو. لَاتَ لِيْتُ جَرَفُ جَمِي هُوَ۔ مستحیل پر اکثر آتا ہے جیسے لِيْتُ الشَّبَابُ يَغُوْخَشُ جَوَانِي لَوْتِي۔ اور ممکن پر کم جیسے لِيْتُ الْعَلِيلُ يَصْحُ كَاشَ بِيْمَارِهِ تَدْرُسُ هُو تَاوِيَا اسْمُ كُوْصَبُ لَوْرُ حَمْرُ كُوْرَفِجُ دِيْتَا هُوَ اور لِيْتُ كُ سَا تَهْ مَاتَصَلُ هُو تَا هُو۔ مگر پھر بھی اسما ہی پر داخل ہوتا ہے اسی وجہ سے لیتما تام زید لہنا جائز نہیں اور اس وقت عمل و ابطال عمل دونوں جائز ہیں عمل تو اختصاص بالاسماء کی وجہ سے اور ابطال عمل دوسرے حروف مشبہ بالفعل پر حمل کی وجہ سے۔ اور جب لیت کے ساتھ یا سٹکم متصل ہو تو لیتنی و لیتنی دونوں کہا جاتا ہے۔ مگر لیتی نادر ہے۔
 لِيْتُ تَلِيْتًا و لِيْتُ و تَلِيْتُ تَلِيْتًا الرَّجُلُ شِيْرُ جِيْسَا هُوْنَا۔

لَايْتُهُ مُلَايْتُهُ شِيْرُ جِيْسَا مَاعَلَا كَرْنَا۔ شِيْرُ كِي مَفْتِ مِيْنُ فُخْرُ كَرْنَا۔
 اسْتَلِيْتُ شِيْرُ جِيْسَا هُوْنَا۔
 اللَّائِيْتُ شِيْرُ۔
 اللَّيْتُ شِيْرُ۔ اِيْكُ قَسْمُ كِي كُرْزِي۔ قَوْتُ و شَدْتُ زَبَانُ آوْرُ بَلِيْجُ۔ ج لِيُوْتُ و مَلِيْتُهُ۔
 اللَّيْتَةُ شِيْرُنِي۔ مَضْبُوْطُ اَوْ نَعْنِي۔ ج لِيْنَاثُ۔
 الْاَلِيَاثُ بِيْهَارُ۔ مَوْنُثُ لِيْنَاثُ ج لِيْسُورُ كِيَا جَا تَا هُوَ "هُوَ الْيَاثُ اَصْحَابُهُ" وہ اپنے ساتھیوں میں زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔
 الْمَلِيْتُ مَضْبُوْطُ قَوِي۔
 الْمَلِيْتُ مَوْنَا۔ خَوَارُ وَ دَلِيْلُ۔
 اللَّيَاذُ تَهْوُزِي جِيْرُ۔ كِيَا جَا تَا هُوَ "مَّا تَوَشَّكْتُ لَهُ لِيَاذًا" میں نے اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔
 لَا زِيْلِيُو لِيْرًا. الرَّجُلُ نِيَاهُ لِيْنَا۔
 الْمَلِيْنُ جَا تَا هُوَ۔
 لِيْسُ يَلِيْسُ لِيْسَا الرَّجُلُ زِيْرُ و بِيْهَارُ هُوْنَا عَنُهُ تَا قَلُ هُوْنَا۔
 لِيْسُ مُخْتَلَفُ طَرِيْقَةُ سَمْتِ هُوَ۔
 (۱) نَمِي حَالُ كِيْلُهُ. اور قَرِيْبُهُ سَمْتِ حَالُ كِي عِلَاوَهُ كِي بِيْحِي نَمِي كَرْتَا هُوَ جِيْسَ "لِيْسُ خَلَقَ اللّٰهُ مِغْلَةً" اور یہ ایسا فعل ہے جس کی گردان نہیں آتی۔ اس کا وزن فعل ہے مگر میں کلمہ کو تخفیفاً ساکن کر دیا گیا ہے اور یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے جیسے "لِيْسُ زَيْدٌ قَائِمًا" اور اس کی خبر کا اس کے اوپر مقدم کرنا جائز نہیں اور کبھی اس کے ذریعہ سے استثناء کیا جاتا ہے جیسے "جَاءَ نِي الْقَوْمِ لِيْسُ زَيْدًا" اس صورت میں اسم ضمیر مستتر ہے اور جو اسم کے بعد میں واقع ہے وہ بنا بر خبریت کے منصوب ہے۔
 (۲) یہ کہ خبر مع الا کے ہو جیسے لِيْسُ الطَّيْبُ اِلَّا الْمَسْكُ۔
 (۳) یہ کہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو یا مبتدا و خبر پر کہ دونوں مرفوع ہوں اور اس صورت میں اسم ضمیر شان ہوگی اور جو جملہ کے بعد میں واقع

لَيْلٌ لَا تَلِي لَيْلِي كَالِي رَاتٍ - مینے کی کالی رات۔
 اللیل رات (مذکر مؤنث) ج اللیالی یا
 کی زیادتی کے ساتھ خلاف قیاس۔ اور لیا لیل
 بھی کہا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ لیل واحد
 معنی میں جمع کے ہے اور اس کا واحد لیلہ ہے
 جیسے تَمَرٌ وَ تَمَرَةٌ اور کہا گیا ہے کہ لیل مثل
 لیلتے جیسے کہ عَشِيٌّ وَ عَشِيَةٌ فرق یہ
 ہے کہ لیل نہار کے مقابل ہے اور لیلہ یوم
 کے۔
 اللیلی لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو
 رات کو چلنا پسند کرے۔
 لَيْلِي الخمر شراب کا اٹھنا۔ اُمُّ لَيْلِي کالی
 شراب۔
 لَيْلَةٌ لَيْلَاءٌ وَ لَيْلِي بخت کالی طویل رات
 جیسے لَيْلٌ لَا تَلِي لَيْلِي
 اللیلہ رات یا لیل کا واحد۔ ج لَيْلَاتُ
 لَيْلٌ أَلِيلٌ وَ مُلَيْلٌ بخت کالی طویل رات
 مانند لَيْلٌ لَا تَلِي لَيْلِي
 اللیم صلح۔ شکل و صورت میں مشابہ۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ لَيْمُهُ" وہ اس کے شکل و
 صورت میں مشابہ ہے۔
 اللیْمُونُ یوم (دخیل)
 لِانَ یَلینُ لَینًا وَ لَینًا وَ لَینَةٌ نرم ہونا۔
 صفت لَینٌ وَ لَینٌ اور اسم اللیان بمعنی
 نرمی۔
 لَینُ الشَّیْءِ تَلینًا وَ لِانَهُ لِانَةٌ وَ الْبَینَةُ
 لِیَانًا نرم کرنا۔ کہا جاتا ہے لِانٌ لِلْقَوْمِ
 - جَنَاحَهُ اس نے قوم سے نرم برتاؤ کیا۔
 لِانَةٌ مَلانَةٌ وَ لِیَانًا نرمی کرنا۔ نرم برتاؤ
 کرنا۔ مدہنت کرنا۔
 تَلَینُ الشَّیْءِ تَلینًا نرم ہونا لِفلانٍ خاپلوسی
 کرنا۔
 اِسْتَلانٌ اِسْتِیلانَةٌ الشَّیْءِ نرم سمجھنا۔ نرم
 پانا۔
 اللیان بن۔ آسودہ زندگی۔ کہا جاتا ہے "وَ
 فِی لَیانٍ مِنَ الْعَیشِ" وہ آسودہ زندگی اور ناز
 و نعمت میں ہے۔
 اللَین نرم۔ ج لَینونٌ اور اتباع کی بنا پر کہا

جاتا ہے رَجُلٌ هَینٌ لَینٌ
 اللَین بن۔ عجمہ مجبور کے علاوہ ہر ایک قسم کی
 کھجور کا درخت واحد لَینَةٌ۔
 اللَینَةُ لَینٌ کا مؤنث۔ لان کا اسم مرۃ۔ نکلیے
 اور اس کو نرمی کی بنا پر لَینتے ہیں۔
 اللَینَةُ بن۔ لان کا اسم نوع۔ کمزوری۔ ڈھیلا
 پن۔
 اللَیانَةُ نرمی۔
 اللَین نرم۔ ج لَینونٌ وَ اَلِیْناءُ۔
 الالین نرم۔ ج الالین بہت نرم۔
 المَلینَةُ نرمی۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهٗ کَلَّ
 مَلینَةً" وہ نرمی و مہربانی والا ہے۔
 المَلین من الاذویۃ قبض کشادہ۔
 المَلنوقِرُ وَ النَبَلوقِرُ کنول کا پھول۔
 لَاهٌ یَلینہ لَیْها چھینا۔ بلند ہونا۔
 المَیوانُ ایوان۔ محل جو کشادہ ہو اور تین
 اطراف سے گھرا ہو۔
 اللیاءُ یائِیۃُ العَینِ وَ اللامِ ایک قسم کا
 سفید غلہ (و اللیاءُ پانی سے دور جگہ۔



م : المیم: بنیادی حروف میں سے چوبیسواں حرف۔ یہ حروف شغوی سے ہے۔

م۔ حرف ہے جو جمع ذکور پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے ”ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ“ اور کبھی حرف قسم ہوتا ہے اور لفظ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے ”مَا لِلَّهِ لَا فَعْلَنَ“ اور کبھی حرف جر کے بعد استفہام ہوتا ہے جیسے ”بِمِمْ وَعَلَامٌ“ کیوں؟ اور اصل میں یہ ما استفہامیہ ہے جس میں سے الف محذوف ہے اور میم کی حرکت فتح کی پاتی رہ گئی۔

ما۔ دو قسمیں ہیں۔ حرفیہ واسمیہ۔

حرفیہ کی چند قسمیں ہیں۔

(۱) نافیہ۔ جیسے ”مَا هَذَا بَشَرًا“

(۲) زائدہ۔ جیسے ”فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ“

(۳) کافہ۔ جیسے ”كَانَمَا يُسَافِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ“

(۴) مصدریہ جیسے ”وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ“

(۵) مصدریہ ظریفیہ جیسے ”وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا“

اسمیہ کی قسمیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) استفہامیہ۔ اور اس سے غیر ذوی العقول کے متعلق سوال ہوتا ہے جیسے ”مَا عِنْدَكَ“

تمہارے پاس کیا ہے۔ اور ذوی العقول کی صفات کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے جیسے

”مَا زَيْدٌ“ اس کے جواب میں مثلاً عاقل یا احمق کہا جائے گا۔

اور جب اس پر حرف جار داخل ہو تو الف محذوف ہوتا ہے اور فتح میم پر باقی رہتا ہے جیسے بَمِمْ و عَلَامٌ اور کبھی میم ساکن کیا جاتا ہے۔

(۲) موصولہ جیسے ”مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ“

(۳) وہ جو جزا کے لیے ہو جیسے ”مَا يَفْعَلُ الْفَاعِلُ“

(۴) وہ جو تعجب کیلئے ہو جیسے ”مَا أَحْسَنَ زَيْدًا“

(۵) وہ جو فعل کے ساتھ مصدر کی تاویل میں ہو جائے جیسے ”بَلَغْنِي مَا صَعَتُ“

(۶) وہ جو نکرہ ہو اور اس کیلئے صفت لازم ہے جیسے ”مَرَزَتْ بِمَا مَفْعَبٌ لَكَ“

(۷) وہ جو ابہام کیلئے ہو جیسے ”أَعْطِنِي كِتَابًا مَا“ یعنی کوئی کتاب مجھے دو۔ ”جَاءَ لِأَمْرِ مَا“

کسی کام کیلئے آیا۔ اس کا نام ابہامیہ ہے۔ اور ”غَسَلْتُهُ غَسْلًا نِعْمًا“ کی تقدیر غَسَلْتُهُ نِعْمَ الْغَسْلِ ہے۔

الماہیۃ من الأمر او الشیء: حقیقت طبیعت توام شی یا ہر وہ چیز جو ماہو کے جواب میں واقع ہو۔

الماء۔ دیکھئے موہ۔

مَوْجٌ (ک) مَوْجَةٌ۔ بیوقوف ہونا۔

الماء: پانی کا کرواؤ کھاری ہونا۔

الماج: بیوقوف۔ مضطرب۔ اضطراب۔ کڑوا کھاری پانی۔

مَادٌ (ف) مَاذًا. النَّبَاتُ او الشَّجَرُ: نباتات کا لہلہانا۔ تروتازہ ہونا۔ جڑ میں پانی بہتا ہو ہونا۔ نرم و نازک ہونا۔

أَمَادُ الرَّحَى النَّبَاتُ: نباتات کو تروتازہ کرنا۔ اَمْتَادُ الْخَيْرِ: بھلائی حاصل کرنا۔

المَادُّ والمَمُودُّ. تروتازہ و نرم و نازک۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ او غُصْنٌ مَادٌّ و يَمُودُّ و جَارِيَةٌ مَادَّةٌ و يَمُودُّ و يَمُودَّةٌ“

نرم و نازک (مرد یا شاخ یا لالی)۔

المثيبد. نازک۔ ناز پروردہ۔

مَارٌ (ف) مَارًا السِّقَاءُ: وسیع کرنا بین القوم: فساد کرنا۔ فساد پر آسمانا۔

مِنْرٌ (س) مَارًا الجُرْحُ: زخم کا خراب ہونا اور سوجنا علی فلان: دشمنی سوجنا۔

امتار علی فلان: کینہ کرنا۔

ماء زه مَنَارًا و مَمَاءَ رَهَةً. مفاخرت کرنا۔

هَ فِي فِعْلِهِ: برابری کرنا۔ ماء رَبِيْنِ القوم: فساد الندا۔ فساد پر آسمانا۔

تَمَاءَ رَتَمًا و رَا. ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

المَمِيْرُ مِنَ الْأُمُوْر: سخت و دشوار (والممير) فساد انگیز۔

المَمِيْرَةُ. عداوت۔ چغل خوری۔ ج مینر۔ اَمْرٌ مَمِيْرٌ. سخت۔

مَأْسٌ (ف) مَأْسًا عَلَيْهِ. غضبناک ہونا۔ بِيْنِ القوم: فساد انگیزی کرنا الدَبَاغُ

الجلد بزم ساز کھال کھال کھال کھال کھال (و مینس)
(س) مآسا المصح زخم کا کشادہ ہونا۔
المآس۔ وہ شخص جو کسی کی نصیحت قبول نہ کرے۔

المائیس والمآس والمؤوس
والمماس والمماس۔ چغل خور۔ فساد
انگیز۔

مآشرف) مآشا عنه بگداؤں کو فروغ کرنا۔
ہٹانا مآش المطر الأرض سیراب کرنا۔
مطرو مینش کہتے ہیں۔

مئق (س) مآقا الصبی سسکی لینا۔ صفت
مئق الرجل شدت غیظ سے رو نیلکانا۔
مآقا۔ سسکی لینا۔

مآتاق۔ سسکی لینا غصبہ۔ سخت غضبناک
ہونا الی بالکفاء ذوالناس ہونا۔

المآق والمؤق والمؤقج آماق و
مآق و مواق و مآق و الموقی
والموقی والمآقی ج مآق ناک کی
طرف کا گوشہ چشم۔ المؤق والمؤق من
الأرض زمین کے پست کنارے۔ ج آمان۔
المآق زیادتی گریہ۔

المآقة شرم و عار سے کراہت۔ شدت
غضب۔ حمیت۔

المیق۔ جلدی رو پڑنے والا۔ اور اسی سے
مثل ہے۔ ”أنا تيق وانت ميق“ دو مختلف
مزاج لوگوں پر بولی جاتی ہے اس لیے کہ تيق
جلدی سے شرارت کرنے والے کو اور ميق
جلدی سے روئے والے کو کہتے ہیں۔

المآقه۔ سسکی۔ گریہ و زاری کرنا۔
المواقی۔ ناک کی طرف کے آنکھ کے
گوشے واحد۔ مآقی۔

مآل و مئیل (ف س) و مؤل (ک)
مؤولة و مآلة۔ مونا ہونا۔ صفت مئیل و
مآل۔ کہا جاتا ہے ”جاءه أمر ما مال له
مآلا“ اس پر ایسا معاملہ آچرا جس کیلئے وہ تیار
نہیں تھا اور نہ اس کو اس کا علم تھا۔
المآل۔ جائے پناہ۔

المآلة باع۔ بچی۔ ج مئال۔
الممئیل لمبا سیدھا مرد۔

المآلج کرنی۔ کھگل کرنے کا آلہ ج مآلج
(دخیل) اس کیلئے فصیح عربی المسیعة ہے۔

مآمات مآمأة۔ الشاة او الطيبة بکری یا
ہرن کا میانا۔

مآن (ف) مآنا الرجل ناف پر راتا۔
چوکتا رہنا۔ پرہیز کرنا القوم: نان و نفقہ

برداشت کرنا (اور مآن يمون اجوف وادی
سے بھی مستعمل ہے ”أتاني هذا الأمر فما
مآنت له أو ما مآنت مآنة“ مجھے یہ معاملہ

پیش آیا اور میں نے اس کی پروا نہیں کی۔ اور نہ
مجھے اس کا علم ہوا۔ ”وامآن مآنتك وانشآن
شآنك“ یعنی جو تمہیں اچھا معلوم ہو کرو

”وامآن مآنة“
مآن تمینة۔ الشی تیار کرنا فلانا خبردار
کرنا۔ جانا (ومآ ن) فی الأمر غور کرنا

سوچنا۔
تمآعان تمآؤنا الشی: پرانا ہونا۔ کہنہ ہونا۔
المآنة۔ ناف۔ ج گرد آگرد۔ ج

مآنات و مؤون۔ خلاف قیاس (جیسے بذرة
و بدؤر) (والمآن) کر۔ المآن کدال۔
المؤنة و المؤونة۔ خوراک۔ تخی و بوجھ ج

مؤن۔
المئنة۔ علامت۔

الممآنة۔ سزاوار۔ لائق۔ مناسب۔ کہا جاتا
ہے ”هو ممآنة لكذا“ یعنی وہ اس کے

مناسب ہے۔
مآ ایمؤ مؤاء السنؤ: بلی کا میاؤں

میاؤں کرنا۔
مآ ایمؤ مآؤا۔ الجلد: کھال کو پھیلانے

کیلئے کھینچنا بینہم: فساد انگیزی کرنا۔
تمآی تمئیا الجلد: کھال کھینچ کر چوڑی

ہونا الشر بینہم: فساد پھیلانا۔
المآوة۔ پست زمین ج مآؤ۔

مآی یمآی مآیا۔ الجلد: کھال کو کھینچنا۔
القوم: اپنے کو شامل کر کے سو (۱۰۰) پورا

کرنا۔ قوم کو ممتیون کہتے ہیں بینہم: فساد
انگیزی کرنا فی الأمر: مبالغہ کرنا الشجر:
درخت کا پتوں والا ہونا۔

أماى إماءة۔ القوم: سو (۱۰۰) ہونا۔ صفت
مؤمنون۔ القوم: اپنے آپ کو شامل کر کے
سو (۱۰۰) پورا کرنا۔
تمآی تمئیا۔ السقاء: کشادہ ہونا۔ کھینچنا۔
الشربین القوم: فساد پھیلانا۔
المآنة۔ سو (۱۰۰)۔ ج مینات و مؤون و
مؤون و مآی اور نسبت کے لیے مئوی۔
لفظ ماء میں الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔
کہا جاتا ہے ”شآرطه مماءة“ یعنی اس نے
سو (۱۰۰) کی شرط کی جیسے کہا جاتا ہے شآرطه
مؤالفئتى ہزار کی شرط کی۔
مئہ (ن) مئآ۔ کھینچنا الحبل رسی کو بغیر
چرخ کی کھینچنا الی فلان بقراية: تعلق پیدا
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مئت بیننا رجم مآنة“
ہمارے درمیان قرابت قریبہ ہے ہ قرابت
ذوہونڈا۔
مآ فلانا: قرابت یاد لانا۔
المآنة۔ ج موات و الممتات وسیلہ۔
قرابت۔ رشتہ داری۔
مئآہ (ف) مئآ بالمعصاء: لاٹھی سے راتا۔
متح (ف) متح الماء: پانی نکالنا الدلو
و بہا: ڈول کھینچنا۔ صفت مآتح و متوح
فلانا: راتا پچھڑانا الشیء: اکھیرنا
الشجرة: کاٹنا الخمسین: پچاس کے
قریب ہونا۔
متح و متح و امتح۔ الجراد: ٹڈی کا
اٹلے دینے کے لیے زمین پر دم کو پکھلانا۔
إمتح الشیء: جسے کھینچنا۔
تمتحت الإبل فی سیرھا: اپنے ہاتھوں
سے آرام لینا۔
المتوح۔ پانی نکالنے والا۔ دور۔ بئر متوح
قریب پانی والا کتواں۔
المتاح۔ بہت لمبا۔ کہا جاتا ہے يوم متاح و
قرسخ متاح۔

مَتَعَنَّ (ض) مَتَعْنَا الشَّىءَ أَكْبَرًا كَمَا
الجَرَادُ يُزِي كَانْتَدِيءَ دِينِي كَيْلِي زَمِينِ بِرَدَمِ
مَارِنَا بِالذَّلْوِ كَهَيِّجِنَا هُ بِالسَّهْمِ تَمِير مَارِنَا
فَلَانًا مَارِنَا اوردور کرنا الشَّىءَ یَظْلَدُ ہونا فی
الشَّىءِ یُجْرِنَا بِسِلْحِهِ بَیْتِ کرنا الشَّىءَ
بَلَدِ کرنا الخَمْسِينَ بَیْطِاسِ کے قَرِیب ہونا
الجَارِيَةِ بِمَاعِ کرنا۔

اِمْتَاخَ الشَّىءِ كَهَيِّجِنَا
عَوْدَ مَتِيخٍ نَاك لَمِي كَلْوِي۔
المِتِيخَةُ پھری۔ لاٹھی۔ کواڑ۔
مَتَلَانِ (مُتَوَدًّا بِالْمَكَانِ اِقَامَتِ کرنا۔
مَتَرَانِ) مَتَرًا. الشَّىءَ كَانَا الحَبْلِ.
رَتِي كَهَيِّجِنَا بِسِلْحِهِ بَیْتِ کرنا الجَارِيَةِ
جَمَاعِ کرنا۔

تَمَاتَرُو الشَّىءِ كَهَيِّجِنَا
اِمْتَرًا اِمْتَارًا. الحَبْلِ رَتِي كَهَيِّجِنَا (اس کی
اَصْلِ اِمْتَرَةٍ پہلی تاد کو میم سے بدل دیا گیا
ہے)
المِتَرِ بِمِثْرِ۔
اَلْمِتَوَرُّو كِرَافِ ہوسی حالات کی تبدیلی کا
پتہ بتانے کا آلہ۔

مَتَرَانِ) مَتَرًا بِسِلْحِهِ بَیْتِ کرنا۔
مَتَسَّ (ض) مَتَسْنَا الشَّىءَ أَكْبَرًا كَمَا
جَمَعَانِ (مَتَسْنَا بِالْحَبْسِ بِاِثْمَانِ کرنا۔
مَتَسَّنَتِ (س) مَتَسْنَا عَيْنَهُ أَكْثَمَ كَادِ صَوْبِ يَا
ہموک کی وجہ سے چند ہیا جانا۔ صفت اِمْتَسَّ
مُونْتِ مَتَسَاءِ بِجِ مَتَسَّ
مَتَسَّ (ض) مَتَسْنَا الشَّىءَ اَلْكِبْرِيَّوْنَ
بِكَهْمِيرَانِ۔ جَمَعِ کرنا اِخْتِلَافِ النَّاقَةِ۔ آہستہ
آہستہ دوہنا۔ المَتَسَّو المَتَسَّو جَوَانِوْلِ
کے ناخن کی سفیدی۔

مَتَعَّ (ف) مَتَعْنَا و مَتَعْنَا بِالشَّىءِ لے جانا۔
مَتَعَّ (ف) مَتَوَعْنَا الشَّىءَ لِمَا ہونا النَّهَارِ
دُنِ كَابَلَدِ ہونا النَّبِيدُ نَبِيذُ كَاتِخِ سَرْحِ ہونا
الرَّجُلِ زَبْرِكِ ہونا السَّرَابِ دُنِ كے
اِبْتَدَايِ حَصَّةِ مِیْلِ بَلَدِ ہونا الحَبْلِ رَتِي كَا
مَضْبُوطِ ہونا (مَتَعًا و مَتَعًا) بِفَلَانِ جَمُوثِ

پولنا (مَتَعًا و مَتَعًا) بِالشَّىءِ لے جانا۔
مَتَعَّ (ف) مَتَعْنَا الرَّجُلَ زَبْرِكِ ہونا۔
مَتَعَّ الشَّىءَ لِمَا كَرْنَا هُ اللّٰهُ طَوِيلَ عَمْرَدِيَا۔
هُ اللّٰهُ بِكَذَامَتِ تِكِ نَفَعِ اِثْمَانِ دِيَا۔
المَرَاةُ المَطْلَقَةُ مَطْلَقِ عَمُورَثِ كُو مَتَعِ
دِيَا۔

اَمْتَعَهُ اللّٰهُ بِكَذَامَتِ تِكِ نَفَعِ اِثْمَانِ
دِيَا۔ اور کہا جاتا ہے "اَبَقَاكَ اللّٰهُ وَاَمْتَعَّ
بِكِ" یعنی اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اَمْتَعَّ
بِمَالِهِ فَاَنَدَه اِثْمَانًا عَنْ كَذَامِے نِيَا ہونا۔
کہا جاتا ہے "اَمْتَعْنِي بِفِرَاقِہَا سَ نے اپنے
فِرَاقِ وِجْدَانِي كَا سَامَانِ مَجْھِ دِيَا۔

مَتَمَّعَ و اِسْتَمْتَعَ بِكَذَامَتِ و مِیْنَ كَذَامَتِ
تِكِ فَاَنَدَه اِثْمَانًا بِمَالِهِ آسُودِي كِي كَا سَاھِ
زَنْدِگِي بِسَرِ كَرْنَا۔ تَمَتَّعَ بِجَمْتِخِ كَرْنَا۔
المَتَمَّعُ و المَمْتَعُ بِكِر۔

المُتَمَتُّعَةُ و المَمْتَعَةُ اِسْمُ ہے تَمَتَّعَ بِكَا۔ تَوَثَّرَا
تَوَشَّ۔ تَوَثَّرَا خَوْرَاكِ۔ شَكَرَا يَا كَهْمَانِ جَسَ سَ
فَاَنَدَه اِثْمَانًا جَاے۔ کہا جاتا ہے "اَبَغْنِي مَتَمَّتَةً
اَعْيَشُ بِهَآ" میرے لیے تھوڑی سی خوراک
تلاش کرو جس سے زندگی بسر کر سکوں
المَتَمَّعَةُ بِشَكِيْرَهٗ دُولِ رَتِي۔ مَتَمَّتَةُ المَرَاةِ
تَمِيصِ اِزَارِہَا جَادِرِ جُو مَطْلَقِ عَمُورَثِ كُو دِيَا جَاے
اور اس کو مَتَمَّتَةُ الطَّلَاقِ مَجْھِ كَتَبَ ہيں۔ ج
مَتَمَّعَ و مَمْتَعَّ۔

المَتَاعُ چاندی و سونے کے علاوہ سامان
زندگی۔ ہر وہ چیز جس کو انسان پہنے یا بچھائے۔
ہر وہ چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے پھر
فنا ہو جائے۔ کہا جاتا ہے "اِنَّمَّا الحَيٰوةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ" مَتَاعٌ مَتَاعٌ اَمْتَاعٌ و اَمَاتِيْعٌ۔
اَلْمَتَاعِ فَاہِرِجِ كَالسَّبَابِ۔ ہر چیز کا عمدہ۔ نہایت
عمدہ۔ بہت سرخ شراب و سرکہ۔ جھلی ہوئی
ترازو۔ مضبوط ٹی ہوئی رتی۔ رَجُلٌ مَتَاعٌ۔
افعال خیر میں کال۔

مَتَمَّكَ (ن) مَتَمَّكَ الشَّىءَ كَانَا۔
مَاتَكُ مَمَاتَكُ فِي السَّبِيْعِ بِخِ كِي مَهَارَتِ
مِیْلِ عَالِبِ ہونا۔

تَمَتَّتِ الشَّرَابِ كَهَمُوثِ ہونٹ پینا۔
المَمْتَكُ و المَمْتَكُ و المَمْتَكُ كَهَمِي كِي نَاكِ۔
بِیْمُوں۔ سَوَس۔ مَمْتَكُ الذَّبَابِ كَهَمِي كِي
بِیٹ۔

مَتَلَانِ (مُتَوَدًّا بِالْمَكَانِ اِقَامَتِ کرنا۔
مَتَرَانِ) مَتَرًا. الشَّىءَ ہَلَا نَا۔ زور سے ہلانا۔
مَتَنَ (ك) مَتَانَةً مَضْبُوطِ و قُوِي ہونا۔ صفت
مَتَّنٌ و مَتِيْنٌ۔

مَتَنَانِ (ن) مَتُونًا بِالْمَكَانِ اِقَامَتِ کرنا۔
الرَّجُلِ قَسَمِ كَهَانَا سَفَرِ كَرْنَا بِفَلَانِ پورے
دِنِ سَاھِ چَلَا الشَّىءَ كَهَيِّجِنَا الكَبِيْشِ مِیْنَدِھِ
کے بیضہ کو مِیْنَدِھِ رِگُوں كے كَاتَانَا ہُ بِالسَّوْطِ۔
کواڑ سے بہت مارنا۔

مَتَنَانِ (نِ وَض) مَتَّنًا وَاَمْتَنَ بِپِیْھِ پَر مَارِنَا۔
مَتَّنَ الشَّىءَ مَضْبُوطِ بِنَا الذَّلْوِ دُولِ كُو
مَضْبُوطِ بَانَدِھَا الخِيْمَةِ خِيْمَہ كُو مَضْبُوطِ كَرْنَا
الطَّعَامِ مَصَالِھِ سَ عَمَدِھَا لِمَنْ سَايَقَهُ۔
آگے بڑھنے والے سے یہ کہنا کہ فلاں مقام پر
آگے بڑھ جاؤ اور میں تم سے آکر مل جاؤں گا۔

مَاتَنَّ فَلَانًا نَالِنَا۔ بہت دور کر دینا ہُ فی
الشَّعْرِ مَقَابِلِہَا کرنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا
مُمَاتِنَةٌ" ان کے درمیان ہر چیز میں مقابلہ ہے
"مَاتَنَّ الرَّجُلُ" جیسا معاملہ اس کے ساتھ
کیا گیا ہے ویسا ہی کرنا۔

تَمَاتَنَّ الشَّاعِرَانِ فِي الشَّعْرِ بِاِھِم مَقَابِلِہَا
کرنا۔

المَتَنُ مِصِ پِیْھِ (نَدِ كَرْمُونِثِ) مَتَّنَ الشَّىءِ
چیز کا ظاہری حصہ۔ مَتَّنَ الْأَرْضِ زَمِينِ كَا
بَلَدِ و ہموار حصہ الطَّرِيْقِ۔ راستہ کا وسط
الکِتَابِ۔ کِتَابِ كِي اَصْلُ عِبَارَتِ شَرْحِ و
حاشیہ کے علاوہ اللُّغَةِ لَفْتِ كے اَصُولِ و قَوَاعِدِ
اور اس کے مفردات۔ کہا جاتا ہے "سَارَ مَتَّنِ
النَّهَارِ" یعنی سارے دن چلا رہا۔ مَتَّنًا
الظَّهْرِ پِیْھِ كے دونوں طرف کے پہلو ج
مَتَانِ و مَتُونِ۔

المَتَنَةُ سَحْتِ و بَلَدِ زَمِينِ۔ مَتْنَةُ الظَّهْرِ
پِیْھِ كَا پہلو۔ مَتَانِ و مَتُونِ۔
المَتِيْنُ مَضْبُوطِ۔ قُوِي۔ کہا جاتا ہے "حَبْلٌ
المَتِيْنُ۔

مَتِينٌ مَضْبُوطٌ رَسِيٌّ "وَرَأَى مَتِينٌ وَ فِئِي رَأِيَهُ مَتَانَةً" عمیدہ رائے۔ اس کی رائے میں سنجیدگی ہے اور متین اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے یعنی باری تعالیٰ قوی و غالب ہے اس کو افعال میں مشقت اور کلفت لاحق نہیں ہوتی۔ ج۔ مِتَانٌ

المِتَانُ: دو ستونوں کے درمیان کا فاصلہ ج۔ مَتْنٌ

التَمَتِينَ سِرٌّ (والتِمْنَان) خیمہ کی رسیاں۔ ج۔ تَمَاتِينٌ

المَتَانِ: فا۔ متن کتاب کا لکھنے والا۔

سَيَّرَ مُمَاتِينَ: سفر بچید۔ کہا جاتا ہے "سَارَ سَيْرًا مُمَاتِينَ" وہ تیز چلا۔

مَتِيَّةٌ (س) مَتِيَّةٌ: گراہی میں مبتلا ہونا۔

مَتَّةٌ (ف) مَتِيَّةٌ الدَّلْوُ: زحوم کھینچنا۔

تَمَتَّتْ: حیران ہونا۔ بیوقوف ہونا۔ بغیر خوبی کے وصف کا طالب ہونا۔ تکبر کرنا۔ بچید ہونا۔ مبالغہ کرنا۔ گراہی اور بیہودہ باتوں میں مشغول ہونا۔

تَمَاتَتْ عَنِ الشَّيْءِ: غفلت برتا القوم: دور ہونا۔

مَتَا يَمْتُو مَتَوًا: الشَّيْءُ: کھینچنا۔ مَتَا بِالْمَصَا: لامحی سے مارنا۔

أَمَتِي أَمْتَانًا: بری چال چلانا۔ زیادہ رزق والا ہونا۔ بری عمر والا ہونا۔

تَمَتَّى: لغت ہے تمطی میں بمعنی اگلائی لینا۔

مَتَى: اسم استفہام ہے زمانہ کیلئے۔ اسم شرط ہے جملہ شرطیہ کے دونوں فعلوں کو جزم دینا ہے جیسے متی أضع العمامة تعرفوني.

مَتَى يَمْتَى مَتِيًّا: الشَّيْءُ: کھینچنا۔

مَتَّ (ن) مَتَّ: العظم: پڑی سے گواہ بہر جانا الزق والسقاء: پیکار الرجل: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ آنا۔ کہا جاتا ہے "جاء يَمْتٌ" جبکہ کوئی موٹا آدمی آئے اور اس کی کھال پر موٹائی کی وجہ سے کچھ تیل کا سا اثر

معلوم ہو۔ مَتَّ يَدُهُ: رومال سے ہاتھ پونچھنا

مَتَّارِبُهُ: مونچھ کی چکناہٹ کو ہاتھ سے پونچھنا

الجُرْحُ: زخم سے پیپ اور مادہ فاسد کو صاف کرنا بالحديث: بات پھیلانا۔ نَبَتْ مَثَاتٌ: تر گھاس۔

مَشَّجٌ (ن) مَشَّجًا الشَّيْءُ: لَمَّا فَلَانًا: کھلانا البئير: کنواں صاف کرنا بالعظيمة: تنشش کرنا۔

مَشَّدٌ (ن) مَشَّدًا بَيْنَ الْحِجَارَةِ: چھپ کر گھات میں بیٹھنا اور دیدہ بانی کرنا الرَّجُلُ: دیدہ بان مقرر کرنا۔

المَائِدُ: فا۔ نگہبان۔ دیدہ بان۔

مَشَطٌ (ن) مَشَطًا: ہاتھ سے زمین میں کسی چیز کو کاڑنا۔

مَشَعَتْ (ن س ف) مَشَعًا المَرَأةُ: عورت کا بری چال چلنا۔

تَمَّعَ: بچو کا چلنا۔

المَشْعَاءُ: بدبودار بچو۔

مَثَلٌ (ن) مَثُولًا فَلَانًا: مانند ہونا القمَرُ: ظاہر ہونا۔ غائب ہونا الرَّجُلُ: زمین سے چمٹا۔ اپنی جگہ سے ہٹا التمثيل: جسے بنا فلانا بفلان: مشابہت دینا۔

مَثَلٌ (ن ض) مَثَلًا وَ مَثَلَةٌ بِالرَّجُلِ: عذاب دینا بالقِتِيلِ: مثلہ کرنا۔ ناک کان وغیرہ کاٹنا۔

مَثَلٌ (ک ن) مَثُولًا نَبِيْنُ يَدِيْ فَلَانٌ: کسی کے سامنے کھڑا ہونا۔

مَثَلٌ (ک) مَثَالَةٌ: افضل ہونا۔

مَثَلٌ تَمَثِيلًا الشَّيْءُ لِفُلَانٍ: ہو بہو تصویر بنانا بالحديث و بالحديث: بیان کرنا۔

مَثَلٌ بِفُلَانٍ عَذَابٌ دِينًا بالقِتِيلِ: مثلہ کرنا المِثَالُ: نمونہ بنانا التمثيل: مجسمے بنانا (تمثيلاً و تمثالاً) الشَّيْءُ بالشَّيْءِ: مشابہت دینا۔

مَائِلَةٌ مُمَائِلَةٌ: مشابہہ، دینا۔ مَائِلَةٌ بِفُلَانٍ: تشبیہ دینا۔

أَمَثَلَةٌ: فَلَانًا وَ بَدَ: مانند بنانا الحَاكِمُ فَلَانًا: قصاص میں قتل کرنا الحَاكِمُ فَلَانًا مِنْ فُلَانٍ: قصاص لینا۔

تَمَثَّلَ الْحَدِيثُ وَ بِالْحَدِيثِ: بیان کرنا

الشَّيْءُ: مثال کا تصور کرنا لَهُ الشَّيْءُ: تصور ہونا بالشَّيْءِ: مثال دینا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الشَّيْءُ مَثَلٌ يُمَثِّلُ بِهِ" یہ شعر مثال ہے جس کی مثال دی جاتی ہے منہ۔ بدل لینا بَيْنَ يَدَيْهِ: سامنے کھڑا ہونا۔ تَمَثَّلَ مِثَالًا: نمونہ بنانا بہ۔ مشابہ ہونا۔

أَمَثَلُ المَثَلِ وَ بِالْمَثَلِ: بیان کرنا الأمر: فرمانبرداری کرنا الشَّيْءُ: نمونہ پر بنانا الطَّرِيقَةُ: پے روی کرنا من القَانِ: قصاص لینا۔

تَمَثَّلَ الشَّيْئَانُ: باہم مشابہ ہونا العَلِيلُ مِنْ عِلَّتِهِ: بیمار کا پچھے ہونے کے قریب ہونا۔

المِثْلُ: شبہ۔ نظیر۔ مشابہ۔ ج۔ أَمْثَالٌ (مذکر و مؤنث واحد شئینہ جمع کبھی کیلئے آتا ہے) کہا جاتا ہے "هُوَ وَ هِيَ وَ هُمَا وَ هُمْ وَ هُنَّ مِثْلُهُ" اور مهمم أَمْثَالُهُمْ بھی بولا جاتا ہے۔ و"فُلَانٌ مَسْتَرَادٌ لِمِثْلِهِ" یعنی اس کے مانند طلب کیا جاتا ہے اور اس پر بھل کیا جاتا ہے اور ایسا ہی ہے "هُوَ مَسْتَرَادَةٌ لِمِثْلِهَا"

المِثْلُ: مشابہ۔ نظیر۔ (لغت ہے مثل میں) صفت۔ بات۔ کہاوٹ۔ (کہاوٹ کے الفاظ میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا) عبرت۔ دلیل۔ ج۔ أَمْثَالٌ

المِثْلَةُ: آفت۔ ناک کان کاٹنا۔ المِثْلَةُ وَ المِثْلَةُ: سزا۔ عذاب۔ المِثْلَةُ: ام ہاضیہ کی عبرت ناک سزائیں۔ ج۔ مِثْلَاتٌ

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ ہستر۔ چیز ج۔ أَمْثِلُ قَوْمًا وَ مِثْلًا وَ مِثْلًا: فضیلت۔ اچھی حالت۔

المِثَالَةُ: شعر جو مثال میں پیش کیا جائے ج۔ أَمْثَالٌ وَ أَمْثُولَاتٌ

المِثَالِيَّةُ: ایک لفظی مذہب جو چیزوں کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں بقول ان کے یہ خیالی چیز ہے۔

اس کو العنَادِيَّةُ بھی بولتے ہیں۔

التَّمَثُّلُ وَ التَّمَثِيلُ فِي العِدَاءِ: غذا کی اصل صورت تبدیل ہو کر دوسری غذا بیت والی شکل

بنا-

التَّمَثُّلُ: تصوُّر۔ مجمر۔ ج تَمَائِيلُ
المَثِيلُ: شبيه۔ نظير۔ عمدہ۔ ج مَثَلٌ
المَائِلُ: فاج مَثَلٌ جيسے خادم و خادم
من الرُّسُومِ: منہا ہوا نشان۔ کہا جاتا ہے مَثَلٌ
مَائِلٌ
المَائِلَةُ: مائیل کا مؤنث۔ چراغ دان۔

ذیوٹ-

الأمثال: افضل۔ ج أمائل و مثل مؤنث
مُثَلِيٌّ: أمثال القوم: قوم کے برگزیدہ
لوگ۔ الطَّرِيفَةُ: المَثَلِيُّ: اشرہ بالحق
طریقہ۔ اور کہا جاتا ہے المَرِيضُ اليَوْمَ
أمثلُ مريضِ كى حالت آج اچھی ہے۔
مَينُ (س) مَنَّا: مثانہ میں پیشاب نہ کرنا۔
صفت أمئن و مئن مؤنث مَنَّا و مَنِيَّةٌ
مَئِنُ (ن ض) مَنَّا الرُّجُلُ: مثانہ پرانا۔
مَئِنٌ مَنَّا: مثانہ کی بیماری والا ہونا۔ صفت
مَمْنُونٌ و مَمِينٌ

المَمْنَانَةُ: پیشاب جمع ہونے کی جگہ۔ بچہ
دانی۔ ج مَمَانَاتٌ

مَجَّ (ن) مَجَا الشُّرَابِ او الشَّيْءِ و به
من فہمہ بکلی کرنا۔ اور بطور استعارہ کے کہا جاتا
ہے "هذا كلامٌ تمجُّهُ الأسماعُ" یعنی یہ
ایکلام ہے جس کو کان سنا نہیں چاہتے۔
مَجَجَ العُنبُ: انگور پک کر میٹھا ہونا۔
أَمَجَ العُودُ: لکڑی میں تری ہونا۔
الفرسُ: دوڑنے لگنا الرُّجُلُ: ملک میں

پھرنا۔

انمَجَ پینا۔

المَجَّ: مس۔ ماش کے دانے۔

المَجَّ: فاج جس کی بڑھاپے کی وجہ سے رال
ٹیک رہی ہو۔ ج مَجَّاجٌ و مَجَّوَجٌ

المَجَّاجُ: ٹہنی۔ شام۔

المَجَّاجُ: تموک۔ ماش کے دانے۔ مَجَّاجٌ
التَّحُلُّ شہد۔ مَجَّاجُ العُنبِ: شراب۔
مَجَّاجُ المَزْنِ: بارش۔ کہا جاتا ہے "خبزٌ
مَجَّاجاً" اس نے چینا کی روٹی پکائی۔

المُجَّاجَةُ: تموک۔ مُجَّاجَةُ الشَّيْءِ:

نچوڑ

المَجَّجُ: باجپوں کا ڈھیلا ہونا۔ انگوروں کی
چمکنی۔

المَجَّاجُ: بہت کلی کرنے والا۔ کاتب۔
المُجَّجُ: پتھر پر شہد کے نقطے۔

المَجَّجَةُ: ج کاس مرہ۔ کہا جاتا ہے "ما يبقَى
فى الإناءِ إلا مَجَّجَةٌ" برتن میں صرف کلی
کے لائق پانی باقی رہا۔

المَجَّجُ: شہد کی کلیاں۔ مست لوگ۔

مَجَّحٌ (ف) مَجَّحًا و مَجَّحٌ (س)
مَجَّحًا و مَجَّحٌ الرُّجُلُ: تکبر کرنا۔ فخر
کرنا۔ مَجَّحٌ الدُّلُوْءِ فى البِنْرِ ذُوْءِ لُكُوْنِىں
میں حرکت دینا۔

المَجَّجُ: تکبر۔

مَجَّذٌ (ن) مَجَّذًا: بزرگواری ہونا فَلَانًا:
بزرگی میں غالب ہونا الرُّوْحِى اِوْبِلُ:
چارے سے بھر کرنا۔

مَجَّذٌ (ن) مَجَّذًا و مُجَّذًا: اِوْبِلُ:
بہت چارہ والی چراگاہ میں چر کر بھر ہونا۔ صفت
مَجَّذَةٌ: ج مواجد و مَجَّذٌ و مَجَّذٌ
مَجَّذٌ (ك) مَجَّذًا: بزرگواری ہونا۔ صفت

مَجَّذٌ و مَجَّذٌ: ج أمجد
مَجَّذٌ و أمجد. فَلَانًا: تعظیم کرنا۔ تعریف

کرنا۔ بزرگی کی طرف نسبت کرنا العَطَاءُ:
بہت بخشش کرنا فَلَانٌ مِنْ كَذَا: زیادہ کرنا۔
کہا جاتا ہے "أمجدہ ذمًا و سبًا" اس نے

اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "و نزلوا
بہم فأمجدوهم فری" وہ لوگ ان کے

مہمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع
کی۔ أمجدت اِوْبِلُ: بہت چارہ والی چراگاہ
میں چر کر بھر ہونا فَلَانٌ و لُدَّةٌ و لُوْلُدَةٌ:

بہترین ماؤں کا انتخاب کرنا۔ کہا جاتا ہے
"هؤلاء قومٌ أمجدہم أبوہم" یہ لوگ وہ
قوم ہیں جن کے باپ نے بہترین ماؤں کا
انتخاب کیا ہے۔ أمجد و مَجَّذٌ الرُّوْحِى
اِوْبِلُ: چارے سے بھر کرنا۔

مَجَّذَةٌ: مجادا و مُمَّاجَذَةٌ: بزرگی میں

مقابلہ کرنا۔

تَمَجَّدٌ: بڑبنا۔

تَمَّاجَذٌ: باہم فخر کرنا۔ بزرگی بیان کرنا۔ کہا
جاتا ہے "تَمَّاجَذُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ" انہوں
نے باہم فخر کیا۔

اِسْتَمَّجَذٌ: بزرگی طلب کرنا۔ عمدہ صفات
میں ممتاز ہونا۔

المَجَّذُ: مس۔ عزت۔ بلندی۔ بلند زمین۔ ج
أمجد.

المَجَّذُ: فاج بزرگی والا۔ اچھے اخلاق والا۔
شئی مَجَّذٌ: بہت چیز۔ مؤنث مَجَّذَةٌ: ج
مَوَّاجَذٌ.

الأمجد: اسم تفضیل۔ ج أمجد.

المَجَّجِدِيُّ: چاندی کا ایک سکہ۔ جو سلطان
عبدالحمید کی طرف منسوب ہے۔

مَجَّجُرٌ (ن) مَجَّجُرًا: بیاسا ہونا۔

مَجَّجُرٌ (س) مَجَّجُرًا مِنَ المَاءِ و نَحْوِہُ:
پیٹ بھرتا اور بھرتا نہ ہونا۔

مَجَّجُرٌ و أمجورٌ الشَّاةُ: پیٹ میں بچے
کے بڑے ہونے کی وجہ سے لاغر اور بو جھل
ہونا اور اٹھ نہ سکتا۔

مَجَّجُرٌ: مَجَّجُرًا و مَمَّاجِرَةٌ و أمجورٌ فَلَانًا
فى البَيْعِ: زیادہ لینا۔ سود لینا۔

المَجَّجُرُ: مس۔ اُونٹ اور بکری کے پیٹ کا بچہ۔
پیٹ کے بچے کا خریدنا۔ بڑا لشکر۔ جو زیادتی
اور سود۔ ہر چیز کا بہت۔ عقل۔

المَجَّجُرُ: مس ملک بھنگری۔ ملک بھنگری کے
رہنے والے سونے کے سکہ کی ایک قسم بکری
کے پیٹ میں بچے کی بڑائی۔

شاةٌ مَجَّجُرَةٌ: پیٹ میں بچے کے بڑے ہونے
کی وجہ سے ڈبلی بکری۔

الأمجور: دبے جسم بڑے پیٹ والا۔

المَجَّجُرُ: اُونٹ کے پاؤں باندھنے کی رشتی۔
المَمَّجُرُ مِنَ النِّسَاءِ: بڑا اول بچے جننے والی

عورت۔ ج مَمَّاجِرٌ.

مَجَّجِسَةٌ: نجوسی ہونا۔

ہونا اور جانا الرَّجُلُ: موت کے قریب ہونا
الشَّيْءُ: بے برکت ہونا۔ وَاِمْتَحَقَ الْهَيْلَالُ:
چاند آخری مہینہ میں دکھائی نہ دینا۔
الْمَحَقُّ: سر بھجور کے قریب قریب لگے
ہوئے پودے۔
الْمَحَقَّةُ: ہلاکت۔

المحاق والمحاق والمحاق: مہینہ کی
آخری رات یا آخری تین راتیں۔
سِنَانٌ مَحِقٌ: باریک و تیز بھالا۔
الْمَاحِقُ: فا۔ ماحق الصَّيْفِ: سخت گرمی
یَوْمَ مَاحِقٍ: سخت گرم دن۔
الْأَمْحَقُ: بے برکت۔

الْمَمْحَقَةُ: باعث بے برکتی۔
مَحَكٌ (ف) مَحَكًا و مَحَكٌ (س)
مَحَكًا وَاَمْحَكُ و تَمْحَكُ الرَّجُلُ: گفتگو
میں بھگڑا کرنا۔ بھاؤ کرنے میں بھگڑنا۔ صفت
مَحَكٌ و مَاحِكٌ و مَخْكَانٌ.
أَمْحَكُ الْخُصُومُ فَلَانًا: غضبناک کرنا۔
مَاحِكٌ مُمَاحِكَةٌ فَلَانًا: جھگڑا کرنا۔
تَمَاحِكُ الْخَضَمَانُ: باہم جھگڑا کرنا۔
الْمُمْتَحِكُ: بد اخلاق | جھگڑا لو۔

مَحَلٌ (س) و مَحَلٌ (ف) مَحَلًا و
مَحَلًا و مَحَلٌ (ك) مَحَالَةً الْمَكَانُ:
تھوڑا ہونا۔ صفت مَاحِلٌ.

مَحَلٌ (ف) و مَحَلٌ (س) و مَحَلٌ
(ك) مَحَلًا و مَحَالًا بِهٖ اِلَى الْاَمِيْرِ:
چٹل خوری کرنا۔ صفت مَاحِلٌ و مَحُولٌ
مَحَالٌ. مَحَلٌ بِصَاحِبِهٖ: بہتان رکھنا۔
مَحَلٌ فَلَانًا: مضبوط کرنا۔ لہبا کرنا۔

مَا حَلَهُ مَحَالًا و مَاحِلَةً: ہل کرنا۔ قوت
معلوم کرنے کیلئے باہم زور آزمائی کرنا۔ دشمنی
کرنا۔ ہٹانا۔ جھگڑا کرنا۔

أَمْحَلُ الْمَكَانُ: قحط زدہ ہونا۔ صفت
مُنْحَلٌ و الْأَرْضُ مُنْحَلٌ و مُنْحَلَةٌ: قحط
زدہ زمین المَطْرُ: بارش رکنا۔ الْقَوْمُ: قحط زدہ
ہونا۔ صفت مُنْحَلُونَ اللّٰهُ الْأَرْضُ: قحط
زدہ کرنا۔

أَمْحَضُ فَلَانًا الْوُدَّ او الْحَدِيثَ. خالص
دوستی کرنا۔ راست گفتاری کرنا۔ لَهُ النُّضْحُ:
خالص خیر خواہی کرنا۔

مَا حَضَهُ الْوُدُّ: خالص دوستی کرنا۔
أَمْتَحَضُ الرَّجُلُ: خالص دودھ پینا۔
إِسْتَمْحَضُ: خالص دودھ مانگنا۔

المحض: سم من اللبن و نخوه:
خالص۔ مَحَاضٍ: کہا جاتا ہے "عربی"
مَحْضٌ و "عربی مَحْضًا" یعنی خالص
نسب عربی۔ مصدر ہونے کی وجہ سے واحد
تشبیہ جمع مذکر مؤنث سب کیلئے آتا ہے اور
تائید و تشبیہ و جمع بھی جائز ہے۔

المحض و الماحض: خالص دودھ کا
خواہش مند۔ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
مَاحِضٌ" خالص دودھ والا۔ جیسے لَبَنٌ سے
لَابِنٌ یعنی دودھ والا۔
الْمُحْوِضَةُ: خالص خیر خواہی۔

الْمَحْوُضُ: خالص۔ مؤنث مَحْوِضَةٌ.
کہا جاتا ہے فِضَّةٌ مَحْوِضَةٌ خالص
چاندی۔

مَحَطٌ (ف) مَحَطًا و مَحَطٌ الْوَتْرُ:
درست و ہموار کرنے کیلئے تانت پر انگلی پھیرنا
السَّهْمُ: تیر چلانا۔

أَمْتَحَطُ الْبَعِيرُ: اونٹ کا دوڑنا السَّيْفُ:
تلووار سونتا۔ الرُّمْحُ: نیزہ کھینچنا۔
عَامٌ مَاحِطٌ: ہمارش کاسال۔

مَحَقٌ (ف) مَحَقًا الشَّيْءُ: باطل کرنا۔
مِثَالًا: اللّٰهُ الشَّيْءُ: گھٹانا بے برکت کرنا
فَلَانًا: ہلاک کرنا الْحَرُّ الشَّيْءُ: جلانا۔

مُحَقُّ الرَّجُلُ: موت کے قریب ہونا۔
مَحَقُّ الشَّيْءُ: باطل کرنا۔ مِثَالًا:
أَمْحَقُ الْمَالُ: ہلاک ہونا الرَّجُلُ: مال میں
بے برکتی والا ہونا الْقَمَرُ: مہینہ کی آخری
رات یا آخری تین راتوں میں ہونا۔

تَمْحَقٌ و اِنْمَحَقٌ و اِمْحَقٌ و اِمْتَحَقٌ:
مضحل ہونا۔ باطل ہونا۔ مِثَالًا: اِمْتَحَقُ الْحَرُّ
الشَّيْءُ: جلانا النَّبَاتُ: شدت گرمی سے خشک

کرنا الشَّيْءُ: ہر عیب سے پاک صاف کر دینا
الدَّهَبُ بِالنَّارِ: پگھلا کر کھوٹ سے جدا کرنا
السِّنَانُ: بھالے کو میٹل کرنا الْحَبْلُ: رشتی
مضبوط ہٹانا۔

مَحْضُ الشَّيْءِ: گھٹانا۔ کہا جاتا ہے "مَحْضُ
اللّٰهُ عَنِ فَلَانٍ ذُنُوبَهُ" اللّٰهُ تعالیٰ فلاں کو
گناہوں سے پاک صاف کر دے اللَّحْمُ:
گوشت کو پٹھے سے صاف کرنا۔ و مَحْضَةٌ
عَنهُ: دور کرنا۔ صاف کرنا۔ مَحْضُ
الرَّجُلُ: آزمائش کرنا۔

أَمْحَضُ مِنَ الْمَرَضِ: تندرست ہونا۔
أَمْحَضَتِ الشَّمْسُ: گہن سے لگنا اور
صاف ہونا۔ أَمْحَضَهُ عَنهُ: دور کرنا۔
تَمْحَضُ الظَّلَامُ: تاریکی چھوٹ جانا۔
إِنْمَحَضُ الْوَرْمُ: ورم کا گھٹ جانا۔
إِنْمَحَضَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا روشن ہونا
فَلَانٌ مِنْ يَدِهِ: نکل بھاگنا۔

أَمْتَحَضُ الظُّبْيِ فِي عَدْوِهِ: ہرن کا
چھلا گئیں مارنا۔
الْمَحْضُ مِنَ الْجَبَالِ او الْأَوْتَارِ: نرم
رشتی یا تانت۔

الْمَحْضُ و الْمُمَحْضُ و الْمُحِضُ
و الْمُمَحْوُضُ مِنَ الْخَيْلِ: مضبوط و قوی
گھوڑا۔ الْمُحِضُ و الْمُمَحْضُ مِنَ
الْأَسِنَّةِ: میٹل شدہ بھالے۔

الْمَحَاضُ: اسم مبالغہ۔ بَرَقَ مَحَاضٌ:
چمکنے والی بجلی۔
الْأَمْحَضُ: جموٹے سج سب کا عذر سننے
والا۔

مَحْضٌ (ك) مَحْوِضَةٌ نَسَبُ الرَّجُلِ و
مَحْضُ الرَّجُلِ فِي نَسَبِهِ: خالص نسب
ہونا۔

مَحْضٌ (س) مَحْضًا و اِمْتَحَضُ: خالص
دودھ پینا۔

مَحْضٌ (ف) مَحْضًا فَلَانًا الْوُدَّ او
النُّضْحُ: خالص دوستی یا خیر خواہی کرنا
الرَّجُلُ: خالص دودھ پلانا۔

تَمَحَّلَ الشَّيْءُ وَلَهُ: حیلہ کرنا لِفَلَانٍ حَقَّةً
حق حاصل کرنے کی تدبیر کرنا الدَّرَاهِمِ:

پکھنا۔
تَمَاحَلَ القَوْمُ: باہم کید و مکر کرنا۔
تَمَاحَلَتْ بِهِمُ الدَّارُ: دور ہونا۔

المَحَل: فریب۔ مکر۔ غبار۔ شدت۔ قحط۔
بارش کا نہ ہونا اور زمین کا خشک ہونا۔ سخت
بھوک۔ ج مَحُولٌ و اَمَحَال۔ کہا جاتا ہے
رَجُلٌ مَحَلٌّ: غیر مفید مرد۔

المَاحِل: فا۔ جھگڑالو۔ کہا جاتا ہے "زَابِتُهُ
مَاحِلًا" میں نے اس کو متغیر اللون دیکھا۔ کہا
جاتا ہے "أَرْضٌ مَاحِلٌ و مَحَلٌ و مَحَلَّةٌ و
مُحَوِّلٌ و مَحْوَلَةٌ" قحط زدہ زمین۔ اور جمع
کے لیے أَرْضُونَ مَحَلٌ و مَحُولٌ۔
المَحَال: بڑی چرخی۔ ایک قسم کا یور۔

المَحَال: کید۔ مکر۔ جھگڑا۔ عذاب۔ شدت
و قوت۔ ہلاک ہونا۔ ہلاک کرنا۔ حیلوں سے
کسی مقصد کو طلب کرنا۔ تدبیر۔ دشمنی۔

المَحَالَّة: بڑی چرخی۔ اونٹ وغیرہ کی بڑھ
کی بڑی کا ایک مہرہ۔ لکڑی جس پر کھڑے ہو کر
کہل کریں۔ ج مَحَالٌ اور مَحَالٌ کی جمع
مَحَلٌ اور کہا جاتا ہے "لَا مَحَالَّةَ" یعنی

ضرور والا بدی۔
المَحَل: وہ شخص جو دھتکارا جائے یہاں تک
کہ تھک جائے۔ اور کہا جاتا ہے "ذَجِلَ
مَجِلٌ" یعنی حیلہ گر۔ مکار۔

المَحَال: مکار۔ دغا باز۔ شیطان۔
أَرْضٌ مُمَحَلٌ و مُمَحَلَّةٌ: قحط زدہ زمین۔
المُتَمَاحِل: بہت لمبا ترنگا مرد یا اونٹ۔ کہا
جاتا ہے "رَجُلٌ مُتَمَاحِلٌ" بہت لمبا ترنگا
مرد۔ "و زَابِتُهُ مُتَمَاحِلًا" یعنی میں نے اس

کو دیکھا کہ اس کے بدن کا رنگ بدلا ہوا ہے۔
فَلَاةٌ مُتَمَاحِلَةٌ: دو کنارے والا میدان۔
فِتْنَةٌ مُتَمَاحِلَةٌ: ایسا فتنہ جو ختم ہونے میں نہ

آئے۔
أَرْضٌ بِمَحَال: قحط زدہ زمین۔
المَمَحَلَّة: دودھ کا مکھیزہ۔

مَحَن (ف) مَحَنًا فَلَانًا: آرزمانہ عَشْرِينَ
سَوَطًا: کوڑے مارنا الفِضَّة: چاندی کو تَاوُ

دے کر صاف کرنا۔ اسم المَمَحَنَة ہے
القَوْبُ: کپڑے کو بچن کر پرانا کرنا فَلَانًا
شَيْئًا: دینا البُرُ: کنوس کی صفائی کرنا
النَّاقَةُ: اونٹنی کو چلا کر تھکانا الجَارِيَّةُ: جماع

کرنا (و مَحَن) الأَدِيم: چوڑے کو نرم کرنا۔
اِمْتَحَنَ الشَّيْءُ: آزمائش کرنا القول: غور
کرنا۔ سوچنا الفِضَّة: چاندی کو تَاوُ دے کر صاف
کرنا۔

المَمَحَن: مص۔ ہر چیز کا نرم۔ تمام دن چلنے یا
اور کسی کام سے تھکن۔ کہا جاتا ہے "سَكَانٌ فِی
مَمَحَنٍ" وہ مشقت میں تھا۔ المَمَحَن: عطیہ۔

المَمَحَنَة: آزمائش۔ ج مَحَنٌ
مَاحَا يَمْحُو و يَمْحُو مَحْوًا و مَحَى
الشَّيْءُ: مٹانا۔ صفت مفعولی۔ مَمْحِي و
مَمْحُو. کہا جاتا ہے "مَحَبَّ الرِّيحِ
السَّحَابِ و الصَّبْحِ اللَّيْلِ" ہوانے بادل کو
پراگندہ کر دیا اور صبح نے رات کو زائل کر دیا۔

مَاحَا يَمْحُو و يَمْحُو مَحْوًا و اَمْحَى و
اِمْتَحَى الشَّيْءُ: مٹا (اِمْتَحَى اِمْحَى میں
ایک ضعیف لغت ہے)

تَمْحَى تَمْحِيًا مِنَ القَوْمِ: معافی کی
درخواست کرنا۔
المَمْحُو: سر۔ چاند کا سیاہ داغ۔

المَمْحُوَة: مہاکا اسم مرۃ۔ شرم و عار۔ بارش
اس لیے کہ زمین کی خشکی کو دور کر دیتی ہے۔ کہا
جاتا ہے "صَابَتِ الأَرْضُ مَمْحُوَةً" زمین پر
بارش ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے "هَبَّتْ مَمْحُوَةً"
بغیر لام کے اور ضمہ کے ساتھ۔ یعنی باد شمال
چلی۔

المَمْحَاة: میل صاف کرنے کا چھتھرا۔
مَاحَاهُ يَمْحَاهُ و يَمْحِيهِ مَمْحِيًا: مٹانا
(لغت سے محاوروی میں)

مَمْحَجٌ (ف) مَمْحَجًا و تَمْحَجٌ و تَمَاحَجٌ
الدَّلْوُ او بالدَّلْوِ: بھرنے کیلئے ڈول ہلانا۔
مَمْحَجٌ الجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔

تَمْحَجَ المَاءُ: حرکت دینا۔
مَمْحَجٌ و تَمْحَجٌ و اِمْتَحَجَ العَظْمُ: ہڈی سے
گودا نکالنا۔

اِمْتَحَجَ العَظْمُ: گودے والی ہونا۔ اَمْحَجَتْ
الشَّاةُ مَوْئِيًا هَوْنَا العَوْذُ: لکڑی کا تر ہونا
الزَّرْعُ: پرمغز ہونا۔

المَمْحَجُ: ہڈی کا گودا۔ بھیجا۔ آنکھ کی چربی۔
خالص۔ ج مَمْحَاخٌ و مَمْحَخَةٌ: کہا جاتا ہے
"لَا ارَى لِأَمْرِكُ مَمْحَا" میں تمہارے معاملہ

میں کوئی خیر نہیں دیکھتا ہوں۔ و المَمْحَخُ:
گودے کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "هَوَلَاءُ مَمْحُ القَوْمِ
و مَمْحَةُ القَوْمِ" یعنی یہ لوگ قوم کے افضل
ہیں۔

المَمْحُ: نرم۔
المَمْحَاخَةُ: ہڈی کا گودا جو جوسے سے منہ میں
آئے۔

المَمْحِيخُ: گودے والی ہڈی۔ شاةٌ مَمْحِيخَةٌ
گودے والی یعنی موی بکری۔ ج مَمْحَاخِجٌ:
اہل مَمْحَاخِجِ: عمدہ اونٹ۔ کہا جاتا ہے "لَهُ
لِسَانٌ مَمْحِيخٌ" یعنی زبان آور اور قادر الکلام
ہے۔

مَمْحَرٌ (ف ن) مَمْحَرًا و مَمْحُورًا
السَّفِينَةُ: آواز کے ساتھ پانی کو چیرنا۔ مَمْحُورٌ
الأَرْضُ: زمین کو بھتی کرنے کے لیے کھودنا۔
بھتی بھتی کیلئے پانی دینا السَّابِخُ: ہاتھوں سے
پانی کو پھاننا۔ الأَذْبُ الشَّاةُ: بھیڑیے کا
بکری کا بیٹ پھاننا۔

مَمْحَرٌ (ف) مَمْحَرًا النِّيْتُ: عمدہ سامان لے
لیتا۔
اِمْتَحَرَ و تَمْحَرُ و اِسْتَمْحَرَ الرِّيحُ: ہوا
کی طرف پیٹھ کرنا۔ اِمْتَحَرَ العَظْمُ: ہڈی سے
گودا نکالنا الشَّيْءُ: اختیار کرنا۔

المَمْحَرُ: سر۔ بنات مَمْحَرُ: پتلے سفید بادل۔
المَمْحُورَةُ: مخر کا اسم مرۃ۔ منہ کی بدبو
(و المَمْحُورَةُ و المَمْحُورَةُ: پسند کی ہوئی چیز۔
المَاحُورَةُ: ماخر کا ٹوٹ۔ کشتی۔ ج مَواخِجُ:
المَاحُورُ: بدکاروں کی مجلس۔ بدکاری کا لالہ۔

مَمْحَرٌ (ف) مَمْحَرًا النِّيْتُ: عمدہ سامان لے
لیتا۔
اِمْتَحَرَ و تَمْحَرُ و اِسْتَمْحَرَ الرِّيحُ: ہوا
کی طرف پیٹھ کرنا۔ اِمْتَحَرَ العَظْمُ: ہڈی سے
گودا نکالنا الشَّيْءُ: اختیار کرنا۔

المَمْحَرُ: سر۔ بنات مَمْحَرُ: پتلے سفید بادل۔
المَمْحُورَةُ: مخر کا اسم مرۃ۔ منہ کی بدبو
(و المَمْحُورَةُ و المَمْحُورَةُ: پسند کی ہوئی چیز۔
المَاحُورَةُ: ماخر کا ٹوٹ۔ کشتی۔ ج مَواخِجُ:
المَاحُورُ: بدکاروں کی مجلس۔ بدکاری کا لالہ۔

المَاحُورَةُ: ماخر کا ٹوٹ۔ کشتی۔ ج مَواخِجُ:
المَاحُورُ: بدکاروں کی مجلس۔ بدکاری کا لالہ۔

بدکاری کے اٹے کا متولی۔ ج مواخر و مواخیر۔
 مخرق مخرقہ۔ جھوٹ گھڑنا۔
 مخراق۔ عزی۔ ج مخاریق۔
 مخض (ن ف ض) مخض اللین۔ دودھ
 بولنا۔ کھن نکالنا۔ صفت مفعولی مخيض و
 مضخوض الشی بہت بلانا برای۔ خوب
 غور کرنا بالدلو۔ بھرنے کیلئے ڈول بلانا البئر
 بالدلو۔ کنوئیں میں سے ڈول سے بہت پانی
 نکالنا۔
 مخضت (س) مخاضا و مخاضا و
 مخضت و مخضت و تمخضت
 الحامل۔ درد زہ میں مبتلا ہونا۔ صفت
 ماخض۔ ج مخض و مواخض۔
 امخض اللین۔ دودھ کے بولے جانے کا
 وقت قریب ہونا الرجل۔ قریب الولادة
 اونٹنیوں کا مالک ہونا۔
 امخض و تمخض اللین۔ کھن نکالنا ہوا
 ہونا۔ کھن نکالنے کے برتن میں بلانا الولد۔
 بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔ تمخضت
 السماء۔ برسنے کے قریب ہونا۔ تمخض
 الذھر بالفسقہ۔ قند ظاہر کرنا۔ اور کہا جاتا
 ہے "تمخضت اللیلۃ عن صباح
 سوء" رات ختم ہوگئی اور اس کے بعد بری صبح
 آئی۔
 استمخض اللین۔ دیر میں جننے والا ہونا۔
 استمخضت الحامل بولدھا۔ حاملہ کا
 درد زہ میں مبتلا ہونا۔
 المخاض۔ درد زہ۔
 الإمخاض۔ دودھ جب تک کھن نکالنے
 کے برتن میں رہے۔
 الممخض والممخضۃ۔ منگیڑہ۔ کھن
 نکالنے کا برتن۔ ج ممامخض۔
 مخط (ن) مخطا الشی کھینچ کر لیا
 کرنا۔ الجمیل بہ تیز دوڑنا الرجل فی
 الأرض۔ تیز چلنا الولد۔ لڑکے کا باپ کے
 مشابہ ہونا۔

غرس فلانہ۔ پودے میں پانی دینا اور نگہبانی
 کرنا السیف۔ تلوار سونتا المخطا۔ ریٹ
 صاف کرنا الشی بچے کی ریٹ صاف کرنا
 بیدہ۔ ملا (مخطا و مخطوط) السہم۔
 تیر کا ہار ہونا۔ صفت ماحخط۔
 مخط الولد۔ بچے کی ناک سے ریٹ صاف
 کرنا۔
 امخط السہم۔ تیر کو پار کرنا۔
 امخط الشی۔ چھین لینا۔ اچک لینا
 السیف۔ تلوار سونتا۔
 امخط و تمخط۔ ریٹ صاف کرنا۔ و
 تمخط الرجل۔ چلنے میں لاکھڑانا۔
 المخط۔ س۔ راہ۔ جھوپا کھڑا۔
 المخطا۔ ریٹ۔ ج امخطۃ۔ مخطا
 الشیطان۔ وہ چیز جو دوپہر کے وقت میں کڑی
 کئے جانے کی مانند اوپر سے نیچے آتی ہوئی
 معلوم ہوتی ہے اس کو مخطا الشمس و
 لعاب الشمس بھی کہتے ہیں۔
 المخطا۔ ریٹ والا۔
 المخط۔ فیاض سردار۔ ج امخاط۔
 المخطۃ۔ مخط کا اسم مرہ۔ ایک مرتبہ
 میں جتنی ریٹ صاف کی جائے۔
 المخل عند المولدين۔ لوہے وغیرہ کا
 آلہ جس سے بڑے بڑے پتھر اٹھائے
 جائیں یا توڑے جائیں۔ ج امخال و
 مخول۔
 منمخخہ۔ گودا نکالنا۔
 مخن (ن) مخنا۔ رونا البئر۔ کنوئیں سے
 پانی نکالنا العود۔ کڑی چھلینا الجاریۃ۔ جماع
 کرنا۔
 مخن (ن) مخنا و مخونا۔ لیا ہونا۔
 صفت مخن و مخن۔ مؤنث مخنۃ و
 مخنۃ۔
 المخن۔ لیا ہونا۔
 المخنۃ۔ المخن کا مؤنث۔ گھر کا صحن۔
 مخی الرجل عن الامر۔ الگ کر دینا۔ دور
 کر دینا۔

امخی امخاء و امخی امخاء و تمخی
 و امتخی الیہ۔ عذر خواہی کرنا۔ بیزار
 ہونا۔ و تمخی العظم۔ بڑی سے گودا نکالنا۔
 مد (ن) مذا الشی و بالشی۔ پھیلانا
 کھینچنا اللہ عمرہ۔ عمر طویل کرنا من الذواۃ
 قلم میں روشنائی لینا النہار أو البحر۔ دریا یا
 سمندر کا چڑھنا۔ پانی زیادہ کرنا (لازم و متعدی)
 کہا جاتا ہے۔ قل ماء رکبتنا فمدنہار کینۃ
 آخری۔ ہمارے کنوئیں کا پانی گم ہو گیا تو
 دوسرے کنوئیں نے اس کے پانی کو زیادہ کر دیا
 "وہذا الوادی یمد فی وادی کذا" یہ
 وادی دوسری وادی کے پانی کو زیادہ کرتی ہے
 مد نظرو الیہ" اس نے اس کی طرف بلند نگاہ
 ڈالی۔ مد الأرض۔ کھا دیا دوسری مٹی ڈالنا
 الحرف۔ کھینچ کر پڑھنا الابل۔ پانی میں جو یا
 آٹا یا تیل ملا کر پلانا السراج بالسلیط۔ چراغ
 میں تیل ڈالنا السیر۔ گزرنا۔ مد و آمد
 الرجل۔ مہلت دینا۔ اعانت کرنا۔ فریادری
 کرنا فی غیہ۔ گمراہی میں زیادتی کرنا الجند۔
 فوج کی مدد کرنا النہار۔ دن کا چڑھنا۔ بلند ہونا
 الذواۃ۔ روشنائی ڈالنا۔ دوات میں روشنائی یا
 پانی زیادہ کرنا۔ اور ایسا ہی "مد القلم"۔ قلم
 میں روشنائی لگانا۔ آمد فی مشیتہ۔ ناز و انداز
 سے چلنا۔ آمدہ اللہ فی الخیر۔ زیادہ کرنا
 اجلہ۔ طویل کرنا اور موخر کرنا فلانا بسمال۔
 دینا الکاتب۔ قلم میں ایک ڈوبادینا البعیر۔
 پانی میں جو یا آٹا یا تیل ملا کر پلانا۔ آمد الجرح۔
 زخم میں پیپ ہونا۔
 مدد الشی۔ پھیلانا۔
 مادۃ مدا و مادۃ۔ کھینچنا۔ مال منول
 کرنا۔ مادۃ الثوب۔ ایک دوسرے کے
 کپڑے کو کھینچنا۔
 تماذا الثوب۔ باہم مل کر کھینچنا۔
 تمدد و امتد۔ پھیلانا۔ اعزالی لینا۔
 تمددوا الشی بینہم۔ کھینچنا۔ امتد بہم
 السیر۔ طویل ہونے کی مشیتہ۔ ناز و انداز سے
 چلنا الی الشی۔ دیکھنا النہار۔ دن کا آدھا

تَمَدَّحٌ تَكْبِيرٌ كَرِيهُ تَمَدَّحَتْ الْإِبِلُ: اونٹ کا پر گوشت اور چربی والا ہونا نفاقہ: اونٹنی کا بیل کھاتی ہوئی چلنا۔
تَمَادَحٌ وَافْتَدَحَ عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔
تَمَادَحَ عَنْهُ: سستی دکا بلی کرنا۔
الْمَادَاخُ وَالْمَدِيخُ وَالْمَدِيخُ: معطر و معزز۔
الْمَدْوُوحُ وَالْمَتْمَادِحُ: جلد باز۔
مَدَّرَ (ن) مَدَّرًا وَمَدَّرَ الْمَكَانَ: مٹی سے لپینا الحوض: حوض کے پتھروں کی جمری کو مٹی سے بند کرنا۔
مَدَّرَ (س) مَدَّرًا: بڑے پیٹ والا ہونا۔
تَمَدَّرَ: لپیا جانا۔ آلودہ ہونا۔
اِمْتَدَّرَ: مَدَّرًا: ڈھیلنا۔
الْمَدَرُ: مص۔ مٹی کا ڈھیلا۔ بغیر ریت کا کچڑ۔ شہر اور دیہات اس لیے کہ اکثر ان کی عمارتیں مٹی کی ہوتی ہیں۔
الْمَدْرَةَ: مٹی کا ایک ڈھیلا۔ مَدْرَةُ الرَّجُلِ: مرد کا گھر۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ سَيِّدٌ مَدْرَتِهِ: فلاں اپنے شہر کا سردار ہے۔
الْمَدْرِي: شہر کارہنے والا۔
الْمَدْرُ: بڑے پیٹ والا۔ بہت پانخانہ کرنے والا جو روکنے سے عاجز ہو۔ پھولے بوئے پہلوؤں والا جس کے دونوں پہلو خاک آلود ہو گئے ہوں۔ گرد آلود۔
الْمَدْرَاءُ: بڑے پیٹ والی۔ بجنو مَدْرَاءُ شہر والے۔
مَكَانٌ مَدِيرٌ وَمَمْدُورٌ: لپیں ہوئی جگہ۔
الْمَمْدَرَةُ وَالْمَمْدَرَةُ: جہاں سے مٹی کے ڈھیلے لگے جائیں۔
إِبِلٌ مَمْدَرَةٌ: مونے اونٹ۔
مَدَسٌ (ن) مَدَسًا الْجِلْدُ وَنَحْوُهُ: کھال وغیرہ کو ملنا۔
مَدَشْتُ (س) مَدَشًا عَيْنَهُ: ہموک وغیرہ سے چندھیانے بندہ۔ ڈھیلے پتھوں والا اور کم گوشت ہونا۔ صفت اَمَدَشٌ: مونٹ مَدَشَاءُ ج مَدَشِيش۔

الْمَادِيُّ: منسوب إلى المَادَةِ: دہریہ جو اس بات کا قائل ہو کہ صرف مادہ ہی کا وجود ہے۔
الْأَمْدَةُ: تانا۔
الْأَمْدُودُ: عادت۔
الْمَدِينِدُ: کھینچا ہوا۔ لہا۔ کہا جاتا ہے "قَدْ مَدِينِدُ" لہا۔ "فَلَانٌ مَدِينِدُ الْقَامَةِ" فلاں لمے تڈ کا ہے۔ مَوْتٌ مَدِينِدَةٌ: مَدَّةٌ مَدِينِدَةٌ: طویل مدت۔ ج مَدَّةٌ: چارہ۔ پانی میں جو یا آٹا یا تل ملا ہوا۔ اوزان شعر میں سے ایک وزن۔
الْمَدِينِدَةُ: تھوڑی سی مدت (مدت کی تفسیر)۔
الْمَمْدُ: مصدر مسمی۔ چیز کے کھینچنے کی جگہ۔
الْمَمْدُ: اوزان شعر میں ایک وزن جس کو بعض متاخرین نے استعمال کیا ہے۔ وزن اس کا فاعل فاعلاتن چار مرتبہ ہے۔
الْمَمْدُودُ: مسمی۔ مال مَمْدُودٌ: بہت مال۔
الْمَمْدُودُ فِي عِلْمِ الصَّرْفِ: ہر وہ اسم معرب جس کے آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو جیسے حمراء۔
مَدَحَهُ (ف) مَدَحًا وَمَدَحَهُ: تعریف کرنا۔
مَادَحَهُ: تعریف کرنا۔
تَمَدَّحٌ: غیر واقعی اوصاف پر فخر کرنا۔
خود بخود تعریف کرنا الرَّجُلِ: تعریف کرنا۔
إِلَى النَّاسِ: اپنی تعریف چاہنا۔
اِمْتَدَحَ فَلَانًا: تعریف کرنا وَاِمْتَدَحَ وَسَمِعَ هُوًا۔
تَمَادَحَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔
الْمَدْحَةُ: اسم ہے مَدَحٌ سے۔ تعریف ج مدح۔
الْمَدِيخُ: ج مَدَائِحُ وَالْمَدْوَحَةُ: ج آمادِخُ: تعریف۔
الْمَمَادِحُ: تعریفیں۔
مَدَحٌ (ف) مَدَحًا: بڑا ہونا۔
مَدَرَ: مدد کرنا۔
مَادَحَهُ: خیر یا شر میں مدد کرنا۔

ہونا۔
اِسْتَمَدَّ الْقَوْمُ الْأَمِيرَ عَلَى الْعُدُوِّ: مدد طلب کرنا مین الذوا: روشنائی لینا۔
الْمَدُّ: س۔ سیلاب۔ ج مَدُّودٌ: معطلی۔ کہا جاتا ہے "بَيْتِي وَبَيْنَهُ قَلْبَرٌ مَدُّ الْبَصَرِ" میرے اور اس کے درمیان منہائے نظر کی مقدار فاصلہ ہے۔ دن کا بلند ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَثَيْتُهُ مَدَّ النَّهَارِ وَمَدَّ الضُّحَى" میں اس کے پاس دن چڑھنے کے وقت آیا۔ مَدُّ الْبَحْرِ: دریا کا چرنا۔
الْمَدُّ وَالْمَدَّةُ: حرف کو کھینچ کر چڑھنے کی علامت۔
الْمَدَّةُ: ایک بیانہ جس کی مقدار اہل عراق کے نزدیک دور طل اور اہل حجاز کے نزدیک ایک اور تہائی رطل۔
الْمَدَّةُ: مد کا اسم مرہ۔ قلم کا ایک مرتبہ دوات میں ڈالنا۔
الْمَدَّةُ: زمانہ کا حصہ قلیل ہو یا کثیر۔ غایت زمانی یا مکانی۔ کہا جاتا ہے "لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْأَرْضِ مَدَّةٌ" قلم کا ایک ڈوبا۔ ج مَدَّدُ:۔
الْمَدَّةُ: مد کا اسم نوع۔ پیپ۔
الْمَدْدُ: مدد۔ فریاد۔ ری۔ کہا جاتا ہے "أَمَدَدْتُهُ بِمَدَدٍ" میں نے اس کو قوت پہنچائی میں نے اس کی اعانت کی۔
الْمَدَانُ وَالْإِمْدَانُ: کھاری یا بہت سخت کھاری پانی۔ وہ زمین جہاں سے پانی رسے۔
الْمَدَادُ: س۔ روشنائی۔ گوبر یا کھاد۔ چراغ میں جو تیل ڈالا جائے۔ مثال وطریقہ۔ تم کہتے ہو "هَمْ عَلَى مَدَادٍ وَاحِدٍ" وہ ایک مثال پر ہیں "وَسُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ السَّمَوَاتِ" یعنی آسمان کی تعداد کے مطابق۔
الْمَادَّةُ: المَادَّةُ: کاموں۔ جس سے کسی چیز کی ترکیب و قوام ہو۔ المَادَّةُ الْأُولَى: وہ جس سے کسی چیز کا حصول بالقوہ ہو۔ ج مَوَادُّ: مَادَاتٌ مَوَادٌّ اللَّفْقَةُ: الفاظ لغت مَوَادُّ الْجِنِّ: مباحث علم۔

مدش (ن) كمدشا. من الطعام: تھوڑا سا
 كھا پھلان من العطاء: کم کرنا۔
 مدش و آمدش. دینا۔
 رجل مداش. الید: چور۔
 المدش. س۔ تھوڑا عطیہ۔
 المدش. مص۔ گرمی یا بھوک کی وجہ سے
 چندھا پن۔ ہاتھ کے پٹھوں کا ڈھیلا پن اور
 گوشت کی کمی۔ پاؤں کی پھین۔ عورت کے
 پستان میں گوشت کی کمی۔ چہرہ کی سرخی اور
 سختی۔ بیوقوفی۔ اور کہا جاتا ہے "ما یہ مدش"
 او ما یہ مدشة" اس کو کوئی مرض نہیں۔
 المدش. بیوقوف۔
 المدعة. ناریل کا خول جس میں سے مغز
 نکال لیا گیا ہو۔
 المدعی. نسب میں متم۔
 المدیع. سندرکھی چھوٹی پھلیاں۔
 مدق (ن) كمدقا. الصخرة: چٹان توڑنا۔
 تمدل بالمندیل: سر پر رومال لیٹنا یا عامہ
 باندھنا۔
 المدلوج. بازو بندہ ممد۔ بھاگنا۔
 مدن (ن) كمدونا بالمكان: اقامت کرنا
 (غیر مستعمل فعل ہے) المدینة: شہر میں
 آنا۔
 مدن. المدائین: شہر آباد کرنا۔
 تمدن. شانستہ و مہذب ہونا۔
 تمدین. ناز پروردہ ہونا۔
 المدینة. شہر۔ قصبہ۔ رجمدن مدن و
 مدائن. المدینة: مدینہ منورہ جس کا نام نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے
 یرب تھا مدینة السلام: بغداد۔
 المدائین. بغداد کے قریب ایک شہر کا نام
 جس میں کربئی کا محل تھا۔ بڑے ہونے کی وجہ
 سے جمع کا لفظ اطلاق کیا گیا اور نسبت کیلئے
 مدائینی۔
 المدین. شیر۔
 المدان. ایک بت کا نام۔
 مدھہ (ف) كمدھا. تعریف کرنا۔ صفت

بارہ۔ عمدہ۔
 تمدة الرجل: تعریف کرنا۔ خود بخود
 تعریف کرنا۔
 مادی ممدادة فلاناً: مہلت دینا۔ کہا جاتا
 ہے "فلان لا یماذیہ احد" فلاں کا عایت
 تک کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔
 آمدی امداء فلاناً: مہلت دینا۔ الرجل:
 بڑی عمر والا ہونا۔ بہت دورھ پینا۔
 تمدی. فی غیہ: دیر تک رہنا اور اسرار
 کرفی الامر: اس کا کوئی نتیجہ السفر: سفر کا
 طویل ہونا۔
 المدی والمدیة والمدیاء. غایت انتہا۔
 کہا جاتا ہے "بلغ مدى الحیاة ومدیتها و
 میذاءها" یعنی زندگی کی انتہا کو پہنچ گیا و
 "داری میذاء دارہ" میرا گھر اس کے گھر
 کے مقابل ہے "مدیة القوم" کمان کا
 وسط۔
 المدیة والمدیة والمدیة. بڑی چھری۔
 مدی و مدی و مدیات و مدیات.
 المدی. شام و عصر کا ایک پیمانہ جس میں
 ۹ اصاع آتے ہیں۔ عمداء۔
 المدی. جوہر۔ حوض کا نکلا ہوا پانی جو گندہ
 ہو گیا ہو۔ ومدیة۔
 الامدی. اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فلان
 آمدی العوب" فلاں عربوں میں سے بہت
 زیادہ معزز ہے۔
 مذ. دیکھو مذ۔
 مذج (س) كمدجا و تمدج الشی: وسیع
 ہونا اور پھولنا۔ تمدج الإناء: برتن کا بھرنا
 البطح: خربوزہ کا پختہ ہونا۔
 مذج تمدیجا الشی: وسیع کرنا۔
 مذج (س) كمدجا. رگڑ کھانے یا سینہ آنے
 سے رانوں یا خصیوں یا سرتیوں میں سوزش
 ہونا۔ صفت مذج۔
 تمدح الشی: چوستا۔
 الامدح. بدبودار۔
 المدح. س۔ جنگلی انار کے پھول کا شہد۔

تمدح الرجل: چوستا۔
 المدح. جنگلی انار کے پھول کا شہد۔
 مدرت (س) كمدرا. البیضة: انڈے کا
 گندہ ہونا۔ صفت مدرة. عوام مؤدرت
 البیضة" اور صفت "ممودرة" کہتے ہیں۔
 مدرت نفسه او معدته: جی تھلانا یا معده
 بگڑنا۔ الرجل: پانی کے خزانہ کی طرف بہت آنا
 چانا۔
 مدر الشی: پرانندہ کرنا۔ بکھیرنا۔
 امدرت الدجاجة البیضة: گندہ کرنا۔
 تمدر. پرانندہ ہونا۔ بکھیرنا۔ تمدرت
 البیضة: انڈے کا گندہ ہونا۔ المدعة: بڑانا
 النفس: جی تھلانا۔ تمدر اللبن: دودھ کا
 مکینہ میں پھٹ جانا۔ کہا جاتا ہے "تفرق
 القوم شدرد مدرد" قوم ہر طرف کو بکھری۔
 المدرد. گندہ۔ بڑا ہوا العرأة مدرة: گندی
 عورت۔
 الامدرد. پانی کے خزانہ کی طرف بہت آنے
 جانے والا۔
 المذار من النساء: چھل خورن۔
 مدع (ف) كمدعا و مدعة یمینا: قسم
 كھا۔ مدعت الحیاة: پہلاڑی چوٹی پر بہنا
 مدع فلان: خبر کا کچھ حصہ بیان کرنا اور کچھ
 چھپا ہوا مدع الصرع: تھن کا آدھا دودھ
 دوہنا۔
 تمدع الشراب: آہستہ آہستہ پینا۔
 المداع. جھوٹا ہے وفا۔ ایک جگہ قائم نہ
 رہنے والا۔ راز کو نہ چھپانے والا۔
 مدق (ن) كمدقا اللبن: دودھ میں پانی ملانا
 فلاناً و لفلان: پانی ملا ہوا دودھ پلانا لوڈ:
 خالص دوستی نہ کرنا۔
 افتدق و امدق الشراب او اللبن:
 شراب یا دودھ کا پانی سے ملانا۔
 لبن مدق و مدیق و تمدق: پانی ملا ہوا
 دودھ۔ رجل مدق: طول در نچیدہ مرد۔
 المداق. غیر خالص دوستی کرنے والا۔
 مدل (ن) كمدلا و میدالا و مدیل (س)

مَذَلًا بِسِرَّةٍ زَجَّجَ هُوَ كَرِيمٌ كَوَظَاهِرٍ كَرْدِيَا (و)
 مَذَلَّتْ (ك) مَذَلَّتَهُ نَفْسُهُ بِالشَّيْ
 فِاضِي كَرَنًا۔ جو اس مردی كرنًا۔ صفت مَذَلَّتُ
 كُهَا جَاتَا ۛ "مَذَلَّ بِمَالِهِ وَ مَذَلَّ بِنَفْسِهِ"
 اس نے مال یا نفس کی سخاوت کی۔ مَذَلَّتْ
 رَجُلُهُ اَوْ كَا سَنَ هُوَا۔
 اَمَذَلَّتْ نَجَّجَ دَلَّ كَرَنًا۔ زَجَّجَ كَرَنًا۔ اَمَذَلَّتْ
 رَجُلَهُ يَأْوِسُ كَا سَنَ هُوَا۔
 اَمَذَلَّ اَمَذَلَّ لَا لَسَتْ وَ ذَهِيْلَا هُوَا۔
 اَمَذَلَّتْ رَجُلَهُ يَأْوِسُ كَا سَنَ هُوَا۔
 المذلل سے سستی ڈھیلا پن۔ اور کہا جاتا ہے
 "فَلَانَ مَذَلَّ الْيَدُ اَوْ النَّفْسُ" فلاں سخی
 کریم ہے۔
 المذلل چھوٹے جسم والا۔
 المذلل والمذلل بے قرار۔ زَجَّجَ هُوَا
 والا۔ راز کو ظاہر کر دینے والا۔ مَذَلَّتْ كِلِي مَجَّ
 مَذَلَّتِي۔ المذلل والمذلل وہ شخص جس کا
 دل کسی چیز سے بھر جائے اور وہ اس کو چھوڑ کر
 دوسری چیز کی امید لگائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 مَذَلَّ بِمَهْجَتِهِ" وہ اپنی روح کی سخاوت
 کرنے والا ہے۔
 الممذلل جو بھید کے چھپانے سے زَجَّجَ هُو
 جائے۔ بہت بے حس یاؤں والا۔
 مَذَلَّ مَذَلَّ مَذَلَّتْ رَجُلَهُ جَمُوتَ بُولَا۔
 الممذمأذ بہت چلانے والا۔ ہاتھی۔ مؤنث
 مَذَمَّأَذ۔
 الممذمئج جھوٹ بولنے والا۔
 مَذَى يَمَذَى مَذَبًا وَ مَذَى الْفَرَسِ
 گھوڑے کو چرنے کے لیے چھوڑنا۔
 مَذَى يَمَذَى وَ اَمَذَى الرَّجُلُ ذَى نَكَلًا۔
 اَمَذَى الْفَرَسِ گھوڑے کو چرنے کیلئے
 چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "اَمَذَ بَعْتَانِ فَرَسِيكَ"
 یعنی اے گھوڑے کی نگام کو چھوڑو۔ اَمَذَى
 الشَّرَابِ يَأْوِي دِيَانِي مَلَانَا۔
 المذئی پانی جو حوض کی نالی سے نکلے۔ مذی
 جو ملاعبت یا یوسہ لینے کے وقت نکلے۔
 المذئی حوض میں پانی بہنے کی جگہ

والمذی: مذی جو ملاعبت یا یوسہ لینے کے
 وقت نکلے۔
 المذئی: شہید۔ لوے کا ہر قسم کا ہتھیار۔
 المذیة: آسانی سے حلق سے پیچے اترنے
 والی شراب۔ نرم یا سفید زرہ۔
 المذیة والمذیة: تین۔ ج مذاء و
 مذیبات۔
 مَرَّ (مَرًّا) مَرًّا وَ مَرُّوًّا وَ مَمْرًا كَرَنًا۔ جانا
 مَرَّةً وَ مَرَّ بِهِ وَ مَرَّ عَلَيْهِ كَرَنًا۔
 مَرًّا (مَرًّا) مَرًّا۔ العیون اونیٹ کے رتی
 بانہننا۔
 مَرَّ يَمْرُ مَرًّا وَ مَرَّةً۔ بفلان صفرًا كغلبہ
 ہونا۔ صفت ممرور۔
 مَرَّ (مَرًّا) مَرَّةً كَرَوَا هُوَا۔
 مَرَّ الشَّيْ كَرُوا كَرَنًا۔ زمین پر پھیلانا۔
 اَمْرًا فَلَانًا بَكْدًا: گزارنا التحیل رتی ثنا
 اور اسی سے ہے "مَا زَالَ يَمْرُ عَلَيْهِ"
 فلاں اس کے ساتھ لپٹتا رہتا کہ اسے چمک دے
 "وَ فَلَانَ ذُو نَقْضٍ وَ اَمْرًا" یعنی فلاں
 صاحب حل و عقد ہے اَمْرَ الشَّيْ كَرُوا هُوَا
 الشَّيْ كَرُوا كَرَنًا۔ اَمْرَةَ عَلِي الْجَسْرِ اَبِي
 نَعَا اے پل پر سے گزارا يدُهُ عَلِي الشَّيْ
 ہاتھ پھیرنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا اَمْرَ فَلَانَ"
 "مَا اَحْلَى" یعنی فلاں نے نہ كَرُوِي بات کی نہ
 ٹیٹھی۔ "وَ مَا يَمْرُ وَ مَا يَحْلَى" یعنی نہ ضار
 ہے نہ نافع۔
 مَارَ مَرًّا وَ مَمَارَةً عَلَي الْأَرْضِ بَحْيِيًا۔
 الرَّجُلُ بَحْيِيًا لِيَكْلِبَ لِيَأْتَا سَاتَه كَرَنًا۔
 اَمْرًا بِهِ وَ عَلَيْهِ كَرَنًا۔
 تَمَارَ الْقَوْمُ بَعْضُ كَابَعْضٍ كَسَاتَه كَرَنًا۔
 تَمَارًا مَا بَيْنَهُمْ اَبِي دُوسرے کے ساتھ
 بَعْضُ وَ دَشْمِي رَكَنًا۔ کہا جاتا ہے "هُمَا
 يَتَمَارَانُ" وہ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں۔
 اسْتَمَرَّ كَرَنًا۔ جانا۔ ایک حالت پر باقی
 رہنا۔ بھینک کرنا بہ علی كذا باقی رَكَنًا۔
 ثابت رَكَنًا الرَّجُلُ دَرَسَتْ مَعَالَمَ هُوَا
 الشَّيْ كَرُوا پانا بالشَّيْ تَمَلُّ كَرَنًا مِثْلُ قَوِي

ہونا۔
 الممر سے رستی۔ پھاؤڑی۔
 الممر كَرُوا۔ ایک قسم کی دو جا ایک درخت
 سے نکل کر جم جاتی ہے جس کا ہاڑا ہوتا ہے
 اور پو ابھی ہوتی ہے۔ ممر الصخاری
 اندرائیں۔
 الممرۃ: ایک پار۔ ج ممر و ممر و ممر و
 ممر و ممرات۔
 الممرۃ سے: وہ حالت کہ جس پر کوئی چیز ہمیشہ
 رہے۔ رستی کی لڑی۔ جسم کی توانائی۔ ذہانت۔
 ج ممر و ج ممرات۔ صفرًا یا سود۔ ج ممرات۔
 الممرۃ۔ بٹنا۔ کہا جاتا ہے "حَبْلٌ شَدِيدٌ
 الممرۃ" مضبوط عی ہوتی رستی۔ ذو ممرۃ
 لقب حضرت جبرئیل کا۔
 الممرۃ: الممر کا مؤنث۔ كَرُوِي۔ ج ممرات۔
 بہت تخیل۔ ایک قسم کی سبزی۔ ج ممر و
 اَمْرًا۔ اَبُو مَرَّةً كَبِيَّتِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ اللَّعْنُ
 کہا جاتا ہے "لَقِيَ مِنْهُ الْمُرْتِنِ" شتر کو اور
 بڑے امر کو۔
 الممرۃ پتا۔ ج ممرات و ممرات۔ تخی۔
 الممریاء: ایک قسم کا کالا دنہ جو گیہوں میں
 ہوتا ہے اور چھیک دیا جاتا ہے۔ نازک۔ اندام
 لڑکی۔
 المارورة نازک اندام لڑکی۔ ایک قسم کا کالا
 دنہ جو گیہوں میں ہوتا ہے۔
 الممری سالن۔ چٹنی۔ ایک قسم کی دوا۔
 الممرار: ایک درخت ہے جس کو عوام
 الممریز کہتے ہیں اونٹ جب اس کو کھاتا ہے تو
 اس کے ہونٹ سکڑ جاتے ہیں اور دانت نکل
 آتے ہیں۔
 الممریو والممریوۃ پختہ ارادہ من الجبال:
 مضبوط عی ہوئی رستی۔ اَمْرٌ مَرِيْرٌ مَضْبُوطٌ
 معاملہ رَجُلٌ مَرِيْرٌ قَوِي پختہ ارادہ والا۔ کہا
 جاتا ہے "اسْتَمَرَّ مَرِيْرٌ" یعنی ضعف کے بعد
 قوی ہو گیا۔
 "وَ اسْتَمَرَّتْ مَرِيْرُوْتُهُ عَلَي كَذَا" جبکہ
 کوئی شخص کسی چیز کا عادی ہو جائے۔

المريضة: عزت نفس۔ رسی کی لڑی۔ ج
مرائب۔

الأمر: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فلان امر
عقداً من فلان" یعنی فلاں فلاں سے زیادہ
عہد کا پابند ہے۔ مؤنث مری۔ الأمر: گوہر
جمع ہونے کی آنتیں (اور یہ اسم جمع ہے)
الأمران: فقر اور بڑھاپا انہیں کے مانند۔ کہا
جاتا ہے "لقد منہ الأمرین" یعنی اس نے
اس سے سختی اور تنگی دیکھی۔

الممر: سر گزرگاہ۔
الممر: بن بہت مضبوط بنی ہوئی رسی۔
قربة ممرورة: بھری ہوئی مگ۔

مرأ و مری (س) و مرؤ (ک) مرانة:
الطعام: خوشگوار ہونا۔ اور "هنائی و مرانی
الطعام" اتباع کی بنا پر کہا جاتا ہے اور اگر بغیر
ہنائی کے کہنا ہو تو امرائی باب افعال سے کہا
جائے گا۔

مرأ (ف) مرءا. الرجل. کھانا۔)
وامرأ الطعام فلاناً. باغ و مفید ہونا۔
مرؤ (س) مرءا. بول چال یا بیت میں

عورت کی مانند ہونا۔
مرؤ (ک) مرؤنة. صاحب مروت ہونا۔
مرانة) المکان: ہتھی ہوا کا ہونا۔
مرأة کسی کو ہینسا مرینا کہنا۔

تمراً. جگلف مروت کرنا۔ صاحب مروت
ہونا۔ کہا جاتا ہے "فلان يتمر أبناً" فلاں
ہمارے عیب یا نقصان کے ذریعہ نخوت چاہتا
ہے۔

استمرأ الطعام: خوشگوار سمجھنا۔ خوشگوار
پانا۔
المرء مثلثة الميم: مرد۔ ج رجال
(من غیر لفظ) اور مرؤون بھی سنا گیا ہے۔
اور نسبت کیلئے مرئی مؤنث مرأة و مرؤ۔
أمرؤ۔ مرد۔ ہمزہ وصل کے ساتھ اور راک
حرکت آخری حرکت کے مطابق ہوتی ہے۔ تم
کہو گے جاء أمرؤ رأيت امرأ مرث
بامری اور ہر حالت میں ضمہ و فتح بھی جائز

ہے۔ مؤنث امرأة. نساء و نسوة (من
غیر لفظها) اور جب تصغیر بنائیں گے تو ہمزہ
وصل ساقط ہو جائے گا۔ کہا جائے گا مری۔ و
مرينة. اور امری. بالفلام تعریف کا داخل
نہیں ہوتا اور امرأة. پر داخل ہونا اور ہے۔
المرأة. مرأ کا اسم مرث۔ مری الطعام کا

اسم۔
المرؤنة. نخوت۔ کامل مردانگی۔ مصباح
میں ہے کہ مرؤنة ان آداب نفسانیہ کو کہتے
ہیں جو انسان کو اخلاق حسنہ اور آداب جمیلہ پر
براہمچہ کریں اور کبھی ہمزہ کو واؤ سے بدل کر
اوغام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرؤة۔

الصوی. زخرفہ۔ ج مرؤ و امرئة صاحب
مروت۔ کہا جاتا ہے "طعام مری" خوشگوار
کھانا۔ و کلاً مری بدھمی نہ کرنے والی
گھاس۔ و "هيننا مرینا" کھانے پینے والے
کیلئے دعا ہے۔ یعنی چتا چتا کھاؤ۔
المرينة صحرى کا مؤنث۔ ارض مرينة:
ہتھی ہوا والی زمین

مرث (ض) مرثا. الشىء. نرم و چمکدار
کرنا۔
المرث. سر. (و المرؤت) جنگل جس
میں سبزی نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے ارض مرث
زمین سبزی سے خالی۔ ج امرات و مرؤت
و امرات رجل مرث: مرد جس کی
ایرووں پر بال نہ ہوں۔ مرث الجسد: وہ
شخص جس کے جسم پر بال نہ ہوں غلام
مرث الغدار: لڑکا جس کی سپیں نہ بھیگی
ہوں۔ ارض ممرؤنة: زمین سبزی سے
خالی۔

المرؤنة. المرث کا اسم۔ زمین کا سوکھا
پن۔
مرث (ن ض) مرثا الشىء: نرم کرنا
الصبى اصبعه: بچے کا انگلی چبانا نڈی امہ:
چوستا الرجل الرجل: مارنا الدواء فى
الماء: دوا بھگوننا۔ مرث التمر بيده فى
الماء: بھگوننا۔ اور ریزہ ریزہ ہونے کے لیے

مرثا الشىء: نرم کرنا
الصبى اصبعه: بچے کا انگلی چبانا نڈی امہ:
چوستا الرجل الرجل: مارنا الدواء فى
الماء: دوا بھگوننا۔ مرث التمر بيده فى
الماء: بھگوننا۔ اور ریزہ ریزہ ہونے کے لیے

مرثا الشىء: نرم کرنا
الصبى اصبعه: بچے کا انگلی چبانا نڈی امہ:
چوستا الرجل الرجل: مارنا الدواء فى
الماء: دوا بھگوننا۔ مرث التمر بيده فى
الماء: بھگوننا۔ اور ریزہ ریزہ ہونے کے لیے

مرثا الشىء: نرم کرنا
الصبى اصبعه: بچے کا انگلی چبانا نڈی امہ:
چوستا الرجل الرجل: مارنا الدواء فى
الماء: دوا بھگوننا۔ مرث التمر بيده فى
الماء: بھگوننا۔ اور ریزہ ریزہ ہونے کے لیے

ہلانا۔

مرث (س) مرثا على الحصام: صارو
بردار ہونا۔ صفت مرث و ممرث۔ ج
ممارث۔

مرث القرينة: خرید کو ریزہ ریزہ کرنا۔
مرح (س) مرجا الأمر والعهد
والامانة و الذین: خراب ہونا۔ فاسد ہونا
الخاتم فى الاضع: انگوٹھی کا انگلی میں
ڈھیلا ہونا۔

مرح (ن) مرجا الذابة: چوپایہ کو چراگاہ
میں چرنے کیلئے چھوڑنا۔ مرجح الذابة:
چوپایہ کا چراگاہ میں چرنا۔ کہا جاتا ہے "مرح
لسانه فى اعراض الناس" اس نے لوگوں
کی زمت اور غیبت میں زبان چلائی۔ مرح
الکذب: جھوٹ میں لوٹ ہونا السلطان
رعيتہ فساد کرنے و پنا۔ مرح الامر ضاع
کرنا۔ مضبوط کرنا الشىء بالشىء: ملانا۔
امرح الذابة: چوپایہ کو آزادی سے چرنے
و پنا الشىء: ملانا العهد: پورا نہ کرنا۔
امرحج الناقة: جنین کو خون بستہ ہو جانے

کے بعد گرا دینا۔
المرح: سر چراگاہ۔ ج مرؤح
المرح: فاد بہت بھڑکنے والا شعلہ۔ بے
دھوئیں کا انگارہ۔
المرح: باتوں میں زیادتی کرنے والا اور
جھوٹ بولنے والا۔
المرحان: چھوٹے موتی۔ و امر مرحانة
موتگا۔

المریج: سفید چھوٹی بڑی جو بیٹنگوں کے
درمیان ہوتی ہے۔ ج امرجة. امر مریج:
گڑبڑوے ترتیب معاملہ۔ سہم مریج: ہلنا
ہوا تیر۔ غصن مریج: شاخوں میں گھسی
ہوئی شاخ۔

المرموج: وہ شخص جس کے امور مستحکم نہ
ہوں۔ کہا جاتا ہے "نافقة ممرج" وہ اونٹنی
جس کو جنین گرا دینے کی عادت ہو گئی ہو۔
مرح (س) مرحا و مرحانا الزرع:

مرح (س) مرحا و مرحانا الزرع:

مرح (س) مرحا و مرحانا الزرع:

کھیتی میں خوشہ لگانا السَّحَابُ: بادل کا برساتا۔ مَرَحَتْ عَيْنُهُ: آنکھ کا تراب ہونا اور پانی بہنا الْعَيْنُ بِمَآئِهَا وَقَدَّاهَا: آنکھ کا پانی بہانا۔ مَرِجَ الرَّجُلُ: بہت زیادہ خوش ہونا۔ اِتْرَانَا ناز سے چلنا۔ صفت مَرِجٌ مَرِجٌ و مَرِجِيٌّ و مَرِجِيٌّ و مَرِجِيٌّ نَبِيٌّ: کہا جاتا ہے ”لا تَمْرُخْ بِعِرْصِكَ“ اپنی آبرو کے درپے نہ ہو۔

مَرَّحَ الْجِلْدَ: کھال پر تیل ملنا المَزَادَةُ المَحْدِيذَةُ پانی بھر دینا تاکہ درز بند ہو جائے۔ البُرُكِيُّ بُولُ صَافِ كَرْنَا المَهْرُ: بچھیرے کو سدھلانا الرَّجُلُ بُولِيٌّ بِنَكِّ فِي مِثَالِ بُولَا۔ اَمْرَاجُ: اِتْرَانَا پر براہِجیتہ کرنا۔ اَمْرَاجُ المَكْلَاةِ الفُرْسِ نِشَاطٌ فِي مِثَالِ اِتْرَانَا۔ المِرْجَاعُ نِشَاوَةٌ وَشَادِمَانِيٌّ اِتْرَاهُ۔ خَرَامَ نَازٍ مَرِجِيٌّ بَلَكُمُ تَعَجُّبٌ هُوَ جَو تِيرَانِدَاكَ لِيْلِي كَبَّاهَا جَانَا هُوَ جَب كَه تِيرَانِدَا پَر لَغِي۔ اور اسی كِه مَانِدَا هُوَ ”مَرِجِيَّ“

المَرِجِيٌّ بُولِيٌّ اِلَّا لِي (بلوہ راجی سے) المِرْجَاةُ: مَرِجِ كَا اِسْمُ نَوْعٍ شُكِّ اِكْمُوْر كَا دُحِيْر۔

المَرِجُوجُ: شَرَابٌ جِسْتِ وَاچَلَاكُ كَوْمَزَا۔ قَوْمُسُ مَرِجُوجٌ اِجْمَعُ طَرِيْقَهُ سِ تِيرَانِدَا كِنْتِي وَآلِي كَمَا ن۔

المِمْزُوجُ وَالمِمْزُوجُ جِسْتِ۔ خُوش وَ خَرْمُ۔ المِمْزُوجُ: بَهْتِ اَسْوُوْرُوْ وَاَلِي اَكْمَا اِ بَهْتِ جَلْدَا كَانَا وَآلِي رَمِيْنِ۔

المُْمَرَّجُ بِسِ۔ مَكْرَمُ مُمَرَّجٌ نِشِيٌّ پَر بِيحَلِي هُوْنِي اِكْمُوْرِي تَيْلِ۔

المِمْزُوجَةُ: بَهْتِ خُوش وَ خَرْمُ۔ كَبَّاهَا جَانَا هُوَ ”هُوَ تِلْعَابِيَةٌ تَمْرَاحَةٌ“ بَهْتِ كَلَاثِي اُور بَهْتِ خُوش وَ خَرْمُ هُوَ۔

مَرَّحِبَ فَلَانَا بِيْدِهِ مَحْبَابًا۔ خُوش اَمْدِيْدُ كَبَّاهَا اللّٰهُ فَلَانَا بِسَعْتِ وَ مَحْبَابِشِ فِي رَكْنَاةٍ وَ سَخْتِ كِي طَرَفِ بِلَانَا۔

مَرَّحِبُ (ف) مَرَّحِبُ مَرَّحِبٌ كَرْنَا جِسَدَهُ

بِاللَّذْهَنِ: جِسْمُ پَر تَيْلِ مَلْنَا۔ مَرِجٌ (س) مَرِجُوجًا: الطَّرْفُوجُ: طَوِيْلُ شَاخِ اُور اِجْمَعُ چُوْرُوْ وَا لَاهُو نَا۔ صِفْتُ مَرِجٌ مَرَّحِبٌ تَيْلِ مَلْنَا۔ مَرِجٌ وَ اَمْرَاجٌ۔ الْعَجِيْنُ: خَمِيْرُ كُوْبَانِي مَلَاكْرُوْ هِيْلَا كَرْنَا۔ تَمْرَاجُ بِاللَّذْهَنِ: اِجْمَعُ اَبُو كُو تَيْلِ مَلْنَا۔ □ المَرِجُوسُ: اِكُّ قِسْمِ كَادَرْحَتِ جُو جَلْدِي اَكُّ پَكْرِي تَا يَ۔

المَرِجُوجُ مَالِشُ كَرْنَا كِي چِيْزِ۔ المَرَارِجُ: فَا مَاءٌ مَرَارِجٌ بَهْتَا هُوَا پَانِي۔ رَجُلٌ مَرَارِجٌ پَانِي بَهَانَا وَ اَلَا مَرِدُ۔ المَرِجُوجُ وَ المَرِجُوجُ: بَهْتِ تَيْلِ لُغَا نَا وَآلَا يُوْقُوْفُ مِمِّنِ الشَّجَرِ بَرْمٌ وَ اِتْرَانَا المَرِجُوجُ: سَبْعُ سِيَارِهِ مِيْنِ سِ اِكِّ سِتَارِهِ كَا نَامُ جَسْمُ كُو هِنْدِي مِيْنِ مَسْكَلِ اُور فَا رَسِي مِيْنِ جَلَاو فَلَكَ كِهْتِي پِي۔

المُرَّخَةُ: كِكِي كَجُورُجِ مَرِجُوجُ مَرَّخٌ رَمُ پُو نَجْمُ۔ المَرِغِيغُ: سِيْنَكِ كِ اُنْدَرِ چَهِوْ اِسِيْنَكِ۔ جِ اَمْرُخَةُ۔

تَوْزُ اَمْرُخِ: سَيْدِي سِرْخِ دَاغِ وَآلَا تَيْلِ۔ المَرَّخَاءُ: چِسْتِ تِيْزِ چَلِي وَآلَا اُو نِشِي۔

مَرَّحَلَانٌ (مَرَّوْدَانُ وَ مَرَّوْدَاكُ) مَرَّادَةٌ وَ مَرَّوْدَةٌ: سِرْكَشِي كَرْنَا نَا فَرْمَانِي كَرْنَا۔ بَسْرُوْرُوْ سِ سَبْقَتِ لِي جَانَا۔ مَرَّوْدَةٌ عَلَي النِّفَاقِ وَ نَحْوُهُ نِفَاقٌ وَ غَيْرُهُ پَر مَدَامَتِ كَرْنَا۔

مَرَّحَلَانٌ (مَرَّوْدَانُ) مَرَّوْدًا: الخِيْزِرُ رُوْدِيٌّ كُو نَرْمِ كَرْنَا۔ كَانَا فَلَانَا بَهْتِ عَزَتِ كَرْنَا الدَّآئِبَةُ

چُو پَا يَ كُو زُوْرُ سِ بَا كُنَا الصَّبِيُّ نُدَيُّ اَمِّه: بَا تَمُوْرُوْ سِ مَلْنَا المَلَاخُ السَّفِيْنَةُ: سِرْكَشِي كُو چِيُو سِ چَلَانَا الشَّيْ فِي المَاءِ پَانِي مِيْنِ مَلْنَا الغُصْنُ: نِشِيٌّ كِي چَهَالِ چَهْرَانَا۔

مَرَّوْدٌ (س) مَرَّوْدًا وَ مَرَّوْدَةٌ: الغَلَامُ: لَاكِي كَادَرِي تِك يَ وَآلِي اِسِي كِ رَهْمَا الرَّجُلُ: دُوْدُهُ مِيْنِ بِيحَلِي هُوْنِي كَجُورُ كِهَانَا كِي مَدَامَتِ كَرْنَا۔

مَرَّوْدَةٌ تَمْرِيْدَا وَ مَرَّوْدَا الغُصْنُ: نِشِيٌّ سِ

چِتِي جَمَّآرُ دِيْنَا البِنَاءُ: عَمَارَتِ كُو بَسُوَارِ وَ چَكْنَا كَرْنَا لَمِي كَرْنَا اِلْحَمَامُ تَمْرَآدَا: كَا بَكِ مِيْنِ چَهِوْرُوْ چَهِوْرُوْ خَانَا بِنَانَا۔

تَمْرُوْدَةٌ: مَدَتِ تِك يَ وَآلِي اِسِي كِ رَهْمَا نَا فَرْمَانِي كَرْنَا۔ عَلَي النِّسْ: سِرْكَشِي كَرْنَا الرَّجُلُ: بَسْرُوْرُوْ سِ بُوْزِ جَانَا۔ تِكْبِرُ كَرْنَا سِرْكَشُوْ كِ پَا سِ اِنَا۔

المَرَّادُ وَ المَرَّادُ: اَكْرُوْدُنِ۔ جِ مَرَّارِيْدُ: المَرَّوْدُ: بِيُوْ كَا نَا زِ بَهْلِ۔

المَرَّوْدِيٌّ: كَشِي چَلَانَا كَجُورُجِ مَرَّارِيْدِيٌّ۔ المَرَّادُ: فَا سِرْكَشِ۔ بَلَنْدُ: كَبَّاهَا جَانَا هُوَ ”بِنَاءٌ مَرَّادًا“ بَلَنْدُ عَمَارَتِ (اُور يَ مَحَابِرِي) جِ مَرَّوْدَةٌ وَ مَرَّادُوْنٌ وَ مَرَّادٌ۔

المَرَّوْدِيْدُ: سَخْتِ سِرْكَشِ۔ بَرَا شِرِيْرِي۔ جِ مَرَّوْدَا المَرَّوْدِيْدُ: دُوْدُهُ مِيْنِ بِيحَلُوْ كِي هُوْنِي كَجُورُجِ: اَلَا مَرَّوْدَةُ بِي وَآلِي اِسِي كِ جُوَانِ۔ قَوْمُسُ اَمْرُوْدُ:

كَهْوَزَا حُسُ كِي كَهْرُ كِي اَكْرُوْدُوْرُوْ بِلَانَا نَه پُو۔ مَوْثُ مَرَّوْدَا عِجْرُوْدُ: كَبَّاهَا جَانَا هُوَ ”مَرَّوْدَةٌ عَلَي جُرُوْدُ“ اَكْمُ بَالِ وَآلِي كَهْوَزُوْ بِي وَآلِي اِسِي مَو نَجْمُ كِي جُوَانِ۔

المَرَّوْدَا يَ پُوْرُوْ كَادَرْحَتِ: خَبْرُ رِيْگِسْتَانِ۔ خَبْرُ زَمِيْنِ: جِ مَرَّادُ۔

التَمْرَادُ: كَبُوْتُوْرُوْ كِي كَا بَكِ مِيْنِ چَهِوْرُوْ چَهِوْرُوْ خَانَا۔ جِ تَمْرَانِيْدُ۔

المَرَّوْدِيْدُ: سَخْتِ سِرْكَشِ۔ المَرَّوْدَقُوشُ: دُوْمَامَرُوْلُ زَعْفَرَانِ۔

مَرَّوْدَانٌ (ن) مَرَّوْدًا: الخِيْزِرُ رُوْدِيٌّ كُو نَرْمِ كَرْنَا كِي لِيْلِي مَلْنَا۔

مَرَّوْدَانٌ (مَرَّوْدَانَا): اَبَهْتِ اَبَهْتِ چَكِي لِيْنَا جَسْمِ مِيْنِ تَكْلِيْفِ نَه هُوَا وَرْجِبُ تَكْلِيْفِ هُو تُو اِسِ قَرْمُ كِهْتِي پِي رَجُلٌ عَجِبُ لُغَا نَا۔ بَا تَمَّهُ سِ مَرْنَا الشَّيْ بِيْزَا كَرْنَا الصَّبِيُّ نُدَيُّ اَمِّه: بِنَجِّ كَا دُوْدُهُ پِيچِي وَآلِي لِيْسْتَانِ پَر بَا تَمَّهُ مَرْنَا۔

مَارَزَةٌ مَرَّارَةٌ: مَشَقُّ كَرْنَا۔ مَهَارَتِ پِيْدَا كَرْنَا۔

اِعْتَرَزَ: عِزْبَةٌ عَجِيْبُ لُغَا نَا شَرِيْكُهُ: شَرِيْكُ كِي مَالِ كُو اِجْمَعُ مَالِ سِ جَدَا كَرْنَا مِيْنِ

مالہ مَرَّزَة: کچھ لے لینا۔
 المَرَّزَة والمَرَّزَة: حصّہ نکلا۔
 المَرَّزَاتَان: لوسے اور پراہر حصّہ۔
 المَرَّزَة: ایک شکاری پرندہ جس کو عقیب بھی کہتے ہیں۔
 عرض مَرِيض: آبرو جس کی بے عزتی ہوئی ہو۔
 المَرَّزَاتَان عِنْدَ الفَرَسِ: رہیں۔ سردار۔
 چودھری ج مَرَّزَاتَانَة. والمَرَّزَاتَانَة عِنْدَهُمْ: سرداری۔
 المَرَّزَاتَانُ حُوش: دو نامروا۔
 مَرَّس (ن) مَرَّسَا الدَّوَاءَ: پانی میں بھگوننا اور ملنا الصَّبِي اِصْبَعَهُ: بچے کا انگلی کو منہ میں ڈال کے چوستا يَدَهُ بِالْمِئْدَانِ: رومال سے پونچھنا حَبِلَ البَكْرَةَ: چرخی سے آکر ایک جانب ہو جانا۔
 مَرَّسْت (س) مَرَّسَا البَكْرَةَ: رشی کا چرخی اور ادھر ادھر کی کلڑی کے درمیان پھنس جانا۔ کہا جاتا ہے "مَرَّسْت حِبَالَهُ" یعنی اس کے امور گڑبڑ ہو گئے۔ مَرَّسَ الرَّجُلُ: کاموں میں بہت مشغولیت والا ہونا۔
 مَرَّسَ مَرَّسَا وَمَمَّارَسَة الأَمْرُ: مشق نہ سخت کرنا۔ تھگی کرنا۔ مہارت پیدا کرنا۔
 کو کسی کام میں لگانا۔
 أَمَّرَسَ: حَبِلَ البَكْرَةَ: چرخی پر رشی کو زیادہ چڑھانا۔
 تَمَّرَسَ وَ اِمْتَرَسَ بِالشَّيْ رَغْرَبًا: تَمَّرَسَ بِالطَّيْبِ: خوشبو سے لت پت ہونا بِالرَّجُلِ: برائی کے در پے ہونا بَدِينَهُ: دن بے کھیلنا۔
 بِالشَّيْ: مارنا بِالنَّوَابِ وَالْحَصُومَاتِ: حوادث اور جھگڑوں کا عادی ہونا۔ اِمْتَرَسَ الخَطْبَاءُ وَاللَّسَنُ فِي الخَصُومَاتِ: خصومت میں اپنی بات براڑے رہنا۔
 تَمَّارَسَ القَوْمُ فِي الحَرْبِ: باہم جگ و پیکار کرنا۔
 المَرَّسُ سر۔ لگاتار چال۔
 المَرَّسُ: کاموں میں زیادہ مشغولیت رکھنے

والا۔ جنگ آزمودہ۔ رشی چرخی سے علیحدہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے "ہم علی مَرَّسٍ وَاحِدٌ" وہ سب ایک ہی اخلاق کے ہیں۔ ج مَرَّسِ: امراض۔
 المَرَّسَة: رشی۔ ج مَرَّسِ وَ ج مَرَّسِ: امراض المَرَّسِ المَرَّسَة: طاق۔ سختی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَهْلُ المَرَّاسِ" وہ نرم مزاج ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں صَعْبُ المَرَّاسِ: کہا جاتا ہے۔
 المَرَّاسُ: مضبوط۔ طاقتور۔ کہا جاتا ہے "لَيْلَة مَرَّاسَة": سخت اور تھکا دینے والی رات۔
 المَرَّوْسُ: چرخی جس سے رشی ایک طرف کو گرگئی ہو۔
 المَرَّوْسُ: پانی میں بھگوئی ہوئی سمجھوریں وغیرہ۔
 المَارَسَاتَانِ وَالْمَارَسَاتَانِ: شفاخانہ ج مَارَسَاتَانِ: (رجل) مَرَّش (ن) مَرَّشَا وَجْهَهُ: چہرہ نوچنا۔
 کھرچنا۔ منہ سے کانٹا۔ چنگی لینا: کلام سے ایذا پہنچانا۔ مَرَّشَ المَاءَ: پانی بہنا۔
 اِمْتَرَسَ الشَّيْ: کھینچنا۔ اُچک لینا لَعْبَالَهُ: کبابی کرنا الشَّيْ: جمع کرنا۔
 المَرَّسَنُ: جلا ہوا سکہ۔ وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ ضرب مثل ہے۔ فلاں سکہ سے زیادہ بھاری ہے۔
 المَرَّشُ: سر۔ بارش سے صاف شدہ زمین۔ وہ زمین جو تھوڑی سی بارش میں بہہ نکلے۔ ج مَرَّوْسِ وَ اِمْرَاشِ: المَرَّشُ: پہاڑ کا پست حصّہ۔
 الأَمْرَاشُ: بہت شری۔ مَرَّشَاءُ ج مَرَّشُ: المَرَّشَاءُ: ہر پاگل کت کھنا جاوڑ۔
 مختلف قسم کی گھاسوں والی زمین۔
 المَرَّاشُ: بہت کماؤ۔
 التَمَرَّيشُ: تھوڑی بارش۔
 مَرَّصَ (ن) مَرَّصَا القُدَى وَ نَحْوَهُ:

پستان کو انگلیوں سے دبانا۔
 مَرَّصَ (ن) مَرَّصَا الرَّجُلَ: سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
 تَمَرَّصَ القِشْرَ عَنِ الشَّعِيرِ وَ نَحْوَهُ: جو وغیرہ سے چھلکا اُتر جانا۔
 المَرَّوْسُ: تیز رفتار اونٹنی۔
 مَرَّوْسُ (س) مَرَّوْسَا وَ مَرَّوْسَا: بیمار ہونا۔ صَفِي مَرَّوْسُ وَ مَرَّيْضُ وَ مَرَّوْسُ: مَرَّوْسَة: علاج کرنا۔ تیار داری کرنا۔ مریض کر دینا۔ مَرَّوْسُ فِي الأَمْرِ: کابل ہونا۔ کمزور ہونا۔ مضبوطی سے نہ کرنا البَرَّ: کھپوں بکھیرنا۔
 أَمْرَاضُ مَرِيضٍ هُوَ اللّٰهُ فَلَانَا: مریض بنانا ہ: مَرَّيْضُ بَانَا: "آتیت زیدنا" کہا جاتا ہے۔
 قَامَرَّوْسَتَهُ: میں زید کے پاس آیا تو میں نے اس کو مَرَّيْضُ پَالَا اجفانہ: پلکوں کو پست کرنا الرَّجُلُ: حاجت بر آری کے قریب ہونا۔
 القَوْمُ: مریض چوپائے والے ہوتا۔
 تَمَرَّوْسَ: کام میں کمزور ہونا۔
 تَمَّارَصَ: جتکف مریض بنا فی اَمْرِهِ: کمزور ہونا۔
 المَرَّوْسُ وَ المَرَّوْسُ: بیماری ج مَرَّوْسُ: کہا جاتا ہے "بہ مَرَّوْسَة شَدِيدَة" یعنی اسے سخت مرض ہے۔
 المَرَّيْضُ ج مَرَّوْسِي وَ المَرَّوْسُ ج مَرَّوْسِي: بیمار۔
 مَرَّوْسُ قَلْبٍ مَرِيضٍ: کمزور زمین۔
 وَاللَّيْ رَأَى مَرِيضٍ: کمزور رہا۔
 عَيْنُ مَرِيضَة كَمَرَّوْرٍ أَمْرٍ: ریح مریضہ: سست ہوا۔
 لَيْلَة مَرِيضَة: رات جس میں ستارے دکھائی نہ دیں۔
 أَرْضُ مَرِيضَة: تنگ زمین۔
 جَمِيلُ زَمِينٍ: بہت تیز فیاہ جگ و جدال والی زمین۔
 شَمْسُ مَرِيضَة: بادل وغیرہ کی وجہ سے اچھی طرح سے روشنی نہ دینے والا آفتاب۔
 مَرِيضَة كِي جَمْع مَرَّوْسِ وَ مَرَّوْسِي: المَرَّوْسُ: بہت بیماری والا۔
 المَمَرَّوْسُ وَ المَمَرَّوْسُ: بیمار۔
 مَرَّوْطُ (ن) مَرَّوْطَا وَ مَرَّوْطُ الشَّعْرِ: او

الزيتس بال يابو نوچتا الشى جمع كرتا
بسلسله بخاند كرتا مرطبت المرأة
بولدها چننا (مرطا و مروظا الرجل)
جلدى كرتا فلانا نمكنا دينا مرط القوب
استهيوں كو چھوئا كر كے چادر كى مانند بنانا
مرطاس مرطام بالوں والا ہونا
امرط الشعربال كانوچنے كے قابل ہونا
امرطت النخله درخت خرما سے چكى
كجوریں گرانا النفاقه اونٹنى كا چلنے ميں تيز
ہونا

مارطه ممارطه ايک دوسرے كے بال
نوچتا
تمرط و امرط و امرط الشعربال
گرنا تمرط السهم تير كا پرے خالى ہونا
امرط الشى چك لینا
الممرط ہر بے سلا ہوا کپڑا اون يارشم كى
چادر ج مروظ

الامرط كم بال والا بھيڑا جس كے بال
نچے ہوئے ہوں چور مؤث مرطاعج
مرط شجره مرطاعے پتوں كا درخت
سهم مريط و مرط و امرط بے پر كا
تير

الممرط من السهم بے پر كا تير کہا جاتا
ہے "سهم مرطاج امرط و مرط
الممرطه جو بال نوچنے يا سگھي كرنے ميں
گرے الممروظ تيز رفتارى فرس
مرطى تيز رفتار گھوڑا
السمرطه من النوق تيز رفتار اونٹنى ج
مصارط

المريطاء ناف ياسينه اور پيڑو كے درميان
بغل داڑھی بچے كے گردا گرد
مرغف مرغا راسه بالدھن سر پر
تيل ملنا شعردبال ميں سگھي كرتا
مرغس مرغا و مرغاك مراعه
المكان سر سبز ہونا الرجل خوش حال ہونا
مرغاس مرغا الرجل سبزہ زار ميں

پھینا
امرغ المكان سر سبز ہونا راسه بالدھن
خوب تيل ملنا القوم سر سبز جگہ پانا
تمرغ جلدى كرتا گھاس طلب كرتا
انمرغ فى البلاد چانا سیر كرتا
الممرغ گھاس ج امرغ و امرغ
مكان مرغ سبزہ زار جگہ رجل مرغ

سبزہ زار ڈھونڈنے والا مرد
الممرغه و المرغاج چرنى
الممرغه و الممرغه ايک پرندہ تير كے
مانند ج مرغ و ممرغان
مكان مربع سبزہ زار جگہ ج امرغ و
امرغ چا جاتا ہے "فلان مربع الجناب"
فلاں بہت سخي و فياض ہے
الامرغ سبزہ زار زمين ج اماربع
الممرغ سبزہ زار
ممرابع الارض عمدہ زمينیں اس كا واحد

نہیں
الممرغى و الممرغى و الممرغى
و الممرغى و الممرغى بركى كے بالوں
كے نچے كارواں نرم اون
مرغف مرغا الحيوان العشب
چارہ چرنا فى العشب چرنے كيلے ٹھہرنا
البعير اونٹ كا جھاگ ڈالنا
مرغاس مرغا عرضہ عزت پر دھبہ
لگنا

مرغه تمرغفا و تمرغا فى التراب
مٹی ميں لوٹانا مرغ العرض آبرو كو داغ
دار كرتا راسفوق تيل لگانا
مارغہ قريب دينا ذ فى التراب مٹی ميں
چکانا

امرغ سونے ميں رال بہنا بہت بگاڑا كرتا
العجين گندھے ہوئے آنے نوپانى بڑھا كر
نرم كرتا عرضہ آبرو كو داغ دار كرتا
تمرغ فى التراب مٹی ميں لوٹنا فى
الامر ترد كرتا على فلان دير لگانا
الحيوان جانور كا جھاگ نگانا تمرغبت

السائيم چوپايہ كا دير تک كسى جگہ ميں چرنا
الرجل زراى سے دور رہنا بدن كو چكيا اور
نرم كرتا دروكى وجہ سے تملانا فى التميم
نعمت ميں لوٹ پوٹ ہونا
الممرغ سر لعاب باغ تيل كى خوب
مالش
المنارغ فا بيوقوف

الممرغ من الشعربه تيل جذب كرنے
والے بال الممرغ والممرغه
والممرغ جانور كے لوٹنے كى جگہ
الممرغه مرغ كا اسم مرغ باغ
الامرغ افعال رزيلہ ميں آلودہ مؤث
مرغاعج مرغ
الممرغه ايک آنت كا نام جس كو اعور بھی
كہتے ہيں

مرغون مرغوا السهم من الرميۃ
تير كا شكار كو چمك كے پار ہونا من اللين
گر اى يادعت كى وجہ سے دن سے نكل جانا
مرغون ض مرغا القدر شور بازياہ كرتا
الجلد كھال سے اون كھيڑنا ذ بالرمح تيزہ
مارنا الطائر پرندہ كا پيٹ كرتا
مرغوس مرغا البيضة انڈے كا گندرا
ہو كر پانى بنا النخله درخت خرما سے زيادى
كى وجہ سے بچلوں كا گر جانا

امرغ القدر شور بازياہ كرتا الجلد اون
كھيڑنے كے قابل ہونا النخله زيادى كى وجہ
سے بچلوں كا گرنا اسم المرق ہے
مرغكانا القدر شور بازياہ كرتا
تمرغ الشعربال كھيڑ جانا مرض وغيره
كى وجہ سے بال جھڑ جانا القوب كپڑے كا
عصفر سے رنگ جانا

امرغ و امرغ السهم چميد كر پار ہونا
الشعربال گرنا
امرغ الشى جلدى سے گزر جانا
السيف من عمدہ تلوار كو ميان سے
سوتنا
المرق سر دھكى ہوئى اون بدبودار اون يا

کھال۔ خوشے کے خارج آمراق کہا جاتا ہے
"أصابه ذلك في مرقك" یعنی یہ مصیبت
اس کو تمہاری وجہ سے یا تمہارے جرم کی وجہ
سے لاحق ہوئی۔

المِرق۔ بدودار اون یا کھال۔

المِرق والمِرقۃ۔ شوربا۔

المِرقۃ۔ کھیرنی ہوئی اون۔ تھوڑی سی
کھیرنی ہوئی گھاس۔

المِراق۔ دین سے نکل جانے والا۔ ج
مارقون و مِراق۔ المِراق: چھید کر کے پار
ہوجانے والا۔

المِراقۃ۔ المِراق کا مؤنث۔ خوارج۔

المِریق والمِریق۔ عصف۔ ثوب

مُمرق۔ عصف سے رنگا ہوا کپڑا۔

المِمرق۔ نکلنے کی جگہ۔ روشن دان۔

لحم مُمرق۔ بہت چکنا گوشت۔

المِمرق۔ گویا (گانے والا)

مِمر۔ غضبناک ہونا الماء: سطح زمین پر پانی
بہانا۔

مَرَك و مَرَك۔ سامان تجارت پر نشان فارق
لگانا۔

الفَارَكۃ۔ سامان پر نشان فارق۔

تَمَرَمُ الرَّمْلُ۔ ریت کا موج دار بنا جسبم:
جسم کا تھلھٹھلانا علی اَصحابہ: امیر ہونا۔

المِمرم۔ سنگ مرمر۔ واحد مِمرۃ (و
المِمرمار) بہت رس والا اتار۔ نازک بدن
تھلھٹھلانے والا۔

مِمر: کڑوا ہونا المِمرمار: زیادہ پانی والا اتار۔

المِمرامیر۔ باطل۔ نازک بدن۔ تھلھٹھلانے
والا۔

المِمرۃ۔ س۔ بہت بارش۔

المِمرمیس۔ چکنا۔ تخت۔ مصیبت۔ لمبی
گروں۔

المِمرمیس۔ گینڈا۔

مِرَن (ن) مُرُونَةٌ و مُرُونًا و مِرَانَةٌ
تھوڑی سختی کے ساتھ نرم ہونا يذُء علی

العَمَل و جِهَهُ عَلَی الْأَمْرِ: سخت ہونا

(مُرُونًا و مِرَانَةٌ) عَلَی الشَّي: عادی ہونا۔

مِرَن (ن) مِرَانًا الْجِلْد: کھال کو نرم کرنا۔
مِن عِدْوَةٍ: دشمن سے بھاگنا يه الْأَرْضُ:
زمین پر چلنا دینا۔

مِرَن الشَّي: نرم کرنا فِلَانًا عَلَی الْأَمْرِ:
عادی بنانا يه الْأَرْضُ: زمین پر چلنا دینا۔

تَمَرَن: تکلف دانا وزیرک بنا۔ مہربان ہونا
عَلَی الشَّي: عادی ہونا۔

تَمَرَنَتِ النَّاقَةُ: دودھ دینے سے رک جانا۔
المِرَن: س۔ ایک قسم کا کپڑا۔ نرم کھال۔
لباس اپوستین۔ عطیہ۔ جانب۔ ج آمِران۔

مِرَانًا: الأنف: ناک کے دونوں جانب۔
المِرَن: مچان جس پر باغبان سوتا ہے۔

المِرَن: ملائم و سخت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے
"هَمُّ عَلَی مِرَن وَاحِدٍ" جب کہ سب
اخلاق میں ایک جیسے ہوں۔ حال۔ کہا جاتا ہے

"مَا زَالَ ذَلِكَ مِرَنِي" ہمیشہ میری یہ حالت
رہی۔ المِرَن: شور و جگ۔

المِرَان: ٹھوس و چمک دار نیزے۔ ایک
درخت ہے جس کے نیزے بنائے جاتے ہیں۔

واحد مِرَانَةٌ۔

المِرَان: فانا ناک کا کنارہ یا ناک کا نرم حصہ ج
مَوَارِن: زُمَع مَارِن: ٹھوس چمک دار نیزہ۔

المِیرون، عِنْد النَّصَارَى: عیسائیوں کے
اعتقاد میں ایک مقدس تیل جو بعض رسوم میں
عیسائیوں کو لگایا جاتا ہے۔

أَمْرَان الدَّرَاع: ہاتھ کا چھڑا۔
مِرَهَت (س) مِرَهًا عَيْنُهُ: سرمہ چھوڑنے
سے آنکھ کا خراب ہونا۔ صفت مِرَوَةٌ و أَمْرَةٌ۔

رَجُلٌ مِرَوَةٌ الْفُوَاد: مرد بیمار دل۔ سَحَابٌ
أَمْرَةٌ: سفید بادل جس میں سیاہی بالکل نہ ہو۔

المِرَهَاء: الْأَمْرَه کا مؤنث۔ بَشَاء مِرَهَاء:
سفید بکری جس میں کوئی اور داغ نہ ہو۔ مَغْرَهَةٌ
أَرْضٌ مِرَهَاء: کم درخت والی زمین۔

المِرَهَاء: سفیدی جس میں کوئی دوسرا رنگ ملا
ہو نہ ہو۔ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔

مِرَهْمٌ مِرَهْمَةٌ الْجَوْح: زخم پر مرہم

لگانا۔

المِرَهْم: زخم پر لگانے کی دوا۔ ج مِرَاهِم:
المِرَو: ایک سخت قسم کا پتھر جس کو سواں
بھی کہتے ہیں۔ واحد المِرَوَة کہا جاتا ہے

"قَرَع الدَّهْرُ مِرَوْتَهُ" یعنی زمانے نے اس پر
بلا نازل کی۔ المِرَو: ایک خوشبودار پودہ۔

مِرَوِي يَمِرُو مِرَانًا النَّاقَةُ: دودھ اتارنے
کے لئے تھن پر ہاتھ پھیرنا الدَّم و نَحْوَهُ:
خون نکالنا حَقَّة: حق کا انکار کرنا الرَّيْح:
السَّحَاب: ہوا کا بادل سے بارش برسانا

الشَّي: نکالنا الفِرَس: کوڑے وغیرہ سے مار
کر رفتار ظاہر کرانا۔ کہا جاتا ہے "مِرَمِي
ذَابْتَهُ بِسَاقِيهِ" وہ گزرا اس حال میں کہ اپنے
جانور کو اپنی پنڈلی سے دبا دیا کہ اس کی رفتار کو
دکھلارہا تھا۔

فِلَانًا مَاءَ سَوَاط: کوڑے مارنا۔ مِرَوِي
الفِرَس گھوڑے کا تین پاؤں پر کھڑے ہو کر
چوتھے کو زمین پر پھینکا۔

أَمَرَتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔
مَارِي مِرَاءً و مِمَارَةً: جھگڑا کرنا۔
تَمَارِيًا: باہم جھگڑا کرنا۔

أَمَرِي فِي الشَّي: شک کرنا (و اِسْتَمَرِي
اللَّيْن و نَحْوَهُ) دودھ دہونا۔ نکالنا۔

تَمَرِي تَمَرِيًا: بگڑنا۔ آراستہ ہونا۔
المِرِيَّة و المِرِيَّة: بگڑنا۔ کہا جاتا ہے
فِيهِ مِرِيَّةٌ، یعنی اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔

شَكَ المِرِيَّة: دودھ جو اونٹنی کے تھن پر
ہاتھ پھیر کر دوبا جائے۔ کہا جاتا ہے أَخَذْتُ
مِرِيَّةَ النَّاقَةِ، اونٹنی کے تھن پر ہاتھ پھیر کر
دوبا ہوا دودھ میں نے لیا۔

المِرَوِي: بہت دودھ والی اونٹنی۔ رگ جو
دودھ سے بھر جاتی ہے۔ مِرَوِيًا: المِرَوِيًا:
جمع مِرَوَة یعنی آئینہ اور بجائے ہینٹا مِرَوِيًا
کہیں مِرَوِيًا بھی کہا جاتا ہے۔

المِرَوِيَّة: بہت دودھ والی اونٹنی۔
المِرَوِيَّة: سفید چکنا چھڑا۔ مؤنث مِرَوِيَّة:
چھوٹی دھاری دار لمبی۔ قَطَارَةٌ دھاری دار لمبی۔

الماریة والممریة سفید چکنے پھڑے والی گائے۔
 مَرْمِج مزج مَرْمِجَات : ایک عورت کا نام (سریانی لفظ) اس کا معنی: بلندی پانے والی۔
 المَزْجَا : شراب اور پانی کا نام جس کو مقدس کام کے وقت پیا جاتا۔ (سریانی لفظ) ترجمہ: ملا ہوا۔
 مَزَّ (س) مَزَاة الرَّجُلُ: فضیلت والا ہونا الشئی: بہت ہونا۔ صفت مَزِيْز (مَزَااة و مَزُوَّة) الطَّعمُ: کھٹ مٹھا ہونا۔
 مَزَّ (ن) مَزَا الشئی: چوسنا۔
 مَاَز مَازَاةً بَيْنَهُمَا: دور دور کرنا۔
 مَزُوَّةٌ: فضیلت والا سمجھنا کذا: فضیلت دینا۔

تَمَازَّت البیةُ به: دور ہونا۔
 تَمَزَّر الشَّرَابُ: چوسنا۔ کھٹھا کھانا پینا۔
 المَزَّرَ دُشَوْرًا: سخت کہا جاتا ہے، اَمْرُ مَزَّرٌ، یہ سخت کام ہے۔
 المَزَّرَ مرتبہ و فضل۔ کثرت۔ اور کہا جاتا ہے "شئی مَزَّرٌ" فاضل چیز۔
 المَزَّرَ کھٹ مٹھا۔ مؤنث مَزُوَّةٌ۔
 المَزَّرَ والمَزَّرَاءُ والمَزَّرَةُ: خوشگوار شراب المَزَّرَةُ: ایک مرتبہ چوسنا۔ کہا جاتا ہے، مَا بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ إِلَّا مَزَّرَةٌ، برتن میں صرف موزا سا پانی رہا۔

المَزَّرَ کثرت۔ اور کہا جاتا ہے، فَعَلْتَهُ عَلَي مَزَّرٌ، یعنی میں نے اس کو مہلت سے کیا۔
 المَزَّرِيْزُ: فاضل۔ تھوڑا بہت۔ دُشَوْرًا۔
 المَزَّرِيْزُ: فاضل۔ افضل۔ دُشَوْرًا۔ مؤنث مَزَّرَاءُ غَلَزًا۔
 مَزَج (ن) مَزَجًا و مَزَاجًا الشَّرَابِ بِالمَاءِ: پانی ملا لینا۔ عَلَي فُلَانٍ: آگنا۔
 رَايَحْتَهُ كَرْنَا۔

مَاَزَجَهُ مَمَازَجَةً: مخالفت کرنا۔ فخر کرنا۔
 مَزَجَ السَّنْبُلُ: سبزی کے بعد زرد ہونا۔
 فُلَانًا: پچھ دینا۔
 تَمَازَجًا: باہم ایک دوسرے کا ملانا۔

اِمْتَزَجَ به: ملنا۔

المَزْجُ والمَزْجُ شہد۔ پانی جو شراب میں ملا یا جائے۔

المَزْجَا: س۔ ملانے کی چیز (جیسے پانی شراب میں) مزاج۔ مزج مزجہ۔

رَجُلٌ مَزْجٌ: چھوٹا گڑبڑ کرنے والا۔ ایک عادت پر پانی نہ رہنے والا۔

المَزْيَجُ: ملا ہوا۔ کڑوا یا دام۔

مَزَجَ (ف) مَزَجًا: مذاق کرنا۔ دل لگی کرنا۔

مَزَجَ السَّنْبُلُ او العنبُ: رنگ پکڑنا۔
 مَاَزَجَهُ مَزَاحًا و مَمَازَجَةً: ہنسی مذاق کرنا۔

تَمَازَجًا: باہم ہنسی مذاق کرنا۔

تَمَزَّجَ به: فخر کرنا۔

المَزْجُ: س۔ خوشہ۔

المَزَاحَةُ والمَزَاجُ: ہنسی۔ مذاق۔ دل لگی۔

المَزْمَاجُ: بہت ہنسی مذاق کرنے والا۔

المَزْمَجُ مِنَ النَّاسِ: ہنسی مذاق کرنے والے لوگ۔

المَزْدُ: سردی۔

مَزَّرَ (ن) مَزْرًا مِنَ اللَّيْنِ: تھوڑا سا پینا۔

اللَّيْنُ: دودھ کو چھکنے کے لیے پینا: آہستہ سے چٹکی لینا۔ غَصَّةٌ دلانا (و مَزْرٌ القومِ):

مٹک بھرنے۔

مَزْرٌ (ك) مَزَاةً: ظریف ہونا۔ سخت دل ہونا۔

تَمَزَّرَ النَّبِيْدُ: تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چکھنا۔

المَزْرُ: س۔ مرد ظریف۔

المَزْرُ: جو یا گیبوں کی شراب۔ بیوقوف۔

اصلاً۔ کہا جاتا ہے، هُوَ سَرِيْمٌ المَزْرُ، وہ شریف الاصل ہے۔

المَزْيَرُ: ظریف۔ سخت دل۔ مزج امازرد۔

الاَمَزْرُ: اسم تفضیل ہے مَزْرٌ سے مؤنث مَزْرَاءُ

مزج و امازرد۔ کہا جاتا ہے، هُوَ مِنْ اَمَازِرِ النَّاسِ، وہ افضل الناس میں سے ہے۔

مزج۔

المَزْرَةُ: ایک مرتبہ چوسنا۔

مَزَّجَ (ف) مَزَجًا الطَّيْبُ و نَحْوُهُ: ہرن کا آہستہ سے چھلاک مارنا (و مَزَّجَ القَطْنُ: روٹی تو مَنَازَجَ الشَّيْءُ: متفرق کرنا۔

تَمَزَّجَ: جدا جدا ہونا۔ تَمَزَّجُوا الشَّيْءُ بَيْنَهُمْ: انہوں نے چیز آپس میں تقسیم کر لی اور کہا جاتا ہے، هُوَ يَتَمَزَّجُ عَيْطًا، وہ غصہ کی وجہ سے پھٹ پڑا۔

المَزْجَةُ: روٹی وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج مزج (و المَزْجَةُ) مِنْ لَحْمٍ او شَحْمٍ: گوشت یا چربی کا ٹکڑا۔

مِنِ النِّسَاءِ: پانی کا گھونٹ۔ ج مزج و مزج۔

المَزْمَاجُ: بہت دور کرنے والا۔ سبکی۔

المَزْمَاةُ مِنَ الشَّيْءِ: روٹی وغیرہ کا وہ حصہ جو نوٹے وقت کرے۔

المَزْمَعِيُّ: چغل خور۔

فَرَسٌ مَمَزَّجٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

مَزَّجَ (ن) مَزْجًا و مَزْجَةً النَّوْبُ: پھاڑنے لگانا۔ عیب لگانا۔ صفت

مَزَّجًا مَزْجًا: جیسے "أَتَانِي أَنَّهُمْ مَزَّجُونٌ عَرَضِيٌّ" مجھ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ میری آبرو میں عیب لگاتے ہیں الطَّائِرُ بِسَلْسَلَةٍ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

مَزَّجَ النَّوْبُ: چیر چیر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَزَّجْتُمُ اللّٰهَ كَلِمَةً مُّحَرَّقًا" اللہ ان کو پورے طریقہ سے پراندہ کرے۔

دَوْرَةٌ: دوڑنے میں آگے بڑھ جانا۔

مَزَّجَ بِحِفْظِهِ النَّوْمُ: متفرق ہونا۔

اِنْمَزَجَ: کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا اور کہا جاتا ہے

"نَوْبٌ مَزَّجٌ و مَزَّجٌ و مَزَّجٌ" پھٹا ہوا کپڑا۔

نَاقِيَةٌ او فَرَسٌ مَزَّجٌ: تیز رفتار۔ گویا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے کھال چمکنے کے قریب ہے۔

مَزْمَرَةٌ: اکھڑنے کیلئے بلانا۔

تَمْزَمَزَ: حرکت کرنا لِلْقِيَامِ: اٹھنے کے لیے تیار ہونا۔

مَزَنٌ (ن) مَزُونًا و مَزُونًا: چلا جانا و چُھہ: چہرہ کا چمک اٹھنا مِنَ الْعَدُوِّ: دشمن سے بھاگنا و مَزْنٌ الْقَرِيْبَةُ: مکہ بھرنا فَلَانًا: تعریف کرنا۔ فضیلت دینا۔

تَمْزَنَ: چلا جانا عَلَي الْقَوْمِ: مہربانی و سخاوت کرنا۔ جھکنا فضل ظاہر کرنا۔ جھکنا زبیر بن عَدِي الْأَمْرِ: عادی ہونا۔

المَزْنُ: بادل۔ سفید بادل۔ پانی سے بھرا ہوا بادل۔ حُبُّ الْمَزْنِ: اول۔

المُزْنَةُ: بادل کا ٹکڑا۔ بارش۔ اِنْبِ الْمُزْنَةُ: نیا چاند۔

المَزْنُ: عادت۔ طریقہ۔ حال۔ کہا جاتا ہے "مَا زَالَ عَلَي هَذَا الْمَزْنِ" ہمیشہ اس حالت پر رہا۔

المَازِنُ: فَا۔ چوٹی کے اٹلے۔

مُزْنِيَةٌ: مضر کا ایک قبیلہ اور نسبت کے لیے مُزْنِيٌّ۔

مَزَه (ف) مَزَاهَا: ہنسی مذاق کرنا۔

مَزَا يَمْزُو مَزْوًا: تکبر کرنا۔

مَزَاهُ تَمْزِيَةٌ: تعریف کرنا۔ فضیلت دینا۔ کہا جاتا ہے "مَزِيْتُ مَتَاعَهُ حَتَّى نَفَقْتُهُ لَهُ" میں نے اس کے سامان کی تعریف کی یہاں تک کہ اس کو راج کر دیا۔

تَمَازَى الْقَوْمُ: قوم میں سے ہر ایک کا اپنی فضیلت کا دعویٰ کرنا۔

المَزْوُ و المَزِيَّةُ: مَزَ مَزَايَا و المَازِيَّةُ: مَزَ مَازِيَاتٍ: علم۔ کرم۔ شجاعت وغیرہ میں فضیلت جس کی وجہ سے دوسرے سے امتیاز ہو جائے۔ خوبی۔ عمدگی۔

مَزَى يَمْزِي: تکبر کرنا۔

مَزَى تَمْزِيَةُ الرَّجُلِ: تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے "قَعَدَ عَنِّي مَازِيًا و مَتَمَازِيًا" یعنی مجھ سے دور مخالف ہو کر بیٹھا۔

المُرَاةُ: سرکش لوگ۔ مَفْرَمَازِ: المَازِيَّةُ: مَزَ مَازِيَاتٍ: و المَزِيَّةُ: مَزَ

مَزَايَا: علم۔ کرم۔ شجاعت۔ شرافت وغیرہ میں فضیلت جس کی وجہ سے دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔

المَزْيِيُّ: مرد خوش طبع۔ زیرک۔

مَسَّ (ن س) مَسًا و مَسِيْسًا و مَسِيْسِي الشَّىءِ: چھونا۔ پھینچنا المَرَضُ او الكِبْرُ فَلَانًا: لاحق ہونا۔ مَسَّتِ الْحَاجَةُ اِلَى كَذَا: مجبور کرنا مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ و عَذَابٍ: شیطان نے مجھ کو ایذا تکلیف پہنچائی۔ اور کہا جاتا ہے "مَسَّتْ فَلَانًا مَوَاسُ الْخَيْرِ او الشَّرِّ" یعنی فلاں کو خیر یا شر پیش آئے۔ "و مَسَّتْ بِكَ رَحْمُ فَلَانٍ"

جبکہ تم دونوں کے درمیان قربت قریب ہو۔

مَسَّ مَسًا: جنون لاحق ہونا۔ صفت مَمْسُوسٌ مَاسَةٌ مَمَاسَةٌ و مَسَاسًا: چھونا۔ جماع کرنا۔

أَمَسَّهُ الشَّىءُ: چھونا۔ اور کہا جاتا ہے "أَمَسَّ وَجْهَهُ الْمَاءُ او بَدَنَهُ الطَّيْبُ" چہرہ پر پانی لگا لیا بدن پر خوشبو۔

تَمَاسَ الشَّيْئَانِ: ایک دوسرے کو چھونا۔

المَاسُ فَاحَاجَةُ مَاسَةً: شدید حاجت اور کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ رَحْمُ مَاسَةً" ان کے درمیان قربت قریب ہے۔

مَسَّاسٌ: اسم فعل یعنی قومہ چھو۔ اور کہا جاتا ہے لَا مَسَّاسَ لِي عِنِّي مَتَّ جھو۔

المَسُّوسُ مِنَ الْمَاءِ: پانی جو ہاتھوں سے لیا جاسکے۔ بیٹھا صاف پانی۔ کھاری پانی۔ پیاس دور کرنے والا پانی۔ كَلَّمَ مَسُّوسٌ: چرنے والے جانوروں کے لیے مفید گھاس۔

المَسِيْسَةُ: ایک حلوی کا نام۔

المَسُّ: تانا۔

الامْسُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے هُوَ اَمْسٌ مِّنْ ذَاكَ بِكَذَا۔

المَاسُوسُ و المَسُّوسُ: پاگل۔ مجنون۔ دیوانہ۔

مَسِيْسُ الْحَاجَةِ: حاجت کا مجبور کرنا۔

المَسَّاسُ: بہت چھونے والا۔ کہا جاتا ہے

"بَيْنَهُمْ رَحْمُ مَسَّاسَةٍ" یعنی ان کے درمیان بہت زیادہ قربت قریب ہے۔

مَسَا (ف) مَسًا و مَسُوًا: بیاک ہونا المَاسِيِيُّ: دیر کرنا الْحَقُّ: حق کو دیر میں ادا کرنا الطَّرِيْقُ: راستہ کے درمیان میں چلنا۔

عَلَى الشَّىءِ: عادی ہونا الرَّجُلُ بِالْقَوْلِ و غَيْرِهِ: کسی کو گفتگو سے نرم کر دینا۔ دھوکا دینا (وَأَمَسًا) بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔

تَمَسَّ الْقَوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

مَسَحَ (ف) مَسَحًا الشَّىءُ: پونچھنا۔ مریض کے لیے دعا کے موقع پر کہا جاتا ہے "مَسَحَ اللَّهُ مَا بَكَ مِنْ عِلَّةٍ" یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دیں اور مرض کو زائل کر دیں ہ

بِالذَّهْنِ: تیل ملانا بِالشَّيْفِ: تلوار سے کاٹنا ذَوَائِبُ الْمَرَاةِ: کھلی کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَسَحَهُ او مَسَحَ رَأْسَهُ" یعنی اس نے فریب دینے کیلئے نرم باتیں کیں۔ "مَسَحَ الْقَوْمُ قَتْلًا" قوم کو خوب اچھی طرح قتل کیا "و مَسَحَهُ اللَّهُ" اللہ نے اس کو مبارک پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو ملعون پیدا کیا۔ مَسَحَ فَلَانًا: مارنا۔

عَنَقَهُ: گلا کاٹنا اِلَاطِلَ: اُونٹ کو تھکانا اور لاغر کرنا نَسَفَهُ: تلوار سے کاٹنا الْمَرَاةُ: جماع کرنا۔

مَسَحَ (ف) مَسَحًا و مَسَاخَةً: بیکار کرنا (مَسَحًا و تَمَسَاخًا) جھوٹ بولنا۔

مَسَحَ (ف) مَسُوْحًا فِي الْأَرْضِ: جانا۔ مَسَحَ (س) مَسَحًا: کپڑے کے کھر درے پن کی وجہ سے راتوں کا چھل جانا۔

مَسَحَ بِالْعِنُقِ او الْكِرْمِ: کسی پر شرافت یا کرم کا اثر ہونا۔

مَسَحَ الشَّىءِ: پونچھنا۔ مَسَحَهُ بِالذَّهْنِ: تیل ملانا مَسَحَ فَلَانًا: فریب دینے کیلئے اچھی بات کہنا اِلَاطِلَ: اُونٹ کو تھکانا اور لاغر کرنا۔

مَاسَحَهُ مَمَاسَحَةً: فریب دینے کیلئے اچھی بات کہنا۔ مصافحہ کرنا، عَلِي كَذَا: معاہدہ کرنا۔

تَمَسَّحَ بِالْمَاءِ و مِنَ الْمَاءِ: غسل کرنا

الْمَسْحُ: اقسام تباخ سے ہے۔ اس کے قائلین کا نظریہ ہے کہ حیوان ناطق (انسان) کا بدن غیر ناطق حیوان کے بدن سے مناسب اوصاف حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے اسد لفظ سے انسان میں شجاعت آ جاتی ہیں۔ ارنب (خرگوش) کے لفظ سے بزدی آ جاتی ہے۔ الْمَسْحُوحُ مَسَاخِرُ: وہ شخص جس سے مذاق کیا جائے۔ اسی سے فعل: مَسَحَ عَلَيهِ: اس سے مذاق کیا گیا اسی سے مساحر وہ کھیل و تماشے جو عید کے ایام میں کھیلے جاتے ہیں۔

مَسَدٌ (ن) مَسَدًا الْحَبْلُ: رسی بٹنایا مضبوط بٹنایا السَّيْرِ: تھکانا۔ مَسَدُ الْبَطْنِ: پیٹ کا نرم و ہموار ہونا۔ مَسَدُ الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: سختی سے ہاتھ پھیرنا۔

المَسَدُ: کھجور کے ریشہ کی رسی۔ یا مضبوطی ہوئی رسی۔ کھجور کا ریشہ۔ لوہے کا ڈھرا۔ ج مَسَادٌ وَأَمْسَادٌ.

المَسَادُ: شہد کا مکینز۔ درنگی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ أَحْسَنُ مَسَادٍ شَعْرٍ مِنْكَ“ اس کے بالوں کی درنگی تیرے بالوں سے اچھی ہے۔ المَسْمُودُ: رَجُلٌ مَسْمُودٌ: گھٹھے بدن کا مرد۔

ساقی مَسَدَاءُ: اچھی ہموار پنڈلی۔

مَسَطٌ (ن) مَسَطًا: انگلی ڈال کر آنت میں سے نکالنا الْقَوْبُ: تر کرنا۔ پھر نچوڑنا فُلَانًا بِالسَّيَاطِ: کوڑے سے مارنا السَّيَافُ: مشکیزہ سے جما ہوا دودھ انگلی سے نکالنا۔

المَسَاطُ: فَا۔ کھاری پانی جو پیٹ کو صاف کر دے۔ ایک قسم کی گھاس جو گرمی کے زمانہ میں ہوتی ہے کہ جب اس کو اونت چرتا ہے تو اس کا پیٹ صاف ہوتا ہے۔

المَسِيطُ: گارا۔ گدلا پانی جو حوض میں باقی رہ جائے۔

المَسِيطَةُ: گدلا پانی۔ تھوڑا پانی بہانے والی وادی۔

کرنے والی۔ ج مَوَاسِحُ الْمَسَاحُ: زمین کی پیمائش کرنے والا۔

المَسْمُوحُ: بڑا سیاح۔

الْمَسْمُوحُ: کھردرے کپڑے کی رٹڑے ران یا گھٹنے کے اندرونی حصہ میں سوزش والا۔ ہموار تلوے والا۔ بڑا جھوٹا مِنَ الْأَرْضِ: ہموار زمین ج مَاسِیحُ: بڑا سیاح۔ کانا۔ مَوْنُثٌ مَسْحَاءُ.

المَسْحَاءُ: کنکریوں والی ہموار زمین۔ سرخ زمین۔ ج الْمَسَاحُ وَالْمَسَاجِي: چھوٹے پستانوں والی عورت۔ کہا جاتا ہے ”إِمْرَأَةٌ مَسْحَاءٌ الْفُلْدِي“.

الْمَسْمُوحُ: بڑا جھوٹا۔ فریب دینے کیلئے نرم بات کہنے والا۔ بڑا سرکش (والتَّمْسَاحُ) مگر مجھ و تم مَسَاحٍ وَتَمَاسِيحٍ. الْمَسْمُوحُ وَالْمَمْسُوحَةُ: جس سے پونچھا جائے۔

مَسْحَهُ (ف) مَسْحًا: بُرِي صَوْرَتٍ مِثْلُ بَدَلٍ دِيْنَا أَوْ أَسَى سَعَى جُو كَمَا جَاتَا بَعْدَ مَسْحِهِ اللَّهُ قَرْدًا“ اللہ نے اس کو بندر کی صورت میں بدل دیا۔

صفت مفعول مَسْحٌ وَ مَسِيحٌ ج مَسْمُوحٌ الْكَاتِبُ: لکھنے میں بہت غلطی کرنا لِنَاقَةِ: اَوْ نَمِي كَوْلَاغْرٍ كَرَطْعَمِ اللَّحْمِ: گوشت کو بے مزہ کرنا۔

أَمْسَحَ الْوَرْمُ: ورم کا تحلیل ہونا۔

تَمَسَّحَ الْعَزْلُ: ککڑے ککڑے ہونا۔

أَمْسَحَتْ وَ أَمْسَحَتْ الْعَضُدُ: کم گوشت والا ہونا۔ اسم الْمَسْحُ.

أَمْسَحَ السَّيْفُ: تلوار سونٹنا۔

المَسَاحِيُّ: کمان ساز۔

المَسِيحُ: بد شکلین الطَّعْمِ: بے مزہ یا بے نمک۔ بیوقوف۔

الْأَمْسُوحُ: ایک قسم کی نباتات جس کا دانہ پنے کے برابر ہوتا ہے۔

الْمَمْسُوحُ: مَسْفُوسٌ مَمْسُوحٌ: سرین پر کم گوشت والا گھوڑا۔

النَّشِيُّ: پونچھنا۔ وَ تَمَسَّحَهُ بِالْمَاءِ أَوْ الدُّهْنِ: نہلانا یا تیل ملنا۔ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ يَتَمَسَّحُ بِهِ“ فلاں اس کی بزرگی کی وجہ سے برکت حاصل کرتا ہے۔

تَمَاسَحًا: اتفاق کرنا۔ خرید و فروخت کرنے میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ کہا جاتا ہے ”تَمَاسَحُوا عَلَي كَذَا“ یعنی فلاں چیز پر تمہوں نے عہد و پیمان کیا ”وَالتَّقْوَا فَمَتَمَسَحُوا“ وہ سب ملے اور باہم مصافحہ کیا۔

أَمْتَسَحَ السَّيْفُ: تلوار سونٹنا۔ الْمَسْحُ: ٹاٹ۔ کھیل۔ ادنی لباس جس کو زاہد لوگ تعقیف کی بنا پر پہننا کرتے تھے۔ راستہ کا وسط ج مَسَاحٍ وَ مَسْمُوحٍ.

المَسْحَةُ: مسح کا اسم مرہ۔ گیلے ہاتھ کا نشان۔ اور اسی سے ہے جو کہا جاتا ہے ”عَلَيهِ مَسْحَةٌ مِنْ حَمَالٍ أَوْ هَزَالٍ“ اس کے اوپر جمال یا لاغری کا کچھ اڑھے۔

المَسْحُ: سر۔ کپڑے کے کھردرے پن کی وجہ سے ران یا گھٹنے کے اندرونی حصہ میں سوزش۔

المَسَاحَةُ: مصدر يَمْسَحُ الْأَرْضُ كَمَا سَمِ بِهٖ عِلْمُ الْمَسَاحَةِ: وہ علم ہے جس میں مقادیر خطوط و سطوح و اجسام سے بحث کرتے ہیں۔

المَسِيحُ: تیل لگا ہوا۔ ج مَسْحَاءُ وَ مَسْحِيٌّ: لقب حضرت عیسیٰ کا۔ بہت سیاحت کرنے والا۔ چاندی کا ککڑا۔ پسینہ۔ بہت سچا۔ کانا۔ گز۔ بہت جھوٹا۔ خوبصورت۔

بد صورت۔ بہت جماع کرنے والا مِنَ الدَّرَاهِمِ: گھسا ہوا درہم۔

المَسِيحِيُّ: حضرت عیسیٰ کا تابع۔

المَسِيحَةُ: سر کے دونوں جانب کے بال۔

”گیسو“ کپڑی اور پیشانی کی درمیان۔ کمان۔

چاندی کا ککڑا۔ ج مَسَاحِجٍ.

المَاسِحُ: فَا۔ بڑا جھوٹا۔ بہت قتل کرنے والا۔

المَاسِحَةُ: المَاسِحُ کا مؤنث۔ کنگھی چوٹی

المسك شمالي ہوا۔

المسكي بہت پير وسفر کرنے والا مرد۔
امسك و امتسك الرجل علیہ ہونا۔

مسك (ن ض) مسكاً چٹنا۔ متعلق ہونا۔ بالنار زمین میں گرٹھا کھود کر رکھ سے

آگ کو دینا۔

مسك (ك) مساكة السقاء: مكيڑہ کا

پانی کو گرنے نہ دینا۔

مسك بہ چٹنا۔ مسكۃ: مٹھ سے خوشبو

دار کرنا۔

امسكۃ و كنا۔ امسك بہ چٹنا الشئ

علی نفسہ: اپنے لیے حفاظت کرنا اللہ

الغيث: بارش روکنا عن الأمور: كنا۔ باز

رہنا عن الكلام: خاموش رہنا۔

تمسك و تماسك و امتسك بہ چٹنا۔

اور کہا جاتا ہے "ما تماسك ان قال كذا"

یعنی وہ فلاں بات کہنے سے نہیں رکا۔ "و

عشيتي امر مفلق فتماسكت" میرے

اوپر ایک رنجیدہ معاملہ آ رہا اس لیے میں رک

گیا۔ "وما به تماسك" اس کے اندر کوئی خیر

نہیں "وامتسك في البلد" وہ شہر میں

ٹھہرا رہا۔

استمسك بہ چٹنا عن كذا: باز رہنا

بؤلہ: شیب باند ہونا الرجل علی راحلہ:

جم کر چٹنا۔

المسك: س۔ کھال۔ ج مسك و

مُسوك۔ ایک کلوے کو "مسكۃ" کہتے

ہیں۔

المسك: پانی روکنے کا بند۔ زمین کے

طبقات۔ ہاتھی دانت یا ہڈی کے ٹکڑے یا باڑب۔

کچھوے کی کھال۔ مچھلی کی ہڈی۔ واحد مسكۃ۔

المسك بقاء بدن کے مقدار کھانا پانی عقل

کامل۔

المسك: مٹھ۔ کتوری۔ یہ ایک جانور کا

خون ہے جو اس کی ناف میں جمع ہوتا ہے اور اس

جانور کو غزال المسك کہتے ہیں اور مٹھ

کے کلوے کو مسكۃ کہتے ہیں۔ ج مسك

مِسْك البَرِّ و مِسْك الجَنِّ: دو قسم کی

نباتات۔ لفظ مِسْك خزا کے نزدیک مذکر ہے

اور دوسرے ائمہ لغت کے یہاں مذکر مؤنث

دونوں۔

المسكۃ: جس سے تعلق کیا جائے۔ بقاء

بدن کی مقدار کھانا پانی۔ عقل تام ورانے

کامل۔ سخت کنواں جس میں من بنانے کی

ضرورت نہ ہو ج مسك کہا جاتا ہے "وما فيه

مسكۃ" یعنی اس میں کوئی خیر نہیں "وليس

لامرہ مسكۃ" یعنی اس امر کے لیے کوئی

اصل نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔ "وفيه

مسكۃ من خیر اس کے اندر خیر کا کچھ بقیہ

ہے۔ "وما في سقاہ مسكۃ من ماء"

اس کے مکیڑہ میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں۔

المسكۃ و المسكۃ: بخل۔

المسكۃ: بخل۔ وہ شخص جو کسی چیز سے

چھٹے تو اس سے چھٹکارا نہ پاسکے۔ وہ شخص کہ

جب کوئی اس کے مقابل ہو تو وہ بھاگ کھڑا

ہو۔ ج مسك

المسك: پانی روکنے کا بند۔ بخل۔

المسك: بخل۔ روکنے والی چیز۔ تلوار وغیرہ

کا دستہ اور کہا جاتا ہے "وما فيه مسك" یعنی

اس کے اندر خیر نہیں۔

المسكۃ و المسكۃ: بخل۔

المسكۃ: وہ مقامات جہاں پانی کی

حفاظت کی جائے۔

المسك: بیعانہ۔ ج مساكين

المسكين و المسكنة: ریکھو مادہ سکن۔

المسك و المسك و الممسك: بخل۔

المسك: مسك و المسك: بخل۔

کہا جاتا ہے "سقاء مسك و مسك"

مٹھ جو پانی کو روکنے کے لیے ہے۔ "وما فيه

مسك" اس کے اندر خیر نہیں۔

الامسك: س۔ بخل۔

المسكۃ و الأرض المسكۃ: زمین جو

سختی کی وجہ سے پانی کو جذب نہ کرے۔

المسكۃ و المسكۃ: ایک قسم کی

نباتات۔

مَسْلَن (مَسْلَن) مَسْلًا الماء: پانی بہنا۔

امتسل السيف: تلوار سونٹنا۔

المسئل: پانی بہنے کی جگہ۔ ج امسيلة و

مسئل مسلان و مسائل.

مسالا الرجل: مرد کے دونوں بازو یا ڈاڑھی

کے دونوں جانب یا مرد کے دونوں پہلو۔

مسالة الوجه: حسن کے ساتھ چہرے کی

لمبائی۔

المسبيل: پہاڑ۔ دودھ وغیرہ کا آبی حصہ۔ تر

شہنی۔ ج مسل و امسيلة. مسبيل الماء:

پانی بہنے کی جگہ۔ س ای ال کے مادہ میں مذکور

ہے۔

ممسس ممسمة و ممسما الأفر:

مٹھلے ہونا۔ مٹھوس ہونا۔ کہا جاتا ہے "هو من

أفره في ممسما" وہ اپنے معاملہ میں اشتباہ

میں ہے۔

ممسس الرجل: جنوبی کیفیت لاحق ہونا۔

الممسما: بکلا۔

مسن (ن) مسنا الرجل: بے باک ہونا۔

فارتے مارتے گرا دینا الشئ من الشئ:

کھینچنا۔

مسا يمسو مسوا. الحمار: گدھے کا اٹنا

(و مسى تمسبة) الرجل: کسی چیز کا وعدہ

کر کے ٹالنا۔

مساء تمسية: شام کے بہتر ہونے کی دعا

دینا۔ یہ کہنا کہ تم نے شام کس طرح بسر کی۔

اور کہا جاتا ہے "مسی به الليل" جبکہ کوئی

شخص شام کے وقت آئے۔

أمسى أمساء و أمسى: شام میں داخل

ہونا۔ کان کی طرح فعل ناقص ہو کر بھی

مستعمل ہے۔ جیسے "أمسى زيد صاحجا"

یعنی زید شام کے وقت ہنس رہا تھا یا زید ہنس رہا

تھا۔

أمساء أمساء: کسی چیز سے مدد کرنا۔ وعدہ

کر کے ٹالنا۔

مساء ممساء: بخل کرنا۔

امْتَشَرَ الرَّاعِي وَرَقَ الشَّجَرِ: چرواہے کا کھڑی سے درخت کے پتوں کو کھینچنا۔

المَشْرُ مِنَ الرَّجَالِ: سخت سرخ مرد۔

المَشْرُ: نشان۔ کہا جاتا ہے ”الْأَذْهَبُ مَشْرًا“ یعنی اس نے اس کو گالی دی۔ ججو کیا۔ یا گالی سنوائی۔

المَشْرَةُ: نخی نگی ہوئی نرم سبز ٹہنی۔ یا نکلا ہوا پتہ کھڑی سے جھکے ہوئے پتے نخی نگی نگی ہوئی گھاس اور کہا جاتا ہے ”عَلَيْهِ مَشْرَةٌ عَنِي“ یعنی اس کے اوپر دولت مندی کا اثر ہے۔

مَشْرَةُ الْأَرْضِ وَ مَشْرَتُهَا: سبزی یا نخی نگی ہوئی سبزی۔

أَرْضٌ مَاشِرَةٌ: ہارش سے سیراب اور سبزی نگی ہوئی زمین۔

الْأَمْشَرُ: پست و چالاک۔

المَوْشُورُ: دیکھنے بادہوش۔

مَشَطٌ (ض ن) مَشَطًا وَ مَشَطَ الشَّعْرَ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ مَشَطَ الشَّيْءُ: ملانا البعير: اونٹ پر کنگھی جیسے آلدے داغ لگانا۔

مَشَطَتُ (س) مَشَطًا يَذُوهُ: کام کرنے سے کھر درا ہونا یا پھانس چھینا (و مَشَطَتُ) النَّاقَةُ: دونوں پہلوؤں میں کنگھی جیسی چربی چڑھنا۔

أَمْشَطَ الشَّعْرَ: کنگھی کیا ہوا ہونا۔ اَمْشَطَتُ الشَّعْرَ: کنگھی کرنا۔

المُشَطُ وَ المَشَطُ وَ المَشَطُ وَ المَشَطُ وَ المَشَطُ: کنگھی ج اَمْشَطَ وَ مَشَطَ۔

المُشَطُ: کپڑا بننے کا ایک آلہ جو کنگھی کے پائند ہوتا ہے۔ اونٹ کے بدن پر داغ کرنے کا کنگھی کے مانند آلہ۔ پت قدم کی پتلی پتلی ہڈیاں اور کبھی پورے قدم پر اطلاق ہوتا ہے۔

والمُشَطُ: ایک دریائی پھل جس کو مَلَطِيٌّ بھی کہتے ہیں۔

المَشَطَةُ: مَشَطًا کا اسم نوع۔

المِشَاطَةُ: مَشَاطَةُ غَرِي۔

المُشَاشُ: مُشَاشَةٌ کی جمع۔ نرم زمین۔ اصل نفس۔ طبیعت۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانَ لَيْنَ المُشَاشِ“ فلاں نرم اخلاق ہے و مُشَاشُ الرَّجُلِ: سرفروغ کے خدام۔

المُشَاشَةُ: نرم ہڈی کا سرا۔ راستہ کہ جس میں خاک اور نرم سگ ریزے ہوں۔ پہاڑ کہ جس میں چشمے ابل رہے ہوں۔ ج مُشَاشُ: مُشَاشَةُ القَوْمِ: قوم کے بہترین لوگ۔

المَشُّ: س۔ کہا جاتا ہے ”أَطْعَمَهُ هَشْمًا مَشًّا“ اس نے اسے عمدہ خوراک کھلائی۔

المَشَّشُ: سفیدی جو اونٹ کی آنکھ میں ہو جاتی ہے۔

الْأَمْشُ: مِنَ الْإِبِلِ: آنکھ میں سفیدی والا اونٹ۔ مَوْنَتُ مَشَاءَ ج مَشُّ: المَشُوشُ: ہاتھ پونچھنے کا پتڑا جیسے رومال تو لید وغیرہ۔

المَشَاوِيُّ: ارسطو کے فلسفہ کو ماننے والے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ارسطو اپنی تعلیمات چل کر پیش کرتے تھے۔ المَثَانِيَةُ: فلسفہ ارسطو۔

مَشَجَه (ن) مَشَجًا بَكْدًا: ملانا کھا جاتا ہے ”مَشَجَ بَيْنَهُمَا“

المَشْجُ وَ المَشِيجُ وَ المَشِجُ وَ المَشْجُ: مخلوط اَمْشَاجُ: اَمْشَاجُ: میل پھیل جو ناف میں جمع ہو جائے۔

أَمْشَحَتِ السَّمَاءُ: بادل کا کھل جانا السَّنَةُ: خشک سالی ہونا۔

مَشَرٌ (ن) مَشَرًا الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔

مَشَرٌ (س) مَشَرًا: اترنا۔ اُكْرَبَازُ ہونا۔ مَشَرٌ وَ مَشَرٌ وَ اَمْشَرٌ وَ تَمَشَّرَ الشَّجَرُ: شاخیں ٹکنا مَشَرَةٌ: پہنانا۔ مَشَرُ الشَّيْءِ: تقسیم کرنا و اَمْشَرُ الرَّجُلُ: کھل کر دوڑنا

بَدَنَهُ: بدن کا پھولنا الْأَرْضُ: سبزی اگانا۔ وَ تَمَشَّرَ الرَّجُلُ: مستغنی ہونا یا دولت کا اثر ظاہر ہونا۔ تَمَشَّرَ لِأَهْلِهِ شَيْئًا: کمانی کرنا یا اپنے اہل کے لیے لباس خریدنا الشَّجَرُ: سرسبز ہونا القَوْمُ: کپڑے پہنانا۔

إِمْتَسَى إِمْتَسَاءً مَا عِنْدَ فَلَانَ: کل لے لیتا۔

المَسَاءُ مِنَ اَمْسِيَةِ وَ المَسْمَى وَ المَسْمَى: شام ظہر سے مغرب تک کا وقت۔

الْأَمْسِيَّةُ: شام کھا جاتا ہے ”أَتَيْتُهُ أَمْسِيَّةً أَمْسًا“ میں کل گزشتہ شام کے وقت اس کے پاس آیا۔

المُتَمَسِّي: س۔ شام بسر کرنے کی جگہ۔ مَسْمَى يَمَسِي مَسْمِيًا الشَّيْءُ: ہاتھ سے پونچھنا الْحَرُّ المَاشِيَّةُ: گرمی کا جانور کو لاغر کرنا السَّيْفُ: تلوار سَوْنَتَا الرَّجُلِ: برے خلق والا ہونا۔

تَمَسَّسِي وَ تَمَسَّى الشَّيْءُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

إِمْتَسَى اِمْتَسَاءً: پاسا ہونا۔ المَسَامِسُ: نقص جو کسی کی نصیحت نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ المَسْرُ: سبزی جو بکری کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے اس کو باریک کپڑے جوڑ کر دوڑھ ڈال دیا جاتا ہے اس سے جین (پتیر) بن جاتا ہے۔

التَّمَسَّسِي: س۔ مصیبتیں (اس کا مفرد نہیں) مَشٌ (ن) مَشًا العَظْمُ: ہڈی کے اطراف سنا النَّاقَةُ: اونٹنی کو دوہنا اور کچھ چھوڑ دینا۔ مَسَارُ اودودہ دوہنا مَالُ فَلَانَ: تھوڑا تھوڑا کر کے لینا يَذُوهُ: ہاتھ سے چھانٹنا دور کرنے کیلئے پونچھنا فَلَانًا: دشمنی کرنا۔ بَجَّحُوا كَرْنَا الشَّيْءُ: پانی میں حل کرنے کیلئے بھگوننا۔ مَشَّشُ وَ تَمَشَّشُ العَظْمُ: ہڈی چوسنے کے گودا نکالنا۔

أَمْشَ العَظْمُ: ہڈی کا گودے والی ہونا۔

إِنْ مَشَّ لَهُ الشَّيْءُ: حاصل ہونا۔

أَمْشَسَ القَرْبُ: کپڑا اتار لینا مَا فِي الصَّرْعِ: تھن سے سارا اودودہ لینا مِنْ مَالِ فَلَانَ: حصہ پانا العَظْمُ: چھانی ہوئی ہڈی کو چوٹا مَتَعَوَّطٌ: پانچاندہ کرنے والے کا پتھریا ڈھیلے سے استخرا کرنا۔

المَشَاطَةُ: کنگھی کرنے میں گرے ہوئے پال۔

المَشَاطُ: شانہ ساز۔

المَاشِطَةُ وَالمَشَاطَةُ: کنگھی کرنے کا پیشہ کرنے والی۔

المَشِيطُ: کنگھی کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”شَعْرٌ مَشِيطٌ وَلمَّةٌ مَشِيطٌ“ کنگھی کئے ہوئے پال۔ کنگھی کی ہوئی زلف۔

المَمَشُطُ: کنگھی۔

المَمَشُوطُ: سیر رَجُلٌ مَمَشُوطٌ: پتلا لہا مرد۔

مَشِطٌ (س) مَشَطًا وَمَشَطًا: پھانس چھبنا۔ کہا جاتا ہے مَشِطٌ يَدُهُ: یعنی اس کے ہاتھ میں پھانس چھب گئی۔ مَشِطَتِ الدَّابَّةُ: گوشے سے نمایاں ٹھوس والا ہونا۔

مَشِطٌ (ن) مَشَطًا: البَلَدُ: شہر کو اقامت کے لیے پسند کرنا فَلَانًا: کچھ لے لینا۔

المَشِطُ وَالمَشِطَةُ: پھانس۔ کاٹا جو ہاتھ میں چھب جائے۔ کھلاڑی کو مضبوط کرنے کا پتھر۔ المَشِطَةُ: مہلا کا اسم مرۃ مِنَ الْأَخْبَارِ مَخْفِي خَبْرٍ جن کی تحقیق نہ ہو۔

قَنَاةٌ مَشِطَةٌ: نیا سخت نیزہ کہ جو لے اسی کا ہاتھ چھل جائے۔

مَشَعٌ (ف) مَشَعًا الشَّيْءُ: کمانا۔ اچک لینا القَطَنُ: روئی تو من الغنم: بکری دوہنا ببولہ۔ پیشاب کرنا فَلَانًا بِالْحَبْلِ وَغَيْرِهِ: رسی وغیرہ سے مارنا الرَّجُلُ: آہستہ چلانا۔

مَشَعٌ الشَّيْءُ: صاف کرنا۔ پونچھنا القَصْعَةُ: پیالہ میں سے سب کھالینا۔

إمْتَشَعُ نَوْبٌ صَاحِبُهُ: چھین لینا۔

مَا فِي الصَّرْعِ أَوْ مَا فِي يَدِ فَلَانٍ: سب دودھ دوہنا یا سب کچھ ہاتھ سے لے لینا۔

السَّيْفُ: جلدی سے سونپنا (و تَمَشَعٌ) الرَّجُلُ: اپنے آپ سے گندگی کو دور کرنا۔ پتھر سے استیجا کرنا۔

المَشْعَةُ وَالمَشِيعَةُ: تومی ہوئی روئی کا جھکڑ۔

المَشْوَعُ: بہت کمائی کرنے والا ذُنْبٌ مَشْوَعٌ: بہت اچکنے والا بھیڑیا۔

مَشَغَةٌ (ف) مَشَغًا: مارنا۔ عیب لگانا الرَّجُلُ: کلری وغیرہ آہستہ آہستہ کھانا۔

مَشَعُ التَّوْبِ: گیسو سے رنگنا عَرَضُ فَلَانٍ: آبرو میں داغ لگانا۔

المِشْعُ: گیسو۔

المِشْعَةُ: بوسیدہ کپڑے کا ٹکڑا۔

مَشَقٌ (ن) مَشَقًا: جلدی نیزہ مارنا۔ جلدی کام کرنا هُ بِالسَّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔

الشَّعْرُ: بالوں میں کنگھی کرنا الكَثَانُ وَنَحْوَهُ: رانچھ میں ڈال کر خراب وردی حصہ کو علیحدہ کرنا۔ الشَّيْءُ: دراز ہونے کیلئے کھینچنا

التَّوْبُ: کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا النَّاقَةُ: اونٹنی کو تھوڑا سا دوہنا فی الْكِتَابَةِ: بڑے بڑے حروف لکھنا: لکھنے میں جلدی کرنا اور کہا جاتا ہے ”مَشَقُوا حَبْلَهُمْ“ یعنی انہوں نے کوچ کرنے میں جلدی کی۔

مَشِقٌ مَشَقًا: پتلا ولہا ہونا۔ دبلا اور کم گوشت والا ہونا۔ صفت مَشِقٌ وَ مَشِيقٌ وَ مَمَشُوقٌ۔

مَشِقٌ (س) مَشَقًا: رانوں کی رگڑ سے سوزش ہونا۔ صفت مَشِقٌ وَ مَمَشُوقٌ اور اسم المَشِيقَةُ۔

مَاشِقَةٌ مَاشِقَةٌ: گال گولج کرنا۔ جھکڑا کرنا۔ مَاشِقَةُ الشَّيْءِ: کسی سے چیز کو کھینچنا۔

أَمَشَقَهُ بِالسَّوْطِ: کوڑا مارنا أَمَشَقُ التَّوْبِ: گیسو سے رنگنا۔

مَشَقٌ تَمَشِيقًا الْإِبِلَ الْكَلَا: اونٹ کو گھاس چراتا۔

تَمَشَقُ التَّوْبِ: کپڑے کا پھٹنا۔ کلے کلے ہونا العَضُنُ: ٹہنی کا چھلنا اللَّيْلُ: رات کا ختم ہونا۔

إمْتَشَقُ: چھین لینا۔ اچک لینا مَا فِي الصَّرْعِ: سارا دودھ دوہنا السَّيْفُ: تلوار سونپنا فی الشَّيْءِ: داخل ہونا الكَثَانُ: رانچھ میں ڈال کر خراب وردی حصہ کو علیحدہ کرنا

الشَّيْءُ: اپنے لیے لینا مَا فِي يَدِ الرَّجُلِ: سارا لے لینا۔

المَشْقُ: س۔ گیسو۔ اور کہا جاتا ہے ”فِي قَدِّهِ مَشَقٌ“ اس کے تڈ میں لہائی اور پتلا پن ہے۔

المَشْقَةُ وَالمَشَاقَةُ: رانچھ کا نکلا ہوا خراب وردی حصہ۔ المَشْقَةُ: روئی کا کالا۔ پرانا کپڑا ج مشق۔

المَشْقَةُ: نئے کپڑے کی دھجی۔

المَشِي: پہنا ہوا کپڑا مِنَ النَّخِيلِ ذُبَا مَشْوَرًا: المَاشِقُ: فارغ مشق۔

قَلَمٌ مَشَاقٌ: تیز چلنے والا قلم۔

تَوْبٌ مَشِقٌ وَ مَمَشُوقٌ وَ مَمَشُوقٌ: گیسو سے رنگا ہوا کپڑا۔

المَشْقَةُ: مشق کا اسم مرۃ۔ جانور کی ٹانگ میں رستی کا نشان۔

المَمَشُوقُ: س۔ کم گوشت کا مرد۔

مِنَ النَّخِيلِ: ذُبَا مَشْوَرًا مِنَ الْقَضبانِ: پتلی بسی شاخ۔ کہا جاتا ہے ”قَدِّ مَمَشُوقٌ“ لہا پتلا قدر۔ مؤنث مَمَشُوقَةٌ۔

التَّمَاشِقُ: جھکڑا۔

المَمَشِقَةُ: رانچھ۔ کتان وغیرہ کو صاف کرنے کا کنگھی کے مانند ایک آلہ۔ ج مَاشِقُ۔

مَمَشَلٌ (ن) مَمَشُولًا لَحْمُهُ: گوشت کم ہونا (مَمَشَلًا) اللَّبَنُ: دودھ کم دوہنا (و إِمْتَشَلًا) السَّيْفُ: تلوار سونپنا۔

المَاشِلُ وَالمَمَشُولُ: ذُبَا پتلا۔ کم گوشت۔

المَمَشَلُ: کم دوہائی۔

المَمَشَلُ: نرمی سے دوہنے والا۔

المَمَشَلُورُ: میٹھی گھٹلی کا زرد آلو (یہ کلمہ مَشْمُوشٌ اور لَوْزٌ سے مرکب ہے)

المَمَشْمُوشُ: زرد آلو۔ واہر مَمَشْمُوشَةٌ۔

مَشْنَهُ (ض) مَشْنًا: خراش لگانا۔ مَشْنَهُ بِالسَّوْطِ: کوڑا مارنا هُ بِالسَّيْفِ: تلوار مار کر کھال چھیلنا۔ مَشْنُ الجَارِيَةِ: جماع کرنا (و إِمْتَشْنُ) النَّاقَةُ: سارا دودھ دوہنا۔ صفت

ماشین. ج مُشَن. و اِمْتَشَن السَّيْفُ:
تلوار سورتا شئی: آپک کر اپنے لئے لے لینا
ثُوبُهُ کپڑا چھین لیرا۔
مَشَنَتِ النَّاقَةَ: اونٹنی کا بدکتے ہوئے دودھ
دینا۔ کہا جاتا ہے ”تَمَاشَنَا جِلْدَ الظَّرْبَانِ“
بدترین قسم کی آپس میں گالی گلوچ کرنا۔
المِشَانُ والمِشَانُ. ایک قسم کی کھجور یا عمدہ
کھجور۔
اِسْتَمَشَى الرَّجُلُ: مسہل دوا پینا۔ اور کہا
جاتا ہے ”اِسْتَمَشَى بَکْذَا“ جبکہ کوئی شخص
مسہل لے۔
المَشُو والمَشُو والمِشَى والمِشَاءُ.
دست آورد۔
مَشَى (ض) مَشِيًا و تَمَشَاءُ. چلنا۔ بہت
مویشی والا ہونا زَيْدٌ: ہدایت پانا اور اسم
المِشِيَّة (مَشَاءُ) المَرْأَةُ او المَاشِيَّةُ:
بہت بچوں والی ہونا بِالنَّمِيمَةِ: چغل خوری
کرنا۔ بَطْنُهُ: پیٹ چلانا۔
مَشَى تَمَشِيَةً. چلنا الرَّجُلُ: چلانا۔
اَمَشَى الرَّجُلُ: چلانا۔ اَمَشَاهُ الدَّوَاءُ:
دست لانا (وامتشی) بہت مویشی کے بچوں
والا ہونا۔
مَاشَاهُ مَاشَاءَةً. ساتھ چلنا۔
تَمَشَى. چلنا۔
تَمَاشِيًا. باہم مل کے چلنا۔
المِشِيَّةُ. چال۔
المِشِيَّةُ. ارادہ خواہش۔
المَاشِي: فاج مَشَاءة و مَاشُون. چوپائے
والا۔ المِشَاءة: چغلی کھانے والے مین
العَسْكَرُ: پیدل دستہ۔
المَاشِيَّةُ. ماشی کا مؤنث۔ مویشی. ج
مَواشٍ.
المِشَاءُ. بہت چلنے والا۔ چغل خور۔
المِشَشَى. چلنے کی جگہ۔ غلام گردش ج
مَماشٍ.
مَصَّ (س ن) مَصًّا و تَمَصَّصَ و
اِمْتَصَّصَ جوسنا۔

اَمَصَّ اللَّيْنُ: چوسنا۔
المَصَّصُ. سر قَضْبُ المَصَّصِ۔ گنا۔
المُصَّةُ والمُصَّاصُ مِنَ الشَّيْءِ: خالص۔
کہا جاتا ہے ”فَلَأَن كَرِيمُ المُصَّاصِ“ و
”هُوَ مُصَّاصٌ قَوْمِهِ“ جبکہ نب کے لحاظ
سے خالص ہو۔ اور اس میں واحد مشیہ جمع مذکر
مؤنث سب برابر ہیں۔
المُصَّاصَةُ. جو چیز چوسی جائے۔
المُصَّاصُ. بہت چوسنے والا۔ چچھے لگانے
والا۔
المِصَّانُ. کمینہ۔ کینتکی کی وجہ سے بھیڑ
بکری کے تھن میں منہ لگا کر چوسنے والا۔ اور
گالی کے موقع پر مرد کے لیے یا مِصَّانُ اور
عورت کے لیے یا مِصَّانَةَ کہا جاتا ہے۔
المِصَّانُ: چچھے لگانے والا۔
المِصَّانُ. گنا۔
المِصَّوْصُ. پختہ گوشت جو سرکہ میں ڈالا
جائے۔
المِصْبِيصَةُ. پیالہ۔
مِصْبِيصُ الثَّرَى: نمناک مٹی یا ریت۔
المِصْمَصُ. چوسنے کا آلہ۔
مِصَّتْ (ن) مِصَّتًا الجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔
النَّاقَةُ: ہاتھ ڈال کر بچھڑانی کو صاف کرنا۔
مِصَّحَ (ف) مِصَّحًا و مُصَوِّحًا الشَّيْءُ:
جاتا رہنا۔ منقطع ہونا بِالشَّيْءِ: لے جانا۔
مِصَّحَتِ الدَّارُ: گھر کا نشان مٹ جانا۔
مِصَّحَ الثُّوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا النَّبَاتُ:
نباتات کا مرجھانا الكِتَابُ: کتاب کا مٹنا یا مٹنے
کے قریب ہونا لَبِنُ النَّاقَةِ: اونٹنی کے دودھ
کا ختم ہونا (مِصَّحَ) (ف) و مِصَّحَ (س)
مِصَّحًا) الطَّلُّ: کم یا تنگ ہونا۔ صفت
أَمْصَحَ.
مِصَّحَ و مِصَّحَ و أَمْصَحَ اللَّهُ مِرْصَكَ:
صحت دینا۔ مرض کو زائل کرنا۔
المِصَّاحَاتُ. اونٹنی کے بچوں کی کھالیں
جن میں کچھ بھر کر اونٹنی کے سامنے کھڑا کر
دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ اپنا ہی بچہ کھڑا ہے۔

مِصَّحَ (ف) مِصَّحًا الشَّيْءُ: کھینچنا۔
تَمَصَّحَ و اِمْتَصَّحَ الشَّيْءُ: کھینچ کر کالنا۔
و اِمْتَصَّحَ الشَّيْءَ عَنِ الشَّيْءِ: جدا ہونا۔
اِمْتَصَّحَ الوَلَدُ: ماں کے پیٹ سے جدا ہونا۔
الْأَمْصُوخَةُ بُرْدِي كَاسْفِيدِ كُودِ: قومہ ثمام
اور نصی کے پتے جِ اَمْصُوخُ و اَمَاصِيخُ
(بردی اِثمام اور نصی یہ سب نباتات کی قسمیں
ہیں)
المِصْوُخَةُ. بکری جس کے تھن کی جڑ وہیلی
پڑ گئی ہو۔
المِصَّاحُ. ایک قسم کی نباتات جس کے چھلکے
پیاز کے مانند ہوتے ہیں۔
مِصَّدَ (ن) مِصَّدًا المِصِّيُّ نَذَى أُمِّهِ: بچے
کا ماں کے پستان کو چوسنا الشَّيْءُ: چوسنا۔
الرَّجُلُ: مطبوع و فرمایہ دار کرنا۔
المِصَّادُ بِلند پشتم۔ پہاڑی چوٹی جِ اَمْفِصْدَةُ
و مُصَّدَانُ.
المِصَّدُ و المِصَّدُ. گرمی کی شدت۔ سردی
کی زیادتی۔ بادل کی گرج۔ بارش۔ بلند پشتم۔
المِصَّدَةُ. بارش۔
مِصَّرَ (ن) مِصَّرًا. النَّاقَةُ: اونٹنی کو
انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔
مِصَّرَ العِطِيَّةُ: بند کر دینا یا تھوڑا تھوڑا دینا
مِصَّرُوا المَكَانَ: شہر بنانا الثُّوبُ: کپڑو
سے رنگنا۔
تَمِصَّرَ المَكَانُ: شہر ہونا الشَّيْءِ او
العِطَاءُ: کم ہونا القَوْمُ: پرانگندہ ہونا الشَّيْءُ:
چھپھا کرنا۔ تلاش کرنا (و اِمْتَصَّرَ) النَّاقَةُ:
اونٹنی کو انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔
المِصَّاصِرُ. فاج چیزوں کے درمیان روک
نَاقَةُ او شَاءة مَاصِرٌ: کم دودھ والی اونٹنی یا
بکری یا وہ جس کا دودھ درمیان نکلے۔
المِصَّرُ. دو چیزوں کے درمیان روک۔ دو
ملکوں کے درمیان کی سرحد۔ شہر۔ گوشہ۔ بچ۔
أَمْصَارُ و مُصَوَّرُ و مِصَّرٌ. ملک معبر۔
المِصَّرَانُ: کوفہ و ہمرہ۔
المِصَّرِيُّ. منسوب الی مِصَّرٍ. مِصَّرَا

رہنے والا۔ مؤنث مضیئة ج مَصَارٍ و
مَصَارِئِ۔ کہا جاتا ہے حُمُرٌ مَصَارٍ و
مَصَارِئِ۔
المَصُورُ مِنَ الْاِبِلِ او الشَّاءِ: وہ اونٹنی یا
بکری جس کا دودھ دہر میں نکلے۔ ج مَصَارٍ و
مَصَارِئِ و عَطَاءٌ مَصُورٌ: تھوڑا عطیہ۔
المَصِيرُ: آنت۔ ج اَمَصِرَةٌ و مَصْرَانِ۔
ج مَصَارِينِ۔
المُمَصِّرُ: گیروے رنگا ہوا۔
المُمَصِّرَةُ: المُمَصِّرُ کا مؤنث۔ کہے ہوئے
سوت کا گولا۔

مَضَطَّكَ الدَّوَاءُ: دروائی معطلک لانا۔
المَضَطَّكِي و المَضَطَّكِي و المَضَطَّكَاءُ
معطلک۔ ایک مشہور دوا کا نام ہے (دخیل)
مَضَعٌ (ف) مَضَعًا التَّبْرِقُ: بجلی کا چمکنا
الدَّائِيَةُ بِذَنبِهَا: چوپایہ کا دم ہلانا فَلَانًا: کوڑا
وغیرہ مارنا الفَرَسُ: آہستہ سے گزرتا الطَّائِرُ
بذرقہ: پرندہ کا بیٹ کرنا المَرْأَةُ بِالْوَلَدِ:
بچہ گرا دینا فَوَادُ فَلَانٍ: جلد بازی یا خوف سے
دل کا پر اُکندہ ہونا: فلنا (مَضُوعًا) لَبِنٌ
النَّاقِيَةُ: اونٹنی کے دودھ کم ہونا یا سوکھ جانا۔
ناتقہ کی صفت ماصِعٌ و ماصِعَةٌ ماءُ
الحَوْضِ: حوض کا پانی کم ہونا الرَّجُلُ فِي
الْأَرْضِ: جانا۔ سفر کرنا۔

أَمَصَعُ الطَّائِرُ بِذَرَقِهِ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
العَوْسُجُ: درخت عوج کا پھل لگانا المَرْأَةُ
وَلَدَهَا: تھوڑا دودھ پلانا و أَمَصَعَتْ بِهِ: بچہ
گرا دینا القَوْمُ: بے دودھ والی اونٹنیوں والا ہونا
فَلَانٌ بِحَقِّهِ: اقرار کرنا۔
مَضَعُ القَضِيبِ: چھال کو ٹیپن پر خشک
ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔
مَاصِعٌ مَاصِعًا و مَاصِعَةٌ: جگہ کرنا۔
مقاتلہ کرنا قُوْنَةٌ: تلوار وغیرہ سے مارنا
بِلِسَانِهِ: تہمت لگانا۔
تَمَاصَعُ القَوْمُ فِي الحَرْبِ: باہم جگہ
کرنا۔
انْمَصَعُ و اَمْتَصَعُ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ سفر

کرنا۔ انْمَصَعُ الحِمَارُ: گدھے کا کان
کھڑے کرنا۔

المَضْعُ: سہانگنا۔ پھیکا جانا۔
المُضْعَةُ و المَضْعَةُ: ایک چھوٹا پرندہ۔
عوج درخت کا پھل۔ ج مَضْعٌ و مَضَعٌ۔
المَاصِعُ: فاکھاری پانی۔ کم۔ گدلا۔ چمکیلا۔
پشت پھیرنے والا۔ مؤنث ماصِعَةٌ۔
المَصْعُ: تلوار باز لڑکا جو بے ہونے پڑوں
سے کھیل رہا ہو۔

المَضُوعُ: خوفزدہ مرد۔
مَضَلٌ (ن) مَضَلًا اللَّبِنُ: پانی بچکنے کے
لیے کپڑے میں لٹکانا مَالَةٌ: مال کو لغویات میں
خرچ کرنا (مَضَلًا و مَضُولًا) الجَبِينُ و
نَحْوَهُ بچنا الجُرْحُ: زخم کارستا۔

أَمَصَلُ مَالَةٌ: مال تباہ کرنا۔ لغویات میں خرج
کرنا العَنَمُ: سارا دودھ دوہ لینا۔
أَمَصَلَتِ المَرْأَةُ: نا تمام بچہ گرا دینا۔ صف
مُضِلٌّ۔
المَضِلُّ: سہ (والمَضَالَةُ و المَضَالَةُ)
مِنَ اللَّبَنِ و نَحْوِهِ: دودھ وغیرہ سے بچا ہوا
پانی المَضَالَةُ: ٹھیلایا مکے سے جو بچے۔

المَاصِلُ: فاکھوڑا دودھ یا تھوڑا عطیہ۔
المَضَلَاءُ: باریک بازوؤں والی عورت۔
المِضِلُّ: دودھ وغیرہ سے پانی بچانے کا
برتن۔ لغویات میں مال تباہ کرنے والا۔

مَضَمَصُ المَاءِ: زبان کے کنارے سے
حرکت دینا التَّوْبُ: کپڑا ادھونا۔ صاف
کرنا۔
المَضَامِصُ: ہر چیز کا خالص۔ کہا جاتا ہے
"إِنَّهُ لِمَضَامِصٍ فِي قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم میں
خالص النسب ہے۔

مَضٌ (س ن) مَضًا و مَضِيضًا الجُرْحُ
فَلَانًا: درد مند کرنا۔ تکلیف پہنچانا الكَحْلُ
العَيْنِ بِجَدَّتِهِ: سرمہ کا آنکھ میں جلن پیدا کرنا
الحَلُّ فَاهُ: سرکہ کا منہ کو جلا دینا الشُّيْ
فَلَانًا: تکلیف دہ غم میں مبتلا کرنا (مَضًا)
الشُّيْ: چوسنا۔

مَضٌ (س) مَضِيضًا مِنَ الشُّيْ: درد مند
ہونا۔ (مَضِيضًا و مَضِيضَةً و مَضِيضًا)
مصیبت کے دکھ سے درد مند ہوا۔

أَمَضَهُ الأَمْرُ: درد مند کرنا۔ جلن پیدا کر
دینا۔ أَمَضَهُ الجُرْحُ و نَحْوَهُ: درد مند
کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَمَضِيضِي كَلَامُ فَلَانٍ"
فلان کی گفتگو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی "أَمَضَهُ
جَلْدُهُ": اس کی کھال کھجالی۔

مَاضَةٌ مَضِيضًا: لغت علامت کرنا۔

مَضِيضٌ تَمَضِيضًا: بہت کھاری پانی پینا۔

کھانا دودھ پینا۔

تَمَاضُ القَوْمِ: باہم جھگڑا کرنا۔

المَضُّ: سہ کُحْلُ مَضٌ: تیز جلن پیدا

کرنے والا سرمہ۔ رَجُلٌ مَضٌ الضَّرْبِ:

تکلیف دہا رہیٹ والا مرد۔

المِضُّ: ہونٹوں سے نہیں کے مانند کلمہ

لگانا اور کچھ امید بھی دلانا۔

مِضٌ و مِضٌ و مِضٌ مِئِي و مِضٌ مِعِ

التَّوْبِينِ: کلمہ ہے جو لائقی کے معنی میں

مستعمل ہے مگر اس کے ساتھ کچھ امید بھی

ہو۔

المَضَّةُ اسم مرءة۔ مؤنث المَضِّ: امراة

مَضَّةٌ: عورت جو کسی بکرہ و مصیبت کو

برداشت نہ کر سکے البَانُ مَضَّةٌ: کٹھے دودھ۔

المَضِيضُ: سہ مصیبت کی تکلیف۔ کھانا

دودھ۔

المَضَامِصُ: جلن۔

المَضَامِصُ: خالص۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مِّنْ

مَضَامِصِ القَوْمِ" فلان قوم کا خالص ہے۔

بہت کھاری پانی جو بیانہ جاسکے۔ آنکھ کی جلن۔

المَضَامِصُ: جلانے والا۔

مَضَحٌ (ف) مَضِحًا و أَمَضَحَ عِرْضَهُ:

عیب لگانا۔ مَضَحَ عَنْهُ: دفع کرنا الشَّمْسُ:

شعاع پھیلانا الأِبِلُ: اونٹوں کا منتشر ہونا

المَزَادَةُ: رشا۔

مَضِدٌ (س) مَضِدًا: کینڈر کھانا۔

مَضِرٌ (ن) و مَضِرٌ (ک) و مَضِرٌ (س)

المَصَّاءُ. پختہ ارادہ والا۔ کہا جاتا ہے ”اَنْتَ مَصَّاءٌ عَلٰی مَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ“ تم اپنے ارادہ کو پورا کرنے والے ہو۔

مَطَّ (ن) مَطَّ الشَّيْءُ: پھیلانا الذَّلْوُ: ڈول کھینچنا خَدَه: تکبر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَطَّ شَذَقَه“ اس نے گفتگو میں چرب زبانی کی۔ الطَّائِرُ حَنَاحِيَه: پرندہ کا بازو پھیلانا خَطَه او خَطُوَه: دراز کرنا۔

مَطَّطَ الشَّيْءُ: سخت کھینچنا الرَّجُلُ: گالی دینا۔

تَمَطَّطَ: کھینچنا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا دِبْسٌ يَتَمَطَّطُ لِخُنُورِيَه“ یہ شیرہ ہے جو گاڑھا ہونے کی وجہ سے چمٹتا ہے فی الکلام: رنگ برنگ کی گفتگو کرنا۔

المَطَّاطُ: اونٹ کا گاڑھا کھانا دودھ۔

المَطَّاطُ: ریڑ۔

المُطَيِّطُ والمُطَيِّطَاءُ والمُطَيِّطَاءُ: مفرورانہ چال۔ چلنے میں دونوں ہاتھ کا پھیلانا۔ المَطِيْطَةُ: گدلا۔ گاڑھاپانی۔ مَطَّحَهُ (ف) مَطَّحًا بِيَدِه: مارنا۔

تَمَطَّحَ وَاِمْتَنَحَ الوَادِي: بہت اور بلند پانی والی ہونا۔

مَطَّحَ (ف) مَطَّحًا العَسَلَ: شہد چاشنی الرَّجُلُ بِيَدِه: مارنا عَرَضَه: آبرو کو داغدار کرنا۔

المَطَّاحُ: فار۔ سست رفتار گھوڑا۔

المَطَّاحُ: بیوقوف۔ مفروضہ۔ شش گو۔ جھوٹا اور جھوٹے سے کہا جاتا ہے ”مَطَّحٌ مَطَّحٌ اور مَطَّحٌ مَطَّحٌ“ یعنی تیرا قول باطل ہے۔

مَطَّرَتْ (ن) مَطَّرًا وَاَمْطَرًا: مَطَّرَتِ السَّمَاءُ: بارش ہونا السَّمَاءُ القَوْمُ: پانی برسانا وَاَمْطَرَتِ الرَّجُلُ: پیشانی پر پینہ والا ہونا۔ بارش میں ہونا۔ کہا جاتا ہے ”كَلَّمْتُ فُلَانًا فَاَمْطَرَ وَاِسْتَمَطَّرَ“ میں نے فلاں سے گفتگو کی تو اس نے سر جھکا لیا اور اس کی پیشانی پر پینہ آگیا۔ اَمْطَرَ المَكَانَ: بارش شدہ پانا۔

المَصَاعِنُ والمَصَاعِنُ: دونوں جڑے۔ المَوَاضِعُ: واڑھیں۔

مَمَّضٌ مَمَّضَةٌ وَاَمْضَا وَاَمْضَا وَاَمْضَا: مَمَّضًا المَاءَ فِي فِيَه: پانی کو منہ میں مہرانا الثَّوْبَ وَغَيْرَه: دھونا (و تَمَمَّضُ) التَّعَاسُ فِي عَيْبِه: اونگھ کا اثر اکھوں میں ہونا۔ تَمَمَّضُ الكَلْبُ فِي اَنْرِه: کسی کے پیچھے کتے کا بھونکنا۔

المَمَّضَاضُ: جلن۔ ہلکا پھلکا مرد۔ نیند۔ المَمَّضَةُ: سر۔ سانپ وغیرہ کی آواز۔

کلی۔

مَضَى يَمْضِي وَاَمْضَا يَمْضُو مَضُوًّا مَضِيًّا الشَّيْءُ: گزر جانا (مَضُوًّا) سَبِيْلَه وَاَمْضَا لِسَبِيْلَه: مرنا۔

مَضَى يَمْضِي وَاَمْضُو مَضَاءً وَاَمْضُوًّا عَلٰی الامرِ: مداومت کرنا۔ جاری کرنا اور پورا کرنا۔ جس امر کو پورا کیا جائے اس کو مَمَّضُوًّا عَلَيَه کہتے ہیں۔ عَلٰی البَيْعِ: بیع کو جائز رکھنا۔ مَضَى مَضَاءً السَّيْفُ: کاٹنا۔

اَمْضَى اَمْضَاءً الامرِ: انجام کو پہنچانا۔ کہا جاتا ہے ”اَمْضَى الحَاكِمُ حَكْمَه“ حاکم نے اپنے فیصلہ کو نافذ کیا البَيْعِ: بیع کو جائز رکھنا۔ اور اسی سے ہے ”اَمْضَاءُ الصُّكُوْكُ والرِّسَالِ“ یعنی دستخط کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”اَمْضَيْتَ لَه“ یعنی میں نے اس کو تھوڑی غلطی پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ انتہائی غلطی میں مبتلا ہو گیا پھر ایسے موقع پر اس کو سزا دی گئی کہ اس کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا۔

مَضَى تَمَضِيَّةً الامرِ: نافذ کرنا۔ تَمَضَى الامرِ: نافذ ہونا۔ پورا ہونا الرَّجُلُ: آگے بڑھنا۔

المَضُوَاءُ: آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے ”مَضَى عَلٰی مَضُوَاِه“ وہ اپنی پیش قدمی میں آگے رہا۔

المَاضِي: فار۔ گزشتہ زمانہ عِنْدَ النُّحَاةِ: وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ پر وضعا دلالت کرے المَاضِي: تلوار۔ مَوَاضٍ:

مَضْرًا وَاَمْضُوًّا التَّيْبُ او اللَّبَنُ: نیند یا دودھ کا کٹھا ہونا۔

مَضْرَهٌ قَبِيْلَه مَضْرِكٌ طرف نسبت کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”مَضْرُ اللّٰهُ لَه الشَّاءُ“ اللہ نے اس کی تعریف اتنی بنائی۔ مَضْرٌ مَضْرٌ: ہلاک کرنا۔

تَمَضَّرٌ قَبِيْلَه مَضْرِكٌ طرف منسوب یا اس کے مشابہ ہونا۔ قَبِيْلَه مَضْرِكٌ مَجْبِيَه داری کرنا۔ تَمَضَّرَتِ المَاشِيَةُ: جانور کا موٹا ہونا۔

لَبَنٌ مَضْرٌ وَاَمْضِرٌ وَاَمْضِرٌ: کھانا دودھ۔ وَاَمْضِرٌ مَضْرٌ: آسودہ زندگی اور کہا جاتا ہے ”ذَهَبَ ذَمُه خَضْرًا مَضْرًا او خَضْرًا مَضْرًا“ یعنی اس کا خون رائیگاں گیا۔ ”اَخَذَه خَضْرًا مَضْرًا وَاَمْضِرًا مَضْرًا“ یعنی اس نے اس کو تروتازہ پایا بلا قیمت لیا۔

المَضْيِرَةُ: ایک قسم کا کھانا جو کھئے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔

المَضَارَةُ مِنَ اللَّبَنِ: کئے دودھ کا پانی۔

مَضَغٌ (ف) مَضَغًا الطَّعَامَ: چبانا۔ مَاضَغُه القَتَالُ او الخُصُومَةُ: دیر تک لڑنا یا جھگڑنا۔

اَمْضَغَه وَاَمْضَغَه: چوانا۔ اَمْضَغَ الثَّمَرُ: پھل کا چبانے کے قابل ہونا۔ اَمْضَغَ اللَّحْمُ: گوشت کا لذیذ ہونا اور کھایا جانا۔

المَضَاغُ: چبانا (والمَضَاغَةُ) جو چیز چبائی جائے۔ کہا جاتا ہے ”مَا عِنْدَنَا مَضَاغٌ“ ہمارے پاس چبانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ المَضَاغَةُ: چباتے چباتے آخر میں جو منہ میں باقی رہ جائے۔

المَاضِغُ: فار۔ مَضِغٌ: المَضِغَةُ: گوشت وغیرہ کا کٹلا۔ مَضِغٌ وَاَمْضِغٌ مَضِغٌ الامرِ وَاَمْضِغٌ الامرِ: معمولی اور چھوٹے چھوٹے کام۔

المَضِغَةُ: ہڈی سے لگا ہوا گوشت۔ جِزْرٌ: عِظْلَه۔ مَضِغٌ وَاَمْضِغٌ: مَضِغٌ: بیوقوف۔ بہت چبانے والا۔

<p>بالقوم: دیر تک چلانا۔ مطی یمنطی مطا: پھیلانا اور لہبا ہونا۔ امطی الذابۃ: جانور پر سوار ہونا۔ سواری بیانا لمطاه الذابۃ: سوار کرانا۔ امطی الذابۃ: سوار ہونا۔ تمطی: پھیلانا اور لہبا ہونا۔ ہاتھوں کو پھیلانا اور انگڑائی لینا۔ المط: س۔ پیٹہ۔ شہیطان سے مطا۔ المطو والمطو: شاخ جس کو چیر کر گٹھا باندھا جائے۔ مطا۔ مطا۔ مطی۔ المطو: ساتھی۔ نظیر۔ مجبور کا گٹھا۔ جینا کی پالی مطوا۔ مطوا۔ بروز غلواء۔ انگڑائی۔ لہبا۔ المطوة: مطا کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے مضت مطوة من اللیل: رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ المطیۃ: سواری۔ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع اور اناقة دونوں کو مطیۃ کہتے ہیں۔ مطیا و مطی۔ الامطی: سیدھے لے قدم والا۔ ایک قسم گوند کی جو کھایا جاتا ہے۔ مطۃ (ن) مطا: ملامت کرنا۔ مطہ مطاظا و مطاظۃ: جھڑا کرنا۔ گالی دینا مطاظ الحضم: چنے رہنا۔ امطہ: گالی دینا۔ تماطوا: باہم جھڑنا۔ باہم گالی گونج کرنا۔ المط: س۔ جنگلی انار کا درخت۔ ایک قسم کے گوند کا سرخ رنگ کا عصارہ۔ المطاطۃ: سختی و بد مزاجی۔ مطع (ف) مطعا و مطع الوتر: تانت کو خسک اور چمکایا کرنا۔ تمطع الماکول: سب کا سب چاٹ جانا۔ الطل: سایہ ڈھونڈنے پھر نافی الرغی: چرانے کے وقت سے دیر کرنا۔ المطعة: گھاس کا بقیہ۔ المطعة: باقی ماندہ گفتگو۔ مطع و مطع: اسم ہے جو مضاف ہو کر مستعمل ہے اور ظرف ہے اور اس وقت اس کے تین</p>	<p>ہے "خروج ممتطرا" یعنی بارش کے بعد سیر کو چلا۔ المستمطر: ف۔ بارش کا منتظر۔ المستمطر: م۔ بارش کیلئے کھلا میدان۔ المطران والمطران: پادریوں کا ایک بڑا عہدہ مطارنہ و مطارین۔ مطع (ف) مطعا و مطوعا فی الأرض: جانا اور گم ہونا۔ لگے دائروں سے کھانا۔ المطاع: ف۔ خالص۔ کہا جاتا ہے بیاض مطاع ناطع" خالص سفید۔ تمطق الطعام: کھانا لہنا۔ تمطقت القوس: کمان کا پھینا۔ المطقة: مٹھا۔ کہا جاتا ہے تمرؤم لہ مطقة: ان کے چھوڑے میں مٹھا ہے کہ کھانے والے چھڑا لیتا ہے۔ مطل (ن) مطلا الحبل: رش تانا الحدید: لوہے کو کوٹ کے بڑھانا۔ کھلا کر چوڑا کرنا۔ حقه و بحقه: ٹال مٹول کرنا الذین: قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔ امتطله حقه: ٹال مٹول کرنا۔ امتطل النبا: لہبا اور گھیا ہونا۔ امتطل الشی: دراز ہونا۔ المطلة والمطلة: حوض کی تہ میں بقیہ پانی۔ المطلة: تھوڑا سا پانی وغیرہ جو مکھ سے گرے۔ المطالة: لوہے کے پھلانے کا پیشہ۔ المطال: لوہے کو پھلانے اور چوڑا کرنے والوالمطول: بہت نالنے والا۔ المطیلة: کوٹ پیٹ کے چوڑا کیا ہوا لوہا۔ الممطل: چور۔ لوہا کا ٹھن۔ الممطول: م۔ لہبا کیا ہوا۔ پھیلایا ہوا۔ ٹالا ہوا۔ مطمط: گفتگو یا لکھنے میں سستی کرنا۔ تمطمط الماء: گاڑھا ہونا۔ مطایمطو مطوا: چلنے میں جلدی کرنا۔</p>	<p>مطر (ن) المطورا و مطرا: الفرس: گھوڑے کا تیز دوڑنا القرینۃ: مکھ کو بھرتا الطیر: پرندہ کا تیزی سے اترنا۔ کہا جاتا ہے "ذهب ولا ادری من مطربہ" وہ گیا اور میں نہیں جانتا کہ اس کو کس نے پڑ لیا (مطورا) فی الأرض: جانا۔ بھاگنا الشی: بلند ہونا۔ تمطر: بارش کے سامنے ہونا۔ بارش طلب کرنا الرجل فی الأرض: جانا الطیر: پرندہ کا تیزی سے اترنا۔ فرسہ: لے کے تیز دوڑنا تمطرت الخیل: گھوڑوں کا تیزی سے آنا اور سبقت کی کوشش کرنا۔ استمطر اللہ: بارش طلب کرنا مکان او الزرع: بارش کے قابل ہونا الرجل: بارش سے چھینا۔ خاموش رہنا ثوبۃ: برساتی پہنا لستمطر فلانا و من فلان: عنایت و کرم کی التجار لیساط: کوڑوں کے درپے ہونا اور صبر کرنا۔ کہا جاتا ہے لا تستمطر الخیل: گھوڑوں کے درپے مت ہو۔ المطر: بارش مطار۔ المطر: چینا خوش۔ عادت۔ المطرة: بارش کی ایک بو جھانرو المطرة والمطرة: عادت المطرة: مکھ۔ حوض کا وسط۔ المطار والمطارة من الآبار: چوڑے منہ کا کنواں۔ المطار من الخیل: بہت تیز رفتار گھوڑا۔ المطر والماطر والمطیر: بارش والا۔ المطیر: جس پر بارش ہو۔ سحاب مطار: موسلا دھار برسنے والا بادل۔ الممطر والممطرة: برساتی۔ عوام مشمع کہتے ہیں۔ الممطار: بادل جو تھوڑی دیر برے اور پھر رک جائے۔ الممطر: تیز رفتار گھوڑا۔ تیز رفتار گھوڑے کا سوار۔ بارش کے بعد سیر کو نکلنے والا۔ کہا جاتا</p>
---	---	---

معانی ہوتے ہیں۔

(۱) اجتماع اور مصاحبت جیسے ”اللہ مَعَكُمْ“ اور اَفْعَلُ هَذَا مَعِ هَذَا۔

(۲) وقت اجتماع جیسے جِئْتُكَ مَعَ الْعَصْرِ۔

(۳) بمعنی عند۔ جیسے جِئْتُ مِنْ مَعَ الْقَوْمِ۔

اور بلا مضاف ہوئے بھی مستعمل ہے اس وقت

اس پر توہین آتی ہے اور حال واقع ہوتا ہے اور

یہی تشبیہ اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے

”جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ وَمَعًا وَجِئْنَا مَعًا“ اور

نسبت کے لیے معی اور اسی سے واومعیت

ہے۔

مَعٌ (ن) مَعًا الشَّخْمُ: چربی کا پھلنا۔

مَعَتْ (ف) مَعَتَا الشَّيْءَ: ملنا دلنا۔

مَعَجٌ (ف) مَعَجًا الْفَرَسُ: نرمی کے

ساتھ تیز رفتار ہونا۔ صفت مَعُوجٌ مَعَجٌ

الْبَحْرُ: سمندر کا موج مارنا السَّيْلُ: سیلاب کا

تیز بہنا بِالْقَلَمِ فِي الدَّوَاةِ: قلم کو روشتائی

لگنے کیلئے دوات میں ہلانا الْفَصِيلُ صَرْعٌ

أُمَةٌ: اونٹ کے بچے کا دودھ اتارنے کے لیے

تھن پر سر مارنا۔ اور کہا جاتا ہے ”الرَّيْحُ تَمَعَجٌ

فِي النَّبَاتِ“ ہوا پودوں کو ادھر ادھر کر رہی

ہے الْجَارِيَةُ: جماع کرنا الرَّجُلُ جُكَّ: کرنا۔

تکوار مارنا مَعَجَتِ النَّبَاتُ: لہلہانا۔

تَمَعَجَ السَّيْلُ او الْحَيَّةُ: سیلاب یا سانپ کا

بل کھاتے ہوئے چلنا۔

الْمَعَجُ: مع۔ اضطراب۔ مقاتلہ۔ نرمی سے

ہوا کا چلنا۔

الْمَعْجَةُ: معج کا اسم مرثہ۔ جوانی کا آغاز۔ کہا

جاتا ہے ”فَعَلَّ ذَلِكَ فِي مَعْجَةٍ شَبَابِهِ“

اس نے یہ اپنی جوانی کے شروع میں کیا۔

الْمَعَاجُ اسم مبالغہ۔ حِمَارٌ مَعَاجٌ: دوڑنے

میں ادھر ادھر ہونے والا گدھا۔

رِيحٌ مَعُوجٌ: تیز چلنے والی ہوا۔

فَرَسٌ مِمْعَجٌ: نرمی کے ساتھ تیز رفتار

گھوڑا۔

مَعَذٌ (ف) مَعَذَا الشَّيْءَ: چھین لینا۔ اچک

لینا۔ لے جانا الشَّيْءُ: جلدی سے کھینچنا

الرُّمْحُ: مرکز سے کھینچنا فِي الْأَرْضِ: دور

تک جانا الشَّيْءُ: تباہ ہونا لِحْمَةً: گوشت کو

اچکے دانٹوں سے کھانا السَّيْفُ: تلوار سونپنا

الرُّجُلُ: معدہ پر مارنا (مَعَذًا و مَعُودًا)

بِالشَّيْءِ: لے جانا الدَّلْوُ و بِهَا: ڈول کھینچنا

اور کونوئیں سے نکالنا۔

مَعَذٌ: درد معدہ والا ہونا۔ صفت مَمْعُودٌ۔

اِمْتَعَذَ الشَّيْءُ: چھین لینا۔ اچک لینا۔ لے

جانا۔

المَعْدُ: سر۔ مونہ۔ نرم سبزی۔ تروتازہ چل۔

تیز رفتار اونٹ۔ کہا جاتا ہے ”مَالُهُ تَعْدٌ وَلَا

مَعْدٌ“ اس کے پاس نہ ثقلیل ہے نہ کثیر۔

المَعْدُ: پیٹ۔ پہلو۔

المَعْدَةُ والمَعْدَةُ: آنتوں میں پھینچنے سے

پہلے کھانا ہضم ہونے کی جگہ۔ ج مَعِدٌ و مَعِدٌ۔

الْمَتَمَعِدَةُ: مِنَ الرُّطْبِ: تروتازہ۔

تَمَعِدَدُ الْغُلَامِ: لڑکے کا جوان ہونا

الْمَرِيضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا الْمَهْزُولُ:

مونہ ہونے لگنا۔

مَعْرٌ (س) مَعْرَا الرَّيْشِ او الشَّعْرِ: بال

کم ہونا النَّاصِيَةُ: پیشانی کے سب بال گر جانا

الظَّفَرُ: ناخن کا چوٹ وغیرہ لگنے سے گر جانا۔

مَعْرٌ: مفلس ہونا وَجْهَةٌ: چہرہ کا غصہ سے

بدلنا۔

أَمْعَرُ الرَّيْشِ او الشَّعْرِ: بال کم ہونا

الرُّجُلُ: محتاج ہو جانا۔ أَمْعَرَتِ الْأَرْضُ:

کم نباتات والی ہونا الرَّجُلُ: مال چھین کر فقیر

بنادیا۔

الْقَوْمُ: قحط زدہ ہونا۔ بے سبزی والی زمین میں

پڑنا الْمَوَاشِي الْأَرْضُ: چر کر صاف کر دینا۔

تَمَعَّرَ وَجْهَهُ: چہرے کا رنگ بدل جانا

رَأْسُهُ: سر کے بال گر جانا۔

المَعَارَةُ: بد خلقی۔ غصہ کی وجہ سے ترش رو۔

المَعْرُ: کم بال یا کم پروں والا۔ چوٹ لگنے سے

گرنے والا۔ ناخن۔ بے برکت بخیل مرد۔ کم

گوشت والا۔ أَرْضٌ مَعْرَةٌ: کم نباتات والی

زمین۔

الأمعر. کم بال والا۔ کم نباتات والی جگہ۔

چمڑے کا موزہ۔ جس کے بال گر گئے ہوں۔

مؤنث معراء. ج مَعْرٌ. ناصية معراء:

بے بال کی پیشانی۔

الممعور. ص. غصہ کی وجہ سے ترش روئی۔

معز (س) معز الشئ: سخت ہونا۔ صفت

معز و ماعز الرجل: اپنے کام میں کوشش

کرنا و امعز الرجل: بہت بکریوں والا ہونا۔

معز (ف) معز الراعي المعزى عن

الضان: بکریوں کو بھیڑوں سے جدا کرنا۔

تمعز وجهه: چہرہ کا سکرنا البعير: تیز

دوڑنا۔

استمعز: کام میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے

ما امعزہ من رجل یعنی کس قدر قوی اور

سخت ہے۔ ”وما امعز رایہ“ وہ کس قدر

مضبوط رائے والا ہے۔

المعز والمعز: بکری۔ یہ اسم جنس ہے۔

واحد ماعز ج امعز و معيز. المعز: زمین

کی تختی۔

الأمعوز ج أماعز و أماعيز والمعيز و

المعزى والمعاز: بکری۔ الأمعوز:

تیس سے چالیس تک بکریوں کی جماعت۔

الماعز: فاد معز کا واحد (جیسے صاحب و

صحب) بمعنی بکرا بکری۔ اور کبھی بکری کو

ماعزة کہتے ہیں۔ جمع مواعز. الماعز

والمعز والمستمعز: اپنے کام میں کوشش

کرنے والا۔ والماعز: بکری۔ بکری کی کھال

مرد تیز طبیعت چالاک دوسروں کو منع کرنے

والا۔

المعزاة: بکری۔

الأمعز: بہت کنگر پتھر والی سخت جگہ مؤنث

معزاة ج معز و معزوات و أماعيز.

المعاز: بکری والا۔ بکریوں کا چرواہا۔

المعزى: بخیل جو مال جمع کرے اور مسائل کو

منع کرے۔

رجل ممعز: غلط سخت کھال والا مرد۔

معس (ف) معسا الشئ: سخت ملنا

الرَّجُلُ: بے عزتی کرنا۔ نیزہ مارنا۔

المعص: دودھ۔ حرکت۔

المعاص والممعص: لڑائی میں پیش

قدم کرنے والا۔

معص (س) معصا الرجل: موج والا ہونا

یا بہت چلنے سے پٹوں میں درد والا ہونا۔ صفت

معص و معيص:

تمعص بطنه: پیٹ کا درد مند ہونا۔ الرجل:

شرمندہ ہونا۔

معص (س) معصا و امتعص من

الأمر: غضبناک ہونا اور کام کا دشوار ہونا۔

صفت معص و ماعص:

معصه و امتعصه: غضبناک کرنا۔ درد مند

کرنا۔ معص الشئ: جلانا۔

معط (ف) معط الشئ: کھینچنا۔ الریش:

پر اکھیرنا۔ باحق فلان: ٹالنا (و امتعط)

السيف: تلوار سونٹنا۔ معط الجارية:

جماع کرنا۔ الجسد: جسم کا بے بال ہونا۔

معط (س) معطاً و تمعط الذئب:

بھیرے کا گرے ہوئے بال والا ہونا۔ صفت

معطاً و امتعط:

تمعط و امعط و انمعط و امتعط:

الشعر: بیماری کی وجہ سے بال گرنا۔ امعط

و امتعط النهار: دن کا دراز ہونا۔ امتعط

رُمحه: نیزہ کھینچنا۔

المعط و الامعط: جسم پر بے بال والا۔

مؤنشمعطاء ن معط و لئص امعط:

بھڑیے کے شاہ جو سرمال امعط: بغیر

نباتات کے ریگستان ارض معطاء: بغیر

نباتات والی زمین۔

معقه (ف) معقا: ڈگڈگا کے پیمانہ معق

السيل الأرض: سیلاب کا زمین کو بہا لے

جانا۔

معق معقا الرجل: فاسد معدہ والا ہونا۔

معق (ک) معقا و معاقه النهار: گہرا

ہونا۔ صفت معیق مؤنشمعققة:

امعق البئر: کنواں گہرا کھودنا۔

تمعق: گہرا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تمعق

الرجل علينا" یعنی اس نے ہم سے بد خلقی

کی۔

المعق والمعق والمعق: گہرائی۔ ج

امعاق و امعق و امعق: المعق:

بد خلقی۔ بے نباتات والی زمین۔

معك (ف) معكا الشئ: ملنا الرجل:

ذیل کرنا۔ بے عزتی کرنا۔ فلاناً فی

الخصومة: غالب آنا۔ معك دينه و

بدينه: قرض کی ادائیگی کو ٹالنا۔

معك (ک) معكا: بیوقوف ہونا۔

معك: زمین میں لوٹنا۔

تمعك: زمین میں لوٹنا۔

معكا معكا بدينه: قرض کی ادائیگی کو

ٹالنا۔

المعك: بیوقوف۔ سخت جھگڑا لو

(و الممعك) قرض کو ٹالنے والا۔

المعكرونة: مشہور کھانے کا نام۔

ابن معكی: بہت اونٹ۔

المعكوكاء: گردوغبار۔ شور و غوغا۔ بدی۔

معل (ف) معلا الشئ: چھین لینا۔ آپک لینا

الخشبة: کڑی چیرنا۔ مرقہ: کام کو سنا

سے پہلے کر لینا۔ الرجل: تیز چلنا۔ الجمار:

گدھے کو خسی کرنا۔ معلة و امعلة عن

الشئ: جلدی سے ہٹا دینا۔

امتعل الرجل: بے درپے نیزہ مارنا۔

المعل من الناس: پھر تیار۔ جلد باز۔

المعل: س۔ کہا جاتا ہے "مالك منه معل"

تیرے لیے ضروری ہے۔

المعالة: بدی۔

جمار معقول: خسی کیا ہوا گدھا۔

معمعع: جلدی کام کرنا۔ الشئ المخترق:

چلنی ہوئی چیز سے آواز لگانا۔ القوم: سخت

جنگ کرنا۔ سخت گرمی میں چلنا۔ الرجل:

میں لفظ مع اکثر بولنا۔ السماء المطر علیہ

الأرض: سخت بارش کرنا۔ اور زمین کو صاف کر

دینا۔

الممعع: تیز خاطر عورت۔ اور کہا جاتا ہے

"هو ذو معمعع" وہ اس پر صبر کرنے والا

ہے۔

الممععة: س۔ ہانس وغیرہ چلنے کی آواز۔

لڑائی میں بہادریوں کا شور۔ گرمی کی شدت۔ ج

معامع المعامع: لڑائیاں اور فتنے۔

الممععی: جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو اور ہر

ایک سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

الممععان والممععاني من الأیام:

سخت گرمی۔ الممععان: سخت گرمی یا سردی۔

کہا جاتا ہے "جاء فی معمعان الصیف"

یعنی وہ سخت گرمی میں آیا۔ فوفی معمعان

الشتاء یعنی وہ سخت جاڑے میں آیا۔

معن (ن) معنا النعمة: نعمت کی ناشکری

کرنا۔ بالحق: حق کا انکار کرنا۔ حق کا اقرار

کرنا۔ (مضد)

معن (ف) معنا و معن (ک) معوناً

الماء: آہستہ آہستہ بہنا۔ صفت معین۔ معن

الفرس: گھوڑے کا دور تک دوڑنا۔ المطر

الأرض: پے درپے بارش ہو کر سیراب کر

دینا۔

معن (س) معنا المكان أو النسب: پانی

سے سیراب ہونا۔

أمعن فی الطلب: ڈھونڈنے میں بہت

مبالغہ کرنا۔ فی الأمر: معاملے کی گہرائی میں

پہنچنا۔

الضب فی جحره: گوہ کا سوراخ کے انتہائی

حصے میں غائب ہونا۔ الفرس: گھوڑے کا

دوڑنے میں دور دور تک پہنچنا۔ النظر فی

الأمر: نہایت غور کے ساتھ سوچنا۔ الوادی:

زیادہ پتے ہوئے پانی والی ہوتی ہے۔ بہت ہونا

کم ہونا۔ بالحق: حق کا انکار کے بعد اقرار کرنا۔

انکار کرنا۔ الماء: پانی کا آہستہ آہستہ بہنا۔

الماء: پانی بہانا۔ معنت الأرض: زمین کا

سیراب ہونا۔

تمعن: ذلیل و حقیر ہونا۔

المعن: مع۔ ہر نفع اٹھانے کی چیز۔ بہت

کم۔ آسان۔ لہا۔ کوتاہ۔ ادھوڑی۔ سرخ کھال جو ٹوکری وغیرہ پر لگائی جاتی ہے۔ بہت مال والا۔ کم مال والا۔ ذلت۔ کھلے میدان کا پانی۔ الممغنة۔ معن کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے "مثالہ سعنۃ ولا ممغنة" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

المغنی۔ بہت مال والا۔ کم مال والا۔ المغان۔ منزل۔

المیاعون۔ بارش۔ پانی۔ ہر وہ خاکگی سامان جس سے خود نفع اٹھایا جائے اور دوسروں کو عاریت پر دیا جائے (جیسے ہانڈی چمچہ ڈول رستی وغیرہ وغیرہ) بھلائی۔ فرمانبرداری۔ زکوٰۃ عند العاقبۃ۔ کاغذ کا دستہ یا رقم۔

المعین۔ بہتا ہوا پانی۔ اور کہا جاتا ہے "ماء معین" جاری پانی "سقاء معین" بہتے ہوئے پانی والا مشکیزہ۔ معنات و معن۔ المعنات و المعنان۔ پانی بہنے کی جگہ وادی میں پانی کے نالے۔

کلاً ممغون۔ گھاس جس میں پانی جاری ہو روض ممغون۔ جاری پانی سے سیراب کیا ہوا باغ۔

تمغنی یتمعنی۔ معنی سمجھنا۔ معنی بیان کرنا۔ معا یمغو معاء السنور۔ ملی کامیائوں میاؤں کرنا۔

امغی النحل۔ کپتنے کے بعد کچھ خشک کھجوروں والا ہونا البئر: گدر کھجور کا خوش مزہ ہونا۔

تمغی السقاء: مشکیزہ کا تان جانا الشربین الناس: برائی کا پھیلنا۔ المغو: تر کھجور جو کچھ خشک ہونے لگے۔ اونٹ کے نچلے ہونٹ کی پھین۔

المغی و المعنی ج امعاء و المعاء ج امعیۃ آنت مذکر ہے اور کبھی مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

مغت (ف) مغتا الذواء فی الماء: دوا کو پانی میں نرم کرنا الریح: غیر تکلیف دہ دارنا۔ پھانچانا۔ کہا جاتا ہے "مغتنہم الحسی" ان کو

بخار آگیا۔ مَغْتَه فی الماء: پانی میں ڈبوتا۔ مَغْت الشی: گڈ گڈ کرنا عِرَض فُلان: عیب لگانا۔

مَغْت الرُّجُل: بخار زدہ ہونا۔ مَاعِثَةٌ مِعَانًا و مَاعِثَةٌ جَمْعًا کرنا۔

المَغْت: سر انگلیوں سے مل کر نرم کرنا۔ برائی۔ مقاتلہ ج مغات۔

المَغْت: سخت قسم کا پہلوان۔ المَغِیث: گھاس جس کو بارش نے بچھا دیا ہو۔

شریر مرد۔ المَغَات: چوڑے پتوں اور سفید پھولوں کا ایک درخت۔

المَمَغُوث: بخار زدہ۔ بارش سے بچھی ہوئی گھاس۔

مَعْد (ف) مَعْدَا الشی: چوٹنا۔ الفَصِیلُ اُمَةٌ: اونٹ کے بچے کا اپنی ماں کا

دودھ پینا النَّبَات: نباتات لمبی ہونا الرَّجُلُ فِی عَیْشِہ: آسودہ زندگی گزارنا شَعْرَةٌ: بال

اکھینا العَیْشُ البَدَن: موٹا تازہ کر زینا فُلَانٌ: کامل جوان ہونا الحَارِیَّةُ: جماع کرنا۔

مَعْد (ف) و مَعْد (س) مَعْدَا البَدَن: بدن کا موٹا ہونا۔

أَمْعَد: دیر تک پینا الصَّیِّ: بچے کو دودھ پلانا۔

المَمْعَد: سر عیش مَعْد آسودہ زندگی۔ المَمْعَد: ببول کا گوند بیری کا گوند بیروج

الضم (ایک دوا کا نام) اور بقول بعض بکین۔ ایک پھل جو گلڑی کے مشابہ ہوتا ہے۔ ایک

درخت کا نام جس کے پتے باریک اٹازک اور لمبے ہوتے ہیں اور درخت پر لپٹے ہوئے ہوتے

ہیں۔ بڑا ڈول۔ گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی کی جگہ۔ ہر موٹی لمبی چیز۔ مونا اوٹ۔

مغر (ف) مَعْرَا فی اللہ: تیز جانا بہ بعیرہ: لے کے تیز دوڑنا۔

مغر الثَّوْب: کپڑے کو کیروسے رنگنا۔ امغرة بالسَّہْم: آر پار کر دینا۔ امغربت النافثة: اونٹنی کا مرض کی وجہ سے سرخ دودھ

والی ہونا۔ صفت مُمغِر۔ الممغرة و الممغرة: کیرو۔

الممغر و الممغرة: غیر خالص سرخی کا رنگ۔ الممغارة: دیکھنے ماہہ غور۔

الاممغر: غیر خالص سرخ رنگ والا۔ وہ شخص جس کے چہرے میں خالص سفیدی میں سرخی جھلکتی ہو۔

لبن ممغیر: سرخ دودھ خون ملا ہوا۔ الممغرة: وہ زمین جہاں سے کیرونکلے۔

مغس (ف) مَغْسَا بیدہ: چھوٹا ہ بالروح: نیرہ مارنا الممرأة: عورت سے جماع

کرنا۔ مغس: آنٹوں میں درد والا ہونا۔

مغص (س) مَغْصًا و مَغْصًا مَغْصًا آنٹوں میں درد اور مڑو ہونا۔ صفت مَمْغُوص۔

أَمْغَصَہ: مڑو اور اٹھن والا کرنا۔ تَمْغَصُ بَطْنُہ: مڑو اور اٹھن لائق ہونا۔

دردناک کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَمْغَصُ بَطْنُہ" یعنی درد میں مبتلا کیا۔ "تَمْغَصُ الشی و تَمْغَصُ مِنُہ" اس نے مجھے تکلیف دی۔

المغص: سر آنٹوں میں مڑو اور اٹھن۔ المغص: عمدہ اونٹ ج امغاص۔ واحد

مغصۃ۔

مَغَط (ف) مَغَطًا و مَغَطًا الشی: لہا ہونے کے لیے کھینچنا۔

تَمَغَط و اِمْتَغَط الشی: کھینچنا و طویل ہونا۔ تَمَغَط البعیر: دوڑنے میں اگلے پیروں کو

پھیلانا۔ الفوس: بہت زیادہ دوڑنا۔ اِمْتَغَط: کھینچنا اور طویل ہونا السنیف: تلوار

سوتلا۔ المَمْتَغَط: انتہائی لہا۔

مَغَل (ف) مَغَلًا و مَغَالًا بالرُّجُل: چٹان خوری کرنا۔

مغلت (س) مَغَلًا عینہ: خراب ہونا۔ الحامل بولدھا: زمانہ حمل میں دودھ پلانے

مغلت (ف) و مغلت (س) مَغَلًا

الدَّائِبَةُ: چوپایہ کے پیٹ میں مٹی ملی ہوئی
گھاس وغیرہ کھانے سے درو ہونا۔ صفت مَعْلَةٌ
وَمَمْعُولَةٌ اور اسم المفعولہ۔
أَمْعَلُ الْقَوْمِ: مٹی ملی ہوئی گھاس وغیرہ
کھانے سے پیٹ میں درد والے جانور کا مالک
ہونا الحامِلُ وَلَدَهَا: زمانہ حمل کا دودھ پلانا
بہ عِنْدَ السُّلْطَانِ: چٹل خوری کرنا۔
المُعَلُّ والمُعْلُ: زمانہ حمل میں عورت کا
دودھ المَعْلُ: آنکھ کا بچھڑنا۔ ج مَعْلَالُ
المُعْلُ: ایک قوم کا نام۔ ج مَعْلُولُ
المَعْلَةُ: مغل کا اسم مرثیہ۔ سال میں دو
مرتبہ بچے جننے والی بھیڑیا بکری۔ ج مَعْلَالُ
المَعَالَةُ: سرخیانت۔ فریب۔
مَمْعَمُ اللَّحْمِ: گوشت کو نرم نرم کرنا۔
الکَلَامُ: مبہم کہنا الشَّيْءُ: گڈمڈم کرنا
عَمَلِهِ: ناقص وردی طریقے سے کرنا الْأَمْرُ:
خط ملط ہونا الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ: کتے کا برتن
میں منہ ڈالنا۔
مَغْنَطُ الْحَدِيدِ: لوہا وغیرہ سے پلانا۔
الْمَغْنَطِيْسُ وَالْمَغْنَطِيْسُ: ایک معدن جس
میں لوہا و دیگر معاون جذب کرنے کی صلاحیت
ہوتی ہے۔
الْمَغْنُوْلِيَّةُ: شمالی امریکہ میں ایک درخت کی
قسم جس کے بڑے بڑے خوبصورت پھول
ہوتے ہیں زیب و زینت کے لئے بوئے جاتے
ہیں۔
الْمَغْيِسَا وَالْمَغْيِسَا: بے ہوا بے ذائقہ
سفید مٹی۔ جس کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے۔
المَغْنَطِيْسُ وَالْمَغْنَطِيْسُ: چمک پتھر۔
مَعَا يَمْعُو مَعْوَا السَّنُوْرُ: لمبی کامیادوں
میاؤں کرنا۔
المَغْيَاءُ وَالْمَغْيُو: لمبی کی آواز۔
مَعَى يَمْعَى مَغْيَا: غیر مفہوم گفتگو کرنا۔
تَمْعَى الْأَدِيْمُ: چمڑے کا ڈھیلا پڑنا۔
المَغْيُ فِي الْأَدِيْمِ: چمڑے کا ڈھیلا پن۔
فِي الْإِنْسَانِ: مذاقاً یا واقعی طور پر وہ کچھ کہنا
جو اس کے اندر نہ ہو۔

مَفْعَجُ (ف) مَفْعَجُ الرَّجُلِ: بیوقوف ہونا۔
رَجُلٌ مَفْجَاةٌ: بیوقوف مرد۔
مَقٌّ (ن) مَقٌّ الشَّيْءُ: چیز کو کھولنا اللَّهُ
عِنْدَهُ: اکھیڑنا۔
مَقَّقُ الطَّائِرِ فِي حَبِّهِ: پرندہ کا بچہ کو چوگا دینا۔
عَلِيٌّ عِيَالِهِ: فقیری یا بچل سے نان نفقہ میں
سنگی کرنا۔
تَمَقَّقُ الشَّرَابَ: تھوڑا تھوڑا پینا مَا فِي
الْعَظْمِ: ہڈی سے سارا گودا نکال لینا (وَأَمْتَقٌّ)
الْفَصِيْلُ مَا فِي الضَّرْعِ: تھن سے سارا
دودھ پی لینا۔
الْمَقَّقُ: پتلے پن کے ساتھ بہت لمبائی۔ ہر دو
چیزوں کے درمیان دوری۔
الْمَقَّقَةُ: دودھ پینے والے سمکنے۔ جاہل
لوگ۔ تھوڑی تھوڑی شراب پینے والے۔
الْإِمْتَقُّ: پتلے پن کے ساتھ بہت لمبا۔ مؤنث
مَقَّاءٌ ج مَقٌّ: بلدہ امتق۔ وسبع شہر۔ فِحْدٌ
مَقَّاءٌ: گوشت سے خالی ران۔ ج مَقٌّ
مَقَّتْ (ن) مَقَّتَا وَمَقَّتِ الرَّجُلُ: بہت
بغض رکھنا۔
مَقَّتْ (ك) مَقَّاتَهُ فَلَانَ الَّتِي: ناپسند ہونا۔
مَقَّتَهُ: بہت بغض رکھنا۔ مَقَّتَهُ إِلَى فَبِحْ
فَعَلَهُ: مبغوض کر دینا۔
تَمَقَّتْ الَّتِي: ناپسند ہونا۔
تَمَقَّتُوا: الجحاض کا بغض کے ساتھ بغض
رکھنا۔
المَقَّتُ: من زواج المَقَّتِ: باپ کی بیوہ
سے شادی کرنا۔
المَقَّتِي: باپ کی بیوہ سے شادی کرنے والا۔
المَقَّتِ وَالْمَقَّقَاتُ: ناپسند۔
مَقَّرَ (ن) مَقَّرَا عَقْدَهُ: لاشعری مار کر گردن
توڑ دینا السَّكَّةُ الْمَالِحَةُ: نمک لگی ہوئی
مچھلی کو سرکہ میں بھجوانا۔
مَقَّرَ (س) مَقَّرَا الشَّيْءُ: کڑوایا کھنا ہونا۔
صفت مَقَّرَ
أَمَقَّرَ السَّكَّةَ الْمَالِحَةَ: نمک لگی ہوئی
مچھلی کو سرکہ میں بھجوانا الشَّيْءُ: کڑوایا ہونا

الْمَلْنُ: دودھ کا بے مزہ ہونا۔
أَمْتَقُّ الرَّكِيَّةِ: پانی ختم ہونے کے بعد
کنوئیں کو پھر کھودنا۔
أَمَقَّرَ أَمَقَّرَا الرَّجُلُ: ابھری ہوئی رگ
والا ہونا۔
المَقَّرُ وَالْمَقَّرُ: ایوایا اس کے مشابہ کڑوی
چیز۔
الْمَمْتَقُّورُ: سرکہ میں بھجوائی ہوئی نمکین
مچھلی۔
الْمَمْتَقُّورُ: کم پانی والا کنواں۔
مَقَّسٌ (ن) مَقَّسًا الْقَرِيْبَةَ: منک بھرنا۔
الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈبانا الْمَاءُ: پانی کا
جاری ہونا فَلَانَ فِي الْأَرْضِ: جاننا۔
مَقَّسَتْ (س) مَقَّسًا وَتَمَقَّسَتْ نَفْسُهُ:
جی مثلاً۔
مَقَّسَهُ مَقَّاسَةً: باہم ڈبانا۔ خواص میں
مقابلہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَمَقِّسُ
حَوْتًا"، وہ مچھلی سے غوطہ زنی میں مقابلہ کرتا
ہے۔ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ اپنے سے
زیادہ قوی سے جھگڑا کرے۔
مَقَّطَهُ (ن ض) مَقَّطًا: غصہ میں ڈالنا مَقَّطَهُ
بِالْعَصَا: لاشعری سے مارنا۔ مَقَّطُ الشَّيْءِ:
باندھنا۔ مضبوط بنی ہوئی رسی سے باندھنا
عُقْدَةً: توڑ دینا الْكِرَّةُ: زمین پر مارنا پھر اٹھانا
بِالْأَيْمَانِ: قسم دلانا الْحَبْلُ: رسی بٹنا الشَّيْءُ
كُحُوْنًا لَكَانَ: مَقَّطُ بِالْقِرْنِ وَ مَقَّطَهُ وَ
مَقَّطَهُ: بچھاڑنا مَقَّطُ بِالْأَيْلِ: مضبوط بنی
ہوئی رسی سے باندھنا۔
المَقَّاطُ: فا۔ ٹکڑی ڈال کر ٹھون لینے والا۔
ڈول کی رسی۔
المَقَّاطُ: مضبوط بنی ہوئی چھوٹی رسی۔ ج
مَقَّطُ
المَقَّطُ: چھ مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ۔
المَقَّطُ: پرندہ پھنسانے کا دھاگہ ج مَقَّاطُ
مَقَّعُ (ف) مَقَّعًا الشَّرَابَ: ڈگڈگا کے
پینا۔
هَ بَشَرٌ: تہمت لگانا الْفَصِيْلُ أُمَّةٌ: اونٹ

کے بچے کا بی ماں کا دودھ پینا۔
 اَمْتَعُ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ اُمِّهِ: تھن کا
 سارا دودھ لی لینا۔
 اَمْتَعُ: غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے رنگ بدلنا۔
 المَمْعُ: سر۔ ٹھہرا ہوا پانی۔ جِ اَمْعُ: جِ اَمْعُ:
 مَقْلَةٌ (ن) مَقْلًا: دیکھنا۔ کہا جاتا ہے ”مَقْلَتَهُ
 عَيْنِي“ میری آنکھ نے اس کو دیکھا ”وَمَا
 مَقَلْتُ عَيْنَايَ مِثْلَهُ“ میری آنکھوں نے
 اس کی مانند نہیں دیکھا۔
 ق: پانی میں ڈیونا۔ مَقْلٌ فِي الْمَاءِ: غوطہ
 لگانا۔
 المَقْلَةُ: برتن میں نکتری رکھنا اور پھر اس پر
 پانی ڈالنا اور جب پانی اس سے اوپر آ جائے تو
 تقسیم کرنا تاکہ اس طرح سب کو برابر برابر پانی
 مل جائے۔
 مَقْلَةٌ: ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔
 تَمَاقًا: باہم غوطہ زنی کرنا۔
 اِمْتَقَلٌ: بار بار غوطہ لگانا۔
 المَقْلُ: سر۔ کنوئیں کی تہ کنوئیں کی تہ کی
 مٹی یا نکلری۔ سمندر میں غوطہ لگانے کی جگہ۔
 المَقْلُ: گول گل کا پھل۔ گول گل۔
 المَقْلَةُ: مقل کا اسم مرہ۔ کنوئیں کی تہ۔
 نکتری جس کو سفر کی حالت میں پانی کی کمی کی
 وجہ سے برتن میں رکھتے تھے اور پھر اس پر
 پانی ڈالتے تھے اور جب پانی اس سے اوپر آ
 جاتا تھا تو پلاتے تھے تاکہ اس طرح پانی سب
 کو برابر پہنچ جائے۔
 المَقْلَةُ: آنکھ کا ڈھیلا۔ آنکھ۔ جِ مَقْلُ:
 مَقْمَقُ الشَّيْءِ: نرم اور آسان ہونا الشَّيْءِ:
 ذلیل کرنا الولدُ اُمَةٌ: زور سے چوستا۔
 المَقَامِقُ: حلق کے انتہائی حصے سے بولنے
 والا۔
 مَقَّةُ (س) مَقْفًا: سرخ پکوں والا ہونا۔
 صفت اَمَقْفُ:
 المَقْفَةُ: سفیدی مائل نیلگوئی اور یہ مذموم
 ہے۔
 الامْقَةُ: دور۔ بجز زمین۔ سرخ پکوں والا۔

خود سر آدمی جو یہ نہ جانتا ہو کہ کدھر جا رہا ہے۔
 مَوْتٌ مَقْفَاهُ جِ مَقْفَةٌ:
 مَقًا يَمَقُو مَقْوًا و مَقِي يَمَقِي مَقِيًا
 السَّيْفُ: تلوار پر صیقل کرنا۔ مَقَا الْفَصِيلُ
 اُمَةٌ: زور سے دودھ پینا۔ مَقَا الطَّسْتُ:
 دھونا۔
 مَكٌّ (ن) مَكًّا و تَمَكُّكٌ و اِمْتَكُّكٌ
 الْعَظْمُ: ہڈی سے سارا گودا چوس لینا۔ مَكٌّ
 الشَّيْءُ: ہلاک کرنا۔ برابرا کرنا غَرِيْمَةٌ: قرض
 دار سے وصول میں اصرار کرنا۔ اِمْتَكُّكٌ و
 تَمَكُّكٌ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ اُمِّهِ: سب
 کچھ چوس لینا۔
 مَكَّكٌ عَلَي غَرِيْمَةٍ: قرض دار سے اصرار
 کرنا۔
 المَمَّاكُ و المَمَّاكَةُ: بڑی کا گودا۔
 المَمَّاكُوكُ: پیٹے کا پیالہ ڈیڑھ صاع کا پیالہ۔
 کپڑا بننے کی نال۔ جِ مَمَّاكِيْكُ:
 مَمَكَّتٌ (ن) مَمَكَّتًا بِالْمَمَّاكِيْنِ: اقامت
 کرنا۔
 اِسْتَمَكَّتْ: پھنسی کا پیپ سے بھرنا۔
 مَمَكَّتٌ (ن) مَمَكَّنًا و مَمَكَّنًا و مَمَكَّنًا و
 مَمَكَّنًا و مَمَكَّنِي و مَمَكَّنِيَاءُ بِالْمَمَّاكِيْنِ:
 اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ صفت مَمَكَّتٌ اور اِسْمُ
 المَمَكَّتِ و المَمَكَّتِ:
 مَمَكَّتٌ (ك) مَمَكَّنَةٌ: ٹھہرنا۔
 اَمَكَّنَفَةٌ: ٹھہرانا۔
 تَمَكَّنْتُ: انتظار کرنا اور ٹھہرنا بِالْمَمَّاكِيْنِ
 ٹھہرنا فی الْأَمْرِ: جلد بازی نہ کرنا۔
 المَمَكِّيْتُ: ٹھہرنے والا۔ رنجیدہ۔ جِ مَمَكَّنِيَاءُ
 و مَمَكِّيُوْنُ:
 مَمَكَّدٌ (ن) مَمَكَّدًا و مَمَكَّدُوْدًا بِالْمَمَّاكِيْنِ:
 اقامت کرنا۔ صفت مَمَكَّدٌ۔ مَاءٌ مَمَكَّدٌ: ختم
 نہ ہونے والا پانی نَاقَةٌ مَمَكَّدَةٌ: بہت دودھ
 والی اونٹنی۔ اور اِيْيَاي نَاقَةٌ مَمَكَّدَاءُ و
 مَمَكَّدُوْدٌ: جِ مَمَكَّدٌ و مَمَكَائِدُ:
 المَمَكَّدُ: کنگھا۔
 مَمَكَّرٌ (ن) مَمَكَّرًا الرَّجُلُ و يَه: دھوکہ

دینا۔ اللہ فَلَانًا: مکر کی سزا دینا۔ مَمَكَّرُ
 النُّوْبِ: گھبرو سے رگٹنا ة: رگٹنا الْأَرَضُ:
 سیراب کرنا۔
 مَمَكَّرُ (س) مَمَكَّرًا: سرخ ہونا۔
 مَمَكَّرَةٌ: فریب دینا۔
 مَمَكَّرٌ: گرانی کے انتظار میں غلہ کو روکنا۔
 اَمَكَّرَةٌ: دھوکا دینا ة اللہ: مکر کی سزا دینا۔
 تَمَمَّاكَّرًا: بعض کا بعض سے جلد کرنا۔
 اِمْتَمَكَّرٌ و اِمْتَمَكَّرٌ: گھبرو سے رنگا ہوا ہونا۔
 المَمَكَّرُ: سر۔ دھوکا۔ فریب۔ دھوکہ فریب
 کی سزا۔ گھبرو۔
 المَمَكَّرَةُ: مکر کا اسم مرہ۔ لڑائی میں جلد و
 تدبیر۔ بے پھولوں کا ایک قسم کا پودہ۔ کھیت کی
 سیرابی۔ خوبصورت موٹی پنڈلی۔ جِ مَمَكَّرٌ و
 مَمَكَّرُوْدٌ:
 المَمَّاكِرُ: فریب کرنے والا۔ جِ مَمَكَّرَةٌ و
 مَمَّاكِرُوْدُ:
 المَمَّاكِرُ و المَمَّاكِرُوْدُ: بہت دھوکہ فریب
 کرنے والا۔
 مَمَكَّسٌ (ض) مَمَكَّسًا: ٹیکس جمع کرنا فی
 البَيْعِ: قیمت گھٹانا ة: ظلم کرنا۔
 المَمَكَّرُوْدُ مَمَكَّرُوْدٌ: (یونانی لفظ): اس کی عربی
 اَلْمَجْهَرُ: دور بین۔
 مَمَكَّسُ الرَّجُلِ: خرید و فروخت وغیرہ میں
 نقصان پہنچانا۔
 مَمَكَّسَةٌ مَمَكَّسًا و مَمَّاكَّسَةٌ: قیمت کم
 کرنا۔ مخالفت کرنا۔
 تَمَمَّاكَّسُ الرَّجُلَانِ فِي البَيْعِ: خرید و
 فروخت میں باہم جھگڑنا۔
 المَمَكَّسُ: سر حصول۔ ٹیکس۔ چنگی۔ جِ
 مَمَكَّوْسُ:
 المَمَّاكِسُ و المَمَّاكِسُ: ٹیکس وصول کرنے
 والا۔ صاحب کس بھی کہا جاتا ہے۔
 مَمَكَّمَكُّ الرَّجُلِ: چلنے میں لڑھکتا المَمَخُّ:
 سارا گودا چوس لینا۔
 مَمَكَّنٌ (ك) مَمَكَّنَةٌ عِنْدَ الْأَمِيْرِ: صاحب
 مرتبہ ہونا۔

ہونا۔

مَلَّلَ تَمَلُّلاً الشَّيْءَ: الٹ پلٹ کرنا۔
أَمَلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ: طویل ہونا۔ أَمَلَهُ الْأَمْرُ
وَأَمَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ مَلَّالٌ میں
ذالنا۔ أَمَلَهُ الشَّيْءُ: بھوجھل میں ذالنا۔

أَمَلَّتْ إِمْلَالًا وَ أَمَلِيَتْ إِمْلَاءَ الْكِتَابِ
عَلَى الْكَاتِبِ: المَلَّاكَرَانَا۔
تَمَلَّلَ: مرض یا غم کی وجہ سے تڑپنا۔ فِی
الْمَشْيِ: تیز دوڑنا۔ مَلَّةٌ سَخَا: مذہب اختیار
کرنا۔ الْحَيْزَةُ: روٹی کو بھوجھل میں پکانا۔
أَمَلَعُ: کھینچنا۔ جاننا۔ نکل آنا۔

إِسْتَمَلَّ الشَّيْءُ: زنج ہونا۔
الْمَلُّ: بس۔ رَجُلٌ مَلٌّ: آکٹا ہوا مرد۔
الْمَلَّةُ: اسم مرآة۔ چنگاری۔ بھوجھل بخار کا
پینہ۔ تنگ دلی۔ وَ حَيْزُ الْمَلَّةِ: بھوجھل کی
پکی ہوئی روٹی اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَلَّةٌ"
بہت جلدی طول ہونے والا۔

الْمَلَّةُ: مذہب۔ شریعت۔ خون بہا۔ ج

مَلَّلَ: سکی
الْمَلَّةُ: کچی سلائی۔ ج مَلَّلَ
الْمَلِّيُّ: بھوجھل میں پکی ہوئی روٹی۔
المَلَّلُ وَالْمَلَالُ: تنگ دلی۔
الْمَلَالُ: مرض یا غم کی وجہ سے اضطراب۔
پیٹھ کا درد۔ کمان کی پیٹھ۔ ہڈی کے اندر کی
گرمی۔ بخار کا پینہ۔ تلوار کے قبضہ کی لکڑی۔

الْمَلُولُ وَالْمَلُولَةُ وَالْمَلَالَةُ وَالْمَالُولَةُ
تنگ دل۔ مذکورہ نوٹ تا ماہذ کے لیے ہے۔

المَلِيلُ وَالْمَمْلُولُ: بھوجھل میں بھنا ہوا۔

الشَّيْءُ الْمَمْلُولُ: باعث ملال۔ المَلِيلُ:
کر پٹی۔ رَجُلٌ مَلِيلٌ: آفتاب سے جھلسا ہوا
مرد۔

الْمَلُولُ وَاحِدٌ مَلُولَةٌ بِلُطُورِ دَرَجَتِ الْوَاحِدِ
تسم جو کہ رنگے کے کام آتا ہے۔

المَلِيلُ وَالْمَمْلُ مِنَ الطَّرْقِ: بہت چلنا
ہوا راستہ۔

المَلِيلَةُ: اندرونی بخار۔ پیاس کی تیزی۔
مَلَالٌ (مَلٌّ) مَلٌّ وَ مَلَالَةٌ وَ مَلَالَةٌ
الشَّيْءُ وَ مِنَ الشَّيْءِ: تنگ پل ہونا۔ زنج

مَكْنِيَتِكَ، یعنی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ
چلو۔

الْمَتَمَكِّنُ فِي عِلْمِ النُّحُو: اصطلاح نحو
میں وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ
رکھتا ہو۔

وَالْمَتَمَكِّنُ الْأَمَكِّنُ: اسم منصرف جس
کے آخر میں تینوں حرکات مع تونین کے ظاہر
ہوں۔

وَالْمَتَمَكِّنُ غَيْرُ الْأَمَكِّنِ: اسم غیر
منصرف جس کے آخر میں کسرہ اور تونین نہ
آئے۔

غَيْرُ الْمَتَمَكِّنِ: وہ اسم جو مبنی الاصل کے
ساتھ مشابہت رکھتا ہو جیسے كَيْفٌ وَ آيْنٌ
مَكَائِمُكَ مَكَاءٌ وَ مَكْوًا: منھ سے سیٹی
بجانا۔

مَكِيَّتٌ تَمَكَّى مَكَائِمًا: ہاتھ میں زیادہ
کام کرنے کی وجہ سے چھالے ہونا۔

تَمَكَّى تَمَكَّى الْفَرَسُ: گھوڑے کا پینہ
سے شرابور ہونا۔

المَكِّيُّ وَالْمَكْوُ: خرگوش وغیرہ کا بھٹ۔

ج أمكاء
المَكَاءُ: سفید رنگ کا خوش آواز پرندہ۔ ج
مكائكِيٌّ.

المَكْوَةُ: دیر۔
مَلٌّ (ن) مَلًّا النَّوْبُ: کپڑے پر لنگر کرنا۔

کچا کرنا الشَّيْءُ فِي الْجَمْرِ: انگاروں میں
رکھنا۔ صفت فاعلی مَلَّالٌ صفت مفعولی

مَمْلُولٌ وَ مَلِيلٌ
السَّهْمُ بِالنَّارِ: تیر کو آگ سے سیدھا کرنا

اللَّحْمُ أَوْ الْحَيْزُ: گوشت یا روٹی کو بھوجھل
میں ذالنا۔ فِی الْمَشْيِ: تیز دوڑنا۔ عَلَيْهِ

السَّفَرُ: سفر طویل ہونا۔
مَلٌّ (س ن) مَلًّا مَلَّالٌ لَاحِقٌ هُونًا: مرض یا
غم کی وجہ سے تڑپنا۔ الشَّيْءَ: الٹ پلٹ کرنا۔

الْمَحْمُومُ: بخار زدہ کا تمللانا۔

مَلٌّ (س) مَلًّا وَ مَلَالًا وَ مَلَّةً وَ مَلَالَةً
الشَّيْءُ وَ مِنَ الشَّيْءِ: تنگ پل ہونا۔ زنج

مَكْنَتْ (س) مَكْنًا الْجَرَادَةُ وَ نَحْوَهَا:
بڑی کا اثر دینا یا اثرے والی ہونا۔ صفت

مَكُونٌ ج مَكَانٌ
مَكْنَةٌ وَ أَمَكْنَةٌ مِنَ الشَّيْءِ: قدرت دینا۔
قادر بنانا۔

أَمَكَّنَ الْأَمْرُ فَلَانًا وَ لِفَلَانٍ: آسان ہونا۔
ممكن ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَمَكِّنُهُ
النُّهُوضُ"، فلاں اٹھنے پر قادر نہیں۔ و
أَمَكَّنِي الْأَمْرُ: یعنی معاملہ میرے قبضہ میں
آ گیا۔ أَمَكَّنْتَ الْجَرَادَةُ: بڑی کا اثر دینا۔
تَمَكَّنَ عِنْدَ الْأَمِيرِ: بلند و صاحب مرتبہ
ہونا۔

المَكَانُ وَ بِهِ: مضبوط اور جمے ہوئے قدم
والا ہونا۔ (و إِسْتَمَكَّنَ) مِنَ الْأَمْرِ: قادر
ہونا یا ج مند ہونا۔

المَكْنُ وَالْمَكِينُ: بڑی وغیرہ کے اٹنے۔
واحد مَكْنَةٌ وَ مَكِينَةٌ ج مَكْنَاتٌ وَ

مَكْنَاتٌ
المَكْنَةُ: قوت۔ طاقت۔

المَكْنَةُ: قدرت۔ پرندوں کا گھونسلہ۔ ج
مَكْنَاتٌ.

المَكَانُ: موضع۔ جگہ (یہ ظرف ہے کون
سے) ج أَمَكْنَةٌ وَ أَمَكْنٌ وَ ج أَمَاكِنٌ اور

کہا جاتا ہے "هُوَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ" اس
کے لیے علم کا ایک خاص مرتبہ حاصل ہے

"وَهَذَا مَكَانٌ هَذَا" یہ اس کے بدلے میں
ہے۔

المَكَانَةُ: س۔ مرتبہ۔ رفعت شان۔
سنجیدگی۔ کہا جاتا ہے "إِفْشِ عَلَيَّ

مَكَانِيَتِكَ، یعنی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ
چلو۔ ج مَكَانَاتٌ.

المَكِينُ: صاحب مرتبہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
مَكِينٌ عِنْدَ الْأَمِيرِ" اس کو امیر کے نزدیک

مرتبہ حاصل ہے "وَهُوَ أَمَكْنٌ مِنْ غَيْرِهِ"
یہ نسبت غیر کے زیادہ صاحب مرتبہ ہے۔ ج

مَكْنَاءُ
المَكْنَةُ: آہستگی۔ کہا جاتا ہے "إِفْشِ عَلَيَّ

الاناء ماءً وبالماء ومن الماء: برتن کو تاب کرتا۔ صفت مفعولی مملوۃ۔ اور کہا جاتا ہے ملاء علی الامر: اس کی اس نے مدد کی "و نظرت الیہ فملاّت منه عینی" میں نے اس کو دیکھا مجھے اس کا دیکھنا مجھلا معلوم ہوا۔ ملاء علیہ الارض: اس نے اس پر زمین چمک کر دی۔

مَلُو (ک) ملاء و ملاءة: تو اگر ہونا۔ مَلُو (ک) و مَلُو ملاءة: زکام والا ہونا۔ مَلُو (س) ملاء و ملاءة: پر ہونا۔ صفت مَلَان: خوب بھرنا (تشدید مبالغہ کے لیے ہے) ملاءة فی قوسہ: کمان کو خوب زور سے کھینچنا۔

مَلَان ملاءة تَمَلْنَة: خوب بھرنا (تشدید مبالغہ کے لیے ہے) ملاءة فی قوسہ: کمان کو خوب زور سے کھینچنا۔

أَمَلَاء: باعث زکام ہونا۔ صفت مَلَان: آملاء فی القوس: خوب زور سے کھینچنا۔ تَمَلَاء: پر ہونا۔ تَمَلَاءت الممرأة: عورت کا چادر اوڑھنا۔

مَالَاءة مُمَالَاءة و مِلاءٌ علی الامر: موافقت کرنا۔ مدد کرنا۔

تَمَلَاء القوم علی الامر: اکٹھا ہو کر باہم مدد کرنا۔

استملاء فی ذنبہ: قابل اعتماد اغنیاء کو قرض دینا۔

برتن بھرنے کی مقدار۔ ج ملاء۔ المل: اور کہا جاتا ہے "انہ ینام مل جفینہ" وہ بے غم سوتا ہے "فلاّن مل کسانہ" فلاں سوٹا ہے۔

اللأ: قوم کی جماعت۔ اشرف قوم جن سے دلوں میں بیت طاری ہو۔ الملاء الاعلیٰ: ملائکہ مقربین۔ الملاء: مشورہ۔ کہا جاتا ہے "ما کان هذا الامر عن ملاء منّا" یہ کام ہمارے مشورہ سے نہیں تھا۔ گمان۔ لاج۔ ج

اور کہا جاتا ہے "ما احسن ملا نبی فلاّن" یعنی ان کے عادت و اخلاق کس قدر اچھے ہیں۔

ف۔ کہا جاتا ہے "رجل مالی" مرد

جلیل جس کے سامنے آنکھیں نہ پھیر سکیں۔ و شاب مالی العین: آنکھوں کو بھردینے والا جوان۔

الملاء والملاءة والملاءة: زکام۔ الملاءة: تندرست دہری چادر۔ ملاء: الملاءة: س۔ بھرنے کی ہیئت۔ بد ہمتی۔

المملآن: بھرا ہوا۔ زکام والا۔ مؤنث مملآی و ملاءة ملاءة۔

المملی والمملی: نمیلاء و مملیاء و مملیاء کہا جاتا ہے "هو اهل القوم" یعنی وہ قوم میں سے زیادہ غنی اور ثور ہے "فلاّن أملاً یعنی من فلاّن" یعنی فلاں فلاں کے لحاظ سے حسن میں زیادہ کامل ہے۔

ملئہ (ض) ملئا: حرکت دینا۔ زور سے پلانا۔

ملئہ (ن) ملئا: بغیر نیت وفا کے محض زبانی وعدہ سے دل خوش کر دینا۔ آہستہ مارنا۔ ملئہ بالشعر: آلودہ کرنا۔ ملئ الطلام: کھٹا ٹوپ اندھیرا ہونا۔

ملئہ ملائا و مملئہ: کھیل کود کرنا۔ مدامت برتنا۔

ملئ اللیل و ملئہ: رات کی ابتدائی تاریکی۔

ملئہ: مغرب کے وقت کی ابتدائی تاریکی۔

ملح (ن) و ملح (س) ملحا الصبی: امہ: بچے کا ہونوں میں لے کر دودھ پینا۔ أملاحہ: دودھ پلانا۔

املح: چوٹا۔ املاح: مافصل التندی: چوٹا۔ مافصل التندی: چوٹا۔ مافصل التندی: چوٹا۔ مافصل التندی: چوٹا۔

املح: دودھ پینے والے مکین۔ چھوٹے چھوٹے بھری کے بچے۔

املح: دودھ پینا بچے۔ مرد بزرگ۔

املح: چیل میدان۔ آملہ۔ الاملاح: ایک جنگلی درخت جس کے پتے سرد اور چھاؤ کی طرح ہوتے ہیں۔ نازک نہیں۔ اور بقول بعض جز جو نرم ہونے کے لئے مٹی

میں ودیادی جائے۔ ج مالمیح: المالمیح: کرنی۔ گل کاری کرنے کا آلہ۔ ج موالح (وخیل)

ملح (ف ض) ملحا الطعام: کھانے میں نمک ڈالنا الرجل: غیبت کرنا الطائر: پرندہ کا بہت پھڑ پھڑانا الماشیة: نونی کھلانا اور کہا جاتا ہے "ملح اللہ فیہ" یعنی اللہ اس کی زندگی میں برکت دے۔

ملح (ف) و ملح (ک) ملوخة و ملاحة و ملوخة الماء: پانی کا کھاری ہونا۔ صفت ملیح اور نادر طور پر ملح بھی مستعمل ہے۔

ملح (ک) ملاحة و ملوخة: خوبصورت ہونا۔ حسن ملیح والا ہونا۔ صفت

ملیح و ملح و ملح: نیکوں رنگ کا ہونا۔

ملح (س) ملعل: نمکین کرنا الطعام: کھانے میں بہت نمک ڈالنا السمک و نحوہ: مچھلی وغیرہ میں نمک لگانا۔ الذائبہ: چوپائے کے جڑے پر نمک لٹنا۔ الماشیة: جانور کو نونی کھلانا۔ المتکلم: عمدہ بات کہنا۔

املح الماء: پانی کا خوشگوار ہونے کے بعد کھاری ہونا الطعام: کھانے میں بہت نمک ڈالنا الرجل: کھاری پانی پر جانا الرجل کھاری پانی پر بیچنا الراعی الرجل: کھاری پانی پلانا الشی: نیکوں رنگ کا ہونا۔

المتکلم: عمدہ بات کہنا۔ اور تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے "ما املحه و ما امیلحه" یعنی کس قدر خوبصورت ہے۔

مالحة ملاحا و ممالحة: ساتھ کھانا۔ کہا جاتا ہے "هو یحفظ حرمة الممالحة" وہ ساتھ کھانے کا پاس کرتا ہے۔ مالح فلانا: ایک بچے کا دوسرے بچے کے ساتھ دودھ پینا۔

تملح العین: اونٹ کا موٹا ہونا الرجل: نمک کوشہ میں لینا۔ نمک کی تجارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "فلاّن ینظر ف و ینملح" فلاں خوش طبع اور دلچسپ بائیں کہتا ہے۔

جاتی ہے۔
 المَلِيحُ: بگڑا ہوا کھانا۔ بے مزہ۔ کمزور۔
 مُمْتَلِحُ العَقْلِ: محروم العقل۔
 مَلَذٌ (ن) مَلَذًا الشَّيْءُ: کھینچنا۔
 مَلَذٌ (س) مَلَذًا العُضُنُ: نہیں کالہنا اور نرم ہوتا۔
 مَلَذٌ الأَدِيمِ: چمڑے کو نرم کرنا الرئی العُضُنُ: نہیں کو نرم و نازک کرنا۔
 المَلَذُ: جوانی۔ نزاکت۔ جِ اَمَلَادُ المَلَذَانِ: نہیں کی نزاکت۔
 المَلَذُ والأَمَلَدُ والأَمَلَدُ والأَمَلُودُ والأَمَلِيدُ والأَمَلْدَانُ والأَمَلْدَانِي: نرم و نازک نہیں یا آدمی۔ کہا جاتا ہے "شَابٌ أَمَلُودٌ وَشَبَانٌ أَمَالِيدٌ" المَلَذُ: بھوت۔
 المَلَذَاءُ: تانیف اَمَلَدُ جِ مَلَذُ: کہا جاتا ہے اِمْرَأَةٌ مَلَذَاءٌ وَ أَمَلُودٌ وَ أَمَلُودَةٌ وَ أَمَلْدَانِيَّةٌ یعنی نازک بدن عورت۔
 مَلَذٌ (ن) مَلَذًا الرَّجُلُ: جھوٹ بولنا فُلَانًا: نیزہ مارنا الفَرَسُ: گھوڑے کا بازوؤں کو پھیلا کر تیز دوڑنا (مَلَذًا وَ مَلَذَةً) الرَّجُلُ: محض باتوں ہی سے خوش کرنا اور کہنے کے مطابق عمل نہ کرنا۔
 مَلَذٌ (س) مَلَذًا الظَّلَامُ: گھٹا ٹوپ اندھیرا ہونا الرَّجُلُ: خالص دوستی نہ کرنا اور ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔
 الأَمَلَدُ وَ المَلَذَانُ وَ المَلَذَانِي وَ المَلَذَانِي وَ المَلَذُ وَ المَلَذُ: خالص دوستی نہ کرنے والا۔
 مَلَزٌ (ن) مَلَزًا: پیچھے رہنا بالشَّيْءِ: لے جانا۔
 مَلَزَةٌ مِنْهُ: چھڑانا۔ مَلَزَ الشَّيْءُ عَنِّي: جاتا رہنا۔
 أَمَلَزَهُ وَ تَمَلَزَهُ وَ أَمَلَزَهُ: نکال لینا۔ اچک لینا۔ لے جانا۔ وَ تَمَلَزَ مِنْهُ: چھٹکارا پانا۔
 أَمَلَزَ وَ أَمَلَزَ مِنْهُ: بچ کر نکل جانا وَ أَمَلَزَ عَنْهُ: پیچھے رہنا۔
 المَلَزُ مِنَ الرَّجَالِ: مضبوط پٹھوں والا۔

المَلْحُ: ایک ترش نباتات۔ واحد مَلْحَةٌ رَجُلٌ مَلْحٌ: خوبصورت خوش طبع مرد۔ جِ مَلْحُونٌ: المَلْحِيَّةُ: جِ اِزْرَالِ کا پیشہ۔
 المُلُوْحَةُ: س۔ تمکینی۔
 المَلِيحُ: خوبصورت۔ مؤنث مَلِيْحَةٌ جِ مَلْحٌ وَ أَمْلَاحٌ مِنَ المَاءِ: کھاری پانی۔ سَمَكٌ مَلِيْحٌ: تمک لگی ہوئی مچھلی۔
 الأَمْلَحُ: اسم تَفْصِيلِ - سفید و سیاہ رنگ والا۔ جِ مَلْحٌ: الأَمْلَحُ: شبنم جو رات کو سبزیوں پر پڑتی ہے۔
 المَلْحَاءُ: تانیف اَمْلَحُ: سفید و سیاہ رنگ والی درخت جس کے پتے جھڑ گئے ہوں۔ بڑا الشکر جِ مَلْحَاوَاتِ: المَلْحِي وَ المَلْحِي: سفید لہا اگور۔ ایک قسم کا لیجیر۔
 المَمْلَحَةُ: تمک والی۔ جِ مَمَالِحُ: المَمْتَلِحُ: تمک والا یا سوداگر تمک۔
 مَلْحٌ (ف) مَلْحًا الشَّيْءُ: ہاتھ یادانت سے کھینچنا الطَّعَامُ: کھانے کا خراب و بد مزہ ہونا۔ الفَرَسُ: گھوڑے کا کلیں کرنا الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ بھانگنا فی الباطلِ: لغو و باطل میں بہت مشغول ہونا الجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔
 مَلْحٌ (ك) مَلْحَةً الطَّعَامُ: کھانے کا خراب و بد مزہ ہونا۔
 مَالِحَةٌ مَلَاخًا وَ مَمْلَحَةٌ: باہم کھیل کود کرنا۔ چالپوسی کرنا۔
 تَمَلَحَ الشَّيْءُ: خراب و فاسد ہونا الشَّيْءِ: کھینچنا۔
 اِمْتَلَحَ الشَّيْءُ: اکھیرنا۔ کھینچنا يَدُهُ مِنْ القَابِضِ عَلَيهِ: کھینچ لینا السَّيْفُ: تلوار کو جلدی سے سونٹنا۔ کہا جاتا ہے "مَرُّ بَرْمُجٍ مَرُّ كُوْزٍ فَامْتَلَحْهُ" اس کا گزر ایک گڑے ہوئے تیرہ پر ہوا اور اس نے اسے اکھیر لیا۔
 المَلَاخُ: بہت چالپوسی کرنے والا۔ عِنْدَ مَلَاخٍ: بہت بھانگنے والا غلام۔
 المُلُوْحِيَّةُ: ایک قسم کی بزی جو پکا کر کھائی

اَمْلَحَ الكَبِيْشُ: مینڈھے کا سفید و سیاہ رنگ کا ہونا۔
 اِمْلَاحُ التَّمْلُحُ: سرخ اور زرد چکی کھجور کا ہونا۔
 اِسْتَمْلَحَ الشَّيْءُ: طبع سمجھنا۔
 المَلْحُ: عمدہ عمدہ باتیں۔
 المَلْحُ: تمک (مذکورہ مؤنث تانیف غالب ہے) لَصِيْبٌ مَلِيْحَةٌ: جِ مَلْحٌ: المَلْحُ: چرلی اِمْرَأَةٌ: خوبصورتی۔ رضاعت۔ علم۔ علماء۔ ماءٌ مَلْحٌ: کھاری پانی اور کھئی ماءٌ مَالِحٌ بھی کہا جاتا ہے۔ جِ مَلْحٌ وَ مَلْحَةٌ وَ مَلْحٌ وَ اِمْلَاحٌ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَلْحُهُ عَلَنِي رُكْبَتِيَّةٌ" وہ ہے وفا ہے یا وہ بہت جھگڑا کرنے والا ہے۔
 المَلْحُ وَ المَلْحَةُ: حرمت۔ معاہدہ۔ کہا جاتا ہے بَيْنَهُمَا مَلْحٌ اَوْ مَلْحَةٌ اِنْ دَوْنُوْنَ كِے درمیان معاہدہ ہے۔ وَ المَلْحَةُ: کھاری۔ کہا جاتا ہے "بِنُوْ مَلْحَةٍ" کھاری کنواں۔
 المَلْحُ: سپیدی سیاہی ملی ہوئی۔ سخت نیگونی۔ گھوڑے کی ایزی کی سو جن۔
 المَلْحَةُ: ام مرتہ۔ مونج دریا۔
 المَلْحَةُ: سخت نیگونی۔ بیت۔ خوف۔ برکت۔
 المَلْحَةُ: مزید ارباب۔ جِ مَلْحُ: المَلْحَةُ: کلمہ لمیجہ۔
 المَلْحُ: کشتی چلانے والی ہوا۔ نیزہ کا بھالا۔ پوشش۔ توبرہ۔
 المَلْحُ: خوبصورت۔ جِ مَلْحُونٌ: المَلَاخَةُ: خوبصورت ہونا۔
 المَلَاخَةُ: جہاز رانی۔
 المَمْلَحَةُ وَ المَلَاخَةُ: تمک پیدا ہونے کی جگہ۔ المَلَاخَةُ: تمک کہنے کی جگہ۔
 الأَمْلُوْحَةُ مِنَ الكَلَامِ: عمدہ مستحسن کلام جِ اَمَالِيْحُ: المَلْحُ: تمک والا۔ تمک پیچھے والا۔ جہاز۔ رال۔

المَلَاذُ: بہت اچھے والا۔ بھیرا۔

مَلَسَ (ن) مَلَسًا الشَّيْءُ: جڑے اکھیرنا۔

الْإِبِلُ: زور سے ہانکنا الظلام: گھٹا ٹوپ

اندھیرا ہونا الرَّجُلُ بِلَسَانِهِ: مدہانت کرنا۔
چالوسی کرنا۔

مَلَسَ (س) و مَلَسَ (ك) مَلُوسًا و

مَلَانَسًا: نرم اور چمکدار ہونا۔ صفت اَمْلَسَ:

مَلَسَ الشَّيْءُ: نرم و چمکدار کرنا الْأَرْضُ:

زمین کو ہموار کرنا هُ مِنَ الْأَمْرِ: چھڑانا۔

أَمْلَسَ الظلام: گھٹا ٹوپ اندھیرا ہونا۔

أَمْلَسَتِ الشَّاةُ: گرے ہوئے اون والی

ہونا۔

تَمَلَّسَ: چمکانا ہونا مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: خارج

ہونا مِنَ الشَّرَابِ: نشہ سے ہوش میں آنا (و)

إِنْمَلَسَ و اِمْلَسَ) مِنَ الْأَمْرِ: بچ نکلتا:

رہائی پانا۔

أَمْلَسَ الشَّيْءُ: اچک لینا۔ اَمْلَسَ

بَصْرَةَ: اس کی نگاہ جانی رہی۔

إِمْلَأْ: چمکانا ہونا مِنَ الْأَمْرِ: بچ نکلتا۔ رہائی

پانا۔

المَلْسُ: ہموار چمک۔ مَلُوسٌ و اَمْلَاسٌ:

و ج اَمَالِيسٌ. مَلَسَ الظلام: سخت تاریکی

اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت

ہے۔

المَلْسِيُّ: بہت تیز رفتار اونٹنی۔ اور کہا جاتا

ہے بِأَيُّعِ الْمَلْسِيِّ اس نے اس سے بلا شرط

بچنے کی۔

الأملس: نرم چمکانا۔ مؤنث مَلْسَاءُ:

المَلْسَاءُ: آسانی سے حلق سے اترنے والی

شراب۔ سَنَةٌ مَلْسَاءٌ خشک سال۔ ج

أَمَالِسٌ و اَمَالِيسٌ. الْأَلْفُ الْمَلْسَاءُ:

الفین۔ جیسے کتاب کالف۔

المَلِيسُ: نرم اور چمکانا۔

المَلِيسَاءُ: دوپہر۔ مغرب اور عشاء کا

درمیان۔

الإملييس و الإملييسية: خشک جنگل۔ ج

أَمَالِيسٌ اور اَمَالِيسٌ شاذ ہے۔

المَلَاةُ و المملسة: بنگا۔ سروان۔ پیلا۔

مَلَسَ (ن) مَلَسًا الشَّيْءُ: ہاتھ سے ٹول کر

کسی چیز کو ڈھونڈنا۔

المَالُوشُ عِنْدَ الْعَامَةِ: ایک کھیرا ہے جو

نباتات کی جڑوں کو کھاجاتا ہے۔ مَوَالِيشُ:

مَلِصٌ (س) مَلَصًا الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ: چمکنے

ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے پھسل جانا۔ کہا جاتا

ہے ”مَلِصَتِ السَّمَكَةُ مِنْ يَدِي“ پھسلی

میرے ہاتھ سے نکل گئی الرَّجُلُ: بھاگ

نکلنا۔

مَلَصَ (ن) مَلَصًا بِلِسَانِهِ: یاخاندہ کرنا۔

أَمْلَصَتِ الْحَائِلُ: حاملہ کا بچہ گرا دینا۔

صفت مَمْلِصٌ ج مَمَالِصٌ. اَمْلَصَ

الشَّيْءُ: پھسلانا۔

تَمَلَّصَ و اِنْمَلَصَ و اِمْلَصَ مِنْهُ: بچ نکلتا۔

رہائی پانا الشَّيْءُ: مِنْ يَدِي: پھسل جانا۔

المَلِصُ: ننگا۔

المَلِصُ: س۔ پھسلنا۔

المَلِصُ: مِنَ الْجِبَالِ و نَحْوِهَا پہاڑ

وغیرہ کی وہ چمکنی جگہ جہاں سے ہاتھ پھسل

جائے اور پکڑنا دشوار ہو۔ سَمَكَةٌ تَلَصَتْ:

پھسلنے والی پھسلی۔

المَلِصُ: بمعنی مَلِصٌ. اسقاط شدہ بچہ۔

الأمليص: نرم و تر۔ رَجُلٌ اَمْلَصُ الرَّاسِ:

سر پر بغیر بالوں کا مرد۔

المَمْلَاصُ: وہ عورت جس کو اسقاط کی

عادت ہو گئی ہو۔

المَمْلِصُ: ساقط شدہ بچہ۔

مَلَطَ (ن) مَلَطًا الْحَائِلُ: مٹی سے لپینا

الشَّعْرُ: بال موٹنا۔

مَلَطَتْ و اَمْلَطَتِ الْحَائِلُ جَبِينَهَا:

حاملہ کا ناتمام بچہ گرا دینا۔ اَمْلَطَ رَيْشُ

السَّهْمِ: تیر کے پر کا گرجانا الرَّجُلُ: محتاج

ہونا۔

مَلَطَ (ن) و مَلَطَ (ك) مَلُوطًا الْغَلَامُ:

غیر معروف النسب ہونا۔

مَلِطَ (س) مَلَطًا و مَلِطَةً: بے بال کے

جسم والا ہونا۔

مَلَطَ الْحَائِلُ: دیوار کو مٹی سے لپینا

الشَّاعِرُ: ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور

دوسرے کا شعر کو پورا کرنا۔

مَالَطَهُ مَمَالِطَةً: باہم ملنا۔ ایک شاعر کا ایک

مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا شعر کو پورا کرنا۔

تَمَلَّطَ الشَّيْءُ: چمک دار ہونا السَّهْمُ: تیر کا

بے پر ہونا۔

إِمْتَلَطَ الشَّيْءُ: چھین لینا۔ اچک لینا۔

المَلِطُ: شریروید کا جس پر بھروسہ نہ کیا جا

سکے غیر معروف النسب ج اَمْلَاطٌ و مَلُوطٌ:

المِلَاطُ: لپینے کی مٹی۔ ج مَلِطٌ:

الأمليط ج مَلِطٌ و المَلِيطُ: بے بال کے

جسم والا۔ سَهْمٌ اَمْلَطٌ و مَلِيطٌ: بے پر کا

تیر۔ المَلِيطُ بے بال کا ساقط شدہ بچہ۔

المَمْلَاطُ مِنَ النَّوْقِ: بچہ گرانے کی عادی

اونٹنی۔

مَلَعٌ (ف) مَلَعًا و اِمْتَلَعَ الشَّاةُ: بکری کی

کھال اتارنا۔ مَلَعُ الْفَصِيلِ اُمَةٌ: دودھ پینا۔

اِمْتَلَعَ الشَّيْءُ: چھین لینا۔ اچک لینا۔

مَلَعَتْ و اَمْلَعَتْ و اِمْتَلَعَتْ و اِنْمَلَعَتْ

النَّاقَةُ: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔

المَلْعُ: س۔ اور کہا جاتا ہے ”هَمَّ عَلَيْهِ مَلْعٌ

وَاجِدٌ“ وہ سب اس کی دشمنی پر جمع ہیں۔

المَلِيعُ ج مَلْعٌ و المَلِيعُ: تیز رفتار گھوڑا یا

اونٹنی المَلِيعُ: لب۔ ادھر ادھر حرکت کرنے

والا۔

جَمَلٌ مَلُوعٌ: تیز رفتار اونٹ۔ مؤنث

مَلُوعٌ عَقَابٌ مَلُوعٌ: تیزی سے چھپنے والا

عقاب۔

المَلَاعُ و المَلِيعُ: بے گھاس کا بیابان۔

مَالَعَهُ مَمَالَعَةً بِالْكَلامِ: ناشائستہ گفتگو سے

مزاح کرنا۔

تَمَلَّعَ فِي كَلَامِهِ: بوقوف بننا۔

تَمَالَعُ بِهِ: تسمخ کرنا۔

المَلِغُ ج اَمْلَاغٌ و المَالِغُ ج -مَلَاغٌ

و الامليغ مؤنث مَلَعَةٌ ج مَلِغٌ: قش کلاہی

کرنے والا۔ بدکار۔ بیوقوف۔
المُلَوَّعَةُ: بیوقوفی۔ بخش کلامی۔

مَلَقَهُ (س) مَلَقًا و مَلِقَ لَهُ و مَالَقَهُ.
چاپلوسی کرنا۔ خوشامد کرنا۔ مَلِقَ الخَاتِمَ مِنْ
الإصْبَحِ ذُھلی ہوتا۔

مَلَقَ (ن) مَلَقًا الشَّيْءُ: مٹانا۔ نرم کرنا
الثَّوْبَ: پکڑا دھونا۔ بِالْعَصَاءِ: لاشھی سے
مارنا۔ مَلَقَ الْوَلَدُ أُمَّهُ: دودھ پینا الرَّجُلُ:
تیز چلنا الْبَحْرِيَّةُ: جماع کرنا۔

مَلَقَ الْأَرْضَ او الْحَائِطَ: زمین یا دیوار کو
کرنی سے لگاری کرنا۔ بِالْعَصَاءِ: لاشھی سے
مارنا۔

مَلَقَ: محتاج ہو جانا الثَّوْبَ: پکڑا دھونا۔

الدَّهْرُ مَالَهُ: ضائع کر دینا۔

تَمَلَّقَ تَمَلَّقًا و تَمَلَّقًا الرَّجُلُ و
لِلرَّجُلِ: چاپلوسی کرنا۔ تَمَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ
العَلَنَ بفيئها: چبانا۔

انْمَلَقَ و اِمْلَقَ: نرم و چمکدار ہونا مِنْهُ: بچ
لگنا۔ انْمَلَقَ الخِصَابُ: خضاب کا چھوٹ
جانا۔

اِمْتَلَقَ الشَّيْءُ: نکالنا۔

اِسْتَمَلَقَ الْوَلَدُ أُمَّهُ: دودھ پینا۔

المَلَقُ: س۔ دوستی۔ بڑی مہربانی۔ دعا۔ ہموار
زمین۔ تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "الھَذَا
الْفَرَسُ مَلَقٌ" اس گھوڑے میں تیز رفتاری
ہے۔

المَلِقُ و المَلَقُ: بہت چاپلوسی کرنے والا۔
المَلِقُ: کمزور۔ فَرَسٌ مَلِقٌ: گھوڑا جس کی
رفتار پر اعتماد نہ کیا جائے۔ مَوْتٌ مَلَقَةٌ:

المَلِيقُ: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ او
فَرَسٌ مَلِيقٌ" تیز رفتار مرد یا گھوڑا۔
المَلَقَةُ: چمکانہ پتھر۔

المَالِقُ و المَمْلِقُ و المِمْلَقَةُ: بنگا۔
المَالِقُ: کرنی۔ (دُخِلَ)

المِمْلَقُ: بہت محتاج۔ بہت چاپلوسی و
خوشامد کرنے والا۔

مَلِكٌ (ض) مَلِكًا و مَلِكًا و مَلِكًا و

مَلِكَةٌ و مَمْلِكَةٌ و مَمْلِكَةٌ و مَمْلِكَةٌ
الشَّيْءُ: مالک ہونا عَلَى الْقَوْمِ: غالب ہونا
عَلَى فُلَانٍ أَمْرَهُ: کسی کے کام پر حاوی ہونا
نَفْسَهُ: قابو رکھنا الْمَرْأَةُ: نکاح کرنا (مَلِكًا)
العَجِينَ: اچھی طرح سے گوندھنا۔

مَلِكٌ الشَّيْءُ: مالک بنانا۔ مَلِكٌ الْقَوْمِ فُلَانًا
عَلَيْهِمْ: بادشاہ بنانا۔ أَمْرًا: نکاح کرنا۔
مَلِكٌ فُلَانًا أَمْرًا: کسی کو اس کے حال پر چھوڑ
دینا۔ مَلِكَتِ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا: طلاق کا اختیار
دے دینا۔

مَلِكٌ العَجِينَ: اچھی طرح گوندھنا۔

اَمْلِكُهُ الشَّيْءُ: مالک بنانا۔ اَمْلِكُ الْقَوْمِ
فُلَانًا عَلَيْهِمْ: بادشاہ بنانا فُلَانًا أَمْرًا: کسی کو
اس کے حال پر چھوڑ دینا۔ أَمْرًا: نکاح
کرنا۔

تَمَلَّكَ و اِمْتَلَكَ الشَّيْءُ: مالک ہونا۔

تَمَلَّكَ عَلَى الْقَوْمِ: بادشاہ بنانا۔

تَمَالَكَ عَنْ كَذَا: اپنے نفس پر قابو رکھنا۔
کہا جاتا ہے "مَا تَمَالَكَ أَنْ فَعَلَ او عَنْ أَنْ
فَعَلَ ذَلِكَ" یعنی فلاں فعل کے کرنے سے وہ
اپنے آپ کو نہیں روک سکا۔

المَلِكُ: بادشاہ۔ ج مَلُوكٌ و اَمْلَاكٌ.

المَمْلُكُ: ملکیت۔ ج اَمْلَاكٌ و مَلُوكٌ.

قدرت کا بلی مٹر کا دانہ۔ تھوڑا پانی۔
مَلِكٌ الذَّائِبَةُ: چارپائے کی ٹانگیں اور
گردیں۔ واحد مَلَاكٌ: کہا جاتا ہے "مَالَهُ
مَلِكٌ و مَالَهُ مَلِكٌ" یعنی اس کے پاس کوئی
چیز نہیں جس کا وہ مالک ہو کہا جاتا ہے "هَذَا
مَلِكٌ يَمِينِي" یعنی میں اس کا مالک ہوں اور وہ

میرے قبضہ اور تصرف میں ہے "وَلَيْسَ لَهُ
مَلِكٌ" اس کے پاس پانی نہیں "وَأَعْطَانِي
مِنْ مَلِكِهِ" اس نے مجھ کو اس میں سے دیا جس
پر وہ قادر ہے۔ وَطَانَ مَلِكِ اس کی بگلامی طویل
ہے "و مَلِكٌ الطَّرِيقِ" راستہ کا وسط یا کنارہ۔

سارے معانی میں سیم کو تینوں حرکتیں ہیں۔
المَلِكُ: فرشتہ۔ انسان جس کا مالک ہو۔ کہا
جاتا ہے "مَا لَهُ مَلِكٌ" یعنی اس کے پاس کوئی

چیز نہیں جس کا وہ مالک ہو۔

المَلَاكُ: مَلَاكٌ کا مخفف۔ بمعنی فرشتہ۔ ج
مَلَايِكَةٌ و مَلَايِكٌ. المَلَاكُ: اقتدار۔ و
مَلَاكُ الْأَمْرِ: سہارا۔ سرمایہ۔ بقاء۔ کہا جاتا
ہے القَلْبُ مَلَاكُ العَجَسِدِ: دل جسم کے
لیے سرمایہء بقاء ہے۔

المَلَاكُ: مٹی۔ مَلَاكُ الْأَمْرِ: سہارا۔
سرمایہء بقاء۔

المَلِكُ: اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ۔ صاحب قوت و
اقتدار۔ ج مَلُوكٌ و اَمْلَاكٌ.

المَلِكِيُّ: مَلِكٌ کی طرف نسبت۔ مَوْنٌ
مَلِكِيَّةٌ.

المَمْلِكَةُ المَمْلِكَةُ: ملکیت۔

المَمْلِكَةُ: ملکیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَمْلِكَةٌ
يَمِينِي" یعنی میں اس کا مالک ہوں اور اس پر
قادر ہوں۔ المَمْلِكَةُ: وہ صفت جو نفس کے
اندر راجح ہو جائے اور جب تک راجح نہ ہو اسے
حال کہتے ہیں۔

المَالِكُ: فاء بادشاہ۔ ج مَلِكٌ و مَلَاكٌ.
ابو مالک: بھوک یا بڑھاپا۔ مَالِكُ الحَزِينِ:
بگلا۔

المَلَاكَةُ و المَلَاكَةُ و المَلُوكَةُ:
ملکیت۔

المَلَكُوتُ: بادشاہی۔ عزت و قدرت۔
المَلَكُوتُ السَّمَاوِيّ: آسمان میں
قدسیوں کی جگہ۔

المَمْلِكَةُ و المَمْلِكَةُ: شاہی شان و
شوکت۔ بادشاہی۔ ج مَمَالِكٌ.

المَمْلِكُ: بادشاہ۔ ج مَلَكَاءٌ. مَمْلِكٌ
النَّحْلِ: شہد کی مکھیوں کی ملکہ۔ ج مَلُوكٌ.
المَمْلِكَةُ: محیفہ۔

الْمَمْلُوكُ: اسم جمع ہے بمعنی مَلُوكٌ. ایک
ریگستانی جانور ہے جو گرگٹ کے مشابہ ہوتا
ہے۔

المَمْلُوكُ: س۔ غلام۔ ج مَمَالِيكٌ. اور اسی
پہے ہے مَمَالِيكٌ مضمر جو چر کسی غلاموں کی
ایک جماعت تھی جو مصر پر غالب آگئی تھی اور

مالک بن یحییٰ تھی۔

مَلْمَلٌ تیز دوڑنا۔ مَلْمَلَةُ المَرَضُ : مضطرب کرنا۔

قَمَلَمَلٌ غم یا مرض کی وجہ سے بستر پر کروٹیں بدلنا المَجَالِسُ: کبھی ایک پہلو پر ٹیک لگانا کبھی دوسرے پر۔

المَلْمَلَةُ سہا بھی کی سونڈ۔

المَلْمُولُ سرمہ کی سلائی۔ ناک کا سوراخ مَلْمُولُ البَعِيرِ وَالنَّعْلِبُ: اونٹ اور لومڑی کا ذکر۔

المَلْمَلِيُّ تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے نَاقَةٌ مَلْمَلِيٌّ تیز رفتار اونٹنی۔

المَلْمَلِيُّ تیز رفتار اونٹنی۔

المَلْمَلِيُّ تیز رفتار اونٹنی۔

مَلَا يَمْلُو مَلُوا البَعِيرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔

دوڑنا۔

مَلَأَهُ اللّهُ عُمْرَهُ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا۔ مَلَأَهُ اللّهُ حَيَاتَهُ: اللہ تعالیٰ اس کو دیر تک حیات سے نفع اٹھانے دے۔

مَلَى وَ تَمَلَى عُمْرَهُ: عمر طویل ہونا اور فائدہ اٹھانا۔ مَلَى وَ تَمَلَى حَيَاتَهُ: اس نے اپنے حیات سے دیر تک نفع اٹھایا۔

أَمَلَى اِمْلَاءُ: اللّهُ فَلَانًا عُمَرَهُ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا البَعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کو ڈھیلا کرنا اللّهُ الطَّالِمِ وَ لَكَ: مہلت دینا عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھوانا۔

لَهُ فِي غَيْبِهِ: گمراہی میں زمانہ دراز تک چھوڑنا۔

عَلَيْهِ الرِّمُّنُ: لہا ہونا۔

اِسْتَمَلَيْتُهُ الْكِتَابُ: اٹلا کرنے کی درخواست کرنا۔

المَلَا: جنگل۔ کشادہ زمین۔ گرم راکھ۔ زمانہ دراز۔ ج اَمْلَاءُ۔

المَلْوَانُ: رات دن۔ واحد ملا۔ المَلْوَاةُ وَالْمَلْوَةُ: پتلیٹ المیم۔ زمانہ دراز۔

المَلْيِيُّ: زندگی کی مدت۔

الإملاء: س۔ مہلت دینا۔ تاخیر کرنا۔ جو املا

کیا جائے۔ ج اَمَالٍ وَ اَمَالِيٌّ۔

المَلَاةُ: سگریزہ ناک۔ بیابان۔ ج مَلَا۔

المَلْيِيُّ: زمانہ طویل۔ کہا جاتا ہے "اِنْتَظَرْتُهُ مَلْيًا" زمانہ دراز تک میں نے اس کا انتظار کیا۔

"وَ مَرَّ مَلْيًا مِنَ اللَّيْلِ" رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔

اور بقول رات کا ایک حصہ گزر گیا جس کی کوئی حد نہیں ہیں۔

الأَمَالِيُّ: اٹلا کئے ہوئے اقوال وغیرہ اور یہ

أَمَلَى الْكِتَابُ کے مصدر الإملاء کی جمع ہے۔

المَلْيُونُ فِي الْعَدَدِ: دس لاکھ۔ ج

مَلَايِينُ۔

مِمَّ: مرکب ہے من و ما استفہامیہ سے۔

مِنْ: حرف جر میں سے ہے۔ معانی ذیل میں

مستعمل ہے۔

(۱) ابتداء غایت زمانی جیسے مَرَضٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔

(۲) ابتداء غایت مکانی جیسے سَارَ مِنْ بَيْرُوتَ۔

(۳) تخیض۔ جیسے مِنْهُمْ مِنْ أَحْسَنَ وَ

مِنْهُمْ مِنْ أَسَاءَ۔

(۴) تعلیل۔ جیسے مِمَّا خَطَبْنَا بِهِمْ

أَعْرَفُوا۔

(۵) بدل۔ جیسے اَنْزَلْنَا بِالْخَيْوَةِ الدُّنْيَا

مِنَ الْآخِرَةِ۔

(۶) مرادف یا جیسے يَنْظُرُونَ مِنْ عَرَفٍ

خَفِيِّ۔

(۷) معنی فصل کا فائدہ بھی دیتا ہے جیسے وَاللّٰهُ

يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔

(۸) زائدہ بھی ہوتا ہے اور زائدہ ہونے کیلئے

تین چیزیں شرط ہیں۔ ایک۔ کہ اس سے پہلے

نئی نبی یا استفہام ہو۔ دوسرے یہ کہ مجرور کمرہ

ہو۔ تیسرے یہ کہ مجرور فاعل یا مفعول بہ مبتدا

ہو جیسے "مَا جَاءَ نِي مِنْ رَجُلِي" وَ بَلِّ

صُرْبَتْ مِنْ أَحَدٍ" وَ "مَا فِي الدَّارِ مِنْ

أَحَدٍ" ان کے علاوہ اور بھی معانی ہیں جو فریضہ

سے مفہوم ہوتے ہیں۔

مِنْ: اسم شرط جازم ہے جیسے مَنْ يَعْمَلُ

خَيْرًا يُجْزِ بِه اسم استفہام۔ جیسے مَنْ آتَى

اسم موصول اکثر استعمال ذوی العقول کیلئے ہوتا

ہے۔ جیسے يَسْجُدُ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ: کمرہ موصوفہ جیسے

مَرَزَتْ بَمِنْ مُعْجَبٍ لَكَ۔

مَنْ (ن) مَنَا وَ مَنِيْنِي عَلَيْهِ بَكْدًا: بھلائی

کرنا۔

مَنْ (ن) مَنَا وَ مِيْنَةٌ وَ اَمْتَنَ وَ اَمْتِنَانًا۔

عَلَيْهِ بِمَا صَنَعَ: احسان جنانا۔ وَ اَمْتَنَ عَلَيْهِ

بَكْدًا: بھلائی کرنا۔ وَ اَمْتَنَ فَلَانًا: فلاں کے

انتہائی چیز پر پہنچانا۔

مَنْ (ن) مَنَا وَ اَمْنٌ وَ تَمَنَّ الرُّجُلُ:

کمزور کرنا۔ قوت زائل کرنا۔ مَنْ الْحَبْلِ:

کاٹنا۔ مَنْ الشَّيْءِ: کم ہونا النَاقَةُ: سفر کی وجہ

سے لاغر کرنا۔ تَمَنَّ فَلَانًا فَلَانًا وَ تَمَنَّ

عَلَيْهِ: احسان جتا کر تکلیف پہنچانا۔

مَنْ تَمَنَّنَا النَاقَةَ وَ بَهَا: اونٹنی کو سفر کی

وجہ سے لاغر کرنا۔

مَائَةٌ مُمَائَةٌ: کسی کی حاجت روائی کے لیے آنا

جانا۔

اِسْتَمَنَّهُ: طالب احسان ہونا۔

الْمَنْ: س۔ احسان۔ انعام۔ ایک قسم کی شہنم

ہے جو پتھروں اور درختوں پر شہد کے مانند جم

کر خشک ہو جاتی ہے۔ وَ مَنْ نَبِيْ اِسْرَائِيْلَ: وہ

چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا

تھا تاکہ اس سے وہ اپنی غذا حاصل کریں۔

الْمَنْ دَرَطْلُ كَايْمَانِ يَمِيْرَانِ: ج اَمْنَانُ۔

المُنَّةُ: قوت۔ ضعف۔ ج مَنْنٌ۔

المِنَّةُ: س۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عَلَيَّ

مِنَّةٌ اَوْ مِيْنٌ" اس کا میرے اوپر احسان یا

احسانات ہیں۔ المِنَّةُ: اسم ہے مَنْ عَلَيْهِ س

اور اسی سے ہے المِنَّةُ تَهْدِيْمُ الصَّبِيْعَةِ

احسان کا جتانہ احسان کو ضائع کر دیتا ہے۔ ج

مِيْنٌ۔

المِنَّةُ: کڑی۔ مادہ سبکی۔

المُنُون موت (مؤنٹ ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے) کہا جاتا ہے ”ذَهَبَتْ بِهِمُ الْمُنُونُ“ موت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔
زمانہ۔ رَبِيبُ الْمُنُونِ جو ادیث زمانہ۔
المُنُونُ وَالْمُنُونَةُ بہت احسان جتانے والا۔ تاء مبالغہ کے لیے ہے۔ مؤنث مُنُونُ الْمُنُونَةُ کبڑی۔

المَنَّان بہت احسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ بہت احسان جتانے والا۔ مؤنث مَنَّانَةٌ۔

المُنِينُ کمزور۔ قوی۔ غبار یا ہلکا پر آگندہ غبار۔ جُ مَنَّ وَ أَمِنَهُ۔
المَمْنُونُ منع۔ کٹا ہوا۔ کمزور۔ قوی۔ ہر چیز کا بہترین حصہ جو کسی کے پاس ہو۔ کہا جاتا ہے ”بَلَّغْتَ مَمْنُونَهُ“

مَنَّافٌ (مَنَّافٌ) مَنَّا الْجِلْدَ کھال کو دباغت دینا فَلَانَا: فعل کی موافقت کرنا۔
المَمْنِيَّةُ کھال جس کو پہلی بار دباغت دی جائے۔ دباغت دینے کی جگہ۔
المَمْنَنَةُ کالی زمین۔

المَنْجِنِيْقُ وَالْمَنْجَلِيْقُ جگہ میں قلعہ کی دیوار پر چڑھنے والے پتھر کی جگہ۔ جُ مَجَانِقٌ وَ مَجَانِيْقٌ وَ مَجْنِيْقَاتٌ۔

مَنَّحٌ (ف) مَنَّحٌ الشَّيْءُ دینا۔ عطا کرنا هُ النَّاقَةُ وَ مَجَلٌّ ذَاتُ لَبَنِ اُونٹنی یا دودھ والے جانور کو فائدہ اٹھانے کیلئے دینا۔ ص فت مفعول المِنْحَةُ وَ المِنْحِيحَةُ جُ مَنَحٌ وَ مَنَاحٌ۔

مَنَّاحٌ مَنَّاحٌ مَنَّاحٌ وَ مَنَّاحَةٌ بگاتار عطیہ دینا۔ مَنَّاحَتِ الْعَيْنِ بگاتار آنسو بہانا النَّاقَةُ اُونٹنی کا جاڑے کے زمانہ میں جبکہ اور اُونٹنیوں کا دودھ دینا ختم ہو گیا ہو دودھ دینا۔

أَمْنَحَتِ النَّاقَةُ اُونٹنی کا سچے بننے کے قریب ہونا۔ صفت مُنْمِحٌ۔
أَمْنَحَ الرَّجُلُ عَطِيَّةً لِيَدَا اور کہا جاتا ہے ”أَمْنَحَ مَا يَدِي“ یعنی وہ مال کا رزق دیا گیا۔
أَمْنَحَ الْمَنِيحَ عَارِيَةً يَرْطَلِيَانَا۔

تَمْنَحَ الْمَالَ دوسرے کو کھلانا۔
أَسْتَمْنَحُهُ عَطِيَّةً طَلِبٌ كَرْتَاب۔
المِنْحَةُ عَطِيَّة۔ جُ مَنَحٌ الْمَنَاحُ بہت دینے والا۔
المُنُوْحُ جاڑے کے زمانہ میں اُونٹنیوں کے دودھ ختم ہو جانے کے بعد دودھ دینے والی اُونٹنی۔

المَمِيْحُ جوئے کے محروم تیروں میں سے ایک تیر۔
المَمِيْحُ جاڑے کے زمانہ میں دودھ دینے والی اُونٹنی۔ مَطْرٌ مَمَاحٌ بگاتار بارش۔
رَيْحٌ مَمَاحٌ ہوا جس کی بارش نہ رُکے۔

الْمُنْدَرِيْنُ ایک درخت جس کا پھل مالٹے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو لیون یوسف آفندی بولتے ہیں۔ لذیذ پھل والا ہوتا ہے مام مالٹے کے باغوں میں پایا جاتا ہے۔
مُنْدُوْمِيْدٌ کبھی ان کی میم سکور ہوتی ہے ان کی تین حالتیں ہیں۔

پہلی یہ کہ دونوں حرف جر ہیں۔ اگر زمانہ ماضی ہو تو صین کے معنی میں جیسے ”مَا رَأَيْتُهُ مَذِيَوْمٌ اِلَّا حَيْدٌ بَلُوْرٌ“ اگر زمانہ حال ہو تو صین کے معنی میں جیسے ”رَأَيْتُهُ مَذِيَوْمًا شَهْرًا“ یعنی اس موجودہ مہینہ میں۔ اور اگر ماضی معدود ہوں تو صین اور الھی کے معنی میں جیسے ”مَا رَأَيْتُهُ مَذِيَوْمًا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ“ یعنی میں نے اس کو تین دن سے یا تین دن تک نہیں دیکھا۔

دوسری یہ کہ اسم ان دونوں کے بعد مرفوع ہو جیسے ”مَا رَأَيْتُهُ مَذِيَوْمًا“ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اس حالت میں طرف ہیں جن کی اضافت جملہ کی طرف ہے جس میں فعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور فاعل کو باقی رکھا گیا ہے اور اصل یوں ہے مَذِيَوْمًا يَوْمًا۔

اور تیسری حالت یہ ہے کہ ان کے بعد جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہو جیسے ”مَا زَلْتُ اَبِيْعِي الْمَالَ مَذِيَوْمًا يَافِعٌ“ ہمیں جب سے جوان ہوا ہوں مال ہمیشہ تلاش کرتا رہا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں اس وقت طرف ہیں جن کی اضافت جملہ کی

طرف ہے اور مَذِيَوْمًا مخفف ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اجتماع سالین کے وقت مَذِيَوْمًا ذال کو ضمہ دیتے ہیں جیسے مَذِيَوْمٌ اِذَا رَاحِلٌ فِي مِثْلِهِ هُوَ تَاوَكَّرَ دِيْتِي۔

الْمُنْفِيْزُ يَوْمٌ مَمْنَعٌ رَمَزٌ (علامت) اُونٹنی نمبر کیتی نمبر 54.93 - 25 - M-N

مَنَّعٌ (ف) مَنَّعًا وَ مَنَّعَهُ الشَّيْءُ وَ مِنْهُ وَ عَنْهُ: محروم کرنا۔ رَوْنًا هُ الْقَاضِي عَنِ الْمِيْزَانِ رَوْنًا۔ هُ عَنِ الدَّعْوَى: باز رکھنا۔ مَنَّعٌ جَارَهُ: حمایت کرنا اور تکلیف سے بچانا۔

مَنَّعٌ (ك) مَنَّعَةٌ وَ مَنَّاعًا قَوِيٌّ هُوَانَا۔ الْحِصْنُ قَلْعَةٌ تَكْفِي دُشُوْرًا هُوَانَا الشَّيْءُ بِلَدٍ مَرْتَبَةٌ دُشُوْرًا هُوَانَا۔ صَفْتٌ مَنَّعٌ مَنَّعَةٌ: حمایت کرنا هُ الشَّيْءُ مَنَّعًا اَوْ رَاوَانَا مَنَّعٌ كَرْتَاب۔

تَمَنَّعٌ اَوْ اِمْتَنَعَ عَنِ الشَّيْءِ: رُكْنًا اِمْتَنَعَ الشَّيْءُ اَوْ اِمْتَنَعَ اَلْحَقُوْلُ هُوَانَا۔ تَمَنَّعٌ وَ اِمْتَنَعَ بِقَوْمِهِ: حفاظت میں آنا۔ قُوْتٌ يَلْزَمُ اِيْكٌ تَمَنَّعًا: باز رہنا عَنِ اَنْفُسِهِمَا: ایک دوسرے کی حمایت کرنا۔

المَنَّعُ بِن: کبکڑی جُ مَنَّوعٌ رَجُلٌ مَنَّعٌ: اپنے نفس کو باز رکھنے والا مرد۔ المَنَّعَةُ عُرْتٌ: قوت۔ جُ مَنَّعَاتٌ اور کہا جاتا ہے ”لَهُمْ مَنَّعَاتٌ“ ان کے ایسے مضبوط قلعے ہیں جن پر دشمن قادر نہیں ہو سکتا۔

المَنَّعَةُ وَ المَنَّعَةُ: قوت۔ شوکت۔ المَنَّاعَةُ: فِي الطَّبِّ اِسْمٌ لِقُوْتِ جِسْمٍ كَوْ حَاصِلٍ هُوَ جَائِعٌ وَ اَسْتَدْرَجَ اَمْرًا مِنْ مَخْطُوْرًا لَكِي۔

المَمْنَعُجُ مَمْنَعُوْنٌ وَ مَنَّعَةٌ: کبکڑی۔ مَنَّعٌ مَمْنَعٌ وَ مَنَّعٌ وَ مَنَّعٌ: مَمْنَعٌ اِسْمٌ لِقُوْتِ جِسْمٍ كَوْ حَاصِلٍ هُوَ جَائِعٌ وَ اَسْتَدْرَجَ اَمْرًا مِنْ مَخْطُوْرًا لَكِي۔

جاتا ہے "هُوَ مَنِيٌّ بِمَنِيِّ مَيْلٍ" وہ مجھ سے ایک میل کے اندازہ پر ہے۔

الْمَنِيُّ: مذکر کا مادہ تولید۔
الْمَنِيَّةُ وَالْمَنِيَّةُ بِمَنِيٍّ وَمَنِيٍّ وَالْمَنِيَّةُ
بِحِ اَمَانٍ وَ اَمَانِيٍّ : آرزو۔ مطلوب۔

الْمَنِيَّةُ: جموٹ۔
الْمَنِيَّاتُ: تمنائیں۔

الْمَنِيْمُوكُ: درمیانہ قد کا پودا جو برازیل کے جنگلات میں ہوتا ہے اس کے تنے سے آٹا نکالا جاتا ہے۔

مَنَةٌ: اسم فعل مبنی علی السكون۔ یعنی رک جا اور کبھی کہا جاتا ہے مَنِيٌّ

مَنَةٌ (ن) مَهْمًا الْاَبْلُ: اونٹ کے ساتھ نرمی برتا۔

مَهْمَةٌ (س) مَهْمَةً الشَّيْءِ: نرم ہونا۔
المَهْمَةُ: نرمی | تازگی۔ خوبصورتی۔

خوبصورت (والمَهْمَةُ) سیر و سفر کا ساتھی۔
اسید۔ المَهْمَةُ: رفق۔ نرمی۔

المَهْمَتَرُ وَالْمَهْمَتَارُ: امیر۔ والی۔ (دخیل)
مَهْمَجٌ (ف) مَهْمَجًا: بیماری کے بعد چہرے پر

رواق آنا الْوَالِدُ اُمَةٌ: دودھ پینا الجارية۔
جناح کرنا۔

أَمْهَجَ الرَّجُلُ: خون کھینچ لیا جانا۔
المَاهِجُ: فاسخ خالص دودھ۔ پتلا دودھ یا

چربی۔
المَهْجَةُ: خون یا دل کا خون۔ روح۔ و

مُهْجَةٌ كُلُّ شَيْءٍ: ہر چیز کا بہتر اور خالص۔
مُهْجٌ وَمُهْجَاتٌ:

الْاَمْهَجُ وَالْاَمْهُوجُ وَالْاَمْهَجَاجُ:
خالص دودھ۔

كَبِهَاتٌ: کہا جاتا ہے رَجُلٌ مَمْهُوجٌ الْبَطْنُ: ڈھیلے
پٹ کا مرد۔

مَهْدَةٌ (ف) مَهْدَةً الْفِرَاشِ: بستر بچھانا۔
لِنَفْسِهِ: کماٹی کرنا۔ کام کرنا۔

مَهْدَةُ الْفِرَاشِ: بستر بچھانا الْاَمْرُ: درست و
ہموار کرنا لَه الْعُدْرُ: عذر خواہی کرنا لِفُلَانٍ
عُدْرَةٌ: قبول کرنا لِنَفْسِهِ خَيْرًا: اپنے لیے

الْمَنْبِيعُ: غالب و قوی کہ جس پر کوئی قادر نہ
ہو سکے۔ مَوْثٌ مَنِيْعَةٌ: حِصْنٌ مَنِيْعٌ: بلند و

مضبوط قلعہ جس پر پہنچنا دشوار ہو۔
مَنَا يَمْنُو مَنُوا الرَّجُلُ: آزمائش کرنا۔

صفت مفعولی مَمْنُوٌّ بَكْدًا:
الْمَنَا: پیمانہ یا وزن مساوی دور طل۔ شی

مَتَوَانٌ وَمَتَيَانٌ بِحِ اَمْنَاءٍ وَ اَمْنٍ وَمَنِيٌّ
اور اسی معنی میں الْمَنَا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے

"ذَارِي مَنَا ذَارِهِ" میرا گھراس کے گھر کے
مقابل ہے۔

مَنَاةٌ: مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان
قبیلہ ہذیل اور خزاعہ کے ایک بت کا نام۔

الْمُنُوَّةُ: آرزو۔
مَنِيٌّ بِمَنِيٍّ مَنِيًّا اللَّهُ الْخَيْرُ لِفُلَانٍ: مقدر

کرنا۔ مَنَاةٌ: آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے مَنَاةُ
اللَّهِ بَكْدًا یعنی اللہ اس کو فلاں چیز میں مبتلا

کرے۔
مُنِيٌّ لِكَذَا: توفیق دیا جاتا بَكْدًا: آزمائش کیا

جانا۔
مَنِيٌّ تَمْنِيَّةُ الرَّجُلِ الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ:

آرزو دلانا۔
مَانِيٌّ مَمَانَاةُ الرَّجُلِ: مدارات کرنا۔ مہلت

دینا اور انتظار کرنا۔ بدلہ دینا الرَّفِيْقُ: باری
باری سوار ہونا۔

أَمْنِيٌّ اِمْنَاءُ الدَّمَاءِ: خون بہانا۔ گرانا
الْحَاجُّ: حاجیوں کا مٹی میں آنا یا نازل ہونا۔

أَمْنِيٌّ: مٹی گرانہ۔
اِسْتَمْنَى بِالْيَدِ: حلق لگانا۔ بغیر جماع کے

مٹی نکالنا۔
اِمْتَنَى اِمْتِنَاءَ الشَّيْءِ: جموٹ گھڑنا الْحَاجُّ:

حاجیوں کا مٹی میں آنا یا نازل ہونا۔
تَمْنَى الشَّيْءُ: ارادہ کرنا الْكِتَابُ: پڑھنا

الرَّجُلُ: جموٹ بولنا الْحَدِيثُ: جموٹی بات
گھڑنا۔

الْمَنِيَّةُ بِحِ مَنَابَا وَالْمَنِيَّ: موت۔ الْمَنِيَّ:
ارادہ۔ تقدیر الہی۔ تم کہتے ہو "انَارَاضِ بِمَنِيٍّ

اللَّهِ" یعنی میں تقدیر الہی پر راضی ہوں۔ اور کہا

بِحَلَالٍ مَبِيهَا كَرْنَا۔

تَمَهَّدَ الْفِرَاشُ: بستر بچھانا لَه الْاَمْرُ:

آسان ہونا الرَّجُلُ: قادر ہونا۔

اِمْتَهَدَ الشَّيْءُ: بچھانا الرَّجُلُ: کماٹی کرنا کام

کرنا۔

اِسْتَمَهَّدَ فِرَاشًا: بستر بچھانا۔

المَهْدُ: گہوارہ۔ پست زمین بِحِ مَهْمُودٌ:

المَهْدُ بِحِ مَهْمُودَةٌ وَ اَمْتَهَادٌ وَالْمَهْمُودَةُ بِحِ

مَهْدٍ: نرم و پست ہموار زمین۔

المَهْمَادُ: بچھونا۔ پست زمین۔ بِحِ مَهْمُدٌ وَ

مَهْمُدٌ وَ اَمْتَهْدَةٌ:

المَهْمُدُ: خالص مسک۔

المَمْمَهْدُ: مٹا مٹا مَمْمَهْدٌ: پانی نہ گرم نہ

سرد۔

مَهْرٌ (ن) مَهْرًا وَ مَهْرًا وَ مَهْرًا وَ مَهْرًا وَ

مَهَارَةٌ الشَّيْءِ وَ فِيهِ وَ بِهِ: حاذق ہونا۔
صفت ماہر۔ کہا جاتا ہے "مَهْرٌ فِي الْعِلْمِ"

یعنی علم میں حاذق و ماہر ہوا۔ فِي صِنَاعَتِهِ:
تجربہ کار و ماہر ہونا۔

مَهْرٌ (ن) مَهْرًا وَ اَمْتَهْرًا الْمَرْأَةُ: مہر

دینا یا مہر مقرر کرنا۔ و اَمْتَهْرًا: مہر کے بدلے

میں کسی شخص سے نکاح کرنا۔ صفت مفعولی

مَمْتَهْرَةٌ: و اَمْتَهْرَتِ الْفَرَسُ: بچھیرے یا

بچھیری والی ہونا۔

مَهْرٌ: بچھیرا لگانا یا حاصل کرنا۔

مَاهِرَةٌ مَمَاهِرَةٌ: ماہر ہونے میں مقابلہ

کرنا۔

تَمَهَّرَ: ماہر ہونا حَاقِقٌ ہونا۔ تیرنا۔

الْبَصْمُ: سر۔ نکاح کا عوض مالی بِحِ مَهْمُورٌ وَ

مَهْمُورَةٌ اور کہا جاتا ہے "هَذَا مَهْرٌ ذَلِكَ"

اس کے بدلے میں ہے۔

المَهْرُ: بچھیرا۔ گھوڑی گدھی کا پہلا بچہ۔ بِحِ

مَهَارٌ وَ اَمْتَهَارٌ وَ مَهَارَةٌ مَوْثٌ بِحِ مَهْمُورَةٌ بِحِ

مَهْرٌ وَ مَهْرَاتٌ وَ مَهْرَاتٌ: المَهْرُ:
درمیان سینہ کی ایک ہڈی۔ اندر این کا پھل۔
کیوڑ کا بچہ۔ بِحِ مَهْمُورَةٌ:
المَهْمُورَةُ مِنَ النِّسَاءِ: بہت مہر والی عورت

مہانرو۔

الماہر۔ حاذق۔ اچھا تیرنے والا۔ صہرہ۔
المہرۃ۔ سرخ گیہوں۔ الابل المہرۃ۔

مہرہ بن حیدان کی طرف منسوب اونٹ جن
کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تیز رفتاری میں
کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مہاری
و مہار و مہاری۔

المہر جان۔ (فارسی لفظ) فرس (اہل فارس)
کے نزدیک یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ مہر کا
معنی محبت اور جان کا معنی روح۔ یعنی روح سے
محبت۔

المہر جان۔ پارسیوں کی ایک عید۔
مہرہ (ف) مہڑا۔ بیدہ: دفع کرنا۔ بنانا۔
مہشہ (ف) مہشا۔ جلانا۔ کھرچنا۔
امتہش۔ جلانا۔

مہص الثوب: کپڑا پاک صاف کرنا۔ سفید
کرنا۔

تمہص فی الماء: پانی میں گھسا۔
امہاصت الأرض: بے نباتات ہونا۔
صفت مہصاء۔

مہق (س) مہقا۔ بہت سفید ہونا۔
مہقت (ف) مہقا الخیل: گھوڑے کا
دوڑنا۔ مہق الفصیل: اونٹ کے بچہ کو پانی
پلانا۔

تمہق الشراب: تھوڑی تھوڑی دیر کے
بعد پینا۔

المہق۔ س۔ پانی پر کی بنری۔
الأمہق۔ بغیر چمک کے بہت سفید جیسے چونا۔
مؤنت مہقاء مہق۔

المہقة۔ بغیر چمک کے بہت سفید رنگ۔
مہک (ف) مہکا و مہک الشیء خوب
پینا۔ باریک پینا۔ مہکۃ: نرم و چمکدار کرنا۔
مہک فی السیر: جلدی کرنا۔

تمہک فی العمل: اچھے طریقہ سے کرنا۔
ہاتھ سے منتقل کرنا۔
امہک الرجل: کم گوشت والا ہونا فی
العذو: کوشش کرنا۔

تماہک القوم باہم جھگڑنا۔

مہکۃ الشباب و مہکتۃ: جوانی کی رونق و
تروتازگی۔

المہوک۔ نرم کمان۔
الممہک و المنمہک: جوانی سے بھرپور۔
کہا جاتا ہے شاب ممہک
الممہک لمہای ذول۔

مہل (ف) مہلا و مہلۃ و تمہل فی
العمل: اطمینان سے بغیر جلد بازی کے کام
کرنا۔

مہل (س) مہلا الرجل: بھلائی میں پیش
قدمی کرنا۔ صفت مہاھل
امہلۃ و مہلۃ الذین: مہلت دینا۔ امہل
و مہل الرجل: نرمی برتنی الامر: مبالغہ
کرنا۔ عذر کرنا۔

استمہلۃ: مہلت مانگنا۔
المہل و المہل: مس۔ نرمی آہستگی۔ میت
کی پیپ۔ اور کہا جاتا ہے "مہلا و علی

مہل" یعنی ٹھہر جا جلدی نہ کر اور یہ مصدر ہے
جو فعل کے قائم مقام ہے اور واحد متشبیہ جمع
نذر مؤنث سب کے لیے ہے المہل: کسی
فحص کے گزرے ہوئے لوگ۔ سوار ہونے
سے پہلے معاملہ کی ہدایت۔ پیش قدمی۔ کہا جاتا
ہے فلان ذو مہل: فلاں بھلائی میں پیش
قدمی کرنے والا ہے۔

المہل۔ معدنی جو اہر۔ جیسے چاندی تانبا لوہا
وغیرہ پھسل ہوئی دھاتیں۔ پتلا قطران۔ زیتون کا
پتلا تیل۔ زہر۔ پیپ۔ یا خاص مردہ کی پیپ
آرٹی سے جو راکھ جھڑے۔

المہلۃ۔ س۔ راکھ میں بقیہ چنگاری۔
آہستگی و نرمی۔ کہا جاتا ہے "مشی علی
مہلیہ" وہ آہستہ آہستہ چلا۔ پتلا قطران۔ شمار۔
کہا جاتا ہے "أخذ المہلۃ فی امرک" یعنی
اپنے معاملہ میں سامان کو لو۔ "و أخذ علی
فلان المہلۃ" یعنی وہ اس سے عمریالاب میں
بڑھ گیا۔

المہلۃ و المہلۃ و المہلۃ و المہلۃ

پیپ یا خاص مردہ کی پیپ۔

الممہل۔ فامین الرجال: لہجہ۔

مہما اسم شرط جازم ہے۔ غیر عاقل کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے اور ظرف زمان ہے جیسے
مہما یزنی زید اکرمۃ: جب زید مجھ سے
لمے گا میں اس کا اکرام کروں گا اور کبھی غیر
ظرف ہوتا ہے جیسے مہما تفعل أفعل: جو تو
کرے گا میں کروں گا۔

مہمہ عن السفر: روکنا۔ مہمہ فلانا:
مردم کہہ کے ڈانٹنا۔

تمہمہ عن الشیء: باز رہنا۔ کرنا۔
المہمہ و المہمہ: دور کا جنگل۔ ویران

ملک۔ صحماہمہ
مہن (ف) مہنا و مہنۃ و مہنۃ
الرجل: خدمت کرنا۔

مہن (ف) مہنا: اپنا پیشہ کرنا۔ الرجل:
مارنا اور حتی کرنا۔ مہن: بھینچنا۔ بوسیدہ کرنا
الجاریہ: جماع کرنا۔

مہن (ک) مہانۃ: حقیر و کمزور ہونا۔
ماہنۃ مہانۃ: مشن کرنا۔

امہنۃ: کمزور کرنا۔ خدمت لینا۔
امتہن الشیء: حقیر کرنا۔ بوسیدہ کرنا
الرجل: خدمت میں رکھنا۔ الرجل: خدمت
میں مشغول ہونا۔

المہنۃ و المہنۃ و المہنۃ و المہنۃ: کام
کی مہارت۔ خدمت۔ کہا جاتا ہے "قامت
المراۃ بمہنۃ بیئنا" عورت اپنے گھر کے
کام کاج کیلئے مستعد ہوئی "وما مہنتک
ہننا" یہاں پر تمہارا کیا عمل ہے "وہو فی
مہنۃ اہلبہ" وہ اپنے لوگوں کی خدمت میں
مشغول ہے "خرج فی ثياب مہنۃ" وہ
اپنے کام کاج کے کپڑوں میں نکلا۔ مہن و
مہن۔

الماہن۔ فامین۔ غلام۔ مہان و مہنۃ
و مہان۔ مؤنث مہانۃ مہواہن۔
المہین۔ حقیر۔ کمزور۔ کم سمجھ۔ مہنۃ
مہا یمہو مہوا۔ الرجل: بہت مارنا۔ مہا

اور غلام جانور وغیرہ مت خرید اور کہا گیا ہے کہ موتان اس زمین کو کہتے ہیں جس میں آبادی نہ ہو۔

المائت قریب المرگ۔ کہا جاتا ہے ”موت مائت“ یعنی سخت موت۔

المیت موت و موتی و میتون والمیت موتون مردہ۔ مؤث میتة و میت و میتة مینات و میتات

الموتات من غیر ذی روح۔ غیر آباد زمین یا وہ زمین جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔

الممات موت۔ یا زمانہ موت۔

الممات من اللفظ۔ متروک الاستعمال لفظ۔

خطیئة مینة گناہ کبیرہ۔

المستحیت فا۔ طالب قتل جو لڑائیوں میں موت کی پروا نہ کرے۔ تکلف مجنوں بننے والا۔ انڈے کی سفیدی کا باریک چمکلا۔

مات یموت مؤنثا و مؤنثا الشئی بالشئی۔ مخلوط کرنا الشئی فی الماء پانی میں گھسنا۔

انماک مخلط ہونا۔ حل ہونا۔ گل مل جانا۔

ماح یموج مؤنثا و مؤنثا و تموج البحر۔ سمندر کا موج مارنا۔ ماح القوم: مضطرب ہونا۔ بے ترتیب ہونا۔ ماح عن الحق: حق سے تجاوز کرنا۔

المواج من لہر۔ واحد موجة و امواج و موجة الشباب آغاز جوانی۔

المواج بہت موج مارنے والا۔

ماح یموخ مؤنثا الغضب: غصہ کا ٹھنڈا ہونا۔

الماد اچھی خصلتوں والا ہونا۔ خوش طبع (اصل اس کی مویجہ)

المادی سفید شہد۔ یا عمدہ شہد۔ ہر قسم کے جھنڈی (و المادیة نرم زردہ۔

المادیة براب۔

مار یمور مؤنثا البحر۔ مومن زن ہونا الدم علی الارض۔ خون کا زمین پر پھیل کر بہنا

جاتا ہے ”مات فوق الریح“ یعنی گہری نیند سو گیا۔

موتہ بارذالتا۔ موت دینا۔

اماتہ اماتہ بارذالتا۔ مات نفسہ: مغلوب کرنا غصہ غصہ بی جانا الرجول:

مرے ہوئے بچوں والا ہونا الناقہ او المزاة: مرے ہوئے بچہ والی ہونا۔ صفت مینت و

میینة مع ممانت القوم: مرے ہوئے جانوروں والا ہونا۔ امات اللحم: خوب اچھی طرح پکانا اور جوش دینا۔ اور کہا جاتا ہے

”ما افوتہ“ یعنی وہ کیسا مردہ دل ہے۔

امینت اللفظ۔ لفظ کا استعمال چھوڑ دیا جانا۔

ماوت ممانتہ قرینہ باہم مبر کرنا۔

تماوت: تکلف مردہ بننا۔ خاموشی اور کمزوری ظاہر کرنا۔

استمات استماتة و استماتات موت چاہنا۔ ہر طریقے سے کسی چیز کو طلب کرنا۔

لاغری کے بعد موٹا ہونا النوب: کپڑے کا بوسیدہ ہونا الشئی ڈھیلا ہونا۔

الموت والموتة۔ موت۔ الموت الاخمر: دل سے جو موت واقع ہو۔

الموت الابيض: موت طبعی یا اچانک موت۔ الموت الاسود: گلا گھونٹنے سے جو موت واقع ہو۔

الموتة: جنون کی ایک قسم۔ مرگی۔

المینة۔ المینت کا مؤنث۔ مردار۔ مینات۔

المینتہ: مرے کی حالت۔ کہا جاتا ہے ”مات مینتہ صالحہ“ و ”مات مینتہ سؤیہ“ (یعنی اور بڑی طرح مرنا)

المینتوتہ۔ موت۔ (مولدہ)

الموتان والموتان جانوروں کی مری۔ اور کہا جاتا ہے ”ہذا موتان القواد یعنی یہ بلیدا طبع ہے۔ مؤنث موتانہ“

الموتان موت۔ غیر ذی روح۔ کہا جاتا ہے

”اشتر من الموتان ولا تشتتر من الحیوان“ یعنی زمین ا مکانات وغیرہ خریدو

مات یمھو مھا البقرۃ الوحشیة: نیل گائے کا خالص سفید ہونا۔

مھو یمھو مھاوۃ اللبن او السمن: دودھ یا مٹی کا پٹلا ہونا۔ صفت مھو۔

امھی اللبن: دودھ میں زیادہ پانی ملانا الحیدیدۃ: بوسے کو تیز کرنا القوس: برقی

دراز کرنا۔ دوڑا کر گرم کرنا۔ اسم المھی اور کہا جاتا ہے ”حفر البئر حتی امھی“ اس نے کنواں کھودا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔

امھی فلان: تعریف میں خوب مبالغہ کرنا الحین: برقی کو ڈھیل دینا القذح: تیرکی کچی کو درست کرنا القذر: باغی میں پانی بڑھا

دینا۔ امھت القین: اُسو بہانا۔ المھو: سفید لکڑی۔ موتی۔ بور۔ اول۔ تازہ مجوریں۔ تپلی تلواریں۔ بہت پانی والا دودھ۔

المھاۃ نیل گائے (جس سے آنکھوں کی خوبصورتی میں تشبیہ دی جاتی ہے) آفتاب۔

بورج مھا و مھاوت و مھیات۔ مھی یمھی و یمھی مھیا و امھی و امھی الشفرة او الحیدیدۃ: چٹا کرنا۔ تیز کرنا۔ و مھی الشئی: بچ کرنا۔

استمھی القوس: جوڑے کو پوری رفتار پر چھوڑ دینا القوم: زمین کی صفوں کو توڑ دینا اور نکلت دینا۔

مفہم: کلمہ استفہام ہے یعنی تمہارا کیا حال ہے۔ یا نہیں کیا ہوا۔ یا کیا خبر ہے۔

ماء یموج مؤنثا و اموا السنور: پانی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ و اموا الرجول: پانی کی طرح آواز کرنا۔

المائیة و المائنة و المائیة: پانی۔ مات یموت مؤنثا مرنا۔ ماتت الریح: ہوا کا رگ جانا النار: آگ کی راکھ ٹھنڈی ہونا

مات الحرا و البوز: گرمی یا سردی کا زائل ہونا۔ ماتت الحمی: بخار کا جوش کم ہونا۔

مات الثوب: پڑے کا بوسیدہ ہونا۔ مات یموت مؤنثا مؤنثا مؤنثا مکان: ویران ہونا الطریق: راستہ چلنا بند ہونا۔ کہا

مات یموت مؤنثا مرنا۔ ماتت الریح: ہوا کا رگ جانا النار: آگ کی راکھ ٹھنڈی ہونا

مات الحرا و البوز: گرمی یا سردی کا زائل ہونا۔ ماتت الحمی: بخار کا جوش کم ہونا۔

مات الثوب: پڑے کا بوسیدہ ہونا۔ مات یموت مؤنثا مؤنثا مؤنثا مکان: ویران ہونا الطریق: راستہ چلنا بند ہونا۔ کہا

مات یموت مؤنثا مؤنثا مؤنثا مکان: ویران ہونا الطریق: راستہ چلنا بند ہونا۔ کہا

الشئی: آگے پیچھے تیزی سے ملنا التراب: غبار کا اٹھنا۔ براہینتہ ہونا۔ مارت الریح التراب و بالتراب: ہوا کا مٹی کو اٹھانا۔ براہینتہ کرنا۔ مار الصوف عن الجسد: پشم کو جسم سے اکھیرنا۔ السنان فی المظعون: بھالے کا زخمی کے بدن میں بلنا۔ امار الدم: خون بہانا۔ امارت الریح التراب ہوا کا مٹی کو اٹھانا براہینتہ کرنا۔ امار السنان فی المظعون: بھالے کو زخمی کے بدن میں بلانا۔

تمور: تردد کی حالت میں آنا جانا الشعور: پالوں کا ادھر ادھر ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "تمور الوتر ونحوه عن الدابة" جبکہ بال یا دون وغیرہ گر جائیں الشئی: کسی چیز کا مضرب ہونا۔ اور جلدی جلدی حرکت کرنا۔

انصار الشعور: بال اکھیرا جانا۔ افتار امتیارا السیف: تلوار سونتنا۔

مار و ماری: سریانی کلمہ ہے اس کے معنی سید کے ہیں اور اکثر اس کا استعمال مقدس لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور مؤنث کیلئے مؤنث کہا جاتا ہے۔

المور: س۔ نرم چیز۔ چلتا ہوا ہموار راستہ۔ تیزی۔

المور: ہوا میں اڑنے والا غبار۔ مٹی جس کو ہوا اڑائے۔ ایک قسم کے مٹھے۔

الموراة و المواراة: گری ہوئی اون۔ الموراة: چیز جو کسی چیز سے گرے۔ فانی چیز کا کچھ باقی حصہ۔

المانیر: فاعل سمجھ۔ سہم مانیر: گھس جانے والا ہلکا تیر۔ مؤنث مانیرة: ج مانیرات و موانیر۔

الموار: اسم مبالغہ۔ ریع مواراة و ازیاخ مور: مٹی براہینتہ کرنے والی ہوا۔

المورج: کھیتی کرنے والوں کا آلہ جس کو کھلیان پر گھماتے ہیں اس کو بھلسا کہتے ہیں۔ المورکس: ایک پتلی پاؤں والی پیٹ والی کلمے والی کانٹے والی جس کو ہر سو چلائی ہے

سرخ رنگ والا سیلان بھائی ہے پرانے زمانے میں لوگ اس سے سرخ رنگ حاصل کرتے تھے۔

المور: کیلے کا درخت۔ کیلا۔ واحد مؤنث۔

المواز: کیلے پیچھے والا۔

المورج: موزہ۔ ج موازج و موازجة۔

ماس یموس ماسا الرأس: سر موٹنا۔

الماس: ہیرا۔ کہا جاتا ہے "رجل ماس" بے حس مرد جس پر عتاب و ننگی کا کوئی اثر نہ ہو۔

الموسى: استر۔ (مذکر مؤنث) ج مواسیہ و موسیات۔

الموسیقی: گانے کا فن۔

الموسیقی: گانے والا۔ گویا۔

ماش یموش موشا الکرم: توڑنے کے بعد باقی ماندہ انگور چننا۔

الماش: اژدہ۔ واحد ماشة۔ گھر کا معمولی سامان۔

الموسیلین: زونڈ کا باریک نرم کپڑا۔

ماص یموص موصا و موص الثوب: کپڑا دھونا۔ ماص الشئی: ہاتھ سے ملنا۔

الموص: بس۔ بھوسہ۔

المواصاة: پانی جس سے برتن یا کپڑے وغیرہ دھوئے گئے ہوں۔

مورعة الشبَاب: آغاز جوانی۔

ماغ یموغ موعا و موعا السنور: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

ماق یموق موقا المصبع: ارزاں ہونا۔

الطعام: غلہ مندا ہونا۔

ماق یموق موقا و موقا و موقاة و موقا: الرجل: بیوقوف ہونا۔ ہلاک ہونا۔

تماوق: حماقت ظاہر کرنا۔

انماق انمیافا: ہلاک ہونا۔

استمباق استمباقة: بیوقوف سمجھنا۔

الصائق: بیوقوف۔ ہلاک ہونے والا۔

کہا جاتا ہے "احمق مانیق" وہ بڑا سخت بیوقوف ہے۔ ج موقی۔

الموق: س۔ بیوقوفی۔ غبارت۔ غبار۔ پروالی چوٹی۔ گوشہ چشم۔ موشا موزہ جو باریک موزہ پر پہنا جائے۔ ج افواق۔

مال یمول و یصال مؤلا و مؤولا:

مالدار ہونا یا بہت مال والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما أمواله" وہ کس قدر مالدار ہے۔

ماله یموله مؤلا و اماله امالة مال دینا۔ مؤله: مالدار بنانا۔

تمول المال: اپنے لیے جمع کرنا (واستعمال) مال حاصل کرنا یا بہت مال والا ہونا۔

المال ج أموال: مال و دولت۔ اہل بادیہ کے نزدیک اس کا اطلاق چوپایوں پر ہوتا ہے جیسے اونٹ بکری وغیرہ۔ مذکر مؤنث ہے۔ کہا جاتا ہے "هو المال و هي المال" اور کہا جاتا ہے "خروج إلى ماله" یعنی اپنی جائیداد یا اپنے اونٹوں کی طرف گیا۔ ج ماله و مالون: بہت مال والا۔ کہا جاتا ہے "رجل مال" بہت مالدار مرد۔ مؤنث مالهة ج مالهة و مالات۔

المال: مُرتب عدد۔

المول: مکرری۔ واحد مؤلثة۔

المالیة: مالیت۔ دولت۔ مال کے متعلق مولدین اس کا اطلاق مال پر بھی کرتے ہیں۔

المول والمیل: بہت مال والا۔

المویل: مال کی تقصیر۔ رجب کا مہینہ۔

میم مؤما الرجل: برسام کی بیماری لاحق ہونا یا سخت چھک ہونا جس میں سارا جسم ایک زخم بن جائے۔ صفت مفعولی مَموم۔

موم مینما: حرف میم لکھنا۔

الموم: موم۔ جلاہوں کا تال۔ مویضوں کا ایک آلہ۔ الموماء و الموماءة وسیع بیابان یا بے پانی کا بیابان۔ ج الموامی۔

المومیاء: ایک قسم کی دوا۔ قدام مصر کے طریقہ پر حنوط لگائے ہوئے اجسام۔

مانہ یمونه مؤنا و مؤنثة و مؤنثة نان نفقة برداشت کرنا۔ صفت ماین۔ مان الارض: زراعت کے لیے زمین جوتنا۔

پانی لینا اصحابیہ: لوگوں کے لیے چلو چلو پانی
لانا الرَّجُلُ: نفع دینا ”عند الأمير“
سفاش کرنا۔ کہا جاتا ہے ”میحنی عند
الأمیر“ یعنی سفاش امیر سے کرو۔ ماحت
الریح الشجرۃ: جھکانا ماح الرَّجُلُ: ناز و
انداز سے چلنا۔ ماحہ یمینحہ مینحاً و
میاحہ: دینا۔

میح تمینحاً الغصن: جھکتا بلنا
السكران: چلنے میں ڈگمگانا۔
مایحاً مینحاً: ملانا۔

امتحاح الماء: چلو لینا الرَّجُلُ: طلب فضل
کیلئے کسی کے پاس آنا۔ امتحاحه الحرُّ او
العمل: بیسنہ میں شراہور کرنا۔

تمیح: ناز و انداز سے چلنا۔ دائیں بائیں
جھکتا۔
تمییح: ڈگمگانا۔

استمباحہ استمباحہ: عطیہ مانگنا۔ سفاش
کرنے کی درخواست کرنا۔

الماتح ماحاً و المیاح: چلو سے پانی
پلانے کی درخواست کرنے والا۔

ماد یمید میندا و میدانا: بلنا۔ جھکتا۔ کہا
جاتا ہے ”مادت بہ الأرض“ زمین اس
کے ساتھ گھوم گئی الغصن: ٹہنی کا جھکانا۔ بلنا

الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ سر چکراتا و ماد
الرَّجُلُ: زیارت کرنا۔ بہتر سلوک کرنا۔

تمیاند: نشاط سے جھومنا۔
تمیاندت المرأة: عورت کا ناز سے چلنا۔

امتاد امتیاداً: غلہ جمع کرنا۔ عطیہ طلب
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”امتادوہ فمادھم“ یعنی
لوگوں نے اس سے عطیہ طلب کیا اور اس نے
دیا۔

المائد: جھکنے والا۔ سر میں پکر والا۔ م
میندی: غصن میندی: جھکنے والی ٹہنی۔
غصون میند: جھکنے والی ٹہنیاں۔

المایندة: المائد کا مؤنث۔ دسترخوان جس
پر کھانا ہو۔ کھانا۔ زمین کا دائرہ موائد و
مائدات۔

المائنة: پانی۔ تصغیر مؤینة۔
المؤهة والمؤاهة من الوجه: رونق و
حسن۔

المأهة: س۔ چپک۔ بئر مأهة: بہت پانی
والاکنواں۔

المأھیة: مؤنث المأھی: مأھیة الشئی:
حقیقت ”شے ماہو“ سے نکلا ہوا۔ م
مأھیات۔

المائیة والمأویة: من الشجر: وہ سائل
چیز جس سے درخت کو غذا حاصل ہو۔
المأویة آئینہ۔ م ماوی:

رکبۃ میہة: بہت پانی والاکنواں۔
الأموه: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے ”البنر
ہذہ السنۃ أموه مما کانت“ یعنی نواں

اسال یہ نسبت پہلے کے زیاد پانی والا ہے۔
الممؤهة: م۔ ناخندہ والی آگ۔

مات یمت مینا: مرنا۔
المأھیة م مہیات ماہناجرت (مخواہ) یہ

لفظ ”ماہ“ کی طرف منسوب ہے جس کا معنی
مہینہ ہے۔

مات یمت مینا و میت الشئی فی
الماء: پھلانا۔ حل کرنا۔ میت الرَّجُلُ:
ذلیل کرنا۔

تمیت الشئی فی الماء: پھلانا۔ حل ہونا
الرَّجُلُ: ذلیل ہونا۔ تمیت الأرض:
بارش سے نرم ہونا الحرارة: ٹھنڈی ہونا۔

انماک انمینا الشئی فی الماء: پانی میں
حل ہونا۔

امتاک الرَّجُلُ: زندگی کی راحت پانا الاقط:
نیر کو پانی میں بھلو کر کھانا الشئی: فی الماء:
پھلانا۔ حل کرنا۔

المیث: نرم۔
أرض میناء غیر ریت والی نرم زمین۔
المستمیث: اندب کی سفیدی کا باریک
چمکنا۔

ماح یمیح مینحاً الشئی: جھلٹ ہونا۔
ماح یمیح مینحاً و مینحوہ: چلو سے

تمون۔ نان نقہ جمع کرنا۔ بال بچوں پر زیادہ
خرچ کرنا۔

المؤنة: گزارے کا ذخیرہ۔ م مؤن
بیت المؤنة: گزارہ جمع کرنے کی کوٹھری۔
المؤان: ذخیرہ جمع کرنے والا۔ ذخیرہ مہیا
کرنے والا۔

ماہت تموة و تمأه مؤها و ماہة و
مؤوها: البئر: کنوئیں کا بہت پانی والا ہونا۔
والسفنينة: کسی میں پانی داخل ہونا۔

مأه یمؤه مؤها الرَّجُلُ: پانی بلنا الشئی
بالشئی: ملانا۔

أمأه أمأهة و أموه أموها الشئی: ملانا
الشئی: ملنا الرَّجُلُ: پانی پلانا الحوض:
حوض میں پانی جمع کرنا الذؤاة: دوات میں پانی

ڈالنا البئر: کنواں کھود کر پانی نکالنا السکین:
چھری پر پانی چڑھانا۔ أمأهت السماء: بہت
پانی برسنا الأرض: بہت پانی والی ہونا۔

مؤه المکان: پانی والی ہونا القدر: ہانڈی
میں پانی بڑھانا الشئی بماء الذهب او
الفضة و نحوهما: سونے یا چاندی کا پانی

چڑھانا علیہ الأمر و العنبر: جھوٹی بات
خلاف واقعہ سنانا۔

تموه سونے چاندی وغیرہ کا پانی چڑھنا۔
العنب: انھور کارس دار ہونا اور پکنے کے
قریب ہونا المکان بالنقل: بزمہ دار ہونا۔

الماء: پانی (اصل مؤه ہے) تصغیر مؤینہ
اور نسبت کے لئے مائی و ماوی و ماھی
م میناء و أمواہ۔ و ماء الزؤد و ماء

الزهر و نحوهما: گلاب وغیرہ کا پانی جو
عرق پھینچنے سے نکلے۔ ماء الوجه او ماء
الشباب: چہرہ یا جوانی کی رونق و تروتازگی ماء

السيف: تلوار کی چمک دک بئاث الماء:
پانی کے آس پاس رہنے والے پرندے۔ مفرد
ابن الماء: الماء الأزرق: موتیابند۔

الماء پانی اور نسبت کیلئے ماھی: کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ ماء الفؤاد و ماھی الفؤاد“ یعنی
بزدل۔ بلید الطبع۔

مید۔ بید میں ایک لغت نادرہ۔

المیذة. ماد کا اسم مرۃ۔ کھانا۔ دستر خوان جس پر کھانا چاہا ہو۔

میذی بمعنی من أجل۔ کہا جاتا ہے "فعلہ میذی ذلک" اس نے اس کو اس کی وجہ سے کہا۔ و بمعنی "جذاء" کہا جاتا ہے "ذاری بمیذی دارہ" میرا مکان اس کے مکان کے مقابل ہے۔

میذاء الشی: قیاس و انداز۔ انتہاء۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا مِیذَاءُ ذَلِکَ وَ بِمِیذَائِهِ یعنی یہ اس کے مقابل ہے۔

المیذلک والمیذان: گھوڑ دوڑ یا کھیل کوڈ کے لئے کشادہ جگہ۔ میادین۔

المیاد: بہت جھومنے والا۔ مؤث میادة۔

المیود: بہت ہلنے والا۔

الممتاد: عطیہ مانگنے والا۔ جس سے عطیہ مانگا جائے۔

ماز یمیز میرا و امار: عیالہ: اہل و عیال

کیلئے نان و نفقہ لانا الذواء و نحوہ: پگھلانا

ماز الصوف: اون و دھکتا۔ امار ادواجہ:

رگیں کاٹنا۔

مایرہ ممایرة: خوراک لانا۔ مقابلہ کرنا۔

نقل اتارنا۔

تمایز تمایرا مابین القوم: فساد واقع ہونا۔

امتار لعیالہ او لنفسہ: خوراک جمع کرنا۔

المیر: سر خوراک۔ کہا جاتا ہے "ما عندہ

خیر ولا میر"۔

المیرة: خوراک جس کو انسان ذخیرہ کر کے

رکھے۔ ج میر۔

المایر: خوراک لانے والا۔ ج مایار و

میارة۔

المیار: خوراک لانے والا۔

الموارة: اون کا ردی حصہ جو دھننے کے وقت

گرے۔

ماز یمیز میزا و میز و امار الشی:

علیہ مکتا۔ جدا کرنا الشی: ترجیح دینا۔ ماز

فلان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

تمیز و امتاز امتیازا و امتاز امتیازا

واستماز استمازة۔ جدا ہونا۔ وتمیز فلان

من العظ: غصہ سے پھٹ پڑنا۔ امتاز

القوم بعض کا بعض سے جدا ہونا۔ واستماز:

جدا ہونا۔

تمایز القوم: متفرق ہونا۔ گروہ بندی کرنا۔

المیز والمیز: مضبوط پٹھوں والا۔

التمیز: میز کا مصدر۔ قوت نفسانی جس

سے معانی کا استنباط ہو۔ علم نحو کی ایک

اصطلاح۔ سن التمییز: نفع ضرر پہچاننے کی

عمر۔

الامتیاز: سر کسی چیز کے پیچھے یا کسی کام کے

کرنے کی اجازت کا خاص پروردہ۔ لانسس ج

امتیارات (موندہ)

المیزاب: پرنا۔

ماس یمیس میسا و میسانا و تمیس

الرجل: ناز و انداز سے چلنا۔ صفت مانس و

میاس و میسان و میوس۔

میس الثوب: دامن بنانا۔

المیس: سر ایک بڑا درخت جس کی لکڑی

سے کچاد بنایا کرتے تھے اور اس کے دانے کالے

اور میٹھے ہوتے ہیں۔ واحد میسة۔ المیس

ایک قسم کی کککش۔ دو بیلوں کے درمیان لمبی

لکڑی۔ کچاد۔

المیاس: آڑ کے چلنے والا شیر۔ بھیڑیا۔

المیسان: بہت تیز چمکنے والا ستارہ ج

میاسین۔

ماش یمیش میشا الشی بالشی: ملانا

التافة: قہن سے آراہ دوہ دوہنا الخیر:

کچھ تھلانا کچھ چھپانا۔ کہا جاتا ہے "ماشوا

الأرض میسة" وہ زمین پر گزرے۔

ماط یمیط میطا و میطانا و اماط

اماطة عن کذا: جدا ہونا۔ دور ہونا۔ کہا جاتا

ہے "مط عنایا فلان" یعنی اے فلاں ہم

سے دور ہو۔ ماطہ و اماطہ و ماط بہ: جدا

کرنا۔ دور کرنا۔ لے جانا۔ ماط الرجل: ظلم

کرنا۔ کہا جاتا ہے "ماط علی فی حکمہ"

اس نے اپنے فیصلہ میں میرے اوپر ظلم کیا۔

فلانا: ڈانٹنا۔ ہٹانا الشی: جانا۔

میط تمییطا بینہما: مائل کرا دینا۔

تمایط القوم: فساد واقع ہونا۔ ایک

دوسرے سے بعد ہونا۔

مایط بین الشینین: ترجیح دینا۔

المییط: سر کہا جاتا ہے "ما عندہ مییط"

اس کے پاس کچھ نہیں "و امتلا حتی لا

یجد مییطا" بھر گیا یہاں تک کہ اب مزید

گنجائش نہیں "وامر ذو مییط" سخت معاملہ۔

المییط: رفع۔ ڈانٹ۔ جھکاؤ۔ ادبار و تجاہد

(جس طرح بیاط کے معنی اقبال اور قربت کے

ہیں) اور اسی سے ہے "اضبحوا فی ہیاط و

میاط" وہ لوگ اقبال و ادبار میں ہیں۔

المییط: پہرہ کھیل کود میں رہنے والا۔

ماع یمیع میعا الشی: زمین پر پھیل کر

بہنا۔ کہا جاتا ہے "السراب یمیع" سراب

زمین پر پھیل کر جاری ہے ناصیة الفرس:

گھوڑے کی پیشانی کے بال طویل ہونا اور لٹکنا

الفرس: گھوڑے کا دوڑنا (وانماع انمیعا

و تمیع تمیعاً) السنن: گھی کا پگھل کر

بہنا۔ صفت مانع مؤث مایعة کہا جاتا ہے

الفیضة تنمیع فی البوطة: چاندی کٹھالی

میں پگھل کر بہ رہی ہے۔

اماع اماعا و اماعة الشی: بہانا۔

میعة الشی: اول ٹھنڈے۔ اصل ٹھنڈے۔ کہا جاتا

ہے "میعة الشباب" آغاز جوانی "و میعة

السکر" ابتدائی نشہ و "میعة الفرس"

فی میعة جریہ" گھوڑا اپنی دوڑ کے آغاز میں

ہے۔ المیعة: زمین پر بہتی ہوئی چیز کا سیلان۔

ایک درخت کا خوشبودار گوند۔

المانع: بیٹنے والی چیز۔ بیوقوف۔

المانیعة: المانع کا مؤث۔ گھوڑے کی

پیشانی کے بال جبکہ طویل ہوں۔ ایک درخت

کا خوشبودار گوند۔ ج موانع

المیعة السائلة ایک خوبصورت درخت جو

ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔

مَالٌ يَمِينٌ مَيْلًا وَ تَمَيْلًا وَ مَيْلَانًا وَ مَيْلَوْلَةً وَ مَمَالًا وَ مَمَيْلًا إِلَى الْمَكَانِ: لَوْثًا إِلَى الشَّيْءِ أَوْ الشَّخْصِ: رَغْبَتٌ كَرْنَا- محبت کرنا عن الطَّرِيقِ: تجاوز کرنا۔ چھوڑ دینا الحَانِطُ: دیوار کا جھکنا الحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ: ظلم کرنا عَلَيْهِمُ الدَّهْرُ: زمانہ کا مصائب ڈالنا۔ مَالٌ بِفِلَانٍ: غالب ہونا۔ مَالٌ الشَّيْءِ: جھکانا کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا تَمِيلُ عَلَيْهِ الْمَرْبُوعَةُ" یعنی فلاں بہت قوی ہے۔

مَالَتْ تَمِيلُ مَيْلًا. الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈھلنا یا غروب کے قریب ہونا۔ مَالِ النَّهَارِ أَوْ اللَّيْلِ: دن یا رات کا ختم ہونے کے قریب ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "مَالٌ بِنَا الطَّرِيقِ" یعنی دور ہوا۔

مَيْلٌ (س) مَيْلًا. خَلَقْنَا جَحَا هُوَا هُونَا- صفت اَمِيلٌ کبھی اس کا استعمال عمارت کے متعلق ہوتا ہے۔

مَيْلٌ تَمَيْلًا الشَّيْءِ: جھکانا فِي الْأَمْرِ: شک کرنا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: تردد اور تَرْجِيحٌ دینا۔ جیسے "قَرَبَ لَهُ طَعَامًا فَمَيْلٌ فِيهِ لِقَلْبَتِهِ" اس نے کھانا پیش کیا اور کم ہونے کی وجہ سے تردد رہا کہ کھائے یا چھوڑے۔

أَمَالٌ أَمَالَةٌ الشَّيْءِ: جھکانا يَدُهُ بِالْفَرَسِ: لگام ڈھیلی کرنا۔ أَمَالَتِ الْمَرْأَةُ: نقاب اتارنا۔ أَمَالٌ الْقَارِي: پڑھنے میں االہ کرنا۔ مَا يَلَةٌ مُمَائِلَةٌ: موافقت کرنا۔ مدد دینا۔ لَوْثٌ ذَالِنًا مَالٌ هُوَا هُونَا محبت کرنا کہا جاتا ہے "مَا يَلَنَّا الْمَلِكَ فَمَا يَلَنَاهُ" بادشاہ نے ہم پر حملہ کیا ہم نے اس پر حملہ کر دیا۔ مَا يَلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: تَرْجِيحٌ دینا۔

تَمَيْلٌ وَ تَمَائِلٌ تَمَائِلًا فِي مَشْيِهِ: ناز و انداز سے چلنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَ الْقَوْمِ تَمَائِلٌ" یعنی قوم کے درمیان جنگ و جدال اور فتنے ہیں۔ تَمَائِلُ الْحَجَلِ عَنِ الْفَرَسِ: جھکانا۔

اسْتَمَالَ اسْتِمَالَةً. مَالٌ: ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَيْلُهُ فَاسْتَمَالَ" اس نے اسے جھکایا وہ جھک گیا فَلَانًا وَ بَقَلْبِهِ: جھکانا مائل کرنا۔ مہربان بنانا مَا فِي الْوَعَاءِ: لینا۔ اسْتَمَالَ الطَّعَامَ وَ نَحْوَهُ: دونوں کف یا ذراع سے تاپنا۔

المَيْلُ: سرمہ کی سلائی (مولدۃ) زخم ناپنے کا آلہ۔ المَيْلُ: نشان راہ جو مسافر کیلئے بنا دیا جائے تاکہ وہ مسافت معلوم کر سکے۔ مسافت جس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ نگاہ پختے تک کی مسافت عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ چار ہزار ہاتھ کی مسافت۔ والمَيْلُ الهَاشِمِيُّ: ایک ہزار باع (اور باع دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کی لسانی) جِ أَمِيَالٌ وَأَمِيَالٌ وَمِيُولٌ۔

مَيْلٌ كَوَيْبٌ: وہ زاویہ جو استواء آسانی اور اس خط کے درمیان واقع ہے جو زمین اور ستارے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔

ذَائِرَةُ الْمَيْلِ: آسانی کرہ کا بڑا دائرہ جو کرہ دو قطب کے ساتھ گذرتا ہے۔

(العناصر الکیمیائیہ) (کیمیائی عناصر)

المَيْلَةُ: وقت۔ جِ مَيْلٌ اور کہا جاتا ہے "الدَّهْرُ مَيْلٌ" زمانہ گردشوں والا ہے۔

الإِمَالَةُ: سِ فِي الْقِرَانَةِ: فتحہ کو کسرہ کی جانب اور الف کو یابی جانب جھکانا۔

الأَمِيلُ: اسم تفضیل۔ جھکی ہوئی عمارت وغیرہ۔ زین پر ایک جانب جھکا ہوا۔ بزدل۔

مُؤْنِثٌ مَيْلًا.

المَيْلَاءُ: الأَمِيلُ کا مؤنث۔ ریت کا ٹیلہ۔ شَجَرَةٌ مَيْلَاءٌ: بہت ٹہنیوں والا درخت۔

المَانِلُ: فَاجٌ مَيْلٌ وَ مَالَةٌ مَوْثٌ مَانِلَةٌ جِ مَانِلَاتٌ وَ مَوَائِلُ.

المَيْالُ: بہت جھکنے والا۔ مؤنث مَيْالَةٌ.

مَانَ يَمِينٌ مَيْنًا. جھوٹ بولنا۔ صفت مَائِنٌ وَ مِيَانٌ وَ مِيُونٌ. مَانَ الْأَرْضِ: زمین کو زراعت کے لیے جوتا۔

تَمَائِنُ الْقَوْمِ: ایک کا دوسرے پر جھوٹ بولنا۔

المَانُ بِلٌ كَأَجَلٍ.

المَيْسُ: جھوٹ۔ جِ مِيُونٌ: کہتے ہیں "أَكْثَرُ الظَّنُونِ مِيُونٌ" اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ "وَمَا هُوَ إِلَّا كَذِبٌ وَ مَيْنٌ" یہ صرف جھوٹ ہے۔

المَيْنَا وَ المَيْنَاءُ: بندرگاہ۔ جِ مَوَانٌ وَ مَوَانِي: المَيْنَاءُ: آگینہ۔


مُتَمَائِنٌ الرُّودُ: جھوٹی دوستی کرنے والا۔

مَاءٌ يَمِينُهُ مَيْهَاً وَ مَيْهَةٌ السَّيْفِ وَ غَيْرُهُ بِمَاءِ الدَّهْبِ: تلوار پر سونے کے پانی کا مِزج کرنا فَلَانًا: پانی پلانا۔ مَا هَبَتِ النُّزُ: بہت پانی والا ہونا۔ مَا يَمِينُهُ مَيْهَةٌ وَ مَا هَةٌ وَ مَيْهَاً. الرِّكْبَةُ: کنوئیں کے پانی کو زیادہ کرنا۔

المَاهَةُ وَ المَيْهَةُ: کنوئیں کے پانی کی کثرت۔

الأَمِيَةُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "الْبَيْزُ أَمِيَةٌ مِمَّا كَانَتْ" کنواں بہ نسبت پہلے کے بہت پانی والا ہے۔

مِيٌّ وَ مِيَّةٌ وَ مِيَاءٌ: عورتوں کے نام۔



نَاج (ف) نَاجَا وَنَوَاجَا الشَّوْرُ: نعل کا آواز نکالنا۔

نَاجِح (س) نَاجِحًا: آہستہ کھانا۔

نَاجِحُ القَوْمِ: تیز ہوا لگانا۔

النَّاجِحَةُ: تیز ہوا۔

النَّاجِحُ: بہت آواز نکالنے والا۔ تیز چلنا۔

نَاجِحٌ: بلند آواز والا مرد۔

النَّيْجُ: سر کہا جاتا ہے "للرَّيْحِ نَيْجٌ" ہوا کے لیے تیز سر راہت ہے۔

رَيْحٌ نَوُوجٌ: تیز چلنے والی ہوا۔

المَنُوْجُ: حدیث مَنُوْجٌ: پیچیدہ بات۔

نَادَهُ (ف) نَادًا: حدس کرنا۔ نَادَتُهُ

الدَّاهِيَةُ: مصیبت نازل ہونا۔ نَادَتِ

الأَرْضُ: زمین میں سلین ہونا۔

النَّادُ: بروزن عقاقم والنَّادِي برون

نصارى والنَّوْدُ: مصیبت۔

النَّبْدَالُ: مصیبت۔

نَارَتِ (ف) نَارًا: نائِرَةٌ فِي النَّاسِ:

لوگوں میں بیجا ہونا۔

النَّوْرُ: کامل۔

نَاشٌ (ف) نَاشًا وَتَنَاءٌ شِ الشَّيْءِ:

سخت پکڑنا الأَمْرُ: مؤخر کرنا الشَّيْءِ: دور کرنا

هَ اللّٰهُ: زندہ کرنا اور بلند کرنا الرَّجُلُ مِنْ

مكانه: اُھٹا۔

تَنَاءٌ شِ: پیچھے ہونا اور دور ہونا الشَّيْءِ: دور

سے لینا۔

ہے جیسے ضَرْبِي وَ الشَّيْءِ

(۵) نون زائدہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک۔

وہ جو فعل مضارع کے ساتھ لاقح ہوتا ہے

جبکہ ضمیر ثنویہ کے ساتھ متصل ہو جیسے

"يَضْرِبَانِ وَ تَضْرِبَانِ" یا ضمیر مؤنث حاضر

کے ساتھ متصل ہو جیسے "تَضْرِبِينَ" یا جمع

مذکر کے ساتھ جیسے "يَضْرِبُونَ وَ

تَضْرِبُونَ" ان ساری صورتوں میں سوائے

ثنی کے مفتوح ہوتا ہے اور مثنی میں کسور۔

دوسری قسم وہ ہے جو اسم ثنی کے ساتھ لاقح

ہوتا ہے اور کسور ہوتا ہے جیسے "الرَّيْدَانِ"

اور جمع مذکر کے ساتھ اور مفتوح ہوتا ہے جیسے

الرَّيْدُونَ۔

ث۔ ضمیر جمع متکلم ہے اور رفع نصب جر میں

مشترک ہے جیسے "رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا"

نَاتِ (ف) وَشِ نَاتًا وَ نَيْتًا: گریہ و زاری

کرنا الرَّجُلُ: حدس کرنا۔

النَّاتِ: شہیر۔

نَاتٌ (ف) نَاتًا وَ مَنَاتًا عَنْهُ: بعید ہونا۔

تاخیر کرنا الرَّجُلُ: کوشش کرنا۔

أَنَّا أَنَا: دُور کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَعَى

سَعِيًا نَاتًا وَ مَنَاتًا" وہ سست چال چلا۔ سَبِيْرٌ

مِنَاتٌ: سست چال۔

نَاجٌ (ف) نَوَاجًا فِي الأَرْضِ: جانا

الأَمْرُ: کام کو مؤخر کرنا نَيْجًا) إِلَى اللّٰهِ فِي

الدَّعَاءِ: گڑگڑانا نَاجَتِ الرَّيْحُ: ہوا کا تیز

ہونا الرَّيْحُ المَوْضِعُ: ہوا کا تیز کرنا۔

ن: النُّونُ: بنیادی حروف میں سے بیحیو ال

حرف ہے۔ حروف زلقیہ سے ہے۔ بحساب

جمل اس کا عدد (۵۰) پچاس ہے۔

ن۔ حرف نون پانچ قسموں پر ہے۔

(۱) نون تاکید۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ خفیفہ۔

ثقیلہ اور یہ فعل کے ساتھ مختص ہے جیسے

"لِيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاعِرِينَ" و "لَا

تَحْسِبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا" ماضی کی تاکید اس سے

بالکل نہیں آتی اور امر کی تاکید جائز ہے اور

فعل مضارع کی تاکید واجب ہے جبکہ جواب

قسم ہو اور لام قسم سے کسی انجہی کا فاصلہ نہ ہو

اور فعل مثبت مستقبل ہو جیسے "تَاللّٰهِ

لَا كَيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ" اور جبکہ جواب قسم ہو

اور یہ شرطیں نہ پائی جاتی ہوں تو تاکید متنوع ہے

اور ان کے علاوہ میں تاکید و عدم تاکید دونوں

جائز ہیں مگر طلب میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) نون تنوین۔ اور یہ نون ساکنہ زائدہ اسم

کے آخر میں آتا ہے جو صرف پڑھا جاتا ہے لکھا

نہیں جاتا جیسے کتاب۔

(۳) نون تانیث۔ اور یہ یا تو خفیفہ و مفتوحہ ہوتا

ہے جو فعل کے ساتھ لاقح ہوتا ہے جیسے

"ضَرَبِينَ وَ يَضْرِبِينَ وَ اضْرَبِينَ" اور یہ

ضمیر ہے اور یا مشدودہ و مفتوحہ ہوتا ہے جو جمع

مؤنث پر دلالت کرنے کیلئے ضمیروں کے

ساتھ متصل ہوتا ہے جیسے "غَلَامِكَنَّ وَ

مَنْهَنَّ وَ ضَرْبَهُنَّ" اور یہ حرف ہے۔

(۴) نون و قایہ۔ اور یہ یا کے متکلم سے پہلے آتا

إِنشَاءً يَجِيحُ هُوًا أَوْ رُوًا هُوًا الشَّيْ فُلَانًا
جلدی میں ڈالنا بِعْجَمِهِ بکریوں کے ساتھ
کوچ کرنا فُلَانًا بَعْلِي بَحْمَنَا هُوَ اللُّغُزُ بَاوَرْنَا
النُّوُوشُ قُوِي عَالِبِ
النَّبِيَشُ دُورِ کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ نَبِيَشًا"
اس نے اس کو اخیر میں کر دیا۔ "وَجَاءَ
نَبِيَشًا لَاهُ دِيرٍ" سے آیا۔ "وَاتَّبَعَهُ نَبِيَشًا"
بولا جاتا ہے جبکہ پیچھے رہ جائے اور پھر ساتھ
چھوٹ جانے کے خوف سے جلدی سے پیچھا
کرے۔

نَاظِفٌ نَاظَفَا فِي الْأَمْرِ كَوَشَشَ كَرْنَا
نَبْلَسٌ نَاظَا وَ نَاظَا مِنَ الشَّرَابِ
آسودہ ہونا الرَّجُلُ نَفَرَتْ كَرْنَا الشَّيْ كَهَانَا
نَالَا نَالَا وَ نَبِيَلَا وَ نَالَا الْفَرَسُ
گھوڑے کا جھومتے ہوئے چلنا۔ مَفَتْ نَوُؤَلُ
الرَّجُلُ نَزَّهَا كَرْنَا بَلَاتَ هُوَ چلنا فُلَانًا
حد کرنا۔

نَاظِفٌ ض) نَبِيَشًا آهْتَهُ آهْتَهُ رُوًا
نَامَتْ الْقَرْوُسُ وَالْأَسَدُ وَالطَّيْبِيُّ كَمَا
شِيرِ - ہرن کا آواز کرنا۔
النَّامَةُ نَاكَ اس مرقہ - نغمہ - آواز - کہا جاتا
ہے "أَسَكَّتْ اللَّهُ نَامَتَهُ اللَّهُ اس کی آواز کو
خاموش کر دے یعنی بار دے۔

نَانَا نَانَاةٌ وَ تَنَانَاةٌ عَنِ الْأَمْرِ سُبْتُ
ہونا۔ عاجز ہونا۔ قاصر ہونا۔ مَفَتْ نَانَا وَ نَانَاةٌ
وَ نُوؤُلِي عَائِزٌ - بزدل۔ نَانَا فُلَانًا بَعْلِي
غذاریا۔ ارادہ سے باز رکھنا۔

نَاي نَيْأِي نَايَا فُلَانًا وَ نَاي عَنِ فُلَانٍ
دور ہونا۔ مَفَتْ نِيؤُوتِ نَايِيَّةٌ
نَاي وَ نَاي وَ إِنقَاي النُّوِي لِلْحِيْمَةِ
خیمہ کے گرد چوچکھو ہونا۔
نَاي مَنَاةُ الرَّجُلِ دُور كَرْنَا الشَّرَّ عَنْ
فُلَانٍ دَاعَفَتْ كَرْنَا - ہٹانا۔
أَنَاي فُلَانًا عَن دُور كَرْنَا -

تَسَاي تَنَانِيَا وَ إِنتَاي إِنتَاي دُور هُوًا
النَّاي وَ النُّوِي وَ النَبِي وَ النُّوِي چوچکھ
خیمہ کے ارد گرد۔ ج أَنَا وَ أَنَاةٌ وَ نَيْي وَ

غيب کی بات تانا۔ پیشین گوئی کرنا۔ خدا کی
طرف سے پیغامبری۔

النَّبِي وَ النَّبِيَّ اللَّهُ تَعَالَى كَعَالِمٍ مِنْ غَيْبِ
کی باتیں بتانے والا۔ آئندہ کی پیشین گوئی
کرنے والا۔ خدا کی طرف سے پیغامبر۔ نسبت
کیلئے نَبُوِي ج أَنبِيَاءٌ وَ نَبِيؤُنَ وَ أَنبِيَاءٌ وَ
نَبَاؤُنَ نَبِيَتُ ج نَبِيَاتُ نَبِيَاتٍ. النَّبِي وَ نَبِيَّ
راستہ۔ ٹیڑھی بلند جگہ۔ ایک جگہ سے دوسری
جگہ جانے والا نَبِي لَکْهُ تَصْغِيرُ نَبِيٍّ أَوْ نَبِيٍّ
کی نَبِيٍّ.

النَّبِي قَا - ٹیڑھی بلند جگہ۔ رَجُلٌ نَابِيٌّ وَ
سَبِيْلٌ نَابِيٌّ أَيْ جگہ سے آنے والا کہ معلوم
نہ ہو۔

نَبَلَانُ نَبَاتًا وَ نَبَاتًا الْمَكَانَ بِيْرُهُ زَارُ
ہونا الْبَقْلُ بِيْرِي كَا أَمْنَا (نَبُوْنَا) تَدْيُ
الْحَارِيَّةُ بِيْرِي بِيْرِي كَا بِيْرِي.

نَبَلَانُ نَبْتَةٌ وَ نَبَاتًا الْإِنْسَانُ جَوَانُ
ہونا اور کہا جاتا ہے "نَبَتٌ فُلَانٌ فِي مَنْبِتِ
صِدْقٍ" یعنی فلاں نے سچے لوگوں میں
پرورش پائی۔

أَنْبَتَ الْمَكَانَ بِيْرِي دَالِي هُوًا الْبَقْلُ
بِيْرِي كَا أَمْنَا الْغَلَامُ بِلْرَكِي كَا جَوَانُ هُوًا.
أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلُ بِيْرِي أَكَا. صَفْتُ
مَنْبُوتٌ خِلَافٌ قِيَاسُ.

نَبَتَ الشَّجَرُ يُوْدَا لَكَا الْحَبُّ دَانُ بُونَا
الصَّبِيَّ يَجِيحُ كِي پَرُوش كَرْنَا.
تَنْبَتَ الشَّيْ ظَاهِرُ هُوًا.

النَّبَتُ بِيْرِي بِيْرِي ج نَبُوْتُ وَاحِدٌ نَبْتَةٌ.
النَّبَاتُ بِيْرِي زَمِيْنُ سِي جُوچْھ اگے (پودا یا
بیل یا گھاس) وَاحِدٌ نَبَاتَةٌ نَبَاتَاتُ وَ انْبَتَةُ
عِلْمُ النَّبَاتِ وَ هُوَ عِلْمُ جَسْمِ مِيْنِ نَبَاتَاتُ كِي
حَقِيْقَتُ اُوْر اِن كِي اَفْعَالُ وَ خَوَاصُ سِي جُحْثُ
ہو۔

النَّبَاتِي بَاہِرُ عِلْمِ نَبَاتِ -
النَّبَاتِي نِي اُگِي هُوِي بِيْرِي -
النَّبَاتِيَّةُ النَّبَاتُ كَا مَوْنَتُ - اولاد۔ چوپاؤں
کے بچے۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ بِنِي فُلَانٍ لَنَابِيَّةٌ"

نَبِيٍّ
النَّبَاتِي دُورِ -
المُنْتَاي دُور جگہ۔ خیمہ کے ارد گرد چوچکھ۔
النَّبَاتِي بِيْرِي ج نَابِيَا سَلَا فِشَلِ)
نَبَلَسُ (نَبَلَسُ) نَبَا وَ نَبِيْنَا وَ نَبَاتَا النَّبِيْسُ
خاصہ بگڑے کا جوش کے وقت بلبلانا۔
نَبَتُ تَنْبِيْنَا النَّبَاتُ پُورے دار ہونا۔
تَنْبَتُ الْمَاعِيَا كِي بَاهِرُ پَرْنَا۔
النَّبَاتُ مَرْقَةُ - بدبو۔

الْأَنْبُوبُ بَانَسُ يَازِ كَلُّ وَ غَيْرُهُ كَا پُورَا ج
أَنْبَابِي ہر گول جوف دار کیلئے بھی استعارہ
کے طور پر بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "شَرْبُ
مِنَ أَنْبُوبِ الْكُوْزِ" اس نے کوزہ کی ٹوٹی
سے پیا۔ أَنْبُوبُ الْمَاءِ بَالِي - أَنْبُوبُ
الْكُوْزِ: کوزہ کی ٹوٹی۔ الْأَنْبُوبُ مِيْنِ
الشَّجَرِ دُرُخُوْتِ كِي قَطَارُ - أَنْبَابِي الرَّوْتِيَّةِ
پھینچنے سے سانس لینے کی نالیوں۔

الْأَنْبُوبُ وَ الْأَنْبُوبِيَا سُ يَازِ كَلُّ كَا پُورَا -
نَبَلَا (نَبَلَا) نَبَا وَ نَبُوْنَا الشَّيْ بِلْنِدُ هُوًا - دُور
ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَبَا سَمْعِي عَنِ كَلْمَا"
میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی علی
القَوْمِ ظَاهِرُ هُوًا۔ بَرَامُ هُوًا مِيْنِ أَرْضِ الِي
أَرْضِي نِيكُ زَمِيْنُ سِي دُورِي زَمِيْنُ كِي طَرْفِ
لَكَلَا (نَبَلَا) نَبَا ہست آواز نکالنا۔

نَبَا تَنْبِيَةٌ وَ تَنْبِيْنَا وَ نَبَا فُلَانًا الْخَبْرُ وَ
بِالْخَبْرِ جَبْرُ دِيْنَا۔ تَم كَيْتِي هُوَ نَبَاتٌ زَيْدَا
عَمْرُوا خَارِجِي فِي مِيْنُ نِي زَيْدُ كُو تَلَا يَكُهُ
عَمْرُ وَ خَارِجِ ہے۔ وَ انْبَا فُلَانًا بَوِجُ كَرْنَا۔ اِيك
جگہ سے دوسری جگہ نکالنا۔

نَابَاةٌ مَنَا بَاةٌ اِيكُ دُورِي كُو جَبْرُ دِيْنَا۔ نَابَا
القَوْمِ دُور هُوًا۔ پَرُوسُ جُجُوْرُ دِيْنَا۔
تَنْبَا تَنْبُوْتُ وَ عَوَايُ نَبُوْتُ كَرْنَا۔
اِسْتَنْبَا الرَّجُلُ جَبْرُ دِيَا فِت كَرْنَا النَّبَا جَبْرُ
كِي تَقِيْشُ كَرْنَا۔

النَّبَا جَبْرُ اَنْبَاةِ
النَّبَاةُ آهْتَهُ آوَا رِيَا كِي آوَا -
النَّبُوَّةُ وَ النَّبُوَّةُ اللَّهُ تَعَالَى كَعَالِمٍ مِنْ غَيْبِ سِي

شَرٌّ فلاں کی اولاد شر و فساد کے باعث ہیں۔
 ج نوابت۔ النوابت: تا تجربہ کار نوجوان۔
 النبوت۔ درخت کی ٹہنی اور ڈنڈے پر بھی
 اطلاق ہوتا ہے۔ ج نبابیت۔
 التنبیت۔ مس۔ درخت۔ پودا۔ درخت خرما کی
 چھائی ہوئی شاخیں۔ ج تنابیت۔
 المنبت۔ اگنے کی جگہ۔
 المنبات۔ بہت روئیدگی والی زمین۔
 النبوت۔ خشکاش کا پودا۔ خرئوب کا درخت
 ج نبابیت۔ واحد نبوتة۔
 نبت (ن) نبتا البئر: کنواں کھود کر مٹی
 نکالنا التراب: کنوئیں وغیرہ سے مٹی نکالنا
 عن السرا او الامر: بھید کی یا معاملہ کی
 تفتیش کرنا فلان: غضبناک ہونا اور کہا جاتا ہے
 "فلان نبت عن عيوب الناس" فلاں
 لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے۔
 انبت التراب: کنوئیں وغیرہ سے مٹی نکالنا
 الشئ: لینا۔
 تنابت القوم: باہم بحث کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "لا يزالون يتناشون عن الاسرار و
 يتباحثون عن الاخبار" وہ لوگ اسرار و
 اخبار کے متعلق ہمیشہ بحث کرتے رہے۔
 استنبت عن السر: تحقیق میں کوشش
 کرنا۔
 الشئ: نشان۔ ج انبات۔
 النبت: شریہ۔ کہا جاتا ہے "هو حيث
 نبت"
 النبئة: کنوئیں وغیرہ سے نکالی ہوئی مٹی۔
 بھیرج نسانت۔ کہا جاتا ہے "ظھرت نسانتھم
 ولم تحف حبانثھم" ان کے بھید ظاہر
 ہو گئے اور ان کی خیانتیں پوشیدہ نہیں رہیں۔
 نبئة السبع: ضرورت کے وقت کے لیے
 چھپایا ہوا گوشت۔
 النبوتة: کوڑی چھول۔ بچوں کا ایک کھیل
 کہ مٹی کے نیچے کسی چیز کو چھپادیتے ہیں جو نکال
 لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔
 نہج (ض) نہجا: سخت آواز و درشت کلام

ہونا۔ صفت نہج۔
 نہجت (ن) نہجا القبحہ: چکور کا باہر
 نکلتا۔
 انج: کلام میں گڈمڈ کرنا۔ بلند ٹیلوں پر
 بیٹھنا۔
 اننجج و تننجج العظم: سوجنا۔
 النبجة: ٹیلہ نہج۔
 النجاج: جھوٹا۔ کلب نہج و نہجی:
 بھونکنے والا کتا۔
 النجاج: ناکارہ آدمی۔ گوز۔ نہج الکلب
 کتے کی آواز۔
 النجاجة: کجاج کا مؤنث۔ چوڑا۔ در۔
 النجاج: بلند ٹیلے۔
 النجاج: دھمکی و وعید۔ ج نہج۔
 المنجج: جھوٹے وعدے کرنے والا۔
 النجج: کالے تھیلے۔
 الانج: آم۔
 النجج: کتے کی آواز۔
 نہج (ض) نہجا و نبوحا و نبیحا و
 نہجا و نہجا و نہجا و نہجا الکلب: کتے کا
 بھونکنا۔ صفت نابع ج نوابح و نہج و
 نبوح۔ کہا جاتا ہے "نبحہ الکلب و نہج
 علیہ" اس پر کتا بھونکا۔ نہج کتے کی آواز کے
 لیے ہے مگر مجازاً ہرن اور بکرے وغیرہ کے
 لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ و نہج الشاعر:
 کہا جاتا ہے "نحسبى كلابك" تمہاری
 گالیاں مجھے پھینچیں۔
 نہج (ف) نہجا الھذھد: زیادہ عمر ہونے
 کی وجہ سے موٹی آواز والا ہونا۔
 نابحة منابحة الکلب: کتے کا کسی پر
 بھونکنا۔
 انبحہ و استنبحہ: بھونکنا۔ کہا جاتا ہے
 "استنبح الاضیاف کلبھم" مہمانوں نے
 ان کے کتوں کو بھونکایا۔ عادت تھی کہ جب
 مسافرات کوراہتے میں بھنگ جایا کرتا تھا تو
 کتے کی طرح آواز نکالتا تاکہ آبادی کے کتے

بھونکنے لگیں اور ان کی آواز سے اس کوراہتہ کا
 پتہ لگ جائے۔ اور اسی وجہ سے رات کے آنے
 والے کو مستنبح کہتے تھے۔
 النبوح: مس۔ قوم کا شور اور ان کے کتوں کی
 آوازیں۔ اور یہ نہج کی جمع ہے۔
 النباح: تیز بھونکنے والا۔ چھوٹی سفید سپی
 جس کو ہار میں ڈالا کرتے تھے۔ واحد نباحہ۔
 کلب نباحی: بلند آواز سے بھونکنے والا
 کتا۔ طیبة نہجاء: میانے والی ہرنی۔
 المنبوح: جس کو گالی دی جائے۔
 نہج (ن ض) نبوحا العجین: خمیر اٹھنا۔
 اننج العجان: خمیر اٹھانا الرجل: نرم زمین
 میں تھکتی کرنا۔
 النبخ و النبخ: آبلہ۔ چھالا۔
 النبخة و النبخة: بردی ایک قسم کی گھاس
 جس سے کشتی کی درز کو بند کرتے تھے۔
 گندھک۔
 النبخة و النبخة: کتہ۔
 النباحة: دور کی زمین۔ تکبر سے بولنے والا۔
 ج نوابح۔
 الانبخ: مرد سخت اندام۔ نیالے رنگ والا۔
 بہت مٹی۔
 الارض النبخاء: بلند زمین۔ نرم زمین۔ ج
 نباخی۔
 النباخ و الانبخان من العجین: اٹھا ہوا
 خمیر۔
 نبذ (ض) نبذ الشئ: پھینک دینا۔ الامر:
 بے کار کر دینا العهد: توڑنا۔ کہا جاتا ہے "نبذ
 الی العذو" اس نے عہد کو دشمن کی طرف
 ڈال دیا۔
 نبذ و نبذ السیذ: نبیذ بنانا العنب او
 التمر: نبیذ بنانا۔ و نبذ الشئ: ڈال دینا۔
 پھینک دینا۔
 نبذ (ض) نبذ و نبذانا عرفہ: رگ کا
 حرکت کرنا (نبض میں ایک لغت ہے)
 نابذہ منابذہ و نباذا: دشمنی کی وجہ سے
 جدا ہونا الحرب: اعلان جنگ کرنا۔

حوکت کرنا۔ جلدی کرنا۔

انبس۔ جلدی کرنا۔ ذلت سے خاموش رہنا۔
انبس۔ بولنے والے۔ اپنی ضروریات میں
جلدی کرنے والے۔

رجل انیس الوجہ: ترش رومرو۔ مؤنث
نساء نبس۔

نبس (ن) نبسا۔ الشی المستور: ظاہر
کرنا الكنز من الأرض: کھود کر نکالنا اور
اسی سے ہے "نبس القبر" الحدیث: نکالنا
السر: پھیلانا عن الأسرار: ہجیدوں کو نکال
لینا۔ نبس لعیالہ: کمانی کرنا۔

انبس الشی من الأرض: کھود کر نکالنا۔
البس: ایک درخت ہے جس کے پتے صنوبر
کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اور اس کی کٹڑی
سرخ رنگ کی بہت سخت ہوتی ہے۔

البیسة: زمین یا کونواں کھدا ہوا۔

الباس: اسم مبالغہ۔ کفن چور۔

الباشة: کفن چور کا پیشہ۔

الانبوش: جو کھودا جائے۔ الانبوش و
الانبوشة: جڑ سے اکھیڑا ہوا درخت۔ ج
انابیس انابیس العصل ونحوہ: جنگلی
پیاز کی جڑیں۔

نبص (ض) نبصا فی المجلس: بولنا۔
اکثر اس کا استعمال نفی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا
جاتا ہے "ما نبص بکلمة" عیس میں ایک
لغت ہے۔ اور نبس اصفح ہے۔ نبص
الشعر: بال اکھیڑنا۔

نبص (ض) نبصا الطائر: پرندہ کا آہستہ
چھپانا۔

النبص: سبزی کی کوئیل۔

النبصة: نبض کا اسم مرہ۔ کلمہ۔ کہا جاتا ہے
"ما سمعت لہ نبص" میں نے اس سے
ایک کلمہ نہیں سنا۔

نبص (ض) نبصا و نبصانا العرق:
رگ کا حرکت کرنا۔ نبض الانعفاء:
مضطرب ہونا۔ نبض البرق: بجلی کا آہستہ
چمکنا (نبضا) الشعر: بال اکھیڑنا۔

النبیز: ایک قسم کی مکھی یا چیڑی۔ بہت زیادہ
پستہ قدر۔ ج نیار و انبار
النبیز و الانبار: غلہ و سامان رکھنے کی
کوٹھری۔ ج انبار و انابیز و انبارات۔
النبرة: نبر کا اسم مرہ۔ اوپر کے ہونٹ کا
درمیانی گڑھا۔ جس کا درم۔ پست آواز کے بعد
بلند آواز۔ گھبراہٹ کی چیخ۔ چیز کا بلند حصہ۔

النبرة: بڑا القم۔ ج نبر
النبیر: بئیر۔ تم کہتے ہو "اکلمنا النبیر" ہم
نے بئیر کھایا۔

النبیر: مردانا۔

النبور: چوڑ۔ در۔

النبار: چلانے والا۔ فصیح۔ کہا جاتا ہے
"رجل نباز بالکلام" یعنی مرد فصیح۔

المنبر: بلند جگہ۔ جہاں سے واعظ یا خطیب
لوگوں کو خطاب کرتا ہے۔ بلند ہونے کی وجہ
سے منبر کہا جاتا ہے اور آگ کی تشبیہ کی بنا پر میم
کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ ج منابر۔

قصاد منبر و منبور: ایسے قصائد جن
کا قافیہ ہمزہ ہو۔

النبویج: حقہ کی تالی۔ (فارسی لفظ)

النبراس: چراغ۔ النبراس: نیزے کا
بھالا۔ بہادر دلیر۔ شیر۔ ج نبرائس
النبرائس: قریب قریب کونیں۔

النبویس: ہوشیار ماہر۔

النحوش: آدھ بھونا ہوا۔ (فارسی لفظ)

نیزہ (ض) نیزا و نیزہ: عیب لگانا
بگڑا۔ برالقب دینا۔

تنبزوا باللقاب: ایک دوسرے کو شرم
دلانا۔ ایک دوسرے کو برالقب دینا۔

النبز: برالقب۔ ج انبار۔

النبز: حسب اور عادات میں مکینہ۔

النبرة: لوگوں کو اکثر برالقب دینے والا۔

نبس (ض) نبسا و نبسة و نبس
بالمجلس: بولنا۔ اکثر اس کا استعمال نفی کے
ساتھ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "ما نبس
بکلمة" السر: ہجید چھپانا۔ نبس الرجل:
ہجید کرنا۔

ذ فی البیع: بیع منابذہ کرنا۔ اور اس کی
صورت یہ ہوتی تھی کہ مشتری سامان پر کٹگری
پھینکا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جس پر لگ جائے وہ
اسنے میں میری ہے اس کو بیع منابذہ بیع القاء
الخر اور بیع الحصة کہتے تھے۔
تنبذوا: باہم اختلاف کرنا۔ دشمنی سے علیحدہ
ہونا۔

انتبذ النبذ: نبذ بنانا العنب او التمر: نبذ
بنانا عن القوم: قوم سے جدا ہونا فلان: گوشہ
نشین ہونا۔ کہا جاتا ہے "انتبذ الی ناحیة و
انتبذ مکانا" اس نے گوشہ بعید میں اپنے
لیے جگہ بنالی۔

النبذ: س۔ تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے
"ذہب ماله و بقی نبذ منه" اس کا مال
برباد ہو گیا اور تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ ج انبذ
انبذ الناس اوباش لوگ۔

النبذة و النبذة: گوشہ۔ کہا جاتا ہے "جلس
نبذة" وہ ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ اور کبھی چیز
کے ٹکڑے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ج نبذ
النبذ: پھینکا ہوا۔ مؤنث نبذة۔ انگور یا کھجور
کی ٹھوڑی ہوتی شراب۔ شراب۔ ج انبذة
النباذ: نبذینچنے والا۔

المنبوذ: س۔ حرامی بچہ۔ بچہ جس کو اس کی
ماں نے راستہ میں پھینک دیا ہو۔ آج کل کی
زبان میں اچھوت کیلئے مستعمل ہے۔

المنبذة: تکیہ۔ ج منابذ۔
نبر (ض) نبرا: الغلام: بڑھنا المعنی:
گوئیے کا آواز کو پست کے بعد بلند کرنا الرجل:
ڈاٹھا ڈ بلسانہ: غیبت کرنا الحرف: ہمزہ
لگانا الشی: بلند کرنا۔

الرمح عنہ: جلدی سے اٹھانا۔

انبر الانبار: کٹھنیا بنانا۔

انبر الحرج: زخم کا سوجنا الخطیب:
خطیب کا منبر پر چڑھنا الحسد: جسم کا سوجنا
انبرت یذہ: ہاتھ میں آلبہ ہونا۔

النبیر: س۔ بے شرم اور کہا جاتا ہے "طعن
طعنا نبیرا" اس نے جلدی سے نیزہ مارا۔

نبح (ن) نَبُوضًا. الماءُ: پانی بہنایا گہرائی میں جانا۔

نَبْضٌ فِي الْقَوْسِ وَ انْبِضُ الْقَوْسِ وَ عَنِ الْقَوْسِ وَ فِي الْقَوْسِ: آواز نکلنے کیلئے تانت کھینچنا انْبِضُ الْوَتْرُ وَ بِالْوَتْرِ: آواز نکلنے کے لیے کھینچنا۔

النَّبْضُ: دل اور شریان کی حرکت جس سے صحت اور مرض کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ج. انْبِاضُ وَ النَّبْضَةُ: ایک ضرب نبض کی۔ فُؤَادٌ نَبْضٌ وَ نَبْضٌ وَ نَبْضٌ: تیز دل۔

النَّبِاضُ: فاء تیر انداز۔ پٹھا۔ کہا جاتا ہے "نَبْضٌ نَابِضَةٌ" اس کا غصہ بھڑکا۔

الْمَنْبِضُ: نبض دیکھنے کی جگہ۔ ج. مَنَابِضُ. الْمَنْبِضُ: دھینے کی کمان۔ ج. مَنَابِضُ.

نَبَطٌ (ض) نَبَطٌ وَ نَبُوطٌ الْمَاءُ: زمین یا چشمہ سے اُبلنا۔ نَبَطٌ (ض) نَبَطٌ وَ نَبَطٌ وَ انْبَطَ وَ تَنَبَطَ وَ اسْتَنَبَطَ: کونسیں سے پانی نکالنا۔ نَبَطٌ وَ انْبَطَ وَ اسْتَنَبَطَ: الشَّيْءُ: پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا۔ انْبَطَ الْحَكْمُ: اجتہاد سے نکالنا۔ انْبَطَ فِيهِ: اثر کرنا۔ اسْتَنَبَطَ: ایجاد کرنا۔ وَ اسْتَنَبَطَ مِنْ فُلَانٍ خَيْرًا: نکالنا۔ اسْتَنَبَطَ الْفَقِيهَ: فقہ کا اپنی سمجھ سے قرآن و حدیث کے باطنی معنی کو نکالنا۔ اور کہا جاتا ہے "اسْتَنَبَطَ وَ انْبَطَ رَايَا حَسَنًا" او معنی صابیا، اچھی رائے یا درست معنی ظاہر کرنا۔ وَ اسْتَنَبَطَ الْعَرَبُ: بطنی ہونا۔

تَنَبَطٌ: بطنیوں کے مشابہ ہونا یا بطنیوں کی طرف منسوب ہونا۔

انْبَطَ الْكَلَامُ: اجتہاد سے نکالنا۔

النَّبَطُ: کونسیں کا پہلا پانی۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ قَرِيبُ الشَّرَى بَعِيدُ النَّبَطِ" جبکہ وعدہ کرے اور وفانہ کرے۔ ج. انْبَاطٌ وَ نَبُوطٌ: مرد کی اندرونی حالت۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يَذْرَأُ نَبَطَهُ" فلاں کی اندرونی حالت اور اس کے علم کی گہرائی نہیں معلوم کی جا سکتی۔ گھوڑے کی بغل اور پیٹ کی سپیدی۔

النَّبَطُ: ایک عجیبی قوم جو عراقین کے درمیان آباد رہتی تھی۔ پھر اس لفظ کا استعمال عوام الناس کیلئے ہونے لگا اور اسی سے ہے جو کہا جاتا ہے کَلِمَةٌ نَبَطِيَّةٌ یعنی عام کلمہ۔ واحد نَبَطِيٌّ وَ نَبَاطِيٌّ وَ نَبَاذٌ: ج. انْبَاطٌ وَ نَبِطٌ.

النَّبِطَةُ: کونسیں کا پہلا پانی۔ گھوڑے کی بغل اور پیٹ کی سپیدی۔

الْاَنْبِطُ مِنَ الْحَبْلِ: بغل اور پیٹ کی سپیدی والا گھوڑا۔ مَوْتٌ نَبَطَاءُ ج. نَبَطٌ.

نَبَعٌ (ن) وَ نَبَعٌ (س) وَ نَبَعٌ (ك) نَبَعًا وَ نَبُوعًا وَ نَبَعَانَا الْمَاءُ: چشمہ سے نکلتا۔ تَنْبَعُ الْمَاءِ: تھوڑا تھوڑا نکلتا۔

النَّبْعُ: سر۔ ایک درخت جس سے تیر و کمان بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "فَرَعُوا النَّبْعَ بِالنَّبْعِ" وہ لوگ باہم ملے اور آپس میں نیزہ بازی کی "وَمَا رَأَيْتُ اصْلَبَ مِنْهُ نَبْعًا" میں نے اس سے زیادہ کسی کو سخت نہیں دیکھا عند المولدين: پانی کا چشمہ اور عرب کے امثال سے ہے "لَوْ افْتَدَحَ بِالنَّبْعِ لَأَوْرَى نَارًا"

اگر درخت نبج کی لکڑی سے آگ نکالے تو بھڑکا دے یہ مثال جودت رائے کیلئے بیان کی جاتی ہے اسلئے کہ درخت نبج کی لکڑی آگ نہیں پکرتی۔

النَّبْعَةُ: النبع کا واحد۔ کمان پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ نَبْعَةٍ كَرِيمَةٍ" وہ شریف خاندان سے ہے۔ النَّبَاعُ: وہ قلم جس میں سیاہی موجود ہو۔

النَّبَاعَةُ: النابع کا مؤنث۔ ج. نَوَابِعُ. نَوَابِعُ الْبَعِيرِ: اونٹ کے پسینہ والے اعضاء۔ النَّبِيعُ: پسینہ۔

النَّبَاعَةُ: دُبر۔ بچے کی چند یا جب تک کہ نرم ہو اور جب سخت ہو جائے تو اس کو یافوخ کہتے ہیں۔

النَّبِيعَةُ: درخت نبج کی بی ہوئی کمان۔ الْمَنْبِيعُ: چشمہ۔ ج. مَنَابِعُ. الْيَنْبُوعُ: چشمہ۔ بہت پانی والا نالہ۔ ج. يَنْبَاعِيٌّ. کہا جاتا ہے "فَجَعَلَ اللَّهُ يَنْبَاعِيَّ الْحَكْمَةَ"

علی لسانہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیئے۔

نَبَعٌ (ف) نَبَعًا وَ نَبُوعًا الشَّيْءُ: نکلتا اور ظاہر ہونا الْمَاءُ: پانی کا چشمہ سے نکلتا الْوِعَاءُ بِالذَّقِيقِ: چھٹنا الشَّرُّ: پھیلنا ظاہر ہونا رَامَهُ: سر میں بھوسی ہونا الرَّجُلُ: عمدہ اشعار کہنا فِي الْعِلْمِ وَ غَيْرِهِ: فائق ہونا فِي الدُّنْيَا: آسودہ زندگی والا ہونا اور کہا جاتا ہے "نَبِغَ فِيهِمُ النَّفَاقُ" ان کے اندر نفاق ظاہر ہو گیا بعد اس کے کہ وہ چھپاتے تھے۔

النَّبِغُ الْبَلَدُ: شہر میں بہت آنا جانا الْاِنْحَالُ: آنا چھٹانا۔ النَّبِغُ وَ النَّبَاغُ: چمکی کا غبار۔ نَبِغَةُ الْقَوْمِ: قوم کے بہترین لوگ۔ النَّبَاغَةُ: ج. نَوَابِغُ. نَبِغٌ: مرد عظیم الشان النَّوَابِغُ: آٹھ فصیح و بلیغ شاعروں کا لقب۔ اور نسبت کے لیے النَّبَاغِيُّ. النَّوَابِغُ: مادہ لوزیوں۔ النَّبَاغَةُ: کلمہ فصیحہ۔ النَّبِيعُ: مرد عظیم الشان۔ ج. نَبِيعَاءُ. النَّبَاغُ وَ النَّبَاغُ وَ النَّبَاغَةُ وَ النَّبَاغَةُ: آٹا۔ سر کی بھوسی۔ مَحْتَجَةٌ نَبَاغَةً: گرد و غبار والا راستہ۔

نَبِيقٌ (ن) نَبِيقًا الشَّيْءُ: نکلتا اور ظاہر ہونا۔ الرَّجُلُ: لکھنا۔ نَبِيقُ الشَّيْءِ: نکلتا اور ظاہر ہونا الرَّجُلُ: لکھنا الْكِتَابُ: ترتیب سے لکھنا الشَّجَرُ: ترتیب سے پودے لگانا النَّخْلُ: خراب ہونا اور کھجوروں کا بیری کے مانند چھوٹا ہونا۔ نَبِيقٌ وَ نَبِيقٌ وَ انْبِيقٌ: وادی میں ایک قطار میں پودا لگانا۔ انْتَبِقَ الْكَلَامُ: نکلوانا۔ النَّبِيقُ: س۔ بیٹھا آنا جو درخت خرما کے تیرے سے بنایا جاتا ہے۔ النَّبِيقُ وَ النَّبِيقُ وَ النَّبِيقُ: بیری واحد۔ نَبِيقَةٌ: النَبِيقَةُ: انگور کے خوشے نکلنے کی جگہ میں گرہ

جبکہ بڑی ہو جائے۔ ج نَبَاق۔

نَبَك (ن) نُبُوکَا وَاَنْتَبَك الْمَكَانُ بَلَدٌ ہوتا۔

النَّبَاکُ بَلَدٌ جَدُّ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ نَابِکٌ وَاَرْضٌ نَابِکَةٌ" ج نَوَابِک۔

النَّبِکَةُ وَالنَّبِکَةُ نُوکٌ دَارٌ ثَلِیْہُ یَاچھوٹا نیل۔
ج نَبِکٌ و نَبِکٌ و نَبِکٌ و نَبِکٌ۔ النَّبِکَةُ
درخت کی جڑ۔

نَبَل (ن) نَبَلَا الرَّجُلُ تَیْرًا مَارًا یَا تَیْرًا دَیْنَا
نَبَلٌ بِالسَّهْمِ تَیْرًا مَارًا هُ بِالطَّعَامِ تَھوڑا
تھوڑا دے کر مشغول رکھنا الرَّجُلُ تَیْرًا چلنا
الْاِبِلُ اَوْتٌ کُو تَیْرًا بَاکِنًا۔ نَجَابَتٌ و شَرَاَفَتٌ
میں غالب ہونا بہ: نَزَمَ بَرْتَا عَلَی الْقَوْمِ تَیْرًا
اندازی کے لیے چن چن کر دینا۔

نَبَل (ک) نَبَالَةٌ نَجِیْبٌ و شَرِیْفٌ ہوتا۔
صِفَتٌ نَبَلٌ و نَبِیْلٌ۔ مَوْنَتٌ نَبَلَةٌ و نَبِیْلَةٌ ج
نَبَالٌ و نَبَائِلٌ و نَبَالَاتٌ و نَبِیْلَاتٌ۔ نَبَلٌ
عَنْ کَذَا: بَرَا ہوتا۔

نَبَل الرَّجُلُ تَیْرًا دَیْنَا۔ اسٹیج کے ذھیچہ دینا۔
اَنْبَلَهُ تَیْرًا دَیْنَا۔ اَنْبَلُ الْقِدَاحِ: مَوْنَتٌ بَدَنًا
تَیْرًا بِنَاثَا النَّحْلِ: دَرَخْتُ خَرَامًا مِیْنِ کَیْ کَھجوریں
ہوتا۔

نَابِلَةٌ مُنَابِلَةٌ۔ نَجَابَتٌ و شَرَاَفَتٌ مِیْنِ مَقَابِلِہ
کرنا۔

نَبَلٌ ذِکْرٌ ہوتا۔ نَجِیْبٌ و شَرِیْفٌ ہوتا۔ اذکیا و
شرفاء کے مشابہ بنا۔ مَرْنَا الْمَالَ عَمَدَہ عَمَدَہ
چھانٹ لیتا۔ تَنْبَلَتِ الْخَطُوبُ: حَوَاثِہ کَا
بڑا ہوتا۔

تَنْبَلُ الْقَوْمُ: شَرَاَفَتٌ یَا تَیْرًا مَارًا مِیْنِ مَقَابِلِہ
کرنا۔

اَنْتَبَلُ مَرْنَاوَرٌ بَدُو دَارٌ ہونا فَلَانًا: قَتْلُ کَرْنَا
الْخَطْبُ: حَادِثٌ کَا بَرَا ہونا لِلْاَمْرِ: خَبْر دَار اور
مستعد ہونا الشَّیْءُ: بَکَاہُ اور جلدی اُفْہَاہَا۔

اِسْتَنْبَلُ الْمَالَ: عَمَدَہ لَیْمَا الرَّجُلُ تَیْرًا طَلَبُ
کرنا۔

النَّبَلُ مَص۔ تَیْر۔ وَاَحَدُ نَبَلَةٍ ج نَبَالٌ و
اَنْبَالٌ و نَبَالَانٌ۔ نَبَلٌ الدَّھْرُ: حَوَاثِہ زَمَان۔

النَّبَلُ ذِکَاوَت۔ نَجَابَت۔ شَرَاَفَت۔

فَضِیْلَت۔ کَمَالِ جَسْم۔ کہا جاتا ہے "اَخَذَ لِلْاَمْرِ
نَبْلَةً" اس نے کام کے پورا کرنے کا سامان لے

لیا۔
النَّبَلُ وَالنَّبِیْلُ بَرَّے بَرَّے یَاچھوٹے چھوٹے
پتھر۔ وَاَحَدُ نَبْلَةٍ و نَبْلَةٌ۔
رَجُلٌ نَبَلٌ۔ مَرَدٌ شَرِیْفٌ۔ مَوْنَتٌ نَبْلَةٌ۔

النَّبْلَةُ عَطِیْد۔ ثَوَابٌ اور بَدَل۔ چھوٹا لقمہ و
نَبْلَةٌ کُلُّ شَیْءٍ عَمَدَہ چِیْر۔ ج نَبِیْلَات۔
النَّبَالَةُ م۔ ذِکَاوَت۔ نَجَابَت و شَرَاَفَت و
فَضِیْلَت۔

النَّبَالَةُ تَیْرًا سَازِی کَا پَیْشَر۔
النَّبَالَةُ کَسی چِیْر کے پورا کرنے کا سامان۔ کہا
جاتا ہے "اَخَذَ لِلْاَمْرِ نَبَالَةً" اس نے کام

کے پورا کرنے کا سامان لے لیا۔
النَّبَلُ وَالنَّبِیْلُ شَرَاَفَت وَا۔ فَضِیْلَت وَا
النَّبِیْلُ بَرَّے جَسْم وَا۔ اور کہا جاتا ہے "اِنَّہُ
نَبِیْلٌ الرَّأی" وہ عَمَدَہ رَاے وَا ہے۔ ج
نَبَالٌ۔

النَّبِیْلَةُ نَبِیْلٌ کَا مَوْنَت۔ مَرَدَارٌ ج نَبَائِلُ
النَّبَائِلُ ج نَبَلٌ و نَبِلٌ و النَّبَالُ ج
نَبَالَةٌ: تَیْر وَا۔ تَیْرًا اِنْدَاوَر۔ تَیْرًا سَازِی
میں ماہر کہتے ہیں "اِخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّبَائِلِ"
مثال ہے اس وقت بولتے ہیں جبکہ کوئی معاملہ

گڑبڑ ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ حَامِلٌ سے تَانَا اور
نَابِلٌ سے بَانَا مراد ہے۔
الْاَنْبِلُ اِسْمٌ تَفْصِیْلِ۔ تَیْرًا اِنْدَاوَرِی کَا زَیَادَہ
جاننے والا۔

النَّبَالُ وَالنَّبِیْلَةُ دِکھئے تَمِیْلِ۔
نَبِہ (س) نَبِہَا لِلْاَمْرِ: سَیْجَہ جَانَا۔
نَبِہ (س) نَبِہَا مِّنْ نُّوْمِہ: نَیْنِدَہ سے بَیْدَار
ہوتا۔

نَبِہ (ن) و نَبِہ (س) و نَبِہ (ک) نَبَاہَةٌ
شَرِیْفٌ ہوتا۔ مَشْہُورٌ ہوتا۔ صِفَتٌ نَابِہٌ و نَبِہٌ و
نَبِہٌ و نَبِیْہٌ۔

نَبِہَا مِّنْ نُّوْمِہ: نَیْنِدَہ سے بَیْدَار کرنا ہ
او اِلَی الْاَمْرِ: وَاَقْفٌ کرنا۔ جَلَانًا نَبِہٌ

بِاسْمِہ مَشْہُورٌ کرنا۔ گَمَامِ سے نکالنا۔

اَنْبِہ الْحَاجَّةُ: مَہْلُوہَا۔ ہ مِّنْ النُّوْمِ: بَیْدَار
کرنا۔

نَبِہَا مِّنْ نُّوْمِہ: نَیْنِدَہ سے بَیْدَار ہونا عَلَی او
لِلْاَمْرِ: وَاَقْفٌ ہونا۔ سَیْجَہ جَانَا۔

اِسْتَنْبِہَا مِّنْ نُّوْمِہ: نَیْنِدَہ سے بَیْدَار ہونا۔
النَّبِہَا سَیْجَہ۔

النَّبِہَا مَص۔ کَھوئی ہوئی چِیْر جو بَغِیْر تَلَاَش و
جَبُو کے مَل جَاے۔ کہا جاتا ہے "وَجَدْتُ
الصَّالَةَ نَبِہَا" میں نے غَم شَدَہ چِیْر کو بَغِیْر
تَلَاَش کے پَالِیَا۔ مَشْہُور۔ شَیْءٌ مَوْجُود۔

النَّبَاہَةُ شَرَاَفَت۔ سَیْجَہ۔ شَہْرَت۔
النَّبَاہَةُ وَالنَّبِہَا وَالنَّبِہَا شَرِیْف۔

سَیْجَہ دَار۔ شَہْرَت وَا۔ ج نَبِہَاہَا اَمْرٌ نَابِہٌ بَرَا
کَام۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ نَبِہٌ" مَرَدٌ شَرِیْفٌ و
"قَوْمٌ نَبِہٌ" یعنی شَرَفَاءُ (مَفْرَد اور جَمْع کے لیے
اس لیے کہ مَصْدَر ہے)

النَّبَاہَةُ او پُرُو کَھلَا ہوا بَلَد۔
النَّبِہَاہَةُ سَبَبٌ بَیْدَارِی۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
مَنْبِہَا عَلَی کَذَا" یہ فَلَان چِیْر کو بَتَلَانِے وَا
ہے۔

رَجُلٌ مَنَّوُہُ الْاِسْمِ: مَشْہُورٌ و مَعْرُوف۔
نَبَا یَنْبُو نَبْوَةً و نُبُوًا و نُبِیًا بَصْرًا: نَگَاہ کَا
دَھنْدَلَا ہونا۔ صِفَتٌ نَابِ الشَّیْءِ: دَوْر ہونا اور

پَیْجَہ ہونا (نُبُوًا و نَبْوَةً) السَّیْفُ عَنِ
الصَّرِیْبَةِ تَلَوَار کَا اِچْٹ جَانَا جَنْبِہ عَنِ
الْفَرَاشِ: بے چَیْنِ رَہْنَا السَّهْمُ عَنِ
الْهَدَفِ: تَیْر کَا شَانَدَہ سے خَطَا کرنا الطَّبِیعِ عَنِ
الشَّیْءِ: نَفَرْتُ کَرْنَا عَنِ الشَّیْءِ: زَاکِلٌ ہونا بِنِی
فَلَانٌ: طَلَمٌ کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَبِیْتُ بِنِی تَلَمْتُ
الْاَرْضَ" یہ زَمِیْن مجھے مَوَاقِفِ نہیں آئی

الْمَكَانِ بِلَفْلَانِ: نَا مَوَاقِفِ ہونا عَلَیہ الْاَمْرُ
او الصَّاحِبُ: کَھْرَانَد ہونا۔ صَاف نہ ہونا۔
نَبِیْتُ صُوْرَةً فَلَانٌ: بَدِصُوْرَت ہونا۔ یہاں
تَلَمٌ کہ آنکھ دِکھنے سے اَنکَا کرے۔

اَنْبِی السَّیْفِ: تَلَوَار کو کَنَد کرنا۔
النَّبْوَةُ م۔ نَبْوَةُ الزَّمَانِ: مَانَدَہ کی نَخْتِ

(و النباوة) بلند زمین۔

النبي والنباوة: پیغامبر و پیغامبری۔

(دیکھئے مادہ نبا) والنبي من الأرض: بلند زمین۔

النبانة۔ شرافت و ریاست کی طلب۔ پیش قدمی۔

النبو۔ بلندی اور تقار۔

النابی چونکہ والی تلوار یا تیر۔ مونا۔ لڑائی میں پشت پھیرنے والا۔

النابیه۔ التالی کا مؤنث۔ کمان۔

نَتَتْ (ض) نَتَيْتَا الْقَدْرَ: ہانڈی کا بلنا۔

نَتَتْ (ن) نَتَا وَ نَتَيْتَا مِنْخَرَةً: غصے سے تھکے پھلانا۔

نَتَتْ الْخَبْرَ: بیان کرنا۔

تَتَتْ الرَّجُلَ: صفائی کے بعد گندہ ہونا۔

النَّتَةُ: چھٹا سا گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔

نَتَا (ف) نَتَا وَ نَتَوَا: الشَّيْءُ: بغیر جدائی کے اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ بلند ہونا۔ چولنا

الْقَرْحَةُ: زخم کا سوجنا الفُدَى: پستان ابھرنا الجارية: بالغ ہونا علی القوم: ظاہر ہونا۔

إِنْتَأَتَا الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

الناتئ۔ ف۔ ہر بلند چیز جیسے مکان وغیرہ۔ اور اس میں تخفیف ہمزہ بھی جائز ہے تم کہو گے

ناتئ جیسے قاری A و قاری۔

النَّوَاءُ: س (و الناة) ٹیلہ۔

نَتَبَ (ن) نَتَوْنَا الشَّيْءَ: بمعنی نَتَا۔

نَتَجَ (ض) نَتَجْنَا الْمَاحِضَ مِنَ الْهَيْمَةِ: بچے جننے میں خبر گیری کرنا۔ صفت ناتج۔

بہیمہ کو متوجہ اور بچے کو نتیجہ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "نَتَجَهَا وَ لَدَا" اس نے بچے

جوایا۔ و نَتَجَ الرَّجُلُ الْحَامِلَ: حاملہ عورت نے مرد کے پاس بچے دیا۔ نَتَجَ الشَّيْءُ

مِنَ الشَّيْءِ: نتیجہ نکالنا۔

نَتَجَتْ وَ نَتَجَتْ نَتَاجًا وَ اِنْتَجَتْ الْبَهِيمَةُ وَ لَدَا: جننا وَ نَتَجَ الْوَلَدُ: جنا جانا

اور کہا جاتا ہے "نَتَجَتْ الرِّيحُ السَّحَابَ" بارش برسانا۔ نَتَجَ الْقَوْمُ: بچے والی مویشی کا

مالک ہونا۔

نَتَجَ: بمعنی نَتَجَ تشدید تکثیر کے لیے ہے۔

اِنْتَجَ الْقَوْمُ: حاملہ اونٹنی اور بکریوں کا مالک ہونا۔ جننے والی اونٹنی اور بکریوں کا مالک ہونا۔

اِنْتَجَتْ الْبَهِيمَةُ: جننے کے قریب ہونا۔ صفت نَتَجَ اور مُنْتَجَ نہیں کہا جاتا۔ اِنْتَجَ الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: نتیجہ نکالنا۔

اِنْتَجَتْ الرِّيحُ السَّحَابَ: بارش برسانا۔ تَنَتَجَتْ الْبَهِيمَةُ: ولادت کے وقت بچے و

تاب کھانا۔ اِنْتَجَتْ وَ تَنَتَجَتْ الْاِبِلُ: بچے جننا و اِنْتَجَتْ النَّاقَةَ: غیر معروف جگہ

میں بچے دینا۔ اِسْتَنَجَ: بچے جوانا۔ نتیجہ نکالنا۔ اِنْتَجَ: جانوروں کے بچے جننے کی حالت اور

نَتَجَ: جانوروں کے بچے جننے کی حالت اور کہا جاتا ہے "بِالنَّاقَةِ نَتَاجٌ" یعنی اونٹنی کو

حمل ہے۔

النَّيْجَةُ: بچے۔ نتیجہ۔ ج نَتَاجِ: اور کہا جاتا ہے "عَنَّمُ فَلَانٍ نَتَاجٌ" فلاں کی بکریاں ایک

عمر کی ہیں۔

النَّاتِجُ: ف۔ لِلْبَهَائِمِ: جانے والا۔

النُّوَجُ: حاملہ چوپایہ۔

المُنْتَجُ: بچے جننے کا وقت۔

المُنْتَجَةُ: ویر۔

نَتَحَ (ن ض) نَتَجَا وَ نَتَوْنَا الْعُرْفَ: پسینہ نکالنا اللدسم من الاناء: چکانی کا برتن

نے رسا۔ نَتَحَهُ الْحَرُّ: پسینہ لانا۔

اِنْتَجَ الشَّيْءُ: اُكْهِرْنَا۔

النَّتْحُ: س۔ پسینہ۔

النُّوْحُ: س۔ درخت کا گوند۔

زَقَّ نَتَاجٌ: ٹپکنے والی مٹک۔ المُنْتَجُ: جسم سے پسینہ نکلنے کی جگہ۔ ج نَتَاجِ: ج۔

المُنْتَجَةُ: ویر۔

نَتَجَ (ض) نَتَجْنَا الشَّيْءَ: اُكْهِرْنَا۔ کہا جاتا ہے "نَتَجَ الْقَلَاعُ الصَّرْسُ" دانت

اُكْهِرْنَا نے والے نے دائرہ اُكْهِرْنَا و نَتَجْتَهُ الْمَنِيَّةُ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ" موت نے اس کو قوم

کے درمیان سے لے لیا۔ نَتَجَ الْبَارِزِيُّ اللَّحْمَ: باز کا چنگل سے چھینا مارنا۔ اللہ

بِصْرَهُ: دیکھنا الشَّوْكَةُ بِالذَّهَبِ: سونے سے بنا فلانا: اہانت کرنا (نَسِيحًا وَ نَسِخًا) بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا نَسَخَ عَلَيَّ مِلَّةً كَذَا: ثابت قدم رہنا۔

المِنْتَاحُ: موجد۔ تم کہتے ہو "نَتَخْتُ الشَّوْكَةَ مِنْ رَجُلِي بِالْمِنْتَاحِ" میں نے کانٹے کو اپنے پیر سے موجد سے نکال لیا۔

نَتَرُ (ن) نَتَرْنَا الشَّيْءَ: سختی سے کھینچنا۔ اِچْكَ لِيْنَا الْقَوْسُ: کمان کھینچنا الثَّوْبُ بِالْاَصْبَاعِ: او الاضراس: کپڑے کو پھاڑنا۔ مَلَكْرَے

بِالرُّمُحِ: سخت نیزہ مارنا۔ نَتَرُ (س) نَتَرْنَا الشَّيْءَ: فاسد ہونا۔ ضَاخٌ

ہونا۔ اِنْتَرُ: کھینچنا۔ کہا جاتا ہے "نَتَرَهُ فَانْتَرُ" اس نے اسے سختی سے کھینچا وہ کھنچ گیا انتر فہی

مَشِيئَةً: چلتے ہوئے ٹیک لگانا۔ اِنْتَرُ: س۔ کام میں کمزوری و سستی۔ سختی۔ سختی۔

کہا جاتا ہے "قَابَلْتُهُ نَتْرًا" میں نے اس کا سختی سے مقابلہ کیا "وَ اطْعَمُوا النَّتْرَ" زور سے نیزہ

مارو۔

النَّتْرَةُ: نتر کا اسم مرثہ۔ پار ہو جانے والی ضرب نیزہ۔ ج نَتْرَاتُ۔

النَّتْرَةُ: تانت ٹوٹی ہوئی کمان۔ ج نواتر کہا جاتا ہے كَلِمَتُهُ مُنَاتْرَةٌ میں نے اس سے بلند آواز سے گفتگو کی۔

نَتَشَ (ض) نَتَشْنَا الشَّوْكَةَ وَ نَحَوْنَا: نکان الشعر: بال اُكْهِرْنَا اللَّحْمَ وَ نَحَوْنَا: گوشت وغیرہ کو دانت سے نوچنا الْجَرَادُ

الْاَرْضُ: زمین کی سبزی کھا جانا الرَّجُلُ لِعِيَالِهِ: کمانی کرناهُ بِالْعَصَا: لاٹھی مارنا

الْحَجَرُ بِرَجْلِهِ: پتھر کو پاؤں سے ہٹا دینا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا نَتَشْتُ مِنْ فَلَانٍ شَيْئًا" میں نے فلاں سے کچھ نہیں حاصل کیا اور کچھ

نہیں لیا۔

نَتَشَ (ض) نَتَشْنَا وَ تَنَتَشْنَا الرَّجُلَ: پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنا۔

أَنْتَشُ النَّبَاتِ: نباتات کا زمین سے ظاہر ہونا (قبل اس کے کہ پہچانی جاسکے کہ کیا ہے)

النَّشْشُ: ابتدائی روئیدگی۔ ناخن کی جڑ کی سفیدی۔

الْمِنْشَاشُ: موچنا۔

تَنْاتِيشُ الذَّنِينِ: قرض کا ہٹایا۔

نَتَضُ (ن) نَتَوَضَا الْجِلْدُ: داد وغیرہ جیسے مرض سے چھلکے والا ہونا۔ کہا جاتا ہے انْتَضَبَ الْمِسُّ السَّبِينُ۔

نَتَعَ (ن ض) نَتَوَعَا الدَّمُ مِنَ الْجُرْحِ: او الْمَاءُ مِنَ الْعَيْنِ: خون کا زخم سے یا پانی کا چشمہ سے ٹھوڑا ٹھوڑا ٹکنا۔ صفت فاتح

أَنْتَعَ الرَّجُلُ: سخت پسینہ آنالقی: بہت تے ہونا۔

نَتَعَ (ن ض) نَتَعَا الرَّجُلُ: عیب لگانا۔ غیبت کرنا۔ تہمت رکھنا۔

أَنْتَعَ لَمْسِي الْأَثَاةِ: غیبت کرنا۔

الْمَنْتَعُ: وہ شخص جس کی عادت لوگوں کی غیبت کرنے کی ہو۔

نَتَفَ (ض) نَتَفَا وَنَتَفَ وَانْتَفَ الشَّعْرُ: او الرَّيْشُ وَنَحْوَهُ: بال یا پر ٹوچنا۔ اکھیڑنا نَتَفَ فِي الْقَوْمِ: آہستہ کھینچنا۔

أَنْتَفَ الْكَلْبُ: اکھیڑے جانے کے قابل ہونا۔

انْتَفَ وَنَتَفَ وَتَنَتَفَ الشَّعْرُ: او الرَّيْشُ: بال یا پر اکھیڑا جانا۔

النَّتْفَةُ: گھاس وغیرہ جو اگھلیوں سے اکھیڑی جائے۔ اور کہا جاتا ہے "أَعْطَاةُ نَتْفَةٍ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ" یعنی اس نے اسے ٹھوڑا سا

کھا دیا۔ اور ایسا ہی "أَفَادَةُ نَتْفَةٍ مِنَ عِلْمٍ" اس نے اسے ٹھوڑا سا علم سکھایا۔ نَتَفَ

النَّتْفَةُ: وہ شخص جو علم وغیرہ کو پوری طرح سے حاصل نہ کر سکے۔

النَّتَافُ وَالنَّتَافَةُ: جو اکھیڑتے ہوئے گرے۔

النَّتِفُ وَالنَّتِيفُ: اکھیڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے "غُرَابٌ نَتَفٌ الْجَنَاحُ" پر وبال نچا ہوا کوا۔

النَّتَوَفُ: داڑھی کے بال اکھیڑنے کا شاق۔ المنتَفِ: سوچنا۔ چٹی۔

نَتَقَ (ن ض) نَتَقَا الْجِرَابُ: توشہ دان کو جھاڑنا الجِلْدُ: کھال اتارنا الشَّيْءُ: پھاڑنا۔

بَلَانَا: بلند کرنا۔ پھیلانا۔ نَتَقَتِ الْمَرْأَةُ: او النَّاقَةُ: بہت بچوں والی ہونا۔ صفت ناتیق و

مَنَاقٍ: عوام النَّتَقِ والنَّتَاقِ کو تے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے افعال بناتے ہیں۔

نَتَقَ (ن ض) نَتَوَقَا: مونا ہونا۔

نَتَقَتِ (ض) نَتَقَا وَنَتَوَقَا الذَّائِبَةُ: را کبھا و برا کبھا: چوپایہ کا اپنے سوار کو تھکا دینا۔

أَنْتَقَ: توشہ دان جھاڑنا۔ بہت بچوں والی عورت سے نکاح کرنا۔ اپنا گھر غیر کے گھر کے

مقابل بنانا۔

أَنْتَقَ الشَّيْءُ: کھنچ جانا الجِرَابُ: توشہ دان جھاڑا جانا۔

النَّتَاقُ: فا۔ آگ دینے والا چھماق۔ گھوڑا جو اپنے سوار کو تھکا دے۔ ماہ رمضان۔ کہا جاتا ہے

"بَنِي دَارَةَ نَتَاقٌ دَارِيٌّ" اس نے اپنا گھر میرے گھر کے سامنے بنایا۔

نَتَلُ (ض) نَتَلَا الشَّيْءُ: آگے کھینچنا۔ فُلَانًا: دُائِمًا الْجِرَابُ: توشہ دان جھاڑنا یا سب کچھ نکال دینا۔ نَتَلَا وَنَتَلَا وَنَتَلَانًا: من بین

أَصْحَابِهِ: آگے بڑھ جانا۔

انْتَلَلَ: سبقت کرنا۔

تَنَاتَلَّ النَّبْتُ: پیچیدہ ہونا اور بعض کا بعض سے بڑا ہونا۔

انْتَلَلَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ: پیش قدمی کرنا لِلْأَمْرِ: تیاری کرنا الْقَوْمِ عَلَى الْمَاءِ: پانی پر پہلے پہنچ جانا۔

النَّتَلُ وَالنَّتَلُ: شتر مرغ کا اٹا جو پانی بھر کر جاڑے کے زمانہ میں دُور دُور میدانوں میں

زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے تاکہ گرمی کے زمانہ میں جب پانی کی ضرورت پڑے تو کام آئے۔ رَجُلٌ نَتَلٌ: مرد پستہ قد۔ النَّتِيلَةُ: وسیلہ۔

نَتَنُ (ض) وَنَتَنُ (س) نَتَنَا وَنَتَنُ (ك) نَتَانَةٌ وَنَتْنَةٌ وَنَتْنٌ: بدبودار ہونا۔ صفت

نَتْنٌ وَنَتْنٌ وَنَتْنٌ وَنَتْنٌ وَنَتْنٌ: اور نَتْنٌ كِ مَوْشَعَتْنِي جیسے زمین کی زمینی

نَتْنُ الشَّيْءِ: بدبودار کرنا۔ النَّتُونُ: ایک بدبودار درخت۔

الْمَنْتِينُ: بدبودار۔ مَنَمَاتِينُ: کہا جاتا ہے "رَجَالٌ أَوْ أَبَاطُ مَنَاتِينُ" بدبودار لوگ۔ یا بدبودار بغل۔

الْمَنْتَانُ: بدبو کی جگھیں۔ واحد مَنَتْنٌ نَتَانَتَانُ نَتَانَتَانُ الْعَضْوُ: سوچنا۔ صفت نات

أَنْتَى أَنْتَاءُ: پیچھے ہٹنا۔ صورت دیرت میں مشابہ ہونا۔

نَتَتِي عَلَيْهِ: کسی پر چڑھ بیٹھنا۔ اسْتَنْتَى اسْتَنْتَاءَ الدَّمَلُ: پھوڑے کا پکنا اور پھوٹنے کا وقت قریب ہونا۔

نَتَّ (ن ض) نَتَا الْحَبِيرُ: پھیلانا الجِرْحُ: زخم پر تیل لگانا۔

نَتَّ (ض) نَتَا وَنَتَا الرَّقُ: مٹک کا پکنا الرَّجُلُ: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ والا ہونا الْعِظْمُ: بڈی سے گودا بہنا۔

تَنَاتَّ الْقَوْمُ الْأَخْبَارُ: ایک دوسرے کو خبر بتلانا۔

النَّتُّ: مصل۔ نمناک دیوار۔ النَّتَاتُ: زخم پر لگانے کا تیل۔

النَّتِيفَةُ: مٹک سے ٹپکا ہوا۔

النَّتَاتُ وَالْمَنْتُ: بھید یا بات کو بہت پھیلانے والا۔

النَّتَاتُ: غیبت کرنے والے۔ واحد نَتَاتٌ الْمَنْتَةُ: اون کا ٹکڑا جس سے زخم پر تیل لگائیں۔ مَنَاتُ وَمَنْتَاتُ۔

نَتَجَ (ض) نَتَجَا بَطْنَةُ بَالَسَكِينِ: پیٹ پھاڑنا۔

مَا فِي بَطْنِهِ: آنتوں کو خالی کر دینا۔ اسْتَنْجَحَ: احد العدلين: ڈھیلا پڑ جانا۔

النَّتَجُ: بڑول۔ بے برکت۔ المنْتَحَةُ: دبر۔

نَشْرًا (س) نَشْرًا الرَّجُلُ: مَهْرًا الْكَمَاةُ:
سانپ کی چھتری کا گنا۔

نَشْرًا (ن ض) نَشْرًا وَ نَشْرًا الشَّيْءُ: بَكْمِيرًا۔
تڑ میں گفتگو کرنا الدَّرْعُ مِنْهُ: زَرَّةٌ كُوَاتَارِ دِيْنَا
اور کہا جاتا ہے "نَشْرَتِ الْمَرْأَةُ بَطْنَهَا" یعنی
اس کے بچے بہت ہوئے "وَ أَخَذَ فَلَانٌ دِرْعًا
فَنَشَرَهَا عَلَيَّ نَفْسِهِ" فلاں نے زرہ لی اور
اپنے اوپر ڈال لی۔

نَشْرَتٌ (ض) نَشْرًا الدَّابَّةُ: جَمِيكًا اور کہا گیا
ہے کہ تھیر جانوروں کیلئے ہے جیسے عَطَاسُ
آدمیوں کے لئے۔

أَنْشَرْنَا نَاكًا جَهَانًا: نَاكٌ بَلُّ الْغَرَاةِ۔
نَشْرًا الشَّيْءُ: بَكْمِيرًا۔

تَنْشَرُ وَ تَنْشَرُ وَ أَنْشَرَ الشَّيْءُ: كَهْرًا۔ کہا
جاتا ہے "تَنْشَرُ الْقَوْمُ" قوم کے لوگ بیمار
ہوئے اور مرے۔

أَنْشَرُ وَ أَسْتَشِرُ: نَاكٌ فِي مِيْنِ پَانِي ذَالِ كِر
جَهَانًا۔

النَّشْرُ: مِ-ضَدُّ نَطْمٍ۔
النَّشْرَةُ: نَشْرٌ كَا اسْمُ مَرَّةٍ كَلَامٌ نَشْرٌ كَا اِيكٌ كَلَامًا۔

نَشْرًا اور اس کا ارد گرد۔ چھینکا۔ کشادہ زرہ۔
دونوں طرف کی موٹھوں کے درمیان کا
گڑھا۔

النَّشْرُ وَ الْمَنْشَرُ وَ النُّشْرَانُ: بَہْت بولنے
والا۔ بھیدوں کا بہت ظاہر کرنے والا۔

رَجُلٌ نَشْرٌ اَوْ اِمْرَاةٌ نَشْرَةٌ: بَہْت صَاہِبِ
اولاد مرد یا عورت۔

النَّشِيرُ: بَكْمِيرًا ہوا۔ کلام تڑ۔ کہا جاتا ہے
"كَانَ لَفْظُهُ نَشِيرَ الدَّرْوِ الدَّرْوِ النَّشِيرُ" گویا

اس کے الفاظ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
النَّشَارَةُ وَ النَّشَارُ وَ النَّشْرُ: بَكْمِيرًا ہوتی

چھڑیں۔
النَّشَارُ: مِ-سِ شَادِي كِ مَوَاقِعِ پَر جَو بَكْمِيرًا
جائے۔

النَّاشِرُ: فَ- نَشْرٌ بولنے والا یا لکھنے والا۔ نَخْلَةٌ
نَاشِرٌ: کچی کھجوریں گرانے والا درخت۔

الْمَنْشَرُ: مِ-سِ بَہْت وَ نَاكَا رَہِ اَدْمِي۔

الْمِنْشَارُ: کچی کھجوریں گرانے والا درخت۔
الْمَنْشُورُ: مِ-سِ مِ الْكَلَامِ: ضَدُّ مَنْظُومٍ

الْمَنْشُورُ: اِيكٌ تِيْزٌ خَوْشِبُوْا وَ اَلْجَوَلُ دَارِ پُوْرَہِ
- وَ اَصَدُّ مَنْشُورَةٌ

نَشَطَةٌ (ن) نَشَطًا فَلَانًا: يُوْجِئُ كَرِيْنَا۔
الْكَمَاةُ: سَاہِبِ كِي چھتری کا زمین سے لگنا

(نَشَطًا وَ نَشُوطًا) سَاكِنٌ ہونا۔ قَرَارِ پانا۔
نَشَطَةٌ: اَرَامٌ دِيْنَا۔

أَنْشَعُ: بَہْت تَے كَرْنَا الْقَيُّ اَوْ الدَّمُ: تَے يَا
خَوْنٌ لَكُنَّا۔

نَشَلٌ (ن) نَشَلًا الْفَرَسُ وَ كَلْبٌ ذِي حَاہِرٍ:
لِيْدٌ كَرِيْنَا۔

نَشَلٌ (ن ض) وَ اَنْشَلُ الْبُئْرُ: كُنُوْمِيْنَ سَے
مُثِي نَكَاةِ الْجَرَابِ: تَوْشٌ دَا ن خَالِي كَرِيْنَا

الْكِنَاةُ: تَرَكِشٌ سَے تِيْرُوں كُو نَكَاةِ اَوْر بَكْمِيرِ
دِيْنَا۔ نَشَلُ الدَّرْعِ عَنْهُ: زَرَّةٌ كُو اَتَا رَ پَھِيكُنَا

اللَّحْمُ فِي الْقَدْرِ: گوشت کو ہانڈی میں
کھڑے کھڑے کر کے ذالنا علی فلاں درعہ:

زَرَّةٌ پَہِنَا۔ اَوْر كَہَا جَا تَا ہِے "نَشَلْتُ حَفْرَتَهُ"
یعنی اس کی قبر کھودی گئی۔

أَنْشَلُ الْبُئْرُ: كُنُوْمِيْنَ سَے مُثِي نَكَاةِ۔
تَنْشَلُ الْقَوْمَ اِلَیْہِ: اَكْشَے نُوثُ پَرْنَا۔

اَسْتَنْشَلُ الْكِنَاةَ: تَرَكِشٌ سَے تِيْرُوں كُو نَكَاةِ
كِر بَكْمِيرًا۔

النَّشَلُ: كَھو دَا ہوا۔ كَہَا جَا تَا ہِے "بَنَرَكَ نَشَلًا"
تَہْمَارِ اَكْوَاں كَھدَا ہوا ہِے۔

النَّشَلَةُ نَشَلٌ كَا اسْمُ مَرَّةٍ دُوْنُوں مَوْچِھُوں كِے
دَرْمَا ن كَا گَرُھَا۔ كَشَادَہِ زَرَّہِ۔

النَّشِيلُ: لِيْدٌ۔
النَّشَالَةُ وَ النَّشِيلَةُ: كُنُوْمِيْنَ سَے نَكَاةِ ہوتی مُثِي

- بَقِيْعَةُ النَّشِيلَةِ: مَوْنَا گوشت۔
الْمَنْشَلَةُ زَنْمِيْلٌ۔

نَشَمٌ (ض) نَشَمًا وَ اَنْشَمَ: نَشْرٌ كَمَا۔
نَشَا يَنْشُرُ نَشْرًا الْحَدِيثُ: بَيَانٌ كَرِيْنَا۔ پَھِيكُنَا

الشَّيْءُ: مَتَرَقٌّ كَرِيْنَا فَلَانًا: غَيْبِيْتٌ كَرِيْنَا عَلَيْہِ
قَوْلًا: كُشِي كِي جَانِبِ سَے خَبْرِ دِيْنَا۔
تَنْشَأُ الْقَوْمُ الْحَدِيثُ: اَہْلِيْ مِيْنِ اِيكِ

دوسرے سے کہنا الشَّيْءُ: اِيكٌ دُوْسَرِے كُو يَا
دَلَاةِ۔

النَّاشِيُ: فَ- غَيْبِيْتٌ كَرِيْنَا وَ اَل-
النَّشُوْرَةُ: لُوگوں كِي عَيْبِ جُوْمِي۔

النَّشَا: كُشِي كِے مَتَلَقٌ اَبْھِي يَابِرِي خَبْرِ۔
نَشِي يَنْشِي نَشِيًا الْخَبْرُ: بَيَانٌ كَرِيْنَا پَھِيكُنَا۔

أَنْشِي مِ الشَّيْءِ: نَاكٌ بَھُوں چَرُھَا۔ فَلَانًا:
غَيْبِيْتٌ كَرِيْنَا۔

نَجٌّ (ض) نَجًّا وَ نَجِيحًا الرَّجُلُ: جَلْدِي
كَرِيْنَا۔ صَفْتٌ نَجُوْجٌ الْفَرْحَةُ: زَهْمٌ سَے مَوَاذِ

بَہَاةِ۔
نَجٌّ (ن) نَجًّا الشَّيْءُ مِ فِيْہِ: مِئْہِ سَے
پَھِيكُنَا۔

نَجَاةٌ (ف) نَجَاً وَ تَنْجَاةٌ وَ اِنْتِجَاةٌ
نَظْرٌ بَدَلُ كُنَا۔

رَجُلٌ نَجُو الْعَيْنِ وَ نَجُوْهَا وَ نَجْنِهَا وَ
نَجْنِيْنَا۔ بَہْت تِيْزٌ نَظْرٌ كَا نَے وَ اَل-
نَجَاةُ السَّائِلِ: مَانِگَے وَ اَلِ كِي حَرِيصَانَةُ نَظْرِ۔

نَجْبٌ (ك) نَجَابَةُ الْوَالِدِ: شَرِيْفٌ
الْاَصْلُ ہونا۔ قَوْلٌ وَ فَعْلٌ مِيْنِ لَاتِقِ سِتَاكِشٌ ہونا

- صَفْتٌ نَجِيْبٌ۔
نَجْبٌ (س ن) نَجْبًا وَ نَجَبٌ وَ اَنْتَجَبُ
الشَّجْرَةُ: دَرِخْتٌ سَے چَھَا لِ اَتَا رَا۔

وَ اَنْتَجَبُ الشَّيْءِ: چَھَا۔ بَرِگَزِيْدَہِ كَرِيْنَا۔
اَنْجَبٌ: شَرِيْفٌ الْاَصْلُ ہونا الرَّجُلُ:

شَرِيْفٌ بَچُوں كَا بَاپ ہونا۔ بَزْدَلٌ بِيْئِے كَا بَاپ ہونا
- اَوْر كَہَا جَا تَا ہِے "اَنْجَبُ بَہِ اَبْوَاةِ" اِس كِے

وَ اَلدِيْنِ نَے شَرِيْفٌ بَچُوں چَھَا۔
اَسْتَنْجَبُ: شَرَفًا كُو طَلِبُ كَرِيْنَا۔

النَّجْبُ وَ النَّجْبَةُ: حَجِي۔ شَرِيْفٌ- فَيَاضٌ۔
النَّجْبُ مِ الشَّجَرِ: چَھَا لِ يَابِرِكِي چَھَا لِ۔

النَّجَابَةُ: شَرَا فِٹٌ۔
النَّجِيْبُ: شَرِيْفٌ - شَرِيْفٌ خَا نَدَا ن - نَجٌّ

اَنْجَابٌ وَ نَجْبَاءٌ وَ نَجْبٌ مَوَاحِثٌ نَجِيْبٌ
وَ نَجِيْبِيَّةٌ - نَجٌّ نَجَابِيْبٌ - نَجَابِيْبُ الشَّيْءِ وَ

بُوَا حِيْبَةُ: كُشِي كِي چَھَرِ كَا مَغْزِ جَسِ پَر چَھَلَكَا نَہِ ہُو
- خَا لَصٌ۔

کرنے والا ہوتا (نجدوڈا) واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت ناجد و نجد۔

نجد الميت: مکان کو آراستہ کرنا نجد الفرض: فرش ساز کا فرش کو بنانا اور سینا الذہر فلانا: تجربہ کار بنانا زجل: دوڑنا۔ ناجده مناجدة: مدد کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ جگہ کے لیے نکلنا۔

انجدة: مدد کرنا۔ انجد الرجل: پسینہ والا ہونا۔ نجد میں آتیا نجد کی طرف سفر کرنا۔ اپنے اہل و عیال سے قریب ہونا البناء: عمارت کا بلند ہونا الذعوة: قبول کرنا۔ انجدت السماء: بادل سے صاف ہونا۔

تنجد الشيء: بلند ہونا۔ استنجد: دلیر ہونا فلانا و بہ: مدد طلب کرنا علیہ: خوفزدہ ہونے کے بعد دلیری کرنا۔ نجد: من ملک نجد۔

النجد: بلند زمین۔ رج انجد و نجد و نجد و نجد و انجد و انجد و انجد: کہا جاتا ہے "ہو طلأع انجد و انجد و نجد و انجد" وہ مشکل امور پر غالب آنے والا ہے اور اسی معنی میں ہے "طلأع الشایا" گھمانیوں کو عبور کر جانے والا۔ النجد: مکان کی آرائشی کا سامان۔ رج نجد و نجد: النجد: ماہر رہنما۔ درختوں سے خالی جگہ۔ کرب و غم۔ پستان بلند راستہ۔ رجل نجد و نجد و نجد: دلیر مرد۔ دوسروں کو عاجز کر دینے والے امور کا پورا کرنے والا۔ دعوت کو بہت جلدی قبول کرنے والا۔ رج انجد۔

النجد: پسینہ۔ گھر کا سامان۔ بچھونا۔ پردہ وغیرہ۔ رج انجد۔ النجدة: من اسم مرة بہادری و دلیری۔ طاقت و سختی۔ کہا جاتا ہے "لاقی فلان نجدة" فلاں سختی میں پڑ گیا۔ مقاتلہ۔ گھبراہٹ۔ رج نجدات۔

النجد: پرتلہ۔ کہا جاتا ہے "ہو طویل النجد" وہ لمبے پرتلے والا ہے۔ کنایہ ہے

النجاحة: صبر۔

النجاح: فاسیر ناجح: سخت اور تیز چال۔

النجیح: درست رائے۔ کہا جاتا ہے "رای نجیح" وہ شخص جس کی رائے درست ہو اور اس کے امور کامیاب ہوتے ہوں۔ صابر۔

مؤث نجیحة: کہا جاتا ہے "نفس نجیحة" سیر نجیح: تیز چال۔ مکان نجیح: قریب جگہ۔

نَجْح (ف) نَجْحًا: فخر کرنا النوء: پتھر کا جوش میں آنا السیل: یکبارگی زور سے آنا۔

البعیر: بد منہی والا ہونا۔ صفت نَجْح البئر: کنواں کھودنا۔

تنجح الموج: موج کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ تنجحاً: باہم ٹکر کرنا۔

النجاح: فاسکھانے والا۔ نالج البحر: سمندر کا شور۔ النجوخ: شور کرنے والا سمندر۔ سبل نالج: بہت تیز بہاؤ کا سیلاب جو زمین کو کھود دے۔

ناجحة الماء و نجیحة: پانی کی آواز۔ النجاج: کھانے والے کی آواز۔

نجاجات الماء: پانی کی بوچھاریں۔ النجیحة کھن جو دودھ کے برتن میں کناروں پر چپک جائے۔

امراة نجاجة: وہ عورت جس کی اندام نہانی سے جماع کے وقت آواز نکلے اور بقول بعض وہ عورت جو جماع سے آسودہ نہ ہو۔

نجدة (ن) نجدنا: مدد کرنا۔ غالب ہونا۔ نجد (ن) نجدوا الأمر: واضح ہونا۔ البدن عرفاً: بدن سے پسینہ بہنا الشيء من الأرض: نکلنا۔

نجد (س) نجد الرجل: کام یا گھبراہٹ سے پسینہ آنا۔ صفت نجد: تھکنا۔ بلید ہونا۔ نجد نجد الرجل: غمگین ہونا۔ صفت منجود و نجد۔

نجد (ک) نجدة و نجدة: دلیر ہونا دوسروں کو عاجز کر دینے والے امور کا پورا

المنجاب (مذکر مؤنث) ج مناجیب والمنجب ج مناجب۔ مؤنث منجبة: شریف اولاد والا ہونا۔ المنجاب: ست و

کمزور بغیر پرو پیکان کے تیز۔ کرلیٹی۔ المنجوب: کشادہ برتن۔

نَجْح (ن) نَجْحًا و تَنَجَّحَ عَنِ الْأَمْرِ: کھود کرید کرنا۔ تفتیش کرنا الشيء: نکالنا نَجْح الْقَوْمِ: قوم سے فریاد کرنا۔

تَنَجَّحَ الْقَوْمُ الْأَخْبَارَ: ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا۔

انْتَجَحَ و اسْتَنْجَحَ الشَّيْءُ: نکالنا اسْتَنْجَحَ لِلشَّيْءِ: درپے ہونا۔

النَّجْحُ و النَّجْحُ: دل کا غلاف۔ زرہ۔ مکان۔ رج انجحات۔

رَجُلٌ نَجِحٌ: خبروں کی تلاش و جستجو رکھنے والا۔

النَّجَاتُ: امور کی کھود کرید کرنے والا۔ النَجِيثُ: مخفی عیب۔ نشانہ۔ ست۔

النَجِيثَةُ: بُری خبر جو ظاہر ہو جائے۔ کنوئیں اور جو ہر کی مٹی۔

نَجْح (ف) نَجْحًا و نَجْحًا و نَجَاخًا الْأَمْرَ: آسان و آہل ہونا۔ نَجْحَتِ حَاجَةٌ فَلَانٌ و نَجِحَ فَلَانٌ بِحَاجَتِهِ: کامیاب و فتح مند ہونا۔

نَجْحَهُ كَامِيَابٌ كَرَانًا: انجح۔ کامیاب و فتح مند ہونا اللہ حاجتہ: حاجت پوری ہونا۔ صفت منجح رج مناجح و مناجیح و انجح فلان بالباطل: باطل پر غالب ہونا انجح الباطل بفلان: باطل کا غالب ہونا۔

تَنَجَّحَ الْحَاجَةُ: وعدہ کرنے والے سے پورا کرنے کو کہا۔

تَنَاجَحَتِ عَلَيْهِ أَحْلَامُهُ او مَسَاعِيَهُ: بے پردے دوست ہونا۔

اسْتَنْجَحَ فَلَانًا حَاجَتَهُ: حاجت پوری کرنے کو کہا۔

النَّجَاحُ و النَّجْحُ: من کامیابی۔

طویل القامت ہونے سے۔

النجداء۔ فرش سازی کا پیشہ۔

النجدید۔ بہادر۔ ایسے امور کو انجام دینے والا جو دوسروں کو عاجز کر دیں۔ شیر۔ غمگین۔ ج۔ نجد و نجداء۔

النجد۔ فامؤنث ناجدة ج نواجذ۔

النجداد۔ فرش ساز۔

نجدو البیت۔ مکان کو آراستہ کرنے کیلئے دیواروں کے پردے۔

النجدود من الابل والانتن۔ لمبی گردن والا۔ چلنے میں آگے رہنے والا۔ النساء۔ غمگین عورت۔ شریف عورت۔ ج۔ نجد۔

النجدود۔ شراب۔ شراب کا برتن۔ خون۔

زعفران۔ ج نواجذ۔

المنجد۔ عورتوں کا ایک زیور جس کو گردن

میں ڈالتی ہیں اور سینے کے نیچے تک ہوتا ہے

۔ چھوٹا پہاڑ ج مناجد۔

المنجدة۔ اون وغیرہ ہنسنے کا لکڑی کا اوزار

جانوروں کو ہانکنے کیلئے چھوٹی سی چھری۔ ج۔

مناجد۔

رجل منجاد۔ بہت مدد کرنے والا مرد۔

المنجدود۔ منہ مغموم ہونے والا۔

نجدہ (ض) نجداً۔ داڑھوں سے کاٹنا۔

اصرار کرنا۔

نجدہ۔ تجربہ کرنا۔ آزمانا۔ نجدتہ

والنجدارب۔ تجربہ کار بنانا۔ البلايا:

مصیبتوں کا لاحق ہونا۔

النجد۔ فامؤنث کا واحد بمعنی دائرہ۔ کہا

جاتا ہے "عص علی ناجذہ" وہ بالغ ہو گیا

کمال عقل کو پہنچ گیا۔ اس لیے کہ نواجذ بولوغ و

کمال عقل کے بعد نکلتی ہیں۔ "وضحک

حتی بدشئو نواجذہ" وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا

"وانبذت الحرب ناجذتہا" لڑائی تیز

ہو گئی وعض الرجل علی ناجذتہ۔ یعنی

اُس نے صبر کیا۔

المناجذ جمع جلد من غیر لفظہ۔ بمعنی

چھچھوند۔

نجر (ن) نجر الیوم دن کا گرم ہونا۔

الماء۔ پانی کو گرم پتھر سے داغ کرنا لرجل۔

مار کر ہٹانا الخشب۔ لکڑی کو چھیل کر ہموار

کرنا الشی۔ ارادہ کرنا لابل۔ اونٹ کو ہانکنا۔

نجر (س) نجر۔ سخت پیاسا ہونا۔

انجر فلانا۔ دودھ اگلی آئے سے بنا ہوا

کھانا پیش کرنا۔

النجر۔ س۔ اصل۔ حسب۔ رنگ۔ گرمی۔

النجر۔ سخت پیاس جو اونٹ وغیرہ کو لاحق

ہوتی ہے اور بجتی نہیں۔

الناجر۔ گرمی کے مہینوں میں سے ہر ایک

مہینہ۔

النجار والنجر۔ اصل۔ حسب۔ رنگ۔

النجارة۔ بڑھتی کا پیشہ۔

النجارة۔ لکڑی کا چھیل۔ رندہ کرتے وقت

جو گرے۔

النجر۔ بڑھی۔

المنجر۔ تیشہ

النجيرة۔ لکڑی کی چھت۔ دودھ اگلی آئے

سے بنا ہوا کھانا۔ گرم پتھر سے داغ کیا ہوا پانی

بدلہ۔ کہا جاتا ہے "لانجر نجر تک"

میں تم کو بدلہ دوں گا جس کے تم مستحق ہو۔

النجران۔ لکڑی کی چول جس پر دروازہ

گھومتا ہے۔ پیاسا اور یمن اور حوران کے دو

شہروں کا نام بنجران ہے۔

ایل نجرہ و نجری و نجراری۔ پیاسے

اونٹ۔

الانجر والانجرة۔ لنگر۔ ج اناجر

(درخیل)

المنجر۔ مقصد جو راستہ سے ہٹا ہوا نہ ہو۔

المنجرة۔ پانی داغ کرنے کا گرم پتھر۔

المنجر۔ اونٹوں کو بہت تیز ہانکنے والا۔

رندہ۔

المنجور۔ کنوئیں سے پانی نکالنے کی

چرخی۔

النوجر۔ ایک قسم کا آلہ جس سے زمین

کھودی جاتی ہے۔

نجر (ن) نجر الساحة حاجت پوری

کرنا بالوعد۔ وعدہ میں جلدی کرنا لوعد

حاضر ہونا۔ جلدی ہونا۔ پورا ہونا۔

نجر و نجر (س) نجر الشی ختم ہونا۔

فتا ہونا۔

الکلام۔ کلام کا منقطع ہونا۔

نجر الحاجة۔ حاجت پوری کرنا۔

انجر الحاجة۔ حاجت پوری کرنا لوعد

وعدہ وفا کرنا۔ اور اسی سے مثل ہے "انجر حر"

ما وعد" شریف آدمی جو وعدہ کرتا ہے پورا

کرتا ہے اور کبھی وعدہ کو پورا کرنے کیلئے بولا جاتا

ہے علی القیال۔ فوراً مار ڈالنا۔

ناجرہ۔ مقابلہ پر لکنا۔ مقاتلہ کرنا۔

تنجر الشراب۔ پینے میں اصرار کرنا (و

استنجر) الحاجة او لوعد۔ حاجت یا

وعدہ پورا کرنے کو کہنا۔

تنجزوا۔ باہم مقابلہ کرنا۔ باہم مقاتلہ کرنا۔

النجز والنجاز۔ حصول۔ وفائے عہد۔ اور

کہا جاتا ہے "انت علی نجر حاجتک" تم

اپنی حاجت کی تکمیل کے قریب ہو۔

النجز والناجر۔ حاضر۔ موجود۔ نقد۔ کہا

جاتا ہے "بعثنا ناجر بناجر" میں نے اس

کو دست بدست بچا اور میں نے موجود کی موجود

سے بچ کی ولا بیاع غائب بناجر غائب کی

موجود سے بچ نہ کی جائے و وعد ناجر و

نجز" وعدہ جو پورا کر دیا جائے۔

نجز (س) نجسا و نجس (ک)

نجانسة۔ گندا ہونا۔ ناپاک ہونا۔ صفت

نجز و نجس و نجس و نجس و نجس و

نجز ج انجاس۔

نجزہ و انجسہ۔ ناپاک کرنا۔ نجس

الصبی و لہ: نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے

تعویذ وغیرہ لگانا۔

تنجس۔ ناپاک ہونا۔ الثوب: منگنی سے

آلودہ ہونا۔ نجاست سے لگانا۔

الانجاس۔ نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے

تعویذ گندا وغیرہ۔

داء نَجَس و نَجِس و نَجِس لِعِلاَج مرض۔

النَجَس۔ تعویذ کرنے والے۔

نَجِس (ن) نَجَسْنَا الشَّيْءَ کھو کرید کرنا۔ نکالنا۔ بکھیرنے کے بعد جمع کرنا الصَّيْدَ شکار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے بھڑکانا النَّارَ آگ روشن کرنا۔ جَلَانَا الْحَدِيثَ بات پھیلانا فِي الْبَيْعِ مَبِيعَةٍ کی تعریف کر کے بائع کی موافقت کرنا۔ اور بقول بعض بغير ارادة خریداری دوسروں کو پھسانے کے لیے قیمت بڑھانا یا خریدار کو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف رغبت دلانا۔ اسم النَجَس (نَجَسْنَا و نَجَاشَةٌ تميز چلانا۔

تَنَاجَشَ الْقَوْمُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ : دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا۔

اسْتَنَجَشَهُ الشَّيْءَ : نکالنا الصَّيْدَ شکار کو بھڑکانا۔

النَجَاشُ۔ تمہ جس کو دو چیزوں کے درمیان رکھ کر دیتے ہیں۔

النَّاجِسُ وَالنَّجَاشُ وَالنَّجِشُ۔ شکاری النَّاجِسُ وَالنَّجَاشِيُّ وَالْمُنَجَّاشُ۔ شکار کو شکاری کی طرف بھگانے والا۔ الْمُنَجَّاشُ : بڑا عیب جو۔

النَّجَاشِيُّ وَالنَّجَاشِيُّ وَالنَّجَاشِيُّ وَالنَّجَاشِيُّ وَالنَّجَاشِيُّ شَاهِ حَمِشَةَ كَالْقَبِ۔

رَجُلٌ نَجُوشٌ وَ مَنَجَشٌ۔ شکار کو بھڑکانے والا۔ الْمُنَجَّاشُ : بڑا کٹھ چمیں دعیب جو۔

قَوْلٌ مَنَجُوشٌ مَغْزِيٌّ هُوَ نَجُوشٌ بَاتٍ۔

نَجَع (ف) نَجُوعًا وَ نَجَعِ الطَّعَامِ فِي الْإِنْسَانِ : فائدہ مند ہونا۔ نَجَعٌ پھنچانا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَعَامٌ يَنْجَعُ عِنْدَهُ وَبِهِ" یہ ایسا کھانا ہے جو فائدہ مند ہے اور اسی سے موٹاپا حاصل ہوتا ہے فِيهِ الدَّوَاءُ او الطَّعَامُ او الْكَلَامُ : اثر کرنا۔ جَعِ الْبَلَدُ : شہر میں آنا الْقَوْمُ الْكَلَالُ : چراگاہ کی تلاش میں جانا الْأَبْلُ النُّجُوعُ وَ بِالنُّجُوعِ : آٹا ملا ہوا پانی پلانا۔

نَجَعِ الصَّبِيُّ لَبِنَ الشَّاةِ او لَبِنِ الشَّاةِ : خوراک دیا جانا۔ پرورش کیا جانا۔

انْجَعِ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ : کھانے وغیرہ کا مفید ہونا الرَّجُلُ : کامیاب ہونا الرَّاعِي الْفَصِيلُ : چرواہے کا اُونٹ کے بچے کو دودھ پلوانا۔

تَنْجَعُ وَ اسْتَنْجَعُ وَ اسْتَنْجَعِ الْقَوْمُ الْكَلَالُ : چراگاہ کی تلاش میں جانا۔ تَنْجَعُ وَ اسْتَنْجَعُ وَ اسْتَنْجَعِ فَلَانًا : بخشش طلب کرنے کیلئے کسی کے پاس آنا۔ تَنْجَعُ بِالذَّمِّ : خون سے ٹھنڈا۔ اسْتَنْجَعُ بِهِ وَ عِنْدَهُ هَضْمٌ هُونًا : اور موٹا ہونا۔ النُّجُوعُ : بالوں کا بنا ہوا نیمہ ج نَجُوعِ

النُّجُوعَةُ : چراگاہ کی تلاش۔ یہ نَجُوعُ كَالْاسْمِ ہے۔ کہا جاتا ہے "حَرَجُوا لِلنُّجُوعَةِ" لوگ چراگاہ کی تلاش میں نکلے و "فَلَانٌ نَجَعَنِي" فلاں میری جائے امید ہے۔ ج نَجَعُ

النَّاجِعُ : چراگاہ کی تلاش کرنے والا۔ ج نَاجِعَةٌ وَ نَوَاجِعُ : ماہ نَاجِعٌ خَوْشْکُورِ پانی۔

النَّجَاعُ : شجاع کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے "شُجَاعٌ نَجَاعٌ" بہت دلیر۔

النُّجُوعُ : آٹا ملا ہوا پانی جو اُونٹ کو پلایا جاتا ہے۔ نَجُوعُ الصَّبِيِّ : دودھ۔ ماہ نَجُوعُ : خَوْشْکُورِ صَافِ پانی۔

النُّجِيعُ : فائدہ مند من الطَّعَامِ او الشَّرَابِ : تابع بدن کھانا یا پانی من الذَّمِّ : سیاہی مائل خون۔ ماہ نَجِيعٌ : خَوْشْکُورِ پانی۔ الْمُنْجَعُ وَالْمُنْجَعُ وَالْمُنْجَعُ وَ هُوَ مَقَامٌ جِہاں گھاس کے لیے لوگ جائیں۔

نَجْف (ن) نَجْفًا النَّجِيفُ : تراشا۔ صفت مفعولی نَجِيفٌ وَ مَنَجُوفٌ الشَّجَرَةُ : درخت کو جڑ سے کاٹنا الشَّاةُ : بکری کا سارا دودھ دودھ لینا۔

نَجَفٌ لِفَلَانٍ نَجْفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ : کسی کے لیے تموز اسارا دودھ علیحدہ کرنا۔ نَجَفَتِ الرِّيحُ الْكَيْسِبُ او الرُّمْلُ : ہوا کا ریت کے تودہ یا ریت کو اڑا دینا۔

انْجَفَ وَ اسْتَنْجَفَ الشَّيْءَ : نکالنا۔ الرِّيحُ

السَّحَابُ : ہوا کا بادل کو پانی سے خالی کر دینا الشَّاةُ : بکری کا سارا دودھ دودھ لینا۔

النَّجْفُجُ : نَجَافٌ وَ النَّجْفَةُ : ٹیلہ۔ وادی میں وہ جگہ جہاں پانی نہ چڑھے۔

النَّجَافُ : دروازہ کے اوپر کا چھج۔ نَجَافٌ الْغَارُ : غار کے اوپر آگے کو نکلا ہوا پتھر۔

النَّجِيفُ : چوڑے پھل والا تیر۔ ج نَجِيفٌ الْمُنْجُوفُ : زنبیل۔ ٹوکری۔

الْمُنْجُوفُ : چوڑے پھل والا تیر۔ اندر سے چوڑا تر بن گیا پتھر۔

النَّجْفَةُ : تموزی چیز۔

نَجَل (ن) نَجَلًا الشَّيْءَ : ظاہر کرنا الْأَرْضُ : زمین جو تاتا۔ نَجَلَهُ ابْنُ وَ نَجَلُ بِهِ : پیدا کرنا۔ نَجَلَتِ الْأَرْضُ : زمین کا سرسبز ہونا۔ نَجَلُ فَلَانًا : ٹھوکر مارنا یہاں تک کہ لڑکھ جائے۔

النَّاسُ شَرَاتٌ كَرْنَا : کہا جاتا ہے "مَنْ نَجَلِ النَّاسَ نَجَلُوهُ" جو لوگوں کو عیب لگاتا ہے لوگ اسے عیب لگاتے ہیں۔ جو لوگوں کو گالی دیتا ہے لوگ اسے گالی دیتے ہیں و نَجَلِ الْجِلْدَ عَنِ الْمَذْبُوحِ : دونوں پھیل ناگوں کے درمیان کھال کاٹ کر سر کی طرف سے کھینچ لینا۔ کھال کو منجول کہتے ہیں۔

نَجَل (ض) نَجَلًا الشَّيْءَ وَ بِالشَّيْءِ : پھینکنا وَ بِالرَّمْحِ : نیزہ مارنا الصَّبِيُّ اللُّوحُ : بچہ کا تختی کو مٹانا الرَّجُلُ : تیز چلانا۔

نَجَل (س) نَجَلًا الرَّجُلُ : بڑی اور خوبصورت آنکھوں والا ہونا۔ صفت انْجَلَجَ نَجَلٌ وَ نَجَالٌ : آنکھ کی صفت۔ نَجَلَاءُ ج نَجَلٌ

انْجَلِ الذَّابِتَةَ : نَجِيلٌ (ایک قسم کی ترش گھاس) چرنے کے لئے چھوڑنا۔

تَنَاجَلَ الْقَوْمُ : جھگڑا کرنا۔ نَسَلٌ پیدا کرنا۔

انْتَجَلَ الْأَمْرُ : ظاہر ہونا اور گزرتا۔

اسْتَنْجَلَ الْمَكَانَ : کسی جگہ سے پانی کا بکثرت رسنا فَلَانٌ النَّزْ (زمین سے) سونا نکالنا۔

البلد: شہر میں داخل ہونا اور ناپسند کرنا۔
 نجا ینجو نجاة و نجاء و نجوا و
 نجایة من کذا: نجات پانا۔ رہائی پانا۔
 نجا ینجو نجاء: تیز چل کر آگے بڑھنا
 (نجوا) الشجرة: درخت کاٹنا الصبی
 یحج کا پختانہ کرنا فلانا: رہائی دینا۔ چھڑانا
 الدواء: دوا پینا النجو من لبض: پختانہ
 لکھنا (نجا) الجلد عن الذیحة:
 کھال اتارنا (نجوا و نجوی و ناجی
 مناجاة و نجاء) الرجل: سرگوشی کرنا
 اسم النجوی
 نجی تنجیة الرجل من کذا: رہائی دلانا
 - بلندی زمین میں چھوڑنا۔
 النجی الرجل: رہائی دلانا الرجل: پختانہ
 کرنا فلانا غصنا: کسی کیلئے شہنی کاٹنا الجلد:
 کھال اتارنا النخلة: کچی کھجوروں والا ہونا
 الرجل: پیپہ لکھنا اور کہا جاتا ہے "شرب
 دواء فما انجاه" اس نے دوا پنی فائدہ نہیں
 ہوا۔
 تنجی: بلندی زمین ڈھونڈنا۔
 تنجی تنجیا القوم: سرگوشی کرنا۔
 انتجی القوم: سرگوشی کرنا الرجل:
 سرگوشی کے لیے خاص کرنا۔ رازدار بنانا۔
 استنجی من کذا: رہائی پانا الشجرة:
 درخت کو چڑ سے کاٹنا۔ الشی من فلان
 چھڑانا الرجل: پختانہ کرنے کے بعد دھونا یا
 ڈھیلے سے پونچھنا التمر: پھل پینا القوم: تر
 کھجوریں حاصل کرنا یا کھانا الرجل: تیز چلنا۔
 نکلت کھانا۔
 الناجی: فائز۔ مؤنت: ناجیة ج نواج و
 ناجیات. الناجیة: تیز رفتار اونٹنی۔ کہا جاتا
 ہے "قطع المکان بنواج سریعة
 الأیغال" اس نے جگہ کو تیز رفتار اونٹنیوں
 سے طے کیا۔
 النجا لاشی: لکڑی۔ ہودج کی لکڑی۔
 کھال۔
 النجو والنجا والنجاة والنجاء: رہائی۔

ہونا الرجل عن لامر: چھوڑنا۔ انجمت
 الحرب: لڑائی کا ختم ہونا۔
 النجم البرد و نساء: جائزے یا سردی کا
 گزر جانا۔ ختم ہونا۔
 تنجم: احوال عالم معلوم کرنے کے لیے
 ستاروں کو دیکھنا۔
 النجم: ج نجم و النجم و انجم و
 نجم: ستارہ۔ اور شریپر بھی اطلاق ہوتا ہے۔
 ادائیگی قرض کا مقررہ وقت۔ وقت مقررہ پر ادا
 کی ہوئی قسط۔ کہا جاتا ہے "جعلت ما لئ
 علیہ نجوما منجمة یؤدی کل نجم
 منها فی وقت کذا" میں نے اس پر قسط
 مقرر کر دی کہ ہر قسط فلاں وقت میں ادا
 کرے۔
 النجم: بیل۔ بغیر تیر کے نباتات۔ اصل کہا
 جاتا ہے "هذا الحدیث لا نجم له" اس
 بات کے لئے کوئی اصل نہیں۔
 النجمة: ستارہ۔ اور یہ نجم سے خاص ہے کلمہ
 (والنجم) دو گھاسوں کے نام۔ النجمة:
 ایک بیل ہے جو زمین پر پھیلتی ہے۔ اور کہا گیا
 ہے کہ "قیل" اور "نجم" اور
 "عکرش" ایک ہی چیز کے نام ہیں
 ذوالنجم: گدھا۔
 النجم من النبات: تازہ گھاس۔
 النجم والمنجم والمنجم: نجومی۔
 المنجم: نکلنے کی جگہ۔ معدن۔ واضح
 راستہ۔
 المنجم: ترازوی کوہے کی ڈنڈی۔
 نجم نجم: فی رابہ: متحیر ہونا۔
 مضطرب ہونا غیث: وحشی ہوئی آنکھ ہونا
 الأبل: اونٹ کو چراگاہ سے روکنا۔ پانی سے
 واپس کرنا فلاں غنہ: منع کرنا الشی حرکت
 دینا الامر: پختہ ارادہ نہ کرنا۔
 تنجیح الرجل: متحیر ہونا الشی: ہلانا۔
 نجہ (ن) نجها وانتجہ و تنجہ
 الرجل: تیزی طرح سے ہٹانا۔ تیزی صورت
 سے پیش آنا۔ سجہ علی القوم: ظاہر ہونا

النجل: س اولاد۔ نسل۔ اور کہا جاتا ہے "هو
 کریم النجل" وہ کریم الاصل و شریف الطبع
 ہے والدراج النجل: النجل: عمل۔ بڑی
 جماعت۔ سڑک۔ بچنے والا پانی۔ زمین سے
 رتنے والا پانی ج نجال و انجال۔
 النجال: فائز۔ شریف النسل (انسان یا حیوان)
 مؤنت ناجلة: ج ناجلات و نواحل
 النواجل: بخیل (ایک قسم کی ترش گھاس)
 کے چرنے والے اونٹ۔
 الانجل: کشادہ لمبا چوڑا۔ ج نجل و نجال
 مؤنت نجلاء: ج نجل۔ کہا جاتا ہے "سعنہ
 طعنة نجلاء" اس نے اسے کشادہ زخم کرنے
 والا نیزہ مارا۔
 النجل: ایک قسم کی ترش گھاس۔ اسی گھاس
 کی ٹوٹی ہوئی پتیاں۔ ج نجل
 النجلیات: جو گندم وغیرہ کی فصلیں جن کی
 پالی کھول دار اور سیدھی ہو۔
 المنجل: دراتی۔ ج مناجل. المنجل:
 گنجان کھیتی۔ بہت اولاد والا۔ ماہر اونٹ
 ہانکنے والا۔ اور کہا جاتا ہے "سنان منجل"
 چوڑا زخم کرنے والا بھاللا۔
 نجم (ن) نجوما الشی: ظاہر ہونا۔ کہا
 جاتا ہے "نجمت الکواکب" ستارے
 طلوع ہوئے۔ و نجم النبات: سبزی اگی
 و نجم السن او القرن: و انت یا سبک
 نکل آئے۔ و "نجم فی بنی فلان شاعر
 او فارس" بنو فلاں میں بے مثال شاعر یا
 شہسوار ظاہر ہوا کذا عن کذا: فلاں چیز
 سے ایسا نتیجہ برآمد ہوا فلان الذین: قسطوں
 میں ادا کرنا الشہم او الرمخ: تیر یا نیزے کا
 پارہ ہونا۔
 نجم: احوال عالم معلوم کرنے کے لیے
 ستاروں کو دیکھنا الذین: قرض کو قسطوں میں
 ادا کرنا علیہ الدیة: دیت کی قسط مقرر کرنا۔
 انجم الشی: ظاہر ہونا۔ انجمت
 السماء: آسمان پر ستاروں کا کھل جانا۔ انجم
 الشتاء او البرد: جائزے اور سردی کا ختم

الکرم یعنی فلاں شخص فیاض پیدا کیا گیا ہے۔
نحت (ف) نَحْبًا نَحْبًا یعنی بہت چھینے ہوتا۔

انْتَحَت مِنَ الخَشْبَةِ مَا يَجْعَلُهُ فِي النَّارِ: آگ میں دالنے کیلئے چھپٹیاں کاٹنا و
انْتَحَت الخَشْبَةُ: لکڑی کا چھپٹیاں ہونا۔

النَّحْتُ س (و النحات والنحيت) طبیعت کہا جاتا ہے ”هُوَ كَرِيم النَحِيَّةِ“ وہ کریم الطبع ہے۔ النَحِيَّةُ: چھین۔

النَّحَاتُ: تراش۔ چھین۔ وہ ریزے جو کاٹنے سے گریں۔

النحات: سنگ تراش۔ بہت چھیننے والا۔

النحيت: مص۔ چھینا ہوا۔ گریہ و زاری۔
چھین۔ دُبلَا أُونْت۔ رومی چیز۔ کنگھی قوم میں
اجنبی من الحوافر: کنارے گھسا ہوا کھر۔

المنحجج مناحج المناحت والمنحاج ج

مناحجیت لکڑی تراشنے کا آلہ۔ سولہ۔ کہا جاتا ہے
”هُوَ مِنْ مَنْحَجٍ صَدَقَ“ وہ خالص اصل سے ہے ”وَهُمْ كِرَامُ الْمَنَابِتِ وَالْمَنَاحِتِ“ وہ لوگ فیاض و اصل خاندان سے ہیں۔

نحور (ف) نَحْرًا وَ تَنَحَّرًا: البهيمية: سینہ پر مارنا۔ ذبح کرنا۔ فُلَانًا: مقابلاً کرنا۔ کہا جاتا ہے
”تَنَحَّرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ“ میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے و ”نَحَرَ الْأُمُورَ عِلْمًا“

یعنی اس نے معاملات کو مضبوط طریقے سے کیا۔ الصَّلَاةُ: اول وقت میں نماز پڑھنا۔
المُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ: سینہ نکال کر کھڑا ہونا۔

نَاحِرَةٌ مَنْحَرَةٌ: جھگڑا کرنا۔

تَنَاحَرَ الْقَوْمُ عَلَيَّ كَذَا: جھگڑا کرنا۔
تَنَاحَرَتِ الدَّارَانِ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ الْقَوْمُ عَنِ الطَّرِيقِ: راستے سے تجاوز کرنا۔ ہٹ جانا۔ عَلَيَّ الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ: بے درپے آنا۔

انْتَحَرَ الرَّجُلُ: خود کشی کرنا۔ الْقَوْمُ عَلَيَّ الْأَمْرِ: جھگڑا کرنا۔ انْتَحَرَ السَّحَابُ: بہت پانی لے کر اٹھنا۔ بِالْعَصَا: مارنا۔

نَحْبٌ (ف ض) نَحْبًا وَ نَحْبِيًّا الرَّجُلُ: روٹنے میں آواز بلند کرنا (نَحْبًا) بِكَذَا: شرط لگانا۔

نَحْبٌ (ض) نَحْبًا وَ نَحَابًا الْبَعِيرُ: کھانٹا۔

نَحْبٌ (ن) نَحْبًا وَ نَحْبَ الرَّجُلِ: نذر ماننا۔ نَحْبٌ وَ نَحْبَ الْقَوْمِ فِي سَبْرِهِمْ: جلدی سے چلنا۔ نَحْبٌ عَلَيَّ الشَّيْءِ: مشغول ہونا۔ ٹوٹ پڑنا۔

نَاحِيَةٌ مَنْحَابَةٌ: مفاخرت کرنا۔ عَلَيَّ كَذَا: شرط لگانا۔ هَذَا إِلَى فُلَانٍ: فیصلہ کے لیے جانا۔

تَنَاحَبَ الْقَوْمُ: جگ و غیرہ کیلئے وقت معین کرنا۔

انْتَحَبَ: بہت رونا۔ زور سے بے بے سانس لینا۔ پھوٹ کر رونا۔

النحْبُ: سبخت گریہ۔ کھانسی۔ سختی۔

موت۔ مدت۔ وقت۔ بڑا خطرہ۔ بہت۔

نفس۔ نیند۔ موٹاپا۔ بڑے جسم کا اونٹ۔

حاجت۔ دلیل۔ جواب۔ تیز چال۔ یا آہستہ چال۔

نذر۔ کہا جاتا ہے ”قَضَى فُلَانٌ نَحْبَهُ“

فُلَانٌ نے اپنی نذر پوری کر دی۔ یعنی مر گیا گویا

کہ موت اس کے ذمہ نذر تھی۔

النحْبَةُ: قرعہ۔

الْمُنْحَبُ: فَا سَبْرٌ مَنْحَبٌ تَمِيزٌ جَالٍ۔

نَحْتٌ (ض ن) وَ نَحْتٌ (س) نَحْتًا

الْعُودُ: لکڑی چھیننا۔ الحجر: پتھر کو ہموار کرنا۔ الخشبية: لکڑی چھیل کر ہموار کرنا۔

نَحْتًا: پھاڑنا۔ السفر: البعير: دُبلَا کرنا۔ الجبل: پہاڑ

کھودنا۔ الكلمة: دو یا زائد کلمات سے ایک کلمہ

بنانا جیسے صَهْصَلَقٌ - مَصَلٌ وَ صَلَقٌ سے

بَسْمَلَةٌ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے۔ حَوْفَلَةٌ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ سے۔ فَذَلِكُمْ

فَذَلِكُمْ كَذَا وَ كَذَا سے نَحْتَةٌ بِالْعَصَا:

لاٹھی مارنا۔ هُ بِلِسَانِهِ: نیت کرنا۔ ملامت کرنا۔

گالی دینا۔ عَرْضُهُ: طعن کرنا۔ بے آبروئی کرنا۔

أَقْلَبْتُهُ وَ فِي حَقْلَتِهِ: مذمت کرنا۔ حسب میں طعن کرنا اور کہا جاتا ہے ”نَحْتُ فُلَانٌ عَلَيَّ“

کہا جاتا ہے ”النحائك النحائك والنحاك و النحاك“ یعنی جلدی کر۔ جلدی کر۔ اور یہ باب اغراء سے ہے اور فعل محذوف سے منصوب ہے اور اس کی تقدیر ”الزوم النجاء“ ہے اور کاف حرف خطاب ہے۔

النحو: س۔ پانچکانہ یا گوز۔ دو آدمیوں کے درمیان چھید۔ ج۔ نجاء۔ بادل جو پانی برسا چکا ہو۔ ج۔ نحو۔

النحوى: اسم ہے مناجات کا۔ چھید۔ سرگوشی کرنے والے اور یہ وصف بالمصدر ہے اس میں واحد جمع برابر ہیں۔ کہا جاتا ہے ”هم نحوى النحوى“ خراج۔ محصول۔ ج۔ نحواوی۔

النحاة: س۔ رہائی۔ بلند زمین۔ حد۔ لاج۔

سانپ کی چھتری۔ شبی۔ ج۔ نجاء۔

النحوة: اسم مرؤة بلند زمین۔ ج۔ نجاء۔

کہا جاتا ہے ”ان الله من الامر بنحوة“ وہ اس کام سے پاک صاف ہے۔

النحواة: زمین کی گنجائش۔

النحى: چھید۔ جس سے رازداری کی بات کی

جائے۔ بات کرنے والا۔ حدی پڑھنے والے کی

آواز۔ بلند آواز سے جانور کو ہانکنے والا۔ تیز۔ کہا

جاتا ہے ”بعير نحى“ تیز رفتار اونٹ۔ اور کہا

جاتا ہے ”باتت في صدره نحى فقد

استهزته“ اس کے سینے میں غم رہا جس نے

اسے بیدار رکھا۔

المنحجج: نجات کی جگہ۔ بلند زمین۔ ج۔ مناج۔

المنحجة باعث نجات۔ ج۔ مناج۔ کہا جاتا

ہے ”الصدق منحة“ سچائی باعث نجات

ہے۔

نَحْ (ض) نَحْبًا الرَّجُلُ: سینہ میں آواز

گرو گزانا۔

نَحْ (ن) نَحًّا الْجَمَلُ: تیز چلنے پر آسانا۔

النحاحة: سخاوت۔ جمل (ضد)

النحيج: س۔ بجیل۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ

شَحِيحٌ نَحِيحٌ فُلَانٌ حَرِيصٌ وَبَشِيحٌ ہے۔

”هُوَ كَرِيمٌ النَّحَّاسُ وَهُوَ فِاضٌ طَبِيعَتُكَ كَمَا هِيَ“ ہے۔ ہر چیز کا اصل۔ چنگاری جو لوہے وغیرہ کو کوئٹے وقت جھڑے۔

النَّحَّاسُ - عظیمرا۔ تانے کا کام کرنے والا۔
الْمَنَاحِسُ - نامبارک و منحوس چیزیں۔
بَاعِثُ نَحْوَسِ امُورٍ۔

نَحِصْتُ (ف) نَحْوَصًا النَّاقَةَ: اُوٹنی کا بہت موٹا ہونا۔ یا موٹائی کی وجہ سے حاملہ ہونا۔
صِفَتُ نَحْوَصٍ وَ نَحِصٌ - ج ححص و نَحَائِصُ۔

النَّحِصُ وَدَامِنُ كَوهِ الْمَنَحِصِ: دہلی پتلی لمبی عورت۔

نَحِضُ (ف ض) نَحِضًا اللَّحْمُ: گوشت اٹار پھلانا: اصرار سے سوال کرنا العظم: بڑی سے سب گوشت اٹار لینا اللسان: بھالا تیز کرہ اللذہر: نقصان پہنچانا۔

نَحِضُ (ف) نَحْوَصًا وَ نَحِضٌ وَ اَنْتَحِضُ ذُلًا هُوَ - کم گوشت والا ہونا۔ صفت نَحِضٌ وَ مَنَحْوُضٌ۔

نَحِضُ (ك) نَحَاصَةٌ - موٹا ہونا۔ زیادہ گوشت والا ہونا۔ صفت نَحِضٌ وَ مَنَحْوُضٌ۔

اِنْتَحِضُ الشَّيْءُ: بمعنی نَحِضُ الشَّيْءِ: نَحِضٌ - سر۔ موٹا گوشت۔ ج نحاض و نَحْوُضٌ۔

النَّحِصَةُ: گوشت یا موٹے گوشت کا بڑا ٹکڑا۔
نَحَطُ (ض) نَحَطًا وَ نَحِطًا الْفَرَسُ: گھوڑے کا تھکنے سے ہنہانا: نَحِطًا لِبَعْلِ سَائِلٍ لِيُنَاقِلَ السَّائِلَ مَا لَيْسَ لَهُ كُو

سوال کے وقت جھڑک دینا۔
النَّاحِطُ: فَا۔ سخت کھانسی والا۔
النَّحِطُ وَ النَّحَاطُ وَ النَّحِيطُ: سینے میں رونے کی دہلی ہوئی آواز۔

النَّحِطَةُ: اسم مرۃ۔ اونٹ اور گھوڑوں کی ایک بیماری جو سینے میں ہوتی ہے اور جس سے بہت کم پتے ہیں۔

الْمَنَحِطَةُ وَ الْمَنَحْوِطَةُ: سینہ کی بیماری والا

النَّحَّازُ - اُونٹوں کی ایک بیماری جو پیچھڑے میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت کھانتے ہیں (و النحاز) اصل۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ كَرِيمٌ النَّحَّازُ“ وہ کریم الاصل ہے۔

النَّحِيزَةُ: طَبِيعَتُكَ كَمَا هِيَ“ ہُوَ كَرِيمٌ النَّحِيزَةُ“ وہ کریم الطبع ہے۔ سخت راستہ۔ بڑے راستہ سے نکلا ہوا چھوٹا راستہ۔ ج نَحَائِزُ۔

الْمِنَحَّازُ - ہاون۔ اوکھلی۔
نَحْسٌ (ف) نَحْسًا وَ نَحْسٌ (ك) نَحَاسَةٌ وَ نَحْوَسَةٌ طَالَعُ الْإِنْسَانِ: بد قسمت ہونا۔ منحوس ہونا۔ صفت نَحْسٌ وَ نَحِيسٌ وَ مَنَحْوِسٌ اور کہا جاتا ہے ”يَوْمٌ نَحْسٌ وَ نَحِيسٌ وَ نَاحِسٌ وَ نَحِيسٌ وَ أَيَّامٌ نَوَاحِسٌ وَ نَحِيسَاتٌ وَ نَحِيسَاتٌ“ نامبارک دن۔

نَحْسَةٌ (ف) نَحْسًا ظَلَمَ كَرَامًا: اَنْحَسَتِ النَّارُ: آگ کا زیادہ دھوئیں والی ہونا۔

نَحْسُ الْأَخْبَارِ: تجسس کرنا۔ سن گن لینا۔
تَنَحَّسَ الرَّجُلُ: بھوکا ہونا لَشْرَبِ الدَّوَاءِ: دوا پینے کے لیے بھوکا رہنا (وَ اِسْتَنَحَسَ) الْأَخْبَارَ وَ عَنَهَا: تجسس کرنا اور حقیقت دریافت کرنا۔

تَنَاحَسَ وَ اِنْتَحَسَ فَلَانَ: اوندھا کرنا۔
عَامٌ نَاحِسٌ - خشک سال ج نَوَاحِسُ النَّحْسِ: سر نامبارک۔ منحوس۔ کہا جاتا ہے يَوْمٌ نَحْسٌ وَ أَيَّامٌ نَحْسٌ: نامبارک دن ج نَحْوَسٌ وَ اَنْحَسٌ: النَّحْسُ: مشقت و تکلیف۔ ایسا معاملہ جس کا کوئی حل نظر نہ آئے۔ ٹھنڈی پچھوئی ہوا۔ اطراف آسمان میں غبار۔ النَّحْسَانُ: زلزل اور مَرَجُ السَّعْدَانِ: مشتری اور زہرہ۔

النَّحْسُ - مہینہ کی انیسویں، بیسویں، اکیسویں رات جن کو ظلم بھی کہتے ہیں۔

النَّحَاسُ: بَتَلِيثُ النَّوْنِ: تاننا۔ آگ۔ دھواں بغیر شعلہ کے۔ طَبِيعَتُكَ كَمَا هِيَ“

النَّحْوَرُ - سر۔ سینہ کا بالائی حصہ۔ ج نَحْوَرٌ۔ کہا جاتا ہے ”قَعْدُ فِي نَحْرِ فَلَانٍ“ یعنی اس نے فلاں کا مقابلہ کیا۔ ”نَحْرُ النَّهَارِ“ اُوٹنے کا مہینے کا ابتدائی حصہ۔ يَوْمٌ النَّحْرِ: ماوِیُّ الْحِجْرِ كَالدَّارِ وَ النَّحْرِ: حَازِقٌ - ماہر۔ سمجھ دار۔ دان پیمانہ۔

النَّاحِرُ - فَالِ النَّاحِرَانِ: سینہ کی دو رگوں کا نام۔
النَّاحِرَةُ النَّاحِرُ كَامُونْتٍ - مہینہ کا پہلا دن یا آخری دن یا آخری رات ج نَوَاحِرٌ وَ نَاحِرَاتُ النَّاحِرَتَانِ: سینہ کی دو رگوں کا نام۔

النَّحْوَرُ: ذَنَجٌ كَرْنَةُ وَاللَّاحِرَةُ النَّحْوَرِيُّ: حَازِقٌ - سمجھ دار۔ عقلمند۔ ج نَحَارِيُّرٍ۔

النَّحِيرُ: ذَنَجٌ كَمَا هِيَ - ج نَحْوَرِيٌّ وَ نَحْوَرَاءُ وَ نَحَائِرُ۔
النَّحِيرَةُ نَحِيرٌ كَامُونْتٍ - طَبِيعَتُكَ كَمَا هِيَ“ مہینے کا پہلا دن یا آخری دن یا آخری رات۔ ج نَحَائِرُ۔

الْمُنَحَّرُ - حلق میں ذَنَجٌ كَرْنَةُ كَمَا هِيَ“ مَقَامٌ ذَنَجٌ۔
الْمُنَحَّرُ - كَشَادَةٌ رَاسَتٌ۔

الْمِنَحَارُ - کریم۔ فیاض۔ بہت ذَنَجٌ كَرْنَةُ وَاللَّامِ مَهْمَانٌ نَوَازٌ - کہا جاتا ہے ”اِنَّهُ لِمِنَحَارٌ بَوَائِكُهَا“ وہ موٹے اُونٹوں کو بہت ذَنَجٌ كَرْنَةُ والا ہے یعنی بڑا مہمان نواز ہے۔

الْمِنَحْوَرُ: سینہ کا بالائی حصہ۔ ج مَنَحْوَرٌ۔
نَحْوَرَةٌ (ف) نَحْوَرًا: دُخ کرنا۔ ہٹانا۔ چھوٹا۔ ہاون میں کوٹنا بِرَجْلِهِ: ٹھوکر مارنا فی صَدْرِهِ۔
نَحْوَرٌ وَ نَحْرٌ (ك) وَ نَحْوَرٌ (س) نَحْوَرًا وَ نَحْرُ الْبَعِيرِ: پیچھڑے کی بیماری والا ہونا۔ صفت نَحْوَرٌ وَ نَاحِرٌ وَ نَحِيزٌ وَ مَنَحْوَرٌ۔
نَحْوَرٌ (س) نَحْوَرًا: الرَّجُلُ: کھانسا۔
اَنْحَزَ الْقَوْمُ: پیچھڑے کی بیماری والے اُونٹوں کا مالک ہونا۔

اونٹ یا گھوڑا۔
النَّحَاطُ متکبر۔ مغرور۔
نحف (س) و نحف (ک) نحافلاً غر
ہوتا یا خلقاً ذُبلًا ہوتا۔ مفت نحف ج
نحفون و نحیفن نحفاء و نحاف و
منحوف۔
أنحفه لاغر کرنا۔ ذُبلًا کرنا۔
نحل (ف ن) و نحل (س) و نحل
(ک) و نحولا۔ بیماری یا تھکن سے ذُبلًا
ہونا۔
نحل (ف) نحلًا الرّجل دینا المرأۃ
مہر دینا۔ اسم النحلۃ نحلًا القول غلابات
منسوب کرنا زیدًا کجالی دینا المرض لاغر
کرنا۔
نحل الشاعرو قصیدۃ دوسرے کا قصیدہ
منسوب کیا جاتا۔
أنحل و نحل فلانًا ماء دینا ہ مالا
دینے کے لیے خاص کرنا۔ أنحلہ الهم او
المرض غم یا بیماری کا کسی کو لاغر کرنا۔
النحل و تنحل مذهب کذا او قبیلۃ
کذا منسوب ہونا۔ أنحل و تنحل
الشعر او القول دوسرے کے شعر یا قول کو
اپنی طرف منسوب کرنا۔
النحل شہد کی کھیاں۔ واحد نحلۃ۔
النحل لاغر و ذُبلًا عطیہ۔ بخشش۔ نیا چاند۔
کہا جاتا ہے "اهلۃ نحل"
النحل والنحلی والنحلان عطیہ۔ بہہ۔
النحلۃ والنحلۃ عطیہ۔ بہہ۔ عورت کو مہر
دینا۔ دعویٰ۔ مذہب۔ دین۔ ج نحل و
نحل کہا جاتا ہے "ما نحلنک" یعنی تمہارا
دین کیا ہے۔
النحل النحلۃ لاغری۔
النحل فا۔ باریک کہا جاتا ہے "سیف
ناحل" یعنی باریک تلوار۔ "وجمل ناحل"
یعنی لاغر اونٹ۔ ج نحول (جیسے شاہد و
مشہود)
الناحلۃ الناعل کا مؤنث۔ ج نواحل

النواحل وہ تلواریں جن کی دھاریں کثرت
استعمال سے پتلی ہو گئی ہوں۔
النحیل ذُبلًا ج نحلی
نحیم (ض) نحما و نحما و نحمانًا
الرّجل کھٹکھارنا۔
الاسد شیر کا گونجنا۔
انتخم علی کذا و کذا پختہ ارادہ کرنا۔
النخام سرخ رنگ اور لمبی گردن اور ٹیڑھی
چوڑی والی مرغالی۔ واحد نخامة۔
النخمة کھانسی۔
النخیم پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔
رّجل نخم پیٹ کی گڑگڑاہٹ والا مرد۔
النخام بہت پیٹ کی گڑگڑاہٹ والا شیر۔
بخیل۔
نخن ہم۔ جمع متکلم کی ضمیر۔
نخنح و نخنح الرّجل گلا صاف کرنا۔
کھٹکھارنا۔ سینے سے آواز نکالنا۔ نخنح فلانًا
بری طرح سے ہٹانا۔ کہا جاتا ہے "ما آنا
بنخنح النفس عن کذا" میرا جی اس سے
خوش نہیں۔
النخنحة بخیل و کینے۔
نحا ینحو نحو الشی قصد کرنا۔ نحا
نحو فلان پیروی کرنا۔ نحا بصرۃ الیہ
کسی کی طرف نگاہ پھیرنا الرّجل اپنی دو
جانہوں میں سے ایک جانب جھکا ہوا ہونا فلانًا
عندہ پھیرنا۔ ہٹانا الشی جھکانا۔
نخی تنحیۃ الرّجل عن موضعه ہٹانا۔
مزعول کرنا۔ علیحدہ کرنا۔
ناخاۃ مناحاۃ باہم ایک دوسرے کی جانب
ہونا۔
انحی انحاء اعتماد کرنا۔ کسی جانب جھکانا
علی فلان ضربا متوجہ ہونا بصرۃ عندہ
نگاہ پھیر لینا عندہ اعتماد کرنا۔
انحی انحاء الشی و الرّجل قصد
کرنا لہ اعتماد کرنا اور جھکانا لبعیر علی شفقہ
الایسر اونٹ کا بائیں جانب جھکانا۔
ننخی عن حد صعبہ جد ہونا للشی اعتماد

کرنا الرّجل کلام میں اعراب استعمال کرنا۔
النحہ جانب۔ جہت۔ راستہ۔ مثل۔
مقدار۔ قصد و ارادہ۔ اور بطور ظرف و اسم
مستعمل ہوتا ہے ج انحاء و علم النحوی
وہ علم جس میں کلمات عرب کے احوال مثل
اعراب دینا و ترکیب و افراد سے بحث کی جائے
اور اس علم کا نام علم نحوی اس وجہ سے ہے کہ متکلم
عرب کے طریقے پر چلتا ہے۔ ج انحاء و
نحو اور تفسیر نحویہ سے دلوا و ذلیۃ۔
النحوی علم نحو کا جاننے والا۔ ج نحویون۔
النحی فا۔ نحو کا جاننے والا۔ ج نحاۃ۔
النحیۃ جانب و جہت۔ جناحیات و
نواح و انحیۃ۔
نخی بنخی و بنخی نخیاً اللبن دودھ
بلونا۔ متھنا۔ مسک نکالنا الشی زائل کرنا
بصرۃ الیہ نگاہ پھیرنا۔
نحاد بنحیہ نخیاً ایک گوشہ میں کرنا۔
أنحی لہ السّلاح۔ تھمیر سے مارنا علیہ
بالسّف تلوار کے ساتھ متوجہ ہونا۔ کہا جاتا
ہے انحی علیہ باللواۃ وہ اس پر ملامت
کے ساتھ متوجہ ہوا۔
نحاد تنحیۃ زائل کرنا۔ جھکانا۔
تنحی تنحیاً زائل ہونا۔ جھکانا۔
انحی فی الأمر کو شش کرنا فی الشی
اعتماد کرنا۔
النحی والنحی والنحی گھی کی مشک۔
دودھ بولنے کا برتن۔ چوڑے پھل کا تیر۔ ج
انحاء و نحاء و نحی۔
النحیۃ ارادہ۔ نشانہ۔ کہا جاتا ہے "فلان
نحیۃ الشّدائد" فلاں سختیوں کا نشانہ ہے۔
المسحاۃ پانی پینے کی بیچ دار جگہ۔ پانی لانے
والے اونٹ کا راستہ۔ ج مناح۔ اهل
المنحاة بیگانے لوگ۔
نخ (ن) نخا تیز چلنا۔ الابل اونٹ کو تیز
پالنا الابل و بالابل اونٹ بھانے کے لیے
اخ یا نخ یا نخ کہنا۔
النخ من لبافرش۔ ج انخاخ

النخحة اسم مرة۔ ہلکی پارش۔ کام کرنے والے تیل۔ باندی غلام۔ خبر جس کا بیج یا جھوٹ معلوم نہ ہو۔

النخحة کام کرنے والے تیل۔
النخ والنخاحة۔ گودول مغز۔

نخب (ن) نخب الشئ کھینچنا۔ عمدہ صفت لیمانہ نخبت النملة۔ چوٹی کا کاٹنا الصفر الصید۔ باز کا شکار کے دل کو نکال لینا۔

نخب (س) نخبا۔ بزدل ہونا۔ صفت نخب و نخب و نخب و نخب و نخب۔

انخب الرجل۔ بزدل بچہ پیدا کرنا۔ بہادر بچہ پیدا کرنا۔
انخب الشئ کھینچ کر نکالنا۔ چننا۔

النخب مفس۔ بزدلی۔ دل کی کمزوری۔ بزدل۔ جام صحت۔ اور عوام کہتے ہیں شرب سرہ او علی صحبته (والنخبة) ڈبر۔ النخبة بزدل۔

النخبة والنخبة۔ چنا ہوا۔ ج نخب النخبة۔ نخب لوگ۔ دوست کے جام صحت کا پیمانہ پلانا۔ ج نخبات۔ النخبات بزدل لوگ۔

النخب ج نخب والمنخوب والمنخوب بزدل۔ بے دل۔ المنخوب ذبلا کم گوشت والا والمنخوب لب۔ النخاب دل کی جھلی۔

المنخبة حلقہ دوبر۔
المنخاب کمزور۔ ناکارہ۔ ج منخاب۔

نخت (ن) نختا الطائر الشئ پرندہ کا چوچ مارنا القول۔ انتہا تک پہنچانا لشجر۔ درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔

نخج (ض) نخجا السيل في سند الوادي۔ سیلاب کا وادی کے بلند کناروں سے نکلنا الدلو وبالذلو في البئر۔ ڈول کو بھر جانے کیلئے کنوئیں میں پلانا الجاربة۔ جماع کرنا۔

استنخج الرجل۔ سختی کے بعد نرم ہونا۔

النخيجة۔ باریک کھن جو منگ سے رس کر لکے۔

نخو (ض ن) نخرا و نخيرا الانسان او الدابة خرا لے لیا۔

نخو (ف) نخا الحالب الناقة۔ دوہنے کے لیے تختوں میں انگلی ڈال کر کھیلانا۔

نخو (س) نخرا العود او العظم و نخوة۔ لکڑی یا ہڈی کا بوسیدہ ہونا۔ ریزہ ریزہ ہونا۔ صفت ناخرة و نخو۔ نخرة۔ بوسیدہ کرنا۔ گفتگو کرنا۔

النخوة من الريح ہوا کا تیز بہاؤ (والنخوة) ناک کا اکلاہ۔ ج نخو۔

النخو۔ ف۔ بوسیدہ۔ ریزہ ریزہ۔ حملہ کرنے والا سور۔ گدھا۔ اور بقول بعض گھوڑا ج نخو کہا جاتا ہے ما بالذار ناخو گھریں کوئی نہیں۔

النخوة الدحر کامونٹ۔ بوسیدہ ہڈیاں۔ گھوڑے یا گدھے۔

النخار۔ بہت خرا لے لینے والا۔ النخوار۔ بزدل۔ کمزور۔ شریف۔ مغرور ج نخاورة۔

المنخو والمنخو والمنخو والمنخو مناجير۔ او نئی کہ جب تک تختوں میں انگلی ڈال کر نہ کھیلائیں دودھ نہ دے۔

نخرب السحرة۔ درخت میں سوراخ کرنا۔
النخروز سوراخ۔ پتھر کا شکاف۔ ج نخاريب۔ نخاريب النخل شہد کے چمتے کے خانے۔

نخزة (ف) نخرا بالحديده۔ مارنا ذہ بکلمة۔ تکلیف پہنچانا۔

نخس (ف ن) نخسا الدابة۔ جانور کے پہلویا پھیلنے صہ پر لکڑی وغیرہ چھو کر آسانا بفلان۔ ہڑکانا۔ براہیختہ کرنا البكرة۔ چرخی میں چکر لگانا۔

نخس لحمہ کم ہونا البعير اونٹ کی دم کے قریب خارش ہونا۔ صفت منخوس۔

تناخست الغنم۔ بھیڑ بکری کا سردی کی وجہ سے ایک دوسرے سے گرمی حاصل کرنا۔ الغدران۔ تالابوں کا ایک دوسرے میں پانی پہنچانا۔

النخاس۔ فاوونٹ کی دم کے قریب خارش (والنخوس) جوان پہاڑی بکر۔ النخيس۔ چرخی کہ لس کا سوراخ چوڑا ہو گیا ہو تو چکر لگا کر تنگ کر دیا جائے۔

النخيسه۔ بھیڑ بکری کا ملا ہوا دودھ۔ مکھن۔ النخاس۔ چرخی کے سوراخ کو تنگ کرنے کا پتھر۔ نخاسا البيت۔ گھریا خیمہ کے ستون۔

النخاسة۔ بمعنی نخاس (والنخاسة) غلاموں یا جانوروں کی بیخ۔

النخاس۔ بہت چھوٹے والا۔ غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرنے والا۔

المنخس۔ آگس۔ مہیز۔ ج مناخس۔ کہا جاتا ہے "هو ابن نخسة" وہ حرامی بچہ ہے۔

نخسة (ن) نخسا۔ براہیختہ کرنا۔ تکلیف دینا الشئ۔ حرکت دینا الدابة۔ جانور کو تیز ہانکنا۔ العود۔ لکڑی چھیلانا۔

نخش (ف) نخسا و نخس۔ دبلا ہونا۔ نخس (س) نخسا الشئ کسی چیز کا نچلا صہ بوسیدہ ہونا۔

النخش الی کذا۔ حرکت کرنا۔ نخس۔ سر مال کا ایک ٹکڑا۔

نخص (ف ن) نخصا الرجل۔ لاغر ہونا۔ جھریوں والا ہونا۔

نخصه و انخصه الكبير او المرض۔ لاغر کرنا۔ جھریوں والا ہونا۔

نخص (س) نخصا و انخص لحمه۔ کم گوشت ہونا۔

عجوز ناخص۔ جھریوں والی بوہیا۔ نخط (ن) نخطا اليهم۔ اچانک آنا۔

المخاط من الفه۔ ناک سے ریخت صاف

انتسخی انتحاء علینا براہینا۔ تکبر کرنا من
کذا تک جانا۔

التخوة سر۔ دلیری۔ مروت۔ بوائی۔ کبر و
غرور۔ فخر۔

ندد (ض) نددا و ندیدا و ندودا و ندادا
البعیر۔ اونٹ کا بدم کر بھاگ جانا۔ کہا جاتا
ہے نددت الکلمة: شاذ ہونا۔ تم مستعمل
ہونا۔

ندد الابل اونٹوں کو متفرق کرنا بالشی
بدنام کرنا بفلان۔ عیوب ظاہر کرنا۔ قبیح بات
سنانا صرته۔ آواز بلند کرنا۔

اند الابل اونٹوں کو متفرق کرنا۔

نادة منادة مخالفت کرنا۔

تناد القوم باہم مخالفت کرنا۔ ایک دوسرے
سے بدنام کرنا۔ متفرق ہونا۔ تنادت الابل:

اونٹوں کا بدم کر بھاگ جانا۔

النأد۔ اور کہا جاتا ہے "لیس لهم نأد"
ان کیلئے رزق نہیں۔ ج نداد۔

الندئیلہ۔ بلند پشت۔

الندئیل۔ کہا جاتا ہے "ما لہ ندد" اس کی
کوئی نظیر نہیں۔ ج انداد۔

الندید۔ مثل و نظیر۔ ج ندداء۔ مؤنث
ندیدة۔ ج ندادند۔ کہا جاتا ہے ماله ندید

اس کی کوئی نظیر نہیں۔

النناد۔ سر "یوم النناد و یوم النناد"
وال کی تخفیف کے ساتھ بمعنی یوم قیامت۔ کہا

جاتا ہے "ذہبوا انادید و تنادید" وہ لوگ
ہر طرف پراگندہ ہو گئے۔

نداء (ف) نداء خوف دلانا۔ نداء اللحم:

گوشت کو آگ میں دبانا الملة۔ جو بھل جانا
علیہم۔ ظاہر ہونا۔ سامنے آنا۔

الندی۔ آگ میں دبا ہوا گوشت۔

الندی والنداء والنداء آفتاب کے

طلوع و غروب کے وقت بادلوں کی سرفی۔

قوس قرح۔ النداء والنداء آفتاب کا

دائرہ۔ چاند کا ہالہ۔ مال مویٹیوں کی زیادتی و

بہتات۔

بھوسی دور کرنا الشی۔ چننا۔ صاف کرنا۔
النصیحة او الود لفلان۔ سچی خیر خواہی یا

خالص دوستی کرنا۔ (و نخن) السحاب

الفلج بادل کا پتھر برسانا۔ برف گرانا۔

تنخل و انتخل الشی۔ چننا۔ عمدہ لینا۔

النخل و النخیل۔ کھجور کا درخت۔ واحد
نخلۃ و نخیلۃ۔

النخلیات ایک تنے والے درخت جس کی

شامیں نہ ہوں۔

النخالۃ۔ بھوسی جو چھلنی میں رہ جائے۔ غلہ جو
چھانا جائے۔

النخیلة۔ طبیعت۔ خالص خیر خواہی۔ ج

نخائل۔ کہا جاتا ہے "لا یقبل اللہ الا"

نخائل القلوب" اللہ تعالیٰ صرف خالص

نیوٹوں کو قبول فرماتے ہیں۔

الناخل۔ فاد کہا جاتا ہے "انہ ناخل"

الصدر" وہ خیر خواہ ہے و "نصیحة ناخلۃ"

سچی خیر خواہی۔

النخال۔ بہت کھجور کے درختوں والا۔ آنا

چھاننے والا۔

المنخل و المنخل۔ چھلنی۔ ج مناخیل۔

نخم (ن) نخما۔ کھینا۔ عمدہ گانا۔ صفت

ناخم۔

نخم (س) نخما و نخما و تنخم۔

کھکھارنا۔ ناک صاف کرنا۔

نخم (س) نخما الرجل۔ تھکانا۔

النخامة۔ کھکار۔ ریٹ۔ بلغم۔

النخمة۔ اسم مرۃ۔ کھکار۔ ریٹ۔

خوبصورتی و زیبائی۔ بہادری۔ طمانجی۔

نخنخ البعیر۔ اونٹ کو بھٹانا نخنخ فلانا:

ڈانٹنا۔ ہٹانا۔ نخنخ الرجل۔ تیز چلنا۔

نخنخ بالابل الخ الخ کہہ کر ڈانٹنا تاکہ پیٹھ

جائے۔

نخنخ البعیر۔ اونٹ کا بیٹھنا۔

نخا بنخو نخوة الرجل تعریف کرنا۔

نخی نخوة الرجل۔ فخر کرنا۔ براہینا۔

انتخی انتحاء کبر و غرور زیادہ ہونا۔

کرنا۔

نخطن (ن) نخطا لفلان کالی دینا۔ عیب

ظاہر کرنا علیہ تکبر کرنا۔

انتخطہ مشابہ ہونا۔ انتخط المخاط من

أنفه ناک صاف کرنا۔

النخط و النخط۔ لوگ۔ کہا جاتا ہے "ما

أدرى أى النخط هو" میں نہیں جانتا کہ وہ

کون آدمی ہے۔

النخط حرام مغز۔ بچہ دانی کی جھلی کاپانی۔

النخط۔ بہادری کی وجہ سے نیزہ سے کھیلے

والے لوگ۔

نخع (ف) نخعا الذبیحة ذبح کرنے میں

چھری کو حرام مغز تک پہنچانا الأمر علماً:

اچھی طرح سے آگاہ ہونا۔ الطاعة او

النصیحة: فرمانبرداری یا نصیحت یا خالص

طریقے سے کرنا الرجل: بیٹے یا ناک سے کسی

چیز کو گرانے (نخوعاً) لہ بحقہ: اقرار کرنا۔

نخع (س) نخعا العود او النبات:

کڑی یا نباتات سے پانی نکالنا فلان بحقی:

اقرار کرنا۔

تنخع الرجل: کھکھارنا (انتخع)

السحاب: سارا پانی برسا دینا۔ وانتخع

الرجل عن أرضه دور ہونا۔

النخاع۔ بلیغ النون: حرام مغز۔ ج نخع:

النخاعة کھکھار۔ بلغم۔

النخوع سر۔ حق کا اقرار۔

الانتخاع اسم تفصیل۔ بمعنی اول واقبر۔ بہت

زیادہ ہلاک کرنے والا۔

المنخع گردن اور سر کا اندرونی جوڑ۔ حرام

مغز کئے کی جگہ۔

نخف (ف ن) نخفا و نخیفاً۔ جھپکے

ہوئے آواز نکالنا (اور یہ بکری کے لیے خاص

ہے)

النخف۔ جھپکے ہوئے بہت آواز نکالنا۔

النخفة۔ پہاڑ کی چوٹی میں پست زمین۔

النخاف۔ چری موز۔ ج انخفة۔

سحل (ن) نخلا المدیق: آنا چھاننا۔

النَّدَاةُ وَالنَّدَاةُ. متفرق گھاس کا ایک حصہ۔
 ج نَدَاءٌ
 نَدَبٌ (ن) نَدْبًا الْمَيْتُ: میت پر رونا۔
 میت کی خوبیاں شمار کرنا فَلَانًا إِلَى الْأَمْرِ أَوْ
 لِلْأَمْرِ: بلانا۔ برا بھلا کرنا ه إِلَى الْحَرْبِ:
 لڑائی کی جانب متوجہ کرنا ب صفت فاعلی
 نَادِبٌ. صفت مفعولی مَنْدُوبٌ مَنْدُوبٌ أَوْ أَمْرٌ كُو
 مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ كَيْتَمِيں اور اسم النَّدْبِيَّةُ
 نَدَبٌ (س) نَدْبًا وَ نُدُوبًا وَ نُدُوبِيَّةُ
 الظَّهْرُ: پیٹ پر زخم کا نشان ہونا۔ صفت ندیب
 (نَدْبًا وَ نَدَبٌ) الْجُرْحُ: نشان زخم سخت
 ہونا۔ أَنْدَبٌ فَلَانٌ نَفْسَهُ وَ نَفْسَهُ:
 خطرے میں ڈالنا۔ أَنْدَبُ الْجُرْحُ فَلَانًا:
 نشان ڈالنا بظہرہ و فِي ظَهْرِهِ: نشان
 چھوڑنا۔
 نَدَبٌ (ك) نَدَابَةُ الرَّجُلِ: زیرک ہونا۔
 ہو شیاد و جست ہونا۔
 أَنْدَبٌ لِفَلَانٍ: ترویج کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "تَكَلَّمَ فَانْتَدَبَ لَهُ فَلَانٌ" اس نے گفتگو کی
 اور فلاں نے اس کی ترویج کی۔ اِنْتَدَبَ لَهُ لِأَمْرٍ
 بلاوے پر جواب دینا اور کہتے ہیں "خُذْ مَا
 اِنْتَدَبَ" یعنی لوجو آسان ہو۔
 النَّدْبُ: سر فضائل کی طرف سبقت کرنے
 والا۔ شریف دانا۔ مرد کم حاجت۔ ج نُدُوبٌ
 وَ نَدْبَاءٌ. فرس نَدَبٌ: تیز گھوڑا۔
 النَّدْبُ: سر نشان زخم۔ ج نُدُوبٌ. گھوڑ
 دوڑنا تیر بازی کی شرط کہ جو غالب ہو لے لے۔
 تیز تیز پھینکنے والی کمان۔ کہا جاتا ہے "زَمِينًا
 نَدْبًا" یعنی تیز تیز پھینکنے والی کمان چلائی۔ ج
 أَنْدَابٌ.
 النَّدْبِيَّةُ: اسم مرؤة۔ مؤنث النَّدْبُ
 (و النَّدْبِيَّةُ) نشان زخم جو جسم پر باقی رہ جائے۔
 ج نَدَبٌ ج نُدُوبٌ وَ أَنْدَابٌ.
 النَّدْبِيَّةُ: میت کے محاسن و فضائل بیان کرنا
 اور کہا جاتا ہے کہ "عَرَبِيَّةٌ نَدْبِيَّةٌ" یعنی فصیح
 عربی
 الْمُنْتَدَبُ: میت پر رونا۔ ج مَنَادِبٌ.

الْمُنْتَدَبِيُّ: مرد کم حاجت۔
 نَدَحٌ (ف) نَدَحًا الشَّيْءُ: کشادہ کرنا۔
 نَادَحَةٌ: کسی سے کسی چیز کے زیادہ ہونے میں
 مقابلہ کرنا۔
 تَنَدَّحَتْ وَ اِنْتَدَحَتْ الْعُتْمُ فِي مَرَابِضِهَا
 او مَسَارِحِهَا: بکریوں کا بیٹھے کی جگہ یا چراگاہ
 میں منتشر ہونا۔ متفرق ہونا۔ وَ تَنَدَّحَتْ پَرِي
 شُكْرًا مَعَهُ پھولنا۔
 النَّدْحُ وَ النَّدْحُ: کشادگی۔ کثرت۔ پہاڑ کا
 کنارہ جو تمہارے مقابل ہو۔ ج اِنْدَاحٌ.
 النَّدْحُ وَ النَّدْحُ وَ النَّدْحَةُ وَ النَّدْحَةُ:
 کشادہ زمین۔
 النَّدْحُ: بوجھ۔ چیز جس کو تم دور سے دیکھو۔
 الْمُنْدُوْحَةُ وَ الْمُنْتَدِحُ: کشادگی۔ گنجائش۔
 کہا جاتا ہے "لَكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْدُوْحَةٌ
 او مُنْتَدِحٌ" تم کو اس کام میں آزادی ہے اور
 تم کو اس کا چھوڑنا ممکن ہے "وَلَكُ مِنْتَدِحٌ فِي
 الْبِلَادِ" تمہارے لیے ملکوں میں گنجائش ہے
 اَرْضٌ مَنْدُوْحَةٌ: دور کی کشادہ زمین۔
 الْمُنَادِحُ: دُور کی کشادہ زمین۔
 نَدْحُهُ (ف) نَدْحًا: کھڑا دینا۔ سمندر کا
 مسافر کہتا ہے "اِنْدَحْنَا الْمَرْكَبَ سَاحِلَ
 كَذَا" ہم نے جہاز کو فلاں ساحل سے نکلوا دیا۔
 تَنَدَّحَ الرَّجُلُ: بڑا نکلتا۔
 الْأَنْدَحُ: بیوقوف بھی کم بولنے والا۔
 الْمُنْتَدِحُ: بری بات کہنے اور سننے میں
 لاپرواہ۔
 نَدْرٌ (ن) نَدْرًا وَ نَدْرًا: الشَّيْءُ: نادر
 ہونا۔ کسی چیز میں سے گر کر نمایاں ہونا مِنْ
 مَوْضِعِهِ: زائل ہونا فَلَانٌ مِنْ قَوْمِهِ: نکل
 جانا الشَّجَرَةُ: پتیاں نکلنا یا سبز ہونا الشَّيْءُ:
 تجربہ کرنا النَّبَاتُ: پھول والی ہونا الرَّجُلُ:
 مرنا الرَّجُلُ فِي فَضْضٍ أَوْ عِلْمٍ: فضیلت یا
 علم میں بڑھ جانا۔
 نَدْرٌ (ك) نَدَارَةُ الْكَلَامِ: فصیح ہونا۔ عمدہ
 ہونا۔ عجیب و غریب ہونا۔
 أَنْدَرٌ: نادر قول یا فعل کرنا الشَّيْءُ: گرا نا

العَظْمُ: جگہ سے ہٹانا۔
 تَنَادَرُوا عَلَيْنَا: نادر بیان کرنا۔ وَ تَنَادَرُوا
 الشَّيْءُ: گرا نا۔
 اسْتَنْدَرَهُ: نادر سمجھنا الْقَوْمُ أَثَرُهُ: پیچھے جانا۔
 النَّدْرُ: نادر۔ کہا جاتا ہے "شَيْءٌ نَدْرٌ" نادر
 چیز یہ وصف بالمصدر ہے۔
 النَّدْرَةُ: چاندی یا سونے کا ٹکڑا جو کان میں پایا
 جائے (و النَّدْرَةُ) کمی۔ کیالی۔ کہا جاتا ہے "لَا
 يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا نَدْرَةً وَ فِي النَّدْرَةِ" یعنی
 یہ بہت کم ہے۔
 النَّادِرُ: فَا مِنْ الْكَلِمِ: کیاب۔ شاذ و مخالف
 قِيَسٍ مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا حصہ۔
 النَّادِرَةُ: النَّادِرُ كَا مَوْثَفٍ: ج نَوَادِرُ:
 نَوَادِرُ الْكَلَامِ: عجیب کلام۔ شاذ۔ فَصِيحٌ وَ
 عَمْدَةٌ: اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَادِرَةُ الرَّمَانِ" وہ
 کیتائے زمانہ ہے۔
 النَّادِرِيُّ: نادر کیاب اور اسی سے ہے جو کہا
 جاتا ہے "لَقِيْتَهُ نَدْرِي وَ فِي نَدْرِي
 وَ النَّادِرِيُّ وَ فِي النَّادِرِيِّ" یعنی میں نے اس
 سے گاہے ماہے ملاقات کی۔
 الْأَنْدَرُ: گیبوں کا کھلیان۔ کھلیان۔ ج نَوَادِرُ:
 الْأَنْدَرِيُّ: مؤنث سی۔
 نَدَسُهُ (ن) نَدَسًا بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا۔
 ه بِكَلِمَةٍ: کسی کے متعلق کوئی کلمہ کہہ دینا۔
 نَدَسٌ بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر پیک دینا۔ عَنِ
 الطَّرِيقِ: راستہ سے ہٹانا عَلَيْهِ الظَّنُّ: بدگمانی
 کرنا الْأَرْضُ بِرَجْلِهِ: زمین پر پاؤں پکنا۔
 نَدِسٌ (س) نَدَسًا الْغَلَامُ: سمجھدار و
 زیرک ہونا۔ صفت نَدَسٌ وَ نَدِسٌ وَ نَدَسٌ:
 نَادَسَهُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔
 تَنَدَسَ: گر پڑنا۔ پچھڑنا۔ کہا جاتا ہے "نَدَسَ
 بِهِ الْأَرْضُ فَتَنَدَسَ" اس نے اس کو زمین پر
 پیک دیا اور وہ گر گیا مَاءُ الْبَيْتْرِ: کتوس کے پانی
 کا بہنا الرَّجُلُ الْأَخْبَارُ وَ عَنِ الْأَخْبَارِ:
 خبروں کی جستجو کرنا تاکہ دوسروں سے مخفی خبر
 معلوم ہو جائے۔
 تَنَادَسَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو بڑا بھلا کہنا۔

تندام القوم علی الشراب ہم نشین
کرتا۔
انندم الامر آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے ”نخذ
ما انتدم لوجو آسان ہو۔
النادم پشیمان۔ شرمندہ۔ ج نادمون و
ندام۔
النذمان پشیمان و شرمندہ۔ ج نذامی و
نذمان (مثل مفرد کمؤنت نذمانۃ و نذمی۔
النذمان مجلس شراب کا ہم نشین۔
النذم تیز طبیعت۔ زیرک۔
النذم ہر نشان۔
النذیم والنذیمۃ مجلس شراب کا ساتھی۔
رفیق و ساتھی۔ ج نذام و نذماء و نذمان۔
المنذم پشیمانی۔
المنذمة باعث پشیمانی۔
ندہ (ف) نذھا الرجل آواز دینا
الرجل ڈانٹنا۔ چلا کر دھکارتا الابل اکٹھا
باکتا۔
انتدہ و استندہ الامر درست ہونا۔
النذہ والنذہۃ بہت مویشی۔ النذہۃ
آواز۔
النواذہ دھکیاں۔
ندا ینذو نذوا القوم جمع ہونا اور مجلس
میں حاضر ہونا القوم مجلس میں جمع کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”ما ینذوہم النادی“ مجلس میں ان
کیلئے گھنٹا بجائیں نہیں الرجل بخشش کرنا۔ جدا
ہونا الشی بتفرق ہونا۔
ندی یندی ندی و نداوۃ و نذوۃ
الشی تر ہونا۔ الارض تری پہنچنا۔
الصوت دور کی ہونا۔ اور کہا جاتا ہے ”ما
ندیث بشی من فلان ہمیں نے فلاں سے
کچھ حاصل نہیں کیا۔“ زمیث بصری فلم
ینذلنی شی ”میں نے نگاہ ڈالی میرے لیے
کوئی چیز متحرک نہیں ہوئی“ وما ندینی من
فلان شی ”مجھے فلاں سے مجھ کو ایسی چیز
نہیں پہنچی جس کو میں ناپسند کرتا ہوں و ”لم
یند منہم ناد“ یعنی ان میں سے کوئی باتی

ندف (ض) نذفا القطن روئی دھنا۔
بالعود او السحر بریط یا سارگی بجانا
الطعام کھانا الدابۃ چوپایہ کو تیز باکتا۔
تذقت السماء بالفلج آسان کا برف
برساتا۔
نذفت (ض) نذفا و نذیفا و نذفانا
الدابۃ قار میں تیزی سے دونوں اگلی ناگوں
کو پھراتا۔
انذف بریط کی آواز کی طرف مائل ہونا۔
الدابۃ چوپایہ کو تیز باکتا الکلب بکتے کو
پلاتا۔
نذف تندیفا القطن روئی دہنا۔
النذفہ جوڑا سا روہ۔
النذاف دھنا۔ بریط نواز۔ بہت کھانے
والا۔
الندافۃ روئی دھنے کا پیشہ۔
الندیف من القطن دھنی ہوئی روئی۔
المنذف والمنذفۃ روئی دھنے کی کمان۔
ندل (ن) ندلا الشی جلدی سے اچک
لینا۔ تنقل کرنا الدلہ من البئر کنوئیں سے
ڈھول کھینچنا سلسلہ پانچاٹھ کرنا۔
ندلت (س) ندلا یدۃ ہاتھ کا میلا پھیلا
ہونا۔
تندل و تمندل بالمنذیل رومال سے
پونچھنا۔ سر پر رومال لپیٹنا۔
انتدل المال برداشت کرنا۔
التدل ہر میل پھیل۔
التدل کھانا کھلانے والے خدام۔
المنذل چرمی موزہ۔ عود۔ ج منادل۔
المنذل والمنذیل والمنذیل رومال۔ ج
منادل و منادیل المنذل اچک لینے
والا۔ وہ شخص جو دونوں ہاتھوں سے چلوے۔
ندم (س) ندما و ندماۃ و تندم علی ما
فعل پشیمان کرنا۔
انذمہ پشیمان کرنا۔
نادمہ نادما و منادمۃ علی الشراب ہم
نشین ہونا۔

الندس مس۔ پست آواز۔ پست آواز کو تیز
سننے والا۔ سمجھ دار۔
الندس سمجھ وزیر کی۔
رماح نوادس لگنے والے نیزے۔ زخم
کرنے والے نیزے۔
المنذاس من النساء بلکہ پھلکی سمجھ دار
عورت۔
المنذومۃ گہریلا۔
ندش (ض) ندشا و ندشا عن الشی
کھود کرید کرنا القطن روئی دھنا۔
ندص (ن) نذصا و نذوصا الشی من
الشی نکل جانا الرجل جلدی سے نکلنا علی
القوم بمرودہ چیز کے ساتھ ظاہر ہونا القوم
لوگوں کے ساتھ شرارت کرنا (نذوصا)
عینہ بگا گھونٹنے ہوئے کی مانند آنکھیں باہر کو
نکل پڑنا۔
ندصت (س) نذصا البثرۃ پھنسی سے
دبانے کی وجہ سے خون نکلنا۔
انذص و استندص حقہ من فلان جن
وصول کرنا۔ حاصل کرنا۔
المنذاص قوم کے ساتھ ہمیشہ بدی و
شرارت کرنے والا۔ ج مناذبص۔
امراۃ منذاص و نذصۃ بیوقوف بد زبان
عورت۔ خیف العقل عورت۔
ندغلاف (ف) ندغالی چھوٹا۔ ہ بالمرح
او الکلام نیزہ مارنا۔ برا کہنا الرجل غمگین
کرنا۔ ندغۃ العقرۃ بچھو کا ڈنسا۔
ندغ الصبی بگدایا جانا۔
ندغ العجین گوتمھے ہوئے آٹے پر
خشک آٹا ڈالنا۔
نادغۃ باہم عشق بازی کرنا۔
انذغ بہ براسلوک کرنا۔
انتذغ آہستہ ہنسنا۔
الندغ والنذغ جنگلی مضر۔ النذغ شہد۔
النذغۃ والمنذغۃ ناخن کی جڑ کی سفیدی۔
المنذغ نیزہ باز۔ کلام سے تکلیف پہنچانے
والا۔

نہیں رہا۔

نَدَى تَنْدِيَةُ الشَّى تَرَكْنَا الفَرَسُ :
گھوڑے کو پلانا۔ پسند آنے تک دوڑانا۔
نَادَى مُنَادَاً وَ نَدَاءَ الرَّجُلِ وَ بِالرَّجُلِ

پکارنا فَلَانًا مجلس میں ہم نشین ہونا۔ مفاخرت
کرتا۔ نَادَى بِسِرِّهِ بَعِيدٌ ظَاهِرٌ كَرَمًا الشَّى :
دیکھنا اور جاننا فَلَانًا بِشُورِهِ كَرَمًا النَّبْتُ :
نباتات کا ظاہر ہونا اور مخفی ہونا۔ کہا جاتا ہے
"نَادَى الطَّرِيقُ لِفَلَانٍ وَ نَادَاهُ لِيَتَنَّى فَلَانٌ"
کیلئے راستہ ظاہر ہو گیا۔

انْدَى اِنْدَاءَ الرَّجُلِ بَهْتٌ وادو دہش والا
ہونا۔ سخی ہونا۔ صاحب فضل ہونا الشَّى سَخِيٌّ
کرتا الْكَلَامُ : بد انتہائی کے خوف سے کہنے
والے پانسنے والے کو پسند لانا۔

تَنْدَى الرَّجُلِ : سخی ہونا۔ مہربان ہونا۔
سِرَابٌ ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَ حَتَّى
تَنْدَى اِسْنِيْ بِبَاهِيَا تِكْ كِه سِرَابٌ هُوَ
اَلْمَكَانُ كَيْلَا هُوَا۔"

تَنَادَى الْقَوْمُ : ایک دوسرے کو پکارنا
(و انْتَدَى) الْقَوْمُ : مجلس میں جمع ہونا۔
و انْتَدَى الرَّجُلُ : مجلس میں حاضر ہونا۔ کہا
جاتا ہے "مَا انْتَدَيْتُ مِنْهُ شَيْئًا" میں نے اس
سے کوئی خیر حاصل نہیں کی۔

النْدَى : س۔ بارش۔ سبز گھاس۔ شبنم۔ تر
مٹی۔ بخور کے مانند ایک چیز جس سے
خوشبودار کرتے ہیں۔ انتہا۔ بخشش۔ فضل و
خیر۔ جبریبی ج۔ انْدَاءُ وَ انْدِيَةُ۔

النْدَاءُ وَ النَّدَاءُ : پکار۔ آواز۔

النَّدْوَةُ : اسم مرۃ۔ جماعت۔ مجلس۔
دَارُ النَّدْوَةِ : مجلس مشورہ۔ النَّدْوَةُ : بخشش۔
مشورہ۔

النَّدْوَةُ : اونٹوں کے پانی پینے کی جگہ۔

النَّبْدِيُّ وَ النَّدِيُّ : گیلہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
نَدَى الْكَفِّ وَ نَدَى الْكَفِّ" فلاں فیاض و
سخی ہے مَوْتٌ نَدِيَةٌ وَ نَدِيَةٌ : النَّدِيُّ :
مجلس۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَدِيُّ الصَّوْتِ"
وہ بلند آواز ہے۔

النَّدِيَانُ : گیلہ۔

النَّدَايُ : فال۔ مجلس جب تک کہ لوگ اس میں
موجود رہیں۔ ج۔ انْدِيَةٌ وَ نَوَادٍ وَ نَوَجٍ
انْدِيَاتٍ۔

النَّدَابِيَةُ : النَّدَايُ كَمَا مَوْتٌ ج۔ نَادِيَاتٍ وَ
نَوَادٍ وَ نَادِيَاتٍ الشَّى تَجْرُجُ كِه اَوَاكِلُ وَ
نَوَادِي الدَّهْرِ حَوَاثِ زَمَانِهِ : النَوَادِي :
گوشتے۔ متفرق اونٹنیاں نَخْلٌ نَادِيَةٌ پانی سے
دور گھجور کے درخت۔

الانْدِيُّ : اسم تفضيل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
انْدَى مِنْ فَلَانٍ فَلَانٍ فَلَانٍ" سے زیادہ فیاض
ہے "زَهُوَ انْدَى صَوْتًا مِنْهُ" وہ اس سے
زیادہ بلند آواز ہے۔

التَّنَادِيَةُ : يَوْمُ التَّنَادِيَةِ يَوْمُ قِيَامَتِ
التَّنَدِيَةِ : س۔ تَنْدِيَةُ البَحِيلِ : گھوڑوں کو
چھپریرا بنانا اور دوڑانا یہاں تک کہ پسند آجائے
اور ڈھیل پان جاتا ہے۔

السَّنْدِيُّ : گھوڑوں کو چھپریرا بنانے اور
دوڑانے کی جگہ۔

المُنْدَبِيُّ : ايسا لکھ جو حیا کی وجہ سے پیشانی کو
پسند آلود کر دے۔ ج۔ مُنْدِيَاتٍ :
المُنْدِيُّ : مجلس۔

نَدْنٌ (ن) نَدْبَانًا : رینٹ یا کھنکار نکلتا۔
پیشاب کرتا۔

النَّدِيدُ : س۔ رینٹ۔ کھنکار۔ تھوک۔
نَدْحٌ (ف) نَدْحًا وَ انْدَحَ البَعِيرُ : اونٹ
کا تیز دوڑنا۔

نَدْرٌ (ض) نَدْرًا وَ نَدْرًا : نذر ماننا۔ غیر
واجب کو اپنے اوپر واجب کرنا جیسے کہا جاتا ہے
"نَدْرٌ مَالِدٌ" وَ "نَدْرٌ عَلَيَّ نَفْسِي لِيَلَهُ مِنْ
اَلْمَالِ كَذَا" وَ نَدْرُ الْجَيْشِ فَلَانًا : فوج کا
کسی کو دیدیاں بنانا۔ الْاَبُ الْوَالِدُ : خادم کلیسا
بنانا۔

نَدْرٌ (س) نَدْرًا : بہ جاننا اور چوکنا ہونا اور
تیار کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَدْرُوا بِالْعَدُوِّ" وہ
دشمن سے واقف ہو کر چوکنا ہو گئے۔

انْدَرَةٌ بِالْاَمْرِ انْدَارًا وَ نَدْيَرًا وَ نَدْرًا وَ

نَدْرًا وَ نَدْرًا اِجْتِمَاعًا اَوْ اِنْجِازًا (چار
آخر کے مصدر غیر قیاسی ہیں)۔

تَنَادَرُ الْقَوْمُ : ایک دوسرے کو ڈرانا۔
تَنَادَرُوا الْعَدُوَّ : دشمن سے ایک دوسرے کو
خوف دلانا۔

اِنْتَدَرَ عَلَيَّ نَفْسِي كَذَا وَ اِجْبَابُ كَرَمًا
النَّدْرُ : س۔ تاوان زخم۔ کہا جاتا ہے "قَضَى
بِالنَّدْرِ اِسْنِيْ تَمَاوَنَ زَخْمًا اَوْ اِكْبَا۔ ہر وہ چیز جو
اللہ کے لیے مانی جائے۔ ج۔ نَدْوَرُ۔

النَّدْرِيُّ وَ النَّدْرُ وَ النَّدَارَةُ : ڈرانا۔
النَّادِرُ : فال۔ "فَلَانٌ نَادِرٌ اَلْمِيْ بَعِيْنِهِ"
مُنْدَرٌ : فلاں میری طرف تیز نظر سے گھور رہا
ہے۔

النَّدِيْرُ : س۔ اسم بمعنی انذار۔ ڈرانے والا
قاصد۔ بڑھاپا۔ اس لیے کہ قرب موت سے
ڈراتا ہے۔ ج۔ نَدْرٌ۔

النَّدِيْرَةُ : نذر میں جو دیا جائے۔ دیدبان۔
ڈرانا۔ ج۔ نَدَائِرُ۔

المُنْدِرُ : فال۔ ڈرانے والا۔ اَبُو المُنْدِرِ
مرغ کی کنیت۔ اِبْنُ المُنْدِرِ : حیرہ کے ایک
بادشاہ کی کنیت جس کا نام نعمان تھا۔

المُنَادِرَةُ : شاہان حیرہ۔
المُنَادِرُ : فال۔ شیر۔

نَدْعٌ (ف) نَدْعًا الْمَاءُ اَوْ الْعَرَفُ : پانی
نچکانا۔ پسند نکلتا۔

النَّدْعَةُ : پانی وغیرہ کا قطرہ۔

نَدْلٌ (ك) نَدَالَةٌ وَ نَدْوَلَةٌ : خیس و حقیر
ہونا۔ دین یا حسب میں کمتر درجہ کا ہونا۔ صفت
نَدْلٌ ج۔ اَنْدَالٌ وَ نَدْوَالٌ : وَ نَدْيَلٌ : ج
نَدْلَاءُ وَ نَدَالٌ۔

النَّرْجَسُ وَ النَّرْجَسُ : نرگس۔ واحد
نَرْجَسَةٌ (ذیل)

النَّارِجِيلُ وَ النَّارِجِيلُ : ناریل واحد
نَارِجِيْلَةٌ اور اسی سے ہے النَّارِجِيْلَةُ بمعنًى
گڑگڑی حقہ۔ عوام اِنْ كَيْلَةً کہتے ہیں۔

النَّرْدُ : گھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھملا جس کا نچا
حصہ چوڑا ہوتا ہے۔ ایک قسم کا کھیل جس کو اَر
محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و نَزْرَةٌ کم ہونا (نزارۃ) الرَّجُلُ بے برکت ہونا النَّاقَةُ کم دودھ والی ہونا۔

نَزْرٌ و نَزْرٌ الْعَطْشُ کم رینا۔ تَنْزَرُ الشَّيْءُ کم ہونا۔ تَنْزَرُ مِنَ الشَّيْءِ کم لینا۔

النَّزْرُ وَالنَّزِيرُ بہت کم۔ نَزْرٌ کی جمع نَزْرٌ۔ رَجُلٌ نَزْرٌ بے برکت مرد۔ النَّزْرُ اونٹنی کے تھن کا درم۔ اور کہا جاتا ہے "مَا جَنَّتْ إِلَّا نَزْرًا" تم بہت تاخیر سے آئے۔

النَّزْرَةُ وَالنَّزْوَرُ مِنَ النَّسَاءِ کم بچی یا کم دودھ والی عورت۔ النَّزْوَرُ کم بولنے والا۔ ہر تھوڑی چیز۔ ج نَزْرٌ۔

الْمَنْزُورُ بہت کم۔ اور کہا جاتا ہے "اَعْطَاهُ عِطَاءَ مَنْزُورًا" اس نے اس کو ایسا عطیہ دیا جس میں بہت اصرار کرنا پڑا "وَعِطَاءٌ غَيْرُ مَنْزُورٍ" اور ایسا عطیہ جس میں اصرار کرنا نہ پڑے۔

نَزَعٌ (ض) نَزَعًا الشَّيْءُ مِنْ مَكَانِهِ اِكْهِنَا الْاَمِيرُ الْعَامِلُ مَمْرُولٌ كَرْنَا بِالسَّهْمِ تِيرَ يَحْتِكُنَا فِي الْقَوْسِ كَمَا نَحْتِكِنَا عَنِ الْقَوْسِ كَمَا نَحْتِكِنَا الدَّلْوُ وَ بِالذَّلْوِ كَحَيْتَانِ ذُولُ نَكَالَتَا يَدَهُ غَرِيانِ سَعِ نَكَالَتَا الشَّمْسِ اَقْتَابٌ كَامَغْرِبِ كِي طَرَفِ

جَانَا الْمَرِيضُ بِيَارَ كَا قَرِيبِ الْمَوْتِ هَوَانُ نَزَعٌ (ض) نَزْعًا عَنِ كَذَا رَكَنَا بَارَهْنَا الْوَلَدُ اَبَاهُ وَ الْاَبِيَّةُ مَشَابَهٌ هَوَانُ نَزَعٌ (ف) نَزْعًا مَعْنَى جَيِّدًا عَمَدَةً مَعْنَى نَكَالَتَا۔

نَزَعٌ (ف) نَزْعًا وَ نَزْعًا اِلَى اَهْلِهِ مَشْتَقٌ هَوَانُ (نَزَاعًا) اِلَى الشَّيْءِ جَانَا كَمَا جَانَا هُوَ "لَهُ نَزْعَةٌ اِلَى كَذَا" اِسْ كَوْفَلَانِ يَزِيحُ طَرَفِ مِيلَانِ هُوَ۔

بِفَلَانٍ اِلَى كَذَا بِلَانَا دَعْوَتِ دِيَانَا نَزْعٌ (س) نَزْعًا كَتِيبُوں پَرَسے گنجا ہونا۔ مَعْنَى اَنْزَعُ مَنَسْتُ نَزْعًا زَرِيحًا نَسْتُ نِهَيْسُ بَلْكَ اَنْزَعُ كِي مَوْنَسْتُ زَعْرَاءُ (س) نَازَعٌ نَزْعًا الْمَرِيضُ بِيَارَ كَا قَرِيبِ الْمَوْتِ

نَزْرٌ بِكَذَا: شَيْفَةٌ هَوَانُ صَفْتِ مَفْعُولٍ مَنزُوعٌ بِهِ رَجُلٌ نَزْرًا بِهَيْتِ شَيْفَتِهِ وَ فَرِيْقَتِهِ۔ النَّزْرِيُّ جَمُوعِيٌّ مَكْكٌ۔ نَزَبٌ (ض) نَزْبًا وَ نَزَابًا وَ نَزِيْبًا الطَّيْبِيُّ: هِرْنٌ كَا اَوَازُ نَكَالَتَا۔ تَنْزَبُوْا بِالْاَلْقَابِ: اِيكٌ دَوْرَسٌ كُوْبِرِ الْقَبِ دِيَانَا۔ النَّزْبُ لَقَبٌ جِ النَّوَابِ النَّزِيْبُ زَهْرَانُ بَتَلٌ۔ نَزَجٌ (ن) نَزَجًا الْعِلَامُ: لَزَكُ كَا نَاچَانَا۔ نَزَجٌ (ف) نَزَجًا وَ نَزْرَجًا: دَوْرُ هَوَانُ۔ نَزَحَتِ الْبُنُوْرُ كُنُوْسٌ مِيں بِهَيْتِ كَمِ پَانِي هَوَانِيَا شَخْمٌ هَوَانُ صَفْتِ نَازَحِ وَ نَزُوْحِ رِ نَزُوْحٌ كَمَا جَانَا هُوَ "هَاءٌ لَا يَنْزَحُ" پَانِي جُو شَخْمٌ نَهْ هُوَ (وَ اَنْزُوْحٌ) الْبُنُوْرُ پَانِي نَكَالَتَا يِهَاهَا تَنَكٌ كَمَا بِهَيْتِ كَمِ هُوَ جَانَا يَا شَخْمٌ هُوَ جَانَا۔ الْقَوْمُ: كَمِ پَانِي كَيْ كُنُوْسِيں وَاَلِي هَوَانُ۔ نَزَحٌ بِفِلَانٍ: اِسْمُ وَطْنِ سَعِ بِهَيْتِ دَوْرِ چَلَا جَانَا۔ اِنْزَحَ عَنِ دِيَارِهِ: اِسْمُ وَطْنِ سَعِ دَوْرِ هَوَانُ۔ تَنْزَاخٌ: دَوْرُ هَوَانُ۔ النَّزُوْحُ: گدلا پَانِي۔ كُنُوَاں جِسْ كَا زِيَادَةٌ يَا تَمَامِ پَانِي نَكَالَ دِيَا گِيَا هُو۔ جِ اَنْزَاخٌ۔ النَّزَاخُ وَ النَّزْوِيْحُ وَ النَّزُوْحُ: دَوْرٌ الْمُنْتَزِحُ: دَوْرِي۔ كَمَا جَانَا هُوَ "هُوَ بِمُنْتَزِحٍ مِنْ كَذَا" وَ هَا سَعِ دَوْرِي پَرَسے۔ قَوْمٌ مَنَزَاخٌ: اِسْمُ وَطْنِ سَعِ دَوْرِ لُوْگِ۔ الْمُنْتَزِحَةُ: ذُوْلُ يَاسٍ كَيْ مَانَدُ كُوْنِيْ خِيَزِ جِسْ سَعِ پَانِي نَكَالِيں۔ جِ مَنَزَاخٌ۔ نَزْرَةٌ (ن) نَزْرًا: سَوَالُ كَرْنِي مِيں اِصْرَارُ كَرْنَا جَلْدِي كَرْنَا نَزْرَ الشَّيْءِ كَمِ سَجْمَانَا فَلَانًا: حَكْمٌ دِيَانَا حَقِيْرٌ سَجْمَانَا كَمِي كَيْ پَاسِ جُو كِيچھ هُو اِسْ كُو تَهْوُوْرَا تَهْوُوْرَا كَرَكِي وَ حَرْلُ كَرْنَا الشَّرَابُ فَلَانًا: سَرِي كَرِي دِيَانَا۔ نَزْرٌ (ك) نَزْرًا وَ نَزْرَةً وَ نَزَارًا وَ نَزَاْرَةٌ

شیر بن بابک شاہ ایران نے ایجاد کیا تھا۔
النزیدین والنارذین: ایک خوشبودار پودہ۔
سنبل رومی۔
التونج والنارنج: لیموں۔
نَزْرٌ (ض) نَزْرًا وَ نَزِيْرًا وَ اَنْزَا الْمَكَانُ: بہت چشموں والی جگہ ہونا۔ کثرت سے پانی رسنے والی جگہ ہونا۔ کثرت سے سوتا ہونا۔ نَزْرٌ الْوَتْرُ: تیر پھینکنے وقت تانت کا حرکت کرنا۔ نَزْرٌ فَلَانٌ عَنِّي: دور ہونا اور اکیلا ہونا (نَزِيْرًا) الطَّيْبِيُّ: ہرن کا دوزن۔ آواز نکالنا۔ اَنْزَرُ الشَّيْءُ: سخت ہونا۔

نَزْرٌ فَلَانًا عَنِ كَذَا: پاك کرنا۔ دور کرنا۔ نَزْرَتِ الطَّيْبِيَّةُ وَلَدَهَا: پرورش کرنا۔ نَاْرَةٌ مَنَاْرَةٌ: خطاب میں باہم مقابلہ کرنا۔ الْبِنُوْرُ وَالنَّزْرُ: زمین سے رس کر بننے والا پانی۔ سوتا۔ ج نَزْوَرُ: النَّزْرُ وَالنَّزْرُ: خوش طبع۔ تیز فہم۔ جو ایک جگہ قرار سے نہ رہے۔ اور کہا جاتا ہے مکان نَزْرٌ رس کر پانی بننے کی جگہ و "رَجُلٌ نَزْرٌ شَرٌّ" بُرَائِي كَيْ سَا تَهْ لَازِمُ رَهْنِي وَ الْاَمْرُ۔ النَّزْرَةُ: اِسْمُ مَرْمَرَةٍ زَبْرَدِسْتِ خَوَابِشِ۔ اَرْضٌ نَزْرَةٌ: رس کر پانی بننے کی زمین۔ نَاقَةٌ نَزْرَةٌ: سب اونٹنی۔

النَّزَارُ: جھگڑا کرنا۔ مقابلہ کے طور پر کسی چیز کی رغبت کرنا۔ باہم چٹنا۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَزَارٌ شَرٌّ" وہ بُرَائِي كَيْ سَا تَهْ لَازِمُ رَهْنِي وَ الْاَمْرُ۔

النَّزَارُ: اِسْمُ مَبَاهِظِ۔ النَّزِيْرُ: مَصٌ۔ ہلکا پھلکا۔ کثیر الحركت خوش طبع۔ خواہش مند۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَزِيْرٌ شَرٌّ" وہ بُرَائِي كَيْ سَا تَهْ لَازِمُ رَهْنِي وَ الْاَمْرُ۔ الْمَنْزُوْرُ: بہت حرکت کرنے والا۔ گہوارہ۔ کہا جاتا ہے "الْمَصِيْبِيُّ فِي الْمَنْزُوْرِ" بچہ گہوارے میں ہے۔

نَزْرًا (ف) نَزْرًا وَ نَزْوَةً اِبْيْنِ الْقَوْمِ: برا بھینٹ کرنا اور فساد ڈالنا (نَزْرًا) عَلِيْ فَلَانٍ حَمَلَهُ كَرْنَا فَلَانًا عَلَيْنَا: اَكْسَانًا بَرَا بھینٹ کرنا عَنِ كَذَا: رُو كَرْنَا بِنَادِيَانَا۔

نَزْرًا (ف) نَزْرًا وَ نَزْوَةً اِبْيْنِ الْقَوْمِ: برا بھینٹ کرنا اور فساد ڈالنا (نَزْرًا) عَلِيْ فَلَانٍ حَمَلَهُ كَرْنَا فَلَانًا عَلَيْنَا: اَكْسَانًا بَرَا بھینٹ کرنا عَنِ كَذَا: رُو كَرْنَا بِنَادِيَانَا۔

نَزْرًا (ف) نَزْرًا وَ نَزْوَةً اِبْيْنِ الْقَوْمِ: برا بھینٹ کرنا اور فساد ڈالنا (نَزْرًا) عَلِيْ فَلَانٍ حَمَلَهُ كَرْنَا فَلَانًا عَلَيْنَا: اَكْسَانًا بَرَا بھینٹ کرنا عَنِ كَذَا: رُو كَرْنَا بِنَادِيَانَا۔

نَزْرًا (ف) نَزْرًا وَ نَزْوَةً اِبْيْنِ الْقَوْمِ: برا بھینٹ کرنا اور فساد ڈالنا (نَزْرًا) عَلِيْ فَلَانٍ حَمَلَهُ كَرْنَا فَلَانًا عَلَيْنَا: اَكْسَانًا بَرَا بھینٹ کرنا عَنِ كَذَا: رُو كَرْنَا بِنَادِيَانَا۔

نَزْرًا (ف) نَزْرًا وَ نَزْوَةً اِبْيْنِ الْقَوْمِ: برا بھینٹ کرنا اور فساد ڈالنا (نَزْرًا) عَلِيْ فَلَانٍ حَمَلَهُ كَرْنَا فَلَانًا عَلَيْنَا: اَكْسَانًا بَرَا بھینٹ کرنا عَنِ كَذَا: رُو كَرْنَا بِنَادِيَانَا۔

ہونا نازعہ نزاغہ و مُنازعہ۔ جھگڑا کرنا۔
نَازِعَةُ النَّوْبِ: کپڑے سے کھینچنا اور اسی
سے ہے "أَرْضِي نَازِعَ أَرْضِكُمْ" یعنی
میری زمین تمہاری زمین سے متصل ہے۔
نَازِعٌ إِلَى أَهْلِهِ: مشتاق ہونا۔ مَصَافِحُ
کرنالکاس: پیالہ دینا۔

نَزْعُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانِهِ: اکھیڑنا۔
أَنْزَعَ الرَّجُلُ: کپٹیوں پر سے گنجا ہونا۔
تَنْزِعُ إِلَيْهِ: دور کر جانا۔
تَنَازَعُ الْقَوْمُ: اختلاف کرنا۔ تَنَازَعُوا
الشَّيْءَ: ہاتھ کھینچنا لکاس: پیالہ دینا
الشَّيْءَ: جھگڑا کرنا۔

إِنْتَزَعَ الشَّيْءُ: اکھیڑنا۔ کرنا۔
بَارِهْنَا: تَنْزِعُ بِالشَّعْرِ أَوْ الْآيَةِ: شعریا
آیت کو بطور شاہد و مثال کے پیش کرنا اور کوئی
مخمس عمدہ معنی پیش کرے تو کہا جاتا ہے "قَدْ
أَنْتَزَعَ مَعْنَى جَيْدًا"

اسْتَنْزَعَهُ عَنِ الشَّيْءِ: رک جانے کو کہا۔ کہا
جاتا ہے "زَاهٌ مُكَبِّئًا عَلَى الشَّرِّ
فَاسْتَنْزَعَهُ" اس نے اس کو بُرائی میں منہمک
دیکھا تو اس سے باز رہنے کو کہا۔

النَّزْعُ وَالنَّزَاغُ وَالْمُنَازَعَةُ وَنَزْعُ
الْحَيَوَةِ: قرب موت کی حالت۔

النَّزَاعُ النَّزَاعَةُ وَالْمُنَازَعَةُ: جھگڑا
خصومت۔

النَّزْعَةُ: نازع کی جگہ تیر پھینکنے والے اور
عرب کے امثال میں سے ہے "عَادَ الشَّهْمُ
إِلَى النَّزْعَةِ" یعنی حق دار کو مل گیا۔
النَّزْعَةُ: کپٹیوں پر بال جھڑ جانے کی جگہ۔
جَنْزَعَاتُ النَّزْعَةِ: پہلازی راستہ۔

النَّازِعُ: فاد مسافر۔ نَزْعَةٌ وَنَزَاغٌ وَ
نَزْعٌ مَوْضِعَانَةٌ: جنوازع و نازعات۔
کہا جاتا ہے "شَاةُ نَازِعٍ" یعنی وہ بکری جو
بکرے کی طالب ہو۔

النَّزِيعُ: مسافر۔ دور۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ
نَزِيعٌ" دور کی جگہ۔ کم گہرا کنواں۔ وطن کا
مشتاق۔ لونڈی بچہ۔ شریف۔ اور ایسا ہی

"فَرَسٌ نَزِيعٌ" اصل گھوڑا۔ ج نَزَاغٌ.
نَزَاغُ الْقَبَائِلِ: اجنبی لوگ جو دوسرے قبائل
کے پڑوس میں رہیں۔ النَّزِيعُ: اکھیڑا ہوا۔
تَمَرٌ نَزِيعٌ: توڑا ہوا پھل۔ مَوْضِعُ النَّزِيعَةِ: ج
نَزَاغٌ.

النَّزِيعَةُ مِنَ النِّسَاءِ: وہ عورت جس کی
علاوی دوسری قوم میں کی گئی ہو۔ وہ عورت جو
اپنے وطن کی مشتاق ہو مِنَ النَّجَائِبِ: وہ
اصل اُونٹیاں جو دوسرے ملک میں لے جاتی
گئی ہوں۔ ج نَزَاغٌ. النَّزَاغُ: چوہائی ہونے
الابِلِ وَالْحِجْلِ: مسافروں سے چھپنے ہوئے
اُونٹ یا گھوڑے۔

النَّزُوعُ: وطن کا مشتاق۔ سَفَرُ النَّزُوعِ: کم
گہرا کنواں۔ فَلَاحَةُ النَّزُوعِ: دور کا بیابان۔ ج
نَزُوعٌ وَنَزَاغٌ.

النَّزَاعَةُ: ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینکی ہوئی چیز۔
الآنزِعُ: کپٹیوں سے گنجا۔ مَوْضِعُ نَزَاغٍ.
المنزِعُ: کھینچنے کی جگہ۔ ج منازِعُ.
المنزِعُ: سخت کھینچنے والا۔ دور پھینکا ہوا تیر۔
المنزِعَةُ: جھگڑا۔ شہد اٹھانے کی چوڑی
کلوی۔

المنزِعَةُ وَالْمُنَزَعَةُ: ہمت۔ کہا جاتا ہے
فَلَانٌ بَعْدَ الْمُنَزَعَةِ فَلَانٌ بَرِيٌّ بِمَتِّ وَالَا
ہے۔ انجم کار و تدبیر کہ جس کی طرف آدمی
رجوع کرے اور کہا جاتا ہے "فَرَبَاتٌ طَيِّبٌ
الْمُنَزَعَةُ لَذِيذِ شَرَابٍ"

نَزْعُهُ (ف) نَزَاغًا: انگلی چھوٹا یا تیزہ مارنا۔
تھوڑی سی حرکت دینا۔ عیب لگانا۔ غیبت کرنا۔
هَ بِكَلِمَةٍ طَعْنٌ وَتَشْفِيعٌ كَرْنَا.

نَزْعٌ (ف) كَمَنْزَعًا نَيْنِ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا
اور کہا جاتا ہے "النَّزْعُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ"
شیطان نے بعض پر بعض کو درد لایا۔ النَّزْعَةُ
الشَّيْطَانُ إِلَى الْمَعَاصِي" شیطان نے اس
کو گناہوں پر اکسایا۔

النَّزْعُ: سر۔ آسانے والا کلام۔ نَزْعٌ
الشَّيْطَانُ شَيْطَانِيٌّ وَسَوْسَةٌ: وہ چیزیں جن سے
انسان گناہوں میں آلودہ ہو جائے۔

النَّزْعَةُ: نَزْعٌ كَالسَّمِ مَرَّةً - طَعْنٌ وَتَشْفِيعٌ - ج
نَزَاعَاتٌ.

النَّزَاغُ وَالْمُنَزَاغُ وَالْمُنَزَعَةُ: قوم کے
درمیان فساد ڈالنے والا۔

النَّازِعَةُ: نَازِعٌ كَالْمَوْتِ - ج نَوَازِعُ
النَّوَازِعُ: فساد ڈالنے والیاں۔

النَّرِيعَةُ: بُرَاكِمَةٌ.

نَزَفٌ (ض) نَزْفًا: مَاءُ الْبَيْتِ: کنوئیں سے
سارا پانی نکال ڈالنا۔ مَاءُ الْبَيْتِ: کنوئیں کا پانی نکالا جانا
ذَمُّ فَلَانٍ: بچھینا یا فسد سے خون نکالنا۔ مَبْرُوتَةٌ:
آنسو ختم کرنا۔ ذَمُّ فَلَانًا: بہت خون نکل جانا۔

نَزَفٌ مَاءُ الْبَيْتِ: کنوئیں سے سارا پانی نکال
جانا۔ الرَّجُلُ: بے عقل ہونا یا بدست ہونا۔
الْمُضْمُومَةُ: حجت و دلیل سے خاموش ہو جانا
و نَزَفَ الرَّجُلُ ذَمًّا: نکسیر چل کے سارا
خون نکل جانا۔

نَزَفَتْ (س) نَزْفًا عَرَبِيَّةً: آنسو خشک ہونا۔
أَنْزَفَ الْبَيْتَ: کنوئیں سے سارا پانی نکال لینا۔
العبرَاتُ: آنسو ختم کر دینا۔ أَنْزَفَتِ الْبَيْتَ:
کنوئیں سے سارا پانی نکل جانا۔ أَنْزَفَ
الرَّجُلُ: نادار ہونا۔ بدست ہونا۔ بے عقل
ہونا۔ جھگڑے میں حجت منقطع ہونا۔

اسْتَنْزَفَ: الدَّمْعُ أَوْ الْمَاءَ: سب نکال
لینا۔

النَّزْفُ: س۔ نَزْفٌ الدَّمُ: خون کا بہنا۔
النَّزْفُ: کنوئیں کا پانی نکالنا۔ بہت خون نکل
جانے سے کمزوری۔

النَّازِفُ: فَادِ عَرَفِ نَازِفٌ: رگ جس سے
خون جاری ہو۔ ج نَزْفٌ.

النَّزْفَةُ: تھوڑا سا پانی وغیرہ۔ ج نَزْفٌ.
النَّزُوفُ: کنواں جس کا سارا پانی ہاتھ سے
نکال لیا گیا ہو۔

نَزَافٌ: اسم فعل بمعنی امر۔ کہا جاتا ہے
"نَزَافَ مَاءُ الْبَيْتِ" یعنی کنوئیں کا سارا پانی
نکال لو۔

النَّزِيفُ وَالنَّزُوفُ: کثرت سے خون نکل
جانے کی وجہ سے کمزور۔ پیاس سے خشک زبان

اور سحرائی۔ داد و دہش و فضل۔ النزول۔
بارغی جل ذو نزول: بہت داد و دہش والا۔
بابرکت آنزوال۔ انزال القوم: قوم کی
روزیاں۔

النزول: جمع شدہ۔ نوزول۔
النزول: جگہ جہاں بہت اتریں۔ سخت جگہ
جہاں سیلاب جلدی آئے۔ کہا جاتا ہے مکان
نزل۔

النزلة: نزل کا اسم مرہ۔ اور کہا جاتا ہے
"لَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ" اس نے اس کو یقیناً
دوسری مرتبہ دیکھا۔ نزام | نزلہ | ارض
نزلۃ: عمدہ کھیتی والی زمین۔ اور کہا جاتا ہے
اترکتھم علی نزلاتہم و نزلاتہم

میں نے ان کو درست حالت میں چھوڑا۔
النزلة: سخت زمین ہونے کی وجہ سے
تھوڑی سی بارش میں بہہ پڑتا۔

النزلة: سفر۔ مہمانی۔ کہا جاتا ہے "کنا فی
بزالۃ فلان" ہم فلاں کی مہمانی میں تھے۔ و
فلان من نزالۃ سوء" فلاں اللیم باپ سے
ہے۔

النزلة: النازل کا مؤنث۔ سخت مصیبت ج
بازالت و نوازل۔
النزول: بہت اترنے والا۔ بہت مقابلہ کرنے
والا۔

المنزلة: گوشت اور بیگن سے تیار کیا ہوا
کھانا۔

النزول: مہمان۔ بابرکت۔ کھانا۔ کہا جاتا ہے
"قوب نزول" کامل کپڑا۔ فلان نزولی
فلاں میرے ساتھ گھر میں اترنے والا ہے۔ ج
نزلہ۔

النزول: س ترتیب۔ اوپر سے نیچے اترتا۔
المنزول: اترنے کی جگہ۔ مکان۔ چشمہ۔ ج
منازل۔

المنزول: مہمان خانہ
المنزلة: اترنے کی جگہ۔ گھر۔ مرتبہ۔ کہا
جاتا ہے منزلة عند الامیر" اس کو امیر
کے پاس مرتبہ حاصل ہے۔ وهو رفیع

النزول: اترنے والے لوگ۔
النزول والنزل والنزال: کھیتی کی بالیدگی

جاتا ہے "مازلت انزل" میں ہمیشہ سفر کرتا
(نزلوا و منزلوا و منزل) القوم و
بالقوم و علی القوم: قوم کے پاس اترنا۔
نزل (س نزلة الرجل) زکام میں مبتلا ہونا
(نزلوا) النزاع: کھیتی کا بڑھاپا۔ سختی
کی وجہ سے تھوڑی بارش میں بھی بننے والی جگہ
ہوتا۔

نزلۃ: اتارنا۔ نزل الشی: مرتب کرنا
لشی مکان الشی: قائم مقام کر اللہ
کلامہ علی انبیائہ: تدریجاً وحی نازل کرنا۔
القوم: منازل میں اتارنا۔ الحاسب الرقم:
رقم لکھنا۔
انزل انزالاً و منزللاً الشی: اتارنا۔ انزل
لصیف: مہمان اتارنا۔ اللہ الکلام: یکبارگی
وحی نازل کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "انزل حاجتہ
علی کربیم" اس نے اپنی حاجت کریم کے
سامنے پیش کی۔ یعنی پوری کرنے کی درخواست
کی۔
نزلۃ نزالاً و منزللاً فی الحرب: مقابلہ
میں اترنا اور جنگ کرنا اور کہا جاتا ہے "حاربوا
بالنزال" دونوں فریق نے اونٹوں سے اتر کر
گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کی۔
تنازل القوم: اونٹوں سے اتر کر گھوڑوں پر
سوار ہو کر جنگ کرنا۔ میدان جنگ میں اتر کر
جنگ کرنا۔ القوم فی الشفر: کبھی اس کے
پاس کبھی اس کے پاس کھانا۔ اور مولدین کے
استعمال میں تنازل الرجل کے معنی درجے
سے اترنے کے ہیں۔
تنزل: آہستہ آہستہ اترنا۔ الحق: حق
چھوڑ دینا۔ نزل فلاناً: اتارنا۔
استنزلہ: اتارنا۔ استنزلہ عن رابہ او
حقہ: رائے سے یا حق سے نیچے اترنے کے
لیے کھنسنزل فلان: مرتبہ سے اتارنا۔ جانا۔
النزل والنزل: کھانا جو مہمان کے سامنے
پیش کیا جائے۔ نزل النزل بابرکت
کھانا۔ المنزول: اترنے والے لوگ۔
النزل والنزل والنزال: کھیتی کی بالیدگی

والا۔ النزيف: بدست۔ بخار زدہ۔ ينثر
زيف: کم پانی والا کنواں۔ المنزوف: بے
عقل۔

المنزفة: جس سے پانی نکالا جائے۔ ڈھیلکی۔
نوق (س نوقاً و نوقاً الرجل): غصہ کی
وجہ سے خفیف العقل ہونا۔ طیش میں آنا۔
مصنوق: مؤنث۔ نوقاً (نوقاً) الإناء:

برتن کا لبا۔ ہونا۔
نوق (س نوقاً و نوقاً) (ض نوقاً و نوقاً)
لفرس: گھوڑے کا کونا۔ اچھلا۔
نوق (ض نوقاً الإناء): برتن کو لبا۔

کرنا۔
نوق و انزق الفرس: گھوڑے کو کودانا۔
نوق الرجل فی الصخک: بہت زیادہ
پنسا۔

فلان: عقل کے بعد خفیف العقل ہونا
لنعیم فلاناً: سبکی پر راہ چھین کرنا۔
نارفة نواقاً و منازقة: "قریب ہونا۔ گالی
دینا۔

تنازقا: ایک دوسرے کو گالی دینا۔
النوق: سبکی۔ جہالت و حماقت کی وجہ سے
جلد بازی و مکان نوق: قریب جگہ۔
النزقة: اسم مرہ۔ دوڑ کی ابتدا میں اچھل کود۔
النیزق: نيزك میں لغت ہے بمعنی چھوٹا نیزہ
بھازق۔

النزاق و النزقة: من النوق: سرکش
اونٹنی۔ النیزاق: تیز رفتار اونٹنی۔
المنازق: بہت باتیں کرنے والا۔
نزكہ (ن نوكاً) نیزہ مارنا۔ عیب لگانا۔ بردا
کہنا۔ ناحق جھوٹ باندھنا۔

النزاک و النزك: بہت عیب لگانے والا۔
النزیکات: شریروگ۔
النیزك: چھوٹا نیزہ۔ حازك۔ النيازك
ٹوٹے ہوئے ستارے۔

نزل (ض نزلوا من علو الی اسفل):
اترنا۔ اتارنا۔ الامر: واقع ہونا۔ فلان عن
الحق: چھوڑ دینا۔ مسافرت کرنا۔ کہا

کہنا۔ ناحق جھوٹ باندھنا۔
النزاک و النزك: بہت عیب لگانے والا۔
النزیکات: شریروگ۔
النیزك: چھوٹا نیزہ۔ حازك۔ النيازك
ٹوٹے ہوئے ستارے۔

نزل (ض نزلوا من علو الی اسفل):
اترنا۔ اتارنا۔ الامر: واقع ہونا۔ فلان عن
الحق: چھوڑ دینا۔ مسافرت کرنا۔ کہا

کہنا۔ ناحق جھوٹ باندھنا۔
النزاک و النزك: بہت عیب لگانے والا۔
النزیکات: شریروگ۔
النیزك: چھوٹا نیزہ۔ حازك۔ النيازك
ٹوٹے ہوئے ستارے۔

نزل (ض نزلوا من علو الی اسفل):
اترنا۔ اتارنا۔ الامر: واقع ہونا۔ فلان عن
الحق: چھوڑ دینا۔ مسافرت کرنا۔ کہا

ہونے کی کوشش کرتا۔
النَّاسُ فَاحْبِزْ نَاسًا خَشَّ رَوْنِي۔
النَّسِيسُ مَص۔ ہانکا ہوا۔ سخت بھوک۔
پوری کوشش۔ لکڑی کے جھاگ جو جلنے کی
حالت میں دوسرے سرے پر نکلے۔ نَسِسَ
(وَالنَّسِيسَةُ) طَبِيعَةُ النَّسِيسِ جِسْمِ مِثْلِ
بَقِيَّةِ رَوْحٍ۔ کہا جاتا ہے ”بَلِغٌ مِنْهُ نَسِيسَةٌ وَ
نَسِيسَةٌ“ یعنی مرنے والی نَسِيسَةُ۔ چغل
خوری۔ تری جو جلنے لکڑی کے پچھلے سرے پر
ظاہر ہو۔ نَسِيسَ۔
النَّسِيسُ رَدِي جَزِيں۔
النَّسِيسَاسُ سَبِيہ تِيزِ چَال۔
الْمَنَسِيسَةُ وَالْمَنَسِيسَاسُ لَاحِض۔
نَسَا (فَسَا الدَّابَّةُ) چوپایہ کو ڈانٹنا اور
ہانکنا۔ حَوْضٌ سَبِيہ لَاحِضٌ بِالْمَاءِ دَوْدُه
مِثْلُ بَانِي مَلَانَا۔ لَاحِضٌ بِالنَّسِيسَاتِ الْمَنَسِيسَةُ
مَوْتَانِي ظَاهِرٌ هُوَ نَسَا وَمَنَسَا (الشَّيْءُ)
مُوَخَّرٌ كَرَنَا۔ کہا جاتا ہے ”نَسَا اللّٰهُ اَجَلَهٗ وَفِي
اَجَلِهٗ“ مہلت دینا۔ عَمْرٍ دَرَزَ كَرَنَا فَلَانَا
تَہْمَانِي كَرَنَا۔ حفاظت کرنا۔ النَّسِيعُ وَفِي
النَّسِيعِ بِيحْنًا اَوْرَادِي كِي قِيْمَتِ كِي مَہْلَتِ دِيْنَا
(نَسَا) عَنِ فَلَانٍ ذِيْنَهٗ اَوْرَادِي كِي قَرْضِ كِي
لے مہلت دینا۔
اَنْسَا اَنْسَاءَ الشَّيْءِ مُوَخَّرٌ كَرَنَا۔ کہا جاتا ہے
”اَنْسَا اللّٰهُ اَجَلَهٗ وَفِي اَجَلِهٗ“ عَمْرٍ دَرَزَ كَرَنَا
وَالنَّسِيعُ وَفِي النَّسِيعِ بِيحْنًا اَوْرَادِي كِي قِيْمَتِ كِي
مَہْلَتِ دِيْنَهٗ۔ پیچھے ہونا۔ دور ہونا۔
نَسَا نَسِيسَةً ذَانِتٌ كَرَنَا۔
اَنْتَسَاعَنَهٗ۔ پیچھے ہونا۔ النَّسَاتِ الْاِبْلِ فِي
الْمَرْعَى اَوْ نُوْلٍ كَا چَرَا گِہَاہِ دَوْرٌ هُوَانَا۔
اِسْتَنْسَا عَرِيْمَةً قَرْضِ خَوَاهِ سَ اَوْرَادِي كِي
قَرْضِ كِي مَہْلَتِ مَانَا۔
النَّاسِيُ فَ۔ مَوْتَانِي (حَيَوَانِ يَانَسَانِ) نَعِيسَا۔
النَّسَاءُ دَرَا زِي عَمْرٍ۔
النَّسَاءُ س۔ لَاحِضٌ۔ بہت پانی والا دودھ۔ عَقْلُ
زَاكِلٌ كَرَنَا وَالِي شَرَابٍ۔ مَوْتَانِي مَوْتَانِي پَے كِي
اِبْتَدَا۔

جاتا ہے ”اصابہ حَرَحٌ فَنَرِي مِنْهٗ
فَمَاتَ“ اس کو زخم لگا جس کی وجہ سے سارا
خون نکل گیا اور وہ مر گیا۔
نَزَاةٌ تَنْزِيَةٌ وَتَنْزِيًا نَزَاةٌ اَنْزَاةٌ كُوْدَانَا
جَفْتِي كَرَنَا۔
تَنْزِيًا تَنْزِيًا اِلَى السَّرِّ اِبْرَانِي كِي طَرْفِ
جَلْدِي كَرَنَا۔
اَنْتَزِيًا اَنْتَزَاةٌ اِبْرَانِي كِي طَرْفِ جَلْدِي كَرَنَا۔
كَمَا جَاتَا هَے ”اَنْتَزِيًا عَلٰى اَرْضِ كَذَا
فَاَخَذَهَا“ اس نے فلاں زمین کی طرف
سہقت کی اور اسے لے لیا۔
النَّزْوَةُ كُوْدَانِي۔ ہر چھوٹی چیز۔
النَّزَاةُ نَازِي عَقِيْدَهٗ وَاَلَا۔
النَّزَاةُ: جَرْمَانِي لُوْغُوْنِ كَا قَوْمِي عَقِيْدَهٗ۔
النَّزَاةُ: النَّزَاةُ كَا مَوْتٌ تِيزِي وَتِيزُوْرُو۔
كَمَ گِہَاہِ اَلْحَمَّةُ نَازِيَةٌ اِرْدُ گِرْدَے بَلِنْدِ
نِيل۔
النَّزِيُّ وَالنَّزَاةُ وَالْمَنْزَرِيُّ۔ بہت اچھل کود
والا۔
النَّزِيَّةُ: النَّزِيُّ كَا مَوْتٌ بَادِل۔ كَمَ گِہَاہِ اِبْرِيَاَلِ
النَّزِيَّةُ: اِچَاكِ شَوْقٍ۔ اِچَاكِ مَصِيْبَتِ۔ كَلْبَا زِي
كِي دَعَا۔
نَسَّ (ض) نَسَا وَنَسِيسَا النَّاقَةَ۔ ہانکنا
اور ڈانٹنا۔ کہا جاتا ہے ”كَانَ نَسِيسٌ
اَضْحَابُهُمْ“ یعنی اپنے ساتھیوں کے پیچھے
چل رہا تھا۔ نَسَا وَنَسِيسَا الْقَوْمَ: پانی پر
پہنچنا۔
نَسِيسَا وَنَسُوْسَا (الْخَبْزُ اَوِ اللّٰحْمُ)
رُوْنِي يَا كُوْشَتِ كَا خَشَكٌ هُوَ فَلَانٌ جَلْدِي سَ
ہر کام پر گزرنے والا ہونا۔
نَسَّ (ض) نَسُوْسَا الْحَطْبُ: لکڑی سے
جلنے میں دوسری جانب پانی نکلنے والا ہونا۔
حَقِيقَتِ حَالِ سَ وَاَقْفٌ هُوَانَا۔
نَسَسَ الْمَاشِيَةَ: جانور کو چلا دیا۔
كُوْشِيَا بِيَا مَآخِذَ كَرَانَا كَے لَے اِسْ اِسْ كَرَنَا۔
اَنْسَ الدَّابَّةُ: چوپایہ کو پھینکا۔
نَسَسَ مِنْهٗ الْاَخْبَارَ: سُنَّ گِن لِيْمَا۔ خَبْر دَار

النَّزِيَّةُ“ وہ بلند مرتبہ والا ہے۔
نَزُوْرُو الرُّجُلِ: سِرُّ اِلَامٌ صَبِيْحًا: ماں کا
بچہ کو دانا۔ نَجَانَا۔
نَزُوْرُو (نَزُوْرُو الْاِبْلِ): اُوْتِ كُوْپَانِي سَ دَوْرِ
رَكْنَا۔
نَزُوْرُو (س) نَزُوْرُو (س) نَزَاهَةٌ وَنَزَاهِيَةٌ
اِبْرَانِي سَ دَوْرِ هُوَانَا۔ پاك دامن ہونا۔
صَحْتٌ اِفْرَا هُوَانَا۔
نَزُوْرُو: بَرِي بَاتِ سَ دَوْرِ كَرَنَا نَزُوْرُو نَفْسَهٗ
عَنِ الْقَبِيْحِ: اِنِّے اَبَّ كُوْگِہَاہِ سَ پَاكِ
رَكْنَا نَزُوْرُو اللّٰهُ عَنِ السُّوْءِ: اللّٰهُ تَعَالٰى كِي
تَقْدِيْرِ بِيَانِ كَرَنَا۔
نَزُوْرُو عَنِ كَذَا: دَوْرٌ هُوَانَا۔ مَحْفُوْظٌ هُوَانَا۔ كَمَا
جَاتَا هَے ”نَزُوْرُو عَنِ الْمَطَامِعِ وَعَنِ مَلَانِي
الْاَخْلَاقِ“ وہ لالچ اور برے اخلاق سے برتر
ہے۔ فَلَانٌ: سِرُّ كُوْكُلَانَا۔
اِسْتَنْزَهَ عَنِ كَذَا: دَوْرٌ هُوَ فَلَانٌ: سِرُّ
تَفَرِّحٌ كُوْجَانَا۔
النَّزَهَةُ وَالنَّزَهَةُ وَالنَّزِيَّةُ: پاك دامن۔
اِبْرَانِيُوں سَ دَوْرِ۔ بَعْدُ اَهٗا وَ اَنْزَاةٌ وَ
نَزَاةٌ: مَكَانِيَّةٌ وَ نَزُوْرُو وَ نَزِيَّةٌ: لُوْغُوْنِ سَ
دَوْرِ جِلْدِ۔ صَحْتٌ اِفْرَا مَقَامِ۔
النَّزُهَةُ: اِسْمٌ لِنَزُوْرُو سَ بَعْنِي سِرُّ وَ تَفَرِّحِ
رَغِيْبَةٍ: اَوْرٌ كَمَا جَاتَا هَے ”هُوَ بِنَزُهَةٍ مِّنْ
الْمَاءِ اَوْ عَنِ الْمَاءِ وَهِيَ اِسْمٌ سَ دَوْرِ۔
النَّزَهَةُ وَالنَّزَاهَةُ: اِبْرَانِي سَ دَوْرِ۔
النَّزَاهَةُ: فَ۔ كَمَا جَاتَا هَے ”هُوَ نَزَاهَةُ النَّفْسِ“
وہ پاك دامن ہے۔
الْمَنْزَرَةُ: سِرُّ وَ تَفَرِّحِ كِي جِلْدِ۔
نَزَاةٌ وَ نَزُوْرُو وَ نَزُوْرُو اَوْرَادِي: كُوْدَانَا۔
عَلِيْبَهٗ: كَمِي پَر گَرَنَا اَوْرُوْدِي اَلذِّكْرُ عَلٰى
الْاَنْثَى: جَفْتِي كَرَنَا۔ اَوْرَادِي اَلنَّزَاةُ وَالنَّزَاةُ
اَوْرَادِي كَا اِسْتِعْمَالِ چوپایوں کے لئے ہے۔ نَزَاةٌ
قَلْبِهٗ اِلَى كَذَا: شَيْفَتُهُ وَفَرِيْفَتُهُ هُوَانَا نَزَاةُ
الْحَمْرُ: گدھوں کا اچھلنا۔ كُوْدَانَا اَلطَّعَامِ:
عَلَّةٌ كَا گِہَاہِ (نَزُوْرُو اَوْرَادِي) بِيحْنٌ كَرَنَا۔
نَزِيُّ نَزُوْرُو الرُّجُلِ: سَارَاخُوْنِ نَكْلٌ جَاتَا۔ كَمَا

النسب: كحل مل کر رہنے والا آدمی۔

النساة والنسینة: تاجیر۔ کہا جاتا ہے نساءہ بنسینة اس نے ادھار بیچا۔

النسبی: تاجیر۔ بہت پانی ملا ہو اور وہ۔

المنساة والمنساة والمنساة والمنساة: چرواہے کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے "ان لی عنك لمنساة" میرے لیے تمہاری طرف سے گنجائش ہے۔

نَسَب (نض) نَسَبًا و نَسْبَةَ الرَّجُلِ: نسب بیان کرنا۔ دریافت کرنا۔ نَسْبَةَ اِلَى فُلَانٍ: نسبت کرنا نَسَبًا و نَسْبًا و نَسْبَةً الشَّاعِرُ بِالْمَرْأَةِ: تشبیہ کہا۔ غزل میں عورتوں کے اوصاف بیان کرنا۔

نَاسِبَةٌ مَنَاسِبَةٌ: مشابہ ہونا۔ مناسب ہونا۔

نَسَبٌ مِّنْ شَرِکٍ ہونا۔

تَنَسَّبَ الرَّجُلُ اِلَيْكَ: ہم نسب ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اور اسی سے مثل ہے "الْقُرْبُوبُ مَنْ تَقَرَّبَ لَا مَنْ تَنَسَّبَ" قریب وہ ہے جو دوستی سے قربت کرے نہ وہ جو محض دعویٰ ہم نسبی کرے۔

تَنَاسَبًا: باہم مشابہ ہونا۔ تَنَاسَبَ الْقَوْمُ اِلَى اَحْسَابِهِمْ: منسوب ہونا۔

اِنْتَسَبَ الرَّجُلُ: نسب ظاہر کرنا۔ نسب ذکر کر لینی: اَبِيہ: منسوب ہونا۔

اِسْتَنَسَبَ: نسب بیان کرنا

الرَّجُلُ: نسب بیان کرنے کو کہا۔

النَّسَبُ: س۔ قرابت۔ رشتہ داری۔ ج

النَّسَبُ والنَّسْبَةُ: قرابت۔ دو چیزوں کے درمیان ربط و تعلق۔ اعداد کے درمیان نسبت مثلاً کہا جائے کہ چار کو آٹھ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو پانچ کو دس کے ساتھ۔ اور کہا جاتا ہے بالنَّسْبَةِ اِلَى كَذَا یعنی فلاں چیز کے لحاظ سے۔

النَّسَبُ: س۔ مناسب۔ رشتہ دار۔ صاحب نسب۔ لطیف شعر عورتوں کے متعلق اور مبالغہ کے لئے نَسِيبٌ نَاسِبٌ کہا جاتا ہے

جیسا "شعور شاعر" اور فاعل اس موقع پر مفعول کے معنی میں ہے نَسَبًا و نَسْبًا (جیسے شریف و شرفاء)

النَّسَابَةُ: رشتہ داری۔

النَّسَابُ: جَسَابُونَ والنَّسَابَةُ: ج نَسَابَاتٍ: نسب کا علم رکھنے والا۔

الْاَنْسَابُ: اسم تَفْضِيلٍ۔ اور کہا جاتا ہے "هذا الشُّعْرَا اَنْسَابٌ مِّنْ ذَاكَ" یہ شعر اس سے زیادہ لطیف ہے۔

النَّسْبِيَّةُ: فلسفی مذہب جو علم و معرفت کی طرف نسبت رکھتا ہے۔

المُنَاسِبُ: ف۔ رشتہ دار۔ مشابہ۔

الْمُنَسُوبُ: س۔ شعر منسوب: عشقیہ شعر حَظٌّ مَّنْسُوبٌ: مطابق قاعدہ۔ ج مَنَاسِبٌ:

تَنَسَّبَ بَيْنَهُمَا: چغل خوری کیلئے دوڑ دھوپ کرنا۔

النَّيْسَبُ: چوٹیوں کی قطار۔ چوٹیوں کا یا سانپ کا راستہ (و النِّسْبَانُ) سیدھا واضح راستہ۔

النَّاسُوتُ: طبیعت انسانی۔ ناس میں او تا کی زیادتی ہوئی ہے جیسے ملکوت میں۔

نَسَجَ (نض) النَّوْبُ: کپڑا بنانا۔ کلام: خلاصہ کرنا۔ آراستہ کرنا الشُّعْرُ: نظم کرنا۔

الغَيْثُ النَّبَاتُ: بارش کا نباتات کو بڑھا کر گھنجان کرنا۔ نَسَجَتْ الرَّوْبُجُ النَّوْبُ او المَاءُ: لہریں پیدا کرنا۔ نَسَجَتْ النَّاقَةَ فِي سَبْرِهَا: اُونٹنی کا جلدی جلدی قدم اٹھانا۔

اِنْتَسَجَ: بنا جانا۔

النَّسَجُ: س۔ کہا جاتا ہے "نَوْبٌ نَسَجَ الْيَمَنُ" کپڑا بنانے کا بنا ہوا۔

النَّسَاجَةُ: بننے کا پیشہ۔

النَّسَاجُ: بننے والا۔ کلام کو آراستہ کرنے والا۔ بھونا۔

النَّسِيجُ: بنا ہوا۔ ج نَسَجَ: کہا جاتا ہے "هُوَ نَسِيجٌ وَحْدَةٌ" وہ صفات محمودہ میں

بے نظیر و لائق ہے۔ النَسَجُ: جائے نمازیں۔

النَّسِيجَةُ: نسج کا موٹا۔ نسج کا کرگم۔

الْمُنْسَجُ وَالْمُنْسَجُ: بننے کا کرگم۔

النَّسِجُ وَالْمُنْسَجُ مِنَ الدَّائِيَةِ: چوپایہ کی گردن کی جڑ سے موٹڑھوں تک اٹھی ہوئی جگہ۔

النَّسِجُ وَالْمُنْسَجُ: کرگم۔

نَسَجَ (س) نَسَجًا: لالچ کرنا۔

نَسَجَ (ف) نَسَجًا النَّوْبُ: مٹی کا بکھیرنا۔

النَّسِجُ وَالنَّسَاجُ: کھجوروں کو کوزا کرنا۔

النَّسَاجُ: غبار اڑانے کا آلہ۔

نَسَجَ (ف) نَسَجًا الشَّيْءُ: زائل کرنا۔ باطل کرنا۔ مَثَالُ الْكِتَابِ: نقل کرنا۔

نَاسَجَهُ مَنَاسَجَةً: ایک دوسرے کو ٹھوکرنا۔

نَاسَجًا: ایک دوسرے کو ٹھوکرنا۔

تَنَاسَخُوا الشَّيْءَ: ہاتھوں ہاتھ لینا۔ ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ تَنَاسَخَتِ الْوَرْدَةُ: تقسیم پے در پے آنا۔ تَنَاسَخَ الْوَرْدَةُ: تقسیم میراث سے پہلے بعض وارثوں کا مر جانا۔

النَّسَخُ الشَّيْءُ: زائل کرنا۔ کتاب نقل کرنا۔ الشَّيْءُ الشَّيْءُ: کسی چیز کا کسی چیز کے قائم مقام ہونا۔

اِسْتَنَسَخَ الشَّيْءُ: بمعنی نَسَخَ۔ لکھنے کو کہا۔

بِلَدَةٍ نَسِخَةٌ وَنَسِخَةٌ: دور کا شہر۔

النَّسَخَةُ: کتاب نقل کی ہوئی۔ کتاب جس سے نقل کی جائے۔ ج نَسَجَ: کہا جاتا ہے کَتَبَ الْقَاضِي نَسَخَتَيْنِ بِحُكْمِهِ" قاضی نے اپنے فیصلے کی دو کاپیاں لکھیں۔

النَّاسِخُ: ف۔ کتابوں کا نقل کرنے والا۔

النَّاسِخُ: س۔ آواگون۔ رُوحُ كَا اِيكِ بَدَنِ سِ دَوْسَرِ بَدَنِ مِي نَقْلٍ اَوِ اس كُو نَقْصُ هُوَا مِجِي كِهَا جَاتَا۔ اور جو لوگ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں "النَّاسِخِيَّةُ" کہلاتے ہیں۔ تَنَاسَخَ الْاَزْمِيَّةُ وَالْفُرُوْنُ: زمانہ کا یکے بعد دیگرے آنا۔

نَسَرَهُ (ن) نَسَرًا: غنہ: اُتَارَا۔ اُدْمِرْتَا۔

الجُرح اللحم: شكاف كرو دینا لرّجل: تہمت لگانا۔ بدگوئی کرنا۔

نَسْرَةُ (ض) نكسراً البازي: باز کا چوچ سے نوچنا۔

نَسْرَ الحبل: رسی کا بل کھول دینا۔ توڑ دینا۔

نَسْرَ گدھوں کا شکار کرنا الحبل: رسی کا ٹوٹنا الجرح: زخم کا ٹوٹ جانا اور پیپ وغیرہ بہ جانے کا نوحہ: کپڑے کا ٹھس ٹھس کے پھٹنا۔ نَسْرَتِ البعثة عن فلان: متفرق ہونا۔

الناسع: فابلی گردن۔

النسع: ہاتھ کا جوڑ۔ کچھ کئے کی چوڑی رسی یا تسمہ۔ اس کے ایک ٹکڑے کو النسعة کہتے ہیں۔ نسع و نسوع و نساع و انساع و انساع الطریق: راستے کے وہ ٹکڑے جو چوپایوں کی ٹانگوں سے بڑ جائیں۔

النسع و النربیع النسعیة و المنسع بالو شمل۔

النسوع: من۔ لمبائی۔ المنسعة: زمین جس کی پیداوار لمبی لمبی ہو۔

نسع (ف) نسفا اللبن بالماء: دودھ میں پانی ملانا۔ نسفا بالسوط: چابک مارنا۔

نسع و نسفت الانسان: دانٹوں کا ہلنا۔

نسع و نسفت الانسان: دانٹوں کی جڑوں کا ڈھیلا ہو جانا۔ نسفت الشجرة: درخت کا کاٹنے کے بعد پھر آگنا۔ نسفا: نیزہ مارنا۔

انسفت الابل: اونٹوں کا چرگاہ میں متفرق ہونا۔ نسفت الرجل: سوچ بچار کرنا۔

الناسع: ف رخل ناسع: نیزہ بازی میں ماہر بننا۔

النسور: ناسور۔ زخم جس سے ہمیشہ مواد بہتا رہے۔ نسور امیر۔

النسارية: عقاب۔

المنسر و المنسیر: شکاری پرندہ کی چوچ منسیر و المنسیر: لشکر کا ایک حصہ جو بڑے لشکر کے آگے آگے چلے۔ تمیں سے چالیس تک یا چالیس سے پچاس یا ساٹھ تک یا سو سے دو سو تک گھوڑوں کا گدہ۔ نسیر۔

المنسیرین: گل سیوتی۔ واحد منسیر۔

النسط: وہ لوگ جو پیدائش کے دشوار ہونے کے وقت بچے کو باہر نکال لیں۔

النسغ: درخت کاٹنے کے بعد جو نمی نکلے۔

النسغ: پینہ۔

المنسغة: سویوں کا مجموعہ جس سے گودنے والی عورت گودنی ہے یا پرندہ کے پروں کا یا لوبہ کی تیلیوں کا مجموعہ جس سے نابائی روئی پر نشان کرتا ہے۔

نسف (ض) نسفا البناء: عمارت کو بنیاد سے ڈھالنا۔ نسفا بالمنسف: غلہ کو چھانچ چھانچنا۔ نسفا بالربیع: عمارت کو بنیاد سے ڈھالنا۔ نسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

نسفا (ن) نسفا و نسوفا: دانٹ سے کاٹنا۔ نسفا الاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

انسف البناء: عمارت کو بنیاد سے ڈھالنا۔

النسفا: بھرا کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسغ: درخت کاٹنے کے بعد جو نمی نکلے۔

النسغ: پینہ۔

المنسغة: سویوں کا مجموعہ جس سے گودنے والی عورت گودنی ہے یا پرندہ کے پروں کا یا لوبہ کی تیلیوں کا مجموعہ جس سے نابائی روئی پر نشان کرتا ہے۔

نسف (ض) نسفا البناء: عمارت کو بنیاد سے ڈھالنا۔ نسفا بالمنسف: غلہ کو چھانچ چھانچنا۔ نسفا بالربیع: عمارت کو بنیاد سے ڈھالنا۔ نسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

نسفا (ن) نسفا و نسوفا: دانٹ سے کاٹنا۔ نسفا الاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

انسف البناء: عمارت کو بنیاد سے ڈھالنا۔

النسفا: بھر کر بہ پڑنا۔

انسف البناء: عمارت کو بنیاد سے ڈھالنا۔

النسفا: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

النسفا بالاناء: بھر کر بہ پڑنا۔

<p>النسك والنسك. نذر جو اللہ کیلئے پیش کی جائے۔ ذبیحہ۔ والنسك: چاندی سونے کا ٹکڑا۔ جربانے کا ذبیحہ۔ کہا جاتا ہے من فعل كذا وكذا فعلیہ نسك. جس شخص نے ایسا اور ایسا کیا اس پر ایک ذبیحہ ہے۔</p> <p>النسك: سونا۔ چاندی۔</p> <p>النسك: ذبیحہ۔ چاندی سونے وغیرہ کا ٹکڑا۔ نَسَانِك.</p> <p>الناسك: فاء عابد زائد۔ نَسَاك.</p> <p>عُشْب ناسك: بہت سبز گھاس۔ اَرْض نَاسِكَة: تازہ بارش والی سرسبز زمین۔</p> <p>الْمَنَسَك: مانوس جلاؤ المسك، قربانی کی رسم۔ قربانی کی جگہ۔ قربانی ج مناسك و مناسك الحج: افعال واركان حج۔</p> <p>الْمَنَسُوك: من ثوب منسوك: پانی سے دھو کر پاک کیا ہوا کپڑا فرس منسوكه۔</p> <p>چھوٹے چھوٹے نرم بالوں والا گھوڑا۔ اَرْض منسوكه: کھاؤالی ہوئی زمین۔</p> <p>نسل (ن) منسلا الصوف او الريش: جھاڑا اور گھولڈ و بالولڈ: چٹا بولڈ۔</p> <p>بہت اولاد والا ہونا۔</p> <p>نسل (ن) منسولا الريش او الصوف: پریاؤں کا جھاڑا اور گرنہ۔</p> <p>نسل (ض ن) منسلا و نسلا و سلانا: فی مشیہ: تیز چلنا۔</p> <p>انسل الصوف او الريش: اون یا پر گرنہ۔</p> <p>الصوف: اون گرہلوالڈ الولڈ: پیدا کرنا</p> <p>فی عدوہ: تیز دوڑنا القوم: آگے بڑھ جانا</p> <p>الدابة: جانور کے بال گرنے کا زمانہ قریب ہونا۔</p> <p>تناسل القوم: بعض کا بعض سے پیدا ہونا</p> <p>بنو فلان: بہت اولاد والے ہونا۔</p> <p>النسل: سر۔ خلق۔ اولاد۔ ذریت۔ ج۔ انسال۔</p> <p>النسل: سر۔ دودھ جو تھن سے خود نکلے۔ سبز انجیر کا دودھ۔</p> <p>النسال: گرے ہوئے پریا بال یا اون۔ واحد</p>	<p>برتن۔ المنسف والمنسف. گدھے کی تھوٹھی۔ مناسف. المنسف. چھانج۔ سوپ۔ المنسفة. چھانی۔ ثمارت کے ڈھانے کا ایک آلہ۔</p> <p>نسق (ن) نسفا الذر ونحوه: موتی پر روایا الكلام: کلام کو ترتیب دینا۔</p> <p>نسق الشئ: ترتیب وار رکھنا۔</p> <p>ناسق بينهما: دونوں کو ترتیب سے کرنا۔</p> <p>انسق الرجل: صحیح کہنا۔</p> <p>انتسقت و تناسقت و انتسقت الاشیاء: منظم ہونا۔ بالترتیب ہونا۔ کہا جاتا ہے تناسق کلامہ اس کا کلام بالترتیب ہے۔ صفت متناسق</p> <p>النسق: بالترتیب کہا جاتا ہے جاء القوم و جانت الحیل نسفا: لوگ بالترتیب آئے۔ گھوڑے ترتیب کے ساتھ آئے۔ و غرسن النخل نسقا: میں نے کھجور کے درختوں کو ہموار ایک قطار میں لگایا۔ و هذا ذر نسق و کلام نسق و ثغر نسق</p> <p>حروف النسق والنسق: حروف عطف۔ کہا جاتا ہے "هذا نسق علی هذا" یعنی یہ اس کے اوپر معطوف ہے۔</p> <p>النسیق: بالترتیب۔ منظم۔</p> <p>نسك (ن) نسکا و نسکا و نسکا و نسوکا و نسكة و منسكا الرجل: زاہد و عابد ہو لینے۔ نقلی عبادت کرنا۔ خدا کے نام پر ذبح کرنا نسکا، القوب: کپڑے کو دھو کر پاک کرنا۔</p> <p>البيت: گھر میں آہلی طریقہ جمیلہ: برداشت کرنا۔</p> <p>نسك (ن) مساکة: زاہد و عابد ہونا۔</p> <p>تنسك: زاہد و عابد بننا۔</p> <p>النسك بثلاث النون والنسك عبادت۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک حق۔ النسك مانوس جگہ۔</p>
---	---

ہونا۔ زندہ ہوالطفل: جوانی کو پہنچنا۔ کہا جاتا	مؤنسیۃ و نسیاء۔	ہو یا حیوان۔ لوٹری۔ غلام۔ جسم و
نشأت فی بی بی فلان: میری پرورش	سی نسی نسیاً الرجل: انساناں رگ پر	سمات النسمة: سانس کا چڑھنا۔ کہا جاتا
بی فلاں میں ہوئی اور میں جوانی کو پہنچا۔ اور اس	مارنا۔	”اصابة نسمة“ یعنی اس کا سانس چڑھ
انشاء: نشات السحابة: گھا اٹھنا۔	سی نسی نسیاً و نسیانا و نسیایۃ و	گیاد۔
انشاء انشاء: پرورش کرنا انشاء اللہ	نسوة الشی: بھولنا۔	نسیم: سر روح۔ پینڈ۔ نرم ہوا نسیم
انشاء انشاء: گھا اٹھنا: نوپیدا کراللہ	سی و انسی الرجل لشی: فراموش	اور بھاری بھر کم آدمی کے لیے کہا جاتا ہے
انشاء: پیدا کراللہ الخلق: شروع کرنا۔	کرنا۔	یل الظل بارد النسیم:۔
انشاء الحدیث او الکلام: وضع کرنا۔ ابتدا	ناسی: اپنے آپ کو بھولا ہوا ظاہر کرنا۔	نسیم: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔
کرنا۔ اور اسی سے ”علم الانشاء“ ”زندہ“	النسی والنسی: بھولی ہوئی چیز۔ معمولی	لاناسیم: لوگ (نسیم) کی جمع الجمع ہے
عمدہ شعر بنانا یا بہترین خطبہ و فیلان ذار:	چیزیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل	کہا جاتا ہے ”ما فی الاناسیم مثله“ یعنی
تعمیر شروع کرنا یا نشاء فلان یضرب:	ہونے والے چھوڑ جائیں۔	لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
مارنے لگنا (اس صورت میں یہ افعال مقابہہ	النسیان والنساء: بہت بھولنے والا۔	منسیم: للابل: اونٹ کے کھر کا کنارہ۔ ج۔
میں سے ہے)	النسی: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شاندار	اسیم: المنسیم: علامت۔ راستہ۔
من المکان: نکلنا۔ کہا جاتا ہے ان	ہونے والا۔	مذہب۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے ”الی ان
انشات یعنی تم کہاں سے نکلے۔	النسی: پنڈلی کے نچلے حصہ کی ایک رگ۔	سمنک“
نشاء تنشئة: پرورش کرنا یا نشاء اللہ	النسی: بھولی ہوئی چیز۔ بتلاء عرق	تبدلی دوسری طرف ہے۔
السحابة: گھا چڑھانا۔	النساء۔	نسب الطائر: پرندہ کا تیز اڑنا
نشاء تنشؤا: الی حاجتہ: اپنی حاجت کے	المنساة: لاشی (اس کی اصل منساة ہمزہ	زینج: ہوا کا چھینسنس العیر: اونٹ کو
لیے جانا۔	کے ساتھ ہے)	ڈانٹا اور بالکل جل: کمزور ہونا۔
نشاء انشاء الأخبار: خبروں کی	نش (انشاء الذابۃ) چوپایہ کو ہانکنا	لنسناس: شکل انسانی پر ایک خیالی جانور
حقیقت دریافت کرالعلم فی الممازۃ	مک باریک کرنا۔ کوشا۔	نذ العامة: بندروں کی ایک قسم۔ لگور۔
بلند کرالانا قصیدۃ او خطبۃ: قصیدہ یا	النسی: ملانا۔	ناس انسان وغیرہ: مشقت اور
خطبہ کی فرمائش کرنا۔	نش (نش و نسیا الماء فی	صبر۔
نشء: نسل۔ نسل۔ کہا جاتا ہے ”نش	الکوز الجدید: سکورے میں پانی کا آواز کرنا	نسناس: سخت بھوک۔
نشء او من نش سؤء“ وہ بری نسل سے	اللحم: ہانڈی میں یا سچ پر آواز لگانا	سائیسو نسوة الرجل: کام چھوڑ دینا۔
ہے۔ چھوٹے چھوٹے اونٹ۔ ناشی اسم فاعل کی	تالاب کا پانی اترنے لگانا: جوش مارنا	ساة انشاء الشی: چھوڑنے کا حکم دینا۔
جمع چڑھا ہوا بادل یا بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر	الرطب: خشک ہونا یا خشک اللحمۃ:	نسا: ایک رگ جو سر میں سے نکلنے تک ہوتی
ہوئی تھی۔	گوشت کے ٹکڑے سے پانی نکلنا۔	بھٹی نسوان و نسیان انشاء:
النسی: بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔	النش: سر پر چیز کا نصف۔	نسوة: سر۔ دودھ کا ایک گھونٹ۔
النشاء والنسیۃ: نباتات کی نازک	النشاش: اسم مبالغہ (ارض نشاشۃ:	لنسوة والنسوة والنساء والنسوان
کو پھلین النسیۃ: اکھٹا نشۃ۔	نمناک زمین جس میں کچھ نہ اگے۔	النسوان والنسین: عورتیں (یہ سب
النسی: فا۔ جوانی کے قریب پہنچا ہوا لڑکا یا	النسیش: سر پانی کے جوش کی آواز۔	النسوانۃ کی جمع ہیں) لوسوة اوسوة
لڑکی۔ نشء و نشا و ناشئۃ (خلاف	النسیش: شور زمین جس میں کچھ نہ	کی طرف نسبت کے لیسوی و نسوی
قیاس) ہر وہ چیز جو رات کو ظاہر ہو۔ ج	اگے۔	اور قسیمیۃ اوسیات بھی کہا جاتا
نواشی۔	المنسۃ: مور چھل۔ چوری۔	ہے۔
النشیۃ: ناشی کا مؤنث۔ دن کا ابتدائی	نشأ (نشأ) او نشوءا	لنسؤ: عرق النساء کی بیماری میں مبتلا۔
حصہ۔ رات کے ابتدائی اوقات۔ سونے کے	نشأ و نشاء و نشانۃ الشی: نوپیدا	نسی نسی نسی: بتلائے عرق النساء
		ہونا۔ صفت مذکب و انسی۔

بدر اُتھا۔ نوجوان لڑکی۔ ج نواشی۔
 المنشأ۔ پیدا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے
 "مولدی ومنشأ فی نبی فلان"
 المنشأ والمنشأ۔ بلند جھنڈا۔ بلند
 نشان راہ۔

نشب (س) نشبا و نشوبا و نشبة
 الشئ فی الشئ: چٹنا العظم فی حلقہ:
 حلق میں بڑی چھینا۔ کہا جاتا ہے "نشب فلان"
 منشب سوء" فلاں ایسی چیز میں پھنس گیا
 جس سے رہائی ممکن نہیں "وما نشبت أفعل
 کذا" یعنی میں ہمیشہ ایسا کرتا رہا" ولم ینشب
 أن مات" یعنی وہ فوراً ہی مر گیا (نشوبنا)
 الحرب بین القوم: گھسان کی جنگ ہونا
 الأمر فلاناً: لازم ہو بیٹھ: خریدنا۔

نشبة و انشبة فی کذا: چٹانا۔ چپاں
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "نشب البازی مخالفة
 فی الأخذة" باز نے چنگل شکار میں گھسایا۔
 أنشب الصائد: شکاری نے شکار کو جال میں
 پھنسا لیا۔

الریح: ہوا کا تیز ہونا اور کھری وغیرہ اڑانا۔
 ناشبة مناشبة الحزب: کھلم کھلا جگ
 کرنا۔

تنشبت فیہ: چٹنا۔ کہا جاتا ہے "تنشبت فی
 قلبہ حث فلان" اس کے دل میں فلاں کی
 محبت پیوست ہو گئی۔

انتشبت فیہ: چٹنا الحطب: کڑی جمع
 کرنا۔

تناشبوا: بعض کا بعض کے ساتھ چٹنا۔ کہا
 جاتا ہے تناشبوا حول الرسول" لوگوں
 نے رسول کے ارد گرد بھیر لگائی۔

النشب۔ س۔ (والنشبة) جائیداد غیر
 منقولہ۔ مال و مویشی بالنشب۔ ایک درخت
 کا نام جس سے کما میں بائی جاتی ہیں۔

النشبة۔ س۔ (والنشبة) کام میں پھنس کر
 رہائی نہ پانے والا مرد۔

نشبة۔ بھیر یا کھلم جنس۔

النشاب۔ تیر۔ و جد نشابة۔ ج

نشاشیب

النشاب۔ ق۔ تیروں والا۔ تیر انداز۔

الناشبة۔ ناشب کا مؤنث۔ تیر انداز لوگ۔

النشاب۔ چٹنے والا۔

النشاب۔ بہت چٹنے والا۔ تیر ساز و تیر

انداز۔ کہا جاتا ہے "سئل نشاب" تیر انداز

مرد۔ فوڈ نشابة۔ تیر انداز لوگ۔

المنشب۔ چٹنے کی جگہ۔

المنشبة۔ مال مویشی۔ کہا جاتا ہے بزود

منشب۔ تیر کی مانند نقش و نگار والی چادر۔

نشج (ض) نشج و نشیج الباکی:

روتے روتے بجلی لگنا۔ نشجت القدر:

ہانڈی کا کھد کھد اٹھنا۔ الصفدع: مینڈک کا

ٹراتے وقت آواز دہرانا المطرب: گویے کا

دو طرز کے سروں کے درمیان فصل کرنا اور

کھینچنا۔

النشج۔ پانی بھرنے کی جگہ۔ ج نشج:

النشیج۔ س۔ آواز۔

عبرة نشج۔ آنسو کہ جس کے ساتھ آواز

بھی ہو۔

نشج (ف) نشج و نشوحا الرجل:

سیرابی سے کم پینا۔ سیر ہو کر پینا۔

النشوح۔ تھوڑا پانی۔

النشج۔ مست لوگ۔ و احشوح:

النشاح من الایة: بھر کر چھلکنے والا

برتن۔

نشد (نض) نشدا و نشدانا و نشدة

الصلاة: گم شدہ کو ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔ گم

شدہ کی تشبیر کرنا فلاناً: پچھاننا اللہ و

باللہ: قسم دینا۔ النشاح الرجل: کسی سے

انشدک اللہ کہنا۔ اور کہا جاتا ہے نشدک

اللہ إلا فعلت" اس سے مقدمہ ہے کہ میں

نے تم سے کوئی چیز طلب نہیں کی سوائے اس

کے کہ تم یہ کرو و نشدة عہدہ او وعدہ"

اس نے اس کو وعدہ یاد دلایا۔

انشد الصلاة: گم شدہ کے متعلق پوچھ پچھ

کرنا۔ گم شدہ کی تشبیر کرنا انشد الشعر:

شعر پڑھنا۔ انشد بالقوم: بھوکنا زیندا و
 لزید: جواب دینا۔ کہا جاتا ہے "نشدقہ
 نانشدنی او انشدنی" میں نے اس سے
 پوچھا اس نے جواب دیا۔

ناشدة مناشدة و نشادا: قسم کھلانا۔

اشدة الأمر و فی الأمر: متوجہ کرنا۔

نشد. الأخبار: اطلاع دینا۔

فناشدوا. الأشعار: ایک دوسرے کے

سامنے شعر پڑھنا۔

نشدہ. الشعر: شعر پڑھنے کو کہنا۔ کہا

جاتا ہے۔ نشدک و نشدک اللہ إلا فعلت

یعنی میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اللہ کی قسم

دے کر تم سے کہتا ہوں کہ تم یہ کرو۔

الناشد. ق۔ طلب کرنے والا۔ تشبیر کرنے

والا۔ الناشدون: گم شدہ کو تلاش کر کے مالک

تک پہنچانے والے۔

النشدة. س۔ آواز۔

لنشد. آواز کی بلندی (والنشدة ج

شاند والانشودة ج اناشید: شعر جس

کو ایک دوسرے کے سامنے پڑھیں۔ نشید

لانشاد یا نکل کی ایک کتاب۔

النشاد. گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔

النشادر والنشادر. نوسار (دخیل)

نشر (ض ن) نشر الثوب: پھیلانا

نخیر: افشا کرنا الشی: بکھیرنا الخشب:

چیرنا عن المجنون او المرنیض: منتر

پھونکنا نشر الثوب: بادل والے دن میں

ہوا کا چلنا۔

نشر (ن) کسورا. الشجر: پتے نکالنا۔

نشرت أوراق الشجرة: پتوں کا بڑھنا اور

پھیلانا أرض: ابر بہار کی بعد سرسبز ہونا۔

نشر (ن) کسرا و نشر اللہ الموتی:

زندہ کرنا۔ نشر و نشر الموتی: زندہ

ہونا۔ صفتناشر و ن.

نشرت (س) کسرا المواشی: رات میں

چرنے کیلئے پھیلانا۔ خارش والے ہونا۔

نشر الثوب و نحوه: کپڑا پھیلاتا

بادل کا بلند ہونا النفس: دھڑکتا الصوف او الشغور: اون یا بال کا نکلنا اور کھال سے چمنا ہوا ہونا۔ نشصت السن: لمبا ہونا۔ نشص الشی: نکالنا فلانا: تیز مارنا عن بلده: شہر سے مکس سے علیحدہ ہونا۔ نشصت المرأة عن زوجها: عورت کا نافرمان ہونا۔ بغض رکھنا۔ صفت ناشص۔

انشصه عن بلده او بیته: شہر سے یا گھر سے نکال دینا۔

نشصه بلند کرنا۔

نشص لکذا: اٹھنا اور تیری کرنا۔

انتشص الشجرة: درخت کو جڑ سے اکھڑنا۔

استنشصت الريح السحاب: ہوا کا بادل کو اٹھانا۔

النشاص والنشاص: بلند تہ بہ بادل۔ لشکر: ج نشص و نشاص۔

النشوص والنشيص: کھڑا کیا ہوا تیزہ۔ بلند کو بان والی اونٹنی۔

نشط (س) نشاطا: ہشاش بشاش ہونا فی عملہ او الی عملہ: پھر تیار و پست ہونا۔

صفت ناشط و نشیط: نشط اللذابة: موٹا ہونا۔

نشط (ض) نشطا من المكان: نکلنا۔ من بلد الی بلد: عبور کرنا۔ کہا جاتا ہے

"نشط بهم الطريق" راستہ ان لوگوں کو دائیں بائیں لے گیا۔

نشط (ن) نشطا الحبل: رسی میں گرہ دینا العقدة: گرہ کو مضبوط کرنا اللؤلؤ من البئر: بغیر چرخی کے ڈول نکالنا زیندا: تیزہ مارنا۔ نشطته الحية: سانپ کا ڈنسا۔

نشط الحبل: رسی میں گرہ دینا ذ الی او فی العمل: چست بنانا۔ جرات دانا۔

انشطه: چست بنانا۔ انشط الرجل: چست لوگوں یا جانوروں والا ہونا۔ انشطت الحية سانپ کا ڈنسا۔ انشط الحبل: رسی میں گرہ دینا العقدة او العقل: گرہ کھولنا

بیچہ دار کڑی جس سے تیبوں وغیرہ کو بھوسے سے علیحدہ کرتے ہیں۔ ایک سمندر کی مچھلی جس کو ابو منشار بھی کہتے ہیں۔

المنشور: من کھلا ہوا شاہی فرمان۔ المنشور: مصدر میسی۔ کپڑا وغیرہ پھیلانے کی جگہ۔

المنشورة: المنشور کا مؤنث۔ حتی و شریف عورت۔

النشوار: جانوروں کا اصطل۔ نشور (ض ن) نشور فی او عن مکانہ: بلند ہونا الرجل: بیٹھے ہوئے سے اٹھنا۔ اونچی جگہ میں جھانکنا القود فی مجلسهم: ساتھیوں کے لیے سٹما۔ اٹھ کھڑا ہونا۔

نشرت نفسه: گھبراہٹ سے دل دھڑکانا۔ نشرت (ن ض) نشورا المرأة بزوجهها و منه و علیہ: بیوی کا نافرمان ہونا۔ نفرت کرنا۔ بغض رکھنا۔ صفت ناشور و ناشورة ج نواشور: نشور بغلہا تلینا و منینا: شوہر کا ظلم کرنا۔ حتی کرنا۔ تکلیف دینا بالقوم فی الخصومة: قوم کے ساتھ جھگڑا کرنے کیلئے اٹھ کھڑا ہونا۔

نشور (ض) نشورا بقرا: سیبگ سے اٹھا کر پھینک دینا۔

انشور الشی: جگہ سے نمایاں کر دینا۔ بلند کرنا۔

اللہ عظام المیت: مردوں کی ہڈیوں کو اٹھا کر کرایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا۔

النشور: من ج نشور و النشور ج نشاز و انشاز: بلند جگہ من الرجال: قوی۔ مضبوط۔ بڑے ذیل ڈول کا موٹا۔

النشاز: بلند جگہ۔

النشاز: فاد۔ جگہ سے ابھرا ہوا۔ نمایاں۔ عرف نشاز: مرض وغیرہ کی وجہ سے ابھری ہوئی اور دھڑکنے والی رگ۔

النشورة و النشورة من اللذواب: سواری جمر کی بیچہ پوزین یا سوار پتھر نہ نکلے۔

نحس (ض ن) نشصا السحاب:

المريض او المجنون: بیمار یا دیوانہ پر منتر پھونکنا۔

انشور اللہ المیت: مردہ کو زندہ کرنا الأرض: زمین کو پانی ڈال کر قابل زراعت بنانا الرجل: ندی نکالنا۔

تنشور الشی: پھیلانا۔

انتشور الشی: پھیلانا النهار: دن چڑھنا الخیر: خبر کا فاش ہونا الابل: اونٹوں کا متفرق ہونا الرجل: سفر شروع کرنا۔

تنشوروا: الثياب: کپڑوں کو باہم مل کے پھیلانا۔

استنشور الخیر: خبر پھیلانے کو کہنا۔ النشور: من عمدہ خوشبو یا لہو۔ کہا جاتا ہے "اللہ نشور طیب" اس کی اچھی خوشبو ہے۔ گنے کی ابتدا: خارش۔

النشور و النشور بغیر سردار کے منتشر لوگ۔ کہا جاتا ہے "جاء و انشورا او نشورا" لوگ متفرق ہو کر آئے۔ النشور: پھیلانا۔

کہا جاتا ہے "اللہم ائمنم نشوری" اے اللہ میرے متفرق امور کو جمع کر دے۔

النشور و النشور: من یوم النشور و یوم النشور قیامت کا دن۔

النشورة: نشر کا اسم مرہ۔ باؤ نسیم اشتہار۔

(مولدۃ) ج نشرات۔

النشورة: انوس۔ منتر۔

النشارة: کڑی کا براہہ جو آ رہ کرتے وقت گرے۔

النشارة: الناشر کا مؤنث۔ نواشیر کا واحد۔ نواشیر ہاتھ کے رگ ٹپھے کو کہتے ہیں۔

النشور من الرياح: بادل اٹھانے والی ہوائیں۔ ج نشور۔

النشیر: ازار۔ تہ بند۔ کات کر جمع کی ہوئی کھیتی۔

النشایر: بیچوں کے سر مشق (جمع ہے اس کا واحد نہیں)۔

المنشار: آ رہ۔ ج مناشیر۔ المنشار:

تشنغ بسکی لینا یہاں تک کہ بیہوشی طاری ہو جائے (و ناشغ و انتشغ) الکلام کھینچنا اور حاصل کرنا۔
الناشغ فاج تشغوت ناشغہ ج ناشغ و ناشغات. النواشغ وادی میں پینے کی تابلیاں۔

النشغۃ لبی لبی سانسوں میں سے ایک سانس۔ موت کے وقت کی بہت ہلکی پھلکی۔ ج ناشغات۔
النشوغ ناک میں ڈالنے کی دوا۔ بچہ یا مریض کے منہ میں پکانے کی دوا۔
المنشغ والمنشغۃ منہ یا ناک میں دوا پکانے کا برتن۔

نشف (س) و نشف (ن) نشفا الثوب العرق او الحوض الماء کپڑے کا پینے کو پا حوض کا پانی کو جذب کر لینا الماء فی الارض جذب ہونا۔ نشفت البئر کونیں پانی ختم ہونا۔

نشف (ض) نشفا الماء پانی کو چیتھوے وغیرہ سے خشک کر دینا۔
نشف الماء پانی کو چیتھوے وغیرہ سے خشک کر دینا۔ نشفت النافقۃ زمانہ و ولادت کے قرب کی وجہ سے کبھی تھن کا بھرا ہونا اور کبھی خشک ہونا۔ صفت منشف۔ جھاگ والے دودھ والی ہونا۔

انشفہ جھاگ والا دودھ پلانا۔
تنشف الثوب العرق کپڑے کا پینے کو جذب کرنا الرجل چیتھوے وغیرہ سے جسم پونچھنا۔

الانشف۔ جھاگ والا دودھ پینا الوسخ و نحوہ میل وغیرہ صاف کرنا۔
النشف پانی کا جذب ہونا۔

النشفۃ و النشفۃ تھوڑی چیز جو برتن میں باقی رہ جائے۔ النشفۃ وہ چیز جو گرم گرم ہانڈی سے نکالی جائے اور کھائی جائے۔

النشفۃ بتثلیث النون و النشفۃ جھانواں۔ ج نشف و نشف و نشف و

اناشیط۔ تمہاری دوستی کمزور نہیں ہے۔ ج المنشط بہت پست۔
المنشط خوش دلی۔ کہا جاتا ہے "افعلو ذلك على المنشط والمكروه اس کو خوش دلی اور ناراضی کے باوجود کرو۔
نشط (ن) نشووظ النبات نباتات کا نمودار ہونا۔

نشغ (س) نشغاً الرجل سکی لینا۔
النشی سختی سے کھینچنا الطیب فخر شوہو سگھنا فلانا الذوائفہ میں پکانا ہ الکلام تلقین کرنا۔ سوچنا۔
نشغ (س) نشوعاً قریب الموت ہو کر صحبت پانا۔

نشغ نشغاً بکذا مشتاق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ صفت منشوع بہ۔
انشعہ الذوائفہ میں دوا پکانا ہ الکلام تلقین کرنا۔ سوچنا۔
انتشع ناک میں دوا پکانا النشی سختی سے کھینچنا۔

النشوع ناک میں ڈالنے کی دوا۔ جو مریض کے منہ میں پکانا جائے۔ ہر وہ چیز جو سانس کو بچھلا دے۔
الناشع ابھر اہواں۔
النشع خراب مزے کا پانی۔
النشاعۃ ہاتھ سے نکال کر پھینکی ہوئی چیز۔
المنشع والمنشعۃ منہ یا ناک میں پکانے کی دوا کا برتن۔

نشغ (ف) نشعاً الماء پانی بہنا ہ بالرمح نیزہ مارنا ہ الکلام تلقین کرنا۔
سجھانا الصسی بچے کے منہ میں دوا پکانا الماء اوک سے پانی پینا الرجل سکی لینا یہاں تک کہ بیہوشی طاری ہو جائے۔

نشغ الصسی بچے کے منہ میں دوا پکانا جانا بالنشی مشتاق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ صفت منشوع بہ۔
انشغ عنہ علیہ وہ ہونا ہ الکلام تلقین کرنا۔ سجھانا۔

البعبیر من عقالہ اونٹ کو رہا کرنا۔ جھوڑنا الکلاً الذابۃ: مونہا کرنا۔
تنشط ہشاش بشاش ہونا العمل ہونا اور چست ہو کر متوجہ ہونا۔ تنشطت النافقۃ فی سیرھا تیز دوڑنا۔
نیابان کو عبور کرنا۔
النشط الحبل زنی کو کھلنے کیلئے کھینچنا الحبل زنی کا کھانا النشیطۃ بلا قصد و ارادہ کے ہاتھ لگے ہوئے اونٹوں کو ہانکنا

مچھلی کے سفنے اتارنا النشی چیننا مضبوط کرنا فلانا الی کذا کھینچنا یا بلند کرنا۔
النشۃ فلانا سانس کا ڈنسا۔
النشط الجملۃ کھال کا سکرنا۔ جھری دار ہونا۔

النشط من جلدی اور تیزی کے ساتھ ڈنگ مارنا۔
الناشط۔ چست۔ پھر تپا۔ جنگلی بیل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرے۔
النشط بڑی سڑک سے دائیں نکلا ہو راستہ۔
الناشطۃ الناشط کا مؤنث ج ناشطات و نواشط۔ والنواشط من المسائل بڑے مسئلے سے نکلے ہوئے مسائل واحد اس کا

ناشط ہے۔
النشیط چست پھر تپا۔ چست اہل و عیال والا یا چست جانوروں والا۔ ج نشاط و نشاطی

النشوط ایک قسم کی مچھلی۔ بنتو نشوط۔
گہرا آبنوں۔
بنتو نشاط و النشاط کم گہرا آبنوں جس سے ڈول ایک ہی دفعہ کے کھینچنے میں نکل آئے۔

النشیطۃ النشیط کا مؤنث۔ مال قیمت جو غازیوں کو راستہ میں ہاتھ لگ جائے۔ اونٹ جو بلا قصد و ارادہ کے ہاتھ لگ جائیں اور ہانکے جائیں۔
الانشوطۃ گرہ جس کا کھولنا آسان ہو۔ کہا جاتا ہے "ما عقا لك بانشوطۃ" یعنی

نشق و نشاف
النشقة والنشافة. پانی پونچھنے کا کپڑا۔
جھاڑن۔
النشقة والنشافة. دودھ دوچنے وقت کے
جھاگ۔ النشافة جذب شدہ پانی۔ وہ چیز جو
گرم گرم ہانڈی سے نکالی جائے۔
أرض نشقة پانی جذب کرنے والی زمین۔
المنشفة. رومال۔ تولیہ (مولدہ) اج
مناشف۔
النشاف وہ شخص جو روٹی کو دیگ کے
سرے پر سے تر کر کے تنہا کھائے۔
نشق (س) نشقا و نشقا الریح. بو
سوگھنا۔
فی الحبالہ پھنسنے میں پھنسا۔
انشقة المسك ونحوه. مشک وغیرہ
سوگھانا الطیبی فی الحبالہ: ہرن کو جال
میں پھنسانا۔ اور کہا جاتا ہے "انشقته"
الحبالہ: اس کو جال نے پھنسا لیا۔
النشوق. نوار سوگھانا۔
نشق و انشیق و انشیق الماء فی
انفه ناک میں پانی ڈالنا۔ نشق و انشیق
الریح او النشوق. بو یا نوار سوگھنا۔
النشقة. بمری وغیرہ کی گردن کا پتہ۔ ج
نشق
النشوق وہ شخص جو کسی کام میں پھنس جائے
اور رہائی نہ پاسکے۔
النشق والنشوق سوگھنا۔ کہا جاتا ہے
"رائحة مكرؤهة النشق"
النشوق. نوار۔ ناک میں ڈالنے کی دوا۔ ہر
دوا جو سوگھی جائے۔
المنشق ناک۔ ج مناشق جس میں نوار
کے المنشفة وہ ذبیہ وغیرہ جس میں نوار
رہیں۔
نشق (ن) نشق الریح. دہلا ہونا۔
نشقت الفخذ. کمر کو کھینچنے والی ہونا۔ صفت
ناشقة۔
نشق (ض ن) نشق الشی. جلدی سے

ایک لینا۔ چھین لینا الحاتم۔ انگوٹھی اتارنا
نشقت الحبة الرجل. ساپ کا ڈنسا
اللحم. گوشت بغیر مسالہ کے پکانا۔ بغیر چچ
کے ہاتھ سے نکالنا۔
انشل و انشلت اللحم من القدر.
گوشت کو ہانڈی سے نکالنا ما علی العظم
بغیرہ دانت سے چھڑا کر کھانا۔
النشل. بمر بغیر مسالہ کے پکا ہوا گوشت۔
النشال اکثر بغیر مسالہ کے گوشت پکانے
والا۔ روٹی کو دیگ کے سرے سے تر کر کے تنہا
کھانے والا۔ گرہ کٹ۔ جب کترا۔
النشیل. کڑوئیں کا سپا پانی۔ تازہ دودھ۔ تلی
تلوار۔ بغیر چچ کے ہاتھ سے نکالا ہوا گوشت۔
بغیر مسالہ کے پکا ہوا گوشت۔
المنشلة الکی کا وہ حصہ جو انگوٹھی کے نیچے
رہے۔
المنشل و المنشال. کڑی دار سج جس
سے گوشت نکالیں۔ ج مناشیل۔
نشم (س) نشما النور. تیل کا سیاہ و سفید
داغوں والا ہونا۔ صفت نشم۔
نشم اللحم. گوشت کا بگڑ جانا۔ بودار ہو جانا
الأرض. زمین سے پانی کا رستا۔ فی فلان
بد کوئی کرنا فی الشر. برائی میں مشغول ہونا
اللہ ذکر فلان. بلند کرنا۔ شہرت دینا (و)
نشم. فی الامر شروع کرنا۔ نشم منه
علما حاصل کرنا۔ استفادہ کرنا۔
النشم. س. ایک درخت کا نام جس سے کمان
بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "یدی نشمة من
الجین ونحوه" یعنی میرا ہاتھ بودار ہے۔
المنشم و المنشم. ایک قسم کی خوشبو
جس کا کوٹنا: نوار ہے۔ منشم. ایک عطر
فروش عورت کا نام کہ جب اس سے عطر لے
کر لگاتے تھے تو لڑائی بہت زیادہ تیز ہو جایا کرتی
تھی۔ اسی وجہ سے یہ مثل مشہور ہے "اشام
من عطر منشم" المنشم: حب
بلسان۔
نشش نششة الجلد. کھال اتارنا۔

الشی: زور سے بٹانا النور. تیل کو بانگنا
دھکارنا النوب. کپڑے اتارنا الوعاء. برتن
کو جھاڑنا۔ کھیرنا السلب. لینا۔ نششت
القدر. ہانڈی کا اہل میں آواز نکالنا۔ نشش
الرجل. کام میں جلدی کرنا اللحم. گوشت
کو جلدی کھانا الحاربة. جماع کرنا۔
نشش مطاوع نشش الشجر.
درخت سے چھال اتارنا۔
النششنة. س. زرہ۔ کاغذ۔ نئے کپڑے وغیرہ
کی کھڑکھڑاہٹ۔
النشاش و النشش و النششی. عمل یا
حرکات میں ہلکا پھلکا۔ أرض نشاشة زمین
شور۔
نشی نشی نشوة و نشوة و نشوة و
نشی و انشی و انششی الریح. سوگھنا
نشی بالشی بار بار کرنا۔
نشی نشی نشوا و نشوة و نشوة
و نشوة و نشی و نشی و انشی.
مست ہونا۔ نشر والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "نشی
من الشراب" وہ شراب سے مست ہوا۔
نشی و انششی الخبر. خبر دریافت کرنا۔
النشأ عمه خوشبو۔ بو۔ ج انشاء
(والنشاء) نشاستہ۔
النشاة خشک درخت۔ ج نشأ
النشوة اسم مرة۔ سستی یا ابتدائی سستی۔
بو۔
النشوة تازہ خبر۔
النشیة بو۔ ج نشایا۔
النشوان. مست۔ مؤنث۔ نشوی. ج
نشوی۔
النشهان پہلے پہل خبر کو معلوم کرنے والا۔
کہا جاتا ہے "فلاق نشیان لأخبار او
بالأخبار"
نش (ن) نص الشی. بلند کرنا۔ نمایاں
کرنا۔ حرکت دینا الحدیث. حدیث کی سند
بیان کرنا الرجل. پوری طرح سے دریافت
کرنا النشاة. اوتھی کو تیز دوڑانا المتاع سامان

تہ بہ رکھنا العروس ولبین کو جملہ عروسی میں
بٹھانا فلان غنقہ گردن اٹھانا الشی ظاہر

ہونا۔
نص (ض) نصیصا الشواء علی النار
بھوننے کے وقت آواز لگانا۔ نصت القدر

ہانڈی کا جوش مارنا۔
نصص وناص مناصۃ غریمة قرض دار

سے جھگڑا کرنا اور اصرار سے طلب کرنا۔
نصص المتناع سامان تہ بہ رکھنا۔ نصص
فلان تصبیح کرنے میں مبالغہ کرنا۔

انصص الشی بلند ہونا۔ سیدھا ہونا۔ انصص
الرؤمخ کھڑا ہونا۔ سکرنا۔ انصصت
العروس لبین کا جملہ عروسی میں بیٹھنا۔

تناصص القوم بجوم کرنا۔
النصص سے مہرخ کلام۔ ج نصص
والنصص من کل شی انجام۔ انتہا۔

النصص من الکلام ایسا کلام جس میں تاویل
کی گنجائش ہو۔

النصصۃ ام مرتہ۔ مادہ چڑیا۔
النصصۃ ماتھے پر لگے ہوئے بال۔ ج نصص
و نصاص

النصصۃ نصیص القوم لوگوں کی
تعداد۔
المنصصۃ جملہ عروسی۔ ولبین کیلئے آراستہ کیا

ہوا کرہ۔
المنصصۃ ولبین کے بٹھانے کی کرسی۔ بیوند
لگے ہوئے کپڑے۔ پاؤں سے روندے ہوئے

فیرش۔ ج مناصص اور کہا جاتا ہے "وضع
فلان علی المنصصۃ" یعنی فلاں کی بے عزتی

کی گئی۔
النصاصص ناک کو حرکت دینے والا۔ کہا جاتا
ہے "هو نصاصص الانف"

المنصصۃ تصبیح شدہ۔ معین۔
نصاصہ (ف) نصاص پیشانی کے بال پکڑنا۔
الرجل وانشاء دفع کرنا۔

نصصہ (ضن) نصصا المروض او الہیمہ
تھکانا۔ تکلیف دینا۔ نصب الشی بلند کرنا۔

کھڑا کرنا۔ گاڑنا الشجرۃ پودہ لگانا لہ
الحورب کسی سے لڑائی کی بنیاد رکھنا لہ الشیر

لہ ایا رائے دینا لفلان
لڑائی ظاہر کرنا۔
و دشمنی کرنا۔ الکلمۃ کلمہ کو زبردینا یا زبرد کے
ساتھ پڑھنا الامیر فلان کسی کو عہدہ پر مقرر

کرنا۔
نصب (س) نصبا تھکانا فی الامور
کوشش کرنا۔

نصب الشی رکھنا۔ بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے
نصبت الخیل آدھیا کھوڑوں نے اپنے
کان کھڑے کیے الامیر فلان کسی کو عہدہ پر

مقرر کرنا۔
انصبہ تھکانا۔ حصہ مقرر کرنا ہ المرض
تکلف دینا۔ انصب الحدیث سندیان کرنا

السکین چھری کا دستہ لگانا۔
ناصبۃ مناصبۃ و دشمنی کرنا۔ مقابلہ کرنا ہ
الحورب او العداۃ لڑائی کا اعلان کرنا

و دشمنی ظاہر کرنا۔
انصب کھڑا ہونا۔ بلند ہونا الحوہ
حرف پر زور ہونا الطاحی پکانے والے کا

ہانڈی چڑھانا۔
تنصب کھڑا ہونا الغبار و نحوہ۔ بلند
ہونا۔

تناصصوا الشی باہم تقسیم کرنا۔
النصب سے کھڑا کیا ہوا جھنڈا۔ بلا۔ مرض۔
نتیجہ عند النحاد۔ ایک حرکت اعرابی کا نام

اور اسی کے مقابلہ میں بنائی حرکت کو فتح کہتے
ہیں۔ نصب العرب۔ ایک قسم کا راگ جو
حدی کے مشابہ ہے۔

النصب حصہ (نصب میں ایک لغت)
النصب و النصب کھڑی کی ہوئی چیز۔ کہا
جاتا ہے "هذا نصب عینی" یعنی یہ میری

نگاہ کے سامنے ہے۔ بت۔ ج انصاب۔
مرض۔ بلا و مصیبت۔ نصب حصہ۔ ہر وہ
چیز جو علامت مقرر کی جائے۔ نصاب کی جمع۔

الانصاب۔ پتھر جو کعبہ کے ارد گرد کھڑے
کئے گئے تھے اور وہاں جانور غیر اللہ کے نام کا ذبح

کرتے تھے۔

النصب سے کھڑی کی ہوئی علامت۔ ج
انصاب
النصب بپار۔ بتلاء درود۔

النصبۃ نصب کا اسم مرتہ۔ نصب کی
علامت گانے کے لیے پودہ۔
النصبۃ گانے کی نوعیت۔

النصبۃ ستون وغیرہ جو راستہ بتانے کے لیے
کھڑا کیا جائے۔ ج نصب
النصاب پارلیمنٹ میں بل پاس کروانے کے

لئے کو روم۔
النصاب اصل۔ مرجع۔ سورج غروب
ہونے کی جگہ۔ ہر چیز کی ابتدا۔ چھری کا دستہ۔

بال کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ ج
نصب
النصب حصہ۔ حوض۔ نصب کیا ہوا پھنڈا

ج انصبۃ و انصباء۔ و نصب
النصبۃ حوض کے ارد گرد کا پتھر۔ ج
نصاب

النصاب فا۔ تیز رفتار۔ ہم ناصب تھکا
دینے والا نعم عند النحاة: نصب دینے والا
عامل ج نصاب

النصاب ہر کام میں خود گھسنے والا۔
الانصاب و النصاب راستہ پر کھڑے
کئے ہوئے نشانات۔

الانصب سیدھے سینکوں والا۔ مؤنث
نصباء۔ ناقۃ نصباء: ابھرے ہوئے سینہ
والی اونٹنی۔

المنصب اصل۔ مرجع۔ حسب و شرافت
اور اسی سے ہے منصب بمعنی عہدہ حکومت
ج مناصب۔ کہا جاتا ہے "الفلان منصب"

یعنی فلاں کے لیے علم مرتبہ ہے۔
المنصب۔ دیگران آہنی۔ ج مناصب
المنصب۔ رنج و کلفت۔ کہا جاتا ہے "عیش

ذو منصب" رنج و کلفت والی زندگی۔
المنصب۔ سن اسنان منصبۃ
خوبصورت ترتیب و اردانت۔

الْمَنْصُوبُ. وہ کلمات جن پر نصب ہو۔
الْمَنْصُوبَةُ. الْمَنْصُوبُ کا مؤنث۔ حیلہ۔
کہا جاتا ہے "سَوَى لَهُ مَنْصُوبَةٌ" اس نے
اس کے لیے حیلہ سوچا۔
نَصَّتْ (ض) نَصًّا وَاَنْصَتْ وَاِنْصَتَتْ
لَهُ: بات سننے کے لیے خاموش رہنا۔ اَنْصَتَ:
خاموش کرنا۔

تَنْصَتَّ. خاموش رہنے اور سننے کی کوشش
کرنا۔
اِسْتَنْصَتَّ. خاموش کھڑا ہونا۔ خاموش
رہنے کی درخواست کرنا۔
النَّصِيَةُ. خاموشی۔

نَصَحَ (ف) نَصْحًا و نَصْحًا و نَصَاحَةً
و نِصَاحَةً و نِصَاحِيَّةً. فَلَانًا و بِفَلَانٍ:
نصیحت کرنا۔ مخلص ہونا۔ صفت ناصح ج
نُصَّاحٍ و نَصِيحٍ. کہا جاتا ہے "لَا اُرِيْدُ مِنْكَ
نُصْحًا و لَا اِنْصَاحًا" یعنی میں نہیں چاہتا
کہ تم مجھ کو نصیحت کرو اور نہ مجھے ناصح سمجھو۔
نَصَحَ (ف) نَصْحًا و نِصْحًا الشَّيْءُ:
خالص ہونا۔ صاف ہونا تَوْبَةً: پختہ توبہ
کرنا الْعَمَلُ: خالص طریقہ سے کرنا الْعَسَلُ:
شہد صاف کرنا الثَّوْبُ: کپڑا سِوَا الْعَيْثِ
الْبَلَدُ: اچھی طرح سے سیراب کر کے سبزہ
زار کر دینا۔

نَاصِحَةٌ مَنَاصِحَةٌ. ایک دوسرے کو نصیحت
کرنا نَفْسُهُ بِالتَّوْبَةِ: خالص توبہ کرنا۔
اَنْصَحَ الرَّاعِي الْاِبِلَ: سیراب کرنا۔
تَنْصَحُ. بہت نصیحت کرنا۔ نصیحت کرنے
والوں کے مشابہ ہونا الثَّوْبُ: کپڑا سِوَا
اِنْصَحَ. نصیحت قبول کرنا فَلَانًا خَيْرٌ خَوَاهُ
سمجھنا۔
اِسْتَنْصَحَهُ. خیر خواہ سمجھنا۔

النِّصَاحُ. دھاگہ۔ سِلْكٌ ج نَصْحٌ و
نِصَاحَةٌ.
النِّصَاحَاتُ. چمڑے اسلئے کہ بعض کو بعض
سے ملا کر پتے ہیں۔ پھندے۔ واحد نِصَاحَةٌ.
النَّاصِحُ. خالص شہد وغیرہ اور کہا جاتا ہے

رَجُلٌ نَاصِحٌ الْحَبِيبُ یعنی صاف دل مرد۔
الناصح والنصاح والنصاحي. درزی۔
النصيح. خیر خواہ۔ نصیحت کرنے والا۔ ج
نُصَّاحَاءُ.

النُّصُوحُ. نصیحت کرنے والا (مذکر مؤنث)
تَوْبَةُ نَصُوحٍ: خالص توبہ۔

النَّصِيحَةُ. اسم مصدر۔ اخلاص۔ خیر و صلاح
کی طرف بلانا اور شر و فساد سے روکنا۔ ج
نِصَاحِيَّةٌ.

عُبُوثٌ نَوَاصِحٌ. لگا تار بارشیں۔
الْمِنْصَحُ وَالْمِنْصَاحَةُ. سوئی۔

الْمُنْتَصِحُ. ج. ثُبُوتٌ مُتَّنَصِحٌ. پیوند لگا
ہوا یا سلا ہو کپڑا اور کہا جاتا ہے "أَنْ فِي تَوْبِهِ
مُنْتَصِحًا" اس کے کپڑے میں سینے کی جگہ
ہے۔

نَصْرَةٌ (ن) نَصْرٌ. مدد کرنا مِّنْ و عَلِيٍّ
عَدُوَّهُ: دشمن سے نجات دلانا۔ کسی کے
برخلاف مدد دینا۔ نَصْرَ الْعَيْثِ الْأَرْضُ:
عالمگیر بارش ہونا۔

فَلَانًا: دینا۔
نَصْرَتِ الْأَرْضِ: بارش ہونا۔

نَصْرَةٌ. نصرانی بنانا۔
نَاصِرَةٌ مَنَاصِرَةٌ. ایک دوسرے کی مدد
کرنا۔

تَنْصَرُ. نصرانی ہونا۔ تَنْصَرُ لَهُ: مدد کی
کوشش کرنا۔

تَنَاصَرَ الْقَوْمُ: باہم مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تَنَاصَرَتِ الْأَخْبَارُ" یعنی خبروں نے ایک
دوسرے کی تصدیق کی۔

اِنْتَصَرَ. مدد کرنے میں غالب ہونا۔ کامیاب
ہونا۔ ظالم سے پچاسن عَدُوَّهُ: دشمن سے بدلہ
لینا علی خضيمه: غالب ہونا۔

اِسْتَنْصَرَهُ. مدد طلب کرنا۔ اِسْتَنْصَرُ بِهِ:
فریاد کرنا فَلَانًا عَنِ فَلَانٍ: کسی کے برخلاف
مدد کرنے کی درخواست کرنا۔

النَّصْرُ. معص۔ مددگار کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
نَصْرٌ و قَوْمٌ نَصْرٌ" یعنی "رَجُلٌ نَاصِرٌ و

قَوْمٌ نَاصِرُونَ. جمع ناصِرٌ کی جیسے رَجُلٌ
جمع رَاكِبٌ کی۔ النَّصْرُ: بارش۔
النَّصْرَةُ. نصر کا اسم مرۃ۔ کامل بارش۔
النَّصْرَةُ. مدد اور بہترین اعانت۔ کامل
بارش۔

النَّصْرَانِيُّ. شہر ناصرہ کی طرف منسوب۔ وہ
لوگ جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ
و السلام کے تابع ہیں۔ ج نَصْرَارِيٌّ مَوْثٌ
نَصْرَانِيَّةٌ.

النَّصْرَانِيَّةُ. نصاری کا دین۔

النَّصْرَانُ. نصرانی۔ مؤنث نَصْرَانَةٌ.

النَّاصِرُ. فار ج نَاصِرُونَ و نَصَارٌ و نَصْرٌ
و انصار و الانصار علی الاطلاق: نبی
کریم ﷺ کے مددگار جو باشندگان مدینہ طیبہ
تھے۔ اور نسبت کے لیے انصاری کہا جاتا

ہے۔ النَّاصِرُ: وادی کی طرف بے گناہی۔ ج
نَوَاصِرٌ. کہا جاتا ہے "مَدَّتِ الْوَادِي
النَّوَاصِرُ" وادی کو نالیوں نے بڑھا دیا۔

النَّاصِرَةُ النَّاصِرُ کا مؤنث۔ و ناصرہ
ایک شہر کا نام جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ
الصلوٰۃ و السلام کی جائے پیدائش تھی اور نسبت
کیلئے نَاصِرِيٌّ.

النَّصُورُ و النَّصِيرُ. مددگار۔

النَّصِيرُ. مددگار۔ ج نَصْرَاءُ و انصار.

النَّصِيرَةُ. النَّصِيرُ کا مؤنث۔ عطیہ۔ ج
نِصَاوِرٌ.

النَّصِيرِيَّةُ. عالی شیعوں کا ایک فرقہ جو شام
کے شمال میں رہتے ہیں اور اپنے اعتقادات کو
لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ واحد نَصِيرِيٌّ.

النَّاصُورُ. ناسور۔ ج نَوَاصِيرٌ.

النَّصَارُ. بہت مدد کرنے والا۔

الْاَنْصَارُ. غیر محتون۔

الْمَنْصُورُ. ج. اَرْضٌ مَنْصُورَةٌ: بارش
شہد زمین۔

نَصَحَ (ف) نَصُوحًا و نِصَاحَةً الشَّيْءُ:
خالص ہونا (نُصُوحًا) الْأَمْرُ: واضح ہونا۔
ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَصَحَ الْحَقُّ" یعنی

حق ظاہر ہو گیا اللؤلؤ: بہت سفید ہونا
الشارب: پیاسے کا پیاس بھجانا لام بہ: جتنا
کہا جاتا ہے قبح اللہ انا نصعت بہ، اللہ
اس ماں کا برا کرے جس نے اس کو جتا ہے و
انصع بالحق: حق کا اقرار کر کے ادا کرنا۔
انصع للشیر: برائی کے درپے ہونا۔

النصع والنصع والنصع: بہت سفید چڑیا
کپڑا۔
النصع: چڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا
جاتا تھا۔

الناصع والنصیع: خالص۔ صاف۔ کہا جاتا
ہے "اصفرنا صبغ ابيض ناصع حق"
ناصع: خالص حق۔ حسب ناصع: ناصع
خالص حسب: کہا جاتا ہے حمر ناصع یعنی
خالص سرخ۔ حمر ناصع: خالص
سرخ۔

المناصع: قضاء حاجت کے مقامات۔ واحد
منصع۔

نصفہ (ن ض) نصفاً: آدھے تک پہنچنا۔
کہا جاتا ہے "نصفت غمری" میں اپنی
آدمی عمر کو پہنچنا۔ "نصفت الكتاب" میں
آدمی کتاب تک پہنچنا۔ نصف النهار
وغیرہ: دن کا آدھے تک پہنچنا (نصفاً و
نصافاً و نصافاً و نصافة و نصافة)
الرجل: خدمت کرنا۔

نصف (ن) نصفاً و نصافة و نصافة
الشئ: آدھا لینا القوم: آدھا وصول کرنا۔
الشئ بین الرجلین: آدھا آدھا تقسیم
کرنا۔

القدح: پیالہ سے آدھا پینا نصف (ن)
نصوف النخل: کچھ سرخ کچھ سبز پھولوں
والا ہونا۔

نصف الشئ: آدھا آدھا کرنا۔ آدھا لینا۔
ون کا آدھا ہونا۔ رأس فلان: سر کا
النهال: آدھا سفید آدھا سیاہ ہونا۔ او عمر والو
ہونا۔ او عمر والو۔ او عمر والو
الرجل: آدھا لینا۔ کچھ
سرخ کچھ سبز پھولوں والا ہونا۔

انصف الشئ: آدھے تک پہنچنا الشئ:
آدھا لینا الرجل: انصاف در ہونا المسافر:
آدھے دن چلنا الخصمين: انصاف سے
فیصلہ کرنا من فلان: پورا حق وصول کرنا
فلاناً: خدمت کرنا الماء الإناء: آدھے
تک بھرنا۔ اور کہا جاتا ہے "انصفت الماء
الإناء": آدھے تک برتن کو پانی سے بھر دیا۔

نصفه مناصفه: آدھا آدھا بائٹا نصفه
المال: آدھا مال دینا۔

تنصف الأمير: انصاف کرنے کی
درخواست کرنا۔ الشئ فلاناً: تمام مال
سفید ہونا الرجل: خدمت کرنا فلاناً:
خدمت کرنا۔ بھلائی طلب کرنا۔ مطیع ہونا
الشئ: آدھا لینا۔ اور کہا جاتا ہے تنصفتك
بیننا، یعنی ہم نے تم کو اپنے درمیان کر لیا۔

انصف النهار وغیرہ: دن کا آدھے تک
پہنچنا سہمہ فی الصيد: تیر کا شکار کے جسم
میں آدھا اعلیٰ ہونا الشئ: آدھا لینا۔

تنصف و انصف من فلان: انصاف
چاہنا۔ حق لینا۔ بدلہ لینا۔ تنصفت و
انصفت الجاریة: اوڑھنی اوڑھنا۔
تنصفت القوم: ایک دوسرے سے انصاف
کرنا۔

استنصف: انصاف کرنا من فلان: پورا حق
وصول کرنا۔
النصف: بتثلیث النون: کسی چیز کا آدھا
نصف
انصاف: درمیانی عمر والا۔ کہا جاتا ہے
النصف:
"رجل نصف" صح نصفون و انصاف و
امراة نصف نصف و نصف و نصف و
انصاف اور کہا جاتا ہے "ان فلانة لعلي
انصفتها" یعنی فلاں عورت آدمی جوالی پر ہے
نصفها"
(والنصفه) انصاف و عدل۔

النصف: بتثلیث النون: کسی چیز کا آدھا
نصف
انصاف: درمیانی عمر والا۔ کہا جاتا ہے
النصف:
"رجل نصف" صح نصفون و انصاف و
امراة نصف نصف و نصف و نصف و
انصاف اور کہا جاتا ہے "ان فلانة لعلي
انصفتها" یعنی فلاں عورت آدمی جوالی پر ہے
نصفها"
(والنصفه) انصاف و عدل۔

النصف: بتثلیث النون: کسی چیز کا آدھا
نصف
انصاف: درمیانی عمر والا۔ کہا جاتا ہے
النصف:
"رجل نصف" صح نصفون و انصاف و
امراة نصف نصف و نصف و نصف و
انصاف اور کہا جاتا ہے "ان فلانة لعلي
انصفتها" یعنی فلاں عورت آدمی جوالی پر ہے
نصفها"
(والنصفه) انصاف و عدل۔

النصف: بتثلیث النون: کسی چیز کا آدھا
نصف
انصاف: درمیانی عمر والا۔ کہا جاتا ہے
النصف:
"رجل نصف" صح نصفون و انصاف و
امراة نصف نصف و نصف و نصف و
انصاف اور کہا جاتا ہے "ان فلانة لعلي
انصفتها" یعنی فلاں عورت آدمی جوالی پر ہے
نصفها"
(والنصفه) انصاف و عدل۔

سب میں مستعمل ہے۔

النصف: آدھا۔ ہر وہ چیز جو سر کو چھپائے
جیسے اوڑھنی اور عمامہ وغیرہ من البرد: دو
رنگوں والی چادر۔

النصف: فاد خادم نصف و نصفه و
نصاف

النصفه: الناصف کا مؤنث۔ ناصفه
الماء: نالی۔ نكو اصف۔

النصفان من الآبئة ونحوها: نصف تک
بھرا ہوا برتن۔ مؤنث نصفی

الانصاف: بہت انصاف کرنے والا اور یہ
انصف سے اسم تفضیل خلاف قیاس ہے۔

المنصف والمنصف من الطريق:
راستے کا آدھا۔

المنصف والمنصف: خادم۔ مؤنث۔
منصفه من مناصف۔

المنصف: شراب جس کو پکا کر آدھا کر
دیا گیا ہو۔

مُنصِفُ الشئ و مُنصِفُهُ: ہر چیز کا
درمیان۔

المتنصف من الرجال: سڈول بدن کا
مرد۔ مکان متنصف: برابر برابر اجزاء والی
جگہ۔

نصل (ن) نصل السهم: تیر میں پیکان
لگانا السهم: پیکان لگانا۔

نصل (ن) نصلًا و نصولًا من كذا
لگانا: کہا جاتا ہے، نصل السهم من
نصله: تیر پیکان سے نکل گیا۔ "ونصلت
الرجل من الفبار" گھوڑے غبار سے نکل
گئے "نصل الطريق من موضع كذا"
راستہ نکالنا جگہ سے نکل گیا۔ نصلت
اللحية: داڑھی سے خضاب کا رنگ زائل ہونا
اللحية او الحمة: ڈنگ کا اثر جانا۔ و
نکالنا من بین
الرجال: ظاہر ہونا التاقية: اونٹوں سے آنے
بڑھ جانا۔

نصل و انصل السهم: تیر میں پیکان لگانا۔

وَأَنْصَلَ السَّهْمَ: پیکان جدا کرنا۔ أَنْصَلَ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ: نکالنا۔

تَنْصَلُ الشَّيْءُ: نکالنا۔ پسند کرنا الرَّجُلُ: کسی کی ساری چیزیں لے لینا۔ تَنْصَلُ إِلَى فَلَانٍ مِنَ الْجَنَابَةِ: کسی کے پاس اپنے آپ کو بری کرنا مِنْ كَذَا: لکھنا اللّٰخِيَةِ: واڑھی سے خضاب کارنگ زائل ہونا كَمَذَّ فَلَانٌ: رنج و غم زائل ہونا۔

أَنْصَلَ السَّهْمَ: پیکان لکھنا۔

تَنْصَلُ: لکھنا۔

أَسْتَنْصَلُ: نکالنا۔ اسْتَنْصَلَتِ الرِّيحُ النِّيسَ: جڑ سے کھینچنا۔

النَّصْلُ: پیکان۔ چاقو کا پھل۔ اور بسا اوقات تلوار کو بھی نَصْلٌ کہتے ہیں۔ نَصْلٌ نَصَالٌ وَانْصَلُ وَنُصُولٌ وَنُضْلُ الرَّاسِ: سر کا بالائی حصہ۔ اور کہا جاتا ہے "مِعْوَلٌ نَصْلٌ" کدال جس کا دستہ نکلا ہوا ہو۔ النَّصْلَانِ: پیکان اور بھالا۔

النَّصْلَةُ: ایک پیکان۔

النَّصِيلُ: کھاڑا۔ سر کا بالائی حصہ۔ تالو۔ ٹھنڈی کے نیچے گردن اور سر کا جوڑ۔ جھوسہ اور مٹی سے صاف گیہوں۔ وادی کی ایک شاخ۔ نَصِيلُ الْحَجَرِ: پتھر کی سطح۔ نَصِيلٌ النَّصِيلِ وَالْمَنْصَلُ وَالْمَنْصَالُ: لبا پتھر جس سے کوٹنے کا کام لیا جائے۔

الْمَنْصَلُ وَالْمَنْصَلُ: تلوار۔ نَصْلٌ مَنَاصِلُ مَنَصِلٌ الْأَسِنَّةُ وَمَنْصَلٌ الْإِلَاقُ: نام لہا۔

نَضَضَ الْعَيْرُ: اٹھنے کے لیے دونوں زانو زمین میں لگانا الشَّيْءُ لَانًا فِي مَشْبِهِ: چلنے میں جھومنا۔

حِيَّةٌ نَضَضَتْ: بہت حرکت کرنے والا سانپ۔

نَصَا نَضُو نَضُوا وَأَنْصَى الرَّجُلُ: پیشانی کے بال پکڑنا۔ نَصَى الْمَاشِطَةَ: پیشانی کے بالوں میں کھنسی کرنا۔ نَصَا فَلَانٌ الثَّوْبَ: اتارنا۔ دُور کرنا۔

نَاصَى نِصَاءً وَمَنَاصَةً الرَّجُلُ: ایک دوسرے کے پیشانی کے بال پکڑنا۔ نَاصَى الشَّيْءَ الشَّيْءَ: متصل ہونا۔

تَنَصَّى الرَّجُلُ الْقَوْمَ: قوم کی بہترین عورت سے شادی کرنا۔ تَنَصَّتِ الْمَرْأَةُ: پیشانی کے بالوں میں کھنسی کرنا۔ تَنَصَّى الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: متصل ہونا۔

تَنَاصَى الْقَوْمُ: جھگڑے میں ایک دوسرے کے پیشانی کے بالوں کو پکڑنا الْأَغْصَانُ وَنَحْوَهَا: ٹہنیوں کا ہوا چلنے کے وقت قریب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اٹھنا۔

النَّصْوُ: پیٹ کا درد۔

النَّاصِيَةُ: پیشانی یا پیشانی کے بال جبکہ لمبے ہوں۔ نَجْوَاصٌ وَنَاصِيَاتٌ: اور کہا جاتا ہے "أَذَلُّ فَلَانٌ نَاصِيَةً فَلَانٌ" یعنی فلاں نے فلاں کی اہانت کی۔ نَوَاصِيُ النَّاسِ: قوم کے بڑے بڑے لوگ۔ عمائد۔

الْمُنْتَصِي: دو دایوں کے ملنے کی جگہ۔ دو دایوں کے بالائی حصہ کے ملنے کی جگہ۔

أَنْصَى انْصَاءً الْمَكَانَ (پائی): بہت نصی والی ہونا (دیکھئے لفظ نَصَى)

انْتَصَى انْصَاءً الشَّعْرَ: بال کا طویل ہونا۔ الْحَبْلُ أَوْ الْأَرْضُ: پہاڑ یا زمین کا بلند ہونا الشَّيْءُ: چٹنا۔

النَّصِيَّةُ: ایک عمدہ قسم کا چارہ۔ وَاحِدٌ نَصِيَّةٌ نَجْوَانُ نَصِيَّةٌ نَجْوَانُ: نصی۔ گردن کی بڑی نَصِيَّةٌ۔

النَّصِيَّةُ: یعنی نصیِّ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا: برگزیدہ و عمدہ۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ نَصِيَّةٌ" یہ میرا عمدہ مال ہے۔ النَّصِيَّةُ: بقیہ۔ نَجْوَانُ نَصِيَّةٌ وَنَجْوَانُ: نصی و نَصَا وَانْصَا: تھوڑا نصی (ض) نَصَا وَنَضَا وَنَضِيضًا الْمَاءُ: تھوڑا تھوڑا بہتا یا رستا۔ نَصَا مَا لَهُ: سامان کے بعد نفعی ہونا الشَّيْءُ: ظاہر کرنا الطَّائِرُ جَنَاحُهُ: پرندہ کا بازوؤں کو بھلانا الْعَوْدُ: لکڑی سے چلنے میں دوسرے سرے پر پائی لکھنا الْقَرْبَةُ: منقح کا زیادہ بھر جانے سے شِدَّةُ الْمَلَا:

پیشنا۔

نَصْ (ض) نَضِيضًا الْأَمْرُ: ممکن ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا نَصَّ بِيَدِي مِنْهُ شَيْءٌ" یعنی مجھ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ "وَأَخَذَ مَا نَصَّ لَكَ مِنْ دِينَ أَوْ ثَمَنٍ" قرض یا قیمت سے جو کچھ آسانی سے جلدی وصول ہوئے لو۔ نَضَضَ الرَّجُلُ: بہت درہم و دینار والا ہونا الشَّيْءُ: بھانا۔

أَنْصَضَ وَتَنْصَضُ الْحَاجَةَ: پورا کرنا۔ تَنْصَضُ وَاسْتَنْصَضَ حَقَّهُ مِنْ فَلَانٍ: تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔ تَنْصَضُ فَلَانًا: برا بھینٹ کرنا۔ آسانا۔ اسْتَنْصَضَ الْمَعْرُوفُ أَوْ الْعَجِيزُ: تھوڑا تھوڑا کر کے فائدہ حاصل کرنا۔

النَّصْ: درہم و دینار۔ کہا جاتا ہے "اسْتَخْلَصَهُ مِنْهُ نَصًّا" اس نے اس سے نقد حاصل کیا۔ امر مکرہ۔ کہا جاتا ہے "اتنی بامر نَصٌّ" اس نے امر مکرہ کیا۔ رَجُلٌ نَصٌّ: اللحم: کم گوشت والا آدمی۔

النَّاصِ: فادہم و دینار۔ کہا جاتا ہے "أَمَرَ نَاصٌ" یعنی امر ممکن "وَمَاءٌ نَاصٌ" دیر تک پانی رہنے والا پانی۔

النَّبَاضُ: تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل کرنا۔ النَّضَاضَةُ مِنَ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ: بقیہ۔ تھوڑی سی چیز۔ نَضَاضَةُ الرَّجُلِ: مرد کا آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَضَاضَةُ أَبِيهِ" وہ اپنے ماں باپ کا آخری لڑکا ہے۔

النَّبَاضُ: اسم مبالغیونث نَضَاضَةُ: بقیہ۔ نَضَوُ نَضُو: کھواں جس سے پانی تھوڑا تھوڑا چلے۔

النَّبِضُ: تھوڑا سا پانی وغیرہ نَجْوَانُ نَضَضَتْ: اور کہا جاتا ہے رَجُلٌ نَضِضٌ اللحم: کم گوشت والا مرد۔ "وَجَاءَ الْقَوْمُ بِأَقْصَى نَضِضِهِمْ" قوم اپنی انتہائی جماعت تک گولاں۔

النَّبِضَةُ: تھوڑی بارش۔ نَجْوَانُ نَضَضَتْ: اور کہا جاتا ہے "جَاءَ وَأَبْقَى نَضَائِضُ"

نَضْبِيَّتِهِمْ“ لوگ آخری جماعت تک لائے
”وَابِلْ نَضْبِيَّةً وَنَضَابُنْ“ پیاسے اونٹ
جو سیراب نہ ہوں۔

النَضَابُ: گرم پتھر پر گوشت بھوننے کی
آواز۔ واحنَضْبِيَّةً.

نَضَبَ (ن) نَضْبًا الْمَاءُ: جاری ہونا۔
بہنا۔ نَضَبَ عُمُرُهُ: ختم ہونا۔

نَضَبَ (ن ض) نَضْبُونًا الْمَاءُ: پانی کا زمین
میں اترنا۔ خَشَكٌ هَوَاعِنُ الشَّيْءِ: کشادہ ہونا۔

کہا جاتا ہے نَضَبَ عَنْهُ الْبَحْرُ: یعنی پانی خشک
ہو گیا الخیر: کم ہونا عَيْنُهُ: آنکھ کا دھس

جانا۔ نَضَبَتِ الْمَفَازَةُ: بیابان کا دور ہونا۔
نَضَبَ الْقَوْمُ: دُور ہو جانا۔ مَرْنَا: اور کہا

جاتا ہے ”نَضَبَ مَاءٌ وَجْهَهُ“ یعنی وہ ہے
شرم ہوا۔ فَلَانَ النَّوْبُ: کپڑا اتارنا۔

نَضَبَ الْمَاءُ: پانی کا زمین میں جذب ہونا۔
نَضَبَتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔

انَضَبَ الْقَوْسُ: کمان سے آواز نکلنے کے
لئے تانت کو کھینچنا۔

النَّاضِبُ: فا۔ غَدِيرٌ نَاضِبٌ: خشک شدہ
تالاب۔ مَكَانٌ نَاضِبٌ: دُور کی جگہ ج

نَضَبُ: ایک خاردار درخت جس کی لکڑی
سفید ہوتی ہے اور دیکھنے میں خشک معلوم ہوتی

ہے اگرچہ تر ہی کیوں نہ ہو اور اس درخت پر
گرگٹ بہت رہتے ہیں۔ ج نَضَابِيْبُ.

نَضَحَ (س) نَضْحًا الشَّمْرُ او اللِّحْمُ:
پھل یا گوشت کا پکانا۔ صفت نَاضِحٌ وَنَضِيْحٌ

(و نَضَجَتْ) النَّاقَةُ بِوَلَدِهَا: اونٹنی کا
وقت ولادت گزار دینا اور بچہ نہ دینا۔

انَضَحَ الشَّمْرُ او اللِّحْمُ: پھل یا گوشت
پکانا۔

اسْتَنْضَحَ الْكِرَاعَ اَيَّ يَدَ الشَّاقَةِ: بکری
کے پائے پکانا۔

النُّضْحُ وَالنُّضْحُ: پھینکلے۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ
نَضِيْحُ الرَّأْيِ“ یعنی وہ مضبوط رائے والا ہے

وَامْرٌ مُنَضَّحٌ مَضْبُوْبٌ مَعَالِمًا۔

الْمِنْضَاجُ: گوشت بھوننے کی جگہ۔

نَضَحَ (ف ض) نَضْحًا الْبَيْتَ بِالْمَاءِ:
پانی چھڑکنا۔ عَلَيْهِ الْمَاءُ: چھڑکنا۔ جَلْدٌ: کھال

تر کرنا۔ نَطَشَةُ: پیاس۔ بَجَانًا: آسودگی سے کم پینا
الْبَعِيْرُ الْمَاءُ: کھیت میں دانے کے لیے نہریا

کوئیں سے لانا۔ فَلَانًا بِالْبَلْبَلِ تَبِيْرٌ اِنْدَازِيْ كِرْنَا۔
نَضَحَ عَنْ نَفْسِهِ: مدافعت کرنا۔ نَضَحَ

الزَّرْعُ: ہتھی کا دانہ دار ہونا۔ الشَّجَرُ: پتے
نکلنے کے لیے پھٹنا۔ النُّخْلُ: پانی لانے والی

اونٹنی سے پانی لاکر سیراب کرنا۔
نَضَحَ (ف) نَضْحًا وَتَنْضَاحًا الْاِنَاءُ:

پیش برتن کا پیننا۔ الفرس: پیندہ والا ہونا۔
نَضَحَتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔ السَّمَاءُ

الْقَوْمُ: برسانا۔
انَضَحَ الزَّرْعُ او الشَّجَرُ: بمعنی نضج

عَرَضُ فَلَانَ: آلودہ کرنا۔ خَرَابٌ كِرْنَا۔
نَاضِحٌ مُنَاضِحَةٌ: عَنْ كَذَا: مدافعت

کرنا۔
انْتَضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ: پانی چھڑکا جانا۔

اسْتَنْضَحَ الْمُتَوَضَّئُ: وضوء کے بعد شرمگاہ
پر پانی چھڑکنا۔

تَنْضَحَتْ وَانْتَضَحَتْ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔
انْتَضَحَ مِنْ كَذَا: بیزار ہونا۔

النضج: س۔ پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ۔ پانی جس
سے کھیت سیراب کیا جائے۔ النضج: ہر وہ

چیز جو پانی کی طرح ریتیں ہو۔ ج نَضْوُوحٌ
وَانَضْحَةٌ.

النضج: حوض۔ نَضْوُوحٌ وَانَضْحَاحٌ.
النضج: حوض۔ پیندہ۔ ج نَضْحُوحٌ.

النضج: فا۔ اونٹ جس پر پانی سیراب
کرنے کیلئے لایا جائے۔ مونث۔ ناضحة۔ ج

نواضح بارش۔ پانی چھڑک کر سیراب کی
ہوئی جگہ۔

النضج: اسم مبالغہ۔ کھجوروں کو سیراب
کرنے والا۔ سیراب کرنے والے اونٹوں کو

ہانکنے والا۔ مؤنث۔ نَضْحَاةٌ قَوْسٌ نَضْحَاةٌ
بِالنَّبْلِ: اچھی طرح تیر پھینکنے والی کمان۔

النضوح: ایک قسم کی خوشبو۔ قربة
نضوح مشک جس سے پانی رستا ہو۔ قوس

نضوح و نضيحة اچھی طرح تیر پھینکنے والی
کمان۔

النضج: پیندہ۔
المنضحة والمنضحة: پانی چھڑکنے کا

آلہ۔ ہزارہ۔
نَضْحُهُ (ف) نَضْحًا: چھڑکنا۔ تر کرنا۔ اور

کہا جاتا ہے ”نَضَحَ النَّبْلُ وَبِالنَّبْلِ فِي
الْعَدُوِّ“ اس نے دشمنوں میں تیر کی بو چھڑکی۔

نَضَحَ (ف) نَضْحًا وَنَضْحَانًا الْمَاءُ:
پانی کا پشہ سے ابلنا۔

فَاضْحُهُ مُنَاضِحَةٌ وَنَضَاخًا: ایک
دوسرے پر چھڑکنا۔

انَضَحَ وَانَضَّاحٌ عَلَيْهِ الْمَاءُ: پیش پانی کا
گرنا۔

انْتَضَحَ الْمَاءُ: پیش پانی چھڑکا جانا۔
النضج: س۔ خوشبو کا نشان جو کپڑے میں باقی

رہ جائے۔
النضحة: بو چھار۔

النضج: موسلا دھار بارش۔ عین
نضحة: اٹنے والا پانی۔

المنضحة: پانی چھڑکنے کا آلہ ج ناضح
عوام اسرشة يراشاشة کہتے ہیں۔

نَضَدٌ (ض) نَضْدًا وَنَضْدٌ الْمَتَاعُ
سامان ترتیب سے رکھنا یا ڈھیر لگانا۔ صفت

مفعول مَضْبُوْدٌ وَنَضِيْدٌ وَنَضِيْدٌ اور کہا
جاتا ہے رَأْيٌ مُنَضَّدٌ یعنی مضبوط رائے۔

تَنْضَدَتِ الْاِنْسَانُ وَنَحْوُهَا: دانوں کا
ترتیب سے ہونا۔

انْتَضَدَ الْقَوْمُ بِمَكَانٍ كَذَا: جمع ہونا۔ اور
ٹھہرنا۔

النضد: ترتیب سے رکھا ہوا ڈھیر لگایا ہوا
سامان خاندہ۔ تخت۔ تہ بتہ بادل۔ عزت و

شرافت۔ کہا جاتا ہے ”لَيْسِيْ فَلَانَ نَضْدًا“
فلاں کے بیٹوں کے لیے شرافت ہے۔ شریف

ج نَضَادٌ. انضاد القوم: لوگوں کی جماعت

زبان بلائے والا سانپ۔ ایک جگہ میں نہ رہنے والا سانپ۔ فی الفور ہلاک کرنے والا سانپ۔
نَضًا يَنْضُو نَضْوًا. السَّيْفُ مِنْ غَمْدِهِ:
تلوار کو میان سے سونتا الثَّوْبَ عَنْهُ: کپڑا اتارنا الرَّجُلُ مِنْ ثَوْبِهِ: ننگا کرنا الْبِلَادُ: طے کرنا۔ نَضًا الْجُرْحُ: زخم کی سوجن اتارنا الْمَاءُ يَأْتِي كَأَنْ يَجُذِبُ هَوْنًا السَّيْفُ: تلوار کا پار ہونا (نضواً و نضياً) الْفَرَسُ الْخَيْلُ: آگے بڑھ جانا (نضواً و نضواً) الْخَضَابُ: رنگ اتر جانا۔

النَّضْفُ: مص۔ جنگلی پودینہ۔
النَّضْفَانُ: دکن چال۔
النَّضْفُ وَالنَّضِيفُ: ناپاک۔
النَّاضِفُ: (و الناضف) بہت گوز کرنے والا۔ ج مناصف۔
نَضَلَهُ (ن) نَضَلًا: تیر اندازی میں سبقت کرنا۔ تیر اندازی ہی میں غالب ہونا۔

نَضِلَ (س) نَضَلًا الْبَعِيرُ: اُونٹ کا دہلا ہونا۔ تھلنا۔
فَاضِلَةٌ نَضَالًا وَ نَضَالًا وَ مُنَاضِلَةٌ تِيرِ: اندازی میں مقابلہ کرنا۔ ناضل عَنْهُ: کسی کی جانب سے مدافعت کرنا کسی کی حمایت کرنا۔
أَنْضَلَهُ: لاغر کرنا۔ تھکانا۔
تَنْضَلُهُ: نکالنا۔

أَنْضَلَهُ: نکالنا۔ کہا جاتا ہے "أَنْضَلْتُ سَهْمًا مِنْ كِبَانَتِهِ" اس نے تیر کو ترکش سے نکالا۔
أَنْضَلْتُ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ أَوْ سَهْمًا مِنَ الْكِبَانَةِ: انتخاب کرنا۔ چننا۔ أَنْضَلْتُ الْإِبِلَ فِي السَّبْرِ: چلنے میں اگلی ٹانگوں کو آگے پھینکانا۔
أَنْضَلْتُ وَ تَنَاضَلْتُ الْقَوْمَ: تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ باہم فخر کرنا۔

النَّضَالُ: فاتیر اندازی میں غالب۔ ج نَضَالُ: مصیبت۔ بلاؤ سختی۔
تَضَضَ الرَّجُلُ: بہت رو پیے والا ہونا لِسَانُهُ: حرکت دینا: بتلاؤ بچ کرنا۔
النَّضَاضُ وَالنَّضَاصَةُ: مِنَ الْحَيَاتِ: رنگ چمکیلے ہوتے ہیں۔

اور ان کی تعداد۔ أَنْضَادُ الرَّجُلِ: مرد کے شریف چچا اور ماموں۔ أَنْضَادُ الْجِبَالِ أَوْ السَّحَابِ: تہ پہ پہاڑ یا بادل (و النضود) موٹی اونٹنی۔ ج أَنْضَادُ وَ نَضْدُ: النَّصِيدَةُ: بھری ہوئی چیز۔ تکیہ۔ ج نَضَانْدُ: گھر کے باہن وغیرہ رکھنے کا ٹیبل۔

نَضْرَ (ن) وَ نَضِرَ (س) وَ نَضِرَ (ك) نَضْرًا وَ نَضْرَةً وَ نَضْرًا وَ نَضْرًا وَ نَضْرًا وَ نَضْرًا: نَضَارَةٌ الْوَجْهُ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الشَّجَرُ وَ غَيْرَهَا: نگفتہ ہونا۔ نرم و نازک ہونا۔ سرسبز و شاداب ہونا۔ صفت نَاضِرٌ وَ نَضِرٌ وَ نَضِيرٌ: نَضْرَهُ (ن) نَضْرًا وَ نَضْرَةً: اللہ: ترو تازہ بنانا۔

أَنْضَرَ: ترو تازہ ہونا الشَّجَرُ: درخت کا سبز ہونا۔ أَنْضَرَهُ اللَّهُ: ترو تازہ بنانا۔
إِسْتَنْضَرَ الشَّيْءَ: ترو تازہ پایا سمجھنا۔
النَّضْرُ: ج أَنْضَارٌ وَ أَنْضَرٌ وَ النَّضَارُ وَ النَّضِيرُ وَ الْإَنْضَرُ: چاندی۔ سونا۔ عموماً سونے کے لیے مستعمل ہے۔ النَّضَارُ: ہر چیز کا خالص۔ سونے کا خالص جو ہر۔
النَّضَارُ وَ النَّضَارُ: جھاد کا درخت اور بقول بعض سیدھی ٹہنیوں والا لمبا جھاد کا درخت برتن بنانے کے لیے بہترین کڑی۔ کہا جاتا ہے "قَدْحُ نَضَارٍ" یعنی عمدہ کڑی کا تاج یا پالہ۔
النَّاضِرُ: خوبصورت۔ نرم و نازک۔ کچھڑ۔
النَّاضِرُ مِنْ كَلِّ لَوْنٍ: گہرا رنگ۔ کہا جاتا ہے أَحْمَرُ نَاضِرٌ وَأَخْضَرُ نَاضِرٌ۔
النَّضْرَةُ: نرمی و نازکی۔ خوبصورتی و رونق۔ دولت مندگی۔ پگھلایا ہوا سونا۔ کہا جاتا ہے "تَعْرِفُ فِي وَجْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ" یعنی ان کے چہروں میں نعمت کی رونق معلوم ہوتی ہے۔
النَّضَارِيَّةُ: بچے کھانے والے کپڑے جن کے رنگ چمکیلے ہوتے ہیں۔

نَضْرَ (ن) وَ نَضِرَ (س) وَ نَضِرَ (ك) نَضْرًا وَ نَضْرَةً وَ نَضْرًا وَ نَضْرًا وَ نَضْرًا وَ نَضْرًا: نَضَارَةٌ الْوَجْهُ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الشَّجَرُ وَ غَيْرَهَا: نگفتہ ہونا۔ نرم و نازک ہونا۔ سرسبز و شاداب ہونا۔ صفت نَاضِرٌ وَ نَضِرٌ وَ نَضِيرٌ: نَضْرَهُ (ن) نَضْرًا وَ نَضْرَةً: اللہ: ترو تازہ بنانا۔

أَنْضَرَ: ترو تازہ ہونا الشَّجَرُ: درخت کا سبز ہونا۔ أَنْضَرَهُ اللَّهُ: ترو تازہ بنانا۔
إِسْتَنْضَرَ الشَّيْءَ: ترو تازہ پایا سمجھنا۔
النَّضْرُ: ج أَنْضَارٌ وَ أَنْضَرٌ وَ النَّضَارُ وَ النَّضِيرُ وَ الْإَنْضَرُ: چاندی۔ سونا۔ عموماً سونے کے لیے مستعمل ہے۔ النَّضَارُ: ہر چیز کا خالص۔ سونے کا خالص جو ہر۔
النَّضَارُ وَ النَّضَارُ: جھاد کا درخت اور بقول بعض سیدھی ٹہنیوں والا لمبا جھاد کا درخت برتن بنانے کے لیے بہترین کڑی۔ کہا جاتا ہے "قَدْحُ نَضَارٍ" یعنی عمدہ کڑی کا تاج یا پالہ۔
النَّاضِرُ: خوبصورت۔ نرم و نازک۔ کچھڑ۔
النَّاضِرُ مِنْ كَلِّ لَوْنٍ: گہرا رنگ۔ کہا جاتا ہے أَحْمَرُ نَاضِرٌ وَأَخْضَرُ نَاضِرٌ۔
النَّضْرَةُ: نرمی و نازکی۔ خوبصورتی و رونق۔ دولت مندگی۔ پگھلایا ہوا سونا۔ کہا جاتا ہے "تَعْرِفُ فِي وَجْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ" یعنی ان کے چہروں میں نعمت کی رونق معلوم ہوتی ہے۔
النَّضَارِيَّةُ: بچے کھانے والے کپڑے جن کے رنگ چمکیلے ہوتے ہیں۔

الاتط: ذور کا سفر۔ ج. نطط
نَطْبَةُ (ن) نَطْبًا وَأَنْطَبَهُ: انگلی سے کان پر

مارنا۔ ج. نَطْبَةُ مَنْطَابَةٍ: براہِیختہ کرنا۔ آسانا۔ جھگڑا

کرتا۔
أَنْطَبَ أُذُنَهُ: انگلی سے کان پر مارنا۔

النَّاطِبَةُ: چھنے کا سوراخ۔ ج. نَوَاطِبُ
النَّطَابُ: سر۔ گردن کی رگ۔

الْمَنْطَبُ وَالْمَنْطَبَةُ: چھنا۔

الْمَنْطَبَةُ: بیوقوف۔

نَطْحَهُ (ف ض) نَطْحًا النَّوْرَ وَنَحْوَهُ:

تیل کا سینگوں سے مارنا۔ نَطْحَ فَلَانًا: دغ

کرتا۔ ہٹانا۔

نَاطِحَةٌ نِطَاحًا وَمُنَاطِحَةٌ: سینگوں سے

مارنا۔

الْمَنْطَحُ وَتَنْطَاحُ الْكَبْشَانِ: میڈھوں کا

ایک دوسرے کو سینگ مارنا۔ تَنْطَاحَتْ

الْأَمْوَاجُ أَوْ السَّيُولُ: موج یا سیلاب کا

آپس میں ٹکرانا۔

النَّاطِحُ: فاقہ پرند یا وحشی جانور جو سامنے سے

آئے اور پتہ ”فَعْبِد“ کے خلاف ہے۔ کہا جاتا

ہے ”مَالَهُ نَاطِحٌ وَلَا خَابِطٌ“ یعنی اس کے

پاس کچھ نہیں۔ ناطح سے مراد بھیڑا بکری یا

تیل اور خبابط سے اونٹ النَّاطِحُ: منازل

قرمیں سے دوستاروں کا نام۔

النَّطْحُ: جس۔ منازل قرمیں سے دوستاروں کا

نام۔

النَّوَاتِحُ: سختیاں۔

النَّطْحَةُ: نطح کا اسم مرہ۔ لڑائی۔

النَّطِیحُ: سینگ مارا ہوا۔ سینگ مارنے سے

مرا ہوا۔ منحوس۔ گھوڑا جس کی پیشانی میں دو

دائرے ہوں۔ مؤنث نَطِیحَةٌ: ج. نَطْحَى وَ

نَطَاحِیحُ.

النَّطَاحُ: بہت سینگ مارنے والا۔ سینگ

مارنے کا عادی۔

نَطْرٌ (ن) نَطْرًا وَنِطَارَةً: الکرّم او

الزّرع انگور یا کھیت کی نگہبانی کرنا۔ باغبانی

کرتا۔
النِّطَارَةُ: نگرانی کا پیشہ۔

النَّاطِرُ وَالنَّاطِرُ: باغبان۔ انگور یا کھیت کا

نگہبان۔ ج. نَطَارٌ وَنِطْرَةٌ وَنَوَاطِیرٌ وَ

نِطْرَاءُ.

النَّطَارُ: اچکا (جو کھیت میں پرندوں اور

جانوروں کو ڈرانے کیلئے کھڑا کیا جاتا ہے)

نِطْرُونَ: پورہ ارمنی۔

النَّاطِرُونَ: انہماں کا زیور جو عورتیں پیشانی پر

سجاتی ہیں۔

نَطْسٌ (س) نَطْسًا: عالم ہونا۔ ماہر ہونا۔

تَنْطَسُ: گفتگو اور لباس وغیرہ میں احتیاط

کرتا۔ امور میں غور و فکر کرنا اور خوب تحقیقات

کرتا۔ کہا جاتا ہے ”تَنْطَسُ الْأَخْبَارَ وَعِنَ

الْأَخْبَارِ“ یعنی اس نے تحقیقات کی۔

النَّطْسُ وَالنَّطْسُ وَالنَّطْسُ: عالم گفتگو

اور لباس وغیرہ میں احتیاط کرنے والا۔

النَّطِيسُ وَالنَّطِيسِيُّ وَالنَّطِيسِيُّ: عالم۔

ماہر طبیب۔

النَّطِيسُ: ماہر اطباء۔

النَّطِيسَةُ: بہت احتیاط کرنے والا۔

النَّاطِسُ: جاسوس۔

نَطْعٌ نَطْعًا وَنِطْعٌ وَاسْتَنْطَعُ لَوْنَهُ: رنگ

متغیر ہونا۔

تَنْطَعُ فِي الْكَلَامِ: غلو کرنا۔ تالو سے بولنا۔

فِي شَهْوَاتِهِ: مبالغہ کرنا۔ فَعَمِلَهُ: ماہر

ہونا الرَّجُلُ: چمڑے کے دسترخوان پر کھانا

رکھنا۔ خوب سیر ہو کے کھانا۔

النَّطْعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ: چمڑے کا

فرش جو مجرم کو قتل کرنے کے لیے بچھایا جائے

ج. أَنْطَاعٌ وَنُطُوعٌ.

النَّطْعُ وَالنَّطْعُ: تالو کا اگلا حصہ جس میں

شکن جیسا ہوتا ہے۔ ج. نُطُوعٌ: اور اسی سے

حرف نَطْعِيَّتٌ و ط ہیں۔

النَّطْعُ: گفتگو میں مختلف فصاحت ظاہر

کرنے والا۔

النَّاطِعُ: خالص رنگ۔ کہا جاتا ہے بیاض

نَاطِعٌ:

نَطَاعُ الْقَوْمِ: قوم کی زمین۔ قوم کا علاقہ۔ کہا

جاتا ہے ”وَطِنْنَا نِطَاعَ بَنِي فَلَانٍ“ ہم نے

بنی فلان کے علاقے کو لے لیا۔

النَّطَاعُ: کلام میں بہت غلو کرنے والا۔ جلد

ساز۔ ہوشیاری سے کھانے کو دسترخوان پر چھنے

واللہج.

النَّطَاعَةُ: لقمہ جس کا نصف حصہ کھایا جائے

اور نصف دسترخوان پر چھوڑ دیا جائے۔

نَطْفٌ (ن ض) نَطْفًا وَتَنْطَافًا وَنَطْفَانًا

وَ نِطَافَةً: الْمَاءُ تَهْوِثًا تَهْوِثًا بِمَاءِ الْقَرْيَةِ:

مشک کا پینا الْمَاءُ بِرِيَانِي بِهَانًا۔

نَطْفَةٌ وَ نِطْفَةٌ وَ نِطْفَةٌ: بدکاری کی تہمت

رگانا۔ عیب رگانا۔ نَطْفُ الْمَرْأَةِ: عورت کے

کان میں بالی پھینانا۔

نِطْفٌ (س) وَ نِطْفٌ نِطْفًا وَ نِطَافَةً وَ

نِطْفُوقَةً: عیب دار ہونا۔ عیب و بدکاری کا الزام

رگایا جاتا۔ نِطْفُ الشَّيْءِ: فاسد ہونا۔ خراب

ہونا۔ نِطْفُ الرَّجُلِ: بد بھضمی والا ہونا۔

تَنْطَفُفُ الرَّجُلِ: عیب دار ہونا۔ مِنْ كَذَا

پر ہیز کرنا۔ نفرت کرنا۔ تَنْطَفَفَتِ الْمَرْأَةُ:

عورت کا بالی پھیننا۔

النَّطْفُفُ: عیب۔ برائی۔ فساد۔

النَّطْفَةُ: صاف پانی۔ تھوڑا یا زیادہ۔ سمندر۔

مرد یا عورت کا نطفہ۔ ج. نِطَافٌ وَ نِطْفٌ (و)

النَّطَافَةُ: تھوڑا پانی جو ڈول یا مشک میں باقی رہ

جائے۔ النَّطَافَةُ: ہر وہ چیز جو کسی چیز سے

ٹپکے۔

النَّطْفَتَانِ: دو سمندر (بحر روم و بحر چین یا بحر

مشرق و بحر مغرب)

النَّطْفَةُ وَالنَّطْفَةُ: بالی۔ آبدار موتی ج

نَطْفٌ.

النَّطْفُ: پلید۔ شکی آدمی۔

النَّطُوفُ: بارش والی۔ کہا جاتا ہے ”لَيْلَةٌ

نَطُوفٌ“ صبح تک بارش والی رات۔

النَّاطِفُ: ریوڑی۔ کدو۔

النَّاطِفِيُّ: ریوڑی بیچنے والا۔

جائے۔ کہا جاتا ہے ”مَا ظَفَرْتُ مِنْهُ بِنَاطِلٍ“ میں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔
 النَّاطِلُ وَالنَّاطِلُ وَالنَّاطِلُ وَالنَّاطِلُ
 شرابِ دودھ وغیرہ ناپنے کا کوزہ۔ النَّيْطَلُ
 وَالنَّطْلَاءُ مَعْصِيَةٌ وَالنَّيْطَلُ: ہلاکت۔
 موت۔ ڈول۔ رَج نِیْاطِلُ
 الْاِنْطَلَّةُ مَعْصِيَتَيْنِ۔
 النَّطْوَلُ پانی جس میں دوا جو ش دیں اور عضو
 ماؤف کو اس سے دھاریں۔
 الْمَنَاطِلُ شرابِ کُشِّی کے آلات۔
 نَطْنَطُ الشَّيْءِ: کھینچنا الرَّجُلُ: لمبے سفر والا
 ہونا (وَاتَطْنَطُ وَرُوحًا)۔
 النَّطْنَطُ وَالنُّطْنَطُ وَالنَّطْنَاطُ: لمبے قد
 والا۔ رَج نَطَانِيطُ وَنَطَانِيطُ
 نَطَانِيطُ نَطْوًا: الْحَبْلُ: رسی کھینچنا
 الْغَزْلُ: کاتے ہوئے سوت کا بانا کرنا الْمَنْزِلُ:
 دُور ہونا عَنِ فَلَانٍ: جب ہو جانا۔
 نَاطِي مَنَاطَاةِ الرَّجُلِ: باہم نزاع کرنا۔
 أَنْطَى دِيَا۔
 تَنَاطَى الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے بڑھنے کی
 کوشش کرنا۔ تَنَاطَاوُ الْكَلَامِ: آپس میں
 گفتگو کرنا۔
 النَّطْوُ دُورِي۔
 النَّطِي: دُور۔ کہا جاتا ہے ”طَرِيقٌ نَطِيٌّ“
 دُور کا راستہ (وَالْمَنْطَوُّ) مِنَ الْغَزْلِ: کاتے
 ہوئے سوت کا تانا کیا ہوا۔
 النَّطَاةُ بِنِي كَهْمُورٍ كَغَلَاظِ يَأْتَصِلُ رَجَ أَنْطَاءِ
 نَظْرَانِ) وَنَظْرَانِ) نَظْرًا وَنَظْرًا
 مَنْظَرَةٌ وَتَنْظَارًا وَنَظْرَانًا: هُوَ وَالْيَهُ:
 دیکھنا غُور سے دیکھنا۔ (نَظْرَانِ) نَظْرًا
 فِي الْأَمْرِ: سوچنا۔ فِكر کرنا۔ اندازہ کرنا
 الشَّيْءِ: اِنْتَظَارُ كَرْنَا بَيْنَ النَّاسِ: حَکْمُ كَرْنَا
 فِيصَلُ كَرْنَا لِقَوْمٍ رَحِمَ كَرْنَا أَوْ مَدَدِينَا فَلَانًا:
 متوجہ ہونا۔ دیر کرنا فَلَانًا الدِّينَ مَهْلَتُ دِيَا:
 (اَنْظُرْ فِيهِ) الشَّيْءِ مَهْلَتُ
 سَے بچنا فَلَانًا: کابن ہونا اور کہا جاتا ہے
 ”اَنْظُرْ لِي فَلَانًا“ میرے لیے فلاں کو طلب

الْمَنْطِقُ: سِرِّ گتگو۔ اور کبھی انسان کے علاوہ
 کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ سَمِعْتُ
 مَنْطِقَ الطَّيْرِ: علم المنطق: ایک علم عملی
 کا نام جس کو میزان بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ علم
 ہے جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔
 الْمَنْطِقِيُّ: علم منطقی جانے والا۔
 الْمَنْطِقُ وَالْمَنْطِقَةُ: پکا جو کر پر باندھا
 جائے۔ رَج مَنَاطِقُ: اور مَنطِقَةُ سے فعل کا
 اِعتِقاق کیا ہے۔ کہتے ہیں تَمَنَطِقُ: بمعنی پکا
 پاندھنا جیسے مَبْدَرَعَةٌ سے تَمَلَدْرَعُ اور
 مَبْدِنِيلٌ سے تَمَنْدَلُ۔
 تَمَنَطِقُ: علم منطقی حاصل کرنا۔ اور اسی سے
 بَعْضُ كَاتِلٍ ہے ”مَنْ تَمَنَطِقُ فَقَدْ تَمَدَّقُ“
 جس نے علم منطقی سیکھا وہ زندگی ہو گیا۔
 مَنطِقَةُ الْحُجُورِ: اثنی عشر ستاروں کے نام۔ اور
 مَنطِقَةُ الْعَوَاءِ: ایک دوسرے ستارے کا نام
 ہے۔
 الْمَنْطِيقُ وَالنَّطِيقُ: بِلِغِ۔
 الْمُنْطِقُ: پکا باندھنے کی جگہ۔ الْمَنْطِقَةُ
 مِنَ الْمَعْرِ بَكْرٍ مِثْلِ سَفِيدِي وَالِي كَبْرِي۔
 الْمُنْطِقُ (علم حساب)
 الْمُنْطِيقُ: عالی مرتبہ۔ گرامی قدر۔ اور کہا
 جاتا ہے ”جَاءَ مَنْطِقًا جِصَانَةً“ یعنی وہ بغیر
 سوار ہوئے گھوڑے کو کو تل بنا کر آیا۔
 الْمَنْطُوقُ عِنْدَ الْأَصُولِيِّينَ: مفہوم
 مخالف کے خلاف۔
 نَطْلَانِ) نَطْلًا الْخَمْرُ: نِجُورًا (و نَطْلُ)
 رَأْسُ الْعَلِيلِ بِالنَّطْوَلِ: تَبْرًا كَرْنَا: آہستہ
 آہستہ دوا میں جوش دیا ہوا۔ اِنْمِ كَرْمَانِي كَرْنَا:
 اِنْتَصَلَ مِنَ الرَّقِ: بَشْكَ سے تھوڑا پانی گرائیا
 لِيَا۔
 النَّظْلُ: سِرِّ۔ اَنْگُور کا چھلکا۔ تھوڑا دودھ۔
 (وَالنَّيْطَلُ) بھگوئے ہوئے خشک اَنْگُور خود بخود
 شراب نکلنے کے بعد جو پھوڑا جائے۔ النَّيْطَلُ:
 شراب کا بقیہ۔
 النَّطْلَةُ وَالنَّاطِلُ: شرابِ بایانی یا دودھ وغیرہ
 کا گھونٹ۔ النَّاطِلُ: فصلہ جو پیانہ میں باقی رہ

نَطَقَ (ض) نَطَقًا وَمَنْطِقًا وَنُطُوقًا: بولنا
 الْكِتَابُ: دَرَاخِ بِيَانِ كَرْنَا۔
 نَطَقَهُ: گتگو کرنا۔ کسی کو پکا باندھنا۔ کسی کی
 کمر میں پکا باندھنا۔ نَطَقَ الْمَاءُ الْأَكْمَةَ
 وَغَيْرَهَا: پانی کھلنے کے وسط تک پہنچنا۔
 نَاطَقَهُ: گتگو کرنا۔
 اَنْطَقَهُ: گتگو کرنا۔
 تَنَاطَقًا الرَّجُلَانِ: باہم گتگو کرنا۔
 تَنَطَّقَ وَانْتَطَقَ وَتَمَنَطَقَ: کمر میں پکا
 باندھنا الْمَرْأَةُ: عورت کا کمر پر پکا باندھنا
 الْأَرْضُ بِالْحَبَالِ: پہاڑوں سے گھبرا ہوا ہونا
 اِنْتَطَقَ بِقَوْمِهِ: بظاہر توری ہونا۔
 الرَّجُلُ: گتگو کرنا۔ علم منطقی حاصل کرنا
 فَرَسَهُ: بغیر سوار ہوئے کھینچنا۔
 اِسْتَنْطَقَهُ: گتگو کرنا۔ بولنے کو کہنا۔
 النَّطْقُ: سِرِّ۔ اس کا استعمال نطقِ خابری یا
 ظاہری یعنی گتگو پر بھی ہوتا ہے اور نطقِ داخلی
 یا باطنی یعنی فہم و ادراک کلیات پر بھی۔
 النَّطْقَةُ: نطق کا اسمِ مرتہ۔ کہا جاتا ہے ”نَطَقَ
 نَطْقَةً وَاحِدَةً“ وہ ایک ہی بول بالا۔
 النَّيْطِقُ بَوْلُهُ: بولنے والا۔
 النَّيْطِقُ: کمر بند۔ چٹنی۔ کہا جاتا ہے ”عَقَدَ
 فَلَانٌ حَبْلَ النَّيْطِقِ“ یعنی فلاں شخص جانے
 کے لئے یا کام کرنے کے لئے مستعد ہوا۔
 النَّيْطِقُ: کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کو عورتیں کمر
 پر باندھتی ہیں اور اس کا بالائی حصہ نچلے حصہ پر
 اور نچلا حصہ زمین تک ٹکتا رہتا ہے۔ رَج نَطْقُ:
 نِطَاقِ الْحُجُورِ: جوزا کے درمیان کے تین
 ستارے جن کو عرب نطم بھی کہتے تھے اور یہ
 اِنْتِظَامُ وَالنَّتَامُ کے لیے ضرب النثل ہیں۔
 النَّيْطَاقَةُ: پَرچہ۔ پَرچہ۔ اس وجہ سے کہ وہ لکھے
 ہوئے کو بتلاتا ہے۔
 النَّاطِقُ: فَ: عرب کا قول ”الْإِنْسَانُ
 حَيَوَانٌ نَاطِقٌ“ یعنی انسان عاقل ہے۔
 كِتَابُ نَاطِقٍ وَاصِحُ كِتَابِ۔
 النَّاطِقَةُ: النَّاطِقُ كَامُوتِ۔ كَر۔ النَّفْسُ
 النَّاطِقَةُ: نَفْسُ الْإِنْسَانِ۔

کرو۔ و ذاری تَنْظُرُ دَارَةَ“ میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے ”وَنْظَرُ الدَّهْرِ إِلَى بَيْتِي فَلَانَ“ زمانے نے نبی فلاں کو ہلاک کر دیا۔

نَاطِرَةٌ مَنَاطِرَةٌ. مشابہ ہونا۔ بحث کرنا۔ نَاطِرُ الْجَيْشِ الْأَلْفَيْنِ: قریب پہنچنا فَلَانًا بِفُلَانٍ اَوْ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ: مشابہ بنانا اور کہا جاتا ہے ”ذاری تَنْظُرُ دَارَةَ“ میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے۔

أَنْظَرَهُ الدِّينَ: ادائیگی قرض کیلئے مہلت دینا۔ أَنْظَرَ فَلَانًا لِفُلَانٍ: مشابہ بنانا الرَّجُلُ: سوچنے کا موقعہ دینا۔ مہلت سے بچنا۔

تَنْظَرُهُ. آنکھ سے بغور دیکھنا۔ دیر کرنا۔ مہلت دینا۔ تَنْظَرُ فَلَانٌ: انتظار کی ہوئی چیز کی امید رکھنا۔

تَنْظَرُوا فِي الْأَمْرِ: باہم کام میں مشقت اٹھانا۔ بحث کرنا۔ تَنْظَرُوا الدَّارَانَ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ تَنْظَرُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو دیکھنا۔

أَنْتَظِرُهُ. انتظار کرنا۔ امید رکھنا۔ توقع رکھنا۔ دیر لگانا۔

أَسْتَنْظِرُهُ. انتظار کرنا۔ مہلت طلب کرنا۔ النَّظَرُ. سب نكَاةٌ دَانِيَةٌ. عِلْمٌ النَّظَرِ وَالْأَسْتِدْلَالُ: علم کلام اور کہا جاتا ہے ”فِي هَذَا الْأَمْرِ نَظَرٌ“ عدم ظہور کی وجہ سے یہ امر محل غور ہے۔ ”و بَيْنَنَا نَظَرٌ“ ہمارے درمیان اتنی قربت ہے کہ نگاہ پہنچ سکے ”و نَظَرًا إِلَى كَذَا وَبِالنَّظَرِ إِلَى كَذَا“ یعنی فلاں کے لحاظ سے۔ النَّظَرُ: ہمسائے۔

النِّظَرُ. مشابہ۔ ماننا۔ النَّظْرَةُ. نَظَرٌ كَأَسْمِ مَرْءٍ. ایک نگاہ۔ بیت۔ بری بیت و عیب۔ رحمت۔ مہربانی۔ کہا جاتا ہے ”نَظْرَةٌ بَعْضِينَ النَّظْرَةَ“ اس نے اس کو مہربانی کی نگاہ سے دیکھا۔

النَّظْرَةُ. مہلت۔ معاملہ میں تاخیر۔ النَّظْرِي. نظری جاب منسوب۔

استدلالی علوم کی تقسیم میں نظری کا اطلاق اس علم پر ہوتا ہے جو عمل سے تعلق نہ رکھتا ہو اور اس کے مقابل کو عملی کہتے ہیں۔

النَّظْرِيَّةُ فِي الْهِنْدَسَةِ. وہ تفسیر جو صحت ثبوت کیلئے دلیل کا محتاج ہو۔ ج نَظْرِيَّاتٌ. النِّظَارُ وَالْبِيضَارَةُ. فرست۔ دانائی۔

النَّاطِرُ. فا۔ آنکھ کی پتلی۔ وَالنَّاطِرُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: کسی ادارہ کا ناظم۔ جیسے نَاطِرُ خَارِجِيَّةٍ وَ نَاطِرُ مَالِيَّةٍ. ج نَظَارٌ. النَّاطِرُ: پیشانی سے ناک کے نتھوں تک کی بڑی۔ وہ امین آدمی جس کو بادشاہ کسی مقام کے لوگوں کے معاملات کی تحقیقات کے لیے بھیجے۔ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ شَدِيدُ النَّاطِرِ“ یعنی وہ تہمت سے بری ہے اس لیے کہ آنکھ ملا کر بات کرتا ہے۔ النَّاطِرَانِ: ناک کے دونوں پہلوؤں کی دو رگیں۔

نَظَارٌ. اسم فعل۔ بروزن نَزَالٌ وَ تَرَالِكٌ. بمعنی انظر۔ النَّاطِرُ وَالنَّاطِرُ. انگور یا کھیتی کا محافظ۔ النَّاطِرُ: سردار قوم۔ النَّاطِرَةُ. النَّاطِرُ كَامُونَةٌ. آنکھ ج نَوَاطِرُ النَّوَاطِرِ: سر کی رگیں جو آنکھ سے ملی ہوئی ہیں۔

النَّظَارُ. تیز دیکھنے والا۔ کہا جاتا ہے ”فَرَسٌ نَظَّارٌ“ چالاک تیز خاطر بلند اطراف گھوڑا۔ النَّظَارَةُ. ناظرین۔ موقعہ جنگ کے تماشائی النَّظَارَةُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: دو ربین۔ النَّظُورُ وَالنَّظُورَةُ وَالنَّظِيرَةُ وَالنَّاطُورَةُ قوم کا سردار (نذکرہ مونت واحد جمع) النَّظُورُ: مہمت سے غفلت نہ برتنے والا۔

النَّظِيرُ. مثل ومانند۔ اور کہا جاتا ہے ”فَلَانَ نَظِيرُ فَلَانَ“ یعنی فلاں فلاں کے مطابق ہے۔ ج نَظَرَاءُ مَوْتٌ نَظِيرَةٌ. ج نَظَائِرُ نَظَائِرِ الْقَوْمِ: قوم کے شر فواوا فضل۔ نَظِيرَةٌ. القوم او الحشيش وَ نَظُورٌ تُهْمٌ: دیدبان۔

النَّظِيرُ. دیکھنے کی جگہ چاہے خوش نما ہو یا بد نما۔ اور کہا جاتا ہے ”فَلَانَ مَسْتَمِعِي“ فلاں ایسی جگہ میں ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کی باتیں سن سکتا ہوں۔ ”وَ كُنْتُ عَنْ هَذَا الْمَقَامِ بِمَنْظَرٍ“ یعنی میں اس مقام سے علیحدہ تھا ج نَاطِرُ الْمَنَاطِرِ: بلند زمینیں۔ عِلْمُ الْمَنَاطِرِ: وہ علم جس سے اشیاء کی مقدار باعتبار قرب و بعد کے پیمانہ سکیں۔ الْمَنَظَرَةُ. مص۔ دیکھنے کی جگہ چاہے خوش نما ہو یا بد نما۔ دیکھنے بھانکے کی بلند جگہ۔ الْمَنَظَرَةُ: قوم جو کسی چیز کی طرف دیکھنے والی ہو۔ الْمَنَظَرِيُّ وَالْمَنْظَرَانِيُّ. خوش نما۔ الْمَنَاطِرُ. فا۔ مثل۔ الْمَنْظَارُ. آئینہ۔ ج مَنَاطِيرٌ. الْمَنْظُورُ. مٹوہ شخص جس کی خیر کی امید رکھی جائے۔ نظر بزرگا ہوا۔ الْمَنْظُورَةُ الْمَنْظُورُ كَامُونَةٌ. مصیبت امْرَأَةٌ مَنَظُورَةٌ: عیب دار عورت۔ نَظَفٌ (ك) نَظَافَةُ الشَّيْءِ: صاف ستھرا ہونا۔ بارونق و حسین ہونا۔ صفت مذکر نَظِيفٌ صفت مؤنث نَظِيفَةٌ ج نَظَفَاءُ. کہا جاتا ہے ”فَلَانَ نَظِيفُ السَّرَاوِيلِ“ فلاں پاک دامن ہے و نَظِيفُ الْأَخْلَاقِ: مہذب۔ نَظَفَ الشَّيْءُ: صاف کرنا۔ پاک کرنا۔ تَنَظَّفَ الشَّيْءُ: صاف ستھرا ہونا۔ الرَّجُلُ: جگہ صاف ستھرا ہونا۔ رباہوں سے دور ہونا۔ انْظَفَ الْفَصِيلُ مَا فِي صَرْعِ أُمِّهِ: اونٹ کے بچے کا تھن سے سارا دودھ نہ لینا۔ اسْتَنْظَفَ صَافٌ سَتْرًا: طلب کرنا الْوَالِي الْحِرَاجُ: پورا وصول کر لینا فَلَانَ الشَّيْءُ: سب لے لینا الْفَصِيلُ مَا فِي صَرْعِ أُمِّهِ: اونٹ کے بچے کا تھن سے سارا دودھ نہ لینا۔ نَظَمَ (ض) نَظْمًا وَ نَظْمًا الْوَلُولُ وَ نَحْوَهُ: موتی پرونا: آراستہ کرنا۔ موزوں کرنا الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ: ترتیب دینا۔ کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا الْاَمْرُ: برپا کرنا۔ قائم کرنا۔

بر نما۔ اور کہا جاتا ہے ”فَلَانَ فِي مَنْظَرِي وَ مُسْتَمِعِي“ فلاں ایسی جگہ میں ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کی باتیں سن سکتا ہوں۔ ”وَ كُنْتُ عَنْ هَذَا الْمَقَامِ بِمَنْظَرٍ“ یعنی میں اس مقام سے علیحدہ تھا ج نَاطِرُ الْمَنَاطِرِ: بلند زمینیں۔ عِلْمُ الْمَنَاطِرِ: وہ علم جس سے اشیاء کی مقدار باعتبار قرب و بعد کے پیمانہ سکیں۔ الْمَنَظَرَةُ. مص۔ دیکھنے کی جگہ چاہے خوش نما ہو یا بد نما۔ دیکھنے بھانکے کی بلند جگہ۔ الْمَنَظَرَةُ: قوم جو کسی چیز کی طرف دیکھنے والی ہو۔

النَّظَرِيُّ وَالْمَنْظَرَانِيُّ. خوش نما۔ الْمَنَاطِرُ. فا۔ مثل۔ الْمَنْظَارُ. آئینہ۔ ج مَنَاطِيرٌ. الْمَنْظُورُ. مٹوہ شخص جس کی خیر کی امید رکھی جائے۔ نظر بزرگا ہوا۔ الْمَنْظُورَةُ الْمَنْظُورُ كَامُونَةٌ. مصیبت امْرَأَةٌ مَنَظُورَةٌ: عیب دار عورت۔

نَظَفٌ (ك) نَظَافَةُ الشَّيْءِ: صاف ستھرا ہونا۔ بارونق و حسین ہونا۔ صفت مذکر نَظِيفٌ صفت مؤنث نَظِيفَةٌ ج نَظَفَاءُ. کہا جاتا ہے ”فَلَانَ نَظِيفُ السَّرَاوِيلِ“ فلاں پاک دامن ہے و نَظِيفُ الْأَخْلَاقِ: مہذب۔ نَظَفَ الشَّيْءُ: صاف کرنا۔ پاک کرنا۔ تَنَظَّفَ الشَّيْءُ: صاف ستھرا ہونا۔ الرَّجُلُ: جگہ صاف ستھرا ہونا۔ رباہوں سے دور ہونا۔ انْظَفَ الْفَصِيلُ مَا فِي صَرْعِ أُمِّهِ: اونٹ کے بچے کا تھن سے سارا دودھ نہ لینا۔ اسْتَنْظَفَ صَافٌ سَتْرًا: طلب کرنا الْوَالِي الْحِرَاجُ: پورا وصول کر لینا فَلَانَ الشَّيْءُ: سب لے لینا الْفَصِيلُ مَا فِي صَرْعِ أُمِّهِ: اونٹ کے بچے کا تھن سے سارا دودھ نہ لینا۔

نَظَمَ (ض) نَظْمًا وَ نَظْمًا الْوَلُولُ وَ نَحْوَهُ: موتی پرونا: آراستہ کرنا۔ موزوں کرنا الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ: ترتیب دینا۔ کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا الْاَمْرُ: برپا کرنا۔ قائم کرنا۔

تَنْعَلُ وَاِنتَعَلَ جَوِيهٌ يَهْنَأُ النَّوْبَ رَوْدَانًا
اور کہا جاتا ہے "اِنْتَعَلَ الْاَرْضُ" اس نے
پیرل سفر کیا۔

النَّعْلُ - س۔ جو تہ۔ ہر وہ چیز جس سے قدم کو
بچایا جائے (مونت) تصغیر تَغْيِيلَةٌ. نَعْلٌ
الذَّائِبَةُ: گھوڑے کا نعل ج نَعَالٌ وَاِنْعَالٌ.
النَّعْلُ مِیَانِ كَيْ تَحْلِي حَصَهُ مِیْنِ چاندی یا لوہے کا
بنا ہوا۔ سخت زمین جس میں کھنڈ نہ آگے۔ ج
نَعَالٌ. کہا جاتا ہے "اِحْضَرْتُ نَعَالِ الْقَوْمِ"
یعنی قوم کی زمین سرسبز ہوگئی۔

النَّعْلَةُ - ہر وہ جس سے قدم کو زمین سے بچایا
جائے اور یہ نعل سے خاص ہے۔

النَّاعِلُ - فَا۔ بہت جوتے والا۔ گور خر۔ رَجُلٌ
نَاعِلٌ: جو تاپہنا ہو امر د۔ حَافِرٌ نَاعِلٌ: سخت
کھڑ۔ نَعْلٌ. نعل بند۔

الْمُنْعَلُ وَالْمُنْعَلَةُ: سخت زمین۔ کہا جاتا ہے
"مَكَانٌ مُنْعَلٌ وَاَرْضٌ مُنْعَلَةٌ"
الْمُنْعَلُ: جوتے والا۔ فَرَسٌ مُنْعَلٌ: مضبوط
نعل لگا ہوا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "رَمَاهُ
بِالْمُنْعَلَاتِ" اس نے اس پر مصیبت ڈالیں۔

نَعْمٌ (ن) و نِعْمٌ (س) نَعْمَةٌ و نِعْمًا
الرَّجُلُ: خوش حال ہونا عَيْشُهُ: آسودہ و
کشاہد ہونا اور کہا جاتا ہے "هَذَا مَنْزِلٌ
يَنْعَمُهُمْ" یہ ایسی منزل ہے جو ان کے موافق
ہے "وَنَعِمْتُ بِهِذَا عَيْنًا" یعنی میں اس سے
خوش ہوا "وَنَعِمَكَ اللَّهُ عَيْنًا وَنِعْمَ اللَّهُ
بِكَ عَيْنًا" یعنی تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرے اور
تم سے تمہارے محبوب کی آنکھ ٹھنڈی کرے۔

نِعْمٌ (س) نَعْمًا الْفَوْدُ: کٹڑی کا سرسبز و
تروتازہ ہونا۔

نَعْمٌ (ك) نَعْمَةٌ: نرم و نازک ہونا۔ مَلَامٌ
ہونا۔ صفت نَاعِمٌ.

نِعْمٌ: افعال مدح میں سے ہے اور غیر مدح میں
ہے۔ تم کہتے ہو نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ و نِعْمٌ
رَجُلًا زَيْدًا اور شی اور ج کا استعمال نادر ہے۔

کہا جاتا ہے نِعْمًا نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا
نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا

اور کبھی اس کے آخر میں مالا حق ہوتا اس وقت
صلہ سے مستغنی ہوتا ہے جب کہ کوئی قرینہ
ہو۔ مثلاً تم کہو گے "ذَقَقْتَهُ ذَقًا نِعْمًا (کسر
عین سے اور کبھی مفتوح بھی ہوتا ہے) معنی میں
نِعْمٌ مَا ذَقَقْتَهُ كَيْ و اور عرب کا قول "اِنَّ
فَعَلْتُ فِيهَا و نِعْمَتْ" تاء ساکنہ سے جس
کی تقدیر نِعْمَتِ النِّعْلَةِ ہے۔

نِعْمَ الشَّيْءُ: نرم و نازک بنانا۔ الرَّجُلُ:
آسودہ حال کر دینا۔ کسی سے نعم کہنا۔ الْقَوْمُ
لوگوں کے پاس پاؤں آنا۔

انْعَمَ: الشَّيْءُ: نرم و نازک بنانا فَلَانًا: آسودہ
حال بنانا۔ کہا جاتا ہے "انْعَمَ اللَّهُ صَبَاحًا"
یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صبح اچھی کرے۔ اور یہ
امر کے موقع پر کہا جاتا ہے "انْعَمْ صَبَاحًا"

اور کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ اور نون
حذف کر دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے "عِمَّ
صَبَاحًا و عِمَّ مَسَاءً انْعَمَ اللَّهُ النِّعْمَةَ
عَلَيْهِ وَاَنْعَمَهُ بِالنِّعْمَةِ" نعت پہنچانا۔ انعم
اللہ بك عینا: تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنا یا

تمہاری وجہ سے دوسرے کی آنکھیں ٹھنڈی
کرنا انْعَمَ الرَّجُلُ: زیادہ کرنا۔ نعمت کو پہنچانا
الْقَوْمُ: لوگوں کے پاس ننگے پاؤں آنا۔ انْعَمَ
صَدِيقُهُ: ننگے پاؤں ہو کر رخصت کرنا۔ انْعَمَ
فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔ اچھی طرح سے کرنا

انْعَمَ النَّظْرُ فِي الْمَسْأَلَةِ: غور کرنا۔ انْعَمَ
لَهُ: کسی سے نِعْمٌ کہنا اور کہا جاتا ہے "هَذَا
مَنْزِلٌ يَنْعَمُ" یہ ایسی منزل ہے جو بہت برکت
دہی اور موافق ہے۔

نَاعِمٌ مُنَاعِمَةٌ الرَّجُلُ: آسودہ حال ہونا۔
الرَّجُلُ: آسودہ حال بنانا الْحَبْلُ و غَيْرُهُ:
رسی کو مضبوط کرنا۔

تَنْعَمَ الرَّجُلُ: ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔
ننگے پاؤں چلنا قَدَمِيهِ: مشغول کرنا فَلَانًا
بِالْمَكَانِ: ڈھونڈنا الذَّائِبَةُ: خوب اچھی
طرح ہانکنا اور کہا جاتا ہے "اَتَيْتُ اَرْضَهُمْ
فَتَنْعَمْتَنِي" یعنی میں ان کی زمین میں پہنچا اور
وہ میرے لیے موافق ہوئی۔

نِعْمٌ (ك) نَعْمَةٌ: نرم و نازک ہونا۔ مَلَامٌ
ہونا۔ صفت نَاعِمٌ.

نِعْمٌ: افعال مدح میں سے ہے اور غیر مدح میں
ہے۔ تم کہتے ہو نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ و نِعْمٌ
رَجُلًا زَيْدًا اور شی اور ج کا استعمال نادر ہے۔

کہا جاتا ہے نِعْمًا نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا
نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا و نِعْمًا

تَنْعَمٌ: خوش عیش ہونا۔

نِعْمٌ کلمہء ایجاب ہے اور اس میں چار لغت اور
ہیں۔

نِعْمٌ و نِعَمٌ و نِعَامٌ و نِعْمٌ اور یہ چار معانی
میں آتا ہے۔

(۱) خبر کے بعد واقع ہو تو حرف تصدیق ہے
جیسے قَامَ زَيْدٌ کے جواب میں نِعْمٌ ہو تو اس
کے معنی قَامَ کے ہوں گے۔

(۲) امر اور نہی کے بعد واقع ہو تو حرف وَعْدٌ
ہوگا جیسے "اِصْرِبْ زَيْدًا" کے جواب میں
"نِعْمٌ اَعِدْكَ بِصَرْبِهِ" کے معنی میں ہوگا۔

(۳) اور استفہام کے بعد واقع ہو تو حرف اعلام
ہوگا جیسے اِقَامَ زَيْدٌ کے جواب میں نِعْمٌ
اَعْلَمْتُكَ بِقِيَامِهِ کے معنی میں ہوگا۔

(۴) اور جب صدر کلام میں واقع ہو تو فائدہ
تاکید کا ہوتا ہے جیسے نِعْمٌ اِنَّ رَبِّي قَائِدٌ
النِّعْمُ: خوش حالی۔ تَنَ آسانی۔ ج انْعَمَ تم
کہتے ہو "هَذَا يَوْمٌ نِعْمٌ" یعنی یہ عیش و طرب
کا دن ہے۔

النِّعْمُ: اُونٹ۔ چوپایہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے
ج انْعَامٌ و ج انْعَامِيْمٌ

النِّعْمَةُ: اسم مرثیہ۔ آسودگی۔ نِعْمَةٌ
العِيشُ: زندگی کی آسودگی۔

النِّعْمَةُ: احسان۔ رزق وغیرہ کا انعام جو
تمہارے اوپر ہو۔ خوشی۔ خوشگوار حالت۔ ج
نِعْمٌ وَاَنْعَمٌ و نِعْمَاتٌ و نِعْمَاتٌ و نِعْمَاتٌ
نِعْمَاتٌ کہا جاتا ہے فَلَانٌ وَاَسِعَ النِّعْمَةُ:

فَلَانٌ بہت مالدار ہے۔
النِّعْمَاءُ ج انْعَمٌ و النِّعْمِيُّ: بابرکت
ہاتھ۔ و النِّعْمِيُّ: آرام۔ خوش عیشی مال۔

کہا جاتا ہے "سَافَعَلُهُ نِعْمٌ عَيْنٌ و نِعْمٌ عَيْنٌ
و نِعْمَةٌ عَيْنٌ و نِعْمَةٌ عَيْنٌ و نِعْمِي عَيْنٌ
و نِعْمِي عَيْنٌ و نِعَامٌ عَيْنٌ و نِعَامٌ عَيْنٌ و
نِعَامٌ عَيْنٌ و نِعَامِي عَيْنٌ" یعنی عنقریب
تمہارے اکرام کے لیے میں ایسا کروں گا اور کہا
جاتا ہے "نِعَامَاكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے
لیے آخری امر یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔

النَّعْمَةُ: خوشی۔ نَعْمَةُ الْعَيْنِ: آنکھ کی ٹھنڈک۔

النَّعَامَةُ: شتر مرغ (مذکورہ مؤنث)۔ نَعَامٌ و نَعَامَاتٌ و نَعَامٍ اور مذکر کو ظلم اور شتر مرغ کے گلہ کو بَنَاتُ الْهَيْسِقِ کہتے ہیں۔ شتر مرغ کے پر خوبصورت ہوتے ہیں جس کو زینت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ بھاگے اور عبادت میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔

النَّعَامَةُ: نفس۔ تارکی۔ خوشی۔ اکرام۔ جہالت۔ واضح راستہ۔ کنوئیں میں اٹھا ہوا پتھر۔

راستہ کا نشان۔ پہاڑ پر ساتباں کی مانند بنی ہوئی عمارت۔ دماغ جھلی۔ لوگوں کی جماعت۔ ابن

النَّعَامَةُ: بڑی کی بڑی۔ قدم یا گلوں اور کہا جاتا ہے "نَفَرَتْ نَعَامَتُهُ" یعنی سر گیا یا کوچ کر گیا۔

"وَجَاءَ كَالنَّعَامَةِ" یعنی محروم لونا "وَرَكِبَ جَنَاحِي النَّعَامَةِ" یعنی اس نے

اپنے معاملہ میں کوشش کی "وَسَأَلَتْ نَعَامَتَهُ" یعنی مر گیا "وَسَأَلَتْ نَعَامَةَ الْقَوْمِ"

یعنی متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے منازل کو خالی کر دیا "وَأَنَّهُ لَخَفِيفٌ النَّعَامَةُ" یعنی وہ

ضعیف النعل ہے "وَأَصَمُّ مِنَ نَعَامَةٍ" وہ شتر مرغ سے زیادہ بہرا ہے اس لیے کہ شتر مرغ

جب بھاگتا ہے تو کسی جانب نہیں مڑتا۔ النعَامُ: اسم جمع ہے مفرد اس کا النعَامَةُ ہے۔

یابان۔ النعَامُ: الضَّادُ: چار ستاروں کے نام النعَامُ: الواو: دو سرے چار ستاروں کے

نام اور یہ سب منازل قمر میں سے ہیں۔ النعَائِمُ: منازل قمر میں سے ایک منزل کا

نام۔ جس کی صورت شتر مرغ جیسی ہے اور یہ آٹھ ستارے ہیں۔

النَّعُومَةُ: سر تری و نازکی۔ ملائمت۔ النعمان: حیرہ کے ہر بادشاہ کا لقب از خون

شَقَائِقُ النُّعْمَانِ: گل لالہ۔ واحد شَقِيقَةُ النُّعْمَانِ.

الإنعام: سر انعام۔ ج انعامات۔ الإنعام: انعام۔ عطیہ۔

النَّاعِمُ: فَا مِنْ النَّيَابِ: ملائم کپڑا مِّن

الْعَيْشِ: آسودہ زندگی مِّن النَّيَابِ: سیدھا ہموار۔

النَّاعِمَةُ: الناعم کا مؤنث۔ آسودہ زندگی والی۔ باغ۔

النَّعِيمُ: آسودہ حالی۔ آرام۔ مال۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ نَعِيمٌ الْبَالُ" یعنی سکون قلب والا

مرد۔ نَعِيمُ اللہ: اللہ کا فضل۔ المُنْعَمُ: جھاڑو۔

المُنْعَمُ: بڑا فیض۔ كَلَامٌ مُنْعَمٌ: نرم کلام۔

المُنَاعِمُ: والمتناعم مِّن النَّيَابِ: سیدھی ہموار بناتا۔

المُنْعَمُ: والمُنَاعِمُ: والمتناعم خوش حال۔ بالدار۔

نَعْنَعُ لِسَانُ فُلَانٍ: زبان میں ہکلا پن ہونا۔ تَعْنَعُ الشَّيْءُ: مضطرب ہونا۔ جھکنا عنہ: دور

ہونا۔ النُّعْنَعُ: والنعناع: یہودیت۔ واحد نَعْنَعَةٌ و نَعْنَاعَةٌ.

النُّعْنَعَةُ: ہونا۔ نَعَا يَنْعُو نَعَاءً: السنونو: جلی کا میاؤں میاؤں

کرنا۔ النُّعُو: تاک کے نیچے کا درہ۔ اُونْتُ: کے اوپر

والے ہونٹ کی پھین۔ کھر کے پچھلے حصے کی کشاہکی۔ تازہ بھور۔

نَعِي يَنْعِي نَعِيًا وَ نَعِيًا وَ نَعِيَانًا لَنَا وَ اِلَيْنَا فُلَانًا: موت کی اطلاع دینا۔ کہا جاتا ہے "نَعَاءُ

بِمَوْتِ فُلَانٍ" اس نے اس کو فلاں کی موت کی اطلاع دی نَعِي الْقَوْمِ: میت کے دفن کیلئے

بلانا۔ نَعِيَتُهُ الشَّيْءُ: خبر دینا عَلَي الْقَوْمِ شَهْوَاتُهُمْ: عیب گیری کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

يَنْعِي عَلَي فُلَانٍ ذَنْبَهُ" یعنی وہ فلاں کے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے اور شہرت دیتا ہے۔

"وَفُلَانٌ يَنْعِي فُلَانًا" فلاں فلاں سے قصاص طلب کرتا ہے۔ "فُلَانٌ يَنْعِي عَلَي

نَفْسِهِ بِالْفَوَاحِشِ" یعنی فلاں اپنے آپ کے متعلق ارتکاب فواحش کی شہرت دیتا ہے۔

أَنْعَى عَلَيْهِ شَيْئًا قَبِيحًا: کسی کے متعلق بری بات طعنہ کے طور پر کہنا۔ أَنْعَيْتُهُ الشَّيْءَ: خبر دینا۔

تَسَاعَى الْقَوْمُ: قتل اور طلب قصاص پر براہیجتہ کرنے کیلئے مقتولین کی خبر موت کو بیان کرنا۔

اِسْتَنْعَى الْقَوْمُ: قتل اور طلب قصاص پر براہیجتہ کرنے کے لیے مقتولین کی خبر موت کو بیان کرنا۔ متفرق و منتشر ہونا۔ اِسْتَنْعَى

ذَكَرَ فُلَانٌ: پھیلنا حُبُّ الْحَجْمَرِ: بہ مدت تک رہنا۔ الرَّاعِي الْعَنَمِ: چرواہے کا آگے

ہو کر اپنے پیچھے بکریوں کو بلانا۔ النعيبه: نعی کا اسم مرۃ۔ ج نعيات.

النَّاعِي: فا۔ خبر مرگ لانے والا۔ طعن تشنیع کرنے والا۔ ج نَاعُونَ و نَعَاه و نَعِيَان.

النَّعِي: سر۔ خبر مرگ لانے والا۔ جس کی وفات کی خبر دی جائے۔

نَعَاءٌ: مبنی علی الکسر: اسم فعل بمعنی اِنْعَ کہا جاتا ہے نَعَاءٌ فُلَانًا: یعنی فلاں کی موت کا

پیغام پہنچانا۔ المُنْعَى: والمُنْعَاة: خبر مرگ۔ ج مَنَاع.

نَعَبٌ: (ف ن) نَعْبًا الرِّيقُ: تھوک لگانا۔ نَعَبٌ: (ن) نَعْبًا الرَّجُلُ فِي الشَّرْبِ:

گھونٹ گھونٹ پینا۔ نَعَبٌ: (ف) نَعْبًا الطَّائِرُ: پرندہ کا پانی پینا۔

النَّعْبَةُ: والنَّعْبَةُ: گھونٹ ج نَعَبٌ. النَّعْبَةُ: برا کام۔

النَّعْبَةُ: والنَّعْبُوقَةُ: جانور کے پیٹ کی آواز۔

نَعَتْ: (ف) نَعْتًا الشَّعْرُ: بال کھینچنا۔ النعت: دائمی سخت مصیبت۔

نَعْرَتٌ: (ف ض) و نَعْرَتٌ: (س) نَعِيرًا وَ نَعْرَانَا الْقُدْرُ: ہانڈی کا بلانا۔

نَعْرٌ وَ نَعْرٌ نَعْرًا وَ نَعْرَانَا الرَّجُلُ: عَلَي فُلَانٍ: غضبناک ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَعْرٌ عَلَيْهِ

جَوْفُهُ" اس کا جوف اس پر بھڑک اٹھا۔ صفت مَرَّكَرٌ: صفت مؤنث نَعْرَةٌ: الناقۃ: اونٹنی کو

آواز دینا۔ بلانا۔

نَعْرُ (س) نَعْرًا مِنَ الْمَاءِ: بہت پانی پینا الرَّجُلُ: کینہ رکھنا۔

نَعْرُ الصَّبِيِّ: بچیکو لگدانا۔ بِالنَّاقَةِ: اُونٹنی کو آواز دینا۔ بلانا۔

تَنَعَّرَ الرَّجُلُ: غضب کی وجہ سے جوف کا بھڑک اٹھنا۔ عَنْ فُلَانٍ: دگرگوں ہونا یا غضبناک ہونا۔

أَنْفَعَتِ الْبَيْضَةُ: انڈے کا گندا ہونا۔

تَنَاعَرَ الرَّجُلُ: ناواقف بننا۔

النَّعْرُ: س۔ کھاری پانی کا چشمہ۔

النَّعْرُ: بلبل۔ چڑیا کے بچے۔ نَعْرَانِ: نَعْرَانِ

النَّعَارُ: بہت غضبناک۔ جَرَحَ نَعَارًا: بہت خون بہانے والا زخم۔

الْمَنْعُورُ: بکری جس کے دودھ کے ساتھ خون آئے۔

الْمَنْعَارُ: بکری جس کے دودھ کے ساتھ خون آنے کی عادت ہو۔

نَعَزَ (ف) نَعَزًا الصَّبِيُّ: بچے کو لگدانا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: ایک دوسرے پر برا بھلا کہنا۔

النَّعَارُ: فتنہ انگیز۔ تباہی لانے والا۔

نَعَشَ (ف) نَعَشًا وَنَعَشَانًا: بلنا اور بے قرار ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَنْعَشُ إِلَى فُلَانٍ" وہ فلاں کی طرف مائل ہے۔ "وَسَقَى فُلَانٌ فَنَعَشَ" یعنی طاری ہونے کے بعد حرکت کی۔

تَنَعَشَ وَانْتَعَشَ الشَّيْءُ: بلنا اور بے قرار ہونا۔ کہا جاتا ہے "الْتَعَشَ وَتَنَعَشَ الْمَكَانَ بِأَهْلِهِ وَالرَّأْسَ بِالْقُمَّلِ" جگہ اپنے لوگوں اور سرجوں سے بھر گیا۔

النَّعْشَةُ: نعش کا اسم مرہ۔

النَّعَاشُ وَالنَّعَاشُ وَالنَّعَاشِيُّ: بہت پستہ۔ قَدَّ النَّعَاشُ: وڈیل لوگ۔ عیار لوگ۔

نَعَصَ (س) نَعَصًا الْبَعِيرُ: سیراب نہ ہونا الرَّجُلُ: مراد پوری نہ ہونا۔

نَعَصَهُ (ف) نَعَصًا: پانی کا حصہ روک دینا یا پوری طرح سے پینے نہ دینا۔

نَعَصَ وَأَنْعَصَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَيْشَ وَنَعَصَ عَيْشَهُ: زندگی مکر کر دینا۔ وَنَعَصَ فُلَانًا: زن دگی مکر کر دینا۔ أَنْعَصَ فُلَانًا رَعِيَّةً: کسی کے جانوروں کو چرنے سے روک دینا۔

نَعَصَ تَنْعِصًا: خوشگواری کامل نہ ہونا۔ تَنْعَصَ الْعَيْشَ: مکر نہ ہونا۔ تَنَاعَصَتِ الْأَيْلُ: جوم کرنا۔

النَّعْصَةُ: مراد پوری کرنے سے مانع ج نَعَصَ: نَعَصَ (ن ض) نَعَصًا وَنَعُوصًا وَنَعَصَانًا: کچی کے ساتھ بلنا اور بے قرار ہونا۔ نَعَصُوا إِلَى الْعُدُوِّ: مقابلے کے لیے اٹھنا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ: بلانا۔ نَعَصَ نَعَصًا الشَّيْءُ: بہت ہونا۔ السَّحَابُ: گھٹا ٹوپ بادل چڑھنا۔

نَعَصَ الشَّيْءُ: بلانا۔ أَنْعَصَ الشَّيْءُ: بلنا اور بے قرار ہونا۔ رَأْسَهُ: سر کو تعجب یا استہزاء سے بلانا۔ تَنْعَصَ الشَّيْءُ: بلنا اور بے قرار ہونا۔

النَّعْصُ: س۔ سر بلانے والا۔ چلنے میں کا پٹنے والا۔

النَّاعِضُ: فَاج نَعَضَ النَّاعِضُ مِنَ الْإِنْسَانِ: گردن کی جڑ جہاں سے سر کی حرکت ہوتی ہے۔ عَيْمٌ نَاعِضٌ: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا بادل (والنَّعْضُ) مِنَ الْكَيْفِ: مونڈھے کے کنارے کی پتلی ہڈی۔

النَّعَاضُ مِنَ السَّحَابِ: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا بادل۔ رَجُلٌ نَعَاضٌ الْبَطْنِ: بڑے پیٹ والا جس کے پیٹ پر موٹاپے کی وجہ سے ٹھکن ہو۔

النَّعُوضُ: بڑے کوہان والی اونٹنی۔ نَعَفَ (س) نَعَفًا الْبَعِيرُ: اونٹ کی ناک میں کینہ ہونا۔

النَّعْفُ: س۔ اونٹ اور بکری کے ناک کے کینہ۔ وَاحِدٌ نَعْفَةٌ: خشک رہینٹ جو

ناک سے نکلتے۔

نَعَقَ (ف ض) نَعَاقًا وَنَعِيقًا الْغَرَابُ: کتے کا کاکوں کاکوں کرنا۔ النَّعَاقُ: بہت کاکوں کاکوں کرنے والا۔

نَعَلَ (س) نَعْلًا الْجِلْدُ: کھال کا دباغت میں خراب ہونا۔ الْجَوْحُ: فاسد ہونا۔ زخم میں کچھ خرابی باقی رہ جانا۔ نَعَلْتُ نَيْسَةً: نیت بری ہونا۔ نَعَلَ قَلْبُهُ عَلَيَّ: کینہ رکھنا۔ نَيْسَهُمْ: فساد ڈالنا۔ چغل خوری کرنا۔ وَجْهَ الْأَرْضِ: سوکھا پڑنے کی وجہ سے سبز زمین کا خشک ہونا۔

نَعَلَ (ك) نَعُولَةُ الْمَوْلُودِ: نسبت بگڑنا۔ النِّعْلَةُ: اسم مصدر ہے۔

أَنْعَلَ الْجِلْدُ: دباغت میں خراب کرنا۔ اسم النِّعْلَةُ: النِّعْلُ: گھوڑے اور گدھی سے پیدا شدہ جانور۔

النِّعْلُ: س۔ لوگوں کے درمیان فساد انگیزی۔ چغل خوری۔

النِّعْلَةُ: چغل خوری۔ النِّعْلُ وَالنِّعْلُ: مؤنث نَعْلَةٌ وَنَعْلَةٌ وَالنِّعْلِيلُ: بگڑا ہوا۔ حرامی بچہ۔

النِّعْلِيلَةُ: ایک قسم کا کینہ جو چوڑے کو خراب کر دیتا ہے۔

نَعَمَ (ض ن) نَعَمًا وَنَعَمًا وَنَعَمَ فِي الشَّرَابِ: تمھوڑا سا پینا اور کہا جاتا ہے "سَكَّتْ فَمَا نَعَمَ بِحَرْفٍ" وہ خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔

نَاعِمَةٌ مَنَاعِمَةٌ: بہت آہستہ گفتگو کرنا۔ النِّعْمُ وَالنِّعْمُ: گانے میں سر۔ نَعَامُ: نَجَّ أَنْعِمَ: اور اسی سے نَعَامُ الْمَوْسِيقِيِّ ہے۔ آہستہ گفتگو۔

النِّعَامُ: بہت سر نکالنے والا۔ النِّعْمَةُ وَالنِّعْمَةُ: نعم کا واحد۔ پڑھنے میں اچھی آواز۔ نَعَمَاتُ: النِّعْمَةُ: گھونٹ۔ نَعْمُ: رَجُلٌ نَعْمٌ: اچھی آواز والا مرد۔

نَعَا يَنْعُو نَعْوًا وَ نَعَى يَنْعِي نَعْيًا وَ انْعَى
إِلَيْهِ : قَاتِلٌ سَجَّحَ بَاتِ كَرَمًا - کہا جاتا ہے
”سَكَّتَ فَلَانٌ فَمَا نَعَى بِحَرْفٍ“ فلاں
خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔

نَاعَى الصَّبِيَّ نَحْيًا سے دل پسند بات کرتا۔
الْمَرْأَةُ عَشِقَتْ بَارِي كَرَمًا الرَّجُلَ مُقَابِلَهُ كَرَمًا -
عالم ہونے کی کوشش کرتا۔ قریب ہونا
الْمَوْجُ السَّحَابِ : مَوْجٌ كَابِلٌ كِي طَرْفِ
أَمْنًا - کہا جاتا ہے ”هَذَا الْجَيْلُ يَنْعَى
السَّمَاءَ نِيَهًا لِأَوْعَى كِي وَجْهَ سَمَانِ كِي
قریب ہے۔

تَنَاعَى الْقَوْمَ : يَاهِمُ مُقَابِلَهُ كَرَمًا - ایک
دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرتا۔
التَّاعِيَةُ كَلِمَةٌ -

النَّفْوَةُ وَ النَعْيَةُ سِرِّي لِي آوَا - اچھی گفتگو
النَعْيَةُ خَبْرٌ جَوَابِي تَحْقِيقٌ نَهْ كِي گئی ہو۔ کہا جاتا
ہے ”سَمِعْتُ نَعْيَةً مِنْ كَذَا“ میں نے فلاں
چیز کی انوہ سنی ہے۔

نَفَدَنَّ نَفَا الْأَرْضِ بُونًا -
نَفَسَ (س) نَفَا السَّوْفِيُّ سَتُو مَهَانًا -
النَّفِيُّ جِسٌّ يَرْسُو مَهَانًا جَائِي - ج نَفَانِي -
النَّقِيَّةُ وَ النَفِيَّةُ وَ النَفِيُّ مَهْجُورٌ كِي تَهْوِي
سے بنا ہوا گراں دسترخوان۔

النَّفِيفُ أَوْنَتٌ كِي پَالَانِ كَانِكٌ -
النَّفَا بَاتَاتٌ كِي مَشْرُقٌ تَلْعَاتٌ - چھوٹے
باغ یا کٹھے بعض درخت جو بڑی بڑی گھاس سے
بلند ہو گئے ہوں۔ واحد نَفَاةٌ -

نَفَتَتْ (ض) نَفْتًا وَ نَفْتَانًا وَ نَفَيْتًا وَ
نَافَتَتْ الْقَدْرُ بَانَثِي كَابِهَتْ زُورَ سِي اِبْلَانِ -
صَفَتْ نَفُوتٌ نَفْتٌ وَ نَافَتْ الرَّجُلُ :
غضبناک ہونا۔ غصہ سے پھولنا۔ وَ نَفَتَتْ
الدَّقِيقُ نَفْتًا : اَلْ كَابَانِي دَابْنِي سِي مَهُولَانِ -
النَّفِيَّةُ : آتَانَسٌ يَرْسُو پَرِيَانِي يَادُودَهُ دَالَا جَائِي -
النَّفْتَالِيْنَ (كِي سِي)

كلابن اور ہیزروجن سے مرکب ایک سفید
بلوری مادہ جس کی ہوا طاق ورت ہوتی ہے رنگ
دار چیزوں کے بنانے اور کپڑوں کی مدافعت کے

لے استعمال ہوتی ہے۔

نَفَسَتْ (ن ض) نَفْتًا وَ نَفْتَانًا الْبُصَاقُ مِنْ
فِيهِ مَنَّةٌ سِي تَهْوَكُ مَهِيكَا الْجُرْحُ الدَّمُ زَخْمٌ
كا خون بہانا الرَّجُلُ تَهْوَكَا - نَفَتَتْ الْحَيَّةُ
السَّمُ : سَابٌ كَا زَهْرٌ نَكَالَانِ - نَفَتَتْ
الْمَصْدُورُ زُورُ دَسِينِ وَالِي كَا تَهْوَكُ كَهْتَمَا
وغيره مَهِيكَا -

الْقَلَمُ بَلَكَمَا فَلَانًا كِي يَرَادُ كَرَمًا - کہا جاتا
ہے ”نَفَتَ اللّٰهُ الشَّيْ فِي قَلْبِهِ“ اللّٰهُ نے
اس کے دل میں ڈالا۔ وَ نَفَتَ فِي رُوعِي اَوْ
قَلْبِي كَذَا“ مجھے فلاں چیز کا □ اِلْهَامُ ہوا۔ ”وَ
فَلَانٌ يَنْفَتُ عَلَيَّ غَضَبًا“ فلاں مجھ پر غصہ
کی وجہ سے طیش میں ہے۔

نَافَتَةٌ مَنَافَتَةٌ چپکے چپکے بات کرتا۔
النَّفْتُ مَسْ - بَلْمٌ - نَفَتَ الشَّيْطَانُ غُرُولَ
كِي اشعار۔

النَّفْتَةُ : نَفَتَ كَا اِسْمُ مَرَّةٍ - ج نَفَاتَاتٌ - کہا
جاتا ہے ”مَا أَحْسَنَ نَفَاتَاتِ فَلَانٍ“ یعنی
فلاں کے اشعار کس قدر اچھے ہیں۔

النَّفَاةُ تَهْوَكُ وَ غيرہ جو درد سینہ والا پھیکنے
النَّافِثُ وَ النَفَاتُ جَادُورٌ - مَوْنَتٌ نَافِثَةٌ وَ
نَفَاةٌ -
دَمٌ نَفِيثٌ زَخْمٌ سِي بَهَا ہوا خون۔
الْمَنْفُوتُ مَسْ - رَجُلٌ مَنفُوتٌ جَادُورٌ كِي ہوا
مرد۔

نَفَحَ (ن) نَفْحًا وَ نَفْحَانًا وَ نَفُوحًا
الْأَرْزَبُ اَوْ الِيزْبُوعُ خَرْغُوشٌ يَابِجَلٌ چوہے
کادوڑ کر نکل بھاگتا۔ نَفَحَتِ الرَّيْحُ ہوا کا
تیز چلنا الطَّرِيقُ بِالْقَوْمِ رَاسَتَهُ مِيں قوم کا
اچانک ظاہر ہونا۔

نَفَحَ نَفْحًا الْإِنْسَانُ غيرِ وَاقِعِي صَفَاتِ پَر
نَحْرُ كَرَمًا الْفُرُوجَةُ مَرَعِي كِي نَحْجُ كَا اِنْتَرِي
سے نکلنا الْأَرْزَبُ وَ غيرہا خَرْغُوشٌ كُو مَهْرُوكَا
كر نكالنا الشَّيْ بَلَدُ كَرَمًا السَّقَاءُ مَهْمِيئَرَه
بھرتا۔

انْفَحَ الْأَرْزَبُ خَرْغُوشٌ كُو مَهْرُوكَا كَر نكالنا
الْحَالِبُ دُوهِنِي كِي وَتِ بَرْتَنِ كُو تَهْنِ سِي

جد نکالنا۔

تَنْفَحُ وَ انْتَفَحُ بَلَدُ ہونا الرَّجُلُ غيرِ وَاقِعِي
صَفَاتِ پَر فَحْرُ كَرَمًا - ڈِيك مَارَنَا - تَنْفَحَتِ
الرَّيْحُ عَلَيَّ الْقَوْمِ مَغْفَلَتِ كِي حَالَتِ مِيں تيز
ہوا کا چلنا۔ انْتَفَحَ الْأَرْزَبُ خَرْغُوشٌ كَادُورُوكَا -
كُودَنَا - کہا جاتا ہے ”انْتَفَحَتْ مِنْهُ الْأَرْزَبُ“
انْتَفَحَ الْأَرْزَبُ وَ غيرہا“ خَرْغُوشٌ كُو مَهْرُوكَا
كر نكالنا۔

اِسْتَفْحَ الشَّيْ : نَكَالَانِ - ظَاہِرُ كَرَمًا - کہا جاتا
ہے ”مَا الَّذِي اِسْتَفْحَ عَضْبِكَ“ یعنی
كس چیز نے تمہیں غصہ دلایا۔

النَّافِحُ : فَا - صَوْتٌ نَافِحٌ : نَحْتٌ وَ بَلَدٌ
آواز۔

النَّافِحَةُ : النَّافِحُ كَامُونَتٌ - بہت بارش والا۔
بَادِلٌ - ہوا جو پہلے زور سے چلے۔ آخری پہلی۔
بِئْسَ - اس وجہ سے کہ وہ اپنے مہر سے باپ کے
مال کو بڑھانی ہے۔ مَنَكٌ كَا نَافٍ - مَنَكٌ رَكْحِي كَا
بَرْتَنِ - ج نَوَافِحُ -

النَّفَاجُ غيرِ وَاقِعِي صَفَاتِ پَر فَرْوُ غُرُورُ كَرَمِي
والا۔ ڈِيك مَارَنَا والا۔
النَّفَاجَةُ پَوِغَلَا -

النَّفِيحَةُ كِمَانٌ - ج نَفَاجِ
النَّفِيحُ اَجْمَعِي شَخْصٌ جُو كِي قوم مِيں شامل ہو
اور نہ مَصْلُحٌ ہونہ مفسد۔ ج نَفِجٌ - نَفِجٌ : النَّفِجُ
بُو جَمَلٌ اور سَتِ لُوكٌ - اور کہا جاتا ہے ”هُوَ
نَفِجٌ الْحَقِيْبَةُ“ وہ موٹے سرین والا ہے ”وَ
اِمْرَاةٌ نَفِجٌ الْحَقِيْبَةُ“ موٹے سرین والی
عورت۔

الْاِنْفَاجَانِي قَوْلٌ مِيں اِفْرَاطُ كَرَمِي والا۔
الْمَنَافِحُ چھوٹے ٹکیرے كماند اِيك چیز جس
سے عورت مِيں اِيكے سرین كُو بَرَا ظَاہِرُ كَرَمِي مِيں۔
بَعِيْرٌ مَنْتَفِجٌ كُو كَهَا بَاہِرُ نَكَالَا ہوا اَوْنَتٌ -
الْمَنْفُوكُ كَشَاوَرَةُ پَهْلُوكِں والا اَوْنَتٌ -

نَفَحَ (ف) نَفْحًا وَ نَفْحَانًا وَ نَفُوحًا وَ
نَفْحًا الطَّيْبُ : خَوْشُبُو مَهِيئَانِ - نَفَحَتْ
الرَّيْحُ : ہوا کا چلنا۔ اِنْتَرَانِي ہوا کا چلنا۔ نَفَحَ
العُرْفُ بَرَكٌ سِي خُونِ نَكَالَانِ - نَفَحَتِ الدَّابَّةُ

الرَّجُلُ: کھر کے کنارے سے مارنا نَفَعُ
فَلَانًا بِالسَّيْفِ: آہستہ تلوار سے مارنا۔
نَفَعَهُ بَكْدًا: دینا نَفَعٌ لِمَتَهُ: کنگھا کرنا
الشَّيْءَ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

نَافِعُهُ مَنَافِعُهُ: جھگڑا کرنا۔ نَافِعٌ عَنِ
فُلَانٍ: کسی کی جانب سے مدافعت کرنا۔
انْتَفَعُ بِفُلَانٍ: سامنے آنا۔ انْتَفَحَ اِلَى
مَوْضِعٍ كَذَا: واپس آنا۔

النَّفْحُ: سر۔ النَّفْحُ مِنَ الرِّيحِ: سردی
میں ہوا کا چلنا اور گرمی میں ہوا کے چلنے کو لَفْحٌ
کہتے ہیں۔

النَّفْحَةُ: نَفْحٌ کا اسم مرہ۔ نَفْحَةُ الدَّمِّ:
خُون کا نوار۔ نَفْحَةُ الرِّيحِ: ہوا کا جھونکا۔
نَفْحَةُ الطَّيِّبِ: خوشبو کی بھڑک۔ مِنَ
الْأَلْبَانِ: خالص دودھ۔ النَّفْحَةُ: عطیہ۔ ج
نَفْحَاتٍ: کہا جاتا ہے نِبْيَةُ نَفْحٍ: بلند ارادہ۔
النَّفْوُحُ مِنَ النَّوْقِ: اونٹنی جس کے تھن
سے بغیر دوسے ہوئے دودھ نکلے۔ مِنَ
الْقَيْسِيِّ: دور تک تیر بھینکنے والی کمان۔ رِيحٌ
نَفْوُحٌ: تیز چلنے والی ہوا۔

النَّفَّاحُ: بہت داؤد دہش والا۔ طَعْنَةُ
نَفَّاحَةٍ: زور سے خون بہانے والا نیزہ۔
النَّفْيِحَةُ: دُور تک تیر بھینکنے والی کمان۔
النَّفْيِیحُ وَالْمَنْفِیحُ: دخل در معقولات کرنے
والا مرد۔

الْإِنْفِخَةُ وَالْإِنْفِخَةُ وَالْإِنْفِخَةُ
وَالْمَنْفِخَةُ: بکری کا بچہ جو ابھی صرف دودھ
ہی پیتا ہو اس کے پیٹ سے ایک چیز نکالنے ہیں
اور کپڑے میں لٹ پت کر لیتے ہیں پھر وہ پتیر کا
مانند گاڑھا ہو جاتا ہے اور عوام اس کو مَحْمِيَّةٌ
کہتے ہیں۔

نَفَخَ (ن) نَفَخًا وَنَفَخَ بِفَمِهِ: مُد سے
پھونک مارنا۔ کہا جاتا ہے نَفَخَ فِي النَّارِ وَ
نَفَخَ النَّارَ: نَفَخَ الصُّخْرِي: بلند ہونا۔
نَفَخَتِ الرِّيحُ: ہوا کا اچانک آنا۔ اور کہا جاتا
ہے "نَفَخَ شِدْقِيهِ" یعنی اس نے تکبر کیا۔ و
نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ" شیطان نے اس کی

ناک میں پھونک دیا۔ یعنی اس نے اپنے متعلق
ایسی بڑھ چڑھ کر باتیں کہیں جو بھینٹا اس کے
اندر نہیں تھیں نَفَخَهُ الطَّعَامُ: سیر کرنا۔
تَنَفَّحَ: پھولنا۔

انْتَفَحَ: پھولنا۔ انْتَفَحَ الشَّيْءُ: بلند ہونا
النَّهَارُ: دن چڑھنا۔ الرَّجُلُ: بڑا ہونا۔ تکبر
کرنا۔

النَّفْحُ: فخر۔ تکبر۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ ذُو
نَفْحٍ: جانوروں کے ٹخنوں کا ورم جو چلنے
سے کم ہو جائے۔

النَّفْحُ: جوانی سے بھرپور۔ کہا جاتا ہے
"شَابٌ نَفْحٌ وَجَارِيَةٌ نَفْحٌ"
النَّفْحَةُ: نَفْحٌ کا اسم مرہ۔ کھانے وغیرہ سے
پیٹ کا پھولنا۔ نَفْحَةُ الشَّبَابِ: کامل جوانی۔
نَفْحَةُ الرِّبِيْعِ: موسم بہار کی تروتازگی۔

النَّفَّاحُ: ورم جو بیماری کی وجہ سے پیدا ہو۔
النَّفَّاحَةُ: پانی کا بلب۔ مچھلی کے پیٹ میں ایک
پھولی ہوئی چیز۔ مَخَّاحَاتُ

النَّفَّاحُ: فا۔ کہا جاتا ہے مَا بِاللِّدَارِ نَافِخٌ
ضَرْمِيَّةٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔
النَّفَّوُحُ: یافوخ کی تحریف ہے بمعنی چندیا۔
النَّفْيِیحُ: سر جو شخص آگ پھونکنے پر مقرر
ہو۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ اِنْفِخَانٌ وَ اِنْفِخَانٌ
وَ اِنْفِخَانِيٌّ وَ اِنْفِخَانِيٌّ: موٹائی کی وجہ سے
پر گوشت برد اور مؤنث تاکے ساتھ جمع کی
صورت میں۔

النَّفَّاحُ وَالْمَنْفِخُ: پھونکنے۔ لوہار کی
دھونکنے۔ ج مَنْفِیْحٌ وَ مَنْفِیْحٌ: مَنْفِیْحٌ
الشَّيْطَانُ: شیطان کے دساوس۔
الْمَنْفُوحُ: ت۔ بڑے پیٹ والا۔ موٹا۔

بزدل۔
نَفَذَ (س) نَفَذًا وَ نَفَذًا: الشَّيْءَ: نیست و
ناپود ہونا۔ ختم ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَفَذَ زَادُ
الْقَوْمِ" قوم کا توشہ ختم ہو گیا۔
نَفَذَ (ن) نَفَذًا الْقَوْمَ: لوگوں سے آگے
بڑھ جانا۔

انْفَذَ الْقَوْمَ: بے مال و بے توشہ ہونا۔
انْفَذَتِ الْبَيْتُ: کونٹیں کا پانی ختم ہونا۔ انْفَذَ
الشَّيْءَ: نیست و ناپود کرنا۔ انْفَذَ: لوگوں کے
درمیان گھس کر درمیان میں چلنا۔

نَافِذَةٌ مَنَافِذَةٌ: باہم حاکم کے پاس جانا۔ جھگڑا
کرنا۔ ایک دوسرے کی جت کو ناپود کرنے کی
کوشش کرنا۔

انْتَفَذَ وَ اسْتَنْفَذَ الشَّيْءَ: نیست و ناپود کرنا۔
اسْتَنْفَذَ وَسَعَهُ: پوری طاقت لگانا۔ انْتَفَذَ
الْحَقُّ: پورا حق لینا۔ دودھ دودھنا اور کہا
جاتا ہے "انْتَفَذَ مِنْ عَدُوِّهِ" یعنی اس نے

اپنے دشمن سے پورا بدلہ لے لیا۔
تَنَافَذَ الْخَصْمَانِ اِلَى الْقَاضِيِ: فیصلہ کے
لیے جانا۔ تَنَافَذَ الْقَوْمَ: جھگڑا کرنا۔
الْمُنَافِذُ فَاحْضَمُ مَنَافِذُ: جھگڑے میں
پوری طاقت صرف کرنے والا۔

الْمُنْتَفِذُ: فا۔ اور کہا جاتا ہے "قَعْدٌ مُنْتَفِذٌ"
وہ گوشہ نشین ہو۔

الْمُنْتَفِذُ: فا۔ کہا جاتا ہے "فِي هَذَا الشَّيْءِ
مُنْتَفِذٌ عَنْ غَيْرِهِ" اس چیز میں یہ نسبت غیر
کے وسعت ہے "وَ فَلَانٌ مُنْتَفِذٌ فَلَانٌ"
یعنی جب ایک کے پاس سے سارا مال خرچ ہو
جاتا ہے تو دوسرا اپنے مال سے اس کی مدد کرتا
ہے۔

نَفَذَ (ن) نَفَذًا وَ نَفُودًا وَ نَفَاذًا الشَّيْءَ
الشَّيْءَ: چھید کر پار ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَفَذَ
السَّهْمَ الرَّمِيَّةَ وَ فِيهَا وَ مِنْهَا" تیر شکار
سے چھید کر پار ہو گیا۔ فَلَانٌ الْقَوْمَ: آگے گزر
جاتا۔ نَفَذَ (ن) نَفُودًا وَ نَفَاذًا: الْأَمْرَ او

الْقَوْلَ: جاری ہونا۔ نافذ ہونا۔ پورا ہونا۔ نَفَذَ
الْمَنْزِلَ اِلَى الطَّرِيقِ: متصل ہونا۔ نَفَذَ
الطَّرِيقِ: شاہراہ عام ہونا۔ صفت نَافِذٌ: نَفَذَ
الْكِتَابَ اِلَى فَلَانٍ: پہنچانا۔ نَفَذَ الرَّجُلُ فِي
الْأَمْرِ: جلدی کرنا۔ ماہر ہونا۔ نَفَذَ لَوْجَهُ
اپنی حالت پر گزرتا۔

نَافِذَةٌ: فیصلہ کے لیے جانا۔
نَفَذَ وَ انْفَذَ السَّهْمَ الرَّمِيَّةَ: تیر سے شکار کو

چھپر کر پار کرنا کتاب الی فلان: بھیجا
التَّحَاكِمُ الْأَمْرَ: جاری کرنا۔ نافذ کرنا
الرَّجُلُ الْقَوْمِ: وسط میں چلنا۔ آگے گزر جانا
أَنْفَذَ عَهْدَهُ: عمل میں لانا۔
تَنَافَذَ الْقَوْمُ إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کے لیے
حاکم کے پاس جانا۔

التَّفْذُ: نافذ۔ جاری کرنا۔ کہا جاتا ہے: أَمْرٌ بِنَفْذِ
الْكِتَابِ: اس نے کتاب کے لکھے ہوئے کے
مطابق اجرا کا حکم دیا۔ پھین۔ نکلنے کی جگہ۔ رہائی
کی جگہ۔ بچ۔ انفاذ اور کہا جاتا ہے: "هَذِهِ طَعْنَةٌ
لَهَا نَفْذٌ" یہ ضرب نیزہ ایسی ہے کہ آر پار

کے۔
النَّافِذُ: ہر کام کو کر گزرنے والا۔ طَوِيقٌ
نَافِذٌ: عام راستہ۔ أَمْرٌ نَافِذٌ: ایسا حکم جس کی
فرمانبرداری کی جائے۔ النَّافِذُ: یہ التَّوَالِفُ کا
واحد ہے۔ نوافذ جسم انسانی کے ہر سوراخ کو
کہتے ہیں جیسے ناک، منہ وغیرہ۔

النَّافِذَةُ: النَّافِذُ کا مؤنث۔ روشن دان۔
سوراخ۔ اور کہا جاتا ہے: "هَذِهِ طَعْنَةٌ نَافِذَةٌ"
یہ ضرب نیزہ آریا ہے۔ ج نوافذ۔
النَّفَاذُ وَالنَّفُوذُ: ہر کام کو کر گزرنے والا۔

النَّفْذَةُ: مہرہ۔ ج نفذ۔
النَّفِیْذَةُ: نافذ۔ أَمْرٌ نَفِیْذٌ: مانا ہوا حکم۔
الْمُنْفِذُ: گزر جاوے۔ ج منافذ۔
الْمُنْفِذُ: کسی چیز کے جاری ہونے کی جگہ ج
منافذ منافذ الإنسان: جسم انسانی کے
سوراخ جیسے منہ، ناک وغیرہ۔

الْمُنْفِذُ: بختیاں۔ کشادگی۔
نَفَرَتْ (ض ن) نَفُورًا وَنَفَارًا وَنَفِيرًا
الدَّابَّةُ مِنْ كَذَا: چھپانے کا بد کرنا۔ ڈر کر دور
ہونا۔ صفت نافر و نفور۔

نَفَرَ (ض) نَفَرًا: مِنْ كَذَا: نفرت کرنا۔
ناپسند کرنا۔ کہا جاتا ہے: "نَفَرْتُ مِنْ صُحْبَةِ
فُلَانٍ" مجھے فلاں کی صحبت ناپسند آئی عن
كَذَا: روگردانی کرنا۔ اعراض کرنا القَوْمُ:
مترق ہونا۔ نَفَرَ إِلَى الشَّيْءِ: دوڑنا (نَفُورًا)
العین وغیرہا: آنکھ کا سو جتا (نَفَرًا) فُلَانًا:

غَابَ آتَا (نَفَرًا وَنَفُورًا) اسْحَاجٌ مِنْ
مَعْنَى نَمَّ كَمَا فِي طَرَفِ كَوْنٍ كَرْنَا (نَفَرًا وَنَفُورًا)
وَ نَفَارًا وَنَفَارًا) الطَّبِيْعِيَّةِ وَغَيْرِهِ بَرْنِ كَا
بِهَاجَتَا اُوْر دُوْر هُوْنَا (نَفَارًا وَنَفُورًا وَنَفِيرًا)
الْقَوْمِ لِلْقِتَالِ اُو الْأَمْرِ بِجَلِّ بَرْنَا۔

نَفَرَهُ: بھگانا۔ نَفَرَهُ عَلَى فُلَانٍ: کسی پر
غالب ہونے کا فیصلہ دینا۔ نَفَرَهُ الشَّيْءُ وَ
عَلَى الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: غالب ہونا۔ نَفَرَ
عَنْ فُلَانٍ: برا لکھ دینا۔

أَنْفَرَهُ: بھگانا۔ أَنْفَرَ الْقَوْمُ: بھگے ہوئے
اُو تُوْتُوْا والا ہونا القَوْمُ: فُلَانًا: مدد دینا
الْحَاكِمُ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ: غالب ہونے کا
فیصلہ دینا۔

نَافِرَةٌ نَفَارًا وَنَافِرَةٌ: فیصلہ کے لیے جانا۔
حَسْبُ وَنَسْبٍ مِیْنِ نَفَرْنَا: کہا جاتا ہے
"نَافِرَتُهُ إِلَى الْقَاضِي فَقَضَى عَلَيْهِ" میں
اس کو قاضی کے پاس فیصلہ کے لیے لے گیا
اُس نے میرے غلبہ کا فیصلہ کیا۔

تَنَفَّرَ: کوچ کرنا۔
تَنَافَرَ الرَّجُلَانِ: باہم فیصلہ کے لیے جانا۔
باہم فخر کرنا القَوْمُ لِلْأَمْرِ: چل بڑنا۔
اِسْتَنْفَرَهُ: بھگانا۔ اِسْتَنْفَرَ النُّوْمَ: قوم سے
مدد طلب کرنا۔ جَنَگَ كَيْلِيَةً كَوْنٍ كَرْنَا كِي
دَرْخَاسْتِ كَرْنَا الطَّبِيْعِيَّةِ: ہرن کا بھگانا۔
اِسْتَنْفَرَ فُلَانٌ بَنُوْبِيَّ: کپڑے لے جا کر گم کر
دینا۔

النَّفَرُ: النَّفَرُ: النَّفَرُ كِي جَع۔
النَّفَرُ وَالنَّفَرَةُ: بھگنے والوں کا گروہ۔ جنگجو
لوگوں کی جماعت۔ معاملہ میں آگے رہنے
والوں کی جماعت۔ تین سے دس تک کی
جماعت النَّفَرَةُ: نفر کا اسم مرثہ۔ نَفَرَةٌ
الرَّجُلِ: خاندان کہا جاتا ہے عَفْرُ نَفَرٍ وَ
عَفْرُ نَفَرٍ تَابِعٌ مَهْمَلٌ كَ طَوْرٍ يَمَعُ خَبِيْثٍ وَ
سَرَكَشٍ اُوْ رَايَايَ عَفْرِيَّةٌ نَفَرِيَّةٌ وَ عَفْرِيَّةٌ
نَفَرِيَّةٌ وَ عَفْرِيَّةٌ نَفَرِيَّةٌ۔

النَّفَرُ: سارے لوگ۔ تین سے دس تک
مردوں کی جماعت۔ ج انفار۔ کہا جاتا ہے

"ثَلَاثَةُ نَفَرٍ اُو ثَلَاثَةُ أَنْفَارٍ" یعنی تین
شخص۔ نَفَرَ الرَّجُلُ خَرْدًا كَيْبِيْرَةً۔

يَوْمَ النَّفَرَا وَالنَّفَرَا وَالنَّفِيرَا اُو النَّفُورِ۔
حاجیوں کا مٹی سے مکہ معظمہ کی طرف واپس
ہونے کا دن اور وہ ذی الحجہ کی بارہویں تاریخ
ہے۔

النَّفَرَةُ: حکم۔ فیصلہ (و النَّفَرَةُ) نظر بد سے
حفاظت کے لیے تعویذ وغیرہ۔
النَّفَارُ: اڑیل ہونا۔ کہا جاتا ہے "فِي
الدَّابَّةِ نَفَارٌ" چوپایہ میں اڑیل ہونے کی
عادت ہے۔

النَّفَارَةُ: حکم۔ فیصلہ۔ مغلوب سے جو غالب
لے۔

النَّفَارُ: غالب۔ ج نَفَرٌ وَ نَفَرٌ۔
النَّفَارَةُ: النَّافِرُ کا مؤنث۔ نَافِرَةُ الرَّجُلِ وَ
نَفُورَتُهُ: مرد کا خاندان۔

النَّفُورُ وَالنَّفُورُ وَ الْمُسْتَنْفَرُ: بھگنے
والا۔ بہت تیز بھگنے والا۔

النَّفِيرُ: دس مردوں سے کم کی جماعت۔
کوچ کرنے والوں کی جماعت یا جنگجو لوگوں کا
گروہ۔ النَّفِيرُ: بگل (دخیل) ج انفار۔
و النَّفِيرُ: العام: دشمن سے مقابلہ کیلئے عوام کا
اٹھ کھڑا ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا هُوَ بِنَفِيرٍ
فُلَانٍ" وہ فلاں کا فخر کرنے میں مساوی نہیں۔
النَّفُورُ: عیسائیوں کے نزدیک: قربان مقدس
کارا۔ مخصوص عبادتیں۔

النَّفَارِيُّ: چڑا۔ چڑے۔ واحد نَفُورٌ۔
الْمُسْتَنْفَرُ: ڈرایا ہوا۔
الْمُنْفُورُ: مغلوب۔
نَفُوحٌ نَفْرَجَةٌ: بہت بات کہنا۔
النَّفْرَجُ وَالنَّفْرَجَةُ وَالنَّفْرَاجُ
وَالنَّفْرَاجَةُ وَ النَّفْرَجَاءُ: بڑول۔ ڈرپوک۔
النَّفْرِيْحُ: بہت کہنے والا۔

نَفَرَ (ض) نَفَرًا وَ نَفُورًا وَ نَفَارًا الطَّبِيْعِيَّةِ:
ہرن کا کودنا۔ اچھلنا۔ چھلانگ مارنا الرَّجُلِ:
مرنا۔
نَفَرَهُ: کودنا۔ نَفَرَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا:

محبکم دلائل وبراین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عورت کا بچہ کو اچھلانا۔ نَفَزَ وَانْفَزَ السَّهْمَ: تیر کی درستی کو دیکھنے کے لیے تارخن پر گھمانا۔ تَنَافَزُوا بِأَهْمٍ اِجْمَلًا كَوْدًا۔

النَّفِيزُ وَالنَّفِيزَةُ: مکھن جو مکھی میں ادھر ادھر لگا ہوا رہ جائے۔

النَّفِيزُ مِنَ الطَّبَاةِ: ہرن چھلانگ مارنے والا۔

نَوَافِيزُ الدَّابَّةِ: جانوروں کی ٹانگیں۔ النَّفَّازُ: ایک قسم کا کھیل جس میں باہم کودتے ہیں۔

نفس (س) نَفَسًا وَنَفَاسَةً بِالشَّيْءِ: بچل کرنا علی فلان بخیر جسد کرنا (نَفَاسَةً) الشَّيْءِ: علی فلان نائل سمجھنا۔

نَفْسَةٌ (ن) نَفَسًا بِنَفْسٍ (ای بعین) نظر بد لگانا۔

نَفَسَتْ (س) وَنَفَسَتْ وَنَفَسًا وَنَفَاسَةً وَنَفَاسًا: المَرْأَةُ غُلَامًا رُجْءًا ہونا۔ بچہ جننا۔ نفس فلان: پیدا ہونا۔ صفت

مَنْفُوسٌ: کہا جاتا ہے "وَرِثَ فُلَانٌ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَنْفُسَ، فلان اس کا پیدا ہونے سے پہلے وارث ہوا۔

نفس (ک) نَفَاسَةً وَنَفَاسًا وَنَفُوسًا وَنَفَسًا: نفس و مرغوب ہونا۔

نَفَسٌ تَنْفِيسًا عَنْهُ: الحُرْبَةُ: غم دور کرنا۔ غم سے رہائی دینا۔ کہا جاتا ہے "نَفَسٌ فُلَانًا" اس نے فلاں کو مہلت دی یا اس کے غم کو رازل کیا نَفْسَةً فِي الْأَمْرِ: بَرَّغِيبًا دینا۔

نَافِسٌ نَفَاسًا وَنَفَاسَةً: فُلَانًا فِي الْأَمْرِ: باہم فخر کرنا۔ باہم مقابلہ کرنا فِي الشَّيْءِ: مبالغہ کرنا۔ گراں قیمت کرنا۔ کرم میں مقابلے کی رغبت کرنا۔

أَنْفَسَ الشَّيْءُ: نفس ہونا الشَّيْءُ فُلَانًا: پسند آتا فُلَانًا فِي الشَّيْءِ: بَرَّغِيبًا دِلَانًا۔

تَنْفَسَ سَاسٌ لِيَمَّا الصُّبْحُ: صبح کا روشن ہونا القُوسُ: کمان کا چختر النَهْرُ: نہر میں زیادہ پانی ہونا النَّهَارُ: دوپہر ہونا۔ الرَّجُلُ: کسی کی باتیں کرنا الرَّجُلُ فِي الْإِنَاءِ: ہرن بغیر جدا

کیے ہوئے پانی پینا۔ تین سانس میں پانی پینا (احمد میں سے ہے) حدیث میں ہے "إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَيَهْمِي عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ" جناب نبی صحن میں سانس میں پانی پیتے تھے اور

ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرماتے تھے اور کہا جاتا ہے "تَنْفَسَ الصَّعْدَاءُ" یعنی اس نے

تھکن یا غم کی وجہ سے لمبے لمبے سانس لے۔ تَنَافَسَ الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔ بطریق مقابلہ کے رغبت کرنا۔

النفس: سر۔ روح۔ خون۔ کہا جاتا ہے "وَوَقَّعَ نَفْسَهُ" اس کا خون اچھل کر نکلا۔ بد

ان کہا جاتا ہے "هُوَ عَظِيمُ النَّفْسِ" یعنی وہ بڑے ہم کا ہے۔ نظر بد۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُ نَفْسٌ" یعنی اسے نظر بد لگی۔ شخص۔ نفس

الشَّيْءِ: عَيْنٌ شَيْءٍ اور یہ بطور تاکید بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فِي هُوَ نَفْسُهُ" و بِنَفْسِهِ، یعنی وہ خود ہی آیا۔ نَفْسُ الْأَمْرِ: حقیقت امر۔ النَفْسُ: عظمت۔ ہمت۔

عزت۔ ارادہ۔ رائے۔ عیب۔ سزا پانی۔ نفس سے مراد اُرُوحُ ہوتی ہے جیسے

خَرَجَتْ نَفْسُهُ اور اگر شخص مراد ہو تو مذکر ہے جیسے عِنْدِي خَمْسَةٌ عَشْرَ نَفْسَاتٍ

أَنْفُسٌ وَنَفُوسٌ اور کہا جاتا ہے "فِي نَفْسِي" ان اَفْعَلُ كَذَا" میرا ارادہ ہے کہ ایسا کروں

"وَفُلَانٌ يُؤَامِرُ نَفْسَهُ وَيَسْأُوذُ هُمَا" یعنی فلاں اپنے معاملہ میں متردد ہے اور اس کی

دو رائیں ہیں اور کسی پر استقلال نہیں "وَخَرَجَتْ نَفْسُهُ وَجَادَ بِنَفْسِهِ" یعنی وہ

مر گیا۔ سر۔ جھونکا۔ سانس۔ گنجائش۔ مہلت۔ کشادگی۔ کہا جاتا ہے "اغْمَلُوا

الْخَيْرَ وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ" خیر کا عمل کرو۔ اس حال میں کہ تم کو زندگی کی مہلت

حاصل ہے۔ بس گفتگو۔ کہا جاتا ہے "كَتَبَ كِتَابًا نَفْسًا" اس نے لمبا خط لکھا۔ گھونٹ

جیسے "اِحْرَاجُ مَا فِي الْإِنَاءِ نَفْسًا

وَاحِدًا" برتن میں جو کچھ ہے اس کو ایک گھونٹ میں پی جاوے۔ انْفَاسٌ اور کہا جاتا ہے

"هَذَا شَرَابٌ ذُو نَفْسٍ" یعنی خوشگوار ہے۔ وَ نَفْسُ السَّاعَةِ: آخری زمانہ وَ نَفْسُ الشَّاعِرِ او المَوْلِيفِ: طرز تحریر۔

النَّفَاسُ: سر۔ زچگی۔ ولادت کے بعد کا خون۔

النَّفْسَةُ: مہلت۔ کہا جاتا ہے "لَكَ فِي الْأَمْرِ نَفْسَةٌ" تمہارے لیے معاملے میں گنجائش ہے۔

النَّفَاسُ: فا۔ حاسد۔ پیش قدر۔ نظر بد والا۔ جوئے کا پاجوال یا چو تھا تیر۔

النَّفِيسُ: بہت مال۔ شئی نفیس: مرغوب و قیمتی چیز اور اس کے مقابلے میں خیس آتا ہے۔ رَجُلٌ نَفِيسٌ: حاسد مرد۔

مَالٌ نَفِيسٌ وَ مُنْفَسٌ وَ مُنْفَسٌ: بہت مال۔

الْأَنْفَسُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الثَّوْبُ أَنْفَسُ مِنْ ذَاكَ" یہ کپڑا اس سے

بہتر ہے "وَهَذَا الْمَكَانُ أَنْفَسُ مِنْ هَذَا" یہ جگہ اس سے وسیع ہے "وَهَذَا أَنْفَسُ مَالِي" یہ میرا مرغوب مال ہے۔

النَّفَسَاءُ: النِّفْسَاءُ وَ النِّفْسَاءُ: زچہ۔ مثنی نَفَسًا وَانْفَاسًا وَ نَفَسًا وَ نَفَسًا وَ نَفَسًا وَ نَفَاسًا وَ نَوَافِيسًا وَ نَفَسَاوَاتٍ۔

النَّفُوسُ: حاسد نگاہیں۔ الْمَنْفُوسُ: نوپید بچہ۔ شئی مَنْفُوسٌ: مرغوب چیز۔

النَّفِيسُ: فا۔ پیش قدر چیز۔ الْمُنْتَفِسُ: سانس لینے کی جگہ۔

نَفَشٌ (ن) نَفَشًا وَ نَفَشًا وَ نَفَشَ الْقَطْنَ او الصَّرْفُ: برو یا اون دھنا۔

نَفَشَ نَفُوسًا الْقَوْمَ: ارزانی میں ہونا۔ فُلَانٌ عَلَيَّ الشَّيْءِ: کھانے کے لیے متوجہ ہونا۔

نَفَشْتُ (ضن) وَ نَفَشْتُ (س) نَفَشًا

الإِبِلِ أو الغنم: أوثن یا بکریوں کا بغیر چرواہے کے لیے رات میں رتا۔ صفت نَافِئَةٌ و نَفَاشٌ و نَوَافِشٌ و نَفْشٌ اور ام النَفْشِ.

انْفَشَ الرَّاعِيُ الإِبِلَ: چرواہے کا اوثن کو رات میں چرنے کے لیے چھوڑنا۔

تَنَفَّشَ الطَّائِرُ: پرندہ کا پروں کو جھاننا۔ تَنَفَّسَتِ الإِبِلُ: اوثن کا بغیر چرواہے کے رات میں چرنا۔ تَنَفَّسَتْ و انْتَفَشَتْ الهِرَّةُ: بلی کا بال کھڑے کرنا۔ و انْتَفَشَ الصُّوفُ: دھنی ہوئی ہونا۔

النَّفْشُ: دھنی ہوئی اون۔ متفرق سامان۔ کثرت کلام و کثرت دعویٰ کہا جاتا ہے "بَدَّ ذُو نَفْشٍ" یعنی سرسبز و شاداب شہر۔ اِبِلٌ او غنم نَفْشٌ بغیر چرواہے کے رات میں چرنے والے اوثن یا بکریاں۔ نَفْشٌ کا اطلاق صرف رات ہی میں چرنے پر ہوتا ہے اور نمل کارات اور دن دونوں پر۔

النَّفِيشُ: برتن میں متفرق سامان۔ کہا جاتا ہے "بَقْرٌ او غنمٌ نَفْشٌ و نَوَافِشٌ و نَفَاشٌ" رات میں بغیر چرواہے کے چرنے والی گائیں یا بکریاں۔

النَّفَاشُ: مٹروڑ۔ پھلانے والا۔ ایک قسم کا بڑایمیں۔

المُنْفَشُ و المُنْفَشِشُ: پھولا ہوا اور نرم کہا جاتا ہے "انْفٌ مُنْفَشٌ و مُنْفَشِشٌ" چٹی ناک۔

نَفْصٌ (ض) نَفْصًا و انْفَصَ بَيُولِهِ: پیشاب کرنا۔ نَفْصٌ و انْفَصَ بِالْكَلِمَةِ: جلدی بولنا۔ انْفَصَ فِي الصَّحْلِ: بہت ہنسنا الشَّاةُ بَيُولِهَا: بکری کا تھوڑا تھوڑا پیشاب کرنا۔

الرَّجُلُ بِشَفِيحِهِ: ہونٹوں سے اشارہ کرنا۔ النَفْصَةُ: خون کا وارہ۔ ج نَفْصٌ النفاص: بکریوں کی ایک بیماری جس میں بار بار پیشاب آتا ہے یہاں تک کہ مر جاتی ہے۔ النَفِيسُ: خوش گواری پائی۔

المنفاص: بہت ہنسنے والا۔

نَفْصٌ (ن) نَفْصًا الثَّوْبُ: کپڑا جھاننا الشَّجَرَةُ: درخت سے پھل کرانے کے لیے ہلانا الوَرْقُ مِنَ الشَّجَرِ: پتے گرانا المَكَانُ: اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ نَفْصَتُهُ الحُمَى: بخار آنا۔ کپکپانا۔ نَفْصَ الزَّرْعِ: آخری خوش

نکالنا۔ نَفْصَتِ الإِبِلُ: سارے بچے جننا المرأَةُ: بہت بچوں والی ہونا۔ نَفْصَ القَوْمِ: بے توشہ یا بے ماں ہونا۔ نَفْصَ الطَّرِيقِ: تلاش و جستجو کرنا۔ چوروں سے پاک کرنا القَوْمُ حَلَابِيَهُمْ: دودھ دینے والے جانوروں کا سارا

دودھ نکال لینا۔ نَفْصَ الثَّوْبِ او الصَّيْفِ: رنگ کا مدھم پڑنا الكَرْمُ: انگور کی تیل میں چھنے لگانا فُلَانٌ: چاروں طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے

"إِذَا تَكَلَّمْتُ نَهَارًا فَاَنْفَصُ" جب دن میں گفتگو کرو تو ادھر ادھر دیکھ لو۔

نَفْصٌ (ن) نَفْوَصًا المَرِيضُ مِنَ مَرَضِهِ: بیمار کا صحت یاب ہونا۔

انْفَصَ القَوْمُ: تباہ شدہ توشہ یا ختم شدہ بال والا ہونا القَوْمُ زَادَهُمْ: توشہ کو ختم کر دینا۔ انْفَصَ فُلَانًا عِنْدَ: دور کر دینا۔ دوستی ختم کرا دینا۔ انْفَصَتِ الإِبِلُ: سارے بچے جانا۔

نَفْصَ الثَّوْبِ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبُ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت کا جھاننا الفَصِيلُ مَا فِي الضَّرْعِ: اوثن کے بچے کا گھن سے سارا چوس لینا الكَرْمُ: انگور کی تیل کا سرسبز ہونا۔

تَنَفَّصَ و اسْتَنَفَصَ المَكَانَ: اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ اسْتَنَفَصَ القَوْمُ: تامل کرنا۔ غور کرنا الشَّيْءُ: نکالنا الامِيرُ: جاسوس۔

نَفْصَتِ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

انْفَصَ الثَّوْبَ او الشَّجَرَةَ: کپڑا یا درخت جھاننا۔

بچوں کا تہنہ۔ ج نَفْصٌ اور کہا جاتا ہے "مَا عَلَيْهِ نَفَاصٌ" اس پر کچھ بھی کپڑا نہیں۔

النَّفْصَةُ و النَّفْصَةُ و النَّفَاصُ و النَّفْصَاءُ بخار کی ٹپکی۔ النَّفْصَةُ: بارش جو نہیں ہو اور کہیں نہ ہو۔

النَّفْصَةُ: جاسولوں کی جماعت۔

النَّفْصِيُّ و البَفْصِيُّ و البَفْصِيُّ: ٹپکی۔

النَّفَاصُ: فاب۔ جوڑی کا بخار۔ کہا جاتا ہے

"أَخَذَتْهُ حُمَى نَافِصٍ و حُمَى نَافِصٍ و حُمَى بِنَافِصٍ" اس کو جوڑی کا بخار آ گیا۔ ثَوْبٌ نَافِصٌ: مدھم رنگ کا کپڑا۔

النَّفْوَصُ مِنَ النِّسَاءِ: بہت اولاد والی عورت۔

النَّفِصُ: شہد کی مکھی کی بیٹ۔

النَّفِيسَةُ: جاسوسوں کی جماعت۔ ج نَفَاصُ: کنگری پھینک کر آئندہ کی خبر دینے والے۔ دے لے اوثن۔

الإِنْفَاصُ: من۔ بھوک۔ حاجت۔

الإِنْفَاصُ: درخت کے نیچے گرے ہوئے پھل۔ واحد انْفَوْصَةٌ.

الْمُنْفَصُ: جھان۔ سوپ۔ پگھلا۔ (و المنفاص) چادر وغیرہ جسے بچھا کر پتے یا میوے جھانیں۔

الْمُنْفَصُ مِنَ الدَّجَاجِ: مرغی جو اٹلے دے کر رک گئی ہو۔

الْمُنْفَوْصُ: من۔ تپ و لرزہ زدہ۔

نَفَطَتْ (س) نَفَطًا و نَفَطًا و نَفِيطًا يَدُهُ: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔

نَفَطَ (ض) نَفَطًا غَضْبَانًا: ہونا یا غصہ سے بھڑک اٹھنا۔

نَفَطَتْ (ض) نَفَطًا و نَفِيطًا العنزَةُ: بکری کا چھینکا القِدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔

نَفَطَ الظُّبِيُّ: برن کا آواز کرنا الرَّجُلُ: مہم گھٹو کرنا۔

تَنَافَطَتِ القِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔ تَنَفَطَ غَضْبَانًا: ہونا یا غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ تَنَفَطَتِ اليَدُ: ہاتھ کا زخمی ہونا یا آبلہ والا

نقط

النَّطْقُ وَالنَّفْطُ. ایک قسم کا معدنی تیل جو بہت بند آگ پڑا لیتا ہے اور جس سے آگ جلانے کا کام لیتے ہیں اور اس سے علاج بھی کرتے ہیں۔ النَّفْطُ. چپک۔ آبلہ۔ آج کل کی زبان میں نَفْطُ کا اطلاق مٹی کے تیل پر بھی ہے۔

النَّفْطَةُ وَالنَّفِطَةُ وَالنَّفِطَةُ. آبلہ چپک۔ النَّفِطَةُ. جلدی غضبناک ہونے والا۔ النَّافِطَةُ. بکری۔ يَذُّ نَافِطَةً. آبلہ دار ہاتھ رُوغَةَ نَافِطَةً. بلبلہ والے جھماک۔ النَّفَاطُ. معدن سے نطف نکالنے والا۔ نطف پھینکنے والا۔ رَج نَفَاطَةٌ وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ. نطف کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے نطف اور آگ پھینکا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے ”خَرَجَ النَّفَاطُونَ بِأَيْدِيهِمُ النَّفَاطَاتِ“ نطف پھینکنے والے اس حال میں نکلے کہ ان کے ہاتھوں میں نطف پھینکنے کے آلات تھے۔ النَّفَاطَةُ. چھنی۔ النَّفْطَانُ. کھانسی کے مشابہ۔ غصہ کے وقت پھولنا۔

النَّفِيطُ وَالْمَنْفُوطُ. ہاتھ میں آبلہ والا۔ مَوْنُثُ نَفِيطَةٌ وَنَفِيطَةٌ. نَفَعَهُ (ف) نَفَعًا بَكْدًا. نفع دینا۔ اَنْفَعُ الرَّجُلُ. لائمیوں کی تجارت کرنا۔ اَنْتَفَعُ بِهِ وَ مِنْهُ. فائدہ اٹھانا۔ اِسْتَنْفَعَهُ. فائدہ طلب کرنا۔ النِّفْعُ. فائدہ۔ نفع۔ خیر جو مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔

النِّفَاعُ وَالنَّفِيعَةُ. منفعت۔ فائدہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ حَاضِرُ النَّفِيعَةِ“ اس کا نفع موجود ہے۔

النَّفِيعَةُ. نفع کا اسم مرۃ۔ لائمی اس وجہ سے کہ اس کی ماہ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رَج نَفَعَاتٍ.

النَّفِيعَةُ. نفع کا اسم نور۔ چڑے کا کٹرا جو توشہ دان کے دونوں جانب لگا ہوتا ہے رَج نَفْعٍ

و نفع.

النَّفَاعَةُ. ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔ النَّافِعُ. ف۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

النَّفِيعِيُّ: منفعی۔ بہب کا قائل النَّفِيعِيَّةُ: وہ مذہب جس کے ماننے والے خالص منفعت کے قائل ہیں۔

النَّفَاعَةُ. جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کہا جاتا ہے ”مَا نَفَعَنِي فَلَانٌ بِنَافِعَةٍ“ فلاں نے مجھ کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا۔

النَّفَاعُ. بہت فائدہ پہنچانے والا۔ النَّفُوعُ. بہت فائدہ پہنچانے والا۔ رَج نَفْعٍ. المَنْفَعَةُ. ہر چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

فائدہ۔ رَج مَنَافِعٍ. مَنَافِعُ الدَّارِ: گھر میں آرام کی چیزیں۔ جیسے کنواں اور دھونے دھانے کی جگہ وغیرہ۔

نَفَعْتُ (ف) نَفْعًا وَ نَفُوعًا وَ نَفَعْتُ (س) نَفْعًا وَ نَفَعْتُ يَذُّ: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ کام کرنے کی وجہ سے سوچ جانا۔

نَفَقَ (ن) نَفَاقًا وَ نَفَقَ (س) نَفَقًا الشَّيْءُ ختم ہونا۔ کم ہونا۔ نَفَقَ البَيْعُ: خرید و فروخت راج ہونا۔ نَفَقَتِ السُّوْفِيُّ: گرم بازاری ہونا۔

نَفَقَ (ن) نَفَقًا الرَّجُلُ او الدَّابَّةُ: مرنا۔ رُوح نَفَقَتَا الحُجْرَ: رُوح کا پھل جانا۔

نَفَقَ (ن) وَ نَفَقَ (س) نَفَقًا البَيْرُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے نکلتا۔ سوراخ میں داخل ہونا۔ (ضد)

نَافِقٌ مَنَافِقَةٌ وَ نَافِقًا فِي دِينِهِ: دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا۔ صفت مَنَافِقٍ. نَافِقُ البَيْرُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ داخل ہونا۔

اَنْفَقَ: محتاج ہونا۔ توشہ ختم ہونا المَالُ: خرچ کرنا السَّلْعَةُ: سامان راج کرنا القَوْمُ: راج تجارت والی قوم ہونا الرَّجُلُ: سامان کو راج کرنا۔

تَنْفَقُ البَيْرُوعُ: جنگلی چوہے کو سوراخ سے

نَكَانَا البَيْرُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے نکلتا۔ سوراخ میں داخل ہونا (ضد)

اِسْتَنْفَقَ الرَّجُلُ: سرنگ میں داخل ہونا۔

البَيْرُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔ سوراخ سے نکلتا (ضد) البَيْرُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے نکلتا۔

اِسْتَنْفَقَ المَالُ: مال ختم کرنا۔ اَنْفَقَ: سرنگ۔ رَج اَنْفَاقٍ.

النَّفِيقُ: جلدی منقطع ہونے والا۔ کہا جاتا ہے فَرَسٌ نَفِيقٌ الحِرْزِيُّ: جلدی تھکنے والا گھوڑا۔ النِّبَاقُ وَ المُنَافِقَةُ: سر۔ منافق کا فعل۔

النَّفَقَةُ: اِنْفَاقِ اِسم۔ خرچ۔ رَج نَفَقَاتٍ وَ نَفَاقٍ وَ اَنْفَاقٍ.

النَّافِقُ: فَا مِنْ البَصَانِعِ: راج سامان۔

النَّافِقَةُ: النَّافِقُ كَاوْنُثُ. منگ کا نافر۔

النَّافِقَاءُ: رَج نَوَافِقٍ وَ النِّفَقَةُ وَ النِّفَاقُ: جنگلی چوہے کے پوشیدہ سوراخوں میں سے ایک سوراخ۔

تَبَفَّقَ السَّرْوَالُ: پانجامہ کانیفہ۔

المِنْفَاقُ: بہت خرچ کرنے والا۔

المُنَافِقُ: دل میں کفر اور زبان سے ایمان ظاہر کرنے والا۔

المِنْفَقَةُ: باعث رواج پذیری اور اسی سے

ہے ”البَيْعِيُّ الكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِّلسَّلْعَةِ مَنْحَقَةٌ لِّلْبُرْجَةِ“ یعنی جوئی قسم سامان کو راج کر دیتی ہے لیکن برکت کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔

نَفَلَ (ن) نَفْلًا: قسم کھانا الرَّجُلُ: کسی کو بغیر ارادہ ثواب کے عطیہ دینا۔ نَفَلَهُ النِّفْلُ: زائد عطیہ دینا۔ نَفَلَ القَائِدُ الجُنْدَ: مال غنیمت تقسیم کرنا الرَّجُلُ عَزَّ نَسَبُهُ: نفی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اَنْفَلَ عَنِ نَفْسِكَ اِنْ كُنْتُ صَادِقًا“ یعنی جو کچھ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو دور کرو اگر تم سچے ہو۔

نَفَّلَهُ: قسم کھانا۔ حصہ سے زائد دینا۔ نَفَّلَهُ النِّفْلُ: غنیمت دینا۔ نَفَلَ عَنِ فُلَانٍ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

انْفَلَهُ النفل غنیمت دینا۔ انفل له: قسم کھانا۔

تَنْفَل نفل نماز ادا کرنا علیٰ اصحابہ۔ مال غنیمت میں سے ساتھیوں سے زیادہ حصہ لینا۔

وَتَنْفَل مِنْهُ الشَّيْءُ: طلب کرنا۔

انْتَفَلَ: تَوَاطَل پڑھنا۔ الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ: طلب کرنا مِنْ الْأَمْرِ وَالْكَلَامِ: بیزار ہونا۔

کہا جاتا ہے ”قَالَ لِي قَوْلًا فَانْتَفَلْتُ مِنْهُ“ اس نے مجھ سے ایک بات بیان کی تو میں نے

اس سے بیزاری ظاہر کی مِنَ الْقَوْمِ: قوم کی مدد سے دور رہنا۔ انْتَفَلَ: عذر بیان کرنا۔ قسم

کرنا۔

فرائض و واجبات سے زائد کام

النفل واجبات و فرائض سے زائد کام جو کرنے کو کہا

جائے۔

النفل غنیمت۔ بہہ۔ زیادتی۔ کہا جاتا ہے

”لِهَذَا نَفَلَ عَلَيَّ ذَاكَ“ اس چیز کو اس پر

زیادتی ہے ج نفل و انفال۔ النفل ایک

خوشبو دار قسم کی کھاس جس سے کھوڑے

موٹے ہوتے ہیں و احد نَفْلَةٌ

النافلة غنیمت۔ عطیہ۔ فرائض و واجبات

سے زائد کام۔ پوتا۔ ج نوافل کہا جاتا ہے

”هُوَ كَثِيرُ التَّوَاتُلِ“ وہ بہت بخشش اور عطایا

والا ہے۔

النفل قمری مینے کی چوتھی اپانچویں چھٹی

رائیں۔

النوفل بڑا فیاض۔ خوبصورت جوان۔ ج

نَوْفَلُونَ النوفل سمندر۔ عطیہ۔ زربجو۔

النوفلة نمک دان۔

النصف فضاء آسمانی۔ آسمان و زمین کا

درمیان۔ دیوار کے بالائی اور زریں حصے کے

درمیان۔ کنوئیں کے کنارے سے تہ تک کا

حصہ۔ پہاڑ کا دیوار کے مانند گوشہ۔ بیابان ج

نصفانف و نصفانف الدار گھر کے اطراف و

نوائف (و النصفانف) دو پہاڑوں کے درمیان کا

خلا۔ دور۔

نَفَهُ (ف) نَفُوها الرَّجُلُ: کمزور دل بزدل

ہونا الجمل دُشواری کے بعد مطبج ہونا۔

نَفَهْتُ (س) نَفَهًا نَفِيهًا: تھکانا۔

نَفَهُ وَ انْفَهُ النَّافَةُ: اونٹنی کو تھکانا اور کہا جاتا

ہے ”انْفَهُ لَهُ مِنْ مَالِهِ“ اس نے اُس کو تھوڑا

مال دیا۔

اسْتَنْفَهُ الرَّجُلُ: آرام لینا۔

النَّافَةُ: تھکا ہوا۔ (و المنفوة) کمزور دل۔

بزدل۔

جَمَلَ مَنْفَةً: تھکا ہوا اونٹ۔

نَفَاؤَةُ الشَّيْءِ وَ نَفُوْفُهُ: ہر چیز کا زدی حصہ۔

چیز کا بقیہ۔ النَفْوَةُ: جلا وطنی۔

نَفَى يَنْفِي نَفْيًا الشَّيْءُ: انکار کرنا۔ نَفَاهُ

عَنْهُ: چیلجہ کرنا۔ بنانا۔ نَفَى الرَّجُلُ: قید خانہ

میں قید کرنا الرَّجُلُ مِنْ بَلَدِهِ: جلا وطن

کرنا۔ السَّيْلُ الْعُتَاءُ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ

بہا کر لانا۔ السَّحَابَةُ مَاءٌ حَالٍ: بادل کا پانی

برساتا۔

نَفِي يَنْفِي نَفْيًا وَ نَفِيَانَا الضَّيْرُ فِي

الدَّرَاهِمِ: صرف کا درہموں کو پر تھکنے کے

لئے کھینچنا۔ نَفَتَ الرِّيحُ التَّرَابَ: ہوا کا

مٹی کو اڑانا۔

نَفَى يَنْفِي نَفْيًا وَ انْتَفَى عَنْهُ: دور ہونا

الشَّعْرُ بِالرَّيَاوِ: انتفح الشَّيْءُ: نابود ہونا۔

انْتَفَى مِنْ وُلْدِهِ: بچے کا انکار کرنا۔ انْتَفَى

فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ: گراہت کے ساتھ اعراض

کرنا۔ وَ نَفَاهُ فَانْتَفَى: اس نے اسے ہٹایا وہ

ہٹ گیا۔

نَفَاهُ نَفَى كَرْتِي فِي مَبَالِغِ كَرْنَا۔

نَافَاةٌ مَنَافَاةٌ: ایک دوسرے کو ہٹانا اور کہا جاتا

ہے ”هَذَا يَنَافِي ذَاكَ“ یعنی یہ اس کے معانی

و مخالف ہے۔

تَنَافَى تَنَافِيَا الرَّجَالُ: ایک دوسرے کو دفع

کرنا۔ اِيك دوسرے کے مخالف ہونا۔ تَنَافَى

الاشْيَاءُ: مخالف ہونا۔ تَمَيَّنَ: ہونا۔

نَفَاهُ الشَّيْءِ وَ نَفَاهُهُ وَ نَفِيْتُهُ وَ نَفِيْتُهُ

نَفَايْتُهُ وَ نَفَايْتُهُ وَ نَفِيْتُهُ: چیز کا وہ حصہ جو ردی

ہونے کی وجہ سے دور کر دیا جائے۔ چیز کا بقیہ۔

النَّفِيَةُ: نفی کا اسم مرتہ۔ کھجور کے پتوں کا

دستر خوان جس پر گوشت یا پیڑ دھوپ میں

خشک کیا جائے یا ہوا میں پھیلا یا جائے۔ ج

نَفِيَاتُ: نفیات۔

س۔ درختوں کی جڑ میں ہوا سے جمع

شده مٹی۔ لشکر کا بڑا حصہ جو ایک طرف کو ہو

جائے۔

فاد دھتکارا ہوا۔ دور کیا ہوا۔

النفاي نابود کیا ہوا۔ جھاگ جس کو ہانڈی

پھینکی ہے۔ چکی سے نکلا ہوا آٹا۔ گھوڑوں کے

سم سے نکھری ہوئی مٹی، کنکری وغیرہ۔

درختوں کی جڑ میں ہوا سے جمع شدہ مٹی۔ لشکر کا

بڑا حصہ جو ایک طرف کو ہو جائے۔ ڈھال جو

کھجور کے پتوں سے بنائی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے

”هَذَا ابْنُ نَفِي“ یعنی اس کے باپ نے بیٹا

ہونے سے انکار کر دیا ہے۔

النَّفِيَةُ: النَفِيَةُ مؤنث۔ کھجور کے پتوں کا

دستر خوان جس پر گوشت یا پیڑ دھوپ میں خشک

کیا جائے یا ہوا میں پھیلا یا جائے۔

المنفَى: دور کیا ہوا۔ ہٹایا ہوا۔ دھتکارا ہوا

فی الكلام: اثبات کے خلاف۔

المنفَى: جلا وطنی کی جگہ۔ ج مناف

نَقَى (س) نَقِيًّا الصَّفَدُ: مینڈک کا ٹرانا

(یہ لفظ مرغی اچھور، چھوڑا، ستر مرغ اور ملی

وغیرہ کیلئے بھی مستعمل ہے) اور کہا جاتا ہے

”نَقَّتْ صَفَادُ عِ بَطْنِي“ یعنی وہ بھوکا ہوا۔

انْقَى: ٹرانے والا ہونا۔

النفاق: اسم مبالغہ۔ مینڈک۔

النَّفَاقَةُ: النفاق کا مؤنث۔ مینڈکی۔

النَّفَاقُ: چلانے والا۔ کہا جاتا ہے ”صَفَدُ عِ

نَفَاقُ“ ج نَفَقُ: نفق و نفق

النَّفَقُ: زرتشتیوں کی نقیبات

چھوٹے آبی جانور جن کے جسم پر باریک بالی

ہوتے ہیں ٹھہرے پانی یا جاری پانی میں رہتے

ہیں۔

المنقب. پہاڑی راستہ۔ بہت بحث و تحقیقات کرنے والا عالم۔ (و المنقبۃ) نشتر جس سے جانور کی ناف میں سوراخ کیا جائے۔

المنقبۃ. پہاڑی راستہ۔ دو مکانوں کے درمیان ٹھک راستہ۔ دیوار۔ عمدہ فعل۔ فخر۔ ج مناقب. مناقب الإنسان: عمدہ خصائل اور شریف اخلاق۔

النقبایۃ: محنت کشوں کی پارٹی اپنے حقوق مشرکین کے دفاع کے لئے۔

نقبت (ن) نقبا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔

نقبت (ن) نقبا وانتقت العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔ الشی المذفون: کھود کر نکالنا۔ نقبت الرجل فی الامر او السیر: دوڑنا الحدیث: بات میں گڑبڑ کرنا فلانا بالکلام: بات سے تکلیف پہنچانا، الارض بیدہ: کدال سے کھودنا۔ عن الشی: کھود کرید کرنا۔

نقبت الرجل: دوڑنا۔

تنقبتہ: اپنی طرف مائل کرنا۔ مہربان بنانا۔

تنقبت ضیعته: جائیداد کی دیکھ بھال کرنا۔

نقبت: سر چغل خوری۔

نقبت نفثلة الشیخ: بوڑھے آدمی کا خاک اڑاتے ہوئے چلنا۔

نقبت (ف) نقبتا و انتقبت العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔ الجذع: تنہ کی گریں پھیل کر صاف کرنا۔ الشی: چھیلنا اور خالص کوری سے جدا کرنا۔

نقبت و انتقبت الکلام: اصلاح کرنا۔ درست کرنا۔ نقبت السنون الرجل: کمزور کر دینا و انتقبت الرجل: خطا یا فخر کی وجہ سے تلوار کی زیبائش اتار لینا۔

نقبت شحمة: چربی کم ہونا۔

انتقبت العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔

انتقبت: سر گری کے زمانے کا سفید پادل۔

النقبت: خالص ریت۔

نقاب ڈالنے والی عورت۔ عجز کہا جاتا ہے۔ ان علیہ نقبة من کذا۔ اس کے اوپر یقیناً فلاں چیز کا اثر ہے۔

النقبۃ: ابتدائی خارش۔ زنگ۔ رنگ۔ چہرہ۔ سوراخ۔ ایک قسم کا کپڑا جو پانچامہ کی مانند باندھا جاتا ہے۔ نقب: کان (جمع ہے اس کا واحد نہیں)۔

النقاب: بڑا عالم۔ عورت کے منہ ڈھانکنے کا کپڑا۔ سخت زمین کا راستہ۔ پیٹ اور

فخری خان فی نقاب: ضرب المثل ہے ان دو شخصوں کے حق میں بولا جاتا ہے جو شکل و

شہادت میں مشابہ ہوں اور کہا جاتا ہے "لقینتہ نقاباً"۔ یعنی میں اس سے رو در رو ملا یا بغیر عمدہ کے ملا۔ ووردت الماء نقاباً: میں پانی پر اچانک بغیر تلاش کے پہنچ گیا۔

النقاب: فہم: ایک بیماری کا نام جو دیر تک سونے سے پیدا ہوتی ہے اور یا اس زخم کو کہتے ہیں جو پہلو میں ہوتا ہے اور اس کا منہ جوف کی جانب اندر کو ہوتا ہے۔

النقابۃ: ناقب: مذکورہ بالا زخم۔

النقاب: کاموں میں گھنے والا۔ کاموں کو بہت دریافت کرنے والا۔

النقب: قوم کا گواہ۔ قوم کا ضامن۔ قوم کا چودھری و سردار۔ نقبت الاشراف عند المسلمین: لوگوں کے احوال کی تفتیش کرنے والا۔ نقباء النقب: بانسری۔ ترازو کی زبان۔ چھدا ہوا۔ سکت نقبت: کتاب جس کے گلے میں سوراخ کر دیا گیا ہو تاکہ اس کی آواز پست ہو جائے اور ایسا جیل آدمی کرتا ہے تاکہ کتے کی آواز سن کر مہمان نہ آجائیں اور کھانا دینا پڑے۔

النقبۃ: مؤنث النقب: نفس۔ عقل۔ طبیعت۔ مشورہ۔ رائے کا نفاذ۔ کہا جاتا ہے

فلان منمون النقبۃ: فلاں پاک نفس ہے۔

المنقب: جانور کے پیٹ میں سوراخ کرنے کی جگہ۔

المنقب: پہاڑی راستہ۔ مناقب

نقب (ن) نقبا الحائط: دیوار میں سوراخ کرنا الحف: موزے میں پوند لگانا لان فی الارض: جاننن الاخبار: کھود کرید کرنا یا خبر دینا۔ الثوب: بغیر نیفہ کے پانچامہ بنانا۔

الفرس: کھوڑے کا دوڑنے میں ٹانگیں اکٹھی کرنا اور کہا جاتا ہے "نقبت النقبۃ فلاں"۔

فلاں کو تکلیف پہنچی۔

نقب (س) نقبا الحف الملبوس: پہنے ہوئے موزے کا پھنا ہوا ہونا۔ العین: اونٹ کا گھسے ہوئے کھر والا ہونا۔ الرجل: پہاڑی راستوں میں چلنا۔ فی البلاد: سیر کرنا۔ ملکوں میں جانا۔

نقب (س) نقبا و نقب (ک) نقابة علی القوم: سردار قوم ہونا۔ نقابة او نقابة یا تو مصدر ہیں اور یا نقابة بالکسر اسم ہے اور نقابة بافتح مصدر ہے)۔

نقب فی الارض: بھاگتے ہوئے ملک میں گھسنا۔ عن الشی: خوب اچھی طرح کھود کرید کرنا۔

نقابة نقابا و مناقبۃ: مناقب پر فخر کرنا۔

نقابة نقابا: زور زور ملنا یا بغیر عمدہ کے ملنا۔ اور کہا جاتا ہے "وردت الماء نقابا" میں پانی پر بغیر تلاش کے پہنچ گیا۔

النقب فی الارض: ملک میں چلنا العین: گھسے ہوئے کھر والا ہونا۔ الرجل: قوم کا سردار بننا۔ فلاں: گھسے ہوئے کھر والے اونٹ کا مالک ہونا۔

تنقب عن الشی: تفتیش میں مبالغہ کرنا۔

تنقبت و انتقبت المرأة: عورت کا نقاب ڈالنا۔

النقب: سر۔ سوراخ۔ پہلو کا زخم (و النقب) پہاڑی راستہ ج نقاب و انقاب نقب العین: موتی بند کا علاج۔

النقب و النقب و النقب: کھلی۔

النقبۃ: نقاب ڈالنے کی نیت۔ کہا جاتا ہے "امرأة حسنة النقبۃ" عمدہ طریقے سے

التفنيح. من ظهرو. معنی کے ساتھ الفاظ کا اختصار۔

نَقَحَهُ (ف) نَقَحًا. مارنا. نَقَحَ دِمَاعُهُ: تَوَزَّنا۔

اِنْتَقَحَ الْمُخَّ مِنْ الْعَظْمِ: بڑی سے گودا نکالنا۔

النَّقَاحُ: مٹھرا صاف پانی۔ نیند۔ آرام۔ اسن۔ وَنَقَّاحٌ كَمَلٌ شَيْءٌ: خالص۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا نَقَّاحُ الْعَرَبِيَّةِ“ یہ خالص عربیت ہے۔

نَقَدَ (ن) نَقْدًا وَتَنَقَّدًا الدَّرَاهِمَ وَعَظِيمًا: پرکھنا الکلام: کلام کے عیوب و محاسن کو ظاہر کرنا۔ نَقَدَ فَلَانًا وَفَلَانِ السَّمَنِ: نقد ادا کرنا۔ نَقَدَهُ ذِهْنًا: دینا الطَّائِرُ الْفَخَّ او الْحَبَّ: چوچ مارنا۔ الرَّجُلُ الشَّيْءَ وَالْمَا الشَّيْءَ بِنَظَرِهِ: چکے چکے نظر ڈالنا۔ چکے چکے گھورتا نقدتہ الحیة: سانپ کا ڈنبا۔

نَقَدَ (س) نَقْدًا الصَّرْسُ او الْقُرْنَ: دانت یا سنگ کا ٹوٹنا۔ کرم خوردہ ہونا۔ صفت نَقَدَ الْحَافِرُ: کھر کا چھل جانا الجذع: تنہ کا کیڑوں کے کھانے سے کھوکھلا ہونا۔

اِنْقَدَ الشَّجَرُ: درخت میں نیچے ہونا۔ نَاقِدَةٌ مُنَاقِدَةٌ: کسی معاملہ میں جھگڑا کرنا۔ تَنَقَّدَ الدَّرَاهِمَ وَعَظِيمًا: دراہم وغیرہ پرکھنا۔

تَنَقَّدَ الدَّرَاهِمَ: دراہم پرکھنا اور کھونا علیحدہ کرنا۔

اِنْتَقَدَ الدَّرَاهِمَ: نقد وصول کرنا۔ کھونا علیحدہ کرنا الشَّعْرَ عَلِيَّ قَائِلِهِ: شعر کے عیوب ظاہر کرنا الکلام: کلام کی تنقید کرنا۔ عیوب و محاسن ظاہر کرنا اَلْاَرَضَةُ الْجَدْعُ: دیکھ کا کھوکھلا کرنا۔ اِنْتَقَدَ الْوَلَدُ: لڑکے کا جوان ہونا۔

النَّقْدُ: سہ قیمت جو فوراً ادا کی جائے۔ درہم۔ نَقْدَةٌ: کہا جاتا ہے ”ذِهْمٌ نَقْدٌ“ عمدہ کھرا درہم۔ النَّقْدَانُ: چاندی و سونا۔

النَّقْدُ وَالنَّقْدُ: کم گوشت والا۔ دیر سے جوان ہونے والا۔

النَّقْدُ: سہ۔ بھیزوں کی ایک قسم جن کی ٹانگیں چھوٹی اور چہرہ بد شکل ہوتا ہے۔ واحد نَقْدَةٌ مذکر و مؤنث دونوں کیلئے نَقَادٌ و نَقَادَةٌ. النَقْدُ: کہنے لوگ۔ النَقْدُ مِنَ الصَّيْبَانِ: حقیر و ذلیل بچہ کہ جس پر جوانی کا اثر ظاہر نہ ہو۔ النَقْدُ وَالنَّقْدُ: ایک قسم کا درخت و اصل نَقْدَةٌ وَنَقْدَةٌ.

النَّاقِدُ: فاج نَقْدَةٌ وَنَقَادٌ. اِنْقَدَ وَالاِنْقَادُ: سہی۔ اور امثال عرب سے ہے ”بَاتَ بَلْبِلٌ اِنْقَدًا“ یعنی وہ سویا نہیں اس لئے کہ سہی پوری رات نہیں سوتا۔

الْاِنْقَادُ وَالاِنْقَادَانُ: کچھوا۔ النَّقَادُ: دراہم وغیرہ کا پرکھنے والا۔ رَاعِي النَّقْدِ (چھوٹی ٹانگ والی بھیز کا چرواہا) مِّنْقَادِ الطَّائِرِ: پرندے کی چوچ کا مٹھنا قید۔ الْمُتَنَقِّدُ: مصدر سہی معنی انتقاد۔

نَقَدَ (ن) نَقْدًا وَنَقْدًا وَنَقْدًا فَلَانًا مِنْ كَذَا: نجات دینا۔ چھڑانا۔

تَنَقَّدَهُ وَاسْتَنَقَّدَهُ: مِنْ كَذَا: نجات دینا۔ چھڑانا۔

نَقَدَ (س) نَقْدًا: نجات پانا۔ النَّقْدُ: سہ۔ سلامتی۔ بھیلنے والے کی سلامتی کی دعا کے لئے کہا جاتا ہے ”نَقْدًا لَكَ“ اور اس کی اصل ”نَقْدَكَ اللَّهُ نَقْدًا“ ہے یعنی اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔

النَّقْدُ: سہ۔ چھڑایا ہوا۔ اور کہا جاتا ہے ”مَالَةٌ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ“ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ النَّقِيدُ: دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا ہوا۔ النَّقِيدَةُ: دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا ہوا جیسے گھوڑا زردہ وغیرہ۔ تَنَقَّيْدُ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ نَقِيدَةٌ بُوْسٌ“ وہ حتی سے چھڑایا ہوا ہے۔

الْاِنْقَادُ: سہی۔ نَقْرَةٌ (ن) نَقْرًا: مارنا۔ نَقْرَ الْعُوْدَ او الدَّفَّ: برہٹ یا دف بجانا فَلَانًا: عیب لگانا

الشَّيْءَ چوچ سے سوراخ کرنا الطَّائِرُ الْبَيْضَةُ عَنِ الْفَرَّخِ: پرندہ کا بچہ نکالنے کیلئے اٹھنے میں سوراخ کرنا۔ نَقْرٌ فِي الْحَجَرِ: پتھر پر کھسائی النَّاوِرُ: بگل میں پھولنا الطَّائِرُ الْحَبَّ: پرندہ کا ادھر ادھر سے دانہ چکنا الْحَجَرُ او الخَشَبُ: کڑوی یا پتھر کھودنا۔

نَقَرَتِ الْحَيْلُ بِحَوَافِرِهَا: گھوڑوں کا کھروں سے کھودنا۔ نَقَرٌ عَنِ الْأَمْرِ: چھان بین کرنا۔ نَقَرُ فَلَانٍ: چمکی بجانا۔ زبان کو تالو سے لگا کر آواز نکالنا۔ نَقَرْتُ بِالرَّجُلِ: قوم میں سے علیحدہ بلانا۔ نَقَرُ السَّهْمِ الْهَدَفَ: تیر کا نشانہ پر لگنا اور پار نہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے ”رَمَى الرَّامِيَ الْعَرَضَ فَنَقَرَهُ“ تیر پھینکنے والے نے نشانہ پر تیر لگایا۔

نَقَرُ (س) نَقْرًا عَلَيَّ فَلَانٌ: غضبناک ہونا۔ نَقَرْتُ الشَّأْءَ: قرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرُ فَلَانٍ: قہر ہونا۔

نَقَرُ الطَّائِرِ فِي الْمَوْضِعِ: اٹھنے دینے کیلئے نرم کرنا۔ نَقْرًا بِاسْمِ فَلَانٍ: جماعت کے درمیان نام لے کر پکارنا الشَّيْءَ وَعَنِ الشَّيْءِ: چھان بین کرنا عَلَيَّ فَلَانٍ: عیب لگانا۔ اور بُرِي معلوم ہونے والی باتوں کا ذکر کرنا۔

الطَّائِرُ الْحَبَّ: پرندہ کا ادھر ادھر سے دانہ چکنا (شہد پر مالٹو کیلئے ہے) نَاقِرَةٌ مُنَاقِرَةٌ وَنَقَارًا: گنگلو میں لوٹ پھیر کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمْ مُنَاقِرَةٌ“ ان کے درمیان جھگڑا ہے۔

اِنْقَرَّ عَنْهُ: رُكنا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرْبُهُ فَمَا اِنْقَرَّ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْتَهُ“ اس نے اسے مارا اور نہیں رکا یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ وَاِنْقَرَّ الرَّجُلُ: گنگلا کر آواز نکالنا۔ چمکی بجانا۔ نَقَرُ الشَّيْءِ: چھان بین کرنا عَلَيَّ الْاَهْلِ وَالْمَالِ: بددعا کرنا۔ اور اَزَّ اَحْتِي اللّٰهُ مِنْكُمْ وَذَهَبَ اللّٰهُ بِمَا لَكُمْ (اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے راحت دیں اور تمہارے مال کو ضائع کر دیں) کہا۔

اِنْتَقَرَهُ: پسند کرنا۔ اِنْتَقَرُ الشَّيْءِ: چھان بین

موزہ کی نوک منقار الدجاجہ و منقار الغراب: دو ستاروں کے نام۔ و منقار الغراب: موٹھے کی ایک بڑی جس کو آخرم بھی کہتے ہیں۔

نقرۃ نقرۃ فی المكان: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا لَكَ مُنْقِرًا“ کوئی تمہارے لئے ٹھہرانے والا نہیں۔

النقرس: پیر کے جوڑوں کا آنا۔ ہلاکت۔ بڑی مصیبت۔ ماہر ہنما۔ طیب حاذق۔ گلاب کے پھول جیسی ایک چیز جس کو عورتیں بنا کر سر میں لگاتی ہیں ج نقراس۔

النقرس: ماہر ہنما۔ طیب حاذق۔

نقر (ن ض) نقرًا و نقرًا و نقرًا الطیبی: ہرن کا کودنا۔ چٹانگ مانا۔ صفت نافر: نقرۃ عنہم: دغ کرنا۔ ہنانا۔

نقرت الصبی أمہ: سچے کا اچھا نال۔ نقر فلان: کودنا۔

انقر الرجل: ہمیشہ صاف اور بیٹھاپانی پینا۔ ردی مال جمع کرنا۔ نقران کی بیماری والے جانوروں والا ہونا۔ انقر عدوہ: دشمن کو فوراً قتل کر دینا۔ عین الشی: رکنا۔ باز ہنما۔

انقرت الشاة: نقران کی بیماری والی ہونا۔ انقر فلان فلان من مالہ: ردی مال دینا۔ انقر فلان شر الابل: کسی کیلئے بُرے اونٹ پسند کرنا۔ کہا جاتا ہے عطاء نافر و ذو نافر: گھٹیاطیہ۔

النقارة: الناقور کا موٹ۔ ج نواقر۔ نواقر الدابة: چوپایہ کی ٹانگیں۔

النقار بالصم: طاعون کے مشابہ جانوروں کا ایک مرض۔

النقر: خسیں مال۔ گھٹیاطیہ کے لوگ۔

النقر: کنواں۔

النقر: لقب۔

النقر: لقب گھٹیا مال ارضیل اور ادنیٰ درجہ کے لوگ واحد نقر۔

النقر: صاف بیٹھاپانی۔

النقار والنقار: ایک قسم کا پرندہ۔ چڑیوں

بھی فائدہ نہیں دیا۔ اور یہ ہمیشہ نفی کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے۔

النقرة: گنگو میں لوٹ پھیر۔ اور جھگڑا۔

النقرة: جھوننا گول گڑھا۔ چاندی سونے کا گھلایا ہوا گول۔ آنکھ کا گڑھا۔ سرین کے وسط کا گڑھا۔ گردن کے پچھلے حصے کا گڑھا۔ پرندہ کے اٹنے دینے کی جگہ۔ بھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔ ج نقر و نقرًا۔

النقرة: النقر کا موٹ۔ پست زمین میں بلند جگہ۔

النقرة: ایک قسم کی بیماری ہے جو سبکی اور گایوں کی ٹانگ میں لاحق ہوتی ہے۔

النقار اسم مبالغہ۔ امور اور خبروں کی چھان بین کرنے والا۔ پتھر یا لکڑی میں کھدائی کا کام کرنے والا۔ رکاب بالگام میں نقش و نگار کرنے والا۔ اس کے پیش کو النقرة کہتے ہیں۔

النقار: ایک جھوننا سا پرندہ جو درختوں پر چڑھ جاتا ہے اور سوراخ کر کے کیڑے نکالتا ہے۔

النقارة: النقار کا موٹ۔

النقیر: آواز۔ بھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔ کھدا ہوا پتھر یا لکڑی۔ تہ جس کو کھود کر سیرھی جیسی بناتے ہیں۔ لکڑی کی جڑ جس کو کھود کر اس میں نیبڈ بناتے ہیں اور اس کی نیبڈ تیز و تند ہوتی ہے۔

النقیر: اصلیت کہا جاتا ہے ”فلان کوریم النقیور“ فلان شریف الاصل ہے۔ بہت محتاج ایک کالے رنگ کی کبھی۔ ج انقرۃ۔

النقیرۃ: جھوٹی کس۔

الانقور: بھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔

التنقیر: سر۔ سیٹی بجانے کے مشابہ آواز۔

المنقار: کدال۔ جھین۔ ج مناقر۔

المُنقر والمُنقر: شراب بنانے کیلئے لکڑی کا کھدا ہوا برتن۔ ج مناقیر (خلاف قیاس) تنگ منہ کا کنواں یا بہت پانی والا گہرا کنواں حوض۔

المُنقر: بہت کھنا دودھ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مُنْقِرُ الْعَيْنِ وَ مُنْقِرُهَا“ وہ دھنسی ہوئی آنکھ والا ہے۔

المنقار: کدال۔ چونچ۔ المنقار: چرمی

کرنا۔ انقَرَهُ و انقَرَبَ بہ: قوم کے درمیان سے علیحدہ بلانا القوم و بالقوم: خاص خاص لوگوں کو بلانا۔ انقَرَت الخیل بحوافرها نقرًا: کھروں سے کھودنا۔ انقَرَت السبیل نقرًا: سیلاب کا گڑھے کر دینا۔ انقَر الشی: لکھنا۔

الناقِر: فاد نشان پر لگنے والا تیر۔ ج نواقِر۔ الناقِرۃ الناقِر کا موٹ۔ مصیبت۔ درست دلیل۔ ج نواقِر اور کہا جاتا ہے ”اتیننی عنہ نواقِر“ اس سے مجھے تکلیف دہ باتیں پہنچیں۔

”و اخطأت نواقِرہ“ یعنی وہ راہ راست پر مستقیم نہیں رہا۔ ”و بینہم ناقِرۃ و نقرۃ“ ان کے درمیان جھگڑا ہے۔

الناقور: قومہ صوریا نکل۔ دل۔ ج نواقیر۔

النقارة: پتھر پر لکھے سے جو باقی رہ جائے۔

چونچ ہجر۔ اور کہا جاتا ہے ”مَا تَرَكَ عِنْدِي نَقَارَةً إِلَّا انقَرَّهَا“ میرے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ لکھ لیا۔

النقر: سر۔ چنگی کی آواز۔ پتھر کی کتابت۔

النقر: بھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔

النقر: غضبناک۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ نَقْرٌ عَلَیْكَ“ وہ تمہارے اوپر غضبناک ہے۔ نقرہ کی بیماری میں جٹلا۔ اور کہا جاتا ہے ”مَا لَهُ بِمَوْضِعٍ كَذَا نَقْرٌ“ اس کے لئے فلاں جگہ میں پالی یا نواں نہیں ہے۔ النقر: سر۔ کہا جاتا ہے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَقْرِ وَالنَّقْرِ“ میں

لچاپن اور ضیاع مال سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ النقری: عیب۔ اور یہ نقر فعل کا اسم ہے اور کہا جاتا ہے ”دَعَوْهُمْ النَقْرَی“ میں نے ان لوگوں کو خاص طور سے بلایا۔ اور اس کے مقابلے میں ”الجعفی“ ہے جس کے معنی دعوت عامہ کے ہیں ”ننأت النقری“ وہ عورتیں جو ہر اس شخص کی عیب جوئی کریں جو ان کے سامنے سے گزرے۔

النقرة: نقر کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَتَانَهُ نَقْرَةٌ“ اس نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا ”وَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي نَقْرَةٌ“ اس نے مجھ کو کچھ

کے کچے۔ نقافیز۔ نقافیز کی بیماری والا۔ مونث المنقوز۔ نقاز۔ منقوزة۔

نقس (ن) نقسا۔ النفوس بالخسبة: کلزی سے ناقوس بجانا النفوس: ناقوس بجنا المرأة: جماع کرنا۔

نقس (ن) نقوسا۔ الشراب: کھانا ہونا۔ بین القوم: فساد والا۔

نقسه (س) نقسها عیب لگانا۔ تمسخر کرنا۔ نقست نفسه کھلی آنا۔

نقس فلانا: لقب دینا لذوابة: دوات میں روشنائی ڈالنا۔ نقسهم بناقوسبه: ناقوس بجنا کر لوگوں کو بلانا۔

ناقسه عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "بینهما مناقسة و مناقسة" ان کے درمیان مفاخرت اور عیب گیری ہے۔

انتقس ناقوس بجانا۔

الناقس فا کھنا۔ کہا جاتا ہے "البن ناقس او شراب ناقس" کھانا دودھ یا کھٹی شراب۔

النفس ایک قسم کا ناقوس۔ کھلی۔ نقس رجل نقس لوگوں کی عیب گیری کرنے والا اور لقب رکھنے والا مرد۔

النفس روشنائی۔ نقفاس و انفس۔

الانفس باندی کچے۔ کھلی والا۔

النفس ایک قسم کی نباتات۔

الناقوس کلزی یا لوہے کا بڑا کلزا جس کو چھوٹے کلزے سے بجاتے ہیں اور کبھی گھنٹہ کے لئے ناقوس کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔

النقاسة لقب دینا۔

نقش (ن) نقشا الشئ مختلف رنگوں سے نقش و نگار کرنا اور مزین کرنا۔ العذوق: کھجور کے خوشہ کو پکانے کیلئے کانٹوں سے مارنا

الشوكة من رحله: بچہ سے کاشا نکالنا

مریض الغنم: بمری کے بازو کو کنگرا کاٹنے وغیرہ سے پال صاف کرنا۔ عن الشئ منی نہایت وضاحت کرنا۔ الغنم: الغنم

کے بھیند پر نقش کرنا۔ الشعر بالمنقاش: محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پال کو مونچے سے اکھیرنا۔ الرحی: کچی کے دندانے بنانا الجارية: جماع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "ما نقش منه شئنا" اس نے اس میں سے کچھ نہیں پایا۔

نقش الشئ: مختلف رنگوں سے نقش و نگار کرنا۔

ناقسه الحساب و فی الحساب: حساب کی تفصیل کھنی سے لینا۔ ناقش فلانا: بھگڑا کرنا۔

انقش علی غیرہ: مقروض سے پورا وصول کر لینا۔ نقس کے کھانے پر مداومت کرنا۔ (دیکھئے لفظ نقش)

تنقش جميع حقہ من فلان: سارا وصول کر لینا چونکہ چھوڑنا۔

انتقش الشوكة: کاشا بچہ سے نکالنا۔ اور بھی انتقاش تو یہ کیلئے بطور استعارہ کے مستعمل ہوتا ہے الشئ نکالنا۔

جميع حقہ: سارا حق وصول کر لینا چونکہ نہ چھوڑنا۔ انتقش فلانا: پسند کرنا۔ تم کہتے ہو "انتقشني هكذا" میں نے تم کو فلاں چیز کیلئے منتخب کیا و انتقش لنفسه خادما او غيره اس نے اپنے لئے خادم وغیرہ بنایا۔

انتقش فلان: بھیند پر کندہ کرنے کا حکم دینا علی فصدہ کذا: نقش کئے جانے کا حکم دینا۔

النقاسة: نقش و نگار کا پیشہ۔

النقش: سر زمین میں نشان۔ نقش و نگار از قسم تصویر و تیل بوڑ۔ نقفوش: النقش: خشک کھجور جس کو توشہ دان میں رکھ کر پانی ڈالیں۔ کہا جاتا ہے "ذام علی اخل

النقش" اس نے نقش کے کھانے پر مداومت کی۔

النقاش: نقش و نگار کرنے والا۔

النقش برتن میں متفرق سامان۔ نظیر۔ کہا جاتا ہے "ماله نقیش" اس کی کوئی نظیر نہیں۔

النقش و النقاش: نقش و نگار کرنے کا

النقش و المنقاش: نقش و نگار کرنے کا

آلہ۔ مویچا۔ مناقش و مناقیش: کہا

جاتا ہے "ما نقش" اس کی کوئی نظیر نہیں۔

النقش و المنقاش: نقش و نگار کرنے کا

آلہ۔ مویچا۔ مناقش و مناقیش: کہا

جاتا ہے "استخرجت حقی بالهناقیش" مجھے اپنے حق کے وصول میں کھن لائن ہوئی۔

المنقوش: منقوش۔ کچی کھجور جس کو پکنے کے لئے کاٹا جائے۔

الشجة المنقوشة والمنقوشة: زخم جس سے ہڈیاں نکالی جائیں۔

نقص (ن) نقصا و تنقصا و نقصانا الشئ: کم ہونا۔ نقصت الشئ: گھٹانا۔ نقصت زيدا حقہ: حق کم کر دینا

نقص (ک) نقاصة الماء: پانی بیٹھا و خوشگوار ہونا۔

نقص الشئ و انقصه گھٹانا۔

انقص الشئ: گھٹانا۔ عیب جوئی کرنا۔ انتقصه حقہ: حق کم کرنا۔

تنقص فلانا: مذمت کرنا۔ نقص کی نسبت کرنا۔ تھوڑا تھوڑا لینا۔

تنقص الشئ: آہستہ آہستہ گھٹانا۔

استنقص الثمن: قیمت گھٹانے کیلئے کہا۔ تھوڑا پانا۔ الرجل: نقصان کی نسبت کرنا۔

الناقص: درہم ناقص۔ کم وزن کا درہم ناقص۔

النقص: یہ ہے کہ نقصان کا استعمال دین اور عقل میں نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے "دخل عليه نقص في دينه وعقله او دخل عليه نقصان في دينه وعقله" نہیں کہا جاتا۔

النقصان: اس کا نقصان اتنا اور اتنا ہے۔

النقص: خوشگوار بیٹھا پانی۔ ہر عمدہ و خوشبودار چیز۔

النقيصة: عیب گیری۔ بڑی خصلت ج

نقصان: نقصان۔

النقاسة: ٹیڈر۔

النقصان: عیب گیری۔ بڑی خصلت ج

النقصان: عیب گیری۔ بڑی خصلت ج

النقصان: عیب گیری۔ بڑی خصلت ج

لگانا۔ نَقَطْتُ ثوبه بالمِدادِ او الزَّغْفَرانِ : کپڑے کو روشنائی یا زعفران سے بوٹی دار بنانا۔
 تَنْقَطُ الْمَكَانُ : گھاس کے متفرق قطعے ہونا
 فَلانُ الخَيْرِ : آہستہ آہستہ لینا۔
 تَنْقَطُ الخَيْرُ : آہستہ آہستہ میں نے روٹی کھائی۔
 الناقطُ : فاعلام کا غلام۔
 النقطةُ : نقط کا اسم مرہ۔
 النقطةُ : نقط۔ فل اشاب۔ ج نقاط و نقط : کہا جاتا ہے "نقاطٌ بو نقطٌ من الکلا" گھاس کے متفرق ٹکڑے۔ "وما اختلفوا في نقطه" یعنی انہوں نے پوری طرح موافقت کی۔ ذرا بھی مخالفت نہ کی۔
 نقطةُ الدائرة : دائرہ کا مرکز۔
 النقطةُ : غلام کا غلام۔
 المنقوطُ : من المنقوطِ من الشعرِ : شعر جس کے تمام حروف نقطے والے ہوں۔
 كتابٌ منقوطٌ : کتاب جس میں اعراب لگے ہوئے ہوں۔
 نَقَعَ (ف) كفعا : آواز بلند کرنا
 العجبُ : گریبان پھاڑنا فلانا : قتل کرنا
 ريقه : تھوک منہ میں جمع کرنا الموتُ : زیادہ ہونا فلانا بالشَّم : بہت بڑی گالی دینا
 بالشراب : شفا پانا الدواء وغيره في الماء : بھگوننا الرجلُ : مہمانوں کیلئے جانور ذبح کرنا۔
 نَقَعَ (ف) نقوعاً الصوتُ : آواز بلند ہونا
 الصارخُ بصوته : لگانا جلانا له الشرُّ : ہمیشہ کرنا من الماء و بہ صیراب ہونا
 السَّمُ في آثابِ الحيةِ : زہر کا ساپ کے دانتوں میں جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما نفعت بخبره" یعنی میں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔
 نَقَعَ (ف) نقعاً ونقوعاً الماء في بطنِ الوادي : پانی کا وادی میں جمع ہونا اور یر تک
 ظهر الماء العطشُ : پانی کا پیاس کو بھگانا۔
 أنقع الدواء وغيره في الماء : بھگوننا

جائے۔ ج ناقض و نقوض۔
 النقضُ : عمارت کا جو حصہ ٹوٹ جائے۔ ج ناقض و نقوض۔
 النقضُ : قومہ گشتی کا ایک بیج۔
 النقضُ : خیمہ یا کھیل جو اُدھیر کر دو بارہ کاٹا جائے۔
 النقضةُ : نقض کا اسم مرہ۔
 النقضةُ : نقض کا اسم نوع۔ کثرت سفر سے لاغر شدہ۔ کہا جاتا ہے ناقضة نقضة : ج ناقض۔
 النقاضُ : مخالف۔
 النقيضُ : مخالف۔ کہا جاتا ہے "فلانٌ هو نقيضك" فلاں تمہارا مخالف ہے۔ مؤنث نقیضة النقيض من الادمم والرحل والوتر والاصابع والاصابع والمفاصل ونحوها : برعکس۔ مخالف۔ آواز النقيض : چوزے ا بچھو مینڈک عقاب اشتر مرغ کی آواز۔ نقیض السقف : چھت کی چڑچڑاہٹ۔ نقیض كل شئ : ہر چیز کا رُف۔ مثلاً جب ہم کہیں کہ "كل انسان حيوان بالضرورة" تو اس کی نقیض انہ ليس كذلك ہوگی۔
 النقيضان : دو چیزیں جن کا اجتماع ایک ہی جہت سے ممکن ہو جیسے ایجاب و سلب۔
 النقيضةُ : پہاڑی راستہ۔ اسم ہے مناقضة کا والنقيضة في الشعر : نظم جو کسی نظم کے جواب میں ہو۔ کہا جاتا ہے "هذه القصيدة نقیضة قصيدة فلان" یہ قصیدہ فلاں کے قصیدہ کے جواب میں ہے اور اسی سے ہے مناقض جزیر و فردق۔
 النناقضُ : س۔ باہم مخالف ہونا۔ کہا جاتا ہے "في كلامه تناقض" یعنی اس کے کلام میں تخالف ہے۔ بعض کا بعض سے ابطال ہو جاتا ہے۔
 نقط (ن) نقطاً الحرف : حرف پر نقطے لگانا۔ صفت فاعلی نقاط اور صفت معولی منقوط (و نقط) به الزمان : زمانہ کا موافق ہونا۔ نقط الحرف : حرف پر نقطے

المنقصة۔ کی۔ نقصان۔ ج مناقص۔
 نقض (ن) نقضاً البناء : عمارت ڈھانا
 العظم : بڑی توڑنا۔ الحبل : رستی کھولنا
 العهد أو الأمر : مضبوطی کے بعد خراب کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "نقض فلان وثرة" یعنی فلاں نے اپنا بدلہ لے لیا۔
 نقض (ن ض) نقضاً المفصل أو الأديم ونحوهما : جوڑیا چوزے کا تڑتڑ کرنا۔
 ناقض مناقضة و ناقصاً قوله الثاني قوله الأول : مخالف ہونا۔
 انقضت العقاب : عقاب کا آواز ٹکانا۔
 انقض أصابعه : انگلیاں پھاڑنا کماة وعن الكماة : ساپ کی چھتری کو زمین سے ٹکانا
 بالمغز : بکری کو بلانا الحبل الظهر : بوجھل کرنا و نقض الكتم : ساپ کی چھتری کا زمین کو پھاڑنا۔ و نقض الأرض : مٹی علیحدہ کر دینا۔
 تنقض الدم : خون ٹپکانا الجرح : زخم سے خون بہنا الحبل : رستی کا کھل جانا لیت : تڑکانا۔ تنقضت عظامه : ہڈیوں سے آواز ٹکانا الأرض عن الكماة : زمین کا پھٹنا۔
 تناقض البناء أو الحبل : عمارت کا تڑکانا یا رستی کا کھلنا القولان : ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ تناقضا البيع : بیج کو باہم توڑنا۔
 انقض البناء : عمارت کا تڑکانا الحبل : رستی کھلنا الجرح بعد برئه : زخم کا خراب ہونا الأمر بعد التمامه : فاسد ہونا۔ بگڑنا۔
 انقضت الطهارة : طہارت کا زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "انقض عليه البذر" یعنی شہر والوں نے بغاوت کی۔
 النقاصة : مٹی ہوئی رستی کا جو حصہ کھول دیا جائے۔
 النقضُ : س۔ مفاعلتن کا سا تو اس حرف حذف کرنا اور پانچویں کو ساکن کرنا۔
 النقضُ : عمارت۔ ملہ۔ کثرت سفر سے لاغر شدہ۔ خیمہ یا کھیل جو اُدھیر کر دو بارہ کاٹا جائے۔
 زمین کی باریک تہ جو ساپ کی چھتری سے پھٹ

الصَّارِخُ بِصَوْتِهِ: كَأَنَّ جَلَاتِ الْمَاءِ فَلَانًا: سیراب کرنا الماء: زرد ہونا اور رنگ بدل جانا الرَّجُلُ: مہمانی کیلئے جانور ذبح کرنا الْحَيَّةُ السَّمُّ فِي أَنْبَابِهَا: شائب کا زہر کو اپنے دانتوں میں جمع کرنا فَلَانٌ شَرًّا: دل میں چھپانا الْمَيِّتُ: میت کو دفن کرنا الْعَطَشُ: پیاس کا بچھنا۔

إِنْتَقَعَ النَّقِيعَةَ: مہمانی کے لئے جانور ذبح کرنا الْقَوْمُ نَقِيعَةٌ: تقسیم سے پہلے مال غنیمت کے کسی جانور کو ذبح کرنا۔
أَنْتَقَعَ لُونُهُ: غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے چہرہ کا رنگ بدل جانا۔

اسْتَنْقَعَ الصَّوْتُ: آواز بلند ہونا الماء: پانی کا زرد اور متغیر ہونا۔ فَلَانٌ فِي النَّهْرِ: نہر میں داخل ہونا اور ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے دیر تک ٹھہرنا۔ الماء فِي الْعَدْبِيِّ: پانی کا تالاب میں جمع ہونا۔

أَسْتَنْقَعَ لُونُهُ: رنگ بدل جانا۔ الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: بھگولیا جانا۔

النَّاقِعُ: فَا سَمَّ نَاقِعٌ: زہر قاتل۔ دَوَاءٌ نَاقِعٌ: مفید دوا۔ دَمٌ نَاقِعٌ: تازہ خون۔

النَّقِيعُ: سر جمع شدہ پانی۔ نِ نِ أَنْقَعَ النَّقِيعُ غِمَارًا: نِ نِ نَقَاعٌ وَنُقُوعٌ: والنَّقِيعُ: مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ کا نام۔ سکستانی زمین جس میں پانی جمع ہو۔ نرم و ہموار زمین۔ پانی رکنے کی جگہ نِ نَقَاعٌ وَأَنْقَعَ: نَفْعُ الْبِنْرِ: پانی جو کنوئیں میں جمع ہو۔ کنوئیں کے پانی کی زیادتی۔
النَّقَاعُ: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔
النَّقَاعَةُ: پانی وغیرہ جس میں کوئی چیز بھگوئی جائے۔

النَّقَاعَاءُ: نرم و ہموار زمین۔ سکستانی زمین جس میں پانی جمع ہو۔ غِمَارًا: آواز۔ نِ نَقَاعٌ: النَّقَاعُ: اسم مہالہ۔ ایسے فضائل کا دعویٰ کرنے والا جو اس کے اندر نہ ہوں۔

النَّقُوعُ: رنگ کہ جس میں خوشبو پڑی ہوئی ہو۔ بیٹھا ٹھنڈا پانی۔ وہ چیز جو پانی میں بھگوئی جائے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ نَقُوعٌ أَدْنُ"

فلاں ہر چیز تسلیم کر لیتا ہے۔

النَّقِيعُ: خشک انگور کی شراب جو پانی میں بھگو کر بنائی جائے۔ ہر وہ چیز جس میں خشک کھجور بھگوئی جائے۔ ٹھنڈا بیٹھا پانی۔ بہت پانی والا کنواں۔ نِ أَنْقَعَةً: حججہ مرد جس کی ماں غیر قوم کی ہو۔ دَوَاءٌ نَقِيعٌ: مفید دوا۔

النَّقِيعَةُ: کھانا جو سفر سے واپس آنے والے کیلئے تیار کیا جائے۔ جانور جو مہمانی کے لئے ذبح کیا جائے۔ نِ نَقَاعٌ اور اسی سے ہے "النَّاسُ نَقَاعُ الْمَوْتِ" یعنی موت نے لوگوں کو ذبح کر دیا۔

الْأَنْقَعُ: اسم تفضیل۔ زیادہ پیاس بچھانے والا اور اسی سے مثال ہے "الرَّشْفُ أَنْقَعٌ" یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا پیاس کیلئے زیادہ بچھانے والا ہوتا ہے۔ جلد بازی کے ترک کی مثال دی جاتی ہے۔

الْأَنْقُوعَةُ: ہر ایسی جگہ جہاں پانی بہہ کر آئے "الْأَنْقُوعَةُ الْمَيِّزَابُ" پر نالے میں پانی بہنے کی جگہ۔

الْمُسْتَنْقَعُ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تالاب کی وہ جگہ جہاں پانی میں گھس کر آدمی غسل کرے۔

الْمُنْقَعُ: سمندر۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ پانی سے سیرابی۔ نِ مَنَاقِعُ: المُنْقَعُ: برتن جس میں کوئی چیز بھگوئی جائے۔

الْمُنْقَعُ: مکا۔ پتھر کا چھوٹا برتن۔ ہر وہ چیز جو بھگوئی جائے۔ خالص دودھ کہ جس کو ٹھنڈا کریں اور پیئیں۔ سَمَّ مُنْقَعٌ: زہر جس میں اور زہر ملا کر قوت بڑھادی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مُنْقَعٌ" فلاں کی رائے سے تسلی ہوئی ہے۔

الْمُنْقَعُ: چھوٹی ہانڈی جس میں دودھ، کھجور ڈالتے ہیں اور پتھر کو کھلاتے ہیں۔

الْمُنْقَعَةُ: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن (وَالْمُنْقَعَةُ) بمعنی مُنْقَعٌ

نَقْفٌ (ن) نَقْفًا هَامَةً الرَّجُلِ: کھوپڑی

تُوِّدُنَا فَلَانًا: بالکل ضرب مارنا الْفَرُخُ الْبَيْضَةُ: پرندے کے بچے کا اٹھنے میں سوراخ کر کے نکالنا۔ الرُّمَانَةُ: انار جمیل کر دانے نکالنا الْحَنْظَلُ وَنَحْوُهُ: اندرائن توڑ کر دانہ نکالنا۔ صفت فاعلی ناقف اور صفت مفعولی

نَقِيفٌ وَنَقِيفٌ الشَّرَابُ: صاف کرنا اور بقول بعض مَلَانًا عَنِ الشَّيْءِ: کھود کر پید کرنا۔ نَقْفُهُ بظْفَرِهِ: ناخن سے مارنا۔

نَاقِفُهُ مَنَاقِفَةٌ وَنَاقِفًا سِرًّا لَتَوَارِمَانَا: أَنْقَفَ الْجَرَادُ الْوَادِيَّ: اٹھدوں سے بھردینا فَلَانًا الْعَظْمُ: ہڈی سے مغز نکالنے کیلئے دینا وَ تَنْقَفُ الْحَنْظَلِ: دانہ نکالنے کیلئے اندرائن توڑنا۔

أَنْتَقَفَ الشَّيْءُ: نکالنا الْحَنْظَلُ: دانہ نکالنے کے لئے اندرائن توڑنا۔

رَجُلٌ نَقَافٌ: دور اندیش مرد۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فِي نَقَافٍ وَاحِدٌ" وہ دونوں برابر برابر آئے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور نَقَافٌ اصل میں ان دو بچوں کو کہتے ہیں جو ایک ہی اٹھنے سے نکلیں۔ اور کہا جاتا ہے "الْيَوْمَ قِحَافٌ وَعَدَا نَقَافٌ" آج شراب نوشی کا دن ہے اور کل معاملہ ہے۔

النِّقْفُ وَالنَّقْفُ: بچہ جس وقت نہ اٹھے سے نکلے۔

النَّقْفَةُ: پہاڑ کی چوٹی یا ٹیلہ پر چھوٹا سا گڑھا۔ النَّقَافُ: اصرار کے ساتھ سوال کرنے والا۔ سوال کرنے میں حریص۔ لکڑی کا بہت چھیلنے والا۔ رَجُلٌ نَقَافٌ: مرد دور اندیش۔

النَّقَافَةُ: سوال کرنے میں حریص۔ النَّقِيفُ: تہہ جس کو دیکھنے کا لیا ہوا ج نَقْفٌ

النَّقِيفُ: پرندے کی چونچ۔ ایک قسم کی کوڑی۔

الْمُنْقُوفُ: مٹا۔ زرد رُو۔ ڈبلا پتلا۔ کمزور جَدُّعٌ مُنْقُوفٌ: دیمک خوردہ تہہ۔ عَيْنَانِ مُنْقُوفَتَانِ: سرخ آنکھیں۔

نَقْلٌ (ن) نَقْلًا الشَّيْءُ: ایک جگہ سے

گھوڑا
الْمُنْقَلِ. پہاڑی راستہ۔ مختصر راستہ۔ پرانا جوتا
یا پرانا چرمی موزہ
الْمَنْقَلَةُ. سفر کے منازل میں سے ایک
منزل۔ گھلا جو اونٹ کے کمر میں لگایا جائے۔
أَرْضٌ مَنْقَلَةٌ. چھوٹے چھوٹے پتھروں والی
زمین۔

الْمِنْقَلَةُ. نقل مکانی کا آلہ۔ ج مناقل
والمِنْقَلَةُ عِنْدَ الْمَوْلَدِينَ. ایک قسم کا کھیل
ہے جو ایک لمبی لکڑی سے بناتے ہیں اور اس میں
چودہ گڑھے دو صف میں بناتے ہیں اور ہر
گڑھے میں سات سات کنگریاں ڈالتے ہیں اور
پھر اس کو گھماتے ہیں۔

نَقَمٌ (ش) و نَقَمٌ (س) نَقَمًا و تِنَقَمًا
مِنْ فُلَانٍ: سزا دینا۔ لِأَمْرِ عَلِيِّ فُلَانٍ او
مِنْ فُلَانٍ: عیب لگانا۔ بہت کمزور کہنا جاتا
ہے "نَقَمٌ فُلَانٌ وَ تَرَةً" یعنی بدلہ لیا۔ "وَمَا
تَنْقَمُ مِنَّا" نہیں طعن و تهنیت کرتے ہو تم
(نَقَمًا الشَّيْءُ: جلدی کھانا۔

نَقَمٌ تَنْقِمًا. بہت زیادہ کمزور کہنا۔

انْقَمَ مِنْهُ: سزا دینا۔

النَّقْمُ: سزا کا وسط۔

النَّقْمَةُ وَ النَّقْمَةُ وَ النَّقْمَةُ. اسم ہے انتقام
کا۔ سزا بدلہ۔ ج نَقَمٌ وَ نَقَمٌ وَ نَقَمَاتُ.
النَّقِيمَةُ بدل ہے نَقِيمَةٌ سے۔ کہا جاتا
ہے "فُلَانٌ مَيْمُونٌ النَّقِيمَةُ" فلاں پاک
نفس ہے۔

لَقِنِقُ الصَّفَدُغُ: مینڈک کا ٹر ٹر کرنا۔
نَقَقَتِ الْعَيْنُ: آنکھ کا دھنس جانا۔

الْبِقِيقُ نَزْشْتَرْمُغٌ: ج نفاق.

نَقَعٌ (ف) نَقَوْهَا وَ نَقَعٌ (س) نَقَعَهَا.
فُلَانٌ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا اور ضعف
باقی رہنا۔ صفت نَاقِعَةٌ نَقَعَتْهَا وَ نَقَوْهَا
وَ نَقَعَهَا (الْحَدِيثُ: سمجھنا صفت نَقَعٌ وَ
نَاقِعٌ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يَفْقَهُ وَلَا يَنْقَعُ"
فلاں نہیں سمجھتا ہے۔

أَنْقَعَهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ: مرض سے عافیت

النَّقَالُ. مصدر نَاقَلَ. چوڑے چھوٹے
بیزے کے پھل واحد نَقْلَةٌ. النَّقَالُ: اونٹ کا
بغیر کسی کے خود پینا۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَتْ
الْأَبِلُ نَقَالًا" اونٹ نے خود بخود پانی پیا۔
النَّقَالُ. اسم مبالغہ۔ وہ شخص جو چیزوں کو ایک
جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے۔ فَرَسٌ
نَقَالٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

النَّقْلُ. س۔ پرانا جو تازہ یا موزہ۔ کہا جاتا ہے
"نَحَلْنَا نَقْلًا وَ حَفْنَا نَقْلًا" النَّقْلُ وَ النَّقْلُ
وہ چیز جو شراب کے ساتھ استعمال کی جائے
جیسے پستہ، سیب وغیرہ۔ نَقُولٌ وَ نَقُولَاتُ
مختصر راستہ۔

النَّقْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: ایک لفظ کو ایک
معنی کے لیے وضع کر لینے کے بعد دوسرے
معنی کے لیے وضع کرنا۔

النَّقْلُ. پرانا جو تازہ یا چرمی موزہ۔

النَّقْلُ. پرانا جو تازہ یا چرمی موزہ۔ ج انتقال
وَ نَقَالُ. النَّقْلُ: شور و شغب کے ساتھ

جواب۔ تیر کا پہ جو ایک تیر سے نکال کر
دوسرے میں لگایا جائے۔ کہا جاتا ہے "لَا تَرَوْشَ
سَهْمِي بِنَقْلِ" تباہ شدہ مکان کا لمبہ۔ چھوٹے
چھوٹے پتھر۔ مختصر راستہ۔

مَكَانٌ نَقَلٌ. چھوٹے چھوٹے پتھر والی جگہ۔
رَجُلٌ نَقَلٌ. حاضر جواب۔ سخت جھگڑاؤ۔

النَّقْلَةُ. نقل کا اسم مرثۃ۔ نقال کا واحد۔

النَّقْلَةُ. اسم ہے بمعنی انتقال۔ چغلی۔ ج نَقْلٌ
النَّقْلَةُ. نقل کا اسم نوع۔ عورت جس کو کبیر
سکی کی وجہ سے پیغام نہ دیا جائے۔ ج نَقْلٌ.

النَّقِيلُ. مسافر (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے

"رَجُلٌ نَقِيلٌ وَ امْرَأَةٌ نَقِيلٌ" مسافر مرد
مسافر عورت۔ سیلاب جو بارش شدہ زمین
سے خشک زمین میں آئے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
فَرَسٌ ذُو نَقِيلٍ" یہ گھوڑا تیز رفتار ہے
النَّقِيلُ: مختصر راستہ۔ جوتے۔

النَّقِيلَةُ. مسافر عورت۔ جوتہ یا چرمی موزہ کا
بیوند۔ ج نَقَائِلُ وَ نَقِيلٌ.

فَرَسٌ مَنْقَالٌ وَ نَقَالٌ وَ مَنْقَلٌ تِيزَرَقَارٌ

دوسری جگہ منتقل کرنا حُفَّ البَعِيرِ او
الثَّوْبِ او النِّعْلِ: بیوند لگانا اور درست کرنا
الكَلَامَ عَنِ قَائِلِهِ: روایت کرنا الكتاب:
نقل کرنا الكتاب الى لغة كذا: ترجمہ
کرنا۔

نَقَلَ الشَّيْءُ: زیادہ منتقل کرنا الحَفَّ او
الثَّوْبِ: بیوند لگانا اور درست کرنا۔ تشدید
مبالغہ کیلئے ہے۔ نَقَلَتِ الشَّجَّةُ الْعَظْمُ:
زخم کا ہڈی کو توڑنا فُلَانٌ الضَّيْفُ: مہمان کو
نقل کھانا (دیکھئے نقل)

نَاقِلُ الْفَرَسِ: جلدی جلدی ناگلیں اٹھانا۔
دوڑنے میں پتھروں سے بچنا۔ نَاقِلُهُ

الْحَدِيثُ: میں نے اس سے اور اس نے مجھ
سے روایت کی۔ نَاقِلَةُ الْأَفْدَاحِ: ایک
دوسرے سے لینا دینا۔ نَاقِلْتُ فُلَانًا: پینے

میں کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ نَاقِلُ الشَّاعِرِ
الشَّاعِرِ: ایک شاعر کا دوسرے شاعر سے
مقابلہ کرنا۔

أَنْقَلَ الحَفَّ او النِّعْلَ: درست کرنا۔

تَنَقَّلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔
زیادہ منتقل ہونا الرَّجُلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے
نقل)

تَنَاقَلُوا الْحَدِيثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. بعض کا
بعض سے نقل کرنا۔

انْتَقَلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔

فُلَانٌ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ او إِلَى رِضْوَانِهِ:
مرنا۔ انْتَقَلَ الْفَرَسُ: چلنے میں پچھلے پاؤں کو
اگلے پاؤں کی جگہ میں رکھنا۔

النَّاقِلُ. فـ ج نَاقِلُونَ وَ نَقْلَةٌ.

النَّاقِلَةُ. الناقِلُ کا مؤنث ج نواقِلُ. و

نَوَاقِلُ الدَّهْرِ: حوادث زمانہ۔ جو ایک حال

سے دوسرے حال کی طرف بدلیں۔ الناقِلَةُ

مِنَ النَّاسِ: وہ لوگ جن کی عادت ایک جگہ

سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہو۔ نَوَاقِلُ

العَرَبِ: وہ لوگ جو ایک قبیلہ سے دوسرے

قبیلہ کی طرف منتقل ہوں اور اسی کی طرف اپنی

نسبت کریں۔

دینا فلان الحدیث سمحاناً اور کہا جاتا ہے
"انفہ لی سمعکم" یعنی میری طرف کان
لگا۔

انفہ من الحدیث: تسلی پانا من مرضہ
مرض سے صحت یاب ہونا اور ضعف باقی رہنا۔
استنقہ پوجھنا: الحدیث سمحاناً۔

النقیۃ: نقہ کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "لہ فی
کل عام مرضۃ و نقیۃ" اس کیلئے ہر
سال میں ایک دفعہ مرض ایک دفعہ صحت ہے۔
نقا ینقو نقوا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔

نقی ینقی نقاۃ و نقاء و نقانۃ و نقاۃ
و نقایۃ صاف ستھرا ہونا۔ خوبصورت ہونا۔
خالص ہونا۔ صفت نقی۔

نقاۃ تنقیۃ و نقاۃ انقاء صاف ستھرا کرنا۔
چھنا۔ نقی و انقی الطعام غلہ کا کوڑا
کرکٹ نکالنا۔ انقی البر موٹا دانہ ہونا۔
انقت الابل و غیرہا: موٹا ہونا۔ گودے دار
ہونا۔ صفت منقیۃ ج منقیات و انقی
العوذ: لکڑی کا تر ہونا۔

انقواء انقواء: چھنا۔ انقی العظم: ہڈی
سے گودا نکالنا۔

تنقأۃ تنقیۃ: چھنا۔ تنقی العظم: ہڈی سے
گودا نکالنا۔

نقاۃ الشی و نقاۃ و نقانۃ و نقانۃ
عمدہ حصہ۔ خلاصہ۔ نقاۃ کی جمع نقاوی و
نقاۃ اور نقایۃ کی جمع نقایا و نقاء۔

نقاۃ الطعام و نقانۃ و نقانۃ و نقانۃ:
غلہ کا کوڑا کرکٹ۔ النقاۃ: ریت کا ٹیلہ جس پر
کچھ نہ آئے۔

النقاۃ: ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے
دھوئے جاتے ہیں۔ ج نقاوی۔

النقا: ریت کا محبہ ٹیلہ۔ منقی نقوان و
نقیان ج انقاء و نقی و نقیان بنات
النقا ایک قسم کا کیزر جو ریت میں رہتا ہے اور
اس کو شخمۃ النقا بھی کہا جاتا ہے۔

النقا و النقا و النقا: گودے دار ہڈی ج
انقاء۔

النقاۃ: چیز کا عمدہ حصہ۔
النقاۃ: نقہ کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے "نقاۃ
نقاۃ" اور اس کی اصل نقو ہے لام کلمہ کو
حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں تالایا
گیا ہے۔

النقی: صاف ستھرا۔ ج نقاء و انقیاء و
نقواء۔

الانقی: اسم تفضیل۔ مؤنث نقوی۔ رجل
انقی: باریک لمبی ہڈیوں والا مرد۔ مؤنث
نقواء: فحید نقواء: باریک ہڈی کم گوشت
والی ران۔

نقی ینقی نقیا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقیہ ینقأۃ نقاۃ: ملاقات کرنا۔

النقی: ہڈی کا مغز۔ موٹائی کی وجہ سے آگے کی
چربی۔ ج انقاء۔

النقیۃ: کلمہ۔ کہا جاتا ہے "سمعت نقیۃ
حق" میں نے کلمہ حق سنا۔

النقی: صاف ستھرا۔ ج نقاء و انقیاء
و نقواء۔

النقیۃ: النقی کا مؤنث۔ کلمہ۔ ج نقایا
المنقی و المنقی۔ راستہ۔

نیک (ن) نکا: علی الغریم: قرضدار پر
حق برتا العمل۔ درست کرنا۔

نکا (ف) نکا القرحة: زخم کو اچھا ہونے
سے پہلے چھیل ڈالنا العدو و فحید العدو:
قل و خو زری کرنا فلاناً حنہ: کسی کا حق پورا
کرنا۔

اننکا اننکاء: حقہ من فلان:
کرنا۔ قبضہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "هو زکاة
نکاۃ" وہ ماوجب کو جلدی ادا کرتا ہے ناک
نہیں۔

نکب (ن) نکبا و نکوبا عنہ: تجاوز
کرنا۔ ہٹ جانا (نکبا) الشی بہ: ڈال دینا۔
الاناء: برتن سے سب کچھ بہا دینا کسانۃ:
ترس سے سب کچھ بکھیر دینا۔ نکبت
الحجازۃ و خلہ: پتھر کا بیڑ کو زخمی کرنا نکبا
و نکبا الذھر فلاناً: مصیبت پہنچانا۔

نکبت نکوبا الريح ہو اکا بے رخ چلنا۔
نکب (ن) نکابۃ و نکوبا فلان عن
قوۃہ: مددگار قابل بھروسہ ہونا۔

نکب (س) نکبا عن الطريق: راستہ سے
ہٹ جانا البعیر: کلب بیماری والا ہونا (دیکھئے
بیماری نکب) الرجل: بیمار کندھے والا ہونا۔
نکب مصیبت زدہ ہونا۔

نکب عن الطريق: راستہ سے ہٹ جانا
الک الشی: الگ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے
"نکب الطريق و نکب بہ الطريق و
نکب بہ عن الطريق" یعنی اس کے اسے
راستہ سے ہٹا دیا۔

نکبہ: موٹھے کے مقابل ہونا۔
نکب عنہ: الگ ہونا۔ پچنا۔ گوشہ گیر ہونا۔
کدھا پھیر کر دوسرے کی جانب متوجہ ہونا

علی الشی: ٹیک لگانا کسانتہ او قوسہ
ترس یا کمان کو کندھے پر ڈالنا اور کہا جاتا ہے
"نکب عن و جہی" میرے سامنے سے
ہٹ جاؤ۔

النکب الرجل کسانتہ او قوسہ: ترس یا
کمان کو کندھے پر ڈالنا۔

النکب: من مصیبت۔ ج نکوب
النکب: وہ شخص جس کا پاؤں پتھر لگنے سے
زخمی ہو۔

النکب: من کسی چیز میں تھوڑی سی کمی۔
ایک بیماری جو اونٹوں کے موٹھے میں ہوتی
ہے جس سے وہ لنگڑا ہو جاتا ہے اور کچھ ٹیڑھا
چلنے لگتا ہے۔

النکب: جس کے پاس کمان نہ ہو۔ نکب کی
بیماری والا اونٹ۔ جس کا ایک موٹھا دوسرے
سے بلند ہو۔ مرد ستم گار۔ جفاکار۔ کہا جاتا ہے

"رجل انکب عن الحق و ناکب عنہ"
حق سے اعراض کرنے والا مرد۔

النکباء: الانکب کا مؤنث۔ ریح نکباء:
خلاف رخ چلنے والی یا دو ہواؤں کے درمیان
چلنے والی ہول ج نکب و نکباوات۔
نکب ریح: چار ہیں۔ الازیب: صبا اور

جنوب کے درمیان - ۲۔ الضایبة صبا اور شمال کے درمیان اور اس کو نکبیاء بھی کہتے ہیں اور یہ تصغیر تعظیم کیلئے ہے اس لیے کہ عرب اس کو بہت ٹھنڈی سمجھتے تھے۔ ۳۔ الجریباء شمال اور دیور کے درمیان۔ اور الہیف جنوب اور دیور کے درمیان۔

النکبة: نکتہ کا اسم مرثیہ۔ مصیبت۔ ج نکبات۔
النکبة غلہ کی غیر معین مقدار۔ ج نکتہ النکتیب گھر کا گرداگرد۔
المنکاب: مرد ستم گارو جفاکار۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ مَنكَبٌ عَنِ الْحَقِّ حَقٌّ سَرُّهُ دَوَالِيٌّ كَرْنُهُ وَالْأَمْرُ۔

المنکب: موٹھا۔ ج منکاب کہا جاتا ہے "تَشَابَهَتْ مِنْهُمُ الْمَنكَبُ وَالرُّؤُوسُ" وہ سب مساوی ہیں کوئی ان میں بڑھا ہوا نہیں اور کہا جاتا ہے "هَزَّ مَنكِبُهُ لِكَذَا" وہ فلاں چیز سے خوش ہوا۔ "وَفَلَانٌ مَعِيَ عَلَيَّ حِدِّ مَنكِبٍ" فلاں مجھ سے کنارہ کش ہے۔ المنکب: پہلو۔ گوشہ۔ کہا جاتا ہے "سِرْنَا فِي مَنكِبٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ الْجَبَلِ" ہم زمین یا پہاڑ کے پہلو میں چلے۔ المنکب من القوم: چودھری مددگار من الأرض: راستہ۔ بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے "أَمَشُوا فِي مَنكِبِهَا" اس کی بلند جگہوں میں چلو۔ منکب الجوزا و منکب ذی العنان و منکب الفرس: ستاروں کے نام۔

المنکاب: منکب کی جمع۔ فی ریش الطائر: پرندہ کے بڑے پروں کے بعد چار پر (جمع ہے اس کا واحد نہیں)

المنکوب: مصیبت زدہ (النکتیب) جس کا پاؤں پتھر لگنے سے زخمی ہو۔

نکت (ن) نکتنا الأرض بقضیب او باضبعہ: سوچ کی حالت میں پھری یا لنگی سے زمین کو کریدنا الناس بالحصی: زمین پر نکلنے پھیلنے والے الفرس: ٹھوڑے کا چھلنا۔ کہا

جاتا ہے "مَرَّ الْفَرَسُ بِنَكْتٍ" گھوڑا اچھلتا ہوا گزرا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا فَلَانًا: سر کے بل گرانا۔ اور اسی سے ہے "لَا تَنْكَبَنَّ بِلِ بِلْ الْأَرْضِ" میں تجھ کو زمین پر سر کے بل گرا دوں گا کسائفة: ترشش سے بکھیر دینا۔

نکت الرطب: پکانا شروع ہونا فی قولہ: نکتہ چینی کرنا۔

انکتت سر کے بل گرنا۔ کہا جاتا ہے "انکتہ فانتکت" اس نے اسے سر کے بل گرایا وہ گر گیا۔

النکبة: داغ۔ زمین میں کریدنے کا اثر۔ ج نکت و نکات: النکبة: آئینہ یا تلوار میں دھماکا مشکل مسئلہ جو وقت نظر سے حاصل ہو۔ لطیف۔

النکات: بڑا آہو گیر۔ وہ شخص جو اپنے کلام میں لطائف بیان کرے۔

النکت: مطعون۔ وہ شخص جسے طعن تشنیع کیا گیا ہو۔

المنکوت: سر کے بل گرا ہوا۔

نکت (ن ض) نکتنا العہدنا والبیع: عہد کو توڑنا۔ بیع کو فسخ کرنا الجبل او الکساء: رستی یا کھیل اویڑنا المسواک: مسواک کی کوچی بنانا۔

تَنكَبُوا غِيْبُو دَهْمٌ آجِسٌ فِي مَعَاهِدَةٍ تُوْزِرُ دِيَانَةً۔

انکتت: الجبل وغیرہ: رستی وغیرہ کو اویڑنا جانا المسواک: کوچی بنا فلاں من حاجة الهم اُخرى: ایک کام سے ہٹ کر دوسرے میں لگنا۔

النکات: پھنسیاں جو اونٹ کے منہ میں نکلتی ہیں۔

النکاة: رستی کا دھڑا ہوا کنارہ۔
النکت دوبارہ ہاتھ کیلئے اویڑنا ہوا کھیل یا خیمہ۔ ج انکات کہا جاتا ہے "جبل نکت وانکات" اویڑی ہوئی رستی۔

النکت اویڑنا ہوا۔ مونث نکتیفة۔ النکتیفة: نفس۔ طبیعت۔ قوت۔ پوری

طاعت۔ مشکل کام جس میں لوگ اپنے عہد کو توڑیں۔ اور کہا جاتا ہے "قَالَ قَوْلًا لَا نَكْبَةَ فِيهِ" اس نے ایسی بات کہی جس میں خلاف وعدگی نہیں "وَصَرَفَ فِيهِ نَكْبَتَهُ" اس نے اس میں پوری طاعت صرف کی۔

وَقَعُوا فِي النَكْبَةِ: وہ مشکل کام میں پڑ گئے۔ "وَهُوَ ذُو نَكْبَةٍ حَسَنَةٍ" وہ اچھی طبیعت والا ہے۔ ج نکات

النکات: بنے ہوئے کو پرانا ہونے کے بعد اویڑنے والا۔ کہا جاتا ہے "بَعِيرٌ مَبْتَكٌ" لاغر و بلا اونٹ۔

نکح (ف ض) نکاحا و نکح المرأة: عورت سے شادی کرنا۔ نکحت المرأة: عورت کا شادی کرنا۔ صفت ناکح و ناکحة: نکح المظنر الأرض: بارش کا زمین میں جذب ہونا الذواء فلان: دو اکسی کے اندر اثر کرنا التعاس عینہ: آنکھوں میں نیند کا غالب ہونا۔

انکحہ المرأة: شادی کرنا۔

تَنكَبُوا: ایک دوسرے سے شادی کرنا۔ تَنكَبَتِ الْأَنْسَابُ: درختوں کا آپس میں گتہ جانا۔

اسْتَنكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ: شادی کرنا۔ فِي بَنِي فَلَانٍ نَكَحَ كَرْنَا التَّوَمَ غِيْبُو نَهُمْ: نیند کا غالب آنا۔

النکح: سخت پرہیزگار (عامی لفظ) المنکح: عورتیں۔ نکح (ف) نكحنا فلانا في حلقه: حلق میں مکامانا۔ نیز ہانا۔

نکت (ن) نکتذا فلانا حاجتہ: محروم کر دینا، تھوڑا سا دینا۔ نکت الغراب: کتے کا بہت کاؤں کاؤں کرنا القوم الرجل ککرت: سوال سے تنگ دست بنانا۔ نکت الرجل: بہت سوال والا اور کم داد و دہش والا ہونا۔

نکت (س) نکتذا العیش: تنگ ہونا الرجل: تنگ گزران والا ہونا۔ نکتد البشر: کتوں میں کہانی ہونا۔

نکذہ عیشہ: زندگی کو تنگ بنا دینا فلانا:
مکدر زندگی والا کر دینا۔
ناکذہ: سختی برتنہ۔
انکذہ: کم داد و دہش والا پانا۔
تنکذہ: عیشہ مکدر ہونا۔
تناکذہ: باہم سختی برتنہ۔
التناکذہ: ناقہ ناکذہ: کم دودھ والی اونٹنی
وہ اونٹنی جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ ج
نکذہ رجل نکذہ و نکذہ و نکذہ شواریخو۔
کم داد و دہش والا۔ ج انکاذہ و منا کیدہ
أرضون نکاذہ: کم نباتات والی زمین۔
النکذہ: بے دودھ والی اونٹنیاں۔ بہت دودھ
والی اونٹنیاں (ضد) واحد نکذہ۔
النکذہ والنکذہ: کم داد و دہش۔ مباء نکذہ:
کم پانی۔
الانکذہ: مرد و شواریخو۔ کم داد و دہش والا۔
مؤنت نکذہ: ج نکذہ: کہا جاتا ہے: جاء
منکذہ: وہ آیا اس حال میں کہ اس کا آنا اچھا
نہیں اور یا یہ کہ خالی خولی آیا۔
عطاء منکذہ و منکوذہ: تھوڑا عطیہ۔
رجل منکوذہ: وہ مرد جس سے سوال میں
اصرار کیا جائے۔
نکر (ن) نکرا و نکرا و نکوزا و
نکیرا الأمر: ناواقف ہونا الرجل: نہ
پہچانا۔
نکر (ک) نکارة الأمر: شواریخو ہونا۔
نکرہ: درگروں کر دینا۔ نکر الاسم: نکرہ
بنانا۔
ناکرہ منا کرہ: مقابلہ کرنا۔ لڑائی کرنا۔
دھوکا دینا۔
انکرہ: جاہل ہونا۔ انکر حقہ: حق کا انکار
کرنا۔ انکر علیہ فعلہ: عیب لگانا اور منع
کرنا۔
تنکر الرجل: اچھی حالت سے بد حال ہونا
درگروں ہونا فلاں: بد خلق ہونا لفلان:
اجنبی ہونا۔
تساکر: دانستہ ناواقف بنانا۔ الأمر: ناواقف

ہونا القوم: آپس میں دشمنی کرنا اور ایک
دوسرے کا انکار کرنا۔
استنکر الأمر: ناواقف ہونا امرًا بجہلہ:
غیر معلوم چیز کو پوچھنا۔
النکارۃ: مس۔ چالاک۔ تیز فہمی۔ جہالت۔
النکور: مس۔ چالاک و تیز فہمی۔
النکور: مس۔ چالاک و تیز فہمی۔ برا کام۔ بہت
براکام۔
رجل نکور و نکور و نکور: چالاک تیز
فہم۔ ج انکار۔ امرأۃ نکور: چالاکہ سمجھ
دار عورت۔
النکور: ناشائستہ۔ سخت کام۔
النکراء: چالاک و تیز فہمی۔ ناشائستہ
مصیبت۔ کہا جاتا ہے "فلاں ذو نکراء"
فلاں چالاک و عقلمند ہے "و صابنتھم من
الذھر نکراء": زمانے کی سختی ان پر واقع
ہوئی۔
نکراء الذھر: زمانے کی سختی۔
النکرة: انکار۔ ضد معرذہ۔ خون یا پیپ کا
پھوڑا۔ ج نکرات۔
النکرة: اسم ہے انکار کا جیسے نفقۃ انفاق
کا۔
النکیر: درگرونی۔ امر نکیر: سخت کام۔
حصن نکیر: مضبوط قلعہ۔
المنکور: مس۔ خلاف مرضی خدا قول ہوا یا فعل
اور اس کا ضد معروف ہے۔ ج منکرات و
مناکر اور کہا جاتا ہے "رجل منکور"
چالاک تیز فہم مرد۔ ج منکرون و
مناکیر۔
المنکور: مس۔ مجہول۔ ج فنا کیر۔
المناکیر: خلاف مرضی خدا امور۔ کہا جاتا
ہے "ہم یرکبون المناکیر"
و المنکرات: یعنی وہ لوگ امور غیر پسندیدہ
میں مبتلا ہیں۔
المنکر عند النحاة: اسم نکرہ۔ ضد
معرذہ۔
نکرت (ن) نکرا: الحیاہ: فلانا: سانپ

کاذبا فلانا: ہر گناہ شئی جھوٹا الذابۃ
بعقبہ: اڑ لگا کر ہانکنا (نکرا و نکوزا)
الماء پانی کا نیچے اتر جانا البحر: خشک ہونا
البنور: کنوئیں میں پانی کم ہونا یا ختم ہونا۔
نکرت (س) نکرا البنور: کنوئیں میں پانی
کم ہونا یا ختم ہونا۔ نکر البحر: گھٹنا۔
انکر البنور: کنوئیں کا پانی ختم کر دینا۔
الناکر: قا۔ بنور ناکر: کنوئیں جس کا پانی ختم
ہو گیا ہو۔ ج نوا کر۔
النکور رذل لوگ۔ ہڈی میں باقی ماندہ مغز
(و المنکر) خالی۔ کہا جاتا ہے "جاء نکرا و
منکرا": یعنی وہ خالی خولی آیا۔
بنور نکر: کم پانی والا کنوئیں۔
النکار: اسم مبالغہ۔ ایک بہت ہی خبیث قسم
کا سانپ جو مرنے سے نہیں کاٹا بلکہ ناک سے
پھنکار مار کر ہلاک کرتا ہے اور اتنا باریک ہوتا
ہے کہ اس کے سر اور دم میں تیز نہیں ہوتی ج
نکا کیر و نکازات۔
البنور النکور: کنوئیں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو
ج نکر: کہا جاتا ہے فلاں بمنکرۃ من
العیش فلاں تنگ زندگی میں ہے۔
نکسہ (ن) نکسا: اوندھا کر دینا۔ نکس
راسہ: زلت سے سر جھکانا۔ الطعام وغیرہ
داء المریض: کھانے وغیرہ کا مریض کے
مرض کو لوٹا دینا الحصاب: بار بار لگانا۔ کہا
جاتا ہے "نکست فلانا فی ذلك الأمر"
میں نے فلاں کو اس معاملہ میں پھر پھنسا دیا۔
نکس المریض: دوبارہ بیمار ہونا الرجل:
ضعیف و عاجز ہونا الرجل عن نظرائہ: اپنے
ہم جویوں سے کوتاہی کرنا۔
نکسہ تنکسنا: اوندھا کرنا۔ نکس
الفرس: گھوڑوں سے نہ مل سکتا۔ صفت۔
منکس
تنکس: اوندھا ہونا۔
انتکس: سر کے بل گرنا المریض: صحت
یابی کے بعد دوبارہ بیمار ہونا۔
النکس: قا۔ سر جھکانے والا مرد ج

نَوَآكْس (شاذ)

النَّكَّاسُ. صحت یابی کے بعد مرض کا عود کرنا۔

النَّكَّسُ. صحت یابی کے بعد مریض کا عود کرنا۔ گرنے کے بعد ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا کہ پہلی دفعہ کے گرنے سے زیادہ زور سے گرا۔ اور کہا جاتا ہے تَعَسَا لِفَلَانٍ وَنُكَّسَا او وَنُكَّسَا. کلمات بد دعا ہیں یعنی فلاں کے لیے ہلاکت و سرگونی ہو۔

النَّكَّسُ. تیر کہ جس کا سر اٹوٹ گیا ہو اور اس کے اوپر کے جھکے کو پیچ کر دیا گیا ہو۔ کمان کہ جس میں شاخ کے سرے کو نچلا حصہ بنا لیں (اور یہ کمان میں عیب ہے) کمزور و بچے و بے برکت مرد۔ پستہ قد۔ کرم و سخاوت میں کوتاہی کرنے والا۔ ج انکاس۔

النَّكَّسُ. بہت بوڑھے لوگ۔ واحد ناکس۔

الْمُنْكُوسُ. فاء آہستہ چلنے والا گھوڑا جو اپنے سر کو نہ اٹھائے وہ گھوڑا جو گھوڑوں سے نہ مل سکے۔

الْمُنْكُوسُ. م۔ دو بارہ پیار ہونے والا۔ مَن الْاَوْلَادِ: پیدائش میں جس کے پیر پہلے نکلیں قَوْمٌ مُنْكُوسَةٌ: کمان کہ جس میں بیٹی کے سرے کو نچلا حصہ بنائیں۔

نکش (ن ض) نَكَّسْنَا الْبِنْتِ: کنوئیں کی کچڑ تک نکال دینا الشَّيْءُ: فاکر دینا الشَّيْءُ و مِّنَ الشَّيْءِ: فارغ ہو جانا۔

اِنْتَكَشَ الْبِنْتِ: کنوئیں کو کچڑ تک صاف کر دینا۔

الْمِنْكَشُ. معاملات میں خوب غور کرنے والا۔

الْمِنْكَاشُ. کنواں صاف کرنے کا آلہ۔ ج مَنَاكِيشُ.

الْمِنْكُوشُ. م۔ سَفَطٌ مُنْكُوشٌ: ٹوکرا جس میں سب کچھ نکال لیا گیا ہو۔

نكص (ن ض) نَكَّصَا وَنُكَّوَصَا وَ مَنَكَّصَا عَنِ الْاَمْرِ: رُكَّ جانا۔ صفت

نَاكِصٌ نَكَّصَ عَلَيَّ عَقِيْبِي: پہلے کام سے ہٹ جانا (اس کا استعمال عموماً خیر سے رجوع کے موقع پر ہوتا ہے اور شر سے نادر طور پر)۔

نَكَّصَهُ: ہٹا دینا۔ اِنْتَكَّصَ الرَّجُلُ: بچھلے پاؤں لوٹا۔

الْمُنْكُصُ. م۔ ہٹنے کی جگہ۔ نَكَّظَ (ن) نَكَّظَا: بہت بھوکا ہونا۔ فَلَانًا عَنِ حَاجَتِي: جلدی کرانا۔

نَكَّظَ (س) نَكَّظَا: اپنی ضرورت میں جلدی کرنا لِلْمُخْرُوجِ: نکلنے کے لیے جلدی کرنا۔ الرَّحِيْلُ: قریب ہونا۔

نَكَّظَهُ عَنِ حَاجَتِي: جلدی کرانا۔ نَكَّظَ حَاجَتِي: دشوار کرنا۔

اِنْكَّظَهُ عَنِ حَاجَتِي: جلدی کرانا۔ تَنَكَّظَ الرَّجُلُ: سفر میں بد حال ہونا عَلَيَّ فَلَانٍ: بچل کرنا لِاَمْرٍ عَلَيَّ: پیچیدہ ہونا۔

النَّكَّظُ وَالنَّكَّظَةُ وَالنَّكَّظَةُ وَالْمُنْكَّظَةُ: کوشش۔ سفر کی سختی۔ جلدی۔

نكعه (ف) نَكَّعَا عَنِ الْاَمْرِ: جلدی کرنا یا رد کرنا فَلَانًا: پاؤں کی پشت سے مارنا فَلَانًا حَقَّهُ: حق روک دینا (نَكَّعَا وَ تَنَكَّعَا) الْمَاشِيَةِ: مویشی کے تھن پر مار کر دودھ نکالنا

فَلَانٍ عَنِ الْحَاجَةِ: سستی کرنا۔ اور مَا نَكَّعَ بِمَعْنَى مَا زَالَ اَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ مِّنْ سَهْمٍ

”وَمَا اَذْرَى اَيُّنَ نَكَّعَ“ میں نہیں جانتا کہاں گیا۔

نكع (س) نَكَّعَا: چھل ہوئی ناک والا ہونا۔

نكعه عَنِ حَاجَتِي: ہٹا دینا۔ جلد بازی سے زندگی کو مگر کر دینا۔

اِنْكَّعَهُ: رد کرنا۔ دفع کرنا۔ تَهَكَّأَا: عَنِ الْاَمْرِ: جلدی کرانا۔ ہٹانا۔ اِنْكَّعْتُ فَلَانًا بَغِيْتَهُ: کسی کا مطلوب باوجود طلب کے فوت ہونا۔ کہا جاتا ہے ”نَكَّكْمَ فَا نَكَّعَهُ“ اس نے گفتگو کر کے اسے خاموش کر دیا ”و شَرِبَ فَا نَكَّعَهُ“ اسی نے پیا یہاں تک کہ اس کی طبیعت مگر ہو گئی۔

اِنْكَّعَهُ: نكع و عار سے پاک کرنا۔ اِنْكَّفَ اللِّدَّةَ: تتریب و نقد لین کرنا۔

نَكَّفَتِ الْاِبْرَاءُ: اُونٹ کی ٹھڈی کے نیچے غرود ظاہر ہونا۔

تَنَكَّفُوا: الكلام: باہم باری باری گفتگو کرنا۔

النكع: مرد سرخ نام۔ چھل ہوئی ناک والا۔ کہا جاتا ہے ”اَحْمَرُ نَكَّعٌ“ یعنی بہت سرخی والا۔

النكع: سرخ رنگ۔ مرد سیاہ۔ سرخی نائل۔ نَكَّعَةُ الْاَنْفِ: ناک کا کنارہ۔

النكعة: مرد سرخ نام جس کی ناک چھل گئی ہو۔ بیوقوف کہ جب کہیں بیٹھ جائے تو تلے نہیں۔

النكعة: ناک کا کنارہ۔ ایک سرخ رنگ کے درخت کا پھل۔ درخت قنار کا گوند۔ مرد کی سرخی ملی ہوئی سیاہی۔

الانكع: مرد سرخ نام جس کی ناک چھل گئی ہو۔

المنكع: پیچھے کولٹنے والا۔ اِنْفٌ مُنْكَعٌ: چھٹی ناک۔

نكف (ن) نَكَّفَا عَنِ كَذَا: ناک بھوں چڑھانا۔ باز رہنا۔ اَلگ ہونا۔ صفت ناكف۔

فَلَانٌ الْغَيْثُ: بارش منقطع ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا غَيْثٌ لَا يَنْكُفُ اَحَدًا“ یہ ایسی بارش ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ اس کی انتہا کہاں ہے ”وَعَيْثٌ لَا يَنْكُفُ“ منقطع نہ ہونے والی بارش۔ ”وهذا جيتس او بحر لا يَنْكُفُ“ یہ لشکر غیر محدود ہے یا یہ سمندر اتھاہ ہے۔ نكف الذمغ: رخساروں پر سے انگلیوں سے پونچھنا۔

نكف (س) نَكَّفَا مَنَةً او عُنْدَ نَاكِ بھوں چڑھانا۔ باز رہنا۔ بیزار ہونا۔ نكف اليد:

در در سیدہ ہونا الرَّجُلُ: حلق کے درد کی وجہ سے جڑے کے غرود کا گر جانا۔

نَاكُفَةُ الْكَلَامِ مَنَاكُفَةٌ: ترکی بہ ترکی جواب دینا۔

اِنْكُفَهُ: نكع و عار سے پاک کرنا۔ اِنْكُفَ اللِّدَّةَ: تتریب و نقد لین کرنا۔

نَكَّفَتِ الْاِبْرَاءُ: اُونٹ کی ٹھڈی کے نیچے غرود ظاہر ہونا۔

تَنَكَّفُوا: الكلام: باہم باری باری گفتگو کرنا۔

اِنَّكَفَ الْغَيْثِ مُتَقَطِعٌ كَرْنَا الْقَوْمَ اِيك
ملك سے دوسرے ملک میں جانا اَلَيْهٖ نَاكِلٌ
ہونا۔ کہا جاتا ہے ”اِنَّكَفْتُ لَهُ فُضْرَبْتَهُ“
میں اس کے اوپر جھک پڑا اور میں نے اس کو
مارا۔

الْحَبْلُ رِشِي كَاوْهَرْنَا۔ الرَّجُلُ بِيْزَارٌ هُوْنَا
العَرَقُ عَن جَبِيْنِهٖ يَشَانِي سَ بِيْنِهٖ پُوْجَهْمَا۔
اِسْتَنكَفَ الرَّجُلُ يَكْتُمِرُ كَرْنَا۔ مِّنْ كَذَا
تھک و عار یا غرور کی وجہ سے باز رہنا
النُّكَافُ اُوْتُنُوْنَ كَ حَلْقٍ كَا مَرَضٍ جَسَ سَ
فُوْرَا مَوْتٍ وَاَقْبَعُ هُوَا جَاتِي هُوَا جَاتِي هُوَا
النُّكَافُ بِيْجُوْنَ كَ جَبْرُءَ كَ يِجْعُ غَدُوْدَا
پھول جانا۔

النُّكَفُ بَس۔ كَانِ كُو كَ قَرِيْبٌ شُوْزِي كِي
جَزِيْمٍ جَهْوَنَ جَهْوَنَ غُدُوْدٍ وَاوَدَ نَكْفَهٗ
رَجُلٌ نَكْفٌ مَرُوْدٌ جَسَ سَ نَاكٍ يَهُوْنَ
چڑھائی جائے۔

النُّكْفَتَانُ وَالنُّكْفَتَانُ وَاوْهِي۔ مَجْحَ كَ
وَاوْهِي بَايَسِ كَ جَبْرُءَ۔ جَ نَكْفَاتٍ
النُّكْفَةُ كَانِ كَادُوْرُو۔

النُّكْفُوْفُ بَس۔ نَكْفٌ زُوْدَ اُوْتٌ (دیکھئے
نُكَافِ)

نُكْلٌ (ضَم) نَكُوْلَا وَنُكْلٌ (س) نَكَاوَا
عَنْ كَذَا اَوْ مِّنْ كَذَا يِجْعِي بِنَا اُوْرُ بَزُوْلِي
كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا هُوَا ”نُكْلٌ عَنِ الْعَدُوِّ وَعَنِ
الْيَمِيْنِ وَعَنِ الْجَوَابِ وَاوْدَ شَمْنٍ سَ يِجْعِي
بِهٖتٌ گِيَا اُوْرُ مَمَّ وَاوْبَابَ سَ بَا زَرَا هُوَا
نُكْلٌ (ن) نَكَلَةٌ بِفُلَانٍ عَمْرَتَاكُ سَزَا
دِيْنَا۔

نُكْلٌ (س) نَكَاوَا سَزَا قُوْلُ كَرْنَا۔
نُكْلٌ بِدَ مَصِيْبَتِ وَاوْنَا۔ عَمْرَتَاكُ سَزَا دِيْنَا۔
نَكَلَةٌ عَنِ الشَّيْءِ بَا زَكَلْنَا۔ يَكُوْرُ كَرْنَا۔
اَنَّكَلَهُ عِنْدَ بَنَانَا۔ دَفْعُ كَرْنَا۔
النُّكْلُ كَالْفَا۔ بَزُوْلُ كَزُوْرُو۔

النُّكَالُ مَقْوُبَت۔ سَزَا۔ عَمْرَتَاكُ سَزَا۔
النُّكْلُ مَضْبُوْبٌ يِجْرِي۔ جَ اَنْكَالٌ وَنُكُوْلٌ
لِگَامِ كَا لُوْبَا۔ مَهَارٌ ”فُلَانٌ نُكْلٌ شَرُّ فُلَانٍ“

برائی کے لیے قید ہے۔ یعنی دشمنوں کے لیے
تازیانہ ہے۔

النُّكْلُ قُوِي مَرُوْدٌ بَسْرٌ بِرِغَالِبِ اَنۡءِ وَاوَا۔
مَضْبُوْبٌ سَدْحَا هُوَا گُوْرَا۔ كَمَا جَاتَا هُوَا ”فُلَانٌ
نُكْلٌ شَرُّ“ فُلَانٌ دَشْمَنُوْنَ كَ لِيۡءِ تَا زِيَا نَهٗ
ہے۔

النُّكَلَةُ عَمْرَتَاكُ سَزَا۔ كَمَا جَاتَا هُوَا ”رَمَاهُ
بِنُكَلَةٍ هُوَا نَءِ اِسَ كُو عَمْرَتَاكُ سَزَاوِي۔
الْمُنْكَلُ عَمْرَتَاكُ سَزَا۔
الْمُنْكَلُ سَزَاوِيۡءِ كَا سَا مَانِ۔
النُّكْصَةُ يَخْتِ مَصِيْبَتِ۔

نُكْنِكُ نَكْنِكَةٌ اَلَا مَرُوْرٌ سَتُ كَرْنَا عَلٰى
غُرَيْبِهٖ يَخْتِي كَرْنَا۔

نُكْلَافٌ (ض) نَكْهَا لِفُلَانٍ وَ عَلِيَهٗ كَسِي
كِي نَاكٍ پَرَا سَ لِيْنَا۔ نَكَهَتْ الشَّمْسُ
اَقْرَابَ كَا سَخْتٌ كَرْمٌ هُوَا۔

نُكْهَةٌ وَ نَكْهَةٌ (س) نَكْهَا كَسِي كَا مَنۡءِ
سُو كَهْنَا۔

نُكَّةُ الرَّجُلِ بِدَ بَضِي كِي وَ جَسَ سَ مَنۡءِ كِي لُو كَا
بَدَل جَاتَا۔

اِسْتَنَكَهَهُ كَسِي كَ مَنۡءِ كِي بُو سُو كَهْنَا۔ كَسِي كَ
مَنۡءِ كِي بُو سُو كَهْنِ كَا حَكْمٌ دِيْنَا۔ كَمَا جَاتَا هُوَا
”اِسْتَنَكَهْتُ الرَّجُلَ فَنَكَهَهُ فِي وَجْهِي“
مِيۡنَ مَرُوْدِ كَ مَنۡءِ كِي بُو كُو سُو كَهْنَا جَا بَا اَسَ نَءِ
مِيۡرَءِ مَنۡءِ كَ سَا نَءِ سَا نَسَ لِيَا۔

النُّكْهَةُ نَكَا اِسْمُ مَرُوْدٍ مَنۡءِ كِي بُو۔
نُكِي يَنْكِي نَكَايَةُ اَلْعَدُوِّ وَ فِي الْعَدُوِّ
قَتْلُ كَر كَ يَا زَخْمِي كَر كَ غَا لِبِ اَتَا۔ صَفَتِ
فَاعِلٌ نَا اَلطَّوْرُ صَفَتِ مَفْعُوْلِي مَنَكِي الْقَرْحَةُ
زَخْمٌ كُوَا يَجْعُ هُوَنَ سَ پِيۡلَءِ جَهِيْلٍ وَاوْنَا۔

نُكِي يَنْكِي نَكِي نَكْسَتٌ كَهَا نَا۔ مَغْلُوْبٌ
هُوَا۔ مَهْمُوْرٌ هُوَا۔

النُّكْلُ كَزُوْرُو بَدُّهَا۔
نَمَّ (ن ض) نَمَّا الْحَدِيْثُ جَهْلُ خُوْرِي

كَرْنَا الْحَدِيْثُ ظَا هِرٌ هُوَا بِيْنِ النَّاسِ
بَهْرُ كَا نَا الْكَلَامِ جَهْوَسَ اَرَا سَتَ كَرْنَا
الشَّيْءُ خُوْشُوْبُو پَهِيْلَا۔ نَمَّتِ الرَّيْحُ هُوَا كَا لُو

كُوَلَا نَا۔

النَّمَامُ فَاجٌ نَمَامٌ۔

النَّمَامَةُ النَّامُ كَا مَوْتٌ۔ حَسَ۔ حَرَكَتِ۔
زَنْدُغِي۔ كَمَا جَاتَا هُوَا ”اَسْكَتَ اللّٰهُ نَامَتَهُ“
یعنی اللہ اسے موت دے۔

النَّمُّ بَس۔ جَهْلُ خُوْرٍ جَ نَمُوْنٌ وَ اِنْمَاءٌ وَ
نَمٌّ۔

النَّمَامُ جَهْلُ خُوْرٍ۔ اِيكٌ خُوْشُوْبُو دَارِ قَسْمِ كِي
بِنَا تَا۔ وَاوَدَ نَمَامَةٌ۔

النَّمَّةُ نَمَّ اِسْمُ مَرُوْدٍ۔ نَمَّ كَا مَوْتٌ۔ سِيَا نِي
مِيۡنَ سَفِيْدَا سَفِيْدِيۡءِ مِيۡنَ سِيَا دَاوْعٍ۔ اُوْرُ كَمَا جَاتَا هُوَا
”سَمِعْتُ نَمَّتَهُ“ مِيۡنَ نَءِ اِسَ كِي حَرَكَتِ
سَيٰ۔

النَّمَّةُ نَمَّ اِسْمُ نُوْعٍ۔ جُوْلُ۔

النَّمِيُّ خِيَا نَتِ۔ عِيْبٌ۔ دَشْمَنِي۔ طَبِيْعَتِ۔
اِنْسَانٌ كَا جُوْهَرِيَا مَصْلٌ۔ نَمِي الرَّجُلُ مَرُوْدِي
طَبِيْعَتِ۔ كَمَا جَاتَا هُوَا ”مَا فِي الدَّارِ نَمِي نَمَّ گَهْرُ
مِيۡنَ كُوِي نَبِيۡسِ۔

النَّمِيَّةُ كِي كَا وَاوَدَ۔ فَاخْتَتِ۔ طَبِيْعَتِ۔

النَّمُوْمُ جَهْلُ خُوْرٍ۔

النَّمِيْمَةُ وَ النَّمِيْمَةُ جَهْلُ خُوْرِي۔ حَرَكَتِ۔
لَكَهْنِ كِي اَوَا زِ۔ لَكَهَانِي۔ كَهْفُ كُوِي كَزَمِ اَوَا زِ جَ

نَمَامٌ

النَّمَمُ جَهْلُ خُوْرِي۔

النَّمَمُ جَهْلُ خُوْرٍ۔

النَّمَّ وَ النَّمَا جَهْوُوِي جَهْوُوِيۡءِ۔

نَمْرَانٌ (نَمْرَانٌ) نَمْرًا فِي الْحَبْلِ بَهَا زِ پَرُ چَرَهْنَا۔

نَمْرَانٌ (س) نَمْرًا الرَّجُلُ غَضْبَانٌ وَ بَدَ حَلْقِ

هُوَا السَّحَابُ بَادِلٌ كَا يَحِيْتِ كَ رَنۡگِ كَا هُوَا۔

نَمْرٌ وَ تَنْمَرٌ غَضْبَانٌ هُوَا۔ بَدَ حَلْقٍ هُوَا۔

نَمْرٌ وَ جَهْبَهُ تَنْمِيْرٌ اَتْرَشٌ رُو كَر دِيْنَا۔

اِنْمَرٌ صَافِيَا يَا نَا۔

تَنْمَرُ عَادَتُ يَارَنۡگِ مِيۡنَ حِيْتِ كَ مَشَابِهُ هُوَا
بِفُلَانٍ بَجْرَانَا۔ خَفَا هُوَا۔ دَهَمَكِي دِيْنَا۔ دَهْمَكِي
دِيۡءِ مِيۡنَ اَوَا زِ بَلَدِ كَرْنَا۔

النَّمْرَةُ وَ النَّمُوْرَةُ بَهِيْرِيَا وَ غَيْرُهُ شَكَارٌ
كَرْنَا كِيۡلَءِ اِيكِ حَلْقَةٍ دَارِ لُوْبَا جَسَ مِيۡنَ كُوْشَتِ لَگَا

کر شکار کرتے ہیں۔
النَّمُورُ: خون۔

النَّمْرُ والنَّمِرُ والنَّمْرُ: چیتا۔ اور اس کی کنیت أَبُو الْأَبْرَدِ اور أَبُو الْأَسْوَدِ ہے اور ان کے علاوہ اور بھی کنیتیں ہیں۔ جِ أَنْمُرُ وَاَنْمَارُ وَاَنْمُرُ وَاَنْمَارُ وَاَنْمَارَةٌ وَاَنْمُورَةٌ وَاَنْمُورَةٌ وَاَنْمُورَةٌ کہا جاتا ہے "لَيْسَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ جِلْدُ النَّمْرِ" فلاں فلاں سے بگڑ گیا اور خفا ہوا۔

النَّمْرُ وَاحِدٌ نَمْرَةٌ

النَّمِرُ: صاف پانی۔ خالص حسب۔ بہت من الماء: زود ہضم پانی شیریں ہو یا نہ ہو۔ جِ أَنْمَارُ: النَّمْرَةُ: داغ۔ کہا جاتا ہے "بِهْ نَمْرَةٌ مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ" جِ أَنْمُرُ: النَّمْرَةُ: النَّمْرُ كَمَا مَوْنَتْ: مادہ چیتا۔ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو قریب قریب ہوں۔

النَّمْرَةُ: بھیرے کو شکار کرنے کے لیے حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ چتکبر رنگ۔ دھاری دار چادر۔ اون کی چادر جس میں سیاہ و سفید دھاریاں ہوں۔ جِ أَنْمَارُ: النَّمِيرُ: صاف پانی۔ خالص حسب۔ کہا جاتا ہے مَاءٌ نَمِيرٌ وَحَسَبٌ نَمِيرٌ: بہت من الماء: پانی جو گوارا ہو چاہے بیٹھا ہو یا نہ ہو۔

النَّمْرُ: سیاہ و سفید داغ والا مِنَ الْخَيْلِ وَالنَّعَمِ: داغ دار اور ان بادلوں کو بھی کہتے ہیں جو مختلف رنگ کے ہوں۔ مَوْنَتْ نَمْرًا جِ أَنْمُرُ اور کہا جاتا ہے "أَسَدٌ أَنْمُرٌ" وہ شیر جس میں نیلا پن اور سیاہی ہو۔

كَبِيرٌ مُنَمَّرٌ: کالے کالے نقطے والا پرند۔

النَّمْرُقُ وَالنَّمْرُقَةُ وَالنَّمْرُقُ وَالنَّمْرُقَةُ وَالنَّمْرُقُ وَالنَّمْرُقَةُ: چھوٹا تکیہ۔ زین کے نیچے ڈالنے کا گدیلا۔ النَّمْرُقَةُ: بچھے بچھے بادل۔

نَمَسَ (ض) نَمَسًا السِّرُّ: حمید چھپانا

الرَّجُلُ: چپکے چپکے بات کرنا بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔

نَمَسَ (س) نَمَسًا السَّمْنَ وَكُلَّ طَيْبٍ وَ ذُهْنٍ: گھی | خوشبو اور تیل کا خراب ہونا۔ بگڑنا۔ صفت

نَمَسَ:

نَمَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: ملتیس کرنا۔ خلط ملط کرنا الشَّعْرُ: بالوں کا تیل لگنے سے میلا کچھلا ہونا السَّمْنَ أَوْ الْجَيْنُ: گھی یا پیپر کا بدبودار ہونا۔ صفت مُنَمَسٌ:

نَمَسَ نَمَاسًا الصَّانِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا فُلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔

نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔

تَمَسَّ الْأَمْرُ: ملتیس ہونا۔ خلط ملط ہونا۔

الصَّانِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنے کی جگہ

بنانا۔

النَّمَسُ النَّمَاسَا الرَّجُلُ: چھپنا فی الشَّيْءِ: داخل ہونا۔

النَّمَامُوسُ: راز دار۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ نَامُوسٌ الْأَمِيرِ" فلاں امیر کا راز دار ہے۔

وَجِي: حاذق۔ چھوٹا۔ چغل خور۔ شکاری کے

گھات کی جگہ راہب کی کوٹھری۔ جال۔ مکرو فریب۔ جلد نہانی۔ چوٹی کی شکل کا ایک نیالا

جانور۔ شیر کی جھاڑی جِ أَنْمِيسُ: النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ: حضرت جبرئیل کا لقب (دخیل)

النَّمَامُوسَةُ: شیر کی جھاڑی۔ مچھر۔

النَّمَامُوسِيَّةُ: مچھردالی (دخیل)

النَّمَسُ: چھوٹی چھوٹی ناگوں اور لمبی دم کا بالی کے برابر ایک جانور جو سانپ اور چوہے وغیرہ کا

شکار کرتا ہے اور اس کی بہت قسمیں ہیں۔ جِ أَنْمُوسُ:

گھی و خوشبو کی خرابی۔ دودھ یا چھناٹی کی بو۔

النَّمَسَةُ: بدبو۔

النَّمَاسُ: چغل خور۔

الْأَنْمَسُ: نیالا۔ مَوْنَتْ نَمَاسًا: جِ أَنْمَسَ:

نَمَسَ

النَّمَامِيسُ: چپکے چپکے بات کرنے والا۔ گھات کی جگہ میں داخل ہونے والا۔

نَمَشَ (ن) نَمَشًا: چغل خوری کرنا۔

جھوٹ بولنا الْكَلَامَ: جھوٹی بات بنانا الْبَجْرَادُ

الْأَرْضُ: کھا کے سب صاف کرنا۔ مِنْ الْأَرْضِ: بیہودہ لوگوں کی طرح کچھ اٹھانا۔

نَمَشَهُ (ض) نَمَشًا: منقش کرنا۔

نَمَشَ (س) نَمَشًا: داغ دار ہونا۔ دھاری دار ہونا۔ صفت أَنْمَشُ وَنَمَشُ:

نَمَشَ فِي أُذُنِهِ: کان میں چپکے چپکے بات

کہنا۔

أَنْمَشَ الرَّجُلُ: چغل خوری کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "أَنْمَشَ بَيْنَهُمْ" یعنی اس نے ان کے درمیان فساد ڈالا۔

النَّمَشُ: مس۔ چکنی چڑی گنگو۔

النَّمَشُ: مس۔ داغ۔ دھاری۔ نقش و نگار کے خطوط۔

النَّمِشُ: داغ دار۔ دھاری دار۔ سَيْفِ نَمِشٍ: دھاری دار تلوار۔ وَجْهٌ نَمِشٌ: داغ دار چہرہ۔

الْأَنْمَشُ: داغ دار۔ مَوْنَتْ نَمَشًا: جِ أَنْمَشَ عَنَزَ نَمَشًا: داغ دار بکری۔

رَجُلٌ مُنَمَشٌ: فساد آمیز مرد۔

نَمَصَ (ن) نَمَصًا: الشَّعْرًا وَالنَّبْتَ: بال یا نباتات اکھیرنا۔

نَمَصَ نَمِصًا وَنَمَصًا الشَّعْرَ: بال اکھیرنا۔

أَنْمَصَ النَّبْتَ: جانور کے چرنے کے بعد دوبارہ اگانا۔

تَمَمَّتِ الْمَاشِيَةُ: موش کا ابتدائی روئیدگی کو چرنا الْمَرَاةُ: اکھیرنے کیلئے پیشانی کے بال کو پھیلانا۔

النَّمَاصُ: سوئی کا دھاگا۔

النَّمَاصُ: مہینہ۔ جِ أَنْمَصَ وَأَنْمَصَةَ: النَّمِصُ: روئیں کی طرح نرم و ملائم بال۔

چھوٹے چھوٹے پَر۔ ابتدائی نباتات۔ ایک قسم کی نرم گھاس جس سے سرپوش وغیرہ بناتے

ہے "فَلَانٌ يَمْنَىٰ أَحَادِيثُ النَّاسِ" فلاں لوگوں کی باتوں کو فساد انگیزی کے لیے پہنچاتا ہے۔

انمی انماء الشی: زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔ انمی بڑھانا حدیث: جعل خوری کے لحاظ سے پھیلا تا الضید: شکار کا زخم لگ جانے کے بعد نگاہ سے او جمل ہو کے مر جانا اور اس کے مقابل میں "اضمی" ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تیر لگنے کے بعد فوراً مر جائے اور اسی سے عرب کا قول ہے "مکل ما اضمیت ودغ ما اضمیت" انمی الزاعی الابیل: چرواہے کا اونٹوں کو دور تک لے جانا نماھا الکلاؤ: گھاس کا اونٹوں کو موٹا کرنا۔ انمی الکرم: انکور کی تیل میں گچھے دار شاخ ہونا۔ انمیت لفلان: کسی کی معمولی غلطی کو چھوڑ دینا تاکہ بڑی غلطی میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کیلئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔

تنضی تنمیاً الشی: ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور بلند ہونا۔

انتمی انتماء فلاں الی ایہ: منسوب ہونا البازی: ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند ہونا۔ وانتمی فلاں فوق الوسادة: بلند ہونا۔ التامی: فـ نجات پانے والا۔

التامیة التامی کا وٹ۔ بڑھنے کی طاقت۔ مخلوق من الابیل: موٹے اونٹ۔ نامیة الکرم: گچھے دار شاخ۔ التوامی: چھوٹی جوں۔ تنمی:

نہا ینہا نہا الاناء: بھرا اور کہا جاتا ہے شرب فلاں حتی نہا: فلاں نے پیا یہاں تک کہ سیر ہو گیا۔

نہی ینہا ونہو ینہو نہا ونہا ونہانہ ونہو نہا ونہاوة اللحم: گوشت کا کچا رہنا۔ مصتفی:

انہا انہاء اللحم: گوشت کچا رکھنا لامر۔ مضبوط نہ کرنا۔

النہی حکم یر۔ یراب۔ النہیة: چٹکی۔

نہب (ف ن) و نہب (س) نہبا الغنیمۃ مال غنیمت لوٹا لفقوم فلاں: سخت ست کہنا۔ نہبہ الکلب: کتے کا بڑی پرکات لینا۔

ناہبہ مناہبہ: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ ناہب القوم فلاں: سخت ست کہنا الغنیمۃ: مال غنیمت لوٹا۔ انہب الرجل مالد: لوٹنے کا موقع دینا۔ انہبہ المال: لوٹا دینا۔

تناہبت الابل الارض: ٹانگوں کے نیچے کرنا۔ تناہب الفرسان: باہم لوٹا اور دوڑنے میں مسابقت کرنا۔

انتہب الفرس الشوط: غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "حواد ینتہب الغایۃ: گھوڑا جو غایت تک مسابق ہوتا ہے" وانتہب الشہب: مال غنیمت کو لینا۔

النہب: کہا جاتا ہے "ہذا زمان النہب": یہ لوٹ کا وقت ہے۔ غنیمت۔ ہر وہ چیز جو لوٹی جائے۔ نہب اب: النہب: ایک قسم کی دوڑ۔

النہبۃ والنہی والنہیبی والنہیبی لوٹ لونی ہوئی چیز۔

النہاب: بہت لوٹنے والا۔

المنہب: دوڑ میں توفیق لے جانا والا گھوڑا۔ المنہب: مصدر یہی بمعنی انتہاب۔ لوٹ کی جگہ۔

المنہوب: سے فوری مطلوب۔

النہاب: النہابیر: ہلاکتیں۔ زمین یاریت کی بلند جگہیں۔ اور بقول بعض ٹیوں کے درمیان گڑھے۔ واحنہبۃ ونہبوز ونہبوزۃ: النہابیر: جنہم اور کہا جاتا ہے "غشی بہ النہابیر" اس نے اس کو سخت کام پر برا بھلا کیا۔

النہبۃ: لمی لاغر عورت یا قریب بہ ہلاکت۔ نہبیل الرجل: عمر رسیدہ ہونا۔ لنگڑا ہونا اور لنگڑے بچوں کی طرح چلنا۔

النہیل: عمر رسیدہ۔ کہا جاتا ہے "شیخ

نہیل و عجزوز نہیلۃ: عمر رسیدہ بڑھا۔ عمر رسیدہ بڑھیا۔

النہیلۃ: گرانباری کی چال۔ موٹی اونٹنی۔

نہت (ض) نہاتا و نہیسا الاسد او الحمار او الرجل: شیر کا گونجنا۔ گدھے کا رینگنا۔ مرد کا آواز کرنا۔ نالہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "زانتہ نہت کما نہت القرد": میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح آواز نکال رہا تھا جیسے بندر نکالتا ہے۔

النہت: فـ حلق۔

النہات: رینگنے والا۔ المنہت: شیر۔ نہت فلاں علینا: جھوٹ باندھنا۔

نہج (ض) کو نہج (س) کہنا الرجل: ہانپنا۔ دمہ والا ہونا۔

نہج (ف ن) نہجا الثوب: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ صفت نہج۔

نہج (ف) کہنا الثوب: کپڑے کو پرانا کرنا۔ بوسیدہ کرنا لامر: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا الطریق: راستہ میں چلنا۔

نہج (ف) کہنا و نہوجا الطریق او الامر: راستہ کا معاملہ کا واضح ہونا۔

انہج الطریق او الامر: راستہ یا معاملہ کا واضح ہونا ظاہر ہونا الطریق او الامر: راستہ یا معاملہ کو واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔ چوپایہ پر سوار ہو کر سانس چڑھا لینا: سانس چڑھانا

الثوب: کپڑے کو پرانا کرنا بوسیدہ کرنا الثوب: کپڑا پرانا ہونا یا کھنکی شروع ہونا۔

انہج الرجل: چلنا۔ اور بقول بعض واضح راستہ تلاش کرنا الطریق: راستہ کو ظاہر کرنا۔

استنہج: الطریق: راستہ کا واضح ہونا۔ فلاں سبیل فلاں: پیروی کرنا۔

طریق ناہجۃ: واضح راستہ۔

النہج: س۔ واضح راستہ۔ کہا جاتا ہے طریق نہج و طرق نہجۃ و نہجات و نہج و نہوج:

نہج البلاغۃ: بلاغت کے واضح طریقے۔ ایک کتاب کا نام جس میں سیدنا علیؑ کے

خطبات، اقوال، کتابتیب، نصح جمع کیے گئے ہیں۔

النَّهَجُ وَالنَّهْجُ وَالنَّهْجُ بِالْمِثْلِ۔

النَّهْجُ وَالْمَنْهَجُ وَالْمَنْهَجُ: کشادہ راستہ منہاج۔

النَّهْجُ جلدی بوسیدہ ہونے والا پیرا۔

نَهَدَ (ف) نَهْدًا نُهُودًا الْقَدِيُّ: پستان کا ابھرنا

نَهَدَتِ الْمَرْأَةُ: ابھرے ہوئے پستان والی

ہونا۔ صفت ناہد و ناہدة الْقَرِيبَةُ: مشک کا

بھرنے کے قریب ہونا (نَهْدًا وَ نَهْدًا)

لِلْعَدُوِّ وَالْيَ الْعَدُوِّ: دشمن پر جلدی حملہ کرنا

الْهَيْدَةُ: ہدیہ کو بڑا سمجھنا بڑا کرنا۔

نَهَدَ (ف) نَهْدًا: اِنهنا إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔

جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسُ لَيْسًا

لَوْنَهُ، یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ

کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔

نَهَدَ (ك) نُهُودَةَ الْفَرَسِ: گھوڑے کا عمدہ

اور مضبوط ہونا۔

نَهَدَتِ الْمَرْأَةُ: ابھرے ہوئے پستان والی

ہونا۔ صفت مَنَهْدٌ۔

نَاهِدَةٌ مَنَاهِدَةٌ: لڑائی میں کسی کا مقابلہ کرنا۔

أَنهَدَ الْعَطِيَّةَ: عطیہ کو بڑھانا الْحَوْضُ: حوض

الْإِنَاءُ: حوض یا برتن کو بھرنا یہاں تک کہ

چھلکے لگے۔ أَنهَدَتِ الْمَرْأَةُ: ابھرے ہوئے

پستان والی ہونا فَلَانًا: اِنهانا۔

تَنَهَّدَ الرَّجُلُ: ٹھنڈی سانس لینا۔

تَنَاهَدَ الْقَوْمَ: برابر برابر نفقہ نکالنا تاکہ اس

سے مشترک طور پر غلہ خریدیں اور نفقہ نکالا

جائے اس کو ابھد کہتے ہیں۔ تَنَاهَدَ الْقَوْمَ

الشَّيْءُ: آپس میں لین دین کرنا۔ تَنَاهَدُوا

فِي الْحَرْبِ: لڑائی میں ایک دوسرے پر حملہ

کرنا۔

اسْتَنَهَدَ لِإِلَى فِي اِثْنَيْنِ كَيْلَيْهِ بِلَانًا۔

النَّاهِدُ: فَاحِ نَهْدًا وَ نَهْدًا: ابھرے

ہوئے پستان والی عورت۔ نَهْدُ نَوَاهِدُ

النَّاهِدُ: شير۔ غَلَامٌ نَاهِدٌ: قریب البلوغ

بِكَ۔

النُّهَادُ: مقدار۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا

نُهُادٌ مَائَةٌ، یہ مقدار سو کے ہے۔

النُّهْدُ: سب۔ بلند چیز۔ شیر۔ کریم۔ عمدہ مضبوط

گھوڑا۔ مسکہ۔ پستان۔ نَهْدُ نُهُودُ

النُّهْدُ: نفقہ جو شہر کا سفر برابر برابر نکالیں۔

کہا جاتا ہے ”طَرَحَ نُهُدًا مَعَ الْقَوْمِ“ یعنی

اس نے ان کی مدد کی۔

النُّهْدَاءُ: ریت کا بلند ٹیلہ۔

حَوْضٌ أَوْ إِنَاءٌ نُهُدَانٌ: بھرا ہوا حوض یا

برتن جو ابھی چھلکانا ہو۔

النُّهَيْدُ: گاڑھا مسکہ۔

النُّهَيْدَةُ: گاڑھا مسکہ۔ ایک قسم کا کھانا جو

اندر ان کے بیج کے مغز کو آنے سے ملا کر تیار

کیا جاتا ہے۔

الْمَنْهُودُ إِلَيْهِ: جس کا قصد کیا جائے جس کی

طرف اٹھا جائے۔

الْمَنَاهِدَةُ: سب۔ جھگڑا کرنا۔

نَهَرَ (ف) نَهْرًا الدَّمُ: خون کا زور سے بہنا

المَاءُ: پانی کا بہنا اور نہر بنا لینا نَهَرَ: نہر

کھودنا۔ نہر جاری کرنا السَّائِلُ: سائل کو ڈانٹنا

(وَنَهَرَ) الحَافِرُ: کھودنے

والے کا پانی تک پہنچانا۔ کہا جاتا ہے ”حَفَرْتُ

الْبُيْرَ حَتَّى نَهَرْتُ“ میں نے نواں کھودا

یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔

أَنْهَرَ النَّهْرَ: نہر کو وسیع کرنا۔ چوڑا کرنا (اور

یہ نیزہ کے زخم کیلئے بھی آتا ہے) الدَّمُ: خون

نکالنا۔ بہانا الدَّمُ: خون کا بہنا العَرْفُ: رگ

سے خون نہر نکالنا فَلَانٌ: بھلائی کو نہ پہنچانا

فِي الْعَدُوِّ: تاخیر کرنا۔ سستی کرنا الرَّجُلُ: دن

کرنا البَطْنُ: پیٹ چلنا الحَافِرُ: کھودنے

والے کا پانی تک پہنچانا۔

انْفَهَرَ السَّائِلُ: سائل کو ڈانٹنا العَرْفُ: رگ

سے خون نہر نکالنا بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔

اسْتَنْهَرَ النَّهْرَ: نہر کا اپنے بہنے کے لیے

مضبوط جگہ بنانا الشَّيْءُ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر

وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کیلئے اسْتَنْهَرَ

کا استعمال کرتے ہیں۔

النَّاهِرُ: سفید انگوٹھ۔

النَّهَارُ: دن۔ نہار شہری بیچ۔ لے کر

مغرب تک۔ نَحْ أَنْهَرُ وَ نُهُرُ

النَّهَارُ: بھٹ تیز۔ زرخراب۔ نرالو۔

النَّهَارِيُّ: کھانا جو دن کے ابتدائی حصہ میں

کھایا جائے۔ ناشتہ۔

النُّهْرُ: ندی۔ دریا۔ نَحْ أَنْهَرُ وَأَنْهَارُ وَ نُهُرُ

وَ نُهُورٌ: نخلناش۔ وسعت۔ نہر میں ایک لغت

ہے۔

النُّهْرُ: سفید انگوٹھ۔ کہا جاتا ہے ”نُهُرٌ نُهُرٌ“

کشادہ نہر۔ ”نَّهَارٌ نُهُرٌ“ روشن دن ”مَاءٌ

نُهُرٌ“ بہت پانی۔

النُّهَيْرُ: بہت۔

النُّهَيْرَةُ: بہت دودھ والی اونٹنی۔

الْأَنْهَرُ: اسم تفضیل۔ نہار اُنْهَرُ: بہت

روشن دن۔

الْأَنْهَرَانِ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ: چاند کے

منازل میں عَوَاءٌ أَوْ سَمَاكٌ نَامِي دُو

سْتَارَةً۔

النَّاهُورُ: بادل۔

الْمَنْهَرُ: پانی بہنے کی جگہ جس کو خود پانی نے بنا

لیا ہو۔ قلعہ سے پانی باہر نکلنے کی نالی۔

الْمَنْهَرَةُ: لوگوں کے گھروں کے درمیان

کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”أَمَامَ

دَارِهِمْ مَنْهَرَةٌ“ ان کے گھروں کے سامنے

کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہے۔

نَهْرَهُ (ف) نَهْرًا: دُفِعَ کرنا اور مارنا۔ نَهَرَ

رَأْسَهُ: سر بلانا الشَّيْءُ: قریب ہونا فَلَانٌ: بچھ

لینے کیلئے اِثْمَانًا الْفَيْصِلُ: صَرْعِ امَّه اُونْتِ كَيْ

بَنِي كَامَانَ كَيْ تَحْنُ بِرُكْمَارَاتِ الدَّابَّةِ: چوپایہ کا

سینہ نکال کر چلانا الدَّابَّةُ: براسہا۔ چوپایہ کا

اپنے آپ سے دُفِعَ کرنا۔ اور جب دودھ

چھڑانے کے قریب ہو تو کہا جاتا ہے ”نَهَرَ

لِلْفِطَامِ“ صفت مذکر نَاهِرٌ اور صفت مؤنث

نَاهِرَةٌ: نَهَرَ بِالذَّلْوِ فِي الْبُيْرِ: ذُلُّو كُو

كُنُو مِيں بھر جانے کے لیے بَلَانًا الذَّلْوِ مِّنْ

أَنْهَضَهُ أَهْضًا. كَهْرًا كَرْنًا كَيْلِيَةً بَلَانًا.
أَنْهَضَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ: هَوَاكَ بَادِلُونَ كُو
جَلَانًا أَوْرَاهْمَانَ الْقَرْبَةَ: مَنَكٌ كُو جِهْلَكَةً تِكْ بَهْرَانًا.
أَنْهَضَهُ بِالسُّيِّئِ: تِكْ رِگَا كُو أَهْضَانًا.
تَنَاهَضُوا فِي الْحَرْبِ: جَنَكٌ مِيں اِيك
دو سرے پر حملہ کرنا۔

أَنْهَضَ: كَهْرًا هَوَانًا فَلَانًا لِلْأَمْرِ: مَسْتَعِدَّ
كِرْنَا: كَهْرًا كِرْنَا الْقَوْمَ: مَقَاتِلَةَ كُو لِي كَهْرًا
هَوَانًا.

أَسْتَنْهَضَهُ لِكَذَا: كِسِي كَام كَيْلِيَةً اِثْمَانًا كُو كِهَانًا.
النَّاهِضُ: فَا- اُزْنَةُ كُو لَاتِقٌ پَر نَدَه كَا سَچَ.
كُهْوَرُ كُو بَارُو كُو اَو پَر كَا كُو شَت- كِهَا جَاتَا سَ
"عَامِلٌ نَاهِضٌ" كَر كُرْزَرْنَةُ وَاللَا "وَمَكَانٌ
نَاهِضٌ" بَلَدٌ جَدُ.

نَاهِضَةُ الرَّجُلِ: مَرْدُ كُو بَابُ كِي اَوْلَادُ- اَوْر
اِس كُو خَدَامٌ وَغَيْرُهُ- جَ نَوَاهِضُ
النَّوَاهِضُ بَرُو كُو ذُوْلُ اَوْر سَخْتِ بَدَنُ
وَالِ اَوْنَتُ-

النَّهَاضُ مِنَ الطَّرْقِ: رَاسَتَةُ كِي بَلَنْدِيَاں اَوْر
كِهَاتِيَاں- النَّهَاضُ: جَلْدِي-

النَّهْضُ: سَرٌ مِّنَ الْبَعْجِ: اَوْنَتُ كُو
مُوْنَدُ هُو اَوْر كَنْدُ هُو كُو دَر مِيَاں كَا حَصَ- جَ
أَنْهَضَ: النَّهْضُ: ظَلَمٌ وَ زَبْرَدَسْتِي- سَخْتِ
زَمِيں-

النَّهْضَةُ: نَهْضُ اس مَرَّة- طَاقَتُ وَ قُوْتُ-
زَمِيں كِي چُرْهَانِي كُو جَس مِيں اِنْسَانُ يَاجُو پَآ يَ پَسْتِ
زَمِيں سَ چُرْهَتِي هُو نِي تَهْكُ جَانِي- جَ
نِيهَاضُ: كِهَا جَاتَا سَ "مَكَانٌ مِّنْهُ نَهْضَةٌ اِلَى
كَذَا" اِس كِي كِرْمَتُ فَلَآں جَانِي هُو "وَهُوَ
كَثِيْرُ النَّهْضَاتِ" وَ هُو بَهِتُ كِرْمَتُ وَ اِلَا سَ-

النَّهَاضُ: بَهِتُ اِثْمَانًا وَ اِلَا- كَا- مَكَانٌ
نَهَاضٌ: بَلَدٌ جَدُ.

نَهْفٌ (ف) نَهْفًا الرَّجُلُ: مَخِيْرٌ هَوَانًا.
نَهَقٌ (ف) نَهَقًا وَ نَهَقٌ (س) نَهَقًا وَ
نَهَيْقًا وَ نَهَاقًا وَ تَنَهَاقًا الْجَمَارُ: مَرْدُ هُو كَا
رِيكِنَا صَفْتِ نَاهِقُ.

تَنَاهَقَتِ الْحُمْرُ: مَرْدُ هُوں كَارِيكِنَا.

أَنْهَسَ اللَّحْمَ: كُو شَتُ كُو اِگَلِ دَانْتُوں سَ
نُوچِنَا فَلَانًا: غَيْبَتُ كِرْنَا.

النَّهْسُ وَ النَّهْسُ: لُورُ سَ كُو مَانَدُ اِيك
پَر نَدَه جُو بِيْمَشَ اِيْنِي دُوْمُ بَلَا تَارِجَتَا سَ اَوْر چُرْپُوں كَا
شُكْرَا كِرْتَا سَ- نَ نَهْسَانًا.

النَّهَاسُ وَ النَّهْوَسُ وَ الْمَنْهَسُ
وَ الْمَنْهَسُ: بَهِتُ دَانْتُ سَ كَانِي اِلَا- شِيْرُ-
بِجِيْرِيَا- الْمَنْهَسُ: كَانِي كِي جَدُ- كِهَا جَاتَا سَ
"أَرْضٌ كَثِيْرَةُ الْمَنَاهِسِ" بَهِتُ چَرَا كَا وَ اِلَا
زَمِيں-

النَّهْسُ: كَمُ كُو شَتُ اِلَا- ذُوْلَا-
الْمَنْهَوَسُ: كَمُ كُو شَتُ اِلَا- رَجُلٌ
مَنْهَوَسٌ الْقَدَمِيْنُ: بَلِي كُو تَمُ كَامَرْدُ-
الطَّعَامُ: كِهَانًا.

نَهَشَهُ (ف) نَهَشًا: اِگَلِ دَانْتُوں سَ
نُوچِنَا- دَانْتُ سَ كَاثُ كُرْشَانُ ذُوْلَا الْحَيَّةُ:
سَانِپُ كَا ذُوْلَا- نَهَشَةُ الذَّهْرُ: مَشَقَّتُ مِيں
ذُوْلَا-

نَهَشْتُ وَ انْتَهَشْتُ اَعْضَاؤُنَا: لَآغِرُ
هَوَانًا.

النَّهَاشُ: مِثْلُ- عَرَبُ وَ اِلَا اَوْنَتُ كُو قَوْلُ
نَهَشَهُ سَ جَدُ مَشَقَّتُ مِيں ذُوْلُ وِيں- كِهَا جَاتَا
سَ "هُوَ نَهَسَ الْيَدِيْنِ اَو الْقَوَائِمِ" وَ هُو
بَا تَهْرِيَاں كَا پَهْرُ تِيَا سَ-

الْمَنْهَوَسُ: مَشَقَّتُ مِيں پَرَا هُو اِلَا-
نَهَشَلُ الرَّجُلِ: بَرُو كُو مَرَا هَوَانًا فَلَانًا: دَانْتُ
سَ كَانِي السُّيِّئِ سَخْتِ جُو كُو كِي مَانَدُ كِهَانًا.

النَّهْشَلُ: بِجِيْرِيَا- شُكْرَا- بَهِتُ بَدُهَا
بُرْهَآ سَ كِي وَجْهَ سَ كَا پِنِي اِلَا- مُوْنَتُ
نَهْشَلَةٌ.

نَهَضَ (ف) نَهَضًا وَ نَهَضًا: كَهْرًا هَوَانًا
عَنْ مَكَانِهِ: اِثْمَانًا اِلَى عَدُوِّهِ: جَلْدِي سَ
حَمَلُ كِرْنَا النَّبْتَ: نَبَاتَاتُ كَا سِيْدَهَا كَهْرًا هَوَانًا
لِلْأَمْرِ: مَسْتَعِدَّ هَوَانًا الطَّائِرُ: بَر نَدَه كَا اُزْنَةُ كَيْلِيَةً
بَارُو پَهِيَا نَا (نَهَضًا) فَلَانًا: ظَلَمُ كِرْنَا الشَّيْبُ
فِي الشَّبَابِ: جَدِي بُرْهَآ اِشْرُوْعُ هُو جَاتَا-

نَاهَضَ قُوْرَتُهُ مَاهِضَةً: مَقَاتِلَةَ كِرْنَا.

النَّبْرُ: ذُوْلُ كُو كُو كِي سَ نَكَالًا نَهَزَ الرَّجُلُ:
تَمُ كِرْنَةُ كُو لِي كُو رُوْنُ اِثْمَانًا اَوْر سِيْدَهَا نَكَالًا
قِيْبَحًا: پِيْبُ پَهِيَكِنَا اَوْر كِهَا جَاتَا سَ "نَهَزْتُ نَيْ
اِلَيْكَ حَاجَةً" جَحِي سَرُوْرَتُ تَهْمَا سَ پَآسِ
لِ اَلِي-

نَاهَزَهُ مَنَاهَزَةً: قَرِيْبُ هَوَانًا- كِهَا جَاتَا سَ
"نَاهَزَ الْخَمْسِيْنُ" اِس كِي عَمْرُ پِيَا سَ كُو
قَرِيْبُ نَ "وَ نَاهَزَ لِبِلْفَاطِمَ" وَ هُو دُوْدُ
چَهْرَانِي كُو قَرِيْبُ پَهِيَا الصَّبْدُ: سَبَقْتُ كِرْنَا
الْفُرْصَةَ: غَيْبَتُ جَاتَا- نَاهَزْتُهُمُ الْفُرْصَ:
فَرِصَتُ پَآ-

أَنْهَزَهُ: دَلُوْعُ كِرْنَا اِثْمَانًا.

تَنَاهَزًا: سَبَقْتُ كِرْنَا- كِهَا جَاتَا سَ "تَنَاهَزُوا
الْفُرْصَ" اِنْهُوْنُ نِي فَرِصَتُ كُو غَيْبَتُ جَانِي

كِي وَجْهَ سَ سَبَقْتُ كِي-
اِنْتَهَزَ الْفُرْصَةَ: غَيْبَتُ جَاتَا اَوْر سَبَقْتُ
كِرْتِي هُو نِي اِثْمَانًا الشُّيْ: قَبُوْلُ كِرْنَا اَوْر لِيْنِي

كِي جَلْدِي كِرْنَا فِي الصَّحْلِ: بَهِتُ زُوْرُ سَ
بِنَسَانًا.

النَّاهِزُ: فَا نَاهِزُ الْقَوْمِ: قَوْمُ كَا سَرْدَارُ- قَوْمُ
كَا چُو دَهْرِي-

النَّهَازُ وَ النَّهَازُ: قَدْرُ اِنْدَا زُو- كِهَا جَاتَا سَ
"هَذَا نَهَازٌ ذَاكُ" يِ اِس كُو مَقْدَارُ سَ-

النَّهْزُ: سَرٌ بَا تَهْرُ مِيں لِيْدَا- لِيْنِي كَيْلِيَةً اِثْمَانًا اَوْر
كِهَا جَاتَا سَ "نَهَزَهُ كَذَا" اِيْنِي اِس كِي مَقْدَارُ

اَتِي سَ-
النَّهْزُ: شِيْرُ-

النَّهَازُ: اِس مَبَالَدُ- چَلْنِي مِيں سِيْنَةُ نَكَالَنِي اِلَا
گَدَا-

النَّهْزَةُ: فَرِصَتُ- جَ نَهْزُ: كِهَا جَاتَا سَ "هُوَ
نَهْزَةٌ الْمُخْتَلِسُ" وَ هُو اِيك كَا شُكْرَا سَ-

النَّهْزُ مِنَ النَّبْرِ: كُو كِي سَ كَا سَ-
الْمَنَاهِزَةُ: سَرٌ مَسَابَقَتُ-

نَهَسَ (ف) وَ نَهَسَ (س) نَهَسًا
اللَّحْمَ: كُو شَتُ كُو اِگَلِ دَانْتُوں سَ نُوچِنَا-

نَهَسَتِ الْحَيَّةُ فَلَانًا: سَانِپُ كَا ذُوْلَا- نَهَسَ
الْكَلْبُ فَلَانًا: كَسِي كُو كَسِي كُو نُوچُ لِيْدَا-

النہام۔ فاجلانے والا۔
النہام۔ بتلیث النون لوہار۔ بڑھی۔
النہام۔ ابو۔ راہب۔ ج نہم۔
النہامی۔ بتلیث النون لوہار۔ بڑھی۔
النہامی والنہامی۔ راہب۔ آسان

راستہ۔

النہم۔ حریص۔

النہمة۔ مص۔ نہم کا اسم مرہ۔ حاجت۔
کسی چیز کی خواہش۔ کہا جاتا ہے "لہ فی ہذا
الأمور نہمة" اس کو اس کی خواہش ہے
وقضى منه نہمة اس نے اپنی خواہش
پوری کی۔

النہام۔ اسم مبالغہ۔ شیر۔ واضح راستہ کا
درمیان۔

النہامة۔ النہام کا مؤنث۔ شیر۔

النہم۔ حریص۔ شیر کی دھاڑ۔ ہاتھی کی
چنگھاڑ۔

المنہاد۔ من الابل: ڈانٹ پر مطیع ہونے
والی اونٹنی۔ ج منہام۔

المنہوم۔ سیر حریص۔ مشتاق و فریفتہ۔ کہا
جاتا ہے "ہو منہوم بالمال" وہ مال کا
حریص ہے سیر نہیں ہوتا۔

نہنہہ نہنہہ عن الشئ: روکتا۔ ڈانٹا۔
تنہنہ۔ رکتا۔

النہنہ۔ باریک بناوٹ کا کپڑا۔

نہاہ نہہوہ نہوا: ایک لغت ہے نہاہ
بہنہاہ نہیائی میں۔

نہاہ نہہاہ نہیاعن کذا: ڈانٹا۔ منع کرتا۔
صفت مذکر ناہ۔ صفت مؤنث ناہیہ اور جس
سے منع کریں اس کو منہی عنہ کہتے ہیں اور

اسم النہیۃ نہی اللہ عن کذا: حرام کرنا اور
کہا جاتا ہے "ہو رجل نہاک من رجل" یہ

ایسا شخص ہے جس نے تم کو دوسرے شخص کے
طلب کرنے سے منع کر دیا ہے اور تم کہتے ہو

"ہی امراة نہتک من امراة" و ہما
رجلان نہیاک من رجلین و ہم رجالت

نہوک من رجال۔

دلیر۔ مضبوط اونٹ۔ تلوار قاطع۔ کہا جاتا ہے
"سيف نہتک" اچھے اخلاق والا
(و النہتک) پسو کے مانند ایک کپڑا جس کو
حرقوس بھی کہتے ہیں۔

المنہکۃ۔ باعث پردہ دری۔ کہا جاتا ہے
"ہذا منہکۃ للاغراض" یہ آبروریزی کا
سبب ہے۔

نہلتی (نہلا و منہلا الابل: پہلی بار
پینا۔ پیسا ہونا۔

انہل الابل: پہلی بار پلانا۔ قدیم۔ پہلی بار
ہے ہوئے اونٹوں والا ہونا انہلذا زرعہم:
پہلی مرتبہ سیراب کرنا۔ انہل فلانا:
غضبناک کرنا۔

النہل۔ فاد۔ سیراب۔ پیسا۔ ج نہل و
نہل و نہول و نہلہ و نہلی و نہال۔

النہلۃ۔ مؤنث النہل۔ چشمہ کی طرف
آنے جانے والی ج نہل و نواہل۔

النواہل: بھوکے اونٹ۔ النہل۔ س۔ جمع
ناہل۔ پہلی مرتبہ پینا۔ وہ خوراک جو کھائی
جائے۔

النہلان۔ پینے والا۔ سیراب۔ پیسا۔ ج
نہلی ابل نہلی: بھوکے اونٹ۔

المنہال۔ بہت غصہ دلانے والا۔ ریت کا بلند
ٹیلہ جس سے ریت گرتی رہے۔ قبر۔ بہت
فیاض۔

المنہل۔ گھاٹ۔ پینا۔ راستہ پر پانی پینے کی
جگہ۔ ج مناہل۔

نہم (ف ض) نہما و نہیما و نہیما
الابل: اونٹ کو تیز دوڑنے کے لیے ڈانٹا۔

نہم (ض) نہما۔ بہت کھانا۔

نہم (ض) نہما و نہیما القیل: ہاتھی کا
چنگھاڑنا۔

نہم (س) ونہم نہسا و نہامۃ فی
الاشکل: حریص ہونا فلان فی الشئ:

مشتاق ہونا۔
ناہمۃ منہامۃ۔ باہم غھڑی سانس بھرنا۔
انتہم۔ جھڑکی کھانا۔

النہاقان۔ کھردار جانور کے جڑے کی دو
آبھری ہوئی ہڈیاں اور ان کو النواہق بھی کہتے
ہیں۔

ناہق الحمار و نواہقۃ۔ گدھے کے گلے
سے آواز نکلنے کی جگہ اور بقول بعض نواہق
ان کو کہتے ہیں جو جانور کی ناک کے آخری حصہ
کو گھیرے ہوئے ہیں۔ واحد ناہقۃ۔

النہق۔ س۔ پردہ کی ایک قسم (و النہق)
ایک قسم کی نباتات۔ واحد نہقۃ و نہقۃ۔

نہک (ف) نہکا و نہاکۃ۔ غاب ہونا۔
نہک الثوب: پھن کر بوسیدہ کرنا من
الطعام و فیہ: کھانے میں مبالغہ کرنا عرض
فلان: آبروریزی میں مبالغہ کرنا الصرع:
تھن سے دودھ نکال لینا۔ نہکت الابل ماء

الحوض: سارا پانی جانا الحصى فلانا لاغر
کر دینا۔ مشقت میں جھلا کر دینا الشراب
فلانا: ڈبلا کرنا۔

نہک (س) نہکا و نہکۃ۔ سخت سزا دینا
(نہکا و نہکا و نہکۃ و نہاکۃ)
الحصى فلانا لاغر و ڈبلا کرنا (نہکا) فلان

الشراب: ختم کرنا۔
نہک نہکا۔ لاغر و ڈبلا ہونا۔ صفت
منہوک۔

نہک (ک) نہاکۃ۔ دلیر ہونا۔
انہکۃ۔ سخت سزا دینا۔

انہکۃ الحصى: لاغر و ڈبلا کرنا۔ انہک
فلان الحزمۃ: اپنے چال چلن کو خراب کرنا
الشئ: بے عزتی کرنا فلانا: بے آبروئی کرنا۔

النہاک۔ فاد۔ تمام چیزوں میں مبالغہ کرنے
والا۔

النہک۔ مص۔ بحر جز کے دو ٹمٹ کو حذف
کرنا۔ جزا خیر کو یا بھی کو منہوک کہتے ہیں۔

النہکۃ۔ نہک کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے
"بذت فیہ نہکۃ المرص" اس میں

مرض کا اثر ڈبلا پین ظاہر ہوا۔
النہوک۔ دلیر۔

النہتک۔ تمام چیزوں میں مبالغہ کرنے والا۔

نَوْتُونَ: ایٹم کے مرکزہ کے گرد متنی چارج والے ذرات جن کو الیکٹران کہتے ہیں۔ مختلف مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ ایک الیکٹران برقی چارج کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے۔
النوئی: کشتی بان۔ جہاز راں۔ جن نواتھی اور بقول بعض معرب ہے۔
فاج بنوچ نوجا: ریاکاری کرنا۔ فریب دینا۔

النوچه: نوح کا اسم مرہ۔ گولہ۔ جن نوح۔
ناحت تنوُح نوحا و نواحا و نياحا و نياحة و مناخا المرأة الميت و علی الميت مرده پر او بلا کرنا۔ اسم النياحة الحمامة: کوکو کرنا۔ صفت نايحة و نواحة۔

ناوِحة مناوِحة: مقابلہ کرنا۔
تنوُح تنوُحاً الشئ: جھولنا۔

تناوُح تناوُحاً الجبلان: دو پہاڑوں کا باہم مقابل ہونا۔ تناوُحَت الریاح: ہواؤں کا تیز چلنا۔ کبھی پروانی کبھی شمالی کبھی جنوبی ہوا کا چلنا۔
استناحت استناحة المرأة: نوحہ کرنا۔
واو بلا کرنا۔ استناح الذئب: بھڑیے کا جھوکنے کا رُجُل: روکر دوسرے کو رلانا۔ فلانا: رلانا۔

النایحة: اسم فاعل مؤنث۔ جن نُوُح و اَنوُح و نُوُح و نَوَائِح و نَائِحَات۔
النوُح: س۔ اکٹھی ہو کر نوحہ کرنے والی عورتیں۔ کہا جاتا ہے "بِئْسَاءَ نُوُح" یعنی نَوَائِح۔

النوُحة: اسم مرہ۔ میت پر بین۔ قوت۔
النوُاح: اسم مبالغہ۔ مؤنث نَوَائِحَة: قمری کی مانند ایک پرندہ۔

المناحة: نوحہ کی مجلس۔ نوح کا اسم۔ کہا جاتا ہے "كُنَّا فِي مَنَاحَةِ فَلَانٍ" ہم فلاں کے اوپر بین کرنے میں تھے۔ جن مناحات و مناوُح۔

المناحة: اکٹھی ہو کر نوحہ کرنے والی عورتیں۔

اس کی پروا نہیں کی۔
تَنَآوَبُوا تَنَآوَبًا عَلَى الْمَاءِ: تقسیم کی نگرہ سے بائنا الأمر: باری باری کرنا تَنَآوَبَتِ الْخَطُوبُ: حوادث و مصائب کا پیش آنا۔ اور کہا جاتا ہے "الْمَنَآيَا تَتَنَآوَبُنَا" موت ہر ایک کی باری سے آتی ہے "تَنَآوَبُوا الْخُطْبَ اِو الْأَمْرَ" باری باری سے وہ کام کرنے کے لئے مستعد ہوئے۔

اِنْتَابَهُمُ اِنْتَابًا: پیارے آنا فلانا امراً: لاجن ہونا۔ پیش آنا زید عمروا: قصد کرنا۔
اِسْتِنَابَةً اِسْتِنَابَةً: اپنا نائب بنانا۔

النائب: فاعل قائم مقام۔ جن نُوُب و نَوَائِب اور کہا جاتا ہے "خَيْرُ نَائِبٍ" یعنی خیر کثیر۔
النائبية: النائب کا مؤنث۔ حادثہ۔ مصیبت۔
جن نَائِيَات و نَوَائِب: النوائب: عام اس سے کہ خیر ہوں یا شر۔ نَوَائِب الرعيّة: پل اور سڑک وغیرہ کی درستی کیلئے شاہی ٹیکس۔
الحصى النائية: روزانہ کا بخار۔

النباية: س۔ قائم مقامی۔ باری۔ کہا جاتا ہے "جَاءَتْ نَيْبَاتُكَ" تمہاری باری آئی۔
النوب: س۔ ناب کی جمع۔ ایک دن رات کا سفر۔ نزدیکی۔ قوت۔

النوب: حشیوں کا ایک گروہ۔ نوبہ کار بننے والا۔ واحد نوبی، شہد کی مکھی۔ واحد النائب۔
النوبة: س۔ فرصت۔ باری۔ دولت۔ لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے "جَانَتْ نَوْبُكَ" تمہاری باری آئی۔ جن نُوُب۔
النوبة عند الأطباء: بخار شروع ہونے کا وقت۔

النوبة: حادثہ۔ مصیبت۔ جن نُوُب۔ نايبة أمر او اِنْتَابَهُ كَالْأَمْرِ: نوبہ کے رہنے والے (صعد مصر) کے جنوب میں ایک صوبہ۔

المناب: س۔ کہا جاتا ہے "نَابُ مَنْابِ الْقَاضِي" وہ قاضی کے قائم مقام ہوا۔ پانی کی طرف راستہ۔

المنيب: فاعل بکثرت بارش۔ عمدہ بہار۔
نَاتِ يَنْوُتُ نَوْتًا: کمزوری کی وجہ سے جھک پڑنا۔

ایک ستارہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسی وقت دوسرا ستارہ مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور ان اٹھائیس ستاروں کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ سال کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر از سر نو شروع ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا خیال تھا کہ ایک ستارے کے طلوع اور دوسرے کے غروب کے وقت بارش یا ہوا کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے وہ بارش کو اسی ستارے کی طرف منسوب کرتے تھے جس کے طلوع کے وقت ہوتی تھی اور کہتے تھے مثلاً مَطْرُنَا بِنَوِّ الثَّرِيَاءِ اَوْ بِنَوِّ الذَّبْرَانِ۔

النوء: نباتات۔ ساگ۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالْبَادِيَةِ اَنْوَاءُ مِنْ فَلَانٍ" دیہات میں فلاں سے زیادہ انوواء کا جاننے والا کوئی نہیں۔
المستناء: وہ شخص جس سے عطیہ مانگا جائے۔

نَابُ يَنْوُبُ نَوْبًا و مَنَابًا و نِيَابًا فِي الْأَمْرِ عَنْ زَيْدٍ: قائم مقام ہونا۔ صفت نَابٍ اور جس کی قائم مقامی کی جائے اس کو مَنُوْبٌ عَنْهُ اور جس میں قائم مقامی کی جائے اس کو مَنُوْبٌ فِيهِ کہتے ہیں اَلْيَهْ: بار بار واپس آنا۔ کہا جاتا ہے "التَّحَلُّ تَنْوُبُ اِلَى الْخَلَايَا" شہید کی مکھی بار بار جھپٹنے کی طرف واپس آتی ہے اِلَى اللّٰهِ: توبہ کرنا فَلَانٌ: خدا کی اطاعت کرنا۔

نَابُ يَنْوُبُ نَوْبًا و نَوْبَةً فَلَانًا اَمْرًا: پیش آنا۔
نَاوِبَةٌ مَنَاوِبَةٌ: سزا دینا۔

نُوْبٌ: فَلَانٌ: باری مقرر کیا جاتا۔
اَنَابَ زَيْدٌ عَنْهُ وَ كَيْلًا فِي كَذَا: قائم مقام کرنا۔ زید کو مَنِيْبٌ وکیل کو مناب اور امر کو مَنَابٌ فِيهِ کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے "اَنْبَتْهُ مَنَابِي" میں نے اس کو اپنا قائم مقام کیا اَلْيَهْ: باری باری واپس ہونا اِلَى اللّٰهِ: متوجہ ہونا اور توبہ کرنا اور کہا جاتا ہے "اَنْتَابِي فَلَانٌ فَمَا اَنْبَتْ لَهُ وَاَلْيَهْ" میرے پاس فلاں آیا میں نے

نُوَخٌ تَنْوِيخًا اللَّهُ الْأَرْضَ طُرُقَةً
لِلْمَاءِ : ہموار کرنا اور برداشت کرنے کی
طاقت دینا۔

أَنَاحُ إِنَاخَةَ الْجَمَلِ : اونٹ کو بھانا۔ کہا جاتا
ہے ”أَنَحْتُ الْعَبِيرَ فَبَرَكَ وَ تَنَوَّخَ
وَ اسْتَنَاحَ“ میں نے اونٹ کو بھایا وہ بیٹھ گیا۔
اور نَاح اور أَنَاخ نہیں بولا جاتا فَلَانٌ
بِالْمَكَانِ : اقامت کرنا بِالْبَلَاءِ او الذَّلُّ
بِفُلَانٍ : نازل ہونا۔ أَنَاخَ بِهِ الْحَاجَةُ : نازل
کرتا۔

اسْتِنَاخَ اسْتِنَاخَةَ الْجَمَلِ : اونٹ کا
بیٹھنا۔
النَّايِحَةُ دُورٌ زَيْنٌ۔

المُنَاخُ : اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ۔ اقامت
گاہ۔ غیر پسندیدہ جگہ کیلئے کہا جاتا ہے ”هَذَا
مُنَاخٌ سُوءٌ“
المُنِيخُ : فـا۔ ثیر۔

نَادٌ يَنْوُدُ نُوْدًا وَ نُوَادًا وَ نُوْدَانًا : نیند سے
جھومنا۔

تَنَوَّدَ تَنْوُدًا الْغَضْبُ : شہی کا ہلنا۔
نُوْدَلٌ نُوْدَلَةٌ الرَّجُلُ : بڑھاپے کی وجہ سے
کا ہلنا۔
النُّوْدَلُ : پتانا۔

المُنُوْدَلُ : بڑھاپے کی وجہ سے کا پینے والا
بڑھا۔ کہا جاتا ہے ”مَشَى الرَّجُلُ مَنُوْدَلًا“
مرد بدن چھوڑ کر چلا۔

نَارٌ يَنْوُرُ نُوْرًا وَ نِيْرًا : روشن ہونا الْعَبِيرُ :
اونٹ پر داغ لگانا الْقَوْمُ : ٹھکت کھانا النَّارُ
مِنْ بَعِيدٍ : آگ دور سے دیکھنا۔ (نارِبُ
الْمَرْأَةِ نُوْرًا وَ نِيْرًا وَ نَوَارًا“ تہمت سے
پچھا۔ شُكٌ وَ شَبَهٌ سے دور ہونا الْفِتْنَةُ : فتنہ کا
واقع ہونا۔ پھیلنا۔ صفت نَائِرَةٌ۔

نَوْرٌ تَنْوِيْرًا الشَّيْءُ : روشن ہونا۔
المِضْبَاحُ : چراغ روشن کرنا عَلِيُّ فُلَانٍ :
مشتبہ کرنا التَّمْرُ : گھٹل بیٹھا الصُّبْحُ : روشنی
چمکنا الشَّجَرُ : کلی نکالنا الْفُلَانُ : روشنی دکھانا
الزَّرْعُ : پکانا الْمَرْأَةُ : تہمت سے پچھا۔ شُكٌ وَ

شِبَهٌ سے دور رکھنا۔

نَاوْرَةٌ مَنَاوْرَةٌ : باہم گالی گلوچ کرنا۔

أَنَارَ إِنَارَةَ الشَّيْءِ : روشن ہونا۔ خوبصورت
ہونا۔ ظاہر ہونا الْبَيْتُ : روشن کرنا الْمَسْأَلَةُ :
واضح کرنا اللَّهُ يُرَاهِنُهُ : جت کی تلقین کرنا
الشَّجَرُ : کلی نکالنا۔

أَنْوَرٌ أَنْوَارًا : الشَّيْءُ : ظاہر ہونا۔

تَنْوَرٌ تَنْوَرًا : الْمَكَانُ : روشن ہونا الرَّجُلُ :
بال دور کرنے کیلئے پاؤڈر استعمال کرنا الْقَوْمُ :
ٹھکت کھانا النَّارُ : مَنْ بَعِيدٍ : دور سے دیکھنا
الرَّجُلُ : کسی شخص کو آگ کے پاس ایسی جگہ
سے دیکھنا کہ وہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو۔

إِنْتَارَ إِنْتِيَارًا وَ اسْتَوْرَ اسْتَوَارًا : بال اڑانے کا
پاؤڈر استعمال کرنا۔

اسْتِنَارَ اسْتِنَارَةً : الْبَيْتُ : روشن ہونا یہ:
کسی سے روشنی کی مدد مانگنا عَلَيْهِ : فتح مند ہونا۔
غالب ہونا الْمَرْأَةُ : تہمت سے پچھا۔ شُكٌ وَ
شِبَهٌ سے دور رکھنا۔

النَّائِرَةُ : اسم فاعل مَوْثٌ۔ عداوت۔ بغض
کینہ۔ نحو انوار۔

النُّوْرُ وَ النُّوْرُ : کاجل۔ اشم (سرمد) کا پتھر
(کی مانند نگر کی جس کو باریک ہیں کرموڑھے
پر لگاتے ہیں۔ شُكٌ وَ شِبَهٌ سے دور رہنے والی
عورت۔ گائے جو سائٹ سے علیحدہ رہے۔ ج
نُوْرٌ۔

النُّوَارُ : مس۔ شُكٌ وَ شِبَهٌ سے دور رہنے والی
عورت۔ گائے جو سائٹ سے علیحدہ رہے۔ ج
نور۔

النُّوَارُ : شُكٌ وَ شِبَهٌ سے دُورِ۔ یا دُورِ خواہ
کسی چیز سے ہو۔

النَّارُ : آگ۔ کلمہ مَوْثٌ ہے اور کبھی مذکر
استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر نُوْرِيَّةٌ ج أَنْوُرٌ وَ

نِيْرَانٌ وَ نِيْرَةٌ : النَّارُ : داغ۔ رائے۔ اور نار
سے جنم کا کنا یہ کیا جاتا ہے جَبَلُ النَّارِ : کوہ
آتش فشاں بَنُو النَّارِ : قحطاق و ضنان و ثوب
تین شاعر جو عمرو بن شبلہ کے لڑکے تھے اور
جو دت اشعار کی بنا پر بنو النار کہلاتے تھے۔ اور

کہا جاتا ہے ”أَوْقَدَ نَارَ الْحَرْبِ“ اس نے
لڑائی کی آگ بجڑ کاٹی ”وَلَا تَسْتَفِي بِنَارِ
فُلَانٍ“ فلاں سے مشورہ مت لو۔ ”لَا
تَنْوَأَى نَارَهُمْ“ وہ دونوں اکٹھے نہیں
ہوتے۔ اس حیثیت سے کہ ایک کی آگ
دوسرے کی آگ کے مقابل ہو۔ ”نَارُ
التَّهْوِيلِ“ زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریقہ تھا
کہ تحالف کے وقت آگ روشن کرتے تھے اور
اس میں تمک ڈالتے تھے جب وہ بجتی تھا تو اس
سے حلف کی تاکید سمجھتے تھے۔ ”نَارُ الْقُرَى“
مہمانی کی آگ۔ عادت تھی کہ بلند جگہ پر رات
میں آگ روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ بھولا بھٹکا
مسافر اس کو دیکھ کر آجائے اور جتنی ہی بلندی پر
یہ آگ ہوتی تھی اتنی ہی باعث فخر تھی ”نَارُ
الْإِنْدَارِ“ اعلان جنگ یا مدافعت کی آگ اس
طرح پر کہ جب کسی قوم سے لڑنے کا ارادہ یا
کسی قوم کے حملہ کا خوف کرتے تھے تو آگ
روشن کر دیا کرتے تھے اور لوگ اسے دیکھ کر
جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ”نَارُ الْإِسْتِخَارِ“
اظہار زیادتی کی آگ۔ عرب جب کسی قوم سے
مقابلہ کیلئے جاتے تھے اور کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے
تھے تو بہت آگ جلاتے تھے اور بہت سے جانور
ذبح کرتے تھے تاکہ کوئی آگ اور ذبح کی کمی
سے قلت تعداد پر استدلال نہ کرے۔

النُّوْرُ : مس۔ کلی یا سفید کلی۔ واحد نُوْرَةٌ : ج
أَنْوَارٌ۔

النُّوْرُ : روشنی۔ اور بقول بعض نور اس کیفیت
کا نام ہے جس کو قوتِ باصرہ والا ادراک کرتی
ہے۔ اور اسی کے واسطے سے مہضرات کا ادراک
کرتی ہے جَنْوَارٌ وَ نِيْرَانٌ۔

النُّوْرُ : وہ جو چیزوں کو ظاہر کر دے۔ نباتات
کی خوشنوائی اور لمبائی۔ جَنْوَرَةٌ : داغ۔

النُّوْرُ وَ النُّوْرَةُ : ایک خانہ بدوش قوم جو ایشیا
یورپ افریقہ اور امریکہ میں پائی جاتی ہے واحد
نُوْرِيٌّ : النُّوْرِيٌّ : اچکا۔

النُّوْرَةُ : داغ۔ چونہ کا پتھر۔ بال دور کرنے کا
پاؤڈر۔ جادوگرئی۔

اناصہ اناصۃ ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
"انصت ان آخذ منه شیئا میں نے ارادہ
کیا کہ اس سے کچھ لوں۔

انصاٹ انصاٹا الشمس آفتاب کا
غروب ہونا۔

استناصۃ استناصۃ حرکت دینا اور ہلکا
سمجھنا اور اپنی ضرورت کیلئے لے جانا۔

استناص الفرس چلنے کے لیے حرکت
کرنا الرجل سر ہلند کرنا۔ پیچھے رہنا۔

النوص س۔ گور خر۔ سخاوت (النوص)
گریز۔

النوصۃ ناصر کا اسم مرتبہ۔ پانی وغیرہ سے
دھلائی۔ کہا جاتا ہے "ما بہ نوبض اس میں
قوت یا حرکت نہیں۔

المناص س۔ جائے پناہ۔ بھاگنے کی جگہ۔ تم
کہتے ہو "مالک من مناص تمہارے لیے
نجات کی جگہ نہیں۔ سخاوت۔

ناصر نوبض نوصا بلکوں میں جانا۔ پیچھے
ہٹنا الشیء اکبیرنے کی کوشش کرنا الماء
پانی نکالنا البرق بجلی کا چمکانا الشیء ہلنا
الرجل بھاگ کر نجات پانا۔

نوص تنویضا الثوب بالصنع کپڑے کو
رنگنا۔

اناص اناصۃ مشقت کا اثر آنکھوں میں
ظاہر ہونا النحل زحمت خرم کا تیار ہونا پکنا۔

النوص پانی نکلنے کی جگہ۔ وادی۔ بریتوں
کے درمیان کی ہڈی من البعیر اونٹ کی
پشت اور چوڑا درمیانی حصہ۔ ج انواض و
انواض۔ الانواض والا نواض ہلند
جگہیں۔

المناص جائے پناہ۔
ناطہ نبطوٹہ نوطا و نباطا لگانا۔ کہا جاتا
ہے "نبط علیہ الشیء اس پر فلاں چیز
لٹکانی گئی۔ ناطت الدار گھر کا دور ہونا۔
ناط الشیء بغیر مشورہ کے خود اپنی رائے
سے کاٹنا۔
نبط بہ الشیء ملایا جانا۔

اناصۃ انصاٹا شیا پکڑنا۔ نکالنا۔ کہا جاتا ہے
"انصاٹ من الہلکۃ اس نے اس کو ہلاکت
سے بچالیا۔

النوص قوی۔ رجل نوص سخت
پکڑنے والا مرد۔

ناصر نوبض نوصا و مناصا و منیصا
عن قرنہ مقابل سے بھاگنا۔ جدا ہونا فلانا:
سبقت لے جانا الیہ ائمننا الشیء کھینچنا
للحریکۃ تیار ہونا عنہ پیچھے ہٹنا (مناصا و
نویصا و نیاصا و بیاصۃ و نوصا و
نوصانا) الرجل حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"ما یقدر علی ان ینوص" وہ حرکت
کرنے پر قادر نہیں۔
ناوصۃ مناصۃ باہم حملہ کرنا۔

اناصۃ الشیء ہلانا۔
تنوص الغنص شہتی کا ہوا کے چلنے سے ہلنا۔
التاؤوس و التاؤوس قمرانیوں کا
قبرستان (دخیل) ج نواویس اس نگی
تاہوت کو بھی کہتے ہیں جس میں لاش رکھی
جائے۔
نواص العنکبوت نکری کا جالا۔ نواص
الدخان دھوئیں کا جالا۔
الناس اسم ہے جو رطوبت و قوم کی مانند جمع کے
لیے وضع کیا گیا ہے۔ واحد انسان ہے اور تعغیر
نویس۔
النواص نکلنے والا۔
النواص چوٹیاں۔
المنوص کھجور جس کا کنارہ کالا ہو گیا ہو۔

ناش ینوش نوصا الشیء پکڑنا۔ ڈھونڈنا
فلان چلنا البعیر اٹھنے میں جلدی کرنا۔
فلانا سر اور داڑھی پکڑنا زیندا خیرا
بھلائی پہنچانا۔ ناش الشیء بالشیء چمکانا۔
نشت من الطعام حاصل کرنا۔
ناوشوہم مناوشۃ فی القتال باہم حملہ
کرنا۔ ناوش فلان الشیء ملانا۔
تناوش الشیء پکڑنا۔ تناوشوا بالرمح
تیز ہازی کرنا۔
انصاٹہ انصاٹا شیا پکڑنا۔ نکالنا۔ کہا جاتا ہے
"انصاٹ من الہلکۃ اس نے اس کو ہلاکت
سے بچالیا۔
النوص قوی۔ رجل نوص سخت
پکڑنے والا مرد۔
ناصر نوبض نوصا و مناصا و منیصا
عن قرنہ مقابل سے بھاگنا۔ جدا ہونا فلانا:
سبقت لے جانا الیہ ائمننا الشیء کھینچنا
للحریکۃ تیار ہونا عنہ پیچھے ہٹنا (مناصا و
نویصا و نیاصا و بیاصۃ و نوصا و
نوصانا) الرجل حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"ما یقدر علی ان ینوص" وہ حرکت
کرنے پر قادر نہیں۔
ناوصۃ مناصۃ باہم حملہ کرنا۔

النوار بہت روشن۔
النوار کبلی۔ واحد نوارۃ ج نواویر
النیر روشن کرنے والا۔
النیرۃ النیر کا موٹ۔ کہا جاتا ہے "بعاء
اللہ نیرۃ اللہ کی ماراں پر ایسی پڑے جو کسی
سے پوشیدہ نہ رہے۔
الانوار اسم تفضیل۔ ظاہر خوشنما۔ کہا جاتا
ہے "هذا انور من ذلک" یہ اس سے واضح تر
ہے۔
المنار روشنی کی جگہ۔ علامت جو راستے کی
راہنمائی کیلئے لگائی جائے۔ دو چیزوں کے
درمیان کے حدود۔ ذو المنار ابڑہ تیج بن
الرائش کا لقب کہ اس نے منارہ نصب کرنے کی
ابتدا کی تھی۔
المنیر فار۔ خوش رنگ۔ چمکدار۔ کہا جاتا ہے
"بعاء اللہ ذات منور اللہ کی ماراں پر ایسی
پڑے جو روشن ہو اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔
المنارۃ روشنی کی جگہ۔ روشنی کا منارہ۔
آذان دینے کا منارہ۔ ج مناوڑ و منائر۔
نورج نورجۃ آنے جانے میں مختلف۔
چغل خوری کے لیے چلانا بھرتا۔
النورج بل کی چھالی۔ غلہ کا بے کا ایک آلہ۔
خواہ لکڑی کا ہو یا لوہے کا۔
النوروز و السوروز عند الفرس شمس
سال کا پہلا دن۔ خوشی کا دن۔
النورس کبوتر کے برابر یا اس سے کچھ بڑا
ایک آبی پرندہ جو فضا میں اڑتا رہتا ہے پھر
یکبارگی پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور سوائے پھلی
کے کچھ نہیں کھاتا اور اس کو زمج الماء بھی
کہتے ہیں۔
نورۃ تنویزا کہم کرنا۔
ناس نوبض نوصا الابل اونٹوں کو ہانکنا
(نوصا و نوصانا) الشیء جموں لانا۔ کہا جاتا
ہے "لہ صغیر تان تنوصان علی عاتقہ"
اس کے دو گیسو ہیں جو اس کے کندھوں پر لٹک
رہے ہیں۔
نوص بالمکان تنویسا قائم کرنا۔

اس کو نَيْفُ کہتے ہیں یہاں تک کہ دوسری دہائی آئے اور لفظ نَيْف کا استعمال انہیں جیسی دہائیوں سے زیادتی کیلئے ہوتا ہے۔ اسی لیے عَشْرَةٌ و نَيْفٌ و مائتہ و نَيْفٌ و أَلْفٌ و نَيْفٌ تو بولا جاتا ہے مگر خَمْسَةٌ عَشْرٌ و نَيْفٌ نہیں کہا جاتا۔

نَيْفٌ: فضل و احسان اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَيْفٌ عَلَيْهِ" وہ اس سے زائد ہے۔ کہا جاتا ہے "جَبَلٌ عَالِي الْمَنَافِ" پہاڑ جس کے چڑھنے کی جگہ بلند ہو۔

النَيْفُ: فال۔ جَبَلٌ مُنِيفٌ: بلند پہاڑ۔ اور بطور مجاز کے کہا جاتا ہے "لَهُ عِزٌّ مُنِيفٌ" اس کی عزت بلند ہے۔ اِمْرَأَةٌ مُنِيفَةٌ: پورے قد کی خوبصورت عورت۔

ناق نَيْفٌ نَوْفًا: گوشت سے چربی اتارنا۔ نَوْقٌ تَنْوِيقًا الْجَمَلُ: اونٹ کو سدھانا التَّخْلُ: مادہ عجور میں زنجبور کے پھول ڈالنا الشَّيْءُ: ترتیب سے رکھنا۔ اِنَّقِ اِنْيَاقًا وَنَيْفًا الشَّيْءُ فَلَانًا: پسند آنا (اِنَّقِ اِنْيَاقًا مَقْلُوبٌ ہے اور نَيْفًا مصدر غیر قیاسی ہے)

تَنَوَّقَ تَنْوِيقًا وَ تَنَوَّقَ تَنْيِقًا وَ اِنْتَقَ اِنْتِيقًا فِي مَلْبَسِهِ وَ مَطْعَمِهِ وَ اُمُورِهِ: کھانے پینے اور دوسرے امور میں عمدگی اختیار کرنا (بازند تَأَنَّقَ کے) تَنْوَّقَ بہ: مہربانی کرتا۔ اِنْتَقَ الشَّيْءُ: چننا۔ اِسْتَنْوَقَ اِسْتِنْوِاقًا الْجَمَلُ: اونٹنی کے

مشابہ ہونا اور اسی سے مثل ہے "اِسْتَنْوَقَ لِيَحْسَنَ" اس موقع پر بولا جاتا ہے جبکہ کوئی شخص بات کرتا کرتا ایک بات میں بغیر کسی جوڑ کے دوسری بات ملادے۔

السُّوقُ: تھوڑی سُرْفی کے ساتھ ملی ہوئی سپردی۔ النِّيقُ: پہاڑ کی بلند جگہ۔ ج نَيْاقٌ وَ اَنْيَاقٌ وَ نَيْوُقٌ۔

النَّاقَةُ: اونٹنی ج نَاقٌ وَ نُوْقٌ وَ اَنُوْقٌ وَ اَنُوْقٌ وَ اَوْتُوْقٌ وَ اِنْبِقٌ وَ نَيْاقٌ وَ نَاقَاتٌ وَ

اَنُوْقٌ وَ جِجِ اِنْبِقٌ وَ نَيْاقَاتٌ۔

النَّاقَةُ: ایک قسم کی پھنسی جو ہاتھ میں نکلتی ہے۔ ستارے جو اونٹنی کے شکل کے ہوتے ہیں۔

النَّوْفَةُ: حذاقت۔ مہارت۔ ہوشیاری۔

النَّبِيقَةُ: اسم ہے تَنْوِيقٌ کا۔

النَّوْاقُ: لکڑی کا پرالہ۔ ج نَاقَاتٌ (دخیل)

النَّوْاقُ: وہ شخص جو امور کو ہوشیاری سے انجام دے۔

النَّبِيقُ: کھانے پینے اور دیگر امور میں عمدگی اختیار کرنے والا۔

المَنْوُوقُ: سدھا ہوا اونٹ جو اونٹنی کی مانند بنا دیا گیا ہو مِنَ التَّخْلِ: زنجبور کا پھول ڈالا ہوا۔ نَاقَةٌ مَنْوُوقَةٌ: سدھا لی ہوئی اونٹنی۔

نَوُوكٌ يَنْوُوكُ نَوُوكًا وَ نَوَاقًا وَ نَوَاقًا وَ نَوَاقَةً يَوْقُوفٌ ہونا۔

اَنُوْكُهُ اِنْوَاكًا: یوقوف پانا یا یوقوف سمجھنا۔ اِسْتَنْوُوكٌ اِسْتِنْوِيقًا: یوقوف ہونا۔

فَلَانًا: یوقوف سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَنُوْكُهُ" وہ کیسا یوقوف ہے (اور اَنُوْكٌ بہ نہیں کہا جاتا حالانکہ یہ قیاس کے مطابق ہے) الاَنُوْكُ: یوقوف۔ بہت زیادہ یوقوف عاجزو

جال۔ بول چال میں عاجز یوقوفی وَ نُوْكٌ مَوْئِفٌ نُوْكَاءٌ ج نُوْكٌ الْمُسْتَنْوُوكُ: یوقوف۔

نال يَنْوُلُ نَوَالًا وَ نَوَالًا فَلَانًا الْعَطِيَّةُ وَ بِالْعَطِيَّةِ وَ نَالٌ لَهٗ الْعَطِيَّةُ وَ بِالْعَطِيَّةِ:

دینا۔ جیسے "نَالِي بِالْخَيْرِ" اس نے مجھے کو خیر پہنچائی "و نَالٌ لَهٗ بَشِي" بخشش کی۔ اور کہا جاتا ہے "نَالٌ لَهٗ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا" اس کے لیے ایسا کرنے کا وقت آگیا۔

نَوَلَةٌ تَنْوِيلًا: عطیہ دینا۔ نَوَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ: بھلائی پہنچانا۔ نَوَلٌ عَلَيْهِ بَشِي: دینا۔

نَاوَلَةٌ مَنَاوَلَةٌ الشَّيْءُ: دینا یا ہاتھ بڑھا کے دینا۔

اَنَالَةٌ اِنَالَةٌ الشَّيْءُ وَ بِالشَّيْءِ: دینا۔ کہا جاتا

ہے "اَنَالَنِي بِخَيْرٍ" اس نے مجھے بھلائی پہنچائی۔ اِنَالٌ فَلَانٌ بِاللَّهِ: قسم کھانا۔ کہا جاتا ہے مَا اَنُوْلُهُ، وہ کس قدر فیاض ہے۔

تَنَوَّلَ الشَّيْءُ: لینا عَلَيْنَا فَلَانٌ بَشِي: تھوڑا سا دینا۔

تَنَوَّلَ الشَّيْءُ: لِينَا مِنْ يَدِهِ شَيْئًا: لینا۔ پکڑنا۔ کہا جاتا ہے "تَنَوَّلْتُ بِنَا الرُّكَّابِ مَكَانَ كَذَا" سواریوں نے ہم کو فلاں پہنچادیا۔

النَّائِلُ: فال۔ مصدر۔ عطیہ۔ بھلائی۔ النَّائِلَةُ: النَّائِلُ كَالْمَوْئِفِ: قریش کے ایک

بت کا نام۔

النَّوَالُ: داد و ہش۔ حصہ۔ درستی۔ اور کہا جاتا ہے "نَوَالٌ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لیے مناسب ہے کہ ایسا کرو۔

النَّالُ: داد و ہش۔ دَجَلٌ نَالٌ: سخی مرد یا بہت بخشش والا۔ اور کہا جاتا ہے: رَجُلَانِ نَالَانِ وَ رَجَالٌ اَنْوَالٌ۔

النَّوَلُ: مص۔ بننے والی وادی۔ بننے والے کی کپڑا لینے کی لکڑی۔ اور کہا جاتا ہے "نُوْلُكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لیے مناسب ہے کہ ایسا

کرو۔ "وَمَا نُوْلُكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اس کو حاصل کرو یا ایسا کرو۔

النَّوَلَةُ: نال کا اسم مرۃ۔ داد و ہش۔ کہا جاتا ہے "مَا اَصَبْتُ مِنْهُ نَوَلَةً" میں نے اس کا

عطیہ نہیں پایا۔ بوسہ۔

المَنَاوَلَةُ: قربان مقدس میں حاضر ہونا یعنی عیسائی مذہب کے نزدیک۔

النَّوَلَةُ: داد و ہش۔ عطیہ۔ المَنْوُولُ وَ المَنْوَالُ: بننے والے کی کپڑا لینے کی لکڑی یا کرۃ۔ ج مَنَاوِيلٌ. المَنْوَالُ: کپڑا بننے والا۔ اور کہا جاتا ہے "هَمُّ عَلِيٍّ مَنَاوَالٌ وَ اٰحِدٌ" وہ سب ایک ہی قسم کی عادت کے ہیں "وَلَا اَدْرِي عَلَيَّ اَيُّ مَنَاوَالٍ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کس طریقہ پر ہے و "اَفْعَلُ عَلَيَّ هَذَا المَنْوَالُ" اس طریقہ پر کرو۔

”وَمِنَ اللَّيْلِ لَا تَفْعَلْ كَذَا“ تمہارے لیے مناسب ہے کہ ایسا نہ کرو۔

نَامَهُ يَنُومُهُ نَوْمًا. سونے میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے ”نَاوَمْنِي فَنُمْتُه“ اس نے سونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا۔

النَّوَالُونُ كَأَزَى يَأْكُتِي كِي اجرت۔ (یونانی لفظ) نَامَ يَنَامُ نَوْمًا وَ نِيَامًا. اوجھنا سونا۔ مرنا۔ اور اسم النِيْمَةُ. نَامَتِ السُّوقُ: بازار کا ماند پڑنا الرَّيْحُ: ہوا کا جانا النَّارُ: آگ کا بجھنا۔

نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا الْعَوْقُ: رگ کا حرکت نہ کرنا التَّوْبُ: کپڑا پڑنا ہونا الرَّجُلُ: اللہ کے لیے تواضع و خاکساری کرنا الْيَهُ: اطمینان کرنا عَنْ حَاجَتِهِ: غافل ہونا بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے ”نَامَ هُمًا“ وہ بے ہمت ہے ”وَفَلَانٌ لَا يَنَامُ وَلَا يَنِيْمُ“ فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمُهُ تَنَوِيْمًا. سلانا۔ نَوْمَ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا لایِبِلُ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَهُ مَنَاوَمَةً. سونے میں غالب ہونا۔

أَنَامَهُ أَنَامَةً. سلانا۔ قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے ”طَعَنْتُ قَرِيْبِي فَأَنَمْتُهُ“ میں نے اپنے ہمسر کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ أَنَامَ زَيْدًا: سوتا ہوا پاتا۔

تَنَاوَمَ تَنَاوَمًا. اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا۔ نیند چاہنا الْيَهُ: مطمئن ہونا۔ سکون اختیار کرنا۔

إِسْتَنَامَ اسْتِنَامَةً. الرَّجُلُ: سونا۔ نیند چاہنا۔ پنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا الْيَهُ: سونے والے کی طرح مطمئن ہونا لِي الشَّيْ: مانوس ہونا۔

النَّائِمُ. فا۔ ہونے والا۔ لِيْنَةُ والا۔ نِيَامٌ وَ نَوْمٌ وَ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ وَ نَوْمٌ وَ نِيَامٌ وَ نَوْمٌ اور کہا گیا ہے کہ نَوْمُ اسم جمع ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”لَيْلٌ نَائِمٌ“ گہری نیند والی رات۔

النَّائِمَةُ النَّائِمُ كَأَمْرٍ مِّنْ نَّوْمٍ. موت۔ سانپ۔

بہت سونے والا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ

نَوْمٌ وَ امْرَأَةٌ نَوْمٌ“

النَّوَامُ. نیند۔ نیند کی بیماری۔

النَّوْمُ. نیند۔ نَائِمٌ كِي جمع۔ یا اسم جمع جیسا کہ گزر چکا رَجُلٌ نَوْمٌ وَ نَوَامٌ. بہت سونے والا مرد۔

النِّيْمُ. لباس شب خوابی۔ پو ستین اور بعض کے نزدیک سینہ تک کی چھوٹی پو ستین۔ کامل نعت۔ وہ شخص جس سے اُس حاصل کیا جائے۔ ایک نرم کانٹے والا درخت جس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور پنے کے برابر اس کے دانے ہوتے ہیں اور کھٹے ہوتے ہیں اور جب پک جاتے ہیں تو کالے پڑ جاتے ہیں اور بیٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے يَانُوْمَانُ: یعنی اے بہت سونے والے۔ اور یہ ندا ہی کے لئے خاص ہے۔

النَّوْمَةُ. نام کا اسم مرۃ۔ ج نَوْمَاتُ. النِّيْمَةُ. اسم ہے نام کا۔ کہا جاتا ہے ”مَالَةٌ نِيْمَةٌ لَيْلَةٌ“ اس کے پاس ایک رات کا گزارہ نہیں ہے۔

النَّوْمَةُ. وہ شخص جس کی پروانہ کی جائے۔ النَّوْمَةُ. بہت سونے والا۔ غافل۔ گنہگار۔ النَّوِيْمُ. غافل۔ گنہگار۔

النَّمَامُ. نیند۔ سونے کی جگہ۔ خواب ج مَنَامَاتُ. مَنَامَاتُ. سونے کی جگہ۔ لباس شب خوابی۔

النَّمَامُ وَ الْمُسْتَنَامُ. پست جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے۔

طَعَامٌ مَّنْوَمَةٌ. خواب آور کھانا۔ نَوْنٌ نَوْنًا: حرف نون لکھنا الْكَلِمَةُ: کلمہ پر توین لگانا۔

النُّونُ. حروف مہانی میں سے ایک حرف جس کے عدد ۵۰ ہیں اور حرف زوائد میں سے ہے نَوْنَاتُ وَ اَنْوَانُ

النُّونُ. دوات۔ مچھلی۔ ج نِيْنَانُ وَ اَنْوَانُ. تلوار کی دھار۔ تلوار۔ ذُو النُّونِ لقب یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔ عرب کی ایک

تلوار کا نام۔ ذُو النُّونِيْنِ. معقل بن خویلد کی تلوار کا نام۔

النُّونَةُ. مچھلی۔ عمدہ بات۔ چھوٹے بچے کی ٹھوڑی کا گڑھا۔ ج نَوْنَاتُ.

نَاهُ يَنُوهُ نَوْهَا النَّبَاتُ وَ غَيْرُهُ: بلند ہونا۔ نَاهَتْ الْهَامَةُ: الو کا سر اٹھا کے بیچنا۔ نَهَتْ بِالشَّيْ: اُونچا کرنا۔

نَاهَتْ تَنَوُّهُ وَ تَنَاهَتْ نَوْهَا نَفْسُهُ عَنْ الشَّيْ: رک جانا۔ انکار کر کے چھوڑ دینا۔

نَوَةٌ تَنَوِيْمًا الشَّيْ: بلند کرنا بفلان: بلند آواز سے پکارنا۔ کسی کا نام بلند کرنا۔ تعریف کرنا۔ تعظیم کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”نَوَّهْتُ بِالْحَدِيْتِ“ میں نے بلند آواز سے بات کی۔

نَوَّهُ بِاسْمِهِ: نام لے کر بلانا۔ پکارنا۔ تَنَوُّهُ تَنَوُّهَا: بلند ہونا۔

النَّوْهُ وَ النُّوْهُ. کسی چیز سے رکنا۔ النَّوْهُةُ. ناہ کا اسم مرۃ۔ خوراک دن رات میں صرف ایک مرتبہ۔

النَّوْهُةُ. بدن کی طاقت۔ النَّوَاهَةُ: نوحہ کرنے والی عورت۔ بین کرنے والی عورت۔

النَّوْهُ. بین کرنے والی عورتیں کہا جاتا ہے ”هُوَ اَنْوُهُ مِنْ فُلَانٍ“ وہ فلاں سے زیادہ شریف ہے۔

نَوَى الشَّيْ يَنْوِيهِ نَوَاةً وَ نِيَّةً وَ نِيَةً. ارادہ کرنا۔ نَوَى الْقَوْمَ مَنَزَلًا بَكْدًا: قصد کرنا۔ ارادہ کرنا اللہ فُلَانًا: حفاظت کرنا۔ مسافر سے کہا جاتا ہے ”نَوَاكَ اللّٰهُ“ یعنی اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہارے سفر میں ساتھ ہو۔

وَنَوَاكَ اللّٰهُ بِالْحَيْرِ: اللہ تم کو بھلائی پہنچائے (نَوَى) فُلَانٌ مِّنْ مَّكَانٍ اِلَى اٰخَرَ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا النَّوَاةُ: منتقل پھینکنا (نِيَّةً وَ نَوَى) الْمَسَافِرُ: دور ہونا۔ (نِيًّا وَ نَوَايَةً وَ نَوَايَةً) النَّاقَةُ: موٹی ہونا۔ صفت نَوَايَةٌ وَ نَوَاةُ.

نَوَى تَنَوِيَّةً حَاجَتَهُ: حاجت پوری کرنا۔ نَوَتْ الْبُسْرَةَ: منتقلی والی ہونا۔ نَوَى فُلَانٌ:

سمخلی پھینکا فلانا: کسی کی نیت پر چھوڑ دینا۔
 ناواہ مناواہ: دشمنی کرنا (اس کی اصل ہمزہ سے ہے)
 انوی انواء الرّجل: دور ہونا یا زیادہ سفروں والا ہونا حاجت حاجت پوری کرنا۔ انوت البسرة: سمخلی بیٹھنا۔ انوی فلان: سمخلی پھینکانا۔

تنوی تنویا الشی: قصد کرنا۔

انتواہ انتواہ: قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے "انتواہ بنواہ" اس نے اس کی حاجت پوری کر دی انتوی القوم: ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا القوم بموضع کذا: اقامت کرنا القوم منزلا بمکان کذا: قصد کرنا۔ استنوی استنواء الرّجل: سمخلی پھینکانا۔

التاوی: نا۔ وہ شخص جو منتقل ہونے کا پختہ ارادہ کرے۔ اوٹنی کا بوبان۔ کہا جاتا ہے "فلان ناوی القوم ومنتواہم" فلاں قوم کا ذی رائے اور ان کے امور کا مالک ہے۔

التواء: گھجور کی گھٹلیوں کا پیچنے والا۔

النوی: سر دوری۔ وہ جگہ قریب یا بعید جہاں کا مسافر ارادہ کرے (اس معنی میں مؤنث ہے) گھر۔ گھٹلیاں (اس معنی میں مذکر و مؤنث دونوں ہے) کہا جاتا ہے "استقرت نوی القوم بموضع کذا وکذا" (یعنی فلاں جگہ میں قوم نے اقامت کی)۔

النی: س۔ چربی۔

النی: موٹاپا۔

النواة: سمخلی ج نوی و نویات و وج انواء و نوی و نوی۔

النیة: قصد۔ ارادہ۔ دل کا عزم۔ جس کو لہذا موافق سمجھے اس کی طرف اٹھنا۔ امر۔ حاجت۔ کہا جاتا ہے "لی فی بیت فلان نیة" فلاں کے گھر میں میری ایک ضرورت ہے۔ وہ جگہ قریب یا بعید جہاں کا مسافر ارادہ کرے۔ کہا جاتا ہے "سقطت بہم نیة فذقت" رحلتہ بعیرہ نے ان کو دور پھینک دیا "ونورا نیة فذفا" انہوں نے دور کی جگہ کا

ارادہ کیا اور کبھی یاہ میں تخفیف کی جاتی ہے کہا جاتا ہے نیة ج نیات۔ النوی: ہم ارادہ ساتھی۔

ناء بنی نیا و نیوا و نیونة اللحم و غیرہ: گوشت وغیرہ کا پکار ہنا۔ نیا تنییا الامر: ناقص طور سے کرنا۔ انیا اللحم انیا: گوشت کو پکار کھنا۔

النئی من اللحم: کپا یا نیم پختہ گوشت۔ اور نئی ابدال وادغام سے بھی جاتے ہے۔ النئی: خالص دودھ۔

ناہہ بنیہ نیا وناہہ پرانا۔

نیب تنییا الناقہ: اوٹنی کا بوڑھی ہونا۔ نیب النبت: نباتات کی جڑیں پھوٹنا فلان السہم: تیر پر دانت مار کر سختی معلوم کرنا اور دانتوں کا نشان ڈالنا زید۔ دانت کا ٹانہ۔ دانت پھینا فلانا: دانت سے کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "ظفر فیہ السبع و نیب" درندہ نے اس کے اندر

ناخن اور دانت گھسا دیے۔

تنیب تنییا النبت: جڑیں نکالنا الشیب: بڑھاپا ظاہر ہونا۔

الناب: بچی کا دانت (مؤنث) ج انیب و نیوب و انایب۔ الناب: بوڑھی اوٹنی۔ اور اس کی تصغیر نیب ج انیاب و نیوب و نیب ناب القوم: سردار قوم ج انیاب۔

النیوب: بوڑھی اوٹنی۔

الانیب: موٹے موٹے دانتوں والا۔ مؤنث

نیباء ج نیب۔

نات یبیت نینا کمزوری سے ڈگمگاتے ہوئے چلنا۔

ناح یبیح نیحا و ییحانا الغصن: ٹہنی کا جھکنا (نیحا) العظمہ: ہڈی کا سخت ہونا۔

مضبوط ہونا۔

نیح تنییا اللہ عظمہ: ہڈی مضبوط کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا (اضداد میں سے ہے) کہا جاتا ہے ما ییحند لحم میں نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ ولا ییح اللہ عظامہ اللہ اس کی ہڈیوں کو نہ سخت کرے اور نہ مضبوط۔

النیح: سخت۔ کہا جاتا ہے "عظم نیح سخت ہڈی۔

نار القوب نییرہ نیبرا و نیبرہ تنیبرا و انارہ انارہ: کپڑا بننا۔ منقش کرنا۔

النائر: نا۔ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا۔

النیار: کپڑے میں نقش و نگار کرنے والا۔ کپڑے میں گوٹ لگانے والا۔

النیر: بیلوں کے کندھے پر رکھنے کا جوڑج انیار و نیزان۔ النیر: نے۔ اکٹھے دھاگے۔

کپڑے کے نقش و نگار۔ کپڑے کا چھور۔ راستہ کا کنارہ۔ راستہ کی نمایاں کھائی۔ کہا جاتا ہے "رجل ذو نیبرین" اپنے ساتھی سے دغنی قوت والا۔ و "حرب ذات نیبرین" سخت جنگ "وناقہ ذات نیبرین و انیار" بوڑھی اوٹنی جس میں ابھی جوانی کچھ باقی ہو اور کبھی اس کا استعمال عورت کے لیے بھی ہوتا ہے۔

النیر والنیرة: اسم ہے نیر الثوب کا۔ النیرة: بنائی کے آلات میں سے ایک آلہ کا نام کہتے ہیں "ما انت بسناة ولا لحمة ولا نیرة" اس شخص کے لیے جو نہ نافع ہونہ نقصان دہ۔ کہا جاتا ہے "ہذا نیر من ذاک"

یہ اس سے واضح تر ہے۔ کہا جاتا ہے "سینہ منایرة" ان کے درمیان فساد ہے۔

المنیر: موٹی کھال۔ ثوب منیر: روسوئی کپڑا۔

نیرب الرّجل: چغل خوری کرنا۔ کلام میں گڑبڑ کرنا۔ گھڑنا الریح الثراب فوق الشی: ہوا کسی چیز کے اوپر خاک چڑھا دینا اور دھاری دھاری جیسی بنا دینا۔

النیرب: برائی۔ چغل خوری۔ چست و چابک مرد۔ اور کہا جاتا ہے "رجل نیرب و ذو نیرب" یعنی بدکار مرد۔

سیرج نیرجہ الرّجل: چغل خوری کرنا۔ السیرج: چغل خور۔ کپڑے کا نقش و نگار۔

کی چھالی۔ غلہ گانے کا ایک آلہ خواہ لکڑی کا ہو یا لوہے کا ریح نیرج: تیز ہوا۔ امرأة نیرج:

چالاک و مکار عورت۔ اور کہا جاتا ہے عدا
عدوا نیرجا۔ مترادف ہو کر جلدی جلدی
دوڑا۔ اور ہر جلدی کی طرح کہتے ہیں۔
النیزور عند الفرس۔ کسی سال کا پہلا
دن۔ خوشی کا دن عموماً۔
النیزک۔ چھوٹا نیزہ۔ نیزے کی مانند شعلہ اور
یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی ایک قسم ہے۔ ج
نیازک (دخیل)

نیسب والنیسب والنیسبان دیکھئے ماہون
-س-ب۔

نیسان۔ ماہ اپریل۔
النص۔ کمزور حرکت۔ موٹی سی۔
ناض بیض نصا العرق۔ رگ کا حرکت
کرتا۔

ناط نبط نبطا و انطاط انطاطا دور ہوتا۔
النبط۔ س۔ جنازہ۔ موت۔ مدت۔ کہا جاتا
ہے اتاہ نبطہ۔ یعنی اس کی مدت آگئی
"ورماہ اللہ بالنبط" اللہ نے اسے موت
دی۔ "وطعن فلان فی نبطہ" فلان نے
اس کے جنازہ میں نیزہ مارا یعنی وہ مر گیا۔
ناع یبع نبع الفصن۔ ٹہنی کا بھلنا صفت

ناع
انواع۔ جھکی ہوئی شامیں۔

نال نیل و نیلا و نالا و نالة
المطلوب۔ پانا۔ حاصل کرنا۔ صفت فاعلی
نانل و صفت مفعولہ نیل اور امر حاضر کا
صیغہ نل ہوگا۔ نال من فلان گالی
دینا ا عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "نال من
عدوہ مطلوبہ" اس نے اپنے دشمن سے اپنا
مطلوب حاصل کر لیا اور کبھی دو مفعول کی
طرف تعدیہ ہوتا ہے جیسے نالہ مطلوبہ۔

اس نے اس کا مطلوب حاصل کرادیا۔ کہا جاتا
ہے "النلی من فلان" معروف فلاں سے
مجھے بھلائی پہنچی۔ و نال من عرض فلان۔
یعنی اس نے اس کی بے عزتی کی۔ و نال
الرحیل۔ کوچ کا وقت قریب ہونا۔ و اما
نال لہم ان یفتنیوا۔ کیا ان کے لیے سمجھ کا
وقت نہیں آیا۔

انال انالہ فلان الشی و لفلان الشی
حاصل کرانا۔

النائل۔ ف۔ جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے
"اصبت منہ نالا" مجھے اُس سے انعام ملا۔
النیل۔ س۔ جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے۔
اصبت منہ نیلا

النیل۔ مصر کے ایک دریا کا نام۔ ایک قسم کی
گھاس جس سے نیلا رنگتے ہیں۔ ایک دوسری

قسم کی گھاس جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور
تھوکتے ہوتے ہیں۔ النیل۔ بادل۔

النالة۔ س۔ گھر کا صحن۔
النولة والنيلة۔ جو حاصل کیا جائے۔

النیلج والنیلج۔ چربی کا کامل جس کو
گوند نے میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ معرب
ہے اور عربی اس کو لودر ہے۔

النیلج۔ نیل کارنگ۔
النیلوفر والنیلوفر والنیلوفر۔ گل نیلوفر
(جدید)

النیلون۔ نیلون جس سے کپڑے وغیرہ تیار
ہوتے ہیں۔

النبرشت ادھ ہمنہ۔ کہا جاتا ہے بیض
نبرشت اور عوام کہتے ہیں بیض
برشت۔


ناہ بناہ نبیہا الشی۔ بلند ہونا۔ پسند آنا۔

الناہ۔ بلند۔ نمایاں۔ کہا جاتا ہے نفس
ناہیہ۔ رکنے والا نفس۔

النیم۔ ن و م میں ذکر کیا گیا۔

النیون۔ ایک کمیاب گیس جس کی بو اور رنگ
نہیں بجلی کے ایجن میں استعمال ہوتا ہے۔

النای۔ پائری۔ نقایات (فارسی)



الواو یہ حرف تہجیری میں سے ستائیسواں حرف ہے۔ یہ حرف جوف سے ہے۔ واؤد بحساب جمل اس کا عدد چھ (۶) ہے۔ الواو چند معانی کے لیے مستعمل ہے۔

(۱) حرف عطف اور اس کے معنی مطلقاً جمع کے ہیں۔ جیسے جاء زيد وعمرو۔

(۲) واو حالید۔ جملہ اسمیہ پر جیسے "جاء زيد والشمس طالعة" جملہ فعلیہ پر جیسے "جاء زيد وقد طلعت الشمس"۔

(۳) واو استناف جیسے "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"۔

(۴) واو معیہ جیسے "سرت والحبل"۔

(۵) واو جو اس مضارع منصوب کے اوپر داخل ہو جو نبی کے جواب میں واقع ہو جیسے "لا تنه عن خلقي وتأتي مثله"۔

(۶) واو قسم جیسے واللہ العظیم۔

(۷) واو رب جیسے ولیل كموج البحر أرخى سدوله۔

(۸) واو ضمیر جمع تذکر جیسے قاموا۔

(۹) واو علامت جمع تذکر جیسے "يلومونني قومي"۔

(۱۰) واو فصل جیسے عمرو وكا واو حالت رفعی و جری میں تاکہ عمر سے فرق ہو جائے۔

(۱۱) واو زائدہ بعد الا جیسے ما من احد الا وله طمع او حسد۔

واو ندبہ کیلئے مخصوص ہے جیسے "وا زيدا" یا "وا ظهرا" اور کبھی ندبہ حقیقی میں

مستعمل ہوتا ہے۔

الواح والواحة۔ ریگستانی علاقہ میں سبزہ زار زمین۔ ج واحات۔

وآب يئب وأنا وابة من فلان: شرم کرنا۔ شرم کی وجہ سے جھجھکنا۔ وآب ياب وآبة: کھر کے کناروں کا سمننا۔

ونب يواب وآبا: غضبناک ہونا۔

وأوبه وآبائه: غضبناک کرنا۔ کسی کے ساتھ قابل شرم فعل کرنا۔ ذلت کے ساتھ حاجت سے پھیر دینا۔

إتاب إتاباً منه: شرم کرنا۔

الائبة والتوبة والمؤنبه والمؤنبية: رسوائی۔ عار۔ شرم۔

الوآب من القداح: بڑا پیالہ من الحوافر: باہم ملے ہوئے کناروں والا مضبوط کھر۔ چوڑا بڑا اونٹ۔ ج وآاب۔

الوائبة: پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے (والوئبة) بہت گہرا کنواں۔ قذر وآبة: کشادہ ہانڈی۔

المؤنبات: رسوا کرنے والی باتیں۔

الوآج: سخت بھوک۔

وأذنبه وأذا: البنت: لڑکی کو زندہ درگور کرنا۔ صفت مفعولی وئيد و وئيدة و مؤوودة فلانا: بو جھل کرنا۔

تواد و إتاؤ في الأمر: مہلت اور آہستگی سے کرنا۔ وتوادت عليه الأرض: زمین کا کسی کو چھپا لینا اور غائب کر دینا المرأة في

قيامها: بوجھل ہونے کی وجہ سے چلنا۔

الواد: س۔ سخت آواز۔ دھماکہ۔ اونٹ کی بلبلات۔

الوئيد: سخت۔ اونٹ کی بلبلات۔ پیروں کی چاپ جو دور سے سنائی دے۔ اور کہا جاتا ہے "مشى مشاً وئيداً" وہ متانت و سنجیدگی سے چلا (والوئدة والتواد) سنجیدگی۔ متانت۔

المؤاند: مصیبتیں (اس کی اصل الماود ہے)

وآر يتر وآرا وآرة الرجل: گھبراہٹ میں ڈالنا النار وللنار: آگ روشن کرنے کے لیے گڑھا بنانا (وآر توئيراً) فلانا: مصیبت میں ڈالنا۔

أوآرة إيتاراً: نفرت دلانا۔ خبردار کرنا۔ استوارت الابل: اونٹوں کا رک کر پہاڑ پر چڑھ جانا۔

الواثر: ف۔ خوفزدہ۔

الإرة: ج ارات وإرون والوؤرة: ج وآر و آور: آگ سلگانے کی جگہ۔ الإرة: آگ۔ اوجھ میں پکا ہوا گوشت۔ دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت۔ دشمنی۔ آگ کی بھڑک۔

کوبان کی چربی۔

الونار: لیپنے کی مٹی نکالنے کے گڑھے۔

أرض ويرة: بہت گرمی والی زمین۔

وأص ينص وأصا به الأرض: زمین پر چلنا۔

تواص القوم: اکٹھا ہونا۔ پانی پر بھیڑ کرنا۔

الْوَيْصَةَ. جماعت | مخلوق کہا جاتا ہے "ما
أَذْرَىٰ أَيُّ الْوَيْصَةِ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ
وہ کون ہے۔

وَأَطَّ يَنْبُطُ وَأَطَا الْقَوْمُ: زیارت کرنا۔
الشَّيْءُ: جوش میں آنا۔

الْوَأْطَةُ: مِنَ الْأَرْضِ: بلند زمین میں
المَاءُ: پانی کی بڑی جگہ۔

وَأَلْ يَلُّ وَالْأَلُّ وَوَيْلًا وَوُؤُلًا وَوَأَلَّ
وَنَالَ وَوَمَاءٌ لَّهُ مِنْ كَذَا: نجات ڈھونڈنا۔

الْبَيْتُ: پناہ لینا الی المکان: سبقت کرنا۔ وَالْ
فُلَانُ: جاسے پناہ پانا الی اللہ: رجوع کرنا۔

تَوَبَّ كَرَارًا (وَأَوَّلَ) المکان: تہ بہہ جمی ہوئی
یہ گنیمتوں والی ہونا۔ وَأَوَّلَ المکان: تہ بہہ

جمی ہوئی یہ گنیمتوں والی پناہ۔ أَوَّالَتِ
الْمَاشِيَةَ: فِي المکانِ أَوْ الكَلْبِ: گور بیٹھنے
سے خراب کرنا۔

الْوَالُ وَالْمَوْئِلُ وَالْمَوَالَةُ: جاسے پناہ۔
اسْتَوَالَتْ اسْتَيْنَالًا الْإِبِلَ: اونٹوں کا اکٹھا
ہونا۔

الْوَالَةُ: اونٹ یا بکریوں کی تہ بہہ یہ گنیمتیں۔
وَأَمَّهُ يُوْنَمُهُ تَوِينًا: بد شکل کر دینا۔

وَأَاءَ مَهً وَنَامًا وَمَوَانِمَةً: موافقت کرنا۔
تَوَاءَمَ: موافق ہونا۔ مناسب ہونا۔

اتَّامَتْ إِتَامًا المَرَاةَ: جڑواں جننا۔ صفت
مُنْتَمٍ: اس میں واؤ کی تبدیلی تاسے ہوئی ہے۔

الْوَامُ: گرم کرہ۔
الْوَامَةُ: دوسرے کی صنعت کا قاتل۔

المَوَامُ: بد شکل۔ بڑے سرو والا۔
المَتَوَانِمُ: فَا غِنَاءٌ مَتَوَانِمٌ: متناسب۔

وَأَوَّاءُ وَأَوَّاءَةُ الكَلْبِ: بھونکنے کہا جاتا ہے
"مَا سَمِعْتُ إِلَّا وَغَوْعَةَ الذَّنَابِ وَ

وَأَوَّاءَةَ الكِلَابِ:" میں نے بھیڑیوں کے
چیننے اور نکلنے کے بھونکنے کے علاوہ کچھ نہیں

سنا۔
وَأَى يَبِي وَأَيًا: وعدہ کرنا الشَّيْءُ: ذمہ دار
ہونا۔

تَوَاءَى تَوَانِيًا الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔

إِتَائِي إِتَاءً: وعدہ قبول کرنا۔

اسْتَوَى اسْتَيْنَاءَ الرَّجُلِ: وعدہ لینا۔

الْوَأَى: س۔ وعدہ۔ وہم وگمان۔ لوگوں کی
تعدا۔

الْوَأَى مِنَ الذَّرَابِ: تیز رفتار۔ مَوْنَتْ وَآةُ
(جیسے کہ فِتَاةُ)

الْوَيْتَةُ: بڑے بڑے۔ بڑے پیٹ والی اونٹنی
(وَالْوَأِيَةُ) بڑا پیالہ۔ بڑی ہانڈی الوَيْتَةُ:

موتی۔ اپنے گھر کی محافظ عورت۔
وَبَّ يُوْبُّ وَبًا: لڑائی میں حملہ کیلئے تیار

ہونا۔
وَبَا يُوْبُو وَبًا وَوَبًا المَتَاعَ: ترتیب سے
رکھنا۔

وَبَا وَوَبَا الْيَدِ: اشارہ کرنا۔
وَبِيءَ يُوْبًا وَبِيْبًا وَبِيًا وَوَبُوْبًا وَوَبِيَاءُ

وَبَانَةٌ وَابَاءٌ وَابَانَةٌ وَوَبِيءَ يُوْبًا وَبًا وَ
أُوْبًا المَكَانَ: بہت دباڑہ ہونا۔ اسم البَيْتَةِ

عِدَّةً كِيَانَتًا۔
تَوَبَّا البَلَدَ: شہر کی آب و ہوا کو ناموافق پانا۔

اسْتَوَبْنَا اسْتَيْبَاءَ المَدِينَةِ: دباڑہ پانا۔
الْوَبَا: جِ أُوْبَاءُ وَوَبَاءُ: جِ أُوْبِيَّةٌ: عام
بیماری۔

الْوَبِيءُ وَوَبِيءُ وَوَبِيءُ: بہت دباڑہ
جگہ اور ہر ایک کی مَوْنَتْ تاکے ساتھ۔

المَوْبِيءُ: فَا۔ تھوڑا پانی۔
وَبَّتْ بَيْتٌ وَبْنَا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

وَبَّخَنَهُ: جھڑکنا۔ ملامت کرنا۔ عار دلانا۔
دھمکانا۔

الْوَبْخَةُ: سرزنش۔ تکلیف دہ ملامت۔
وَبَّدَ يُوْبِدُ وَبَدًا: بد حال اور کم مال والا ہونا۔

صفت وَبَّدَ الثَّوْبُ: کپڑا بوسیدہ ہونا النَّهَارُ:
دن سخت گرم ہونا عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔

أُوْبِدَةٌ إِيْنَادًا: جدا کرنا۔
تَوَبَّدَ أَمْوَالُهُمُ: نظر لگانے کیلئے معین کرنا۔

الْوَبْدُ: پہاڑ کا گڑھا۔
الْوَبْدُ: س۔ بد حال و سختی زندگی۔ کہا جاتا ہے

"فُلَانٌ فِي وَبْدٍ" فلاں بد حال میں ہے اور

کبھی اس مصدر کو بطور وصف کے بھی استعمال
کرتے ہیں اور کہتے ہیں "رَجُلٌ وَبْدٌ" یعنی

بد حال مرد۔ واحد اور جمع دونوں کے لیے اور
کبھی اُوْبَادٌ جمع لاتے ہیں۔ الوَبْدُ: گرمی۔

عیب۔ پہاڑ کا گڑھا۔
الْوَبْدُ: بھوکا (وَالْمُتَوَبَّدُ) سخت نظر لگنے کا

سبب بننے والا۔
قَوْمٌ أُوْبَادٌ: مفلس لوگ۔

المُسْتَوْبِدُ: قلت مال اور کثرت عیال سے
بد حال مرد۔

وَبْرٌ يُوْبِرُ وَبَرًا وَوَبْرًا اِئْتِيَارًا: بہت شرم
والا ہونا۔ صفت وَبْرٌ وَوَبْرٌ: مَوْنَتْ وَبْرَةٌ

وَبْرَاءٌ۔
وَبْرٌ يُوْبِرُ وَبَرًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

وَبَّرٌ: چھوٹے چھوٹے بال لگانا التَّغْلُبُ:
لوٹری کا نشان چھپانے کیلئے سخت زمین پر چلنا

الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا فُلَانٌ:
بھاگنا اور دُشْتِ زَدَہ ہونا یا اتہا زندگی بسر کرنا

عَلَيْهِ الْأَمْرُ: پوشیدہ رکھنا۔
وَبَّرَتِ النُّخْلَةَ: درخت خرما میں گام بھادینا۔

الْوَبْرُ: سخت سردی کے سات دنوں میں سے
ایک دن۔ بلی سے چھوٹا ایک جانور جس کی ذم

اور کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جِ وَوَبْرٌ
وِوَبَارٌ وَوَبَارَةٌ: مَوْنَتْ الوَبْرَةَ:

س۔ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کے بال
جِ أُوْبَارٌ: اَهِلُّ الوَبْرِ: دیہاتی لوگ۔ کہا جاتا

ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ بُوْبْرَهُ" یعنی اس نے سارا
لے لیا۔

الْوَبْرَةُ: وَبْرٌ كَادِحٌ۔
الْوَابِرُ: فَا۔ کہا جاتا ہے "مَا بِاللَّدَارِ وَابِرٌ"

گھر میں کوئی نہیں۔
بَنَاتُ الْأُوْبِرِ وَبَنَاتُ أُوْبِرٍ: چھوٹی اور

ردی قسم کی سانپ کی چھتری۔ اور کہا جاتا ہے
لَقِيْتُ مِنْهُ بَنَاتِ أُوْبِرٍ مَجَّحٌ سَ سے مصیبت

حاصل ہوئی۔
الْوَابِرُ جِ بُوَابِرٌ: اسیر۔ (فرا تسی لفظ)۔
وَبَشٌ يُوْبِشُ وَبَشًا الظَّفَرُ: ناخن پر سفید

داغ ہونا جلد البعیر: خارش کی وجہ سے
اوت کی کھال پر سیاہ سفید داغ ہونا صفت
ویش: ویش توینشا الحمم: چنگاری کا ہوا چلنے
سے سلگنا القوم فی امر: کسی کام میں ہر جگہ
سے مشغول ہونا الحرب: مختلف قبائل سے
جنگ کیلئے اکٹھا ہونا۔ وبتت الأظفار:
ناخنوں میں سفید داغ ہونا۔

اوتش: تیز چلنا۔ وبتت الأرض: مخلوط
پودوں والی ہونا۔

الوتش والوتش: کھجلی کے داغ۔ ناخن
کے سفید داغ۔ اوتاش کا واحد بمعنی سفلہ و
کینے لوگ وبتش الکلام: ردی کلام اور کہا
جاتا ہے "ما بھلہ الأرض إلا اوتاش من
شجر اوتاش" یعنی اس زمین میں صرف
تھوڑے سے کھڑے ہوئے درخت یا نباتات
ہیں۔

وبص بصر و نبصا ونبصا ونبصۃ
چمکانا بجلی کو تدا۔ صفت و ابص الجرد:
پلے کا آکھیں کھولنا۔ وبتت الأرض:
بہت نباتات والی ہونا۔

وبص یوبص وبتصا۔ چست ہونا۔ صفت
وبص الجرد: پلے کا آکھیں کھولنا
بیسیر: تھوڑا دینا۔

اوتبصت النار: روشن ہونا۔ شعلہ اٹھنا۔
اوتبصت الأرض: نباتات ظاہر ہونا۔ یا بہت
نباتات والی ہونا۔

ابيص و ابص۔ چمکدار سفید۔
الوايصۃ والوايصۃ۔ آگ۔ الوايصۃ
دہشت۔ خوف۔ کہا جاتا ہے "ما فی النار
وايصۃ" آگ میں چنگاری نہیں۔ "انہ
لوايصۃ سمع" یعنی ہر سنی ہوئی چیز پر
بھروسہ کرتا ہے۔ الوايص۔ چاند۔ چمکیلا۔
عارض و باص۔ بہت چمکنے والا بدل۔
وبط یبط وبتط الحرج: زخم کھولنا۔
الرجل: مرتبہ گھانا۔ ذیل کرتا فلانا عن

حاجتہ: روک دینا۔ باز کھلا و یبط یویبط
و یبط یویبط و یبطا و یبطا و یبطا
کمزور ہونا۔ خیس یا بزدل ہونا۔

اویبط: ابھی طرح خون بہانا۔ ابھی طرح
قتل و غارت کرنا۔

الوايط۔ خیس۔ کمزور۔ بزدل۔
الوايط۔ کمزوری۔

وبق بیق و وبق بیق وبقا و وبق یویبق
وبقا و یویقا و مویقا و استویق۔ ہلاکت
ہونا۔ صفت وبق۔

اویبقہ اییقا۔ ہلاکت کرنا۔ ذلیل کرنا۔ قید
کرنا۔

المویق۔ ہلاکت کی جگہ۔ وعدہ کی جگہ۔ قید
خانہ۔ ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل
ہو۔ کہا جاتا ہے "فلان یرکب المویقات"
فلاں خطر میں پڑتا ہے "ویفعل
المویقات" فلاں معاصی کا ارتکاب کرتا
ہے۔

وبل یبل ونبلا فلان بالعصا: لگا تار لٹھی
سے مارنا لصید: شکار کو تیز بانگنا۔

وبلت السماء: بڑی بڑی بوندوں کی بارش
برساتا۔

وبل یوبل ونبلا ونبلا و یوبلا و
وبالۃ المکان: بد بھسی والی جگہ ہونالشی:
سخت ہونا۔

وابلۃ موابلۃ: بھنگی کرنا۔
استویب استویبلا المکان: بد بھسی والی
جگہ پانا۔ استویبت الابل: چراگاہ کے مضر
صحت ہونے سے بیمار ہونا۔

الوبیل والوابیل: تیز بارش۔ بڑی بوندوں کی
بارش۔

الوابلۃ: ابل کا مؤنث۔ بازو یا ران کے
سرے کا کنارہ۔

الوبال۔ سر۔ سختی۔ بد بھسی۔ برانجام۔
الوبلۃ والابلۃ: گرانی۔ سختی۔ بد بھسی۔ کہا
جاتا ہے "آخذتہ وبلۃ الطعام او ابلۃ
الطعام" اس کو کھانے سے بد بھسی ہوئی۔

الوبیل: سخت مزعی وینیل: مضر صحت
چراگاہ طعام وینیل: مضر صحت کھانا۔ الوبیل
ناقوس بجانے کی کڑی۔ نرم شارب۔ دھوبی کی
موگری۔ اور کہا جاتا ہے "ابیل علی وینیل"
یعنی لائشی پر سہارا لینے والا بڈھا (والوبیلۃ
والمویب والمییل) موٹا ڈنڈا۔ کڑی کا
گٹھا۔

المییل والمییلۃ: کوزا۔ اوتوں کے ہانکنے
کے لیے کڑی میں بندھا ہوا تسمہ۔ الوابیل
وین: کہا جاتا ہے "ما بالدار وین" گھر
میں کوئی نہیں۔

الوبنۃ: تکلیف۔ بھوک۔

وبۃ ووبۃ یوبۃ ونبھا ونبھا ونبوھا و
اوبۃ اییھا فلان و بہ: چرانا۔ سمجھنا۔ کہا
جاتا ہے "فلان لا یوبۃ بہ اولہ" فلاں کی
پروائشیں کی جاتی۔

وتاینا وتافی مشیتہ: سست رفتار چلنا۔
واتاہ مواتاۃ و تاء علی الامر:
موافقت کرنا۔

الوث والوثۃ: قمری کی آواز۔
وتح یوتح وتاحۃ وتوحۃ وتوحۃ
العطاء: داد و پیش کم ہونا۔

وتح یتح وتحا وتحا وتحا العطاء: داد و پیش
کم کرنا۔

اوتح اییحا وتتح وتوتیح العطاء: کم
کرنا۔ اوتح الرجل: آفت لائن ہونے سے
کم ہال والا ہونا فلانا: رخ و مشقت میں ڈالنے
الشی: کم کرنا۔

توتح توتحا من الشراب: کم پینا۔
الوتح والوتح والوتیح: تھوڑا۔ ناچیز۔
رجل ویتح: خیس مرد طعام ویتح: بے
برکت کھانا۔ کہا جاتا ہے "ما اغنی عنہ و
تتحۃ" اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔

وتح یتح وتحا الرجل بالعصا: لٹھی
سے مارنا۔

اوتح اییحا من فلان: انتہائی مشقت کو
پہنچانا۔

الْوَتْدَةُ كَبْجُرٌ كَمَا جَاءَتْ فِي "مَا اغْنَى عَنْهُ وَتَدَةٌ" اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔

الْمَيْتَدَةُ جَبْرِيٌّ۔

وَتَدٌ يَتَدُ وَيَتَدُ وَيَتَدُ وَوَتْدٌ الْوَتْدُ مَخْرَجٌ جَانِ الْوَتْدِ: مَخْرَجًا نَبَاتَاتٍ كَالْزَّرْعِ: نَبَاتَاتٍ كَالظَّاهِرِ هُوَ نَابِ قَوِيٌّ هُوَ نَابِ: اور کہا جاتا ہے "وَتْدٌ رَجُلٌ فِي الْأَرْضِ" اس نے اپنے پیر کو زمین میں دھسا دیا۔

أَوْ تَدٌ إِيْثَادًا الْوَتْدُ: مَخْرَجًا نَبَاتَاتٍ

الْأَوْتَادُ فِي عُرْفِ الْمُسْلِمِينَ: مسلمانوں کی اصطلاح میں اوتاد وہ چھپے ہوئے چار اولیاء ہیں اور ان کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ چار آسمانوں سے آنے والے احکام کی تدبیر کریں۔ ان اولیاء کی رہائش چار آسمانوں پر ہوتی ہے۔ ان اولیاء کو العمد بھی کہا جاتا ہے۔

الْأَوْتَادُ الْأَرْبَعَةُ: (فکلیات)

چار ربیسی برج بارہ برجوں میں سے جن چار کے نام یہ ہیں۔ (۱) الْوَتْدُ الطَّالِعُ (۲) الْوَتْدُ الْغَائِبُ۔ (۳) وَتْدُ السَّمَاءِ (۴) وَتْدُ الْأَرْضِ۔ ان چار بوجوں کو نظام فلکی میں بنیادی اور حفاظتی حیثیت ہے۔

الْوَتْدُ وَالْوَتْدُ وَالْوَتْدُ: مَخْرَجٌ كَوْنِيٌّ كَانِ كَسَانِ كَامَسِ كَمَا مَنَدَ اَجْمَرُ اِذَا حَصَدَ: جِ اَوْتَادُ: اَوْتَادُ الْأَرْضِ: پھاڑ۔ اَوْتَادُ الْبِلَادِ: ملک کے بڑے بڑے آدمی۔ اَوْتَادُ الْقِمِّ: دانٹ والو تَدِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرُوضِ: تین حروف جن میں سے دوسرا تیسرا ساکن ہو۔ اگر دوسرا ساکن ہو تو وہ تَدِ مفروق کہا جاتا ہے جیسے قَوْلٌ اور تیسرا ساکن ہو تو وہ تَدِ مجموع جیسے عَلِيٌّ۔

الْمَيْتَدَةُ وَالْمَيْتَدَةُ: مَخْرَجٌ كَانِيٌّ كَلْزِيٍّ يَأْ لَوْهٍ كِي مَوْرِيٍّ۔

الْوَاتِدُ: فَاءٌ ثَابِتَةٌ قَوْنٌ وَإِتْدٌ كَهْرَاسِيْغٌ وَتْدٌ وَإِتْدٌ مَبَالِغٌ كَيْلَةٌ هِيَ جَيْسٌ شَغْلٌ شَاغِلٌ وَتَرٌ يَتَرٌ وَتَرًا وَتِرَةٌ فَلَانًا: گھبرا دینا۔

سَتَانًا: تَكْلِيْفٌ يَهَيِّجَانَا فَلَانًا مَالَهُ أَوْ حَقَّهُ: گھٹا دینا۔ الْقَوْمُ: جَهَنَّمَ كَوَطَاقٌ كَرَدِينَا الْقَوْمُسُ: تانت لگانا۔

أَوْ تَرٌ إِيْثَارًا الْقَدْسُ: کمان کے لیے تانت بنانا یا کمان میں تانت لگانا الشَّيْ: طاق بنانا بَيْنَ الْأَشْيَاءِ: وقفہ دے کر لگانا کرنا۔

وَأَتَرٌ وَتَارًا وَوَاتِرَةٌ الْأَشْيَاءُ: وقفہ دے کر لگانا کرنا الْكُتْبُ: لگانا بھیجنا الْقَوْمُ: ایک یاد روز کا نغمہ دے کر روزہ رکھنا۔ وَتَرٌ الْقَوْمُسُ: کمان میں تانت لگانا۔

تَوَتَّرَ الْعَضْبُ وَنَحْوُهُ: پٹھے وغیرہ کا تانت کی مانند سخت ہونا۔

تَوَاتَرَتِ الْأَشْيَاءُ: وقفہ کے ساتھ لگانا کرنا۔

وَتَرٌ الْقَوْمُسُ: کمان کی تانت

فِي الْخَطِّ الْمُنْحَنِيِّ: خط کا قطعہ جو لفظوں کو ملانے والا ہو۔ فِي الْمَثَلَتِ الْقَائِمِ الزَّوَائِدِ: (علم ہیئت) زاویہ قائمہ کے بالمقابل مصلح۔

الْوَتْرُ وَالْوَتْرُ: بے جوڑ۔ طاق۔ بدلہ یا بدلہ لینے میں ظلم۔ جِ وَتَارٌ۔

الْوَتْرُ: وَتْرَةٌ كِي جَمْعٌ هِيَ تَانِتٌ۔ جِ اَوْتَارٌ وَوَتَارٌ۔

الْوَتْرَةُ: دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ کان کے اوپر کے حصہ کی نرم ہڈی۔ نکتے کا کنارہ یا ناک کے بانہ اور مونچھ کے درمیان کا حصہ۔ کمان سے تیر نکلنے کی جگہ۔ زبان کے نیچے کا پھلا۔ مکان کا وہ حصہ جہاں ستونوں سے طاق کے مانند بنایا جائے۔ ہر چیز کا گھیرا۔ ہر چیز کا خالص حصہ جِ وَتَرٌ وَوَتَارَاتٌ۔

الْوَتِيرَةُ: طریقت۔ وقفہ۔ سستی۔ نیزہ بازی سیکھنے کا دائرہ۔ قبر۔ گھوڑے کی پیشانی کا گول سفید داغ۔ بدلہ یا بدلہ لینے میں ظلم۔ قید۔ تاخیر۔ نکتوں کے درمیان کا پردہ۔ کان کے اوپر کے حصہ کی نرم ہڈی۔ دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ ہونٹ کا حلقہ۔ مکان کا وہ حصہ جہاں ستونوں سے طاق کے مانند بنایا جائے۔ سفید زمین۔ گلاب کا ٹھنڈا۔ پہلی دہائی

کاتام۔ یعنی جب دس کا عدد پورا ہوتا ہے تو اسے وَتْرَةٌ کہتے ہیں۔

تَتْرَى: اس کی اصل وَتْرَى ہے اور اس کے معنی ایک کے بعد ایک کا آنا جیسے اَرْسَلْنَا رَسَلَنَا تَتْرَى۔

الْمَوْتَرُ: سنہ۔ وہ شخص جو اپنے مشقوں کے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔

الْوَتْسُ: ہر چیز کا قلیل۔ کہینے۔

وَتِغٌ يُوْتِغٌ وَتَغًا: گنہگار ہونا۔ دین یا دنیا کے بارے میں ہلاک ہونا۔ دردمند ہونا۔ بدخلق ہونا۔ ملامت زدہ ہونا۔ گفتگو میں ناجبھ ہونا۔ برا قول کہنا اور حد درجہ جاہل ہونا فِی حُبَّتِهِ غَلِيٌّ كَرَانًا۔

أَوْ تَغَةٌ إِيْثَاعًا: ہلاک کرنا۔ قید کرنا اور بقول بعض مصیبت میں ڈالنا۔ دردناک کرنا۔ اَوْ تَغَةٌ عِنْدَ السُّلْطَانِ: مضر بات کی تلقین کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَوْ تَغٌ دِينَهُ بِالْإِثْمِ" تم اس نے اپنے دین کو گناہ سے خراب کیا۔

الْوَتِيغَةُ: دلیل میں غلطی۔

الْمَوْتِغَةُ: ہلاکت۔

وَتْنٌ يَتْنُ وَوَتْنًا وَتِنَةُ الْمَاءِ: پانی کا ہمیشہ رہنا اور حتم نہ ہونا بِالْمَكَانِ: ٹھہرنا اور اقامت کرنا (وَتْنًا وَوَتِنًا) الرَّجُلُ: شہ رگ پر مارنا۔

وَتْنٌ: شہ رگ پر مارنا۔

وَأَتْنَةٌ مَوَاتِنَةٌ: چٹنا۔ دوسرے کے مانند کام کرنا۔ وَأَتْنُ الْمَكَانِ: دیر تک ٹھہرنا۔ اِسْتَوْتَرْتُ الْمَالَ: مال (یعنی جانوروں کا) موٹا ہونا۔

الْوَاتِنُ: فاءٌ کسی جگہ میں ہمیشہ رہنے والا۔ جِ وَتْنٌ: ہمیشہ بننے والا یا پانی جو کبھی ختم نہ ہو۔

الْوَتْنَةُ: مقروض کا چھپا۔ مخالفت۔

الْوَتْنِينَ: سہ۔ شہ رگ۔ دل کی رگ جس سے تمام رگوں میں خون جاتا ہے۔ جِ وَتْنٌ وَأَوْتِنَةٌ۔

وَأَيَاتِنًا وَقَا اللّٰحْمِ: مردار کرنا الْوَتْدُ: کھوٹی کے سرے کو پاش پاش کر دینا (وَأَوْقًا)

يُدَّةٌ مَوْجٌ ذَالِئَالٌ۔

وئبث تَوْنًا وَتَا وَوُتَا وَوُتْنَا وَوُئبث
يُدَّةٌ ہاتھ میں موج ہونا۔ صفت وئبثہ و
مؤتوئبہ و وئببہ۔

وئو یؤئو وئانہ۔ موج لاحق ہونا۔

الوئانہ والوئبہ۔ موج۔

الوئبہ۔ ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا۔

المئبئانہ۔ بیخ کاڑنے کا آلہ۔

وئب یئب وئبا و وئوئبا و وئبنا و
وئبا و وئبنا وئبہ۔ اٹھنا کودنا۔ عرب کا
قول ہے ”وئب الی الشرف وئبا“ وہ
عزت پر دفعتاً پہنچ گیا۔

وئبہ تَوئبنا۔ گدی پر بٹھانا۔ الوئبہ۔
بٹھنے کیلئے بچھانا۔ وئبہ وئبا۔ کسی کیلئے فرش
بچھانا۔

اَوئبہ ائبنا۔ کودنا۔ اَوئبہ المَوئبہ۔ کسی
مقام سے کودنا۔

وَأَبَّه مَوَائِبَةٌ۔ سبقت کرنا۔ ٹوٹ پڑنا۔

تَوئب عَلَیْهِ فِی اَرْضِهِ۔ ظلمنا بقتلہ کر لینا۔

تَوَائِبُ القَوْمِ۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

الوئاب۔ تخت۔ بچھونا۔ بیٹھے کی جگہ۔

الوئبہ۔ بہت کودنے والا۔ کہا جاتا ہے
”فَرَسٌ اَوْ نَاقَةٌ وئبہ“ بہت اچھلنے کودنے
والا گھوڑا یا اونٹنی۔

الوئاب۔ بہت کودنے والا۔ فَرَسٌ وَنَاقَةٌ
تیز رفتار گھوڑا۔

اَلوئابُ۔ ایک مخصوص بیماری جس میں جسم
کرمی یا سردی کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے پٹھے پھول
جاتے ہیں اور سر میں شدید درد ہوتا ہے۔

المئبب۔ کودنے والا۔ بیٹھنے والا۔ بلند زمین۔

زرم زمین۔ چھوٹا چشمہ۔

المؤئبان۔ غزوه نہ کرنے والا بادشاہ۔

وئبج یؤئبج وئبجہ۔ گاڑھا ہونا۔ الفرس
بوڑے کا موٹا ہونا المکئبان۔ بہت گھاس والی

وئبہ۔ صفت وئبج۔

اَوئبجہ ائبئبنا۔ زیادہ کرنا۔

اِسْتَوئبج المئال۔ زیادہ ہونا من المئال:

زیادہ لینا الفرس۔ گھوڑے کا موٹا اور گھسا ہونا
النئب۔ نباتات کا بہت ہونا اور گنجان ہونا۔

الوئبج۔ گاڑھا۔ گھسا۔ ٹوٹ۔ وئبج۔ گف ہنا
ہوا پڑا۔

الوئببجہ۔ بہت درختوں والی زمین۔ گنجان
درختوں والی زمین۔

اَرْضٌ مَوئبججہ و مئببججہ۔ بہت گھاس والی
زمین۔

المؤئبججہ من النئاب۔ نرم ہنا ہوا کپڑا۔

الوئببجہ۔ پانی کی تری۔

الوئببجہ۔ گاڑھا دودھ۔ چربی ملی ہوئی نرم
ہڈی۔ تروتازہ اُبجی ہوئی گھاس۔ کچڑ والی
زمین۔

رَجُلٌ مَوئبججہ الحلق و مؤئبججہ۔ کمزور
جسم کا مرد۔

وئب یؤئب وئبہ وئبہ الفرائش۔ بچھونے کا نرم و
ملائم ہونا۔ صفت وئبیر لئبنا۔ بہت گوشت
والا ہونا الرئبج۔ موٹا ہونا۔

وئبیر یئبیر وئبنا و وئبیر الفرائش۔ بچھونے کو
روندنا۔ نرم کرنا۔

اِسْتَوئبیر الفرائش۔ بچھونے کو نرم پانا۔ من
المئال۔ بہت لینا۔

الوئبیر۔ ثابت قدم۔
الوئبیر۔ سس چڑے کا کنگرا جس کو تمہ کے طور
پر لبا کاٹا جائے۔ صدری کے مانند ایک کپڑا۔

الوئبیر۔ ایک قسم کا کپڑا جو سارے کپڑوں سے
اوپر رہتا ہے۔ نرم (و المئبیر) زین پر رکھنے کا

گدلا۔ مئب مؤئبیر و مئبیر۔
الوئبیر و الوئبیر۔ نرم و ملائم۔ الوئبیر۔ بمعنی
وئبیر۔

الوئبیرہ۔ وئبیر کا مؤئب بہت گوشت والی۔ مئب
وئبیر و وئبیر۔

الوئبیر۔ نرم بچھونا۔
الوئبیر و الوئبیرہ۔ بچھونے کی نرمی۔

المؤئبیر و المئبیر۔ درندوں کی کھالیں۔
رئبم و دئیبا کی ہوتی۔

وئب یئب وئبنا۔ توڑنا۔ کلنا۔

الوئبجہ من المئبیر۔ تھوڑی بارش۔

الوئببجہ۔ موسم بہاری اُبجی ہوئی گھاس۔

الوئببجہ من المئبیر۔ تھوڑی بارش۔

وئب یئب وئبنا و وئب وئب و اَوئب
الئبیر۔ بانڈی کے لیے پایہ بنانا۔

وئب یئب وئبنا و وئبنا و مؤئبنا و مؤئبنا
بھروسہ کرنا۔ صفت فاعلی و اتق اور صفت
مفعول مؤنوق بہ۔

وئب یؤئب وئبنا وئبنا الشئب۔ قوی و مضبوط
ہونا۔ وئب الرئبج۔ مضبوط و استوار کرنا۔

وئب الامر۔ مضبوط کرنا الرئبج۔ کسی شخص
کو معتبر کہنا۔

اَوئبنا ائبنا۔ رستی سے باندھنا۔

وَأَقْبَهُ وئبنا و مؤئبنا۔ معاہدہ کرنا۔

تَوئب۔ مضبوط و قوی ہونا فی الامر۔ وثیقہ
لینا۔

تَوَائِبُ القَوْمِ۔ باہم عہد و پیمان ہونا۔

اِسْتَوئب منہ۔ وثیقہ لینا من الاموال
حفاظت میں مبالغہ کرنا۔

الشقہ۔ سس قابل بھروسہ۔ لفظ واحد کمؤئب
واحد جمع سب کے لیے مستعمل ہے اور کبھی
ثقات کے وزن پر کمؤئب دونوں کے لیے

جمع لاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے ”فلائق ائبنا
ثقہ“ یعنی فلاں بھادر ہے اور اس کی بہادری پر
بھروسہ کیا جاتا ہے۔

الوئب و الوئب۔ باندھنے کی چیز جیسے رستی
وغیرہ مئب وئب۔

الوئب۔ مضبوط۔ مئب وئب۔

الوئببہ۔ وثیق کا مؤئب قابل اعتماد۔ کام کی
مضبوطی۔ اَرْضٌ وئببہ۔ بہت گھاس والی

زمین مئب وئب۔
الأوئب۔ اسم تفصیل۔ مؤئب وئب اور ای

سے ہے ”اِسْتَمْسَک بِالْعُرْوَةِ الوئببہ“
اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا۔ اور کہا جاتا ہے

”حُذِ الامر بِالْاَوئب“ معاملہ کو مضبوطی
کے ساتھ اختیار کرو۔

المؤئب و المئبنا۔ عہد۔ مئب مؤئب و

وجب وجبا ووجبا ووجبا القلب
 دل کا تڑپنا دھڑکانا۔
 وجب بوجب ووجوباً۔ بزدل ہونا۔
 وجب دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا۔
 دن میں ایک ہی مرتبہ کھانے کا عادی بنانا
 اور ایسا ہی وجب نفسه و لنفسه: اپنے کو
 ایک ہی مرتبہ کھانے کا عادی کرنا الناقۃ:
 اونٹنی کو دن رات میں صرف ایک مرتبہ دوھنا
 الامر علیہ لازم کرنا بہ الأرض زمین پر
 چلک دینا۔ وحببت الابل اونٹ کا کھانا۔
 وحبب اللبأ فی ضرع الناقۃ پیوس کا
 تھن میں جم جانا۔ البعیر اونٹ کا بیٹھنا۔
 اوجب ایجاباً لفلان حقه رعایت کرنا۔
 کہا جاتا ہے۔ قد فعلت ذلك ایجاباً لحقه
 میں نے اس کے حق کی رعایت کی وجہ سے یہ
 کیا الشئ واجب کرنا یا سمجھنا۔ اوجب
 البیع لازم کرنا الرجل دن میں ایک مرتبہ
 کھانا۔ جنت یا جہنم کے لائق کام کرنا اللہ قلبہ
 دل کو تڑپانا۔ دھڑکانا۔
 واجبه وجاباً وواجباً لازم کرنا۔
 توجب دن میں ایک مرتبہ کھانا۔
 تواجبوا باہم شرط لگانا (گویا کہ بعض نے
 بعض پر کچھ واجب کیا)
 استوجب استیجاباً الشئ مستحق ہونا۔
 واجب و لازم جاننا۔
 الوجوب سے بڑی محک۔ ج وجات
 (والوجاب والوجابۃ) بزدل۔ قلب
 وجات بہت دھڑکنے والادل۔
 الوجوب کھوڑو ڈھیر انداز کی شرط۔
 الوجوبۃ مصل دھاکے کے ساتھ گرنا۔ یا
 کرنے والے کی آواز۔ دن میں ایک مرتبہ کی
 خوراک۔ ج وجات۔ ذات کا اپنی عین کا
 الوجوب سے ثبوت۔ ذات کا اپنی عین کا
 اقتضاء کرنا اور خارج میں محقق ہونا۔
 الوجوبۃ وظیفہ۔ بیع کو واجب کرنا۔ پھر پہلے
 پہلے لینا اور جب لے کر فارغ ہو چکو تو کہا جاتا
 ہے "قد استوفیت وجبتک"

الئن
 الوئیی بیت پرست۔
 وئیت توئی وثیاً یدہ ہاتھ میں موج
 ہونا۔ صفت مؤنثہ
 اونئی ایشاء الزینل زخی یا عکلتہ سواری والا
 ہونا۔
 الوئی موج۔
 الوئی تکلیفیں۔
 المیشائۃ موگرگی۔ ہتھوڑا۔
 ووج یوج وجاب تیز چلنا۔ دوڑنا۔
 الوج سے تیزی۔ شتر مرغ۔ قتل۔ بل کی
 لکڑی ایک دوکانام۔
 وجاب یوجا وحا و توجاً فلاناً بالسکین
 او بیدہ کسی کی چھری یا تھ سے مارنا۔ صفت
 مفعولی موجوء ووجی اور اسم الوجاء
 التمر بھور کو کوٹنا۔
 وجاباً توجینا البسر ختم شدہ پانی والا پانا۔
 اوجاب البسر کوس کا پانی ختم ہونا۔ اوجاباً
 الرجل ناکام ہونا فلاناً عنہ دور کرنا۔
 پھاننا۔
 ائجاباً التمر بھور کا گودے دار ہونا۔
 الوجء والوجا والوجاء بے برکت چیز
 جیسے بانی کانواں۔
 الوجیبۃ گائے بھور یا نڈیوں کو کوٹ کر
 گھی یا زیتون کے تیل میں لت پت کر کے تیار کیا
 ہوا کھانا۔
 وجب یجب ووجوباً وجبۃ الشئ
 ثابت ہونا۔ لازم ہونا۔ کہا جاتا ہے "وجب
 البیع ووجب لی علی فلان کذا" یعنی
 بیع لازم ہوگئی اور میری فلاں پر اتنی چیز ثابت
 ہوگئی (وجبۃ الحناط وحقوہ) دیوار کا
 زمین پر گرنا الرجل دن میں ایک دفعہ کھانا
 (وجبا ووجوباً) الرجل مرتے ہوئے
 گرنا۔ کہا جاتا ہے "صوبہ فوجب" اس نے
 اسے مارا پس وہ مر کر گر گیا فلاناً عنہ باز
 رکھنا۔ ہٹا دینا۔ وحببت الشمس آفتاب کا
 غروب ہونا العین آنکھ کا دھنس جانا۔

میانق و موایبق و میانیق
 الوفاقیۃ زیتون کی قسم کا ایک چھوٹا درخت
 جس کے پتے آنے سامنے ہوتے ہیں پھول
 خوشہ کی شکل میں لگے ہوتے ہیں زینت کے
 لئے پویا جاتا ہے۔
 وثل المال مال جمع کرنا الشئ مضبوط و
 استوار کرنا۔
 الوئل درخت خرما کے چھال کی رسی۔
 چڑے کا میل کچیل۔
 الوئیل درخت خرما کی چھال۔ درخت خرما
 کی چھال کی رسی یا جوٹ کی رسی۔
 وتم یشم ولما الشئ تڑپنا۔ کوٹنا۔ وتم
 المطر الأرض زور سے بارش ہونا
 الفوس الأرض گھوڑے کا زمین پر پاؤں
 مارنا۔
 وتمت وثما وثاماً الحجازۃ رجلہ
 پتھروں کا پیر کو خون آلود کر دینا۔
 وتم یوتم وثما امکان کم گھاس والی
 ہونا۔
 وتم یوتم وثامۃ بہت گوشت والا اور گھاس
 ہونا۔ صفت وئیم۔
 واثم مؤانمۃ فی العذو دشمنوں میں گھسنے
 ہوئے چلا جانا۔
 الوئیمۃ پتھر۔ چقماق کا پتھر۔ گھاس یا
 نباتات کا ڈھیر۔
 الوئیم کی۔
 حقف میثم بہت پامال کرنے والا گھر۔
 وثن بین وثوناً عہد پر قائم رہنا۔
 أوثنہ ایشاناً بہت عطیہ دینا من المال
 بہت لینا۔
 استوفن استیجاباً الشئ باقی رہنا۔ مضبوط
 ہونا المال مال یعنی مویشی کا موٹا ہونا من
 المال بہت لینا۔
 استوفنت الابل اولاد کا بڑھنا۔
 الوائین فال ایک جگہ پر قائم رہنے والا۔ ج
 وئن۔
 الوئین بت۔ ج أوئان و وئن و وئن و

من الکلام: جلدی سے سمجھ میں آنے والا
مختصر کلام۔
المبجاز: مختصر کلام بولنے کا عادی۔
وجس یجس وجسا: پوشیدہ ہونا۔
وجست الأذن: کان کا آہٹ محسوس کرنا
(وجسا ووجسانا) سنی ہوئی چیز سے
گھبرانا۔
أوجس اینجاسا الرجل: محسوس کرنا اور
دل میں چھپانا۔ کہا جاتا ہے "أوجس القلب
فزعاً" یعنی دل نے گھبراہٹ محسوس کی۔
أوجست الأذن: کان کا آہٹ سننا۔
توجس: آہٹ پر کان لگانا الضعام او
الشرب: تھوڑا تھوڑا بچکا کڑوا: گھبراہٹ
محسوس کرنا الضوت: خوفزدہ ہو کر سننا۔
توجست الأذن: آواز سننا۔
الوجس: سر آہٹہ آواز۔ دل کی

گھبراہٹ۔
الواجس: فال میں آنے والا خیال۔
الأوجس: تھوڑی خورد نوش۔ زبان۔ کہا
جاتا ہے "لا أفعله سجس الأوجس"
میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔
وجع یوجع وجعا مریض اور درد مند
ہونا۔ اس کے مضارع میں یجع اور یاجع
واو کو ی یا الف سے بدل کر بھی بولتے ہیں و
وجع فلانا رأسه ووجع فلان رأسه"
فلان کے سر میں درد ہے۔
أوجعه اینجاعا: درد مند کرنا۔ تکلیف پہنچانا
أوجع فی العذو: دشمن کی بہت خوزیری
کرنا۔
توجع: شکایت کرنا۔ غم ظاہر کرنا لئزم دل
ہونا۔
الوجع: مرض و تکلیف۔ ج و جاع
وأوجع۔
الوجع: درد والا۔ ج و جعون و وجعی و
وجاعی و وجاع و أوجاع مؤنث و جعة
ج و جاعی و وجعات۔
الجعة: جو کی نیب۔

الأوجع: بہت تکلیف پہنچانے والا۔ (یہ اسم
تفصیل کا صیغہ ہے اور شاذ ہے اس لیے کہ
أوجع ثلاثی مزید سے بنایا گیا ہے)
الوجعاء: درج و دعوات۔
الوجع: درج پہنچانے والا۔ کہا جاتا ہے
"ضرت ووجع" دردناک مار۔ جیسے کہا جاتا
ہے عذاب الیم۔
وجف یجف وجفا ووجيفا ووجوفا
الشئ: مضطرب ہونا (وجيفا القلب:
دل کا دھڑکنا۔ صفت وجاف و واجف
(وجفا و وجيفا) الفرس: گھوڑے کا تیز
دوڑنا۔ صفت واجف۔
أوجف الفرس: گھوڑے کو تیز دوڑانا۔
الشئ: حرکت دینا۔ مضطرب کرنا الباب:
دروازہ بند کرنا۔
استوجف الحب فؤاده: محبت کا دل کو

شفیق کرنا۔
ناقعة میجاف: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔
الوجیف: سر خوف سے گرنا۔
الوجاق والأوجاق: آتش دان۔
تکلیفی: فوج کی ترتیب۔ ج وجاقات
(دخیل)
وجل یوجل وجلا ووجلا: ڈرنا خوف
محسوس کرنا۔ اور اس کا مضارع یوجل اور
یاجل واو کو یا یا الف سے بدل کر اور یوجل
علامت مضارع کے کسرہ کے ساتھ بھی بولا
جاتا ہے۔
وجله یوجلہ ووجلا: خوف میں بڑھ جانا۔
وجل یوجل ووجلا: بڑھا ہونا۔
وأجله مواجلا فوجلہ: خوف میں مقابلہ
کرنا۔
أوجلہ: ڈرنا۔
الوجل: خوف۔ ج أوجل۔
الوجل: خوف کرنے والا۔ ج وجلون و
وجال مؤنث ووجلہ۔
الأوجل: خوف کرنے والا (مؤنث کیلئے
وخلاء نہیں بلکہ ووجلہ بولا جاتا ہے) اور کہا

جاتا ہے "هو أوجل منك" وہ تم سے زیادہ
خائف ہے۔
الوجل والموجل: گڑھا جس میں پانی جمع
ہو۔ الموجل: خوف کی جگہ۔
الوجل: بڑھے۔
وجمه یجمه ووجما: مکا مارنا (وجما
ووجوما) شدت غیظ یا خوف سے گفتگو سے
عاجز رہنا۔ کہا جاتا ہے "لم أجم عنه" میں
اس سے گھبرا کر خاموش نہیں ہوا۔ حدت غم
کی وجہ سے ترش رو ہو کر سر جھکانا۔ صفت
وجم و واجم۔ وجم من الأموات: پند کر
کے رک جانا الشئ: ناپسند کرنا۔ وجم
لفلان من کذا: زہم دل اور غمگین ہونا۔
الوجم: سر۔ رجل وجم: ناکارہ مرد۔ کہا
جاتا ہے "هو وجم سوء" وہ برا آدمی ہے۔
الوجم: بخیل۔ لیج۔ ہلکا چلکا۔
الوجم والوجم: قبروں یا ٹیلوں پر پتھروں
کا ڈھیر یا جگلوں میں راستہ کے نشانات ج
و حوم و أوجام: بیت وجم و وجم: بڑا
گھبر۔
الأوجم: اسم تفصیل۔ أوجم الرمل:
ریت کا بڑا قطعہ۔
الوجمة: ایک مرتبہ کی خوراک۔
الوجمة: کتاب و عار۔
الوجیم من الأيام: سخت گرم دن۔
وجن یجن ووجنا بالشئ: پھینکنا۔ الوتد:
کوئی ٹھونکنا بہ الأرض: زمین پر پلکانا
القصار الثوب: دھولے کا کپڑے کو پھوڑنا۔
وجن الجلد: کھال کو نرم ہونے کیلئے کوٹنا۔
قوجن: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔
الوجنة والوجنة والوجنة والوجنة
والوجنة والالجنة والالجنة
رخسارہ میں ابھری ہوئی جگہ ج وجنات۔
الوجن والوجن والواجن: پتھر ملی سخت
زمین۔
الوجین: واوی کا کنارہ۔ سامنے کی قدرے
اونچی اور پتھر ملی زمین ج وجن

الأوجن. سخت پہاڑ۔ بڑے رخساروں والا۔
مؤنث وجنء. ناقہ وجنء. سخت اونٹنی۔

المؤجن. بڑے رخساروں والا۔ بہت گوشت والا ہونا۔

المینجنہ. موگری۔ ج میناجن و مواجن۔
المؤجون. شرمندہ۔

المؤجونۃ. رہن کا آراستہ کرہ۔
وجہ یجہ و جہا فلاناً. منہ پر مارنا اور رد

کرنا۔ لوگوں کے نزدیک وجاہت میں بڑھ جانا۔
وجہ یوجہ و جاہۃ. وجیہ ہونا۔ صاحب

وجاہت ہونا۔
وجہ الی فلان. کسی کے پاس جانا۔ ہ الی

فلان. کسی کے پاس بھیجا ہ الامیر: باعزت
بنانا وجہ الشئ: کسی طرف پھیر دینا۔ القوم

الطریق: راستہ پر چلنا اور نشان واضح کرنا۔
لعبئہ: غلام سے اپنے مرنے کے بعد آزادی

کیلئے کہنا المطر الأرض: ایک روش کی
بارش ہونا۔ سطح زمین کو صاف کر دینا اور نشان

ڈال دینا الویج الحصى: ہوا کا ٹکڑیوں کو
اڑانا المیت: میت کو قبلہ رو کرنا۔

أوجه اینجأھا الرّجل: وجیہ بنانا۔ وجیہ پانا۔
رد کرنا۔

وأجهۃ وجاہا و مواجہۃ زور و زور مقابلہ
کرنا۔ کہا جاتا ہے "لقبہ مواجہۃ و

وجاہا" اس نے اس سے زور و زور ملاقات
کی۔

توجہ الیہ: متوجہ ہونا اور قصد کرنا الحیش:
حکمت کھانا الشیخ: بڑھا ہونا۔

توأجہ الرّجلان او المنزولان: ایک
دوسرے کے مقابل ہونا۔

أتجہ الیہ: متوجہ ہونا لہ رائی: خیال
سوچنا۔

الوجه. چہرہ۔ ج أوجه و وجوۃ و أجوہ.
وجہ الثوب و نحوہ: کپڑے وغیرہ کا

سامنے کا پہلو۔ وجہ الذہر: زینہ کا اٹل۔ کہا
جاتا ہے "کان ذلک علی وجہ الذہر" یہ

زمانے کے شروع میں تھا۔

الوجه. مص۔ جانب۔ قصد و نیت جس عمل
وغیرہ کی طرف انسان متوجہ ہو۔ عزت و مرتبہ

ووجه الکلام: مقصود کلام۔ رضامندی۔ کہا
جاتا ہے "فعل ذلک لوجه اللہ" اس نے

اس فعل کو اللہ کی رضامندی کیلئے کیا۔
"وَصَرَبَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَعَيْنَهُ" اس نے

کام کی اچھی تدبیر کی۔ "وَضَعَى عَلِيٌّ
وَجْهَهُ" وہ لا پرواہی سے گزر گیا اور "ابيضُ

وَجْهَهُ وَبَيْضُ اللَّهِ وَجْهَهُ" اس وقت کہا
جاتا ہے جبکہ کوئی فعل محمود کرے اور اسی طرح

إسودُ وَجْهَهُ وَسودُ اللَّهِ وَجْهَهُ" اس
وقت بولا جاتا ہے جبکہ فعل مذموم کرے ج

وَجْوۃ: سردار قوم اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
وَجْهٌ" یعنی صاحب عزت و مرتبہ مرد۔

الوجه: نوع و قسم جیسے "الکلام فیہ علی
وَجْوہ علی اربعة وجوہ. و لیس

لکلامک وجہ" یعنی تمہارے کلام کیلئے
صحت کی کوئی صورت نہیں "والوجه ان

یکون کذا" یعنی ظاہری قصد ہے کہ ایسا ہو
"ولهذا القول وجہ" یعنی اس قول کے

لیے ماخذ ہے "وفلان احسن القوم
وجہا" فلاں قوم کے لحاظ سے بہتر حال میں

ہے اس لیے کہ عموماً حسن ظاہر حسن باطن پر
دلالت کرتا ہے "وَصَرَفَ الشَّيْءَ عَن

وَجْهِهِ" اس نے چہرہ کو اس کے طریقے سے
پھیر دیا "ورجل ذو وجھین" جبکہ ضمیر

کے خلاف ظاہر کرے۔
الوجه والوجه. توڑ پائی۔

الوجه والوجه. جانب۔ گوشہ۔
الوجه والوجه. صاحب عزت و مرتبہ۔

الجهۃ والجهۃ والجھۃ ج جہات و
جہات وجہات والوجهۃ والوجهۃ.

جانب۔ گوشہ جس کی طرف تم توجہ کرو۔ اور
کہا جاتا ہے "ضلَّ وجهہ امرہ" وہ اپنے

مقصد سے چل گیا۔
الوجاہۃ. سز۔ مرتبہ۔ عزت۔ حرمت۔ کہا

جاتا ہے "لہ وجاہۃ عند الناس" اس کی

لوگوں کے نزدیک عزت و حرمت ہے۔
التوجیہ. سز۔ فی علم العروض: روی

مقید کے قبل کے حرف کی حرکت کا اختلاف۔
روی مطلق اور تاسیس کا درمیان۔ کہا جاتا ہے

"هم وجاہ ألف" وہ ایک ہزار کے قریب
ہیں۔ کہا جاتا ہے وجاہہ و وجاہہ و

وجاہہ و تبحاہہ و تبحاہہ و تبحاہہ.
سامنے۔ مقابل اور کہا جاتا ہے "فعدوا

تبحاہہ و وجاہہ" وہ لوگ اس کے سامنے
بیٹھے۔

الوجهیہ. سردار قوم۔ آبرو والا۔ مرتبہ والا ج
وجہاء. مؤنث وجیہۃ ج وجیہات و

وجاہۃ الوجهیہ من الکسیۃ: دورخی
چادر۔ الوجهیہ: پاؤں کے بل پیدا ہونے والا

بچہ۔
الوجهیۃ. وجیہ کا مؤنث ایک قسم کا دورخہ

مہرہ جس میں صورت نظر آتی ہے اور بسا
اوقات اس کو نظر بد سے بچنے یا حصول عزت

کے لیے گردن میں لٹکاتے ہیں۔
الأوجه. اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هو

أوجه قومہ" وہ اپنی قوم میں زیادہ مرتبہ والا
ہے۔ کہا جاتا ہے نظروا الی باوینجہ سؤء

یعنی انہوں نے مجھ کو بری نظر سے دیکھا۔
أوینجہ. أوجه جمع وجہ کی تفسیر ہے۔

المؤجہ. مرتبہ والا من الکسیۃ: دورخی
چادر۔ شئ مؤجۃ: ایک روش پر بنی ہوئی

چیز۔
المواجہۃ. سز۔ کسی کا کلام یا چہرے سے

استقبال کرنا۔
وجی یجی و جیا الرّجل: ناکارہ و نکمپانا۔

وجی یوجی و جی و توجی الماشی:
نگھے پاؤں ہونا یا قدم گھسا۔ صفت وج و

وجی مؤنث وجیۃ و وجیاء.
أوجی اینجأنا. الرّجل: پاؤں گھسانا۔ دینا

علیہ: بخل کرنا عن کذا: امراض کرنا
الشئ: دور کرنا فلاناً: حاجت سے ہٹا دینا۔ کہا

جاتا ہے "أوجاہ عنہ" اس نے اس کو اس سے

کو کھجڑی کر دینا۔
الْوَحِيضُ: تیز زردہ۔
وَحْطٌ يَحْطُ وَحْطًا فَلَانًا بِالرَّمْحِ: تیزہ مارنا وَحْطَهُ بِالسَّيْفِ: دُور سے تلوار سے کوچنا۔

هُ السَّيْبُ: سر کے بالوں کا کھجڑی ہونا۔
وَحْطٌ فِي السَّبِيحِ: کبھی فائدہ کبھی نقصان اٹھانا۔

وَحْطٌ: سر کے بالوں کا کھجڑی ہونا۔
الْوَحْطُ: تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا اونٹ۔ طَعْنٌ او زَمْعٌ وَحْطًا: پار ہونے والا تیزہ۔

المَيْحُطُ: پار ہونے والا۔
وَحْفٌ وَحْفٌ وَخَفًا السَّوْفِيُّ: ستو گوندھنا اور لیس دار ہونا السَّوْفِيُّ: ستو گوندھا ہوا اور لیس دار ہونا الرَّجُلُ: بدگوئی کرنا۔

بُرَأَى سے یاد کرنا۔
وَحْفٌ وَوَحْفٌ السَّوْفِيُّ: ستو گوندھنا اور لیس دار بنانا اور اسی سے عرب کا قول ہے "أَنَّ لِيُوْحِفُ فِي الطَّيْنِ" اس احمق کے لیے بولتے ہیں جو خود اپنے ہی قول کو نہیں جانتا۔

أَتَحَفَّتْ رَجُلَهُ: پاؤں کا پھسلنا۔
الْوَحْفَةُ: اسم مرۃ۔ خریطہ کے مانند چڑبے کا تھمیلنا۔

الْوَحْفَةُ: ستو وغیرہ جو گوندھا جائے۔
المَوْحِفُ: بیوقوف۔

المَيْحِفُ: ستو گوندھنے کا برتن۔
وَحْمٌ يَوْحُمُ وَخَامَةٌ وَوَحْمَةٌ وَوَحْمًا الْمَكَانُ او الطَّعَامُ: مضر صحت یا ناقابل ہضم ہونا۔

وَحْمَةٌ يَحْمُهُ وَخَمًا: زیادہ بد ہضمی والا ہونا۔ وَحْمٌ يَوْحُمُ وَخَمًا وَأَتَحَمُّ: مین و عنہ۔ بد ہضمی ہونا۔

وَأَحْمَةٌ مَوَاحِمَةٌ فَوَحْمَهُ (ض) وَخَمًا: بد ہضمی میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔
أَتَحَمَّهُ إِتْحَامًا الطَّعَامُ: بد ہضمی میں مبتلا

الْوَحْيُ: من۔ آواز۔ جلدی۔ بڑا سردار۔
بادشاہ۔ اَلْجُوحِيُّ اور جلدی کرانے کے لیے بولا جاتا ہے "الْوَحْيِيُّ الوَحْيُ" والْوَحَاكُ الوَحَاكُ: یعنی سبقت کرو سبقت کرو۔

الْوَاحِيُّ: فَاجٌ وَآحُونٌ وَوَحَاةٌ۔
الْوَحْيُ: بہت جلدی۔ کہا جاتا ہے "مَوْتٌ وَحْيٌ" جلدی کی موت۔ "وَذَكَاةٌ وَحْيَةٌ" جلدی کا ذبح۔

الْأَوْحِي: زیادہ تیز۔ کہا جاتا ہے "الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ أَوْحِي" تلوار سے قتل جلدی واقع ہوتا ہے۔

وَحَدٌ يَحْدُ وَخَدًا وَوَحِيدًا وَوَحْدَانًا البَعِيرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا اور ناگوں کو شتر مرغ کی طرح ڈالنا۔ صَفْتٌ وَاحِدٌ وَوَحُودٌ وَوَحَادٌ۔

الْوُحْدُ: وَحْدٌ كَمَا سَمِعَ وَوَحُودٌ۔
وَخَزَةٌ يَجْرُهُ وَخَزًا: چھوٹا شیب: سر کے بالوں کا کھجڑی ہونا فَلَانٌ: شہد کا شہید بنانا۔
الْوُخْرُ: من۔ ہر چیز کا تھوڑا اور کہا جاتا ہے "جَاؤْا وَخَزًا وَخَزًا" چار چار آئے۔

الْوَحْيِيزُ: شہد کا شہید۔
وَخَشٌ يَوْحِشُ وَخَوْشَةٌ وَوَحَاشَةٌ وَوُخُوشَا الشَّيْءُ: کٹھا اور رومی ہونا رَأْسُ الكَبْشِ: خشک ہونا اور سکرنا۔

وَخَشٌ الشَّيْءُ: کٹھا اور رومی کرنا العَطِيَّةُ: کم دینا۔
أَوْحَشَ لَهُ بِالْعَطِيَّةِ: کم دینا فی عَرَضِهِ بے عزتی کرنا الشَّيْءُ: خلط ملط کرنا۔

الْوُحْشُ: ہر چیز کا رومی۔ کہنے لوگ۔ لفظ واحد ہی جمع مذکر مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے اور کبھی وحاش و اَوْحَاش جمع آتی ہے۔

وَغَضٌ يَحْضُ وَوُحُوصًا: حرکت کرنا۔
أَوْحَصَ أَيْحَاضًا فَلَانٌ لِي بَعِطِيَّةٍ: کم دینا۔

وَخَصٌ يَحْضُ وَخَصًّا فَلَانًا بِالرَّمْحِ: تیزہ چھوٹا شیب: بڑھاپے کا سر کے بالوں

تَوَحَّنٌ: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ بڑے پیت والا ہونا۔

الْوُحْنَةُ: اسم مرۃ۔ پھسلانے والی کچڑ۔
وَخَوْحٌ: آواز گورگرتے نکالنا۔ سخت سردی کی وجہ سے ہاتھوں میں پھونکنا اور أَوْحُ أَوْحُو کہا۔

تَوُحُوخٌ: الظِّلْمُ فَوْقَ النَّيْضِ: شتر مرغ کا انڈوں پر شیشنگی ظاہر کرنا۔

الْوُخُوحُ وَالْوُخُوحُ: قوی۔ کتا۔ آواز نکالنے والا۔ الوُخُوحُ: جلد باز تیز آدمی۔ ہلاک ہونے کا آدمی۔ ج وَحَاوَحُ: الوُخُوحُ: سردار اور رئیس وَحَاوَيْعٌ۔

وَحِيٌّ يَحِيُّ وَخِيًّا إِلَى فَلَانٍ: اشارہ کرنا۔
پچا ہر بھیجا إِلَيْهِ او وَحِيٌّ إِلَيْهِ كَلَامًا: چپکے سے گفتگو کرنا یا دوسروں سے پوشیدہ بات کہنا اللّٰهُ فِي قَلْبِهِ كَمَا: دل میں ڈالنا الْكِتَابُ: لکھنا اللّٰهُ يَبْحَثُ: جلدی سے ذبح کرنا (وَخِيًّا وَوَحِيٌّ وَوَحَاً وَتَوَحَّى) جلدی کرنا۔

أَوْحَى إِيْحَاءً إِلَى فَلَانٍ: اشارہ کرنا۔
دوسروں سے چھپا کر بات کہنا۔ برا بھلا نہ کرنا اللّٰهُ إِلَيْهِ بِكَذًا: وحی بھیجنا الْكِتَابُ: لکھنا نَفْسُهُ: خوفزدہ ہونا الرَّجُلُ: محتاجی کے بعد بادشاہ ہونا الْقَوْمُ: چلانا الْعَمَلُ: جلدی کرنا الدَّوَاءُ الْمَوْتُ: جلدی موت واقع کرنا۔

وَخِيٌّ تَوَحِيَّةٌ: ذبیحتہ: جلدی ذبح کرنا۔
وَخَاةٌ: جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَخِيٌّ الدَّوَاءُ الْمَوْتُ" دوانے فوراً موت واقع کی۔

تَوَاحَى تَوَاحِيًا الْقَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ جلدی کرنا۔

إِسْتَوْحَاهُ: پکارنا۔ جلدی کرانا هُ الشَّيْءُ: دریافت کرنا۔

الْوَحْيُ: من۔ لکھا ہوا۔ پیغام۔ ہر وہ چیز جو دوسرے کو معلوم ہونے کیلئے تم پیش کرو۔ پھر غالب طور پر انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القاء ہو اس پر استعمال ہونے لگا جس کی وحی ہو (وَالْوَحَاةُ) آواز۔

وَدَّسَ الشَّيْءُ: پوشیدہ ہونا۔ وَدَّسَتْ الْمَاضِيَةُ هِرَاوِلَ جَرْمَانِيَةً بِكَلِمَةٍ: کوئی بات کہنا۔

وَدَّسَ وَ وَدَّسَ وَ تَوَدَّسَ الْمَكَانُ: ہریاول والا ہونا۔

أَوَدَّسَتْ الْأَرْضُ: اتنا اگنا کہ سطح زمین چھپ جائے۔

الْوَدَّسُ وَالْوَدَّاسُ وَالْوَدَّاسُ: نباتات جو سطح زمین کو چھپالے۔ الْوَدَّاسُ: عیب۔

الْوَدَّيْسُ: خشک نباتات۔ پتلا شہد۔

أَرْضٌ مَوْدُوسَةٌ: کم گھاس والی زمین۔

وَدَّصَ يَدَّصُ وَدَّصًا إِلَيْهِ بِكَلَامٍ: اوھوری بات کہنا۔

وَدَّعَ يَدَّعُ وَدَّعًا الشَّيْءُ: چھوڑنا مالا عندہ امانت رکھنا الشَّيْءُ: ٹھہرنا (اس فعل کے مصدر اور ماضی قلیل الاستعمال ہیں) وَدَّعَا الْمَسَافِرُ النَّاسَ: مسافر کالوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا۔ اور کہا جاتا ہے "وَدَّعُوهُ" جبکہ کسی کیلئے دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف سفر کو دور کرے اور اس کو آرام نصیب کرے

الْوَدَّعُ بِالْوَدَّعِ: محفوظ کرنا (وَدَّعَ يُوَدِّعُ وَدَّعَةً) الرَّجُلُ: مطمئن ہونا۔

وَدَّعَ الْمَسَافِرُ الْقَوْمَ: مسافر کالوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا الْقَوْمَ الْمَسَافِرِ: رخصت کرنے کیلئے جانا فَلَانًا: چھوڑنا لِصَبِيٍّ

أَوْ الْكَلْبِ: گلے میں کوڑی ڈالنا الْوَدَّعُ فِي صَوَانٍ وَ نَحْوِهِ: کپڑے کو گھڑی وغیرہ میں محفوظ کرنا قَرَسَةً: گھوڑے کو خوشحال رکھنا۔

وَادَّعَهُ مَوَادَّعَةً وَادَّعَا: صلح کرنا۔ اسم الْوَدَّاعِ:

أَوَدَّعَهُ الشَّيْءُ: کسی کے پاس امانت رکھنا۔ هُ الْمَسِيرُ: راز ظاہر کرنا اور دوسرے سے چھپانے کو کہنا۔

أَوَدَّعَ كِتَابَهُ كَذَا: خط میں لکھنا الْكَلَامَ مَعْنَى حَسَنًا: لطیف معنی کی تعصین کرنا اور کہا جاتا ہے أَوَدَّعْتُهُ مَالًا یعنی میں نے اپنے پاس امانت رکھنے کے لیے اس سے مال لیا۔

تَوَدَّعَ الْقَوْمَ: ایک دوسرے کو رخصت کرنا الْوَدَّعُ: کپڑے کو محفوظ کرنا فَلَانًا: اپنی ضرورت میں مشغول کرنا۔

تَوَادَّعَ الْقَوْمَ: باہم صلح کرنا۔ ایک دوسرے کو رخصت کرنا۔

اتَّدَّعَ: آرام کرنا۔ تن آسانی اختیار کرنا۔ قرار پکڑنا۔

اسْتَوَدَّعَ فَلَانًا مَالًا: کسی کولمانت رکھنے کے لیے مال دینا۔

الْوَدَّعُ: سر۔ قبر۔ تیر اندازی کا نشانہ۔ ج وَدَّوْعٌ (وَالْوَدَّعُ) كُوْزِيٌّ يَأْكُوْنُكَ وَاحِدٌ وَدَّعَةٌ وَوَدَّعَةٌ: ج وَدَّعَاتٌ: الْاَوْدَاعُ: جنگلی چوہا۔

الْوَدَّاعُ: رخصت۔ الْوَدَّاعَةُ: وَدَّعٌ كاصدِرٌ سكون ووقار۔

اللدَّعةُ والتدعة والتدعة والتداعة: سكون۔ راحت۔ فراخی زندگانی۔

الْوَدَّيْعُ ج وَدَّعَاءُ: چپ چاپ۔ ٹھہرنے والا ج وَدَّاعٍ: عہد۔ مقبرہ۔

الْوَدَّيْعَةُ: وَدَّيْعٌ كاصدِرٌ امانت۔ وَدَّاعٍ الْمُسْتَوْدَعُ: حفاظت کی جگہ۔ رحم مادر۔

الْمِيْدَعُ: ج مَوَادَّعُ وَالْمِيْدَعَةُ وَالْمِيْدَاعَةُ: پرانا استغالی کپڑا۔ کپڑے وغیرہ محفوظ کرنے کی چیز۔ كَلَامٌ مِيْدَعٌ: غم انگیز گفتگو۔ الْمِيْدَاعَةُ: آرام طلب مرد۔

الْمُوْدَعُ: مِ مِّنَ الْخَيْلِ: بُر سكون آرام پہنچایا ہوا ہوڑا۔

الْمُوْدُوْعُ: سكون ووقار۔ وَدَّفَ يَدِّفُ وَدَّفًا يَكْفُلُ كَرَبِّهَا الْاِنَاءُ: برتن کا پکٹلہ الْعَطَاءُ: کم دینا۔

تَوَدَّفَ الْخَبِرَ: کھود کرید کرنا۔ تَوَدَّفَتِ الْاَوْعَالَ فَوْقَ الْحَبْلِ: پہاڑی بکروں کا پہاڑ کی چوٹی سے جھانکنا۔

اسْتَوْدَفَ الشَّحْمَ: چربی نیکالنا لَبَنٌ: دودھ برتن میں ڈالنا الْاِنَاءُ: برتن کاسرا کھول کر جھانکنا الْخَبِرَ: کھود کرید کرنا مَعْرُوفٌ فَلَانٌ: مانگنا لَبِثًا: نباتات کا لہبا ہونا۔

الْوَدَّعَةُ وَالْوَدَّيْفَةُ: مرغزار بزم۔ الْوَدَّعَةُ: چربی۔ ایک نباتات کا نام جس کو نصی بھی کہتے ہیں۔

وَدَّقَ يَدِّقُ وَدَّقًا الْمَطَرُ: ٹپکتا (وَدَّقًا وَ وُدُّوْقًا) إِلَيْهِ: قریب ہونا ب۔ باموس ہونا بَطْنَةٌ: وسیع ہونا یا بیت چلنا السَّمَاءُ: برساتا السِّنْفُ: تلوار کا تیز ہونا۔

وَدَّقَ يَدِّقُ وَ وِدَّقٌ يُوَدِّقُ وَ وِدَّقًا وَ وُدُّوْقًا وَ وُدُّوْقًا وَ وُدَّقًا وَ وُدَّقَانًا: کہا جاتا ہے "وَدَّقَتْ ذَاتُ الْحَافِرِ" یعنی سم دار مادہ جانور کا خواہش مند جھنکی ہونا۔ صفت وادِقٌ وَ وُدُّوْقٌ وَ وِدِّقٌ اور اسم الْوَدَّاقُ:

وَدَّقَتْ تِيْدِقُ وَدَّقًا عَيْنُهُ: آنکھ میں سرخ پھنسی ہونا۔

أَوَدَّقَتِ السَّمَاءُ: برساتا۔ الْوَدِّقُ: سر۔ بارش۔

الْوَدَّعَةُ وَالْوَدَّيْفَةُ: سرخ پھنسی جو آنکھ میں نکلتی ہے ج وَدَّقٌ وَ وُدُّوْقٌ:

الْوَدَّيْفَةُ: سخت گرمی۔ سبزہ زار ج وَدَّاقٌ الْمُوْدِقُ: ہرن وغیرہ کے کھڑے ہونے کی جگہ جہاں سے وہ رخت کے پتوں کو کھا سکیں۔ گھسان لڑائی کی جگہ۔ دو چیزوں کے درمیان آڑ۔

وَدَّكَ يُوَدِّكُ وَدَّكًا: چربی دار اور موٹا ہونا۔ وَدَّكَ الشَّرِيْدُ: شہید میں چربی ڈالنا۔

الْوَادِكُ وَالْوَادِكُ: موٹا۔ الْوَادِكُ: گوشت اور چربی کی چکناٹا سر خَلٌّ ذُو وَوَدِّكٍ: موٹا۔ وَدَّكَ الْعَيْتَةُ: وہ چیز جو مرد سے ہے۔

الْوَدَّاكُ: چربی بیچنے والا۔ الْوَدَّاكَةُ: چربی۔

دَحَاجَةٌ وَوَدِّكٌ وَوَدِّكَةٌ وَوَدِّكَةٌ مَوْتِيٌّ مَرْتِيٌّ۔

الْوَدِّكَةُ: وودیک کا موٹ چربی ملا ہوا آٹا۔ بَنَاتٌ أَوْدَكٌ: مصیبتیں۔ وَوَدِّلٌ يَدِّلُ وَوَدَّلًا السَّقَاءُ: مکھنہ میں بلونا۔

وَدَنْ يَدَنْ وَدَنًا الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا ہ
 بِالْعَصَا: ڈنڈے سے مارنا الشَّيْءُ: گھٹانا حقیر
 کرنا۔ کوٹنا۔ صفت مفعول مؤذون (وَدَنًا
 وودانًا) الشَّيْءُ: ترکنا۔ بھگونا الجلد:
 کھال کو نرم ہونے کے لیے مٹی کے نیچے گاڑنا۔
 وَدَنْتُ تَوَذُّونَ وَدَنًا وَوَدَنْتُ تَدَنْ وَوَدَنًا
 الْمَرْأَةُ: کمزور جسم کے نیچے چننا۔
 وَوَدَّنَ الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔ ترکنا۔ نرم کرنا۔
 گھٹانا۔
 أَوْدَنْ الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔ حقیر کرنا۔
 أَوْدَنْتُ الْمَرْأَةَ: لاغر نیچے چننا۔
 تَوَوَّدَنَّ الْجِلْدُ: کھال کا نرم ہونا۔
 أَتَدَّنَ الْجِلْدُ: کھال بھگونا الجلد: کھال کا
 بھیگانا۔
 الْأَوْدَنْ: نرم و تازک۔
 الْمَوْدُونُ وَالْمَوْدُونُ: لاغر نیچے۔
 الْمَوْدُونُ: چھوٹی گردن اور چھوٹے ہاتھوں
 والا۔ ناقص الخلق۔ تنگ کندھوں والا۔ مؤنث
 مَوْدُونَةٌ۔
 الْمَوْدُونُ: چھوٹا ناقص الخلق۔
 الْوَدَيْنُ: بھگویا ہوا۔
 وَوَدَّ يَدُّهُ وَوَدَّهَا فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ: ہٹانا۔
 أَوْدَةً أَيْدَاهَا بِالْأَبْلِ: اونٹ کو ڈانٹنا۔
 فَلَانًا عَنِ كَذَا: باز رکھنا۔
 اسْتَوْدَّهَ الْخَصْمُ: مغلوب ہونا۔ مطیع ہونا۔
 اسْتَوْدَّهَتِ الْإِبِلُ: اکٹھا ہونا۔
 اسْتَيْدَّهَ الرَّجُلُ: ہلکا سمجھنا الأمر: درست
 ہونا۔
 الْوُدْهَاءُ مِنَ النِّسَاءِ: خوبصورت سفید
 عورت۔
 وَوَدَى يَدِي وَوَدِيًا وَوَدِيَةً الْقَاتِلُ الْقَتِيلُ:
 خون بہا دینا الأمر: قریب کرنا (وَدِيًا)
 الشَّيْءُ: بہنا۔ اور اسی سے وادی کا اشتقاق ہے
 اس لیے کہ اس میں پانی بہتا ہے۔ اور وَوَدَى
 يَدِي سے امر کے صیغے یہ ہیں۔ د۔ دیا۔
 دُوا. دِي. دِيَا. دِيْن. دِيَا. دِيْن.
 أَوْدَى أَيْدَاءً: ہلاک ہونا بہ الموت:

ہلاک کرنا۔ وَأَوْدَى بِالشَّيْءِ: لے جانا۔
 اِتَّدَى اِتْدَاءً: دیت لینا (اس کی اصل
 اِوتَدَى ہے)
 اسْتَوْدَى اسْتِيْدَاءً بِحَقِّهِ: حق کا اقرار
 کرنا۔
 الدِّيَّةُ: سرخون بہا۔ ج دیات (اس کی اصل
 وَوَدَى ہے) تاء واو مخدوفہ کے عوض میں ہے
 جیسے عِدَّةٌ وَوَدَنَةٌ میں۔
 الْوَدَى: ہلاکت۔
 الْوَادِي: فا۔ پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان کی
 کشادگی جو سیلاب کے لیے گزرگاہ ہو۔ ج
 أَوْدِيَةٌ وَأَوَادِيَةٌ وَأَوْدَاءٌ وَأَوْدَاةٌ.
 طریقت۔ مذہب۔ کہا جاتا ہے ”هُمَا مِنْ وَاوٍ
 وَوَادٍ“ وہ دونوں ایک معنی ایک لفظ سے ہیں
 ”وَسَأَلَ بِهِمُ الْوَادِي“ وادی ان کو بہالے
 گئی یعنی وہ ہلاک ہو گئے ”وَأَنْتَ فِي وَادٍ
 وَنَحْنُ فِي وَادٍ“ اختلاف مقاصد کے موجب
 پر بولا جاتا ہے۔
 الْوَادِي: گھجور کے چھوٹے پودے واحد
 وَوَدِيَةٌ۔
 التَّوْدِيَّةُ: پست قدموں کھڑی جو اونٹنی کے
 پنجوں پر باندھی جاتی ہے۔ ج التَّوَادِي.
 الْمَوْدِي: فا۔ شیر۔
 وَوَدَا يَدًا وَوَدَا فَلَانًا: ڈانٹنا۔ حقیر سمجھنا۔
 عیب لگانا۔ وَوَدَّاتِ الْعَيْنُ عَنِ الشَّيْءِ:
 چندھیا جانا۔
 اِتَّدَا: جھڑکی برداشت کرنا۔
 الْوَدُءُ: سرخون نامناسب و مکروہ بات۔
 الْوَدَاةُ: عیب۔ علت۔
 وَوَدَّحَ يَدِّحُ وَوَدَّحًا: تیز چلنا۔
 وَوَدَّحَتْ تَوَدَّحُ وَوَدَّحًا الشَّاةُ:
 اُون میں بیٹھنی لگی ہوئی والی ہونا الرَّجُلُ: مرد
 کی رانوں کے اندرونی حصہ میں جلا ہوا ہونا۔
 الْوَدَّحُ: بھیڑ بکری کے اُون میں لگی ہوئی
 بیٹھنی اور پیشاب واحد وَوَدَّحَتْ وَوَدَّحُ.
 الْأَوْدَحُ: کمینہ و لیم۔
 وَوَدَّعَهُ يَدَّرُهُ وَوَدَّرًا: کاٹنا۔ وَوَدَّرَ الْجُرْحُ:

زخم کو چیرنا الشَّيْءُ: چھوڑنا۔ اس آخری معنی
 میں مضارع اور امر کے علاوہ کوئی دوسرا صیغہ
 مستعمل نہیں۔ تم کہو گے وَوَدَّعَهُ بِمَعْنَى دَعَّعَهُ
 وَأَتْرَكَهُ وَيَدَّرُهُ بِمَعْنَى يَدَّعُهُ وَيَتْرَكَهُ اور
 اس کے لیے ماضی مصدر اور اسم فاعل تَرَكَّ
 وَوَدَّرَكَ وَوَدَّرًا وَوَدَّرًا وَوَدَّرًا
 تَوَدَّرُوا الْوَدَّرَةُ: گوشت کے چھوٹے
 چھوٹے ٹکڑے کاٹنا۔
 الْوَدَّرَةُ مِنَ اللَّحْمِ: چھوٹا ٹکڑا و وَوَدَّرَ و
 وَوَدَّرَ الْوَدَّرَاتِ: دو ہونٹ۔
 الْوَدَّرَةُ: بہت گوشت والا بازو۔ بدبودار
 عورت اور بقول بعض موٹے ہونٹ والی
 عورت۔
 الْوَدَّرَةُ: درزی کے کپڑوں کا کٹ چھانٹ۔
 وَوَدَّعَ يَدَّعُ وَوَدَّعًا الْمَاءُ: پانی بہنا۔
 الْوَادِعُ: فا۔ چشمہ۔ سنگاٹ پر بہنے والا پانی۔
 وَوَدَّعَ يَدَّعُ وَوَدَّعًا الشَّخْمُ وَوَدَّعًا: چربی
 بہنا۔ (وَدَّعًا وَوَدَّعًا وَوَدَّعًا وَوَدَّعًا
 تَوَدَّعَ) اکثرے ہوئے ناز سے چلنا۔
 تَوَدَّلَ الْقَوْمُ مِنَ الْحِزَابِ: گوشت کا کھڑا
 لینا۔
 امْرَأَةٌ وَوَدَّعَةٌ وَوَدَّعَةٌ: چست و چالاک اور
 اچھے قد والی عورت۔
 الْوَدَّالَةُ: گوشت کا کھڑا جس کو قصائی تقسیم
 سے پہلے جدا کر دے۔
 الْوَدَّيْلَةُ: صیقل کیا ہوا چاندی کا کھڑا۔ آئینہ
 ج وَوَدَّيْلٌ وَوَدَّيْلٌ: الْوَدَّيْلَةُ: کوہان یا آدم
 کے گوشت کا کھڑا مِنَ النِّسَاءِ: اصغر قد والی عورت۔
 وَوَدَّعَتْ تَوَدَّعُ وَوَدَّعًا الدَّلْوُ: ڈول کا تمہ
 ٹوٹنا۔ صفت وَوَدَّعَتْ الْوَدَّعُ نَفْسُهُ: خود تمہ
 ٹوٹنا۔
 وَوَدَّعَتْ كَانَتْ: وَوَدَّعَتْ الْكَلْبُ: کتے کے گلے
 میں پتہ ڈالنا عَلَى الْخَمْسِينَ: زیادہ ہونا
 الْيَمِينِ: واجب کرنا الدَّلْوُ: ڈال کا تمہ بنانا
 أَوْدَمَ الدَّلْوُ: ڈول میں تمہ باندھنا یا تمہ بنانا
 النَّدْرُ: نذر واجب کرنا عَلَى الْخَمْسِينَ:
 زیادہ ہونا۔

الْوَدْمُ. سر زیدتی۔ مَسَّحُ جُ وُدْمٌ و
 اَوْدَامٌ وَاوْدُمٌ وَاوْدَمٌ وَاوْدَمٌ ذُولُ كَا
 تَسْمِدٌ وَاوْدَمَةٌ.
 اِمْرَاةٌ وُدْمَاءٌ. بانجھ عورت اور ایسا ہی فرس
 وُدْمَاءٌ.
 الْوُدْمَةُ. اوجھ و آنتیں۔ وُدْمٌ.
 الْوُدْمِيَّةُ. مال جو نبی سبیل اللہ دیا جائے
 وَدِيمَةُ الْكَلْبِ: کتے کے گلے کا پٹہ ج
 وَدَامٌ.
 تَوَدَّنْهُ تَوَدُّنًا. پھیرنا۔ تَوَدَّنَ الشَّيْءُ
 فَلَانًا: عمدہ معلوم ہونا۔ پسند آنا۔
 وَدُوْدُ الرَّجُلِ: تیز چلنا۔ دوڑنا۔ کہا جاتا ہے
 ”مَرَّ الذَّنْبُ يُوْدُوْدًا“ بھیڑ یادوڑتا ہوا گزرا۔
 رَجُلٌ وَدُوْدٌ. تیز رفتار مرد۔
 وَدَّيْ يَدِي وَدْيًا وَجَهَةً: چہرہ پر خراش
 لگانا۔
 الْوُدَاةُ: رنج و سختی کا سبب۔
 الْوُدْبَةُ: اسم مرۃ۔ درد۔ مرض۔ عیب۔
 تھوڑا پانی۔
 الْوُرَّةُ: زمین کا گڑھلا (الْوَرُّ) سرین۔
 وَرًا يَرًا وَيُورًا وَرًا الشَّيْءُ: دغ کرنا
 الطَّعَامُ: شکر سیر ہونا اور کہا جاتا ہے ”مَاوُ
 رُنْتُ وَمَا أُوْرُنْتُ وَمَا وُرُنْتُ“ میں
 نے اس کو نہیں جانا۔
 قَوْرَأْتُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ: گر کر ہموار ہونا۔
 الْوُرَاءُ: پوتا۔ وَرَاءَ الْإِنْسَانِ: پیچھے۔ اور
 کبھی آگے کے معنی میں آتا ہے۔ مذکر و مؤنث
 ہے اور اس کی تفسیر وُرِيَّةٌ وُدْرِيَّةٌ ہے۔ کہا
 جاتا ہے ”هُوَ وُرِيَّةُ الْحَانِطِ أَوْ دُرِيَّةٌ“ وہ
 دیوار کے پیچھے ہے۔ یہ کلمہ ظرف مکان ہے۔
 اور سوئی کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے مَنِ
 ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ جَوْ مَخْفِضِ اس کے سوا طلب
 کرے۔
 وَرَبُّ يُوْرِبُ وَرَبًّا الْعُرْفُ: خراب ہونا۔
 صفت وَرِبٌ.
 وَرَبٌّ عَنِ الشَّيْءِ: معارضات سے توریہ
 کرنا۔

وَأَرْبٌ وَرَابًا وَوَارِبَةُ الرَّجُلِ: فریب
 دینا۔ مکاری کرنا۔
 الْوَرْبُ: جنگلی جانوروں کا بھٹ۔ چوہے یا
 بچھو کے سوراخ کا دہانہ۔ دو پلیوں کا درمیانی
 حصہ۔ عضو۔ انگوٹھا اور انگشت شہادت کا
 درمیانی حصہ کھولنے کی حالت میں۔ چوڑ۔ ج
 أَوْرَابُ.
 الْوَرْبُ: اڑب ایک میں لغت ہے بمعنی
 عضو۔
 الْوَرْبَةُ: چوڑ۔ کوکھ کا گڑھا۔
 الْوَرَابُ: ”جھکا۔ پیچیدگی۔
 وَرَثٌ يَرِثُ وَرَثًا وَوَرَثًا وَارِثًا وَارِثَةً
 وَرِثَةً وَتَرَاثًا. فَلَانًا: وارث ہونا۔ کہا جاتا
 ہے ”وَرِثَ الْمَالُ وَالْمَجْدُ عَنْ فَلَانٍ“
 فلاں کے مال و مجد کا وارث ہوا۔
 وَرَثُ الرَّجُلِ مَالًا: میراث قرار دینا۔ من
 فَلَانٍ: وارث بنانا الرَّجُلِ فَلَانًا: اپنا وارث
 بنانا. تَارًا: آگ کو بھڑکنے کیلئے حرکت دینا۔
 أَوْرَثُهُ اِبْرَانًا: وارث بنانا فَلَانًا مَالًا:
 ”میراث قرار دینا السَّقْمُ: بتلائے بیماری کرنا
 هُ الشَّيْءُ: پیچھے لانا۔ أَوْرَثَهُ الْحُزْنَ هَمًّا:
 باعث و سبب ہونا۔ أَوْرَثَ الْمَطَرُ النَّبَاتَ
 نِعْمَةً: باعث و سبب ہونا لَدَهُ: تہا وارث
 بنانا۔
 تَوَارَثَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کا وارث
 ہونا۔ تَوَارَثُوا الْمَالَ أَوْ الْمَجْدُ: زمانہ
 قدیم سے ایک دوسرے کا وارث ہونا۔ کہا جاتا
 ہے ”تَوَارَثُوا الْمَجْدَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ“
 انہوں نے اپنے باپ و ادا سے بزرگی پائی
 ”وَالْمَجْدُ تَوَارَثَ نَيْبَهُمْ“ بزرگی ان کے
 درمیان میراث میں ہے ”وَهُمْ فِي اِرْثِ
 مَجْدٍ“ ان لوگوں کے لیے بزرگی کی میراث
 ہے ”وَتَوَارَثَتِي الْحَوَادِثُ“ میرے اوپر
 حوادث پے پے واقع ہوئے۔
 الْوَرِثُ: تازہ چیز۔
 الْاِرْثُ وَالْوَرِثُ وَالْوَرَاثَةُ وَالتَّرَاثُ
 مصادر۔ میت کا ترکہ۔

الْوَارِثُ: قَلْبٌ حَوْرَثَةٌ وَوَرَاثُ.
 الْمِيْرَاثُ: میت کا ترکہ۔ حَوْرَاثُ
 الْمَوْرُوْثُ: میت ترکہ چھوڑنے والا۔
 میراث۔
 وَرِخٌ يُوْرِخُ وَرِخًا وَتَوْرِخُ الْعَجِيْنُ:
 گندھے ہوئے آٹے کا ڈھیلا ہونا۔
 وَرِخُ الْكِتَابِ: ایک لغت ہے اَرْخَهُ میں۔
 اَوْرِخُ الْعَجِيْنُ: گندھے ہوئے آٹے کو نرم
 کرنا۔
 تَوْرَخْتُ تَوْرِخًا وَاسْتَوْرَخْتُ
 اسْتِيْرَاخًا الْأَرْضُ: تر ہونا۔
 التَّارِيخُ: دیکھنا۔ مادہ اَرْخَ۔
 مَكَانٌ وَرِخٌ: گنجان گھاس والی جگہ۔
 الْوَرِيْخَةُ: نرم زمین۔ ڈھیلا گندھا ہوا آماج
 وَرَانِيْخُ.
 وَرْدٌ يُوْرِدُ رُوْدًا الْمَاءُ: پانی پر آنا۔ صفت
 وارد الْمَاءُ وَغَيْرُهُ: متوجہ ہونا۔ قریب آنا۔
 بِنَجْمَا: اسم۔ الْوَرْدُ الرَّجُلُ: حاضر ہونا:
 وَرَدَتِ الْحُمَى: باری سے آنا الشَّجَرَةُ
 پھول والا ہونا اور ”وَرَدَتْ الْبَلَدُ“ (میں اس
 شہر میں بچھا) وَوْرَدَ عَلَيَّ كِتَابٌ (میرے
 پاس خط آیا) مجاز ہیں۔
 وَرَدَ الرَّجُلُ: بخار زدہ ہونا۔ وَرَدَ عَلَيْهِ
 بَفْلَانٍ: لایا جانا۔
 وَرْدٌ يُوْرِدُ وَرْدَةً وَوَرْدًا الْفَرَسُ:
 گھوڑے کا سرخ زردی مائل ہونا۔
 وَرْدَ الشَّجَرُ: درخت میں پھول لگانا۔
 وَرَدَتِ الْمَرْأَةُ: رخسارے سرخ کرنا۔ وَرَدَ
 الْقَوْبُ: کپڑے کو گلابی رنگنا۔
 وَارِدَةٌ مُوَارِدَةُ الرَّجُلِ: کسی کے پاس آنا۔
 الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ: دوسرے شاعر کے شعر
 کے مانند بغیر سنے ہوئے شعر کہنا۔
 أَوْرَدَهُ اِبْرَادًا: گھاٹ پر لانا۔ پھر مطلقاً حاضر
 کرنے کے معنی میں مستعمل ہونے لگا الْمَاءُ:
 پانی پر لانا لَمُوْرَدَ الْكَلَامُ: تفریح کرنا الشَّيْءُ:
 ذکر کرنا الْخَبْرُ: بیان کرنا۔
 تَوْرَدَ الْكَلَامُ: پانی پر آنا

وَرَكٌ يَبُوكُ وَرَكًا. سرین پر سہارا لینا
الرَّجُلُ: سرین پر مارنا الشیء: سرین کے
مقابل کرنا (وَرَوَّكًا) الرَّجُلُ: اترنے یا
آرام لینے کیلئے سرین کو موٹنا بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا عَلَى الْأَمْرِ: قادر ہونا۔

وَرَكٌ يَبُوكُ وَرَوَّكًا. سرین کو زمین پر رکھ کر
لیٹنا۔

وَرَكْتُ تَوْرَكَ وَرَكًا. اللوردک: سرین کا ہوا
ہونا۔

وَرَكٌ الْحَيْبِلُ أَوْ الرَّجُلُ: سرین کے مقابل
کرنا۔

عَلَى الْأَمْرِ: قادر ہونا الشیء: واجب کرنا۔
الرَّجُلُ: دوڑنا بیٹھنے والے کی طرح ٹانگوں

کو موٹنا اور دونوں سرین کو زمین میں رکھنا
الذَّنْبُ: حَلِيَّةٌ: گناہ کا الزام لگانا دینا الیَمِينُ:
قسم کھلانے والے کی نیت کے علاوہ نیت کرنا۔

وَأَرَكٌ مُوَارَكَةٌ الْجَبَلِ: پہاڑ سے گزر جانا۔
تَوْرَكَ سرین پر سہارا لینا الشیء: سرین پر

بٹھانا الرَّجُلُ: اترنے یا آرام لینے کیلئے ٹانگ
کو موٹنا عَنِ الْأَمْرِ: دیر کرنا بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا عَلَى الْأَمْرِ: قادر ہونا۔ لِلرَّجُلِ:

کسی کی ٹانگ کو باندھ دینا۔ کہا جاتا ہے تَوْرَكَ
لَهُ فَصْرَعَهُ اس نے اس کی ٹانگ کو باندھ دیا

اور پچھا دیا۔
تَوَارَكَ: سرین پر ٹیک لگانا۔

الوَرَكُ والوَرَكُ والوَرَكُ: چوڑے سرین
(مؤنث) جِ أَوْرَاكُ. الوَرَكُ: کمان کا کنارہ یا

تانت باندھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فَعَدَّ
الْمَلَأَخُ عَلَيَّ وَرَكِ السَّيْفِيَّةِ" ملاح کشی

کے پھیلے حصے پر بیٹھا۔ "وَهُمْ عَلَيَّ وَرَكٌ
وَاحِدٌ" وہ میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔

الوَرَكِيُّ: خبر کی اصلیت۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ
عِنْدَهُ لَوَرَكِي الْخَبْرَ" اس کے نزدیک خبر

کی اصلیت ہے۔
الوَارِكُ والوَرَاكُ جِ وَرَكٌ وَالْمَوْرَكُ

والموَرَكَةُ مِنَ الرَّجُلِ: کجاوہ کا وہ حصہ جہاں
سوار تھک کر ٹانگ پھیلادے۔

الوَرَقُ والوَرِقُ والوَرِقُ والوَرِقُ
چاندی کا سکہ۔ جِ أَوْرَاقٌ وورَاقٌ.

الوَرَقُ: چاندی کا سکہ۔ جِ أَوْرَاقٌ. وَرَقٌ
الشَّجَرِ: درخت کا پتہ۔ وَرَقٌ الْكِتَابِ:

کتاب کا ورق۔ واحد الوَرَقَةُ وَرَقَاتٌ وَ
أَوْرَاقٌ. الوَرَقُ: زمین پر پڑا ہوا خون وغیرہ کا

گول ٹکڑا۔ ہر زندہ حیوان۔ مال و روپیہ پیسہ یا
مویشی وَرَقٌ النِّسَابِ: جوانی کی تروتازگی۔

اور ورق بھال و خوبی اور حسن ہیئت کیلئے بطور
استعارہ کے بولا جاتا ہے۔

الرَّوْقَةُ: چاندی کا سکہ جِ رِقُونٌ۔ نصی نامی
گھاس کی ابتدائی روئیدگی جبکہ سبز ہو جائے۔

زمین جو گرمی کے زمانے میں بارش ہونے کی
وجہ سے ہبزہ زار ہو جائے۔

الوَرَقَةُ فِي الْقَوْنِ: کمان کا عیب۔
الوَرَقَةُ: مثیلا لارنگ۔

الوَرَقُ: گھاس کی وجہ سے زمین کی
سبز گونی۔

الوَرَاقُ: پتے نکلنے کا زمانہ۔
الوَرَاقَةُ: کاغذ سازی کا پیشہ۔

الوَرَاقُ: روپے پیسے والا۔ کاغذ کا بیچنے والا۔
کاغذ بنانے والا۔ کاتب۔

الوَارِاقُ والوَرِقُ والوَرِيقُ مِنَ الشَّجَرِ:
پتوں والادریخت۔ بہت پتوں والا۔ خوبصورت

پتوں والا۔ شَجَرَةٌ وَارِقَةٌ وَ وَرِقَةٌ وَ
وَرِيقَةٌ: سبز اور خوبصورت بہت پتوں والا

درخت۔
الأوَرَقُ: خاکستری رنگ والا۔ راکھ۔ عام

أَوْرَقٌ: بے بارش کاسال۔ زَمَانٌ أَوْرَقٌ: قحط
کا زمانہ۔ مؤنث وَرَقٌ جِ وَرُقٌ.

الوَرَقَاءُ: أَوْرَقٌ کا مؤنث مادہ بھیریا۔ ایک
درخت کا نام جس کے پتے گول چوڑے اور

نازک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تروتازگی کا رنگ
سبزی مائل ہو۔ جِ وَرَاقٌ وَ وَرَاقِيٌّ: کہا جاتا

ہے التَّجَارَةُ مَوْرَقَةٌ لِلْمَالِ: یعنی تجارت
مال کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔

المَوْرَقُ: فَا۔ کاغذ بنانے والا۔

الإِبِلُ عَنِ الْمَاءِ: اونٹوں کو پانی پر سے واپس
لانا (وَأَوْرَعٌ) فَلَانَا عَنْ كَذَا رَوَّكْنَا بَيْنَهُمَا

روک بن جانا۔ کہا جاتا ہے "مَّا وَرَّعَ أَثُ فَعَلَ
كَذَا وَكَذَا" وہ ایسا اور ایسا کرنے سے نہیں

رکا۔
وَأَرَعَهُ مُوَارَعَةً: گفتگو کرنا۔ مشورہ کرنا۔

تَوْرَعٌ مِنْ أَوْعَنْ كَذَا: پرہیز کرنا۔
الوَرَعُ: س۔ پرہیزگاری۔ رَجُلٌ وَرَعٌ:

بزدل۔ بکروڑ۔ نکل۔ جِ أَوْرَاعٌ (وَالرَّعَةُ
وَالرَّيْعَةُ: گناہ اور شہادت سے بچنا۔

الرَّيْعَةُ: حالت۔ تم کہتے ہو "فَلَانٌ حَسَنُ
الرَّعَةِ أَوْ سَيِّئُ الرَّعَةِ" فلاں کی حالت اچھی

یا بُری ہے۔
الوَرَعُ: پرہیزگاری۔

الوَرِيعُ: روکنے والا۔
وَرَقٌ يَبُوكُ وَرَقًا وَ وَرِيقًا وَ وَرَوَّاقًا

وَرَقَةُ الظِّلِّ: سایہ کا دراز و کشادہ ہونا النَّبَاتُ:
نباتات کا سبز ہونا اور لہلہانا۔ صفت وَارِقٌ.

وَرَقٌ الْأَرْضِ: زمین کو تقسیم کرنا النَّبَاتُ
النَّاصِرُ: تازہ نباتات کو چوسنا (وَأَوْرَفٌ)

الظِّلُّ: سایہ کا دراز و کشادہ ہونا۔
الوَرَفُ: س۔ جگر کے اطراف کا پتلا حصہ۔

وَرَقٌ الشَّجَرِ وَوَرَقَةٌ: درخت کی
خوشنمائی۔

الرَّوْقَةُ: س۔ سر سبز پودہ۔
الرَّوْقَةُ: خشک گھاس۔

وَرَقٌ يَبُوكُ وَرَقًا الشَّجَرِ: پتے دار ہونا۔
الشَّجَرُ: درخت سے پتے لینا۔

وَرَقٌ الشَّجَرِ: پتے دار ہونا الْحَبْرُ: درخت
سے پتے لینا۔

أَوْرَقُ الشَّجَرِ: پتے دار ہونا الرَّجُلُ: بہت
مال و دولت والا ہونا الطَّالِبُ: محروم رہنا

الصَّائِدُ: شکار نہ کرنا الْغَارِي: بغیر مال غنیمت
کے لوٹنا۔ غنیمت حاصل کرنا۔

تَوْرَقُ الظِّلِّ: ہرن کا پتے کھانا۔
إِيْرَاقٌ وَ أَوْرَاقٌ يُوْرَاقُ إِيْرِيْقًا الْعِنَبُ:

انگور کا رنگ پکڑنا۔ صفت مُوْرَاقٌ.

الأوزك بڑے سرین والا۔ مؤنث وَزَكَاءٌ
ج وَزُكٌ۔

المُورَكُّتُ کہا جاتا ہے ”اِنَّهُ لَمُورَكٌّ فِي
هَذَا الْأَمْرِ“ اس معاملہ میں بے گناہ ہے۔

المُورَكُّ والمُورَكَّةُ گناہ کا اگلا حصہ
المُورَكَّةُ بھیکے کے مانند ایک چیز جس کو سوار
اپنے سرین کے نیچے رکھتا ہے۔

الْوَزَلُ گدوہ کی مانند ایک جانور ہے جو اس سے
کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس کی دم لمبی اور باریک
ہوتی ہے۔ جِ وَرَلَانٌ أَوْرَالٌ أَوْزَلٌ مَوْنُثٌ
وَرَلَةٌ۔

وَرَمٌ يَرَمٌ وَرَمًا وَتَوَرَمَ الجِلْدُ جو جانا۔
صفت وَاَرَمَ أَنْفٌ فَلَانٌ غَضِبْنَاكَ هُونًا۔
النَّبْتُ لِبَاوَرٍ مَوْنَا هُونًا۔

وَرَمَ الجِلْدُ سو جن پیدا کرنا أَنْفٌ فَلَانٌ
غَضِبْنَاكَ کرنا یا نقیہ بتیکر کرنا۔

أَوْرَمٌ إِيْرَامًا غَضِبْنَاكَ کرنے والی باتیں
سنانا۔ کہا جاتا ہے ”فَعَلِي بِهِ مَا أَوْرَمَهُ الْبَحْرُ
اس نے اس کے ساتھ وہ فعل کیا جس نے اسے
غمگین کر دیا اور غَضِبْنَاكَ بنا دیا۔

الْوَرَمُ بر۔ سو جن۔ جِ أَوْرَامٌ۔
الأَوْرَمُ بوگ یا بہت سے لوگ۔ کہا جاتا ہے
”مَا أَوْرَى أَيُّ الْأَوْرَمِ هُوَ بَيْنَ نَجْمَيْ جَانَا
وہ کون ہے۔

المُورَمُ ذَاوَاهُ نَكَلْنِي كِي جگہ۔
المُورَمُ جن۔ بڑے ذیل ڈول کا مرد۔

وَأَرَنَهُ مُوَارِنَةً رُوْدَرُوْدٌ هُونًا۔ مقابل ہونا۔
تَوَرَّنَ بہت تیل ملنا۔ لا اُظْپَارَ سے پالنا۔

الْوَرَنُكُ جھلی کی ایک قسم۔
وَرَةٌ يُوْرَةٌ وَرَهَا يُوْرُوفٌ هُونًا۔ صفت
أَوْزَةٌ مَوْنُثٌ وَرَهَاءٌ وَرَهَيْتُ الرِّيْحَ ہوا
کا تیز چلنا۔

وَرَهَيْتُ تَرَهُ وَرَهَا الْمَرْأَةُ عَمْرُوتٌ میں
بہت چرلی ہونا۔

تَوْرَةٌ فَلَانٌ فِي عَمَلِي هَذَا الشَّيْءُ باہر نہ
ہونا۔

الْوَرْدُ مِنَ السَّحَابِ بہت بارش والا

بادل۔

الْوَارِدُ کُشَادَةُ۔ فراخ۔

وَزَّوْرَ النَّظَرِ: نظر تیز کرنا فِي الْكَلَامِ:
جلدی جلدی بولنا۔

الْوَزْوَارُ ایک پرندہ جس کی ناک میں چھوٹی اور
چوچ لمبی اور کالی ہوتی ہے اور اس کے سر کے
بالائی حصہ پر سرخی اور گلے میں حلقہ ہوتا ہے
جس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور سارے بدن
سبز نیلگوں مائل اور اس کی دم میں دو لمبے پر
ہوتے ہیں۔

الْوَزْوَرِيُّ بکر درنگاہ والا۔

المُوزُورُ فَا۔ گانے والا۔

وَزَى يُوْرِي وَرِيًّا الرَّجُلُ: پیچھڑے پر
مارنا۔ الفَيْحُ جَوْفَةُ خَرَابٍ کرنا اور گلا دینا۔

إِسْمُ الْوَرَى وَرَثٌ وَرِيًّا وَرِيَّةُ النَّارِ:
آگ کا بھڑکنا الإِبِلُ مَوْنُثٌ کا مونا اور زیادہ
چرلی اور گودے والا ہونا۔

وَرَى وَوَرَى يُوْرِي وَرِيًّا وَوَرِيًّا وَرِيَّةُ
الْوَزْنُدُ چھماق کا آگ نکالنا۔ عفت وَاَرِ.
وَرَى يُوْرِي وَرِيًّا. المُنْحُ گودے کا ٹھوس

ہونا۔

وَرَى الرَّجُلُ پیچھڑے میں پیٹ والا ہونا۔
صفت مَوْرَدٌ وَوَوْرِيٌّ۔

وَرَى نُوْرِيَّةُ الشَّيْءِ پو شیدہ کرنا عَنْ كَذَا:
اصل بات چھپا کا دوسری بات ظاہر کرنا الخَبْرُ
وَعَنِ الخَبْرِ پس پشت ڈالنا اور چھپانا عَنْ
فَلَانٍ بَصْرَةً نگاہ ہٹانا۔ وَرَى النَّارِ آگ
نکالنا (وَأَوْرَى) الوَزْنُدُ: چھماق سے آگ
نکالنا۔

وَأَرَى مُوَارَاةَ الشَّيْءِ چھپانا۔
تَوْرَى تَوْرِيًّا وَ تَوَارَى تَوَارِيًّا عَنْهُ:
چھپنا۔

إِسْتَوْرَى الوَزْنُدُ: آگ نکالنا۔ کہا جاتا ہے
إِسْتَوْرِيْتُهُ رَأْيِيكُنْ نے اس کی رائے دریافت
کی۔

الْوَرَى بر۔ جو ف بدن کی پیپ۔ پیچھڑوں کا
زخم۔

الْوَرَى: اسم ہے وَرَى کا۔ مخلوق۔ أَبُو
الْوَرَى: نامے کی کنیت۔

الْوَرَاءُ: وَرْكَامُہ دیکھئے۔

الْوَرْدُ الوَارِي والْوَرِيّ: آگ دینے والا
چھماق۔ الوَارِي والْوَرِيّ: موٹی چرلی۔

والْوَرِيّ مہمان۔ پڑوسی۔ لَحْمٌ وَرِيٌّ مَوْنَا
گوشت۔ رِيَّةُ النَّارِ وَوَرِيَّتُهَا: آگ سلگانے
کیلئے چیتھڑا وغیرہ۔

الْوَرَى: اُوْرِيْسُ ایک لغت۔ بط۔ مَوْنُثٌ وَرَةٌ۔
ج وَرَاتٌ۔

أَرْضٌ مَوْرَدَةٌ بہت بیل والی زمین۔

وَرَأٌ يُوْرَأُ وَرَأٌ اللَّحْمُ: گوشت خشک کرنا
الْقَرْمُ: بعض کا بعض کو بھانا۔ وَرَأُهُمْ: بعض
کو بعض سے بھانا۔

وَرَأٌ تَوْرَنَةٌ وَتَوْرِنَا القُرْبَةَ: بھیک بھرنا
الْفَرَسُ بَرَأَكِيہ: گھوڑے کا سوار کو گرانا۔
وَرَأٌ فَلَانًا بَخْتٌ قَسْمٌ کھلانا۔

وَرَأٌ فَلَانًا بَخْتٌ قَسْمٌ کھلانا۔
تَوْرَأُ الوِعَاءُ: برتن کا بھر جانا الرَّجُلُ
خوشحالی میں بھر پور ہونا۔

وَرَبٌ يَرِبُ وَوَرِيْنَا المَاءُ وَنَحْوُهُ پانی
وغیرہ کا بہنا۔

أَوْزَبٌ اِيْرَابًا فِي الْأَرْضِ جانا۔

الْوَرَابُ شاطر چور۔

المِيْرَابُ والمِيْرَابُ: پرنا۔ جِ مِيْرَابٌ
وَمَا زَيْبُورٌ يَقُولُ بعض مَوَارِبٌ۔

وَزَّرَ يُوْرُ وَزْرًا وَوَزْرًا الشَّيْءُ: اٹھانا
الرَّجُلُ بوجھل چیزوں کو پیچھے پراٹھانا (وَزْرًا)
الرَّجُلُ قَالٌ ہونا القَلْمَةُ: خند بند کرنا۔

وَزَّرَ يُوْرُ وَوَزَّرَ يُوْرُ وَوَزْرًا
وَزْرًا وَوَزْرًا قَهْرًا ہونا۔ وَوَزَّرَ فَلَانٌ گناہ
سے منسوب کیا جاتا۔

وَزَّرَ يُوْرُ وَوَزْرًا لِمَلِكٍ دَرِيْرِنَا۔
أُوْرَّرَ اِيْرَارًا الشَّيْءُ: محفوظ کرنا۔ چھپانا۔

لے جانا الرَّجُلُ جئے پناہ دینا۔

وَأَزَّرَهُ مُوَارَدَةٌ دَرِيْرِنَا عَلى الْأَمْرِ
دینا۔ تقویت دینا (یہ آزر کا مقلوب ہے)

تَوَزَّرَ لَفْدَ يَرْتَنَا -
 اَتَزَّرَ جَهونًا سَاكِبِلِ اَوْزُهِنَا بِتَوْبِجَهْوَنِي
 سے کبیل کی مانند پہننا۔ گناہ کرنا۔
 اِسْتَوَزَّرَ فُوَزَيْرِنَانَا - اِسْتَوَزَّرَ الشَّيْءُ نَلِي
 جاننا۔
 الوَزْوَسُ - گناہ۔ گرانی۔ بھاری بوجھ۔ کپڑوں
 کی گٹھری۔ جِ اَوْزَارُ - اَوْزَارُ الْحَرْبِ :
 سامان جنگ۔ کہا جاتا ہے ”وَضَعْتَ الْحَرْبُ
 اَوْزَارَهَا يَبْنِي جَنَاحَ خَمٍّ هُوَ كَيْ اسَلِي كِه اِس
 وقت ہتھیار رکھ دیتے ہیں۔
 الوَزْدُ جَائِي نَاهُ - بلند پہاڑ۔
 الوَزْرَةُ جَهونًا سَاكِبِلِ جِ وِزْرَاتٍ وِزْرَاتٍ
 وِزْرَاتٍ۔
 الوِزَارَةُ وِالْوِزَارَةُ قُوَزَيْرِي كَامَرْتِيہ -
 الوِزِيرُ - امورِ سلطنت میں بادشاہ کا معین و
 مددگار۔ مددگار۔ جِ وُزْرَاءُ وَاوْزَارُ -
 المُوَزَّرُوْنَ - گنہگار۔ گناہ سے ہم۔
 وِزْعٌ يَزْعُ وِيزْعٌ وِزْعًا فُلَانًا وِ بِلْفَانِ :
 روکنا۔ منع کرنا۔ وِزْعُ الْجَيْشِ تَرْتِيْبٌ سِي
 صفوں میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے ”رَأَيْتَهُ يَزْعُ
 الْجَيْشَ مِيْنِ نِي اِس كُوْدِي كَمَا كِه وَه لَشْرِكِي
 تَرْتِيْبٌ سِي صَفِ بِنْدِي كِرْبَاهَا تَهَا (وُزُوْعًا)
 فُلَانًا بِفُلَانٍ بَهْرُ كَانَا -
 وِزْعُ الْمَالِ بِيْنَهُمْ پَرَا كِنْدَه كَرْنَا الْمَالِ
 عَلَيْهِمْ : تَقْسِيْمٌ كَرْنَا -
 اَوْزْعُ الْمَالِ : تَقْسِيْمٌ كَرْنَا هُ : بَكْدَا بَهْرُ كَانَا
 اَوْزْعُ بِيْنَهُمَا تَفْرِيْقٌ كَرْنَا - اِصْلَاحٌ كَرْنَا هُ
 الشَّيْءُ اِلْبَامُ كَرْنَا - وَاوْزِعُ الشَّيْءُ اِلْبَامُ كِيَا
 جَانَا - وَاوْزِعُ يَهْرُ كِيَا جَانَا - صِفْتُ مُوْزِعٌ
 تَوَزَّعَ پَرَا كِنْدَه هُونَا الْقَوْمُ الْمَالِ اَيْسِ
 مِيْنِ تَقْسِيْمٌ كَرْنَا - كِهَا جَاتَا هِي ”تَوَزَّعَتْهُ
 الْاَفْكَارُ“ اِس نِي كِهِي اِيَكِي كِي فِكْرِي كِي بَهِي
 دوسرے کی - وِتَوَزَّعُوا ضِيُوْفَهُمْ نَهِي
 نِي مِهَانُوْنِ كُو اَيْسِ مِيْنِ تَقْسِيْمٌ كَرَلِيَا -
 اِتَّرَجَّعَ بَارِهِنَا - رُكِنَا -
 اِسْتَوَزَّعَ - اللّٰهُ شُكْرُهٗ بِشْرِكِي تَوْفِيْقِ
 جَانَا -

المُوَازِعُ فَا - ذَانْتِي وَاالَا - كِتَابُ فَوْجِ كَا سِرْدَارِ
 جِ وِزْعَةٌ وِ وِزَاعٌ
 الوِزْعَةُ - وِزَاعٌ عِي حَجَّ - بَادِشَاهُ كِه مَدْدَا كَرُو
 مَحَافِظُ - اللّٰهُ تَعَالَى كِه مَحَارِمُ سِي بَارِ كِنْتِي وَا لِي
 حِكَا م -
 الْاَوْزَاعُ جَمَاعَتِيْنِ (اِس كَا وَا حِدٌ نَهِيْنِ)
 الْمُتَوَزَّعُ فَا - سَخْتِ جَان -
 وِزْعٌ يَزْعُ وِزْعًا وِ وِزْعًا وِ اَوْزَعٌ يَبُوْلُهٗ جَهْوَرَا
 تَهْوَرَا كِر كِي پِي شَابُ كَرْنَا - اُوْر اِي سِي سِي هِي
 اَوْزَعَتْ الطَّعْنَةُ بِالذَّمِّ نِيْزَه كِه زُخْمُ سِي
 تَهْوَرَا تَهْوَرَا خُوْنٌ نَكَلَا -
 وِزْعُ الْحَسِيْنِ صُوْرَتِ بِنِ كِر حَرَكْتِ كَرْنَا -
 الوِزْعُ كِكِي - بَزْدَلُ مَرْدِ -
 الوِزْعَةُ جِجِيْلِي - جِ وِزْعٌ وِ وِزَاعٌ وِ
 اَوْزَاعٌ وِ وِزْعَانٌ وِ اِذْعَانٌ - الْاَوْزَاعُ :
 كَمْرُوْر لُوْكَ -
 وِزْفٌ يَزْفُ وِزْفًا وِ وِزْفًا وِ وِزْفٌ
 تَوَزَّفَا وِ اَوْزَفٌ اِيْزَافٌ جِلْدِي كَرْنَا (وِزْفًا)
 فُلَانًا جِلْدِي كَرْنَا -
 وَاَزْفٌ مُوَازِفَةٌ وِ تَوَازَفٌ تَوَازَفًا الْقَوْمُ :
 بَعْضُ كَا بَعْضُ سِي قَرِيْبٌ هُونَا -
 الْوَزَالُ اِيَكِي خَارِدَارِ دَرِخْتِ جِس كِه پَتِي
 نَهِيْنِ هُوْتِي زَرْدِ رَنَگِ كِه خُوْبِ صُوْرَتِ پَهْوَلِ
 هُوْتِي هِي -
 وِزْمٌ يَوْمٌ وِزْمًا فُلَانًا بِيْفِيْهٖ مَهْمُ سِي آهِنْتِهٖ
 سِي كَانَا الشَّيْءُ سُوْرَاخُ كَرْنَا الدَّيْنِ قَرْضِ اِدَا
 كَرْنَا (وِ وِزْمٌ) نَفْسُهُ بُوْنِ مِيْنِ اِيَكِي مَرْتَبِي
 كِهَانَا -
 وِزْمٌ وِزْمَةٌ فِيْ مَالِهٖ يَكْتَبُ جَاتَا رِهِنَا -
 تَوَزَّمٌ بَهْتِ رُوْدِنْدِي وَا لَاهُونَا -
 الوِزْمُ مِ - مَقْدَارُ - اِسِي وَتِ پَرَا نِي وَا لَا -
 مِعَا مِلُ (وَالْوِزْمُ وِالْوِزْمَةُ هَبْرِي كَا كِهْنَا -
 گوشت جس کو عقاب اپنے گھونسلے میں جمع کرتا
 ہے۔ الوِزْمُ گوشت کا ٹکڑا خشک کیا ہوا۔ بڑا
 چمبہ۔ رَجُلٌ وِ زَيْمٌ : گُھٹے ہوئے گوشت کا
 مَرْدِ -
 الوِزْمَةُ مِ - مَقْدَارُ - دِنِ مِيْنِ اِيَكِي مَرْتَبِي كِي

خوراک۔
 - الوِزَامُ جِلْدِي -
 الوِزَامُ بَهْتِ گوشت اور عضلہ والا۔
 الْوِزِيْمُ عِنْدَ اَرْبَابِ عِلْمِ النَّبَاتِ يُوْنِتُ
 نَبَاتَاتِ كَا عَضْوَاتِ نَيْفِ -
 الْوِزِيْمِيَّةُ اَمْرِيَكِه مِيْنِ اِيَكِي لَبِي تِنِي وَا لِي
 دَرِخْتِ زَيْبِ وِزِيْمَتِ -
 وِزْنٌ يَزِنُ وِزْنًا وِزْنَةً الشَّيْءُ : تَوَلَا لَهٗ
 الدَّرَاهِمُ وِغَيْرِهٖذِ تَوَلَا كِر دِيْنَا الشَّعْرُ :
 شَعْرُ كِي تَقَطُّعٌ كَرْنَا - كِهَا جَاتَا هِي ”هَذَا يَزِنُ
 رَطْلًا“ يَبْنِي يِه اِيَكِي رَطْلُ كِه بَرَابِرُ هِي -
 وِزْنٌ يُوْزُنُ وِزَانَةً الشَّيْءُ : يُوْجَلُ هُونَا -
 صِفْتُ وَاِزْنُ الرَّجُلِ : تَهَلَّلَدُوْ جَمِيْدِه رَا سِي
 هُونَا -
 وِزْنٌ وَاوْزَنُ نَفْسَهٗ عَلَيَّ كَمَا دَلَّ لَكَا نَا -
 وَاِزْنَهُ وِزَانًا وِ مُوَاوَزَنَةً مَقَابِلِ هُونَا - وِزْنِ
 مِيْنِ بَرَابِرِ كَرْنَا - عَمَلُ كَا بَدَلِ دِيْنَا بِيْنِ الشَّيْئِيْنِ :
 وِزْنِ مَعْلُوْمٌ كَرْنِي لِيَكْتَبُ مَقَابِلِهٖ كَرْنَا -
 قَوَاوِيْنُ الشَّيْئَانِ بَاهِمِ بَرَابِرِ هُونَا -
 اِتَّرَنَّا تَلْنَا الدَّرَاهِمُ پَرِ كِنْتَا الْعِدْلُ : كَهْرِي
 كَا دُوسرے كِه بَرَابِرِ هُونَا الشَّيْءُ وِزْنِ سِي
 لِيْنَا -
 الوِزْنُ مِ - مِثْقَالُ - جِ اَوْزَانُهٗ كِهَا جَاتَا هِي
 ”هَذَا دِيْرَهْمٌ وِزْنٌ“ وِزْنِ كِيَا هُوَا هِي
 ”وَهَذَا رَجُلٌ رَاحِحُ الْوِزْنِ“ يِه شَخْصٌ
 پِجْتِي رَا سِي اُوْر كَامِلِ الْعَقْلِ هِي - كِهَا جَاتَا هِي
 ”هُوَ وِزَانُ الشَّيْءِ اُوْ وِزْنُ الشَّيْءِ اُوْ وِزْنَةُ
 الشَّيْءِ اُوْ بُوْزَانِهٖ اُوْ بُوْزَانَتِهٖ : اِهٗ اِس كِه
 سَا سِي هِي يَادِرْنِ مِيْنِ اِس كِه بَرَابِرِ هِي ”وَهُوَ
 وِزْنُ الْجَبَلِ لَاهِ پَهَارِ كِي جَانِبِ مِيْنِ هِي -
 الوِزْنَةُ وِزْنِ كَا اِس مَرَّةً پِجْتِي رَا سِي كَامِلِ
 الْعَقْلِ عَمْرَتِ - كِهَا جَاتَا هِي ”مَا اَكْلَهُ فِي
 الْيَوْمِ اِلَّا وِزْنَةً وَا حِدَةً“ بُوْنِ مِيْنِ اِس كِي
 خُوْرَا كِ صَرَفِ اِيَكِي مَرْتَبِي هِي -
 الوِزْنَةُ وِزْنُ كَا اِس نُوْعٌ -
 الوَاِزِنُ فَا - كِهَا جَاتَا هِي ”دِيْرَهْمٌ وَاِزْنٌ“
 دَرِهْمِ كَامِلِ -

وَسَطَةٌ. ثالث بنانا۔ بیچ میں کرنا۔ وَسَطُ الشَّيْءِ: دو ٹکڑے کرنا۔
أَوْسَطُ إِسْطَا الْقَوْمِ: بیچ میں داخل ہونا۔
تَوَسَّطَ الْقَوْمِ أَوِ الْمَكَانِ: بیچ میں بیٹھنا
بَيْنَهُمْ: ثالث و مصلح بننا الرَّجُلِ: درمیانی چیز
لینا۔

الْوَسْطُ (واحد جمع مذکر مؤنث کے لیے)
معتدل۔ مثلاً کہا جاتا ہے ”شَيْءٌ وَسَطٌ“ یعنی
عمدہ اور ردی چیزوں کی درمیانی چیز جِزْجِ أَوْسَاطِ
وَسَطِ الشَّيْءِ: دونوں اطراف کے درمیان
چھپے وَسَطِ الْحَبْلِ وَ وَسَطِ الدَّارِ. رَجُلٌ
وَسَطٌ: صاحب حسب مرد۔ اور کہا جاتا ہے
”هُوَ فِي وَسَطِ الْقَوْمِ وَ فِي وَسْطِهِمْ“
یعنی وہ قوم کے درمیان میں ہے۔ اور بعضوں
نے کہا ہے کہ ہر وہ موقع جہاں پر لفظ وسط کے
عوض بین رکھ سکتے ہیں وہ ساکن الاوسط ہوتا
ہے ورنہ متحرک الاوسط اور اسی لحاظ سے کہتے
ہیں ”وَسَطُ الْقَوْمِ“ اور ”وَسَطُ الْحَبْلِ“

الْوَاسِطُ: فاء دروازہ۔ پالان کا اگلا حصہ۔
الْوَاسِطَةُ: واسطہ کا مؤنث۔ پالان کا اگلا حصہ
۔ بار کے بیچ کا عمدہ جوہر۔ ذریعہ۔ سبب۔ کہا جاتا
ہے ”كَانَ بَوَاسِطَةً كَذَا“ وہ فلاں کے
ذریعہ سے تھا۔ ثالث۔ اور کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ
فِي وَاسِطَةِ قَوْمِهِ“ فلاں اپنی قوم میں سب
سے لہتا ہے۔

الْوَسَاطَةُ: س۔ ثالثی۔
الْوَسِيطُ: دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان
ثالث جِ وَسْطَاءُ مَوْثٍ وَسِيطَةٌ اور کہا جاتا
ہے ”هُوَ وَسِيطٌ فِيهِمْ“ وہ بلند مرتبہ اور
شریف النسب ہے۔

الْأَوْسَطُ: متوسط۔ معتدل جِ أَوْاسِطِ
أَوْسَطِ الشَّيْءِ: دونوں اطراف کا
درمیان۔ الْعِلْمُ الْأَوْسَطُ: علم ریاضی۔ اور
اس کو حکمت و سلفی بھی کہتے ہیں۔

الْوَسْطِيُّ: اوسط کا مؤنث جِ وَسْطٍ مِنْ
الْأَصْبَاعِ: بیچ کی انگلی۔
الْوَسْطُ: درمیانی۔ بالوں کا خیمہ یا چھوٹا

الْوَسْبُ: گھاس۔
الْوَسْبُ: س۔ میل۔
الْمِيسَابُ: ادھ پتھری کھجور۔
وَسَجَتْ تَسْجُ وَ سَجَا وَ وَسِجَا وَ
وَسَجَانَا الْأَيْلُ: تیز چلنا۔ صفت وَاسِجَةٌ.
أَوْسَجَ الْعَجِيزُ: تیز چلانا۔
الْوَسَاجُ وَالْوَسُوجُ مِنَ الْأَيْلِ: تیز رفتار
جِ وَسُجٍ اور کہا جاتا ہے ”أَيْلٌ وَسُوجٌ“
تیز رفتار اونٹ۔

الْوَسْجُ وَالْوَسْجَانُ وَالْوَسْجِيُّ: اونٹ کی
تیز چال۔

وَسِخٌ يُوَسِّخُ وَيَسْخُ وَيَسْخُ وَ سَخَا
الشَّيْءُ مِثْلًا هَوَانًا: صفت وَسِخٌ
وَسَخٌ وَأَوْسَخَ الشَّيْءُ: میلا کرنا۔
تَوَسَّخَ وَتَسَّخَ وَاسْتَوَسَّخَ: میلا ہونا۔

الْوَسْخُ: میل کچیل۔ جِ أَوْسَاخُ.
وَسَدَةٌ الْوَسَادَةُ: کسی کو تکیہ دینا۔ وَسَدٌ
إِلَيْهِ الْأَمْرُ: کسی کام کو کسی کے ذمہ کر دینا۔
أَوْسَدَ فِي السَّيْرِ: تیز چلنا الْكَلْبُ
بِالْوَسْدِيِّ: کتے کو شکار پر آسانا۔

تَوَسَّدَ الْوَسَادَةُ: سر کے نیچے تکیہ رکھنا
ذِرَاعُهُ: ہاتھ کو تکیہ کی طرح رکھ کر سونا۔
الْوَسَادُ وَالْوَسَادُ وَالْوَسَادُ تَكْرِجُ وَوَسَدٌ
کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ عَرِيضُ الْوَسَادِ“ یعنی
عری۔ اور ”إِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ“ کہنا یہ ہے
کثرت نوم سے۔

الْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ تَكْرِجُ
وَسَادَاتٌ وَوَسَادَاتٌ وَوَسَادَاتٌ
وَوَسَادَاتٌ.

وَسَطٌ يَسِطُ وَسَطًا وَسِطَةٌ الْمَكَانُ أَوْ
الْقَوْمِ: بیچ میں بیٹھنا۔ صفت وَأَسِطُ
(وَسَاطَةٌ) الْقَوْمِ وَ فِيهِمْ: قوم میں حق و
عدل میں متوسط ہونا۔

وَسَطٌ يُوَسِّطُ وَسَاطَةٌ: شریف ہونا
۔ صاحب حسب ہونا۔
وَسَطٌ يَسِطُ وَسَاطَةٌ وَسِطَةٌ وَ وَسَطٌ
فِي حَسَبِهِ: شریف و صاحب حسب ہونا۔

الْأَوْزُنُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا
الْقَوْلُ أَوْزُنٌ مِنْ غَيْرِهِ“ یہ قول دوسرے
سے زیادہ قوی ہے ”وَهُوَ أَوْزُنُ الْقَوْمِ“ وہ
قوم میں زیادہ وجاہت والا ہے۔
الْوَزِينُ: اندر آن کے لیے ہوئے دانے۔ کہا
جاتا ہے ”فَلَانٌ وَزِينُ الرَّأْيِ“ فلاں سنجیدہ
رائے ہے۔

الْمَوْزُونَةُ: پست قد عظیمہ عورت۔
الْمِيزَانُ: ترازو۔ جِ مَوَازِينُ. الْمِيزَانُ
۔ مقدار۔ انصاف۔ کہا جاتا ہے ”إِسْتِقَامٌ
مِيزَانُ النَّهَارِ“ دن آدھا ہو گیا۔

وَزُوٌّ وَوَزْوَةٌ: جسم کو حرکت دیتے ہوئے
قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔ ہلکا ہونا اور
جلدی کودنا۔

الْوَزْوَازُ: جسم کو حرکت دیتے ہوئے قریب
قریب قدم رکھ کر چلنے والا (وَالْوَزْوَاوَةُ)
او چھاپتے قدم مرد۔ ایک پرندہ۔
الْمَوْزُوذُ: فاء گانے والا۔
وَزَى يَزِي وَزِيَا الشَّيْءُ: جمع ہونا۔ سَکْرًا۔
الْأَمْرُ فَلَانًا: غصہ دلانا۔

وَأَزَاهُ مَوَازِفًا: مقابل ہونا۔
أَوْزَى إِزَاءً: ظہورہ الی الْحَاطِطِ: ٹیک
لگانا لِدَارِهِ: دیواروں کو مٹی سے لپٹا الشَّيْءُ:
اٹھانا اور ٹیک لگانا الی فَلَانٍ: پناہ لینا۔ أَوْزَيْتُهُ
إِلَيْهِ: پناہ لینے پر مجبور کرنا۔
تَوَازَى تَوَازِيَا الشَّيْئَانِ: ایک دوسرے
کے مقابل ہونا۔

إِسْتَوَزَى إِسْتِيزَاءً فِي الْحَبْلِ: پہاڑ پر
چڑھنا۔

الْوَزَى: پست قد گھٹھے بدن کا مرد۔
الْمُسْتَوِزَى: فاء خود رائے۔ سیدھا کھڑا
ہونے والا بلند۔

وَسَبٌ يَسِبُ وَسِبًا وَ أَوْسَبَ إِسْبَابًا
الْمَكَانُ: بہت گھاس والی ہونا۔ أَوْسَبَ
الْكَبْشُ: بہت اون والا ہونا۔
وَسَبٌ يُوَسِّبُ وَسَبًا وَوَسَبٌ: کپڑا میلا
ہونا۔

کو بطور خضاب کے استعمال کرتے ہیں۔ علامت
داغ کا نشان۔ مَوْشُوم

أَسْمَةُ: پھول کی پتی کا بالاحصہ۔
جُزْءُ الْمَدِيقَةِ: پھول پتوں کو جمع کرنے والا
حصہ۔

السَّمَةِ: سر۔ علامت۔ داغ کا نشان۔ ج
سِمَات.

الْوَسْمِيُّ: موسم بہار کی پہلی بارش۔

الْوَسَام: جانوروں کا داغ۔ تمدن مَوْسِمَةُ.

الْوَسْمَةُ وَالْوَسْمَةُ: نیل کے پتے یا ایک
قسم کی نباتات جس کے پتوں سے خضاب
کرتے ہیں۔

الْوَسِيم: خوبصورت چہرے والا مَوْسِمَاء
وَوَسَام مَوْسِمِيَّةٌ مَوْسِمَاتٌ و
وَسَام.

الْوَسَامَةُ: سر۔ خوبصورتی کا اثر۔ حسن و

جمال۔
الْأَوْسَم: خوبصورت۔

المَوْسِم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ
اکثر استعمال ج کے موقع کیلئے ہوتا ہے اور
عید کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مَوْسِم.

المَيْسِم: داغ لگانے کا آلہ۔ داغ کا نشان ج
مَيَّاسِم. المَيْسِم: حسن و جمال۔

المَوَاسِيم: داغ لگانے ہوئے اُونٹ۔

وَسِنٌ يُّوسِنُ وَسِنًا وَسِنَةً: اوگھنا۔ بیدار
ہونا (خند) صفت مذکورسِنٌ و وَسِنَانٌ و

مَيْسَانٌ: صفت مَوْسِمِيَّةٌ و وَسِنِيٌّ و
مَيْسَانٌ. وِسِنٌ فَلَانٌ: کنوئیں کی بدبو سے
غشی طاری ہونا۔

أَوْسَنَتُهُ الْبُيُوتُ: غشی طاری کرنا۔

تَوَسَّنَتْ: نیند کے وقت آنا۔

إِسْتَوْسَنَ: اوگھنا۔

الْوَسْن: سر۔ ضرورت۔ حاجت۔ ج

أَوْسَان.

السَّنَةُ: سر۔ اوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے مَوْ

فِي سِنَةٍ: وہ غفلت میں ہے۔

الْوَسْنَةُ: سر۔ نیند کی۔ اوگھ۔

الْوَسْنِيُّ: بہت اوگھنے والا۔

المَوْسُونُ: کابل۔ مَوْسُونٌ وَسُونَةٌ

وَسُونٌ وَسُونَاوٌ وَسُونَةُ الشَّيْطَانِ

لَهُ وَالْيَهُ: وَسُونٌ وَاللَّحْلُ: خرابی عقل کی

وجہ سے بے مکی باتیں کرنا۔ وَسُونٌ وَاللَّحْلُ

صَفْحٌ وَسُونٌ: آہستہ بولالْحَلِيٌّ او

الْقَصْبُ جھنکار ہونا یا آواز نکالنے جُل: کسی

سے آہستہ گفتگو کرنا۔

وَسُونٌ بِيهٍ: کلام میں گڑبڑی ہونا۔

الْوَسْوَسُ: وسوس کا اسم۔ شیطان۔ ایک

مرض ہے جو غلبہ سوداہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا

ہے۔ دل میں جو برائی یا بے نفع بات گزرے

اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ وَسْوَسَ و

وَسَى يَسِيٌّ وَسِيًّا رَأْسَهُ: موڈنا۔

وَأَسَى الرَّجُلُ مَوَاسَاةً. آسَاہ مَوَاسَاةً

میں ایک لغت ہے بمعنی مدد دینا۔

أَوْسَى إِبْسَاءً. الرَّاسُ: موڈنا لَشِيٌّ:

کائنا۔

المَوْسِي: استرہ۔ مَوْس.

الْوَشْبُ: سخت قسم کی مچھرو وغیرہ۔

الْوَشَابُ: کا واحد بمعنی اخلاط ناس

طرح طرح کے لوگ۔

وَشَجَّتْ تَشِجٌ وَشَجَا الْأَغْصَانُ:

ٹہنیوں کا ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہونا۔ کہا

جاتا ہے تَشِجَتْ بَكَ قَرَابَتَهُ: تمہارے

ساتھ اس کی قرابت مل گئی و تَشِجَتْ فِي

قَلْبِهِ أَمْوَزٌ وَهَمْوَمٌ: اس کے دل میں مختلف

قسم کے امور اور غم لاحق ہیں و تَوْشَحٌ

مَحْمَلَةٌ: کچھ گرنے سے بچانے کیلئے ترمہ سے

باندھنا و تَوْشَحَ اللَّهُ قَرَابَتَهُ بَكُمْ: اللہ اس

کی قرابت کو ترمہ سے ملا دینا و تَوْشَحَ اللَّهُ بَيْنَ

لِقَوْمٍ: اللہ نے لوگوں کو آپس میں ملا دیا۔

تَوْشَحَتْ وَ تَوَاشَحَتْ عُرُوفُ الشَّجَرَةِ

وَنَحْوَهَا پیچیدہ ہونا۔

الْوَاشِحُ: فا پیچیدہ۔ مَوْشَوَاشِحَةٌ

لِوَاشِحَةٍ: باہم پیوستہ قرابت۔

الْوَشِيجُ: قرابت و رشتہ داری کی باہم پیوستگی

نیزوں کا درخت۔ نیزوں کیلئے بھی بولا جاتا

ہے کہتے ہیں بَطَاعِنُوا بِالْوَشِيجِ.

الْوَشِيجَةُ: درخت کے ریش کی رستی جس کو

بن کو دو کٹڑیوں میں پھنسا دیتے ہیں اور اس پر

گیہوں وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل

کرتے ہیں۔ مَوْشِيجُ: کہا جاتا ہے مَوْشِيجَةٌ

وَمَوْشِيجَةُ الْقَوْمِ: وہ لوگ قوم میں اچھے ہیں

الْوَشِيجَةُ کان کی رگ۔ مَوْشِيجَةُ

وَمَوْشِيجَةُ: حمل پہنانا۔

تَوْشِجٌ وَتَشِجٌ: حمل پہنانا مَوْشِجٌ

سَيَفِيهِ: تلوار گردن میں لگا لیا بوبہ: کپڑا پہننا

یا بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈالنا

العجل: پہاڑ پر چلنا۔

الْوَشَاحُ: تلوار۔ مَكانٌ ذُو الْوَشَاحِ:

حضرت عمر کی تلوار کا نام (الْوَشَاحِ) حمل۔

جَزَاؤُ بَيْتِي وَ مَوْشِجٌ وَأَوْشِجَةٌ وَ مَوْشِجٌ:

الْوَشَاحَةُ: تلوار۔

الْوَشْحَاءُ: کالی بکری جس کی گردن اور سینہ

سفید ہو۔

المَوْشِجُ: اشعار کی ایک قسم جو خاص اوزان

اور قوافی پر نظم کیے جاتے ہیں مگر اس میں ناظم

ایک ہی قافیہ کا پابند نہیں ہوتا اور یہ اندلسی

شعراء کا اختراع ہے۔

المَوْشِجَةُ مِنَ الطَّيْرِ او الطَّيَّاءُ: پرندہ یا

ہرن جس کے دونوں پہلوؤں پر دو سفید

دھاریاں ہوں۔

وَشَرَّ يَشِرُ وَشَرًّا أَسْنَانُهُ: دانتوں کو تیز اور

باریک کرالھنشبۃ بِالْمِشْشَارِ: کڑی کو آرہ

سے چیرنا۔

أَشْرٌ وَأَسْوَشَرٌ: دانت تیز اور باریک

کرنے کو کہنا۔

المِشْشَارُ: آرہ۔

مَوْشُورٌ ثَلَاثِيٌّ رُبَاعِيٌّ خُمَاسِيٌّ: جس

کے قاعدے ثلاثی اور رباعی اور خماسی ہوں۔

المَوْشُورُ: سفلی علم الطبیعیات: علم

طبیعیات کی اصطلاح میں اُس بلوری جسم کو کہتے

ہیں جس کے تین ضلع ہوں۔ مَوْشِيرٌ.

وَشِقْ يَشِقُ وَشِقَا - جلدی کرنا۔
تَوَشَّقَ لِلشَّيْءِ: آمادہ برائی ہونا۔

الوشق والوشق - جلدی۔ بلند مکان جس کی پناہ لی جائے۔ سختی زندگی کا خوشام۔

الوشقنة بہت بھرا ہوا مکان کا شایق۔
وَسَطٌ يَبْسُطُ وَشَطًا الْعَظْمُ: ہڈی کا ٹکڑا

توزن الفاس: کھانڈے میں پتھر لگا کر سوراخ
تھک کر القوم الننا: کم لوگوں کا آکرنا۔

الوشق - تابع - حلیف - قوم میں انجمنی
آدمی ملا ہوا۔ حسیس - مختلف النسل لوگ۔ ج

أوشاط (والوشقنة) لکڑی کا ٹکڑا جس سے
پیالہ کو جوڑیں۔ کہا جاتا ہے "ہم وشقنة فی

قومیہم" وہ لوگ اپنی قوم میں فرومایہ ہیں۔ اور
ایسا ہی ہو وشقنة فیہم" ع شایق۔

وَشَقَّ يَشُقُّ وَشَقًا الشَّيْءُ: ملانا القطن:
روٹی کو پیناوشقا ووشوقا (الجبل

وفیہ: پہاڑ پر چڑھنا القلعة: پھولدار ہوا
الشئی: بلند ہونا۔

وَشَقَّ القطن: روٹی دھننے کے بعد پینا
الثوب: کپڑے پر نقش و نگار کرنا الشیب

راسہ: سر میں سفیدی چھا جانا الشئی فی
الشئی: داخل ہونا ووشوقا علی کرمہم

او بستانہم بارغ میں لگانا۔
أوشع البقل او الشجر: سبزی یا درخت کا

پھول دار ہونا۔
تَوَشَّقَ الشئی: پرانڈہ ہونے والی جبل پہاڑ

میں دائیں بائیں جال الشیب راسہ سر میں
سفیدی چھا جانا ووشوقا الضیوف: ہر ایک

کامہانوں کی ایک جماعت کو اپنے گھر لے جانا۔
تَوَشَّقَ بہ: بہت ہو پال کذب: جھوٹ سے

مزین ہونا الغنم فی الجبل: بکریوں کا
چرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا۔

الوشق - سبزیوں کے ٹکڑے۔ پہاڑ میں
تھوڑی سی نباتات ووشوق۔

الوشق - لکڑی کا جالا۔
الوشوق - پہاڑ میں متفرق نباتات۔ حلق

میں نیکانے کی دوا۔

الوشق - کپڑے کا نقش و نگار باغ کے
ارد گرد کی باڑ۔ مکان کی چھت یا چٹائی وغیرہ جو

چھت کے قائم مقام ہو۔ خشک ہو کر گرا ہوا
درخت۔ سردار لشکر کا خیمہ جہاں سے وہ فوج کی

نقل و حرکت کو دیکھ سکے۔ کنوئیں کے سرے
کی موٹی سی لکڑی جس پر کھڑے ہو کر پانی

کھینچیں۔
الوشقنة: رنگ برنگ کے سوت پیننے کی

لکڑی اپنے والے کی نال ہر بیچیدہ چیز۔ غبار کی
دھاری ع شایق ووشایق۔

الموشق - بیویڈ موشق: منقش دھاری
دار چادر۔

وَشَقَّ يَشُقُّ وَشَقًا يَبُولُہ: پیشاب کرنا۔
وَشَقَّ الثوب بالدم: کپڑے پر خون لت

پت کر کے دھاری دار کر دینا۔
أوشق ایشاقا العطية: کم دیکھو لہ:

پیشاب کرنا۔
تَوَشَّقَ بالسوء: آلودہ ہونا۔

الوشق والوشق: تھوڑا۔
الوشوق: منہ میں نیکانے کی دوا۔

وَشَقَّ يَشُقُّ وَشَقًا: خراش کرنا ہ
بالرمح: نیزہ مارنا ووشق اللحم: گوشت

کے پارچے کاٹ کر خشک کر لیا جمل: جلدی
کرنا۔

وَشَقَّ الشئی: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
أوشق الشئی فی الشئی: چٹنا۔

تَوَشَّقَ وَاَتَشَقَّ القوم العذو بآسنا فیہم
دشمن کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

وَأَتَشَقَّ فَلَان اللحم: گوشت کے پارچے
کاٹ کر خشک کرنا۔

الواشق - فا - تھوڑا دودھ - جلدی سے
گزرنے والی چیز جیسے عمر اور زمانہ یا شق میں

ایک لغت۔
الوشق - سب متفرق چراگا۔

الوشق - ایک جانور کا نام جس کی کھال سے
عہد پوشتین تیار ہوتی ہے۔

الوشیق والوشیقنة: خشک کیا ہوا گوشت کا

پارچہ ع شایق۔

المیشاق - کئی کا داند۔ ع شایق۔

وَشَقَّ يَوْشَقُ وَشَقًا وَوَشَاكَةً
وَوَشَقَّ الأمر: جلدی ہونا۔ صفت

ووشیق۔
أوشق - جلدی چلنا اور قریب ہونا اور اسی

سے ہے ووشق ان یموت وہ مرنے کے
قریب ہی تھا۔ اور یہ افعال مقابہ میں سے ہے

- مضارع کا استعمال ماضی سے زیادہ ہے اور اسم
فاعل کا استعمال بہت کم ہے اور اس کی خبر پر اکثر

ان آتا ہے۔
وَأَشَقَّ مَوَاشِكَةً: جلدی چلنا۔

الوشق والوشق والوشقان
والوشقان والوشقان: جلدی۔ اور کہا

جاتا ہے "وَشَقَانَ مَا يَكُونُ ذَلِكَ" یعنی یہ
جلدی ہوا۔ یا یہ کسی قدر جلدی ہونے کو ہے

- اور یہ اسم فعل ہے۔
الوشاق - جلدی۔

الوشیق (مذکر مؤنث) جلد باز۔ قریب
- کہا جاتا ہے "خروج ووشیقا" وہ جلدی نکا۔

وَشَلَّ يَشَلُّ وَشَلًا وَشَلَانًا المَاءُ: پانی
کا بہنا۔ چکھلوشولاً) کمزور ہونا۔ محتاج ہونا

الیہ: عاجزی ظاہر کرنا۔
أوشل الماء: پانی کم پھینچنا: کم کرنا۔

الوشل: تھوڑا پانی جو پہاڑ یا چٹان سے نچے۔
تھوڑا آنسو۔ بہت پانی یا آنسو (مذکر مؤنث)

الوشل: بیت - خوف - کہا جاتا ہے "جاء
القوم أوشالاً" قوم ایک دوسرے کے پیچھے

آئی۔
عُيُونٌ وَشَلَّةٌ - کم پانی والے چشمے۔

الواشل - من الجبال: پہاڑ جس سے
ہمیشہ پانی نچے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَأَشَلُّ"

الرأی" فلاں کمزور رائے والا ہے "وَهُوَ
وَأَشَلُّ الحط" وہ ناقص صہ والا ہے۔

نَاقَةٌ وَشَوْلٌ: زیادہ دودھ والی۔ کم دودھ والی
اونٹنی۔

الوشول: دولت کی کمی۔ نقصان۔

وَسَمٌ يَشُمُ وَشْمًا وَشَمَّ الْيَدُ: ہاتھ میں
گودنا۔ وشم الغصن: ٹہنی میں پتے ظاہر
ہونا۔

أَوْشَمَ إِشْمًا الْمَكَانَ: ہریالی ہونا۔
الْكُرْمُ: انکور کارنگ پھڑنا الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ
بڑھاپے کی سفیدی پھیلا لیزق: بچلی کا آہستہ
چمٹنا السَّمَاءُ: بجلی کو ندھنی عَرْضُ فَلَانٍ:
گالی دینا۔ عیب لگانا فِي الْأَمْرِ: غور و فکر کرنا۔
أَوْشَمَتِ الْجَارِيَةُ: پستان کا ابھار شروع ہونا
اور کہا جاتا ہے "أَوْشَمَ يَفْعَلُ كَذَا" وہ ایسا
کرنے لگا۔

اسْتَوْشَمَ اسْتِشْمًا: گودنے کیلئے کہنا۔
الْوَشْمُ: سر۔ گودائی۔ گودنے کا اثر۔ نباتات کی
پہلی روئیدگی۔ وَشْمٌ وَوَشَامٌ:
الْوَشْمَةُ: وشم کا اسم مرہ بارش کا قطرہ۔ کہا
جاتا ہے "مَا عَصَاهُ وَشْمَةٌ" اس نے اس کی
ذرا بھی نافرمانی نہیں کی۔

الْوَشِيمَةُ دشمنی ابرائی۔
تَوْشَنُ الْمَاءِ پانی کم ہونا۔
الْوَشْنُ: بلند زمین۔ موناؤنٹ۔
الْأَوْشَنُ: دوسرے کے دسترخوان پر کھانا
کھانے والا۔

وَشْوَشٌ وَشَوْشَةٌ فَلَانًا: آہستہ گفتگو کرنا
الشَّيْءُ: دھیرے سے دینا۔
تَوْشَوْشُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے سے آہستہ
آہستہ گفتگو کرنا۔

الْوَشْوَشُ وَالْوَشْوَشُ: ہلکا۔ جلد باز
رَجُلٌ وَشَوْبِيُّ الدَّرَاعِ: کام کرنے میں
پھر پھرتا مرد۔

وَشَى يَشِي وَشْيًا وَشِيَةً وَوَشَى النَّوْبَ:
منقش کرنا كَالْكَلَامِ: جھوٹ بولنا وَشَاهُ
تَوْبًا: کپڑا پہنانا۔

وَشَى يَشِي وَشْيًا وَوَشِيَةً بِهِ إِلَى
الْمَلِكِ: چغل خوری کر لیتو فَلَانٍ: بکثرت
ہونا۔

أَوْشَى إِشْيَاءَ الْمَكَانِ: ابتدائی نباتات
ظاہر ہونا الرَّجُلُ: بہت مویشی والا ہونا

الْمَعْدُنُ: کان میں تھوڑا سا سونا پایا جانا
النَّخْلَةُ: پہلا پھل نکالنا النَّسِي: نکالنا۔ جاننا
الْفَرَسُ: گھوڑے کو آسانا الدَّوَاءُ
الْمَرِيضُ: دوا کا مریض کو تندرست کرنا فِي
الدَّرَاهِمِ: کچھ لینا۔

تَوَشَى: نقش و نگار ہونا الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ:
سر میں سفیدی کا پھیلنا۔
إِشْتَى إِشْيَاءَ الْعَظْمِ: ٹوٹی ہوئی ہڈی
درست ہونا۔

اسْتَوْشَى الْفَرَسَ: گھوڑے کو آسانا
الْحَدِيثُ: بحث کرنا اور حج کرنا الرَّجُلُ: ماگنا
اور ہاتھ میں جو کچھ ہو اُسے نکال لینا الْمَعْدُنُ
تھوڑا سا سونا پایا جانا۔

الْوَشِيُّ: مص۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ منقش
کپڑے۔ وَوَشَاءُ: وَوَشَى السَّيْفِ: تلوار کا
جوہر۔

الْوَشَاءُ: اُونوں کی کثرت۔
الْوَأَشِيُّ: فا۔ چغل خور۔ بہت اولاد والا۔ یا
بہت مویشی والا۔ جلاہا۔ ج. اشون و وشاة
الْوَشَاءُ: سونے کا سکہ بنانے والا۔

الْوَشَاءُ: وِاشِي کا اسم مبالغہ۔ منقش کپڑے
بیچنے والا۔

الشَّيْبَةُ: سر۔ داغ۔ نشان۔ علامت ج
شبیات۔

الْأَشْيَةُ داغوں والا۔ کہا جاتا ہے "نَوْرٌ
أَشْيَةٌ" جیسے کہا جاتا ہے فَرَسٌ أُنْبَقُ " اور
نسبت کے لِيُوشِي.

وَصَّ يُوَصُّ وَوَصًّا الْعَمَلُ: مضبوط بنانا۔
وَصَّصْتُ تَوْصِيصًا السَّرَاةَ: منہ کا پردہ
تھک کرنا۔

وَصَّى يُوَصِّ وَوَصًّا النَّوْبَ: کپڑا میلا ہونا۔
وَصَّبَ يَصِبُ وَوَصْبًا: ہمیشہ رہنا۔ ثابت
ہوللذین: قرض واجب ہونے تک فِي الْأَمْرِ:
مداومت کرنا۔ خوش السلوٹی سے کرنا۔

وَصَّبَ يُوَصِّبُ وَوَصْبًا وَوَصَّبَ وَ
تَوَصَّبَ: مریض ہونا۔ مَفْتُوَصَّبٌ ج
وَصَابِي وَوَصَابٌ: تَوَحَّبٌ: درد محسوس

وَصْفًا + وصف

أَوْصَبَ: مریض ہونا لِلَّهِ فَلَانًا: مریض
کرنا الرَّجُلُ: بیمار اولاد والا ہونا الشَّيْبُ:
ہمیشہ رہنا۔ ثابت ہونا (وَوَصَّبَ) ہمیشگی مداومت
کرنا۔

الْوَصْبُ: بیماری۔ دائمی درد۔ جسم کی لاغری
اور بھی سستی اور تھکن کیلئے بھی بولا جاتا ہے
الْوَصْبُ: بھرا اور سہا بے کے درمیان کا حصہ۔
مَقْوَصَفٌ.

الْوَصْبُ: فا۔ دائم۔
الْوَأَصِبَةُ: واصب کا مؤنث۔ بہت دور تک
پھیلا ہوا ایماں۔

المُوصَبُ: بہت دردوں والا۔
وَصَدَّ يَصِدُّ وَوَصْدًا: ثابت ہونا بِالْمَكَانِ:
اقامت کر لیا النَّوْبَ: کپڑا اٹھانا۔

وَصَدَّ النَّوْبَ: کپڑا اٹھانا كَالْكَلْبِ
بِالصَّيْدِ: کتے کو شکار پر بھڑکانا: خوف دلانا۔

أَوْصَدَ الْبَابَ: دروازہ بند کرنا الْقَدْرُ:
ہانڈی ڈھانک لیا فَلَانٍ: تنگی ڈالنا كَالْكَلْبِ
بِالصَّيْدِ: کتے کو شکار پر آسانا۔ بھڑکانا
وَأَسْوَصَدَ: پہلا میں مویشیوں کے لیے بازہ
بنانا۔

الْوَصَادُ: جلاہا۔
الْوَصَادُ: أَوْصَدَ الْبَابَ وَ أَوْصَدَ الْقَدْرُ
کا اسم بھنے بندش ڈھکانا۔

الْوَصِيدُ: چوھٹ۔ گھر کے سامنے کا صحن
عَارُ: پہاڑ۔ قریب قریب جڑوں والی نباتات
۔ دوبارہ ختم کیا ہوا۔ تھک اور بند کیا ہوا ج
وَصْدُ (الْوَصِيدَةُ) پہاڑ میں مویشیوں کے
لیے پتھر والی بازہ مَصَائِدُ.

المُوصَدُ: پردہ۔
الْوَصْرُ: عہد مَقْوَصِرُ (والْوَصِيرَةُ وَ
الْأَوْصَرُ) عہد نامہ ایک۔ دستاویز۔ اور بقول
بعض یہ الفاظ معرب ہیں۔

وَصَعٌ يَصْعُ وَوَصْعًا الشَّيْءُ: غائب کرنا۔
چھپانا۔

وَصَفٌ يَصِفُ وَوَصْفًا وَوَصْفَةً الشَّيْءُ:

بیان کرنا۔ تعریف کرنا وُصُوفًا (الْفَرَسُ
گھوڑے کا عمدہ چال چلاؤ وَصْفًا) الطَّيِّبُ
للمَرْيُضِ: نسخہ تجویز کرنا۔

وَصْفٌ يُوَصِّفُ وَصَافَةُ الْعُلَامُ: لڑکے کا
خدمت کے قابل ہونا اور اچھی طرح سے
خدمت کرنا۔ صفت وِصِيفٌ اور اسم

الْإِيصَافِ وَالْوَصَافَةُ
وَأَصْفَهُ: حالت بیان کر کے بیچ کرنا۔

أَوْصَفَ إِيْصَافًا: خدمت کے قابل ہونا۔
اتَّصَفَ الشَّيْءُ: قابل بیان ہونا لِرَجُلٍ
عمدہ صفات سے مشہور ہونا بِالْإِيصَافِ
الْحَمِيدَةِ: آراستہ ہونا۔

تَوَصَّفَ وَصِيفًا وَوَصِيفَةً: خادم بنانا۔
تَوَاصَفَ الْقَوْمُ الشَّيْءُ: ایک کا دوسرے
سے بیان کرنا۔

اسْتَوْصَفَ فَلَانًا الشَّيْءُ: بیان کرنے کو
کہنا۔

الطَّيِّبُ: نسخہ تجویز کرنا الْعُلَامُ: لڑکے کا
قابل خدمت ہونا۔

الْصَّفَةُ: سہ نعت۔ خوبی۔ ہر وہ چیز جو
موصوف کے ساتھ قائم ہو جیسے علم و جمال
وغیرہ۔ علامت جس سے موصوف پہچانا
جائے۔

الْصِفَاتِيَّةُ: ایک فرقہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا
انکار کرتا ہے۔ وَاَصِفَاتِيٌّ

الْوَصِيفَةُ: صفت کی حالت۔
الْوَصِيفُ: لڑکا جو خدمت کرنے کے قابل

ہو گیا ہو وَوَصَفَاءُ: مؤنث وَوَصِيفَةٌ: ج
وَصَافٍ

الْوَصَافُ: وصف شناس۔ طیب۔
وَصَلَّ يَصِلُ وَصَلًّا وَوَصَلَةً وَوَصْنَةً الشَّيْءُ

بِالشَّيْءِ: جوڑنا۔ جمع کرنا بِالْفِ دِينَارٍ
احسان کرنا وَوَصَلًا وَوَصَلَةً فَلَانًا: تعلق

رکھنا نَيْدًا: نیکی کرنا۔ دینا وَوَصَلَ رَحِمَةً:
رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ مہربانی کرنا

زَمِيًّا وَوَصُولًا وَوُصْلَةً وَوَصْلَةً إِلَى
الْمَكَانِ: پہنچنا۔ کہا جاتا ہے وَوَصَلِيٌّ

الْخَيْرُ وَوَصَلَ إِلَى الْخَيْرِ“ مجھے خبر پہنچی
”وَصْرِيَّةٌ صَرِيحَةٌ لَا تَوْصَلَ“ اس نے اپنی
مارداری کہ جس کا علاج نہیں۔

وَاصِلَةٌ وَوَصَالًا وَوَاوَصَلَةً تَعْلُقُ رُكْنًا
وَاصِلَ الشَّيْءِ وَفِي الشَّيْءِ: بھیگی کرنا
۔ لگاتا کرنا۔

وَوَصَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: جوڑنا وَوَاوَصَلَ
فُلَانًا إِلَى كَذَا: پہنچانا۔

تَوَصَّلَ إِلَى كَذَا: پہنچالی فُلَانٌ: پہنچنے
کے لیے حیلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے تَوَصَّلَ إِلَيْهِ
بِوُصْلَةٍ وَسَبَّ“ اس نے اس کے پاس پہنچنے
کیلئے تعلق اور سب کو حیلہ بنایا۔

تَوَاصَلَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے سے تعلق
رکھنا۔

اتَّصَلَ بِالشَّيْءِ: جڑنا بِالشَّيْءِ: پہنچنے خَيْرُ
فُلَانٍ: جانچنا بِالْوُصُولِ: خدمت میں رہنا
إِلَى بَنِي فُلَانٍ: منسوب ہونا۔

الْوَصْلُ: سرلیبلۃ الْوُصْلُ: قمری سینے کی
آخری رات حَرْفُ الْوُصْلِ عِنْدَ أَهْلِ

الْقَوَافِي: اہل عروض کی اصطلاح میں رومی
متحرک کے بعد کے حروف واؤ۔ یا۔ اور الف

اور ہاء۔ اور کہا جاتا ہے وَوَصَلَ هَذَا“ یہ
اس کے مثل ہے۔

الْوُصْلُ وَالْوُصْلُ: ہر عضو علیحدہ علیحدہ ج
أَوْصَالَ

الْوُصْلَةُ: سہ تعلق۔ دو چیزوں کو ملانے والی
چیز۔ ہم سفر جماعت۔ دُور کی زمین۔ ج

وُصْلٌ
الْوُصُولِيُّ: وہ طبع والا شخص جو ہر تکلیف کے
باوجود کام کو کرے۔

الْوُصُولِيَّةُ: وصولی کی حالت۔
الْوُصْلَةُ: سہ۔ عطیہ۔ احسان۔ انعام۔ ج

صَلَاتٌ
اتَّصَلَ النَّيْرَانِ: سورج چاند کا ملنا اور آسنے
سانے ہونا۔

الْوُصُولُ: بہت میل ملاپ رکھنے والا۔ بہت

بہت میل ملاپ رکھنے والا۔ بہت

دینے والا۔

الْمَوْصُولُ: مَرَعِنَدَ الْمُؤَلَّدِينَ: رسید۔ ج
وُصُولَاتٌ

وَوَصِيلُ الرَّجُلِ: ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ کہا
جاتا ہے هَذَا رَجُلٌ وَوَصِيلٌ هَذَا“ یہ اس
کے مثل ہے۔

الْوَصِيْلَةُ وَوَصِيْلٌ: کامنٹ۔ عمارت۔ ارزانی
۔ کسی چیز کو جوڑنے والی چیز۔ ہم سفر گرہ

۔ دھاگے کا گولا۔ دور کی کشادہ زمین وَوَصَائِلُ
الْوَصِيْلَةِ: بین کا ایک دھاری دار کپڑا ج
وَوَصِيْلٌ وَوَصَائِلُ الْوَصِيْلَةِ: اُونٹنی جو
لگا تا درس سال تک بچے دے۔ بکری جو سات
سال تک جڑواں مادہ بچے دے۔

الْمَوْصِلُ: ملنے کی جگہ۔ رستی وغیرہ کی گرہ۔
مَوْصِفٌ وَوَصِيْلُ الْبَعِيْرِ: چوڑا اور اُن کا درمیانی

حصہ۔ الْمَوْصِلُ: عراق اور جزیرہ کے
درمیان ایک شہر کا نام۔

الْمَوْصِلَانُ: شہر موصل اور جزیرہ۔
الْمَوْصُولُ: سہ۔ بھڑکی شکل کا ایک جانور۔

الْمُسْتَوْصِلُ: قائل الْمُسْتَوْصِلَةَ مِنَ
النِّسَاءِ اپنے بال میں دوسرے کے بال کو
لگوانے والی عورت۔

وَصَمٌ يَصِمُ وَوَصْمًا الْغُودُ أَوْ الْعِظْمُ:
کڑی یا ہڈی میں شگاف ڈالنا الشَّيْءُ: عیب لگانا

۔ جلدی سے باندھنا۔
وَصَمٌ الرَّجُلُ: سستی و کابلی اور اعضا شکنی

والا ہونا فَلَانًا: دردناک کرنا۔ ست دکال کرنا
وَوَصَمَتِ الْحُمَى فَلَانًا: دردناک کرنا۔

تَوَصَّمَ: تکلیف اٹھانا۔
تَوَاصَمَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو عیب لگانا۔

الْوَصْمُ: مرض۔
الْوَصْمُ: سہ۔ کڑی کی گانٹھ۔ عیب و عار۔ ج

وُصُومٌ
الْوَصْمَةُ: عیب و عار۔ جسم کی سستی۔

الْوَصِيمُ: خنصر اور بصر کے درمیان
کشادگی۔

الْمَوْصُومُ: سہ۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ

مَوْصُومٌ الْحَسْبُ عیب دار مرد۔

وَصُورٌ عَيْنُهُ نَظْرُ جَانِ لِيَكْلِمَ آتَمَّ جَهْوَنِي

کرنا۔ پردے کے سوراخ سے دیکھنا الجھڑیلے کا
آنکھیں کھولنا وَصُورُ صَوْنَتِ الْجَارِيَةِ: برقع

سے سوائے آنکھوں کے دکھائی نہ دینا۔

الْوُضُوءُ وَالْوُضُوءُصُ: آنکھ کے برابر

پردہ وغیرہ کا سوراخ۔ جھوٹا برقع صَادِصُ

وَوُضُوءٌ يَصُورُ: الوُضُوءُصُ: سطح زمین کے

پتھر۔

وَصِيٌّ يَصِيٌّ وَصِيًّا عَالِي مَرْتَبَةٍ هُونَةُ كَيْ

بَعْدَ خِيَسٍ هُوَ الشَّيْءُ بِهِ: متصل ہوا لُشِيٌّ

بِآخَرٍ: مَلَاوُضِيًّا وَوَصِيًّا (مَكَانٌ):

متصل نباتات والی ہولنبست: بہت ہونا اور

متصل متصل ہونا۔

وَصِيٌّ تَوْصِيَةٌ فَلَانًا بَكْدًا: کسی کام کا عہد

لینا۔ کسی کام کا اشارہ کرنا لِيَهُ بِالصَّلَاةِ: حکم

دینا۔ کہا جاتا ہے وَصَاءٌ بِفَلَانٍ أَنْ يُحْسِنَ

إِلَيْهِ“ فَلَانٌ كَيْ سَاتَمَّ اس كُو احسان کرنے کا

حکم دیا“ وَوَصِيَّتٌ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي“ میں نے

اس کو اپنے مرنے کے بعد مالک بنایا لُصِيٌّ

إِلَى فَلَانٍ: مرنے کے بعد اپنے مال و اولاد پر

وصی بنایا بُولِيْدُهُ: مہربان بنانا۔

أَوْصَى إِيضًا فَلَانًا بَكْدًا: کسی کام کا عہد

لینا۔ حکم دینا بَكْدًا: کسی کیلئے کسی چیز کی

وصیت کرنا لِيَهُ: وصیت جاری کرنے والا

مقرر کرنا۔

وَأَصَى الْبَلَدَ الْبَلَدَ: ایک شہر کا دوسرے

شہر کے متصل ہونا۔

تَوَاصَى تَوَاصِيًّا الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو

وصیت کرنا۔

اسْتَوْصَى اسْتِيضَاءً بِفَلَانٍ: وصیت کو

قبول کرنا۔

الْوَصِيَّةُ إِيضَاءً كَمَا سَمِعْتُمْ جَسَازِي كَيْ وَصِيَّتِ

كَيْ جَاءَ اس پَر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ کہا جاتا

ہے“ هَذِهِ وَصِيَّتُهُ“ یہ اس کی وصیت ہے ج

وَصَيًّا. وَصَيًّا لِلَّهِ: اللہ تعالیٰ کے احکام جو

اس نے اپنے بندوں پر واجب کیے ہیں۔

الْوَصِيَّةُ: کھجور کی ٹہنی جس سے گٹھا باندھتے

ہیں۔ جِصِيٌّ

الْوَصِيَّةُ جِصِيٌّ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ

وصیت کھجور کی ٹہنی جس سے گٹھا باندھتے

ہیں۔

الْوَصِيَّةُ (مذکورہ مؤنث) وصیت کرنے والا۔

جس کو وصیت کی جائے۔ لُوصِيَاءُ

الْوَصِيَّةُ: پیچیدہ گھاس لارضِ وَأَصِيَّةٌ

پیچیدہ گھاس والی زمین۔

وَصُورٌ يَوْصُو وَوَصُوءًا وَوَصِيَّةٌ الشَّيْءُ:

پاکیزہ خوبصورت ہونا۔

وَصَاءٌ يَوْصُوهُ وَوَصَاءٌ: پاکیزگی و خوبصورتی میں

غالب ہونا۔

وَصَاءٌ تَوْصِيَةٌ بِالْمَاءِ: پاکیزہ کرنا۔ دھونا

وَأَصَاءٌ: پاکیزگی و خوبصورتی میں مقابلہ کرنا۔

کہا جاتا ہے“ وَأَصَاءٌ فَوْضَاءً“ اس نے اس

سے پاکیزگی و خوبصورتی میں مقابلہ کیا اور غالب

رہا۔

تَوْصِيًّا بِالْمَاءِ لِلصَّلَاةِ: وضو کرنا لُغْلَامٌ

وَالْجَارِيَّةُ: بالغ ہونا۔

الْوُضُوءُ: وضو کا پانی۔

الْوَصِيَّةُ جِصِيٌّ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ

جِصِيٌّ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ

وَصِيَّةٌ: پاکیزہ خوبصورت۔

الْأَوْصِيَّةُ: زیادہ خوبصورت و پاکیزہ۔

الْمِيضَاءُ وَالْمِيضَاءَةُ وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ

لُؤَاءُ: وضو کرنے کی جگہ۔ پاکخانہ کے

لیپے بھی بولا جاتا ہے۔

وَصِيٌّ يَصِيحُ صَحِيحَةً وَوَصِيَّةٌ وَوَصِيَّةٌ

وَتَوْصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ

وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ

وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ

وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ وَوَصِيحٌ

والا ہونا۔

أَوْصَحَ الْأَمْرُ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا لُأَمْرٌ:

ظاہر کرنا۔ واضح کرنا لُوضَحَتِ الشَّجَّةُ

فِي الرَّأْسِ زَحْمٌ كَابُذِي كُو ظَاهِرٌ كَرَدِيْنَا-

أَوْصَحَ فِي رَأْسِهِ: زخم کرنا۔ کہا جاتا ہے

”مِنْ أَيْنِ أَوْصَحْتَ“ تم کہاں سے آئے۔

وَصَحَّ الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔

اسْتَوْصَحَ اسْتِيضَاءً عَنِ الْأَمْرِ: بحث

کرنا لُ الْأَمْرِ أَوِ الْكَلَامِ: وضاحت کرنا

الشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ: آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر

دیکھنا لُ الشَّمْسِ: نگاہ تنگ کر کے گھورنا۔

الْوَضْحُ: سر روشنی و سپیدی صَحَّ: کہا جاتا ہے

”جَاءَ فِي وَضْحِ الصُّبْحِ“ وہ سفیدی صبح

کے وقت آیا الوَضْحُ: چاندنی۔ گھوڑے کی

پیشانی یا ناگوں کی سپیدی۔ بڑھاپے کی سپیدی

۔ برص کی سپیدی کھر اور ہم۔ کہا جاتا ہے

”ذَرَاهِمٌ وَضْحٌ“ مؤنث یا شتیبہ جمع نہیں

لاتے جیسے ”أَمْرَةٌ صَوْمٌ“ میں مؤنث یا شتیبہ یا

جمع نہیں لاتے۔ الوَضْحُ: دودھ۔ چھوٹی

چھوٹی گھاس۔ چاندی کا زیور۔ پازیب۔ ج

أَوْضَاحٌ وَضْحُ الطَّرِيقِ: شاہراہ و وضح

الْقَدَمِ: تلوے کی سپیدی۔ أَوْضَاحٌ مِنَ

النَّاسِ: مختلف قبائل کی جماعتیں (اس کیلئے

واحد نہیں)

الْوَضْحَةُ: گدھی۔

الْوَضْحُ: فا۔ ظاہر۔ نمایاں۔ واضح

الْحَسْبُ: پاک صاف حسب والا۔ الوَضْحُ

مِنِ الْإِبِلِ: سفید اونٹ جس کی سفیدی بہت

زیادہ نہ ہو۔

الْوَضِيحَةُ: واضح مؤنث جِضْحَاتُ وَ

أَوْضِحُ: الوَضِيحَةُ: دانت جو ہتے وقت

ظاہر ہوں۔

الْوَضْحُ: سفید رنگ والا۔ خوبصورت چہرہ

والا۔ بہت مبارکے والا۔ دن۔ النَسْبُ

الْوَضْحُ: پاک صاف نب۔ بکڑ

الْوَضْحُ: صبح کی نماز۔

الْوَضِيحَةُ: مویشی۔ جِضْحَاتُ وَ

الْمُتَوَضِّحُ: فا۔ ظاہر ہونے والا۔ شاہراہ پر

چلنے والا۔ الْإِبِلِ: سفید اونٹ جس کی

سفیدی بہت زیادہ نہ ہو۔

رہ کر چرنے والی اونٹنی۔
 الوَضِيعُ: خیس، دنی امانت۔ کہا جاتا ہے
 وَضَعْتُ عِنْدَهُ وَضِيعَةً“ میں نے اس کے
 پاس امانت رکھی۔
 الوَضِيعَةُ: قیمت کی کمی۔ امانت۔ ترش
 نباتات۔ عشر یا خراج وغیرہ جو بادشاہ وصول
 کرے۔ منہ بولا بیٹا۔ لنگر کی ایک جماعت جو
 کسی مقام پر مقرر کی جائے اور وہ جنگ نہ
 کرے۔ ایسی کتاب جس میں حکمت کی باتیں
 لکھی جائیں۔ ایک قسم کا کھانا جس میں گیہوں
 کوٹ کر تھی ملا کر کھاتے ہیں وَضَائِعُ
 الوَضَائِعُ: مسافروں کا اسباب۔
 التَّوَضِيعُ: س۔ کہا جاتا ہے كَلَامِهِ
 تَوَضِيعٌ“ اس کے کلام میں زمانہ پن ہے۔
 المَوْضِعُ وَالمَوْضِعُ: س۔ رکھنے کی جگہ ج
 مواضع۔
 المَوْضِعَةُ: موضع میں ایک لغت ہے اور کہا
 جاتا ہے نَلَّهٖ فِي قَلْبِي مَوْضِعَةً وَ مَوْفِقَةً“
 اس کی میرے دل میں محبت ہے۔
 المَوْضُوعَةُ: انجینئرنگ کا مصنوعی دعویٰ۔
 المَوْضِعُ: س۔ توڑا ہوا۔ ٹکڑے ٹکڑے کیا
 ہوا۔
 المَوْضُوعُ: س۔ مَوْضُوعُ العِلْمِ:
 جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔
 جیسے علم طب میں جسم انسان حین
 الصِّحَّةِ وَالمَرَضِ مَوْضُوعُ الكَلَامِ:
 گفتگو کا مرکزی نقطہ جس پر کلام جاری ہو۔ ج
 مواضع و مَوْضُوعَاتُ: الأحَادِيثُ
 المَوْضُوعَةُ: گھڑی ہوئی باتیں۔
 وَصَفٌ يَصِفُ وَضْفًا البَعِيرُ: اونٹ کا تیز
 چلنا۔
 وَضَمٌ يَضُمُّ وَضْمًا اللّٰحْمُ: گوشت کو تختہ
 پر رکھنا۔
 وَضَمٌ يَضُمُّ وَضْمًا القَوْمُ: اکٹھا ہونا۔
 قَرِيبٌ قَرِيبٌ هُوَ يَضُمُّ قَوْمًا عَلٰی بَنِي
 قَلَانٍ قَلَانٌ كِي اولاد قَلَانِ كِي اولاد کے پاس
 آئی۔

قرض دار سے کچھ چھوڑ دیا وَضَعًا وَ
 مَوْضُوعًا البَعِيرُ: سر جھکا کر تیز چلنا۔
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضَعًا وَضَعَةً وَضِعَةً وَ
 وَضُوعًا نَفْسَةً: اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔
 وَضَعْتُ وَضَعًا وَضَعًا وَتَضَعُ الْمَرْأَةُ
 حَمَلَهَا: جنم۔ مَفْضُوعٌ
 وَضَعٌ يُوَضِعُ وَضِعًا وَضِعَةً وَضِيعَةً
 فِي تِجَارَتِهِ: نقصان اٹھانا۔ مَفْضُوعٌ
 ضِعًا
 وَضَعٌ يُوَضِعُ ضِعَةً وَضِعَةً وَضَاعَةً
 لَيْمٌ هُوَ دَنِي هُوَ: خیس ہونا۔
 وَضَعُ الشَّيْءِ: جَوَالِبُجَّةٌ: روٹی بھر کر
 مینا وَضَعْتُ النِّعَامَةَ بَضْفًا: شتر مرغ کا
 انڈوں کو تیز تر رکھنا وَضَعٌ يَضَعُ
 أَوْضَعُ البَعِيرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا وَضَعٌ
 أَوْضَعٌ كَو تِيز دَوْرًا وَضَعٌ فِي تِجَارَتِهِ:
 تجارت میں نقصان اٹھانا۔
 وَضَاعَةٌ وَضَاعًا وَضَاعَةٌ: شرط لگانا۔
 هُوَ فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں موافقت کرنا۔
 وَضَاعَةُ البَيْعِ: بیع کو چھوڑنا وَضَاعَةُ
 الرِّهَانِ: شرط باطل کرنا۔ اور تم کہتے ہو
 هَلْمُمْ أَوْضِعْكَ الرِّأْيَ“ یعنی آؤ تم مجھ کو
 اور میں تم کو اپنی رائے سے مطلع کروں۔
 انَّضَعُ: ذلیل ہونا۔ عاجز ہونا۔ لیم ہونا۔
 حَسَبٌ مِثْلُ رَجُلٍ هُوَ لِبَعِيرٍ رَاكِبٌ: اونٹ
 کے سر کو جھکا کر سوار ہونا۔
 تَوَضَّعُ: ذلیل ہونا۔ عاجز ہونا۔ خاکسار ہونا۔
 تَوَضَّعْتُ الْأَرْضُ: پست ہونا تَوَضَّعُ
 القَوْمُ عَلٰی كَذَا: متفق ہونا بَيْنَنَا: دور
 ہونا۔
 اسْتَوْضَعُ اسْتِضَاعًا مِنْهُ: گھٹانے کے
 لیے کہا فِی ذِيْنِهِ: قرض میں نرمی طلب
 کرنا۔
 الوَضِعُ: س۔ جگہ۔ لِقَضَاعُ
 الوَضِعَةُ وَ الوَضِعَةُ: جگہ۔ مرکز۔
 الوَاضِعُ: قَالِ الْمَرْأَةُ وَاضِعٌ: بے اوڑھنی
 کے عورت نَاقَةَ وَاضِعٌ: ترش نباتات میں

وَضَحٌ يَضِخُ وَضْحًا الدَّلْوُ: ڈول کو پانی
 سے آدھا بھرتا۔
 أَوْضَحُ الدَّلْوُ: ڈول کو پانی سے آدھا بھرتا۔
 أَوْضَحَتِ البِنْتُ: کنوئیں کا کم پانی والا ہونا۔
 أَوْضَحُ بالدَّلْوِ: کہانی کھینچنا۔
 وَأَضَحَهُ وَضَاحًا وَ مَوَاضِعًا: پانی کھینچنے
 یا دوڑنے یا چلنے میں مقابلہ کرنا۔
 تَوَاضَحَ القَوْمُ: پانی کھینچنے یا دوڑنے یا چلنے
 میں مقابلہ کرنا۔
 الوَضُوحُ: پانی جو نصف ڈول تک ہو۔ پانی
 کھینچنے کی چیز۔
 وَضْرٌ يُوَضِرُ وَضْرًا: میلا پھیلا ہونا۔
 چکانٹ سے میلا ہونا۔ صفت مذکر وَضْرٌ:
 صفت مؤنث وَضْرَةٌ وَ وَضْرِي: کہا جاتا ہے
 “فَلَانٌ وَضِرٌ الْأَخْلَاقُ وَ فِي أَخْلَاقِهِ
 وَضْرٌ“ فلاں گندے اخلاق والا ہے۔
 وَضْرَةٌ: میلا پھیلا کرنا۔ کہا جاتا ہے كَانُ
 نَفْيِ العَرَضِ فَوَضْرَةٌ بِالذَّنَائَةِ“ وہ پاکیزہ
 آبرو والا تھا اور دنائت سے اس نے میلا کر دیا۔
 الوَضِرُ: س۔ چکانٹ کی وجہ سے میل کھیل
 پیالہ وغیرہ کا ہودن۔ پیالے میں کھانے کا اثر۔
 الوَضْرِي: (دو الوَضْرَاءُ) پہاڑ سے باہر
 نکلی ہوئی چٹان۔
 وَضَعَةٌ يَضَعُهُ وَضَعًا: کمینہ بنانا۔ ذلیل
 کرنا وَضَعُ عُنُقَهُ: گردن پر بالِ الحَدِيثِ:
 بات گزرا لیکتاب: تالیف کرنا۔
 السَّلَاحُ فِي العُدُوِّ: مقاتلہ کرنا عَنْ
 قَلَانٍ: رَوَالِحُ البِنَاتِ عَنْ قَلَانٍ: ناپاکی دور
 كَرِهَاصُ: اقامت کرنا وَضَعْتُ الْمَرْأَةُ
 خِمَارَهَا: بے اوڑھنی کے ہونا۔ صفت
 وَاضِعٌ: وَضَعُ الشَّيْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ: سامنے
 چھوڑ دینا فِي الطَّعَامِ كَالْحَزْبِيَّةِ او
 الحَزْبِ: ساقط کرنا۔
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضَعًا وَ مَوْضِعًا وَ
 مَوْضُوعًا الشَّيْءُ: رُكْلَ الشَّيْءِ مِنْ يَدِهِ:
 گرہن قَلَانٍ مرتبہ سے گھٹانے غَرِيْمَةٌ:

أَوْضَمَ إِصْمًا اللَّحْمَ وَ لِلْحَمِّ كُوشَتُ كُو
تختہ پر رکھنا الشَّجَرُ: ایک دوسرے کے اوپر
کرنے۔
اسْتَوْضَمَهُ اسْتِضْضَامًا. ظلم کرنے۔

الْوَضْمُ: گوشت کاٹنے کا قصائی کا تختہ۔ بَجْ
أَوْضَامٌ وَ أَوْضِمَةٌ: کہا جاتا ہے ”تَرَكْتُهُمْ
لَحْمًا عَلَيَّ وَضْمًا“ اس نے ان پر مصائب
وَال كُرُوئِيلُ کر دیا اور درود مند بنا دیا۔
الْوَضْمُ: کلڑی یا چٹائی جس پر گوشت کو مٹی
سے بجانے کیلئے رکھا جائے۔ دسترخوان۔

الْوَضِيمُ: انگشت شہادت اور بیصر کے
درمیان کا حصہ۔
الْوَضِيمَةُ: میت کا کھانا (الْوَضِيمَةُ) دوسو
کے قریب لوگوں کی جماعت۔

المِيضِمَةُ: گوشت کے تختے کے رکھنے کی
جگہ مَوَاضِمُ.
وَضْنٌ يَضُّ وَضْنَا الشَّيْءُ: تمہ یہ تمہ
رکھنا۔ ایک کو دوسرے پر موڑنا۔ دگنا کرنا۔
النَّسْعُ: ہٹنا۔
تَوَضَّنَ لَهُ: ذلیل و عاجز ہونا۔ محبوب ہونا۔
اِتَّضَنَ بِهِ: متصل ہونا۔

الْوَضِينُ: تہ بہ تہ کیا ہوا۔ چوڑا ستر۔ بال یا
تسوں سے بنا ہوا۔ اور بقول بعض ہودہ کا تنگ
بج و ضن.
المَوْضُونَةُ: باریک بنی ہوئی زرہ یا جوہر سے
بنی ہوئی زرہ۔
المِيضِيَّةُ: سمجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا۔ بج
مَوَاضِينُ.

المِيضِيَّةُ: زمیں۔ مَوَاضِينُ.
وَطًا يُوَطُّ وَطًا الوَطَاطُ: چگاڑا کا آواز
کرنا المَحْمَلُ: چڑھانا۔
وَطِيٌّ يَطُّ وَطًا الشَّيْءُ بِرَجْلِهِ: پیر سے
روندنا الفَرَسُ: گھوڑے پر سوار ہونا راض
عَدُوهُ: دشمن کے ملک میں داخل ہونا۔
وَطًا يَطُّ وَطًا الشَّيْءُ: تیار کرنا۔ آسان

کرنے۔
وَطُو يُوَطُّ وَطَانَةً وَ وَطُونَةَ المَوْضِعِ:

نرم ہونا۔
وَطًا تَوَطَّطَ الشَّيْءُ بِرَجْلِهِ: پیر سے روندنا
الفَرَّاشُ: بچھونا نرم کرنا لائیں۔ درست کرنا۔
آسان کرنا المَوْضِعُ: نرم بنانا الشَّعْرُ وَ فِيهِ:
لفظا معنا قائم دہرانا۔

أَوْطًا اِيْطَاءً فَلَانَا الأَرْضُ وَ بِالْأَرْضِ:
روندنا اِنَا اَوْطَاهُ فَرَسَهُ: سوار کرنا۔ اَوْطَاهُ
عَلَى الأَمْرِ: موافقت کرنا۔ اَوْطَا الشَّعْرُ وَ
فِي الشَّعْرِ: لفظا معنی قائم دہرانا۔

وَاطًا مَوَاطَاةً فَلَانَا عَلَى الأَمْرِ: موافقت
کرنا فِي الشَّعْرِ: لفظا معنی قائم دہرانا۔
تَوَطَّأَ فَلَانًا بِرَجْلِهِ: کپڑا۔ روندنا عَلَى
الأَمْرِ: موافقت کرنا الفَرَسُ عَلَى الأَمْرِ:

ایک دوسرے کے موافق ہونا۔
اِتَّطَا اِتِّطَاءً وَ اِيْطَاءً اِيْطَاءُ الشَّيْءِ: آسان
ہونا۔ تیار ہونا لَامَرًا: درست ہونا اور انتہا کو
پہنچانا۔

اسْتَوْطَا الشَّيْءُ: نرم پانا۔
الْوَطُوُّ س (و الوَطَاءُ) پست و نرم زمین۔
الْوِطَاءُ وَ الوِطَاءُ: فرش۔
الْوِطَاةُ: وطا کا اسم مرہ۔ قدم کی جگہ۔ بھیجنا

دباؤ۔
الْوِطَانَةُ وَ الوِطُونَةُ: زمین، آسانی۔ کہا
جاتا ہے ”أَنَا أَحَبُّ وَحْدَانَةَ العَيْشِ“ میں
خوش عیشی کو پسند کرتا ہوں۔
الْوِطَانَةُ وَ الوِطَاةُ: راستہ میں گزرنے والے
لوگ۔ الوِطَانَةُ: گرمی ہوئی کھجوریں۔

الْوِطِيُّ: پست۔ نرم آسان۔ ہموار۔ روندنا
ہوا۔
الْوِطِيَّةُ: وَطِيٌّ کا مؤنث کھجور جس کی گھٹلی
نکال کر دودھ میں گوندھیں۔ نرم عسیدہ ”أَنَا“
گھی ملا ہوا ایک کھانا شکر پیر ملا ہوا۔
المَوْطَا وَ المَوْطِيُّ: قدم کی جگہ۔

المِيْطَا: پست و نرم زمین۔
المَوْطَا: مٹی کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ مَوْطَاً
الْأَكْثَافُ“ نرم اخلاق والا قیاض مہمان نواز
مرد ”وَهُوَ مَوْطَاً العَقَبُ“ وہ ایسا فحش ہے

جس کے پیچھے بہت لوگ چلتے ہیں۔
الْوِطْبُ: دودھ کی مشک ج اَوْطَبُ وَ
وَطَابُ وَ اَوْطَابُ وَ بَجْ اَوْطَبُ: کہا جاتا
ہے صفرت و طابنہ یعنی مر گیا قتل کیا گیا۔
الْوِطْبُ بَرِيٌّ پستان۔ سخت دل والا مرد۔

الْوِطْبَاءُ: بڑی پستان والی عورت۔
وَطَحَهُ يَطْحَهُ وَطْحًا وَطْحَةً: ہاتھوں
سے زور سے ہٹانا۔
تَوَاطَحَ القَوْمُ: ایک دوسرے کے ساتھ

برائی یا جنگ کرنا۔ تَوَاطَحَتِ الإِبِلُ عَلَى
الْحَرَضِ: اونٹوں کا حوض پر بجوم کرنا۔
الْوِطْحُ: س۔ کھریا چنگل میں لگی ہوئی مٹی
وغیرہ۔

وَطَدَ يَطْدُ وَطْدًا الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔
پائیدار کرنا۔ بوجھل کرنا۔ صفت مفعولی وَطَيْدٌ
وَ مَدَّ عُلُودَ الأَرْضِ: سخت ہونے کے لیے
کرنے الشَّيْءُ اليَهُ: ملائکہ منزلتہ۔ تیار کرنا اِلَى
الأَرْضِ: جھکانا دانا الشَّيْءُ: ثابت و قائم
ہونا۔ جہاں الصَّخْرُ عَلَى العَارِ: تہ بہ تہ رکھنا۔
وَطَدَ الشَّيْءُ: بمعنی طَدَهُ.

تَوَطَّدَ: مضبوط و ثابت ہونا۔ کہا جاتا ہے
”وَطَدَهُ فَتَوَطَّدَ“ اس نے اس کو مضبوط کیا
پس وہ ہو گیا ”وَتَوَطَّدَتْ لَهُ عِنْدَهُمْ
مَنْزَلَةٌ“ ان کے نزدیک اس کا مرتبہ قائم

ہو گیا۔
الْوِطْدُ وَ الوِطِيدُ وَ المَوْطُودُ: مضبوط و
ثابت۔
الأَوْطَادُ: بہت سے پہاڑ۔

الْوِطِيدَةُ: عمارت کی بنیاد۔ پائیدار دیکھنا بج
وَطَانِدُ: کہا جاتا ہے ”أَنْتَ مِنْ وَطَانِدِ
الحَيِّ“ تو سچائی کا ستون ہے۔ ”وَلَهُ عِنْدَهُ
وَطِيدَةٌ“ اس کے نزدیک اس کا مرتبہ ہے۔
المِطِيدَةُ: درخت۔

المِطَوَاتِدُ: مضبوط۔ ہما ہوا۔ سخت۔ ایک
دوسرے کے پیچھے۔
الْوِطْرُ: حاجت۔ مطلوب۔ بج وَطَارَ: کہا
جاتا ہے ”قَضِي مِنْهُ وَطْرَةٌ وَ اَوْطَارَةٌ“ اس

نے اپنی حاجت پوری کر لی۔

وَطَسَهُ يَطْسُهُ وَطَسًا. چرمی موزہ وغیرہ سے ٹھوکر مارنا الشئی: توڑنا۔ کوٹنا۔

تَوَاطَسَ. المَوْجُ: موجوں کا باہم ٹکرانا۔ القَوْمُ عَلَيَّ: بھیڑ کرنا۔

الوَطَّاسُ: چرواہا۔

الوَطَيْسُ: تھور اور جو اس کے مشابہ ہو۔

میدان جنگ۔ کہا جاتا ہے حِمَى الوَطَيْسِ یعنی جنگ سخت ہوگی۔ جِ الوَطَيْسِ وِ الوَطَيْسِ: معاملہ کی سختی۔

وَطَسَهُ يَطْسُهُ وَطَسًا. مارنا ه عَنْ فُلَانٍ:

ہٹانا۔ دور کرنا الحَدِيثُ او الخَبْرُ: کچھ بیان

کرنا الكلام: وضاحت نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

”مَا وَطَسَ لَنَا بَشِي“ اس نے ہمیں کچھ

نہیں دیا۔

وَطَسَ الحَدِيثُ: کچھ بیان کرنا لَهُ: گفتگویا

راے یا عمل کو تیار کرنا ه: تھوڑا سا دینا الخَوْمُ

عَنْهُ: ہٹانا فِيهِ: اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صَبْرٌ نَوْهٌ

فَمَا وَطَسَ اليَهُمُ“ لوگوں نے اسے مارا اور

اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا سَالُوهُ فَمَا وَطَسَ

اليَهُمُ بَشِي“ لوگوں نے اس سے مانگا اور اس

نے کچھ نہیں دیا۔

وَطَفَ يُوْطِفُ وَطْفًا. گھسی ابروؤں اور لمبی

پلکوں والا ہونا۔ صَفْتُ اَوْطَفُ. مَوْنٌ وَصَفَاءٌ

جِ وَطْفٌ. وَطَفَ المَطْرُ: زور سے برسا۔

وَطَفَ يَطْفُ وَطْفًا. شکار وغیرہ کو بھگانا اور

اس کے پیچھے پڑنا۔

الوَطْفُ. س۔ اور کہا جاتا ہے فِى

السَّحَابَةِ وَطْفٌ“ جبکہ بادل لٹکے ہوئے

ہوں۔

ظَلَامٌ اَوْطَفُ. سخت تاریکی۔ سَحَابٌ

اَوْطَفُ: زمین سے قریب بادل۔ عامٌ

اَوْطَفُ فَرِيحٌ سَالِيٌ: عِشِشٌ اَوْطَفُ:

خوشحال زندگی۔ سَحَابَةٌ وَطْفَاءٌ: پانی سے

بوجھل ہو کر لٹکا ہوا بادل۔

الوَطْفَةُ: تھوڑے ہال۔

الوِطَاقُ: خیمہ۔ جِ وَطَافَاتُ:

وَطْمَةٌ يَطْمُ وَطْمًا. روندنا۔ وَطْمٌ

السَّتْرُ: پردہ لٹکانا۔

وَطْمٌ يُوْطِمُ وَطْمًا وَ وَطْمٌ الرَّجُلُ:

پاخانہ روندنا۔

وَطْنٌ يَطْنُ وَطْنًا وَ اَوْطُنٌ اِيْطَانًا

بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

وَطَنٌ وَ اَوْطُنٌ وَ تُوْطِنُ وَ اَتَّطِنُ وَ

اِسْتُوْطِنُ البَلَدَ وَطِنًا. بنانا۔ وَطَنٌ نَفْسُهُ

عَلَى الاَمْرِ وَ لاَمْرٌ: آمادہ کرنا۔ براہِجِنْتِ

كَرْنَا. تُوْطِنْتُ نَفْسَهُ عَلَيَّ كَذَا: اس کا

نفس فلاں پر براہِجِنْتِ کیا گیا۔

وَاطِنَةٌ عَلَيَّ الاَمْرُ: کسی کے ساتھ کوئی کام

کرنے کو دل میں پوشیدہ کرنا۔

الوِطْنُ. جائے سکونت۔ اقامت گاہ۔ مَوِثِيٌّ

بِاَدْمَعِيٍّ جِ: جِ اِطْاَنُ.

المَوْطِنُ. وِطْنٌ. میدان جنگ۔ جِ مَوَاطِنُ.

المِيْطَانُ. غایت۔ انتہا۔ گھوڑ دوڑ کے میدان

میں جہاں سے گھوڑے چھوڑے جائیں۔ اور

آخری جگہ کو مِيْطَانٌ وَ مِيْطَانٌ کہتے ہیں۔

وَطُوْطٌ. کزور ہونا۔ جلدی ہونا۔

الوِطُوْاطُ. چگاڑا۔ ایک قسم کی پہاڑی ابا تیل

جِ وَطَاوِطٌ وَ وَطَاوِيْطٌ. الوِطُوْاطُ: کزور

عقل والا آدمی۔ جلدی بولنے والا۔

الوِطُوْاطَةُ. جلدی بولنے والی۔ چیخنے چلانے

والی۔

وَطِيٌّ تُوْطِيَةُ الشَّيْءِ: پست کرنا۔ مرتبہ

گھٹانا۔

تُوْطِيٌّ. پست ہونا۔ مرتبہ گھٹنا۔ وَطًا وَ

تُوْطًا میں ایک لغت ہے۔

وَطَبٌ يَطْبُ وَطْبًا وَ حَوْبًا الاَمْرُ وَ عَلَيَّ

الاَمْرُ: بھیٹکی کرنا۔ صَفْتُ وَاطَبٌ (وَطْبًا)

الشَّيْءِ: روندنا۔

وَاطَبٌ مَوَاطِبًا عَلَيَّ الاَمْرُ: مداومت

کرنا۔

ه عَلَيَّ خِدْمَةُ فُلَانٍ: براہِجِنْتِ کرنا۔ آسانا۔

تَوَاطَبَ عَلَيْهِ الرِّيَّاحُ: لگاتار پے در پے

آنا۔

المِيْطَبُ: گول تیز پتھر۔

المَوْطُوْبُ. س۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ

مَوْطُوْبٌ“ ایسا مرد جس کے مال پر بار بار تباہی

آئی ہو۔

وَظَرَ يُوْظِرُ وَظْرًا. مٹانا پڑ گوشت ہونا۔

صَفْتُ وَظْرًا:

وَظْفٌ يَظْفُ وَظْفًا البَعِيْرُ: پاؤں کی رسی

چھوٹی کرنا۔ چنڈی پر مارنا القَوْمُ: بیرونی کرنا۔

الشَّيْءُ عَلَيَّ نَفْسُهُ: لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔

وَظَفٌ. روزیہ مقرر کرنا۔ وظیفہ مقرر کرنا۔

وَظَفٌ عَلَيْهِ عَمَلًا: کام مقرر کرنا۔ کہا جاتا

ہے ”وَظَفَ لَهُ الرِّزْقَ وَ لِدَابِيْهِ العَلْفُ“

اس نے اس کے لئے روزی اور چوپائے کے

لئے چارہ مقرر کیا وَ وَظَفَ عَلَيَّ الصَّبِيَّ كُلَّ

يَوْمٍ حِفْظَ آيَاتٍ مِنَ كِتَابِ اللّٰهِ اس نے

مجھے ہر روز چند آیتیں یاد کرنے کے لئے مقرر

کیں۔

وَاطْفَةٌ. موافقت کرنا۔ ہمیشہ ساتھ رہنا۔

اِسْتُوْطِفَ. الشَّيْءُ: پورا لے لینا۔

الوِطِيْفُ. گھوڑے یا اونٹ وغیرہ کی چنڈی کا

پتلا حصہ جِ وَطْفٌ وَ اَوَا اِطْفَةٌ. الوِطِيْفُ:

سخت زمین پر چلنے پر قادر مرد۔ کہا جاتا ہے

”جَانَتِ الْاِبِلُ عَلَيَّ وَطِيْفٌ رَاجِدٌ“

اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے گویا کہ ایک قطار

میں آئے۔

الوِطِيْفَةُ. عمل معین۔ روزیہ۔ رزق وغیرہ

عہد و شرط جِ وَطَائِفٌ وَ وَطْفٌ. اور بسا

اوقات منصب اور خدمت کیلئے بھی استعمال کیا

جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ”لِلدُّنْيَا وَطَائِفٌ“

یعنی دنیا بابت سہل سہل رہتی ہے۔

الوَيْغُ. گیدڑ۔ گیدڑ کی آواز کی نقل۔ بچے کے

رونے کی آواز۔

وَعبٌ يَعبُ وَعبًا الشَّيْءُ: سب لے لینا۔

اَوْعَبُ اِيْعَابًا الشَّيْءُ: سب لے لینا۔ جمع

کرنا الاَمْرُ: فارغ ہونا الرَّجُلُ: پوری زبان

کاٹ لینا الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: پورا داخل کر دینا

فِي مَا لِبِضُولِ خِرْمِي كَرْنَا الْقَوْحُورِي قَوْمَ
كَانُكَلْ جَانَا۔

اِسْتَوْعَبَ اِسْتَيْعَابًا الشَّيْءَ سَبَّ لَيْلَانَا۔
جز سے اظہیرنا اَلْحَدِيثُ پوری بات حاصل
کرنا اَلْمَكَانَ او اَلْوَعَاءُ الشَّيْءِ سَبَّ جَانُش
ہونا۔

اَلْوَعْبُ كَشَادَه رَاسْتَه۔ ج وَعَاب۔
اَلْوَعِيْبُ كَشَادَه۔ کہا جاتا ہے "نَيْتٌ
وَعِيْبٌ وَوَعَاءٌ وَعِيْبٌ طَرَاخٌ مَكَانٌ۔
فَرَاخٌ بَرْتَن۔

اَلْمَوْعِبُ كَشَادَه كَمَا هُوَا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
اَوْعَبٌ لِكَذَا" فلاں چیز کے حاصل کرنے
کے لائق ہے۔

وَعَتْ يُوَعْتُ وَعْتًا وَوَعْتًا وَوَعْتُ
يُوَعْتُ وَوَعْتًا اَلطَّرِيقُ رَاسْتَه دَشْوَارُ گَزَارُ
ہونا اَلْاَمْرُ بَرُّز ہونا۔ خراب ہونا۔ صفت
وَعْتُ وَوَعْتُ وَوَعْتُ وَوَعْتُ
وَعْتٌ تَوَعْتُ وَوَعْتًا يَدْفَاهُ تَجْهُ نُوْثَا
صفت وَوَعْتًا۔

وَعْتًا تَوَعِيْنَا عَنِ اَلْاَمْرِ مَا رَكْنَا۔
اَعْتَبْتُ بَحْتِ دَشْوَارُ گَزَارُ رَاسْتَه مِيں پَرْنَا
اَلرَّجُلُ خَلَطَ مَلَطَ كَرْنَا۔ دَشْوَارُ گَزَارُ رَاسْتَه مِيں
چلنا فِي مَا لِبِضُولِ خِرْمِي كَرْنَا۔ اَلْمُتَكَلِّمُ
گفتگو سے عاجز ہونا اَلْاَمْرُ لَگَا نَا۔ فَا سَدَ كَرْنَا
فَلَا تَلَا دَشْوَارُ گَزَارُ رَاسْتَه مِيں چلنے پر بَر اِيجِيْتَه
کرنا۔

اَلْوَعْتُ بِي۔ توڑی ہوئی ہڈی۔ لاغری۔
سخت دَشْوَار۔ دَشْوَارُ گَزَارُ رَاسْتَه۔ ہر مشکل کام
ج وَعْتُ وَوَعْتُ۔
اَلْوَعْتَا بَشَقْت۔ تھکن۔ ہر بری خصلت۔
کہا جاتا ہے "رَكِبَ اَلْوَعْتَا بِيْنِي لِنَا" کا
ار تَلَابُ كَمَا۔

اَلْوَعُوْتُ سَخِي وَبِرَائِي۔
اَلْمَوْعُوْتُ نَقْصٌ حَسْبِ دَالَا۔

وَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا وَعْدًا وَوَعْدًا
مَوْعِدَةٌ وَوَعْدَةٌ وَوَعْدَةٌ فَلَانَا
اَلْاَمْرُ وَبِاَلْاَمْرِ وَعَدَه كَرْنَا۔ وَعَدَتِ

اَلْاَرْضُ جَمْعُه فَضْلُ هُوْنَه كِي اُمِيْدُ هُوْنَا
(وَعِيْدًا) اَلرَّجُلُ دَهْمِكِي دِيْنَا اَلْفَحْلُ
بُرْزَانَا۔

اَوْعَدَه اِبْعَادًا مَعْدَه كَرْنَا۔ دَهْمِكِي دِيْنَا۔
وَاعْدَه مَوْاعِدًا يَكُ دَوْسَرَه سَه وَعَدَه
كَرْنَا هُوَ اَلْمَوْضِعُ او اَلْوَقْتُ مَعْدَه پُورَا كَرْنَه
كِيلَه جگہ یا وقت مقرر كَرْنَا۔

تَوَاعَدَ وَاتَّعَدَ اَلْقَوْمُ يَكُ دَوْسَرَه سَه
وَعَدَه كَرْنَا۔

تَوَاعَدُوا هَمَكِي دِيْنَا۔
اَتَّعَدَ اِتْعَادًا مَعْدَه قَوْلُ كَرْنَا اور بھروسہ كَرْنَا
هُ هَمَكِي دِيْنَا۔

اِبْتَعَدَ يَاتَعَدُ فَهُوَ مَوْتَعِدٌ۔ اِتَّعَلَّ اِيَكُ
ضَعِيْفٌ لَخْتِ هُوَ۔

اِسْتَوْعَدُوْهُ مَعْدَه كَرْنَا۔
اَلْوَعْدُ مِيں۔ بعضوں کے نزدیک اس کی جمع
نہیں آتی اور بعض کے نزدیک اس کی جمع
وُعُوْتُ ہوتی ہے۔

اَلْعِدَّةُ مَعْدَه۔
اَلْمَوْعِدُ مِيں۔ وعدہ کا وقت۔ وعدہ کی

جگہ۔ عہد۔ ج مَوَاعِدُ
اَلْمِيْعَا مَعْدَه کا وقت۔ وعدہ کی جگہ۔ بمعنی
مَوَاعِدُ مَوَاعِيْدُ
اَمَوْعُوْدُ۔ اَلْيَوْمُ اَلْمَوْعُوْدُ قِيَامَتِ كَا
دن۔

وَعَرَّ يَعِرُّ وَعْرًا فَلَانَا وَوَعْرًا (وَعْرًا)
وَوَعْرًا وَوَعْرًا وَوَعْرًا وَوَعْرًا وَوَعْرًا
يُوَعِرُّ وَوَعْرًا وَوَعْرًا (وَعْرًا) اَلْمَكَانُ بَحْتِ
ہونا۔ دَشْوَارُ گَزَارُ ہونا۔ صفت وَعْرٌ وَوَعْرٌ
اَلشَّيْءُ كَمُ ہونا۔ صفت وَعْرٌ كَمَا جاتا ہے
"رَجُلٌ وَعْرٌ اَلْمَعْرُوفُ خَلَدٌ كَمُ اِحْسَانٌ وَكَمُ
خِيْر۔

وَعَرَ اَلْمَكَانَ بَحْتِ بَنَانَا اَلرَّجُلُ زَوَكْنَا۔
ہٹانا اَلْمُتَكَلِّمَاتِ كَا تِ دِيْنَا۔

اَوْعَرَ اِبْعَارًا بِه اَلطَّرِيقُ رَاسْتَه دَشْوَارُ ہونا۔
سخت جگہ مِيں پہنچانا اَلرَّجُلُ بَحْتِ زَمِيْنِ مِيں
پڑنا۔ كَمُ مَالٌ دَالَا ہونا اَلشَّيْءُ كَمُ كَرْنَا (و)

اِسْتَوَعَرَ اَلْمَكَانَ او اَلطَّرِيقُ دَشْوَارُ
سخت پانا۔

تَوَعَرَ اَلْمَكَانَ بَحْتِ ہونا اَلْاَمْرُ عَلَيَّ
سخت و مشکل ہونا اَلرَّجُلُ سَخِي كَرْنَا فِي
اَلكَلَامِ رَشِيْتِ وَتَمِيْمِ ہونا هُوَ فِي اَلكَلَامِ
خِيْرَانُ بَنَانَا۔

اَلرَّوَاعِرُ دَشْوَارُ (وَالْوَعْرُجُ) اَوْعُرُ وَ
وَعْرٌ وَوَعَارٌ وَوَعْرَةٌ۔ وَوَعْرِيْنِ
اَوْعَارُ۔

اَلْاَوْعُرُ بَحْتِ جگہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ
وَعْرٌ او طَّرِيقٌ وَعْرٌ او مَطْلَبٌ وَعْرٌ"
سخت جگہ یا رَاسْتَه یا مطلب۔ اَلْوَعْرُ خَوْنَاكُ
مَتَوَشَّحٌ جگہ۔

اَلْوَعْرِيُّ مِيْنِ اَلكَلَامِ قَبِيْلُ اَلِاسْتِعْمَالِ جُو
ثَقِيْلٌ اور ذوق پر گراں ہوا۔

وَعَزَّ يَعْزُ وَعْرًا وَوَعْرًا تَوَعِيْنَا وَوَعْرًا
اِبْعَارًا اَلْبِهْ فِي كَذَا اَنَّ يَتَّعَلُّ او يَتْرُكُهْ۔
آگے بڑھ کر فعل یا ترک فعل کا اشارہ كَرْنَا۔

وَعَسَّ يَعْسُ وَعَسًا اَلشَّيْءُ رَوَدْنَا هُوَ
اَلذَّهْرُ تَجْرِبَه كَار بَنَانَا۔

اَوْعَسَّ اِبْعَارًا اَلْقَوْمُ بِيْسْتَانِ مِيں چلنا۔
رات مِيں چلنا۔ اَوْعَسَّتِ اَلْاِبِلُ اَوْنَتِ كَا
چلنے مِيں گردن لہی اور قدم كَشَادَه كَرْنَا۔

وَاعْسَبَتِ رَاْتِ كَه وَوَقْتِ چلنے مِيں مقابلہ
كَرْنَا۔ وَاعْسَبَتِ اَلْاِبِلُ چلنے مِيں گردن لہی
اور قدم كَشَادَه كَرْنَا۔

اَلْوَعْسُ بِي۔ نشان۔ ریت جس مِيں چلنا
دَشْوَار ہوا۔ درخت کا نام جس کی لکڑی سے بربط
اور باب وغیرہ بناتے ہیں۔ ج اَوْعَسَّ
اَلْوَعْسِيْتِ جس مِيں قدم دھس جائیں
اور چلنا دَشْوَار ہوا۔

اَلْاَوْعَسُّ وہ جگہ جہاں نرم ریت ہو اور چلنا
دَشْوَار ہوا۔ ج وَعَسَّ وَوَعَسَّ وَوَعَسَّ
اَوَاعَسَّ۔

اَلْوَعْسَاءُ نرم ریت کا ٹیلہ جس مِيں عمدہ
سبزیاں پیدا ہوں۔

اَلْمَوْعَسُّ رِيْتِ جس مِيں چلنا دَشْوَار ہوا۔

المیغاس نرم ریت۔ زمین جس پر کوئی نہ کوئی چلا ہو۔ راستہ۔ ج مَوَاعِيسِ
المَوَاعِيسِ چلا ہو راستہ۔
الوعاظ سرخ یا زرد گلاب۔
وَعظُه يَعْظُه وَعظًا وَعِظَةٌ بصیحت کرنا۔
توبہ کرنے والی اور اصلاح اخلاق پر بھیجتے
کرنے والی باتیں یاد دلانا۔
اتَّعَطَّ بصیحت قبول کرنا۔ بصیحت پر عمل
کرنا۔

الْوَعْظَةُ وَعِظَةٌ اسم مرّة۔ وعظ و بصیحت
ج وَعِظَاتٍ۔
العِظَةُ وعِظَةٌ و بصیحت ج عِظَاتٍ۔
الواعِظَاتُ ج واعِظُونَ و واعِظَاتُ۔
الواعِظَاتُ واعِظَاتُ اسم مبالغہ۔
المَوَاعِظَةُ وعِظَةٌ اسم ہے۔ وعظ و بصیحت ج
مَوَاعِظٍ۔
وَعَفَّ يُوَعِّفُ وُعُوفًا البصُرُ نَظَرٌ كَاكْزُورٍ
ہونا۔

الوَعْفُ بخت زمین جس میں پانی ٹھہر جائے
ج وَعَافٍ۔
وَعَقَّ يَعْقُ وِعْقًا و وَعَاقًا و وَعِيقًا
الفرس گھوڑے کے چلتے ہوئے پیٹ میں
گڑگڑاہٹ ہونا۔

وَعَقَّ يَعْقُ وِعْقًا عَلَيْهِ جلدی کرنا۔
وَعَقَّ يُوَعِّقُ وِعْقَةً و تَوَعَّقَ و استَوَعَّقَ
کینہ خصلت والا ہونا۔ صفت وَعَقٌّ و وَعِيقٌ
و وَعِيقَةٌ و وَعِيقَةٌ۔
وَعِيقَةٌ مخالفت کرنا۔ روکنا۔ بد خوئی کی
طرف نسبت کرنا۔ فاسد کرنا۔ کہا جاتا ہے
”وَعِيقَةُ الظَّمْعِ او الجهلُ اس کو لالچ یا
جہالت نے خراب کر دیا۔ کہا جاتا ہے ”ما
أَوْعِقُهُ لَوْ كَسَّ قَدْرٌ جلد ہانپے۔

الوَعِيقَةُ اسم مرّة۔ بد خلقی۔ درشت خوئی۔
کہا جاتا ہے ”بہ وِعِيقَةٌ اس کے ساتھ بد خلقی
ہے یعنی وہ بد خلق ہے۔
الوَعِاقُ و الوَعِيقُ چلنے کے وقت گھوڑے
کے پیٹ کی آواز۔ ہر چیز کی آواز۔

وَعَكَ يَعْكُ وِعْكَا و وَعِكَةٌ الحَرْمَلُ
تیز ہونا۔ و اعكته الحَمْصِي تیز بخار چڑھنا۔
صفت مفعول مَوْعُوكَ الرَّجُلُ: تھکن یا
مرض کی وجہ سے تکلیف پہنچنا (وَعِكَا)
الشَّيْءُ: تُوَزِنَا (وَأَوْعَكَ) الشَّيْءُ فِي
التَّرَابِ: مٹی میں لوٹ پوٹ کرنا۔
أَوْعَكَتِ الإِبِلُ عِنْدَ الحَوْضِ بصیحت کرنا۔
تَوَعَّكَ بخار چڑھنا۔

الْوَعْكَ: (وَالْوَعْكَ وَالْمَوْعُوكُ)
بخار والا۔
الْوَعِكَةُ: وِعْكَ اسم مرّة۔ ہوا کا زکنا
اور گرمی کا بڑھنا۔ دوڑنے میں سخت کرنا۔
میدان جنگ۔ مرض۔ وِعْكَةٌ الحَمْصِي بخار
کی تیزی۔ وِعْكَةٌ الأمرُ معاملة کی سختی۔
وِعْكَةٌ الإِبِلُ اُونٹوں کے گلے۔

المَوْعُوكُ: بخار والا۔
وَعَلَّ يَعْلُ وِعْلًا الرَّجُلُ اُوپر سے جھانکنا۔
تَوَعَّلَ الحِجْلُ پہاڑ پر چڑھنا۔
اِسْتَوْعَلَ اليه: پناہ لینا۔ اِسْتَوْعَلَتْ
الأَوْعَالَ پہاڑی کبروں کا پہاڑ کی چوٹی پر
چڑھنا۔

الْوَعْلُ و الوَعْلُ و الوَعْلُ پہاڑی بکر۔ ج
أَوْعَالَ و وُعُولٌ و وُعْلٌ و وِعْلَةٌ و
مَوْعِلَةٌ آخر کے دو اسم جمع ہیں۔ مَوْنُثٌ وِعْلَةٌ
ج وِعْلَاتٌ و وِعَالَ الوَعْلُ شریف۔
جائے پناہ۔ ج أَوْعَالَ و وُعُولٌ کہا جاتا ہے
”مَا لَكَ عَنهُ وُعْلٌ“ تجھے اس سے کوئی چارہ
نہیں ”وَهُمْ عَلَيْنَا وُعْلٌ وَّاحِدٌ“ وہ سب
ہمارے خلاف عداوت میں متفق ہیں۔

الْوَعْلَةُ پہاڑ میں بلند جگہ مِنَ الْقَمِينِص
قیص کا کلمہ۔ وِعْلَةٌ الإِبْرِيْقُ بونے کا دستہ۔
المُسْتَوْعِلُ پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑی بکرے
کی جائے پناہ ج مَسْتَوْعِلَاتٍ۔

وَعِمٌ و وَعِمٌ يَعِمٌ وِعْمًا البِدْيَارُ خوش
باش کہنا اور اسی سے ہے ”عِمٌ صَبَاحًا وِعِمٌ
مَسَاءً“ و عِمٌ بِالْحَيْرِ بَنِي كَيْبَرٍ دینا۔
الوَعِمُ: پہاڑ میں نشان جو بقیہ رنگ کے

مخالف ہوج و عام۔
تَوَعَّنَ الشَّيْءَ پورا لے لینا۔ تَوَعَّنَتْ
الدَّائِبَةُ پائے کا انتہائی موٹا ہونا۔
الْوَعْنُ و الوَعْنَةُ بخت زمین۔ زمین میں
سفید جگہ جہاں کچھ نہ اُگے ج و عَانَ. الوَعْنُ:
جائے پناہ۔

وَعَوَاعٌ و وَعَوَاعَةٌ و وَعَوَاعًا الكَلْبُ او
ابنِ آوَى يَهْوِكُنَا القَوْمُ شور مچانا القَوْمُ:
قوم کو جھڑ جھڑانا۔
الوَعَوَاعُ: لوگوں کی جماعت جو شور
مچاتی ہو۔ بیہودہ گو۔ گیدڑ یا کتے کی آواز'
دیدبان۔

الوَعْوَعُ: گیدڑ۔ لومڑی۔ بلخ خطیب۔
بیبان۔ دیدبان ج وَعَوَاعٌ. الوَعَوَاعُ:
دلاور لوگ۔ الوَعْوَعِيُّ: خوش طبع تیز
خاطر۔

وَعَى يَعْى وِعْيًا الشَّيْءُ: جمع کرنا
الحَدِيثُ: قبول کرنا۔ غور کرنا۔ یاد کرنا
الأذُنُ بِنَا القَبِيحُ فِي الجُرْحِ پيپ کا زخم
میں جمع ہونا الجُرْحُ زخم سے پیپ بہنا
العِظْمُ بَدِي كَالوُنَّةِ کے بعد درست ہونا۔

أَوْعَى اِيْعَاءًا الكَلَامُ او الشَّيْءُ یاد کرنا۔
جمع کرنا الزَّادُ و نَحْوُهُ برتن میں رکھنا
الرَّجُلُ و عَلَيْهِ: بکل کرنا (و اِسْتَوْعَى
اِسْتِيعَاءً) الشَّيْءُ اِيْرَانًا۔

الوَعَى: پیپ (و الوَعَى) شور۔ اور کہا
جاتا ہے ”مَا لِي عَنهُ وِعْيٌ“ مجھے اس سے
کوئی چارہ نہیں۔ ”فَرَسٌ وِعْيٌ“ مضبوط و
قوی گھوڑا۔

الوَعَاءُ و الوَعَاءُ برتن ج أَوْعِيَةٌ ج
أَوْاعٍ۔
الوَاعِيَةُ: وَاعِي اليَسِيمِ: یتیم کا والی و
نگہبان۔

الوَاعِيَةُ: وَاعِي كَامُونُثُ آواز۔ جیج کہا جاتا
ہے هُوَ أَوْعِيٌ مِنَ فَلَانٍ لَوْهَ فَلَاسٌ سے زیادہ
یاد کرنے والا اور زیادہ سمجھدار ہے۔ ”وَهُوَ
أَوْعِيٌ مِنَ نَمَلِيَّةٍ“ وہ چیونٹی سے زیادہ جمع

کرنے والا ہے۔

الْوَعْبُ يَدُورُ فِي الْوَعْبِ وَالْوَعْبُ

وَعَائِيَاتُ الْبُرُودِ نَبَاتٌ جَنُّ كَيْفَ يَجِيءُ
هَوْنًا هَوْنًا جَسْمًا يَدُورُ فِي الْوَعْبِ

مَوْعِي الرِّبْعُ مَضُوطٌ كَلَانِي وَالْوَعْبُ
وَعَبٌ يَوْعُبُ وَغَابَةٌ وَوَعْبَةٌ الْجَمَلُ
أُونْتُ كَامُونًا هَوْنًا

الْوَعْبُ رَدِي سَامَانٌ مَوْنًا أُونْتُ كَمَزُورٍ
جَسْمٌ وَالْوَعْبُ كَمِينَةٌ رُوَيْلٌ بَجٌ أَوْغَابٌ وَ
وَعَابٌ مَوْنٌ وَعَبَةٌ (وَالْوَعْبَةُ)

بِوَقُوفٍ

وَعَدٌ يَعِدُ وَعَدًا الْقَوْمُ خِدْمَتُ كَرْنَا

وَعَدٌ يَوْعُدُ وَعَادَةٌ ضَعِيفُ الْعَقْلِ وَكَمِينَةٌ
هَوْنًا

وَأَعَدُّهُ مَوَاعِدَةً كَسَى كَيْفَ فَعْلٌ كَيْفَ نَقْلٌ
كَرْنَا وَأَعَدُّ فَلَانًا فِي السِّيَرِ زَقَارًا فِي
مُقَابَلَةِ كَرْنَا

الْوَعْدُ ضَعِيفُ الْعَقْلِ بِوَقُوفٍ كَمِينَةٌ
بَجٌّ قَوْمٌ كَأَخَادِمٍ غَلَامٌ بَجٌ أَوْعَادٌ وَوَعْدَانٌ
وَوَعْدَانٌ مَوْنٌ وَعَدَةٌ الْوَعْدُ بَجٌّ كَرْنَا
أَيْ تَبْرُجُ كَأَكُونِي حَصَّةً نَهَيْتُ شَكَرًا

وَعَرٌ يَغْرُ وَغَرًا الْيَوْمُ بَحْتٌ غَرْمٌ هَوْنًا
وَعَرْتُهُ الشَّمْسُ تَبْرُجُ هَوْنًا (وَعَرٌ وَغَرٌ
يَوْعُرُ وَيَغْرُ وَغَرًا) صَدْرُهُ عَلِيُّ فَلَانٌ
غَضَبٌ سَهْمُوكٌ ائْتَنًا

وَعَرَةٌ تَوْعِيرًا عَلَيْهِ كَمِينَةٌ رَكْنٌ بِرَأَيْحَتِهِ
كَرْنَا

أَوْعَرُهُ إِبْعَارًا غَضَبْنَا كَرْنَا أَوْعَرُ
صَدْرُهُ فَهْوَةٌ سَهْمُوكَا الْبَمَاءُ يَدُورُ فِي الْوَعْبِ
إِلَى كَذَا نَهَاهُ لِيَنْبُرُ بِمَجْمُورٍ كَرْنَا الْجَنْزِيرُ نَسْرُورُ
كَيْفَ بَالُونَ كَوْمُورٍ يَدُورُ فِي الْوَعْبِ كَرْنَا
كَرْنَا "أَوْعَرُ الْمَلِكُ لِرُجُلِي أَرْضًا

وَأَوْعَرَهُ أَرْضًا" بَغِيرُ خِرَابٍ كَيْفَ زَمِينٌ دِينًا
الْقَوْمُ كَرْنَا كَيْفَ فِي الْوَعْبِ دَاخِلٌ هَوْنًا
أَوْعَرُوا بَيْنَهُمْ مِعْرَا" بَاهِمٌ وَقْتُ مَقْرُورٍ
كَرْنَا

تَوْعَرُ غَضَبٌ سَهْمُوكٌ ائْتَنًا

الْوَعْرُ وَالْوَعْرُ كَمِينَةٌ دَخْسِي وَوَعْرٌ
الْحَبْسُ لَشْرُوكَا شُورُ

الْوَعْرَةُ اسْمُ مَرَةٍ كَرْنَا كَيْفَ كَرْنَا
هِيَ لَقِيْتُهُ فِي وَعْرَةِ الْهَاجِرَةِ فِي نَسِ
سَهْمُوكَا كَرْنَا فِي مَلَاكَاتِ كَرْنَا
الْوَعِيرُ كَرْنَا كَرْنَا كَرْنَا
(وَالْوَعِيرَةُ) كَرْنَا كَرْنَا كَرْنَا

دَوْدَهُ
الْمَيْعَرُ وَقْتُ مَعِينَةٍ وَعَدَةٌ
وَعَفٌ يَغْفُ وَغَفًا وَوَعْفًا الْبَصْرُ نَهَاةٌ

كَرْنَا هَوْنًا الْوَعْفُ جَلْدِي جَلْدِي جَلْدِي
أَوْعَفٌ إِيغَافًا الْوَعْفُ جَلْدِي جَلْدِي
دَوْرًا كَرْنَا كَرْنَا هَوْنًا بَقَرًا كَفَايَتُ كَرْنَا
كَرْنَا

الْكَلْبُ كَرْنَا كَرْنَا الطَّائِرُ نَهْدُهُ كَرْنَا
جَلْدِي بِرَهْمُوكَا جَلْدِي

وَعَلٌ يَغْلُ وَوَعُولًا فِي الشَّيْءِ دَاخِلٌ هَوْنًا
جَلْدِي جَلْدِي جَلْدِي جَلْدِي جَلْدِي
وَعَلَانًا عَلِيُّ الْقَوْمُ بَغِيرُ بَلَاءٍ هَوْنًا
شَرَابٌ كَيْفَ فِي كَرْنَا

أَوْعَلٌ إِيغَالًا فَلَانًا فِي كَرْنَا
فِي السِّيَرِ تَبْرُجُ جَلْدِي فِي الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ
بُورِي طَرَحٌ جَدُوجُهُ كَرْنَا الْقَوْمُ دَخْسِي كَرْنَا
مَلِكٌ فِي دَوْرٍ نَهْدُهُ هَوْنًا جَلْدِي جَلْدِي
(وَتَوْعَلٌ) فِي الْبِلَادِ نَهْدُهُ دَوْرًا كَرْنَا

الْوَعْلُ سَهْمُوكَا فَرَمَايَةُ كَرْنَا كَرْنَا
بَغِيرُ بَلَاءٍ هَوْنًا كَرْنَا فِي نَهْدِهِ هَوْنًا

جَلْدِي نَهْدُهُ كَرْنَا كَرْنَا كَرْنَا
سَهْمُوكَا دَخْسِي جَلْدِي جَلْدِي جَلْدِي
نَسْبٌ كَرْنَا كَرْنَا دَخْسِي

الْوَعَالُ وَصَفٌ بَيَانٌ كَرْنَا فِي مَبَالِغِهِ
كَرْنَا وَالْوَعَالُ كَرْنَا فِي مَبَالِغِهِ

الْمَوْعَلُ جَلْدِي دَاخِلٌ هَوْنًا
وَعَمَةٌ يَغْمُهُ وَعَمًا مَقْلُوبٌ كَرْنَا
بِالْحَبْسِ جَلْدِي كَرْنَا كَرْنَا
إِلَى الشَّيْءِ خِيَالٌ جَلْدِي

وَعَمٌ يَوْعُمُ وَغَمًا عَلَيْهِ كَمِينَةٌ كَرْنَا

أَوْعَمَهُ كَمِينَةٌ دَرْنَا

تَوْعَمَةٌ عَلَيْهِ غَضَبْنَا هَوْنًا (تَوْعَمٌ)
الْإِبْطَالُ فِي الْحَرْبِ بَحْتٌ جَلْدِي كَرْنَا
بَقُولٌ بَعْضُ آدَمِي تَرَجَمِي نَهْدُهُ

الْوَعْمُ سَهْمُوكَا فِي بَيْضًا هَوْنًا لِرَأْيٍ
مَقَاتِلَةٍ نَهْدُهُ بَقُولٌ كَرْنَا فِي سَهْمُوكَا
جَلْدِي جَلْدِي جَلْدِي جَلْدِي
تَوْعَمٌ نَوْعَمًا جَلْدِي فِي بَيْضٍ قَدَمِي كَرْنَا

عَلِيُّ الْمَعَاصِي أَمْرًا كَرْنَا
الْوَعْيُ وَالْوَعْيُ شُورًا وَأَوْرًا لِرَأْيٍ

وَقَدْ يَنْدُ وَقْدًا وَوُقُودًا وَوَقَادَةٌ
إِفَادَةٌ إِلَى أَوْ عَلِيُّ الْأَمِيرِ تَامِدٌ بِنِ كَرْنَا
آتًا صَفْتٌ وَإِفْدَجٌ وَقَدْ وَوُقُودٌ وَقَادَةٌ
وَقَدْ وَوُقَادَةٌ

أَوْقَدُ إِيغَادًا بَلْدُهُ عَلَيْهِ هَوْنًا
جَمَانًا نَوْقَدَتِ الْإِبِلُ أَوْ الطَّيْرُ أَيْكٌ
دَوْرًا سَهْمُوكَا نَهْدُهُ

تَوْقَدُ الْقَوْمُ عَلَيْهِ كَرْنَا هَوْنًا
إِسْتَوْقَدُ فِي قَعْدَتِهِ بَغِيرُ مَطْمِنٌ بَيْضَانًا
(نَهْدُهُ) بَغِيرُ مَطْمِنٌ بَيْضَانًا

الْوَقْدُ سَهْمُوكَا وَفِدْلِي جَمْعٌ وَهَوْنًا جَلْدِي
كَيْفَ شَهْرٌ فِي جَلْدِي هَوْنًا كَرْنَا كَرْنَا
غَرَضٌ كَيْفَ بَادِشَاهَا حَاكِمٌ كَيْفَ جَلْدِي
الْوَقْدُ رَيْتُ كَيْفَ كَيْفَ جَلْدِي جَلْدِي
أَوْقَادٌ

الْوَقَادَةُ مِنْ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا سَهْمُوكَا
أَكْرَهُ رَهْمًا وَالْوَقَادَةُ رَخْسَارٌ كَرْنَا
جَلْدِي كَرْنَا هَوْنًا

الْوَقَادُ بَهْتٌ وَنَدْوَالًا
وَقَرٌ يَغْرُ وَوَقْرًا وَوَقْرَةٌ لَهُ الْمَالُ زِيَادَةٌ كَرْنَا
بُورِي كَرْنَا عَرَضٌ فَلَانٌ خَفَاةٌ كَرْنَا كَرْنَا
دِينًا كَرْنَا هَوْنًا "وَقْرَتُهُ عَرَضَةٌ" كَرْنَا
تَعْرِيفٌ كَرْنَا عَرِيْبٌ جَلْدِي كَرْنَا عَطَانُكُ

رَضَامِدِي كَرْنَا سَهْمُوكَا وَبِهِ كَرْنَا كَرْنَا
وَبِهِ كَرْنَا الْقَوْمُ كَرْنَا كَرْنَا
(وَقْرًا وَوَقْرًا وَوَقْرَةٌ وَوَقْرٌ يَوْفُرُ
وَقَارَةٌ الْمَالُ أَوْ الْمَتَاعُ نَالٌ يَسَامَانٌ

بکثرت ہوتا۔

وَقَرَّ تَوْفِيرًا الشَّيْءُ: زیادہ کرنا لَفْلَانِ عَرْضَهُ: حفاظت کرنا۔ گلی نہ دینا المَالِ: کسی نہ کرنا حِصَّةً مِنَ المَالِ: باقی رکھنا۔ عَلَيْهِ حَقُّهُ: پورا حق دینا الثَّوْبُ: کپڑا کشادہ قطع کرنا لَفْلَانِ طَعَامَهُ: پوری خوراک دینا اللَّهُ حَقُّهُ مِنْ كَذَا: کامل کرنا۔

أَوْقَرُ فَلَانِ الشَّيْءِ: زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔ پورا کرنا۔

تَوَفَّرَ عَلَيَّ كَذَا: ہمت صرف کرنا علی صَاحِبِهِ: حرمت و عزت کا پاس دلگذا کرنا۔

تَوَافَرُ وَاتَّفَرَ الشَّيْءُ: زیادہ ہونا۔

اسْتَوْفَرَ الشَّيْءُ: پورا کرنا الحَقُّ: پورا حق لینا۔

الْوَفْرُ: س۔ تو انگری میں المَالِ او المَتَاعِ بہتات۔ کثرت۔ یا صرف مال و متاع ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کیلئے عام ہے۔ ج و فُورٌ۔

الْوَفْرَةُ: اسم مرۃ۔ کثرت۔ بہتات۔ کانوں تک لگے ہوئے بال ج و فَا۔

الْوَاغِرُ: فَا۔ علم عروض کی ایک بحر۔

الْوَاغِرَةُ: وافر کامونٹ دنبہ کی بڑی پیکل۔

الْأَوْقَرُ: کامل۔ تام۔ مکمل۔

الْوَفْرَاءُ: بھرا ہوا۔ مَزَادَةٌ وَقْرَاءُ: پوری کھال والا توشہ دان۔ اَذُنٌ وَقْرَاءُ: بڑا کان۔

أَرْضٌ وَقْرَاءُ: بہت گھاس و نباتات والی زمین۔ قَوْمٌ مَتَوَافِرُونَ: بہت لوگ۔

المَوْفَرُ: ن۔ المَوْفَرُ الشَّعْرُ: بہت اور لمبے بالوں والا۔ اور کہا جاتا ہے "تَرَكْتُهُ عَلَيَّ أَحْسَنَ مَوْفَرٍ" میں نے اس کو اچھی حالت میں چھوڑا۔

المَوْفُورُ: ن۔ مکمل چیز۔

أَوْفَرَهُ إِفْقَارًا: جلدی کرنا۔

وَأَفَرَهُ: جلدی کرنا۔

تَوَفَّرَ لِلْأَمْرِ: آمادہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ يَتَوَفَّرُ عَلَيَّ فِرَاشُهُ" وہ مجھونے پر لوٹنے پوٹنے لگا۔

اسْتَوْفَرَ اسْتِيفَارًا فِي قَعْدَتِهِ: غیر مطہن

بیٹھنا اور اٹھنے کے لیے تیار ہونا۔

الْوَفْرُ وَالْوَفْرُ: جلدی جِ أَوْفَارٌ و وَقَارٌ. مَكَانٌ وَقْرٌ: بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے "نَحْنُ عَلَيَّ وَقْرٌ او وَقَارٌ او أَوْفَارٌ" ہم جلدی میں ہیں یا سفر کیلئے تیار ہیں۔

أَوْفَضَ إِيفَاضًا: تیز چلنا اور دوڑنا: دھتکارنا الإِبِلَ: اونٹوں کو جدا جدا کرنا لِلرَّجُلِ: بیٹھے کے لیے فرض چھانا۔

اسْتَوْفَضَ اسْتِيفَاضًا: تیز چلنا اور دوڑنا۔

الإِبِلَ: اونٹوں کا متفرق ہونا جلدی کرنا۔ دھتکارنا۔ جاوڑن کرنا۔

الْوَفْضُ وَالْوَفْضُ: س۔ جلدی جِ أَوْفَاضٌ.

الْوَفَاضُ: چل کے نیچے رکھنے کا چڑا۔ وہ جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے جِ وَفْضٌ.

الْوَفْضَةُ: اسم مرۃ۔ ترش کے مانند چڑے کا ایک برتن جس کا نچلا حصہ ہموار ہوتا ہے

چرواہے کا تھیلا۔ اوپر کے ہونٹ پر مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔ جِ وَقَاضٌ.

الْأَوْقَاضُ: لوگوں کی مختلف جماعتیں۔

نَاقَةٌ أَوْ نَعَامَةٌ مِيفَاضٌ: تیز رفتار اونٹنی یا شتر مرغ۔

الْوَفْعُ: بلند عمارت یا بلند جگہ۔ جِ أَوْفَاعٌ. غَلَامٌ وَقَعٌ جِ وَقَعَانٌ و وَقَعَةٌ و وَافِعَةٌ: نوجوان لڑکا۔

الْوَفِيعَةُ: قلم صاف کرنے کا چیتھرا۔

الْوَفِيعَةُ وَالْوَفِيعَةُ: بھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔ الوَفِيعَةُ وَالْوَفِيعَةُ وَالْوَفَاعُ: شیشی کی ڈاٹ۔

وَفَّقَ يَفِقُ وَفَقًا الْأَمْرُ: موافق پانا الْأَمْرُ: موافق ہونا۔

وَفَّقَ الْأَمْرَ: موافق کرنا ۵ اللَّهُ: درست کرنا ۵ اللَّهُ لِلْخَيْرِ: البام کرنا بَيْنَ الْقَوْمِ: اصلاح کرنا۔ وَفَّقْتُ لَهُ: اس نے مجھے پایا اس نے مجھ سے ملاقات کی۔

وَأَفَقَهُ وَفَاقًا و مُوَافَقَةً: پانا ۵ فِي او عَلَي الشَّيْءِ: موافق ہونا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ دو چیزوں

کو جوڑنا۔

أَوْفَقَ الْقَوْمَ لَهُ: قریب ہونا اور سب کا متفق ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "أَوْفَقَ لِرُؤْيِدٍ لِقَاءَ نَا" زید سے ہم لوگوں کی ملاقات اجاں ہو گئی۔

أَوْفَقَ السَّهْمَ وَبِالسَّهْمِ: تیر چلانے کیلئے نوق کو تانت پر رکھنا (دیکھئے لفظ فوق) یہ اُفُوقُ کا

مقلوب ہے اور اصل کا استعمال بہت نادر ہے۔ تَوَفَّقَ: کوشش کامیاب ہونا۔ تَوَفَّقَ تَوَفَّقًا: ایک دوسرے کے موافق ہونا۔ ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

اتَّفَقَ الرَّجُلَانِ عَلَي الشَّيْءِ وَفِيهِ: اتفاق کرنا۔ قریب ہونا۔ متحد ہونا۔ اتَّفَقَ مَعَهُ: موافقت کرنا۔

الأَمْرُ: واقع ہونا۔

اسْتَوْفَقَ اسْتِيفَاقًا اللَّهُ: اللہ سے توفیق ملنا۔

الْوَفْقُ: س۔ دو چیزوں کی مطابقت۔ قدر کفایت۔ کہا جاتا ہے "كَسَبَهُ وَفَقَ عِيَالَهُ" اس کی کمائی اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہے کچھ چھتا نہیں۔ "وَجَاءَ الْقَوْمُ وَفَقًا" قوم اتفاق کر کے آئی "وَأَتَيْتُهُ وَفَقَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" میں اس کے پاس طلوع آفتاب کے وقت آیا۔

التَّوْفِيقُ: س۔ تَوْفِيقُ الْهَيْلَالِ و تَوْفَاقُهُ و تَيْفَاقُهُ و تَيْفَاقُهُ و تَوْفَقُهُ و مَيْنَاقُهُ: نئے چاند کے نکلنے کا وقت۔

الْوَفِيقُ: ہمراہی۔ ساتھی۔

المَوْفِقُ: س۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ فُلَانًا مَوْفِقٌ" فلاں نیک آدمی ہے۔

وَقَلَّ يَقِلُّ وَقَلًّا الشَّيْءُ: چھیلنا۔

وَقَلَّ تَوْفِيلًا الشَّيْءُ: زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔ چھیلنا۔

الْوَقْلُ: س۔ تھوڑی چیز۔

وَقَهُ يَقُهُ وَفَهَا النَّصْرَانِيُّ: خدام گرجا ہونا۔

الْوَاغَةُ: گرجا کا ناظم و نگراں۔ سرچ۔

الْوِفَاهَةُ: گرجا کے ناظم کی تنخواہ۔

الْوَفِيَّةُ: گرجا کے ناظم کا تہہ۔
 وَفِي يَفِي وَفَاءً بِالْوَعْدِ او الْعَهْدِ: پورا کرنا۔ محافظت کرنا النَّذْرُ: نذر پوری کرنا الشِّيءُ: طویل ہونا اور اسی سے ہے "مات فَلَانٌ وَأَنْتَ بِوَفَاءٍ" فلاں مر گیا اور تیری عمر دلاز ہو ریش الْجَنَاحُ: بازو کے پروں کا پورا ہونا (وَفِيًّا) الشِّيءُ: کامل ہونا اور بہت ہونا الذَّرْهُمُ الْمِثْقَالُ: برابر ہونا۔ ہم وزن ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الشِّيءُ لَا يَفِي بِذَلِكَ" یہ چیز اس کے برابر نہیں ہے۔
 وَفِي تَوْفِيَّةِ الرَّجُلِ حَقُّهُ: پورا حق دینا۔
 أَوْفَى إِيْفَاءً بِالْوَعْدِ: پورا کرنا النَّذْرُ نذر پوری کرنا الْكَيْلُ: پورا پورا پھلانا حَقُّهُ: پورا حق دینا الْمَكَانُ: آہلی الْمَكَانُ: اوپر سے جہاں آہلی الْمَاءِ: سو سے زائد ہو چکی الشِّيءُ وَفِي الشِّيءِ: اوپر سے جہاں تھا۔
 وَافِي مُوَاْفَاةً فَلَانًا حَقُّهُ: پورا حق دینا الرَّجُلُ: آنا۔ اچانک آنا۔ وَافَاهُ الْحَمَامُ او الْكِنَابُ: موت کا آیا خط کا آنا۔
 تَوَافَى تَوَافِيًا الْقَوْمُ: ساری قوم کا آنا۔
 تَوَفَى تَوْفِيًّا: پورا ہو حَقُّهُ: پورا حق لینا۔ کہا جاتا ہے "تَوَفَيْتُ مِنْ فَلَانٍ مَالِي عَلَيْهِ" جو کچھ یہ حق فلاں پر تھا اس کو میں نے پورالے الْمُدَّةُ: مدت کو پہنچنا الشِّيءُ: کامل بنانا عَدَّدَ الْقَوْمُ: پورا شمار کرنا۔ تَوَفَّاهُ اللَّهُ: موت دینا۔ تَوَفَى فَلَانٌ: فلاں مر گیا۔ اللہ کو مَتَوَفَى اور بندے کو مَتَوَفَى کہیں گے۔
 اسْتَوْفَى اسْتِيفَاءً حَقُّهُ: کامل و پورا حق لینا۔
 الْوَفَاءُ: سزا کہا جاتا ہے "مات عَنْ وَفَاءٍ" وہ مر گیا اور حقوق واجب کے پورا کرنے کے لائق مال چھوڑ گیا "وَمَاتَ وَأَنْتَ بِوَفَاءٍ" وہ مر گیا اور تیری عمر دراز ہو۔
 الْوَفَى وَالْمِيفَى وَالْمِيفَاءُ: زمین کا بلند حصہ۔ الْمِيفَى: تنور کا ڈھکنا۔ ایٹنوں کے پکانے کا آول۔
 الْوَفَاةُ: موت۔ وَفَايَاتُ:

الْوَفَى: پورا کرنا۔ بہت وفا کرنے والا۔ حق دینے والا۔ حق لینے والا۔ حَقُّ أَوْفِيَاءَ: الوافی: فارموشہ اَفِيَّةُ: ایک درہم اور چار دانق عند الشُّعْرَاءِ: وہ شعر جس کے اجزاء پورے ہوں۔
 الْمِيفَاءُ: وفا کرنے والا۔
 وَقَبٌ يَقْبُ وَقِبًا الرَّجُلُ: متوجہ ہونا۔ آنا۔
 گڑھے میں داخل ہونا۔
 وَقَبْتُ وَقِبًا وَفُوبًا الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا الظَّلَامُ: تاریکی پھیلنا الْقَمَرُ: چاند کا گہن میں آنا الرَّجُلُ: دھسی ہوئی آنکھوں والا ہونا عَيْنَاةُ: آنکھوں کا دھنس جانا۔
 أَوْقَبُ إِيقَابًا: بھوکا ہونا الشِّيءُ: پتھر کے گڑھے میں داخل کرنا النَّحْلُ: درخت خرما کے گچھوں کا بدبودار ہونا۔
 الْوَقْبُ: مصل۔ پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔ روشن دان۔ جسم کا ہر گڑھا۔ جیسے آنکھ کا جَوْفُوبُ و وَقَابُ: الْوَقْبُ: بیوقوف۔ کمینہ جَوْقَابُ: الْأَوْقَابُ: گھر کا سامان۔
 الْوَقْبَانُ: بیوقوف۔ جَوْفِيٌّ: الْوَقْبَةُ: پتھر کی چٹان یا جسم میں گڑھا۔ بڑا روشن دان جس میں سایہ ہو۔ ٹرید وغیرہ سے جو نیکے۔
 رَكِيَّةٌ وَقْبَاءُ: گہرے پانی کا کنواں۔
 الْقِبَّةُ: اوجھ کا وہ حصہ جو پرت پرت ہوتا ہے۔
 الْوَقْبِيُّ: بیوقوفوں کی صحبت کا حریص۔
 الْمِيفِقِبُ: کوڑی۔
 الْمِيفِقَابُ: بہت شراب پیئے والا۔ اور کہا جاتا ہے "إِنَّهُمْ يَسْبِرُونَ سِيرَ الْمِيفِقَابِ" وہ لوگ دن رات لگاتار سفر کرتے ہیں۔
 وَقَّتْ يَقْتُ وَقْتًا الْأَمْرُ: وقت مقرر کرنا۔
 وَقَّتْ الْأَمْرُ: وقت مقرر کرنا۔ کام کی مدت بیان کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "وَقَّتْ الْأَمْرُ لِيَوْمٍ كَذَا" اس نے کام فلاں دن کے لیے مقرر کیا۔

الْوَقْتُ: سزا زمانہ کی مقدار حَقُّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ: سال کی فصلیں۔ وَقْتُ مَوْفُوتٍ وَ مَوْقُتٍ: مقرر کردہ وقت۔
 الْمَوْقُتُ: تعیین۔ تعیین کا زمانہ۔ تعیین کی جگہ۔
 الْمِيفِقَاتُ: وقت۔ وعدہ جس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہو۔ اور کبھی اس مقام کیلئے بھی استعارہ کیا جاتا ہے جس میں اجتماع کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہو۔ جَوْفَايَاتُ: الْمَوْقُتُ: اوقات اور چاند کا اندازہ رکھنے والا۔
 وَقِحٌ يَقْحُ قِحَةً وَ قِحَةً وَ وَقِحٌ يَقْحُ وَقِحًا وَ قِحٌ يَقْحُ وَقِحَةً وَ وَقِحَةً: بے جا ہونا۔ بے شرم ہونا۔ قِحٌ افعال پر جری ہونا۔ صفت وَقِحٌ حَافِرُ الدَّابَّةِ: چوپایہ کے کھر کا سخت ہونا۔
 وَقِحُ الْحَوْضِ: حوض کو مٹی اور پتھر سے درست کرنا حَافِرُ الدَّابَّةِ: پھلی ہوئی چربی لگا کر چوپایہ کے کھر کو سخت کرنا۔
 أَوْقِحُ وَ اسْتَوْقِحُ الْحَافِرُ: کھر کا سخت ہونا۔ تَوَاقِحُ: بے حیائی ظاہر کرنا۔
 الْوَقَاحُ (مذکر و مؤنث) بے شرم تَوَاقِحُ وَ وَقِحٌ: حَافِرُ وَقَاحٍ: سخت کھر۔
 رَجُلٌ وَقِيحٌ الْوَجْهُ: بے شرم مرد۔
 الْمَوْقِحُ: سیدہ۔ جتلائے مصائب۔ بے حیا۔
 مَوْقِحٌ: کام کی وجہ سے تھکا ہوا اونٹ۔
 وَقَدَّ يَقْدُ وَقْدًا وَ وَقْدًا وَ وَقْدًا وَ وَقْدًا وَ وَقْدًا: روشن ہونا النَّارُ: آگ جلنا۔ بھڑکانا۔ مشتعل ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَقَدَّتْ بِكَ زَنَادِي" تیری وجہ سے میری چترقار نے آگ دی۔ یعنی تیری وجہ سے میری کامیابی ہوئی۔ وَقْدٌ وَ أَوْقَدُ وَ تَوَقَّدُ وَ اسْتَوْقَدُ: النَّارُ: آگ بھڑکانا۔ مشعل کرنا۔ تَوَقَّدَتِ النَّارُ وَ اسْتَوْقَدَتِ آگ بھڑکانا تَوَقَّدَ الْكَوْكَبُ: ستارہ کا روشن ہونا۔ چمکانا۔ کہا جاتا ہے ابعدَ اللَّهُ دَارَهُ وَ أَوْقَدْنَا أَثْرَهُ اللَّهُ اس کے گھر کو دور کر

دے اور آگ میں اس کے اثر کو جلا دے یعنی اس کو واپس نہ کرے۔

الْوَقْدُ وَالْوَقْدُ. س۔ آگ۔

الْوَقْدَةُ. وقد کا اسم مرہ۔ سخت گرمی کا زمانہ کہ دس دن یا نصف مہینہ ہے۔

الْقَدَّةُ. س۔ جس کی تم پیروی کرو۔ اس معنی کے لحاظ سے اس کی اصل قدو ہے تا داؤ کے بدلہ میں ہے۔

الْوَقَادُ وَالْوَقِيدُ وَالْوَقُودُ. ایندھن جس سے آگ لگائی جائے۔

الْوَقَادُ. اسم مبالغہ۔ کَوَكَبٌ وَقَادٌ بہت روشن ستارہ۔ رَجُلٌ وَقَادٌ تیز طبع روشن خاطر مرد۔

الموقد ج موقد والمستوقد: چولہا۔ زَنْدٌ مِيقَادٌ. جلدی روشن ہونے والا جہنم۔ الموقد ج۔ روشن۔ تیز طبع۔

وَقْدَهُ يَقْدُهُ وَقْدًا. پھارتا۔ مہلک ضرب لگانا۔ صفت مفعولٍ وَيَقْدُ و مَوْقُودٌ هُ التُّعَابُ: غلبہ نیند کی وجہ سے متوالا ہونا (وَأَوْقَدُ) فَلَانًا: بیمار چھوڑنا۔

الْوَقِيدُ. مہلک بیماری میں مبتلا۔ بوجھل ست۔ وَيَقِيدُ الْجَوَانِحَ: غمگین دل والا۔ مَوْنٌ وَيَقِيدَةُ ج وَقَائِدُ. الوقائد: بچے ہوئے پتھر۔

الموقد ج موقد۔ بدن کے اطراف۔ جیسے ٹخنہ۔ گھٹنا۔ کندھا۔ ج موقد۔

وَقْرٌ يَقْرُ وَقْرًا الْعَظْمُ: ہڈی کا پھاڑنا۔ وَقْرٌ الْعَظْمُ: ہڈی کا پھٹنا۔ صفت مفعولٍ مَوْقُورٌ و وَقِيرٌ وَقِيرَةٌ و وَقَارَةٌ و وَقْرًا و وَقْرٌ يَقُورُ و وَقَارَةٌ و وَقَارًا الرَّجُلُ: سنجیدہ و صاحب وقار ہونا۔ ثابت رہنا۔ وَقْرٌ يَقْرُ وَقْرًا و وَقُورَةٌ فِي بَيْتِهِ: وقار کے ساتھ بیٹھنا۔ وَقْرَتْ تَقَرُّ و وَقِرَتْ تَوْقَرُ وَقْرًا و وَقِرَتْ أُذُنُهُ: بوجھل ہونا یا بہرا ہونا۔ صفت مَوْقُورَةٌ.

وَقْرٌ الشَّيْخُ: تعظیم کرنا فَلَانًا: زخمی کرنا الدَّابَّةُ: آرام دینا للشَّيْءِ: نشان بنانا۔ کہا جاتا

ہے ”وَقْرَتْنِي الْأَسْفَارُ“ سفر نے مجھ کو مشتاق بنادیا۔

أَوْقَرُ أَيْقَارًا وَقِرَةٌ (شاز) الدَّابَّةُ: چوپایہ پر بیماری بوجھ لادنا۔ أَوْقَرْتُ النَّحْلَةَ و أَوْقِرْتُ سِتَّ پھل دار ہونا۔ صفت مَوْقِرٌ و مَوْقِرَةٌ و مَوْقِرَةُ الذِّئْبِ فَلَانًا: قرض کا گرانہار کرنا۔

تَوْقَرٌ وَتَقْرٌ. بادقار ہونا۔ بردبار ہونا۔

اسْتَوْقَرْتُ اسْتَيْقَارًا الْأَيْلَ: اونٹ کا مونا ہونا۔ بیماری بوجھ اٹھانا۔ اسْتَوْقَرُ وَقِرَةٌ طَعْمًا: بوجھ بھر کھانا لینا۔

الْوَقْرُ. س۔ پنڈلی کا شگاف۔ پتھر یا ہڈی وغیرہ میں گڑھا یا شگاف۔ ج وَقُورٌ. کہا جاتا ہے ”فِي صَدْرِهِ وَقْرٌ“ اس کے دل میں کینہ ہے۔

الْوَقْرُ. بیماری بوجھ۔ پانی سے بوجھل بدل ج اَوْقَارٌ.

الْوَقْرَةُ. اسم مرہ۔ پتھر یا ہڈی کا گڑھا یا شگاف۔ وَقْرَةُ الذَّهَبِ: زمانہ کی سختی ج وَقِرَاتُ الْوَقْرَاتِ: نشانیاں۔

الْقِرَّةُ. مصل۔ بوجھ۔ کبریوں کا روڑ۔ اہل و عیال۔ بہت بوڑھا۔ بیماری کا وقت۔ ج قِرَاتٌ.

الْوَقْرِيُّ. کبری بھیڑوں کا چرواہا۔ یا ان کا جمع کرنے والا۔ گدھوں کا مالک۔

الْوَقَارُ. سنجیدگی۔ بردباری۔ عظمت (وَالْوَقْرُ) مِنَ الرِّجَالِ: سنجیدہ و صاحب وقار مرد۔

الْمَوْقُورُ (مذکر و مؤنث) صاحب وقار۔ ج وَقْرٌ.

الْوَقِيرُ. پھٹی ہوئی ہڈی۔ بھیڑوں کا روڑ۔ لوگوں کی جماعت۔ ذلیل بے عزت (وَالْوَقِيرَةُ) پتھر کی چٹان کا بڑا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے أُذُنٌ وَقِيرَةٌ: بہرا کان یا بوجھل کان۔

الموقر. مفع۔ تجربہ کار۔ عقل مند جس کو زمانہ نے تجربہ کار بنادیا ہو۔

الموقر. پہاڑ کے پہلو میں نرم جگہ۔ الميقار من النخل: بہت پھل دار ج موقير.

وَقَسٌ يَقْسُ وَقَسًا التَّجْرُبُ فِي بَدَنِهِ:

کھلی پھیلنا الفاحشة: بری بات کا ذکر کرنا بآلمكروه: تہمت لگانا الجلد: کھال پھیلنا۔ وَقَسُ الْأَيْلِ: کھلی لگانا۔

الأوقاس. مختلف لوگوں کی جماعت۔

وَقَسٌ يَقْسُ وَقَسًا الرَّسْمُ: نشان کا نہیں فلان: عطیہ پانا (وَأَوْقَشَ لَهُ بَشِي) کچھ تھوڑا سا دینا۔

تَوْقَشٌ. ہلنا۔ الوَقْشُ وَالْوَقْشَةُ وَالْوَقْشَةُ: آواز۔

حِركت الوَقْشِ: عیب۔ الوَقْشُ وَالْوَقْشُ: آگ لگانے کیلئے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔

الأوقاش. مختلف قسم کے لوگوں کا گروہ۔

وَقَصٌ يَقْصُ وَقْصًا عُنُقُهُ: گردن توڑ دینا وَقْصَتِ الْعُنُقُ: گردن کا ٹوٹ جانا بہ الدَّابَّةُ: گرا کر گردن توڑنا۔ وَقْصُ الشَّيْءِ: عیب لگانا۔ گھٹانا اسے: نیچے سے دہانا۔

وَقْصُ الرَّجُلِ: ٹوٹی ہوئی گردن والا ہونا۔ صفت مَوْقُوصٌ.

وَقْصٌ يَقْصُ وَقْصًا وَيَقْصُ وَقْصًا پیدائشی چھوٹی گردن والا ہونا۔ صفت أَوْقَصٌ مؤنث و قِصَاءٌ ج وَقْصٌ اور کبھی گردن کی صفت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”عُنُقٌ أَوْقَصٌ وَعُنُقٌ وَقْصَاءٌ“

وَقْصٌ عُنُقُهُ: گردن توڑ دینا عَلَى النَّارِ: چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنا۔

أَوْقَصُهُ. أَوْقَصُ بنادینا (دیکھئے أَوْقَصُ) تَوْقَصُ الْبَعِيرُ: اونٹ کا چلنے میں زور سے قدم ڈالنا۔

تَوَاقَصُ. کوتاہ گردن کی مشابہت کرنا۔ الموقص. س۔ عیب فی العروض: علم عروض کی اصطلاح میں حرف عالی متحرک کا گرا دینا جو حرف کی ایک قسم ہے۔

الوقص۔ آگ سلگانے کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ج اوقاص۔ کہا جاتا ہے ”اتانا اوقاص من بنی فلان“ ہمارے پاس بنو فلان کے قبائل کے کچھ لوگ آئے۔

الوقاص۔ پرندوں کے شکار کا جال۔ ج وقاصیص۔ کہا جاتا ہے ”خذوا وقص الطریقین“ دو راستوں میں سے قریب کا راستہ اختیار کرو۔

الوقیصة۔ گردن کی جڑ کی ہڈی کا سرا۔ ج وقانص۔

الموقوص۔ ^ث فی المروض: اصطلاح شعراء میں وہ وزن جس میں حرف ثالی متحرک گرا دیا گیا ہو۔

وَقَطَهُ يَقْطُهُ وَقَطًا يَمْجَانًا۔ مار کر کے ست کر دینا۔ وَقَطَ فِي رَأْسِهِ: بوجھ محسوس کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَكَلْتُ طَعَامًا وَقَطْنِي“ میں نے ^{تھا} کھایا اور اس نے مجھے ست دیا اور مارا۔

وَقَطَ الصَّخْرَ: چٹان کا ٹکڑے والا ہونا۔ اسْتَوْقَطَ اسْتَيْقَاطًا الْمَكَانَ: لوگوں یا جانوروں کے روندنے کی وجہ سے گڑھے والی ہونا۔

الوقط والوقیطة۔ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے ج اوقاط۔

الوقیط۔ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے ج وقاط و وقطان واقاط ماریا مرض یا شکم سیر کی وجہ سے ست۔ بے خوابی کی وجہ سے کسل مند ج وقطی و وقاطی نوث وقیط (مذکر کی مانند)

وَقَطَهُ يَقْطُهُ وَقَطًا۔ مہلک ضرب مارنا۔ وَقَطَ عَلَى الْأَمْرِ: بیٹھتی کرنا۔

الوقیظ۔ وہ شخص جو اٹھے پر قادر نہ ہو۔ وَقَعَ يَقَعُ وَقُوعًا الشَّيْءُ مِنْ يَدِي: گرنا۔ الحق: ثابت ہونا القَوْلُ عَلَيْهِمْ: واجب ہونا الإِبْلُ: اونٹ کا بیٹھنا الذَّوَابُ: جانوروں کا بیٹھنا رَبِيعٌ بِالْأَرْضِ: موسم خریف میں پہلی بار بارش ہونا اور اس کے لیے سَقَطَ كَالْفَرْغِ

نہیں بولا جاتا الطَّيْرُ عَلَى شَجَرٍ أَوْ أَرْضٍ: پرندہ کا درخت یا زمین پر اترنا۔ صفت وَقُوعٌ وَقُوعٌ فِي الشَّرِكِ: جال میں پھنسا فی اَرْضٍ فُلَاةٌ: داخل ہونا الرَّجُلُ فِي عَمَلِهِ: کام میں تیزی اختیار کرنا فی العَمَلِ شُرُوعٌ کرنا الكلامُ فِي نَفْسِهِ: اثر کرنا لِأَمْرٍ: حاصل ہونا۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعَ لَهُ وَاقِعٌ“ اس کو ایک حادثہ پیش آیا (وَقُوعًا وَ وَقِيعَةً) فِي فُلَانٍ: گالی دینا۔ عیب نکالنا۔ نغیبت کرنا۔ (وَقُوعًا) إِلَى كَذَا: جلدی جانا مِنْ كَذَا وَ عَنْ كَذَا: باز رہنا۔ الگ ہونا النَّصْلُ بِالْمِيقَعَةِ: تیز کرنا۔ صفت مفعول وَقِيعَ الْبَعِيزِ: دونوں رانوں کے کناروں پر گول دان لگانا (وَقُوعًا وَ وَقِيعَةً) بِالْعَدُوِّ: دشمن کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا اور کہا جاتا ہے ”وَقَعَ عِنْدَ فُلَانٍ مَوْقِعًا حَسَنًا“ اس نے فلاں کے نزدیک حصہ اور مرتبہ پایا ”و وَقَعَ الْأَمْرُ مِنْهُ مَوْقِعًا حَسَنًا أَوْ سَيِّئًا“ اس سے کام اچھے یا برے موقع میں واقع ہوا۔ ”وَفُلَانٌ لَيْسَ فَعْلٌ وَلَا يَقَعُ“ فلاں کام کے قریب ہوتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ ”وَهَذِهِ نَعْلٌ لَا تَقَعُ عَلَى رِجْلِي“ یہ جوتا میرے پیر کے مناسب نہیں۔

پرندہ کا درخت یا زمین پر اترنا۔ صفت وَقُوعٌ وَقُوعٌ فِي الشَّرِكِ: جال میں پھنسا فی اَرْضٍ فُلَاةٌ: داخل ہونا الرَّجُلُ فِي عَمَلِهِ: کام میں تیزی اختیار کرنا فی العَمَلِ شُرُوعٌ کرنا الكلامُ فِي نَفْسِهِ: اثر کرنا لِأَمْرٍ: حاصل ہونا۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعَ لَهُ وَاقِعٌ“ اس کو ایک حادثہ پیش آیا (وَقُوعًا وَ وَقِيعَةً) فِي فُلَانٍ: گالی دینا۔ عیب نکالنا۔ نغیبت کرنا۔ (وَقُوعًا) إِلَى كَذَا: جلدی جانا مِنْ كَذَا وَ عَنْ كَذَا: باز رہنا۔ الگ ہونا النَّصْلُ بِالْمِيقَعَةِ: تیز کرنا۔ صفت مفعول وَقِيعَ الْبَعِيزِ: دونوں رانوں کے کناروں پر گول دان لگانا (وَقُوعًا وَ وَقِيعَةً) بِالْعَدُوِّ: دشمن کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا اور کہا جاتا ہے ”وَقَعَ عِنْدَ فُلَانٍ مَوْقِعًا حَسَنًا“ اس نے فلاں کے نزدیک حصہ اور مرتبہ پایا ”و وَقَعَ الْأَمْرُ مِنْهُ مَوْقِعًا حَسَنًا أَوْ سَيِّئًا“ اس سے کام اچھے یا برے موقع میں واقع ہوا۔ ”وَفُلَانٌ لَيْسَ فَعْلٌ وَلَا يَقَعُ“ فلاں کام کے قریب ہوتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ ”وَهَذِهِ نَعْلٌ لَا تَقَعُ عَلَى رِجْلِي“ یہ جوتا میرے پیر کے مناسب نہیں۔

وَقَعَ فِي يَدِهِ: نام و پیشیان ہونا (مانند سَقَطَ فِي يَدِهِ) (کے)

وَقَعَ يَوْقَعُ وَقَعًا: ننگے پیر ہونا۔ سخت زمین یا پتھروں کی وجہ سے قدم کا درد مند ہونا۔ صفت وَقِعٌ

وَقَعَ الْوَبْرُ ظَهَرَ الْبَعِيرِ: نشان ڈالنا الْمَطَرُ الْأَرْضُ: نہیں کہیں اگانا الْعَهْدَاوُ الْفَرْمَانُ: شاہی مہر لگانا الْكِتَابُ أَوْ الصَّلْتُ خَطِيًّا چیک پر دستخط کرنا الْكِتَابُ فِي الْكِتَابِ زَوَائِدُ كُو حَذَفَ كَرَدِينَا الْإِبْلُ: اونٹ کا بیٹھنا وَقَعَ ظَنَّهُ عَلَى الشَّيْءِ: اندازہ کرنا عَلِيٌّ فُلَانٍ: گمان کرنا الصَّيْقَلُ عَلَى السَّيْفِ تِيزَ كَرْنُوكَ لِي مَتَوَجَّهٌ هُوَا الْحِجَارَةُ حَافِرَةٌ: کھر کے سرے کو نکلے نکلے کر دینا الْقَوْمُ: آخر رات میں آرام لینے کے لیے اتر پڑنا۔

وَقَعَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِي: گرنا۔ الحق: ثابت ہونا الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ: واجب ہونا الإِبْلُ: اونٹ کا بیٹھنا الذَّوَابُ: جانوروں کا بیٹھنا رَبِيعٌ بِالْأَرْضِ: موسم خریف میں پہلی بار بارش ہونا اور اس کے لیے سَقَطَ كَالْفَرْغِ

نہیں بولا جاتا الطَّيْرُ عَلَى شَجَرٍ أَوْ أَرْضٍ: پرندہ کا درخت یا زمین پر اترنا۔ صفت وَقُوعٌ وَقُوعٌ فِي الشَّرِكِ: جال میں پھنسا فی اَرْضٍ فُلَاةٌ: داخل ہونا الرَّجُلُ فِي عَمَلِهِ: کام میں تیزی اختیار کرنا فی العَمَلِ شُرُوعٌ کرنا الكلامُ فِي نَفْسِهِ: اثر کرنا لِأَمْرٍ: حاصل ہونا۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعَ لَهُ وَاقِعٌ“ اس کو ایک حادثہ پیش آیا (وَقُوعًا وَ وَقِيعَةً) فِي فُلَانٍ: گالی دینا۔ عیب نکالنا۔ نغیبت کرنا۔ (وَقُوعًا) إِلَى كَذَا: جلدی جانا مِنْ كَذَا وَ عَنْ كَذَا: باز رہنا۔ الگ ہونا النَّصْلُ بِالْمِيقَعَةِ: تیز کرنا۔ صفت مفعول وَقِيعَ الْبَعِيزِ: دونوں رانوں کے کناروں پر گول دان لگانا (وَقُوعًا وَ وَقِيعَةً) بِالْعَدُوِّ: دشمن کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا اور کہا جاتا ہے ”وَقَعَ عِنْدَ فُلَانٍ مَوْقِعًا حَسَنًا“ اس نے فلاں کے نزدیک حصہ اور مرتبہ پایا ”و وَقَعَ الْأَمْرُ مِنْهُ مَوْقِعًا حَسَنًا أَوْ سَيِّئًا“ اس سے کام اچھے یا برے موقع میں واقع ہوا۔ ”وَفُلَانٌ لَيْسَ فَعْلٌ وَلَا يَقَعُ“ فلاں کام کے قریب ہوتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ ”وَهَذِهِ نَعْلٌ لَا تَقَعُ عَلَى رِجْلِي“ یہ جوتا میرے پیر کے مناسب نہیں۔

وَقَعَ فِي يَدِهِ: نام و پیشیان ہونا (مانند سَقَطَ فِي يَدِهِ) (کے)

وَقَعَ يَوْقَعُ وَقَعًا: ننگے پیر ہونا۔ سخت زمین یا پتھروں کی وجہ سے قدم کا درد مند ہونا۔ صفت وَقِعٌ

واقعةً وَقَاعًا وَ مَوْاقِعَةً: جنگ کرنا۔ واقع الْأُمُورُ: امور کے قریب ہونا اور ان کو سر انجام دینا۔

أَوْقَعَهُ إِيقَاعًا: واقع کرنا۔ أَوْقَعَهُ بِالْعَدُوِّ: دشمن کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا به الشَّرِّ: بدی میں پھنسا دینا الدَّهْرُ بِهِ: زمانہ کا سختیاں ڈالنا الرُّؤْيَا: پانی روک لینا الْمُعْنَى: سُر تُھیک کرنا۔

تَوَقَّعَ الْأَمْرُ: حاصل ہونے کی امید لگانا۔ تَوَاقَعُ الْأَعْدَاءُ: دشمنوں کا باہم جنگ کرنا۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

اسْتَوْقَعَ الْأَمْرُ: حاصل ہونے کی امید رکھنا۔ خَوْفَ كَهَاتَا السَّيْفِ: تلوار کا تیز کرنے کے قابل ہونا۔

الوقوع۔ کسی چیز کی ضرب کی آواز۔ تم کہتے ہو ”سَمِعْتُ وَقَعَ حَافِرَ الذَّابَّةِ وَ وَقَعَ الْمَطَرُ“ میں نے چوپایہ کے کھر کی اور بارش کی آواز سنی۔ پہاڑ کی بلند جگہ۔ بارش کی امید دلانے والے بادل۔ چھوٹی لکڑیاں واحد وَقِيعَةً: کہا جاتا ہے ”الْفُلَانُ وَقَعَ عِنْدَ الْأَمِيرِ“ امیر کے نزدیک فلاں کی قدر و منزلت ہے۔

الوقوع۔ چھوٹی لکڑیاں واحد وَقِيعَةً: بارش کی امید دلانے والا بادل۔

الوقِيعَةُ: وقع کا اسم مرتہ۔ لڑائی کی دھکا پھیل۔ آخری رات کی نیند۔ دن میں ایک باری قضاء حاجت۔ وَقَعَ الطَّائِرُ: سے ام جب کہ وہ اڑتے اڑتے نیچے آتے۔ وَقِيعَةُ السَّيْفِ: تلوار کا پڑنا۔ ج وَقِيعَاتُ

الوقِيعَةُ: وقع کا اسم نوع۔ التَّوَقُّعُ: کسی چیز کا ہم و گمان کرنا۔ آخر رات میں اترنا۔ کتاب سے فراغت کے بعد ضمیر لگانا تَوَقُّعُ السُّلْطَانِ: شاہی مہر۔ ج تَوَاقِيعُ

الایقاع۔ سروں کی موزونیت۔

الواقع۔ فا۔ طائر واقع: درخت پر یا گھونسلے میں رہنے والا پرندہ ج وَقِعٌ وَ وَقُوعٌ

محقق دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہا جاتا ہے رَجُلٌ وَاقَعَ الطَّيْرُ: نرم طبیعت مرد۔ النَّسْرُ الْوَأَقِعُ: بنات النعش کے قریب ایک ستارہ۔

الْوَأِقَعَةُ: واقعہ کا مؤنث لڑائی کی دھکا پیل۔ مصائب زمانہ میں سے ایک مصیبت۔ قیامت رَجُلٌ وَاقِعَةٌ: بہادر مرد۔

وَقَاعٌ: بروزن قِطَامٌ: دونوں راتوں کے کناروں پر گول داغ۔

الْوَقَاعَةُ: زمین کی تختی جس کی وجہ سے پانی جذب نہ ہو سکے۔

وَقَاعَةُ السَّيْرِ: پردہ لٹکانے میں زمین پر پڑنے کی جگہ۔

الْوَقِيعُ: تیز کیا ہوا پھل۔ پتھروں سے رگڑ کھایا ہوا کھر۔ سخت جگہ جو پانی کو جذب نہ کرے ج وُقُوعٌ۔

الْوَقِيعَةُ: لڑائی اور مقاتلہ کا تصادم۔ لوگوں کی غیبت۔ گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے ج وَقَاعٌ و وَقَائِعٌ: وَقِيعَةُ الطَّائِرِ: وہ جگہ جہاں پرندہ کے اترنے کی عادت ہو۔ وَقَائِعُ الْعَرَبِ: عرب کی لڑائیاں۔

الْوَقَاعُ وَالْوَقَاعَةُ: لوگوں کی غیبت کرنے والا۔

المَوْقِعُ: گرنے کی جگہ ج مَوَاقِعُ: مَوَاقِعُ الْقَطْرِ: بارش ہونے کی جگہ۔ مَوَاقِعُ الْقِتَالِ: جنگ کی جگہ۔

مَوْقِعَةُ الطَّائِرِ: پرندے کے اترنے کی جگہ ج مَوَاقِعُ۔

الْوَأِقِيعِيُّ: واقعیہ مذہب کو ماننے والا۔ الواقعیۃ: ان لوگوں کا مذہب جو کہ مجردات کی حقیقت کے قائل ہیں۔

الْوَأِقِيعَةُ فِي الْأَدَبِ: چیزوں کی حتی المقدور تصویر کشی حقیقت میں کرنا اگرچہ کچھ بدل شکی ہوئی ہے۔

المِيقَعَةُ: ہموڑا۔ دھوبی کا تختہ جس پر کپڑے دھوئے جاتا ہے۔ چھری وغیرہ پر سان رکھنے کا لہذا پتھر۔ مِيقَعَةُ الطَّائِرِ: پرندے کے اترنے کی جگہ اور اس کی الفت کی جگہ ج مَوَاقِعُ۔

المَوْقِعُ: فاء آہستہ قدم رکھنے والا۔ مہر شامی کا محافظ۔ شامی فرمان لکھنے والا۔

المَوْقِعُ: مث۔ مصائب زدہ۔ رہ چلتا راستہ۔ تیز کی ہوئی چھری۔

المَوْقُوعُ: مث۔ پتھروں سے رگڑ کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا۔ قَدَمٌ مَوْقُوعَةٌ: سخت قدم۔

وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا وَوُقُوفًا: ٹھہرنا۔ چپ چاپ کھڑا ہونا جِي الْمَسْأَلَةِ: شک کرنا

القَارِي عَلَى الْكَلِمَةِ: وقت پڑھنا۔ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن پڑھنا۔ وَقَفَ عَلَى الْأَمْرِ سَجْمًا: مطلع ہونا (وَقْفًا) الذَّابَّةُ:

ٹھہرنا کھڑا کرنا جِي الشَّيْءِ: منع کرنا الذَّار فِي سَبِيلِ اللَّهِ: وقف کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَقَفْنَا لَهُ وَعَلَيْهِ" اس نے اس کو اس کے لیے وقف کیا "وقف الأمر علی حضور فلان" اس نے معاملہ کو فلان کی موجودگی پر ملتوی کیا جِي عَلَي الذَّنْبِ خِرْدَارُ كَرْنَا الْقَدْرَ بِالْمِيقَافِ: ہانڈی کے جوش کو ڈوٹی سے کم کرنا عَلَيْهِ: معاند کرنا (وَقِيفِي) النَّصْرَانِيُّ:

گر جا کی خدمت کرنا۔ وَقَفَّةٌ: کھڑا کرنا التَّرْسُ: ڈھال کے گرد گرد لوہے وغیرہ کا حلقہ بنانا الْمَرْأَةُ عَوْرَتُ كَوْنِكُنْ: پہنانا السَّرْحُ: زین کی اس طرح حرمت کرنا کہ پیٹھ کو زخمی نہ کرے۔

الْحَدِيثُ: بیان کرنا الْقَارِي: وقف کے مواقع تانا الْحَيْشُ: ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا۔ وَقَفَتِ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِالْحِنَاءِ: عورت کا ہاتھوں کو نقطے دار رنگنا۔ وَقَفَ الذَّابَّةُ: ٹھہرنا۔ کھڑا کرنا فَلَانًا عَلَى ذَنْبِهِ: خبردار کرنا۔

وَأَقَفَهُ مَوَاقِفَةً وَوَقَافًا فِي الْحَرْبِ أَوْ الْخُصُومَةِ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔

هُوَ عَلِيمٌ كَذًا: ثابت قدم رہنے کو کہنا۔ أَوْقَفَهُ كَهْرًا كَرْنَا: أَوْقَفَ الدَّارَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: وقف کرنا الْجَارِيَّةُ: لڑکی کو نکلن پہنانا

عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا اور چھوڑ دینا۔ تَوَقَّفَ فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا عَلَي الْأَمْرِ: قائم و دائم رہنا عَنِ كَذًا: برکنا۔ باز رہنا۔ تَوَاقَفَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔ اسْتَوْقَفَهُ: کھڑا ہونے کو کہنا۔

الْوَقْفُ: مث۔ کلمہ کو مابعد سے قطع کرنا۔ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرُوضِ: ساتویں متحرک حرف کو ساکن کرنا جیسے مَفْعُولَاتُ كِتَابِ كَوْنِكُنْ كَرْنَا: أَلْوَقْفُ كَتْنٌ يَأْتِي دَانِتُ كَا كَتْنٌ مِنَ التَّرْسِ: سیٹنگ یا لوہے کی بنی ہوئی ڈھال کے گرد کا حلقہ جِي الْوَقْفِ عِنْدَ الْمُفْقَهَاءِ: کسی چیز کی منفعت کو اللہ کے راستہ میں تصدق کرنا۔ اور اصل کو اپنی ملک میں یا اللہ کی ملک میں رکھنا۔ موقوف چیز کو بھی وقف کہتے ہیں۔ جِ أَوْقَافٌ وَوُقُوفٌ۔

الْوَقْفَةُ: ام مرتہ۔ شک۔ مِنَ التَّرْسِ: ڈھال کے گرد کا حلقہ جو لوہے یا سیٹنگ کا بنا ہوا ہو۔

الْوَقِيفَةُ: بھگایا ہوا شکار جو تھک کر ٹھہر جائے۔ ہر وہ مقام جہاں کئے اپنے مالکوں کو روک دیں۔

التَّوَقِيفُ: مص۔ جوئے کے تیر کا نشان۔ کتنن کی جگہ کی سفیدی۔ جانوروں کی ٹانگوں میں کالی دھاری یا کتنن کے مانند دھاری۔

الْوَأَقِفُ: فاء جِ وَقِفٌ وَوُقُوفٌ: عِنْدَ الْمُفْقَهَاءِ: فی سبیل اللہ وقف کرنے والا۔

الْوَأَقِفُ: دیو سستی کرنے والا۔ لڑائی سے رکنے والا۔

الْوَأَقِفَةُ: خوفزدہ جو ٹھہر جائے اور پیش قدمی نہ کرے۔

المَوْقِفُ وَالْمَوْقِفَةُ: ٹھہرنے کی جگہ۔ مَوْقِفُ الْمَرْأَةِ الْمُنْحَجِبَةِ: پردہ نشین عورت کے ہاتھ اور آنکھیں اور وہ اعضاء جن کا ظاہر کرنا ضروری ہو۔ المَوْقِفَانِ: دو رگوں کا نام ہے جو بربکی ہڈی کے ارد گرد ہوتی ہیں اگر ان میں جِ ہو جائے تو انسان اٹھنے پر قادر

عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا اور چھوڑ دینا۔ تَوَقَّفَ فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا عَلَي الْأَمْرِ: قائم و دائم رہنا عَنِ كَذًا: برکنا۔ باز رہنا۔ تَوَاقَفَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔ اسْتَوْقَفَهُ: کھڑا ہونے کو کہنا۔

الْوَقْفُ: مث۔ کلمہ کو مابعد سے قطع کرنا۔ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرُوضِ: ساتویں متحرک حرف کو ساکن کرنا جیسے مَفْعُولَاتُ كِتَابِ كَوْنِكُنْ كَرْنَا: أَلْوَقْفُ كَتْنٌ يَأْتِي دَانِتُ كَا كَتْنٌ مِنَ التَّرْسِ: سیٹنگ یا لوہے کی بنی ہوئی ڈھال کے گرد کا حلقہ جِي الْوَقْفِ عِنْدَ الْمُفْقَهَاءِ: کسی چیز کی منفعت کو اللہ کے راستہ میں تصدق کرنا۔ اور اصل کو اپنی ملک میں یا اللہ کی ملک میں رکھنا۔ موقوف چیز کو بھی وقف کہتے ہیں۔ جِ أَوْقَافٌ وَوُقُوفٌ۔

الْوَقْفَةُ: ام مرتہ۔ شک۔ مِنَ التَّرْسِ: ڈھال کے گرد کا حلقہ جو لوہے یا سیٹنگ کا بنا ہوا ہو۔

الْوَقِيفَةُ: بھگایا ہوا شکار جو تھک کر ٹھہر جائے۔ ہر وہ مقام جہاں کئے اپنے مالکوں کو روک دیں۔

التَّوَقِيفُ: مص۔ جوئے کے تیر کا نشان۔ کتنن کی جگہ کی سفیدی۔ جانوروں کی ٹانگوں میں کالی دھاری یا کتنن کے مانند دھاری۔

الْوَأَقِفُ: فاء جِ وَقِفٌ وَوُقُوفٌ: عِنْدَ الْمُفْقَهَاءِ: فی سبیل اللہ وقف کرنے والا۔

الْوَأَقِفُ: دیو سستی کرنے والا۔ لڑائی سے رکنے والا۔

الْوَأَقِفَةُ: خوفزدہ جو ٹھہر جائے اور پیش قدمی نہ کرے۔

المَوْقِفُ وَالْمَوْقِفَةُ: ٹھہرنے کی جگہ۔ مَوْقِفُ الْمَرْأَةِ الْمُنْحَجِبَةِ: پردہ نشین عورت کے ہاتھ اور آنکھیں اور وہ اعضاء جن کا ظاہر کرنا ضروری ہو۔ المَوْقِفَانِ: دو رگوں کا نام ہے جو بربکی ہڈی کے ارد گرد ہوتی ہیں اگر ان میں جِ ہو جائے تو انسان اٹھنے پر قادر

عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا اور چھوڑ دینا۔ تَوَقَّفَ فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا عَلَي الْأَمْرِ: قائم و دائم رہنا عَنِ كَذًا: برکنا۔ باز رہنا۔ تَوَاقَفَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔ اسْتَوْقَفَهُ: کھڑا ہونے کو کہنا۔

الْوَقْفُ: مث۔ کلمہ کو مابعد سے قطع کرنا۔ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرُوضِ: ساتویں متحرک حرف کو ساکن کرنا جیسے مَفْعُولَاتُ كِتَابِ كَوْنِكُنْ كَرْنَا: أَلْوَقْفُ كَتْنٌ يَأْتِي دَانِتُ كَا كَتْنٌ مِنَ التَّرْسِ: سیٹنگ یا لوہے کی بنی ہوئی ڈھال کے گرد کا حلقہ جِي الْوَقْفِ عِنْدَ الْمُفْقَهَاءِ: کسی چیز کی منفعت کو اللہ کے راستہ میں تصدق کرنا۔ اور اصل کو اپنی ملک میں یا اللہ کی ملک میں رکھنا۔ موقوف چیز کو بھی وقف کہتے ہیں۔ جِ أَوْقَافٌ وَوُقُوفٌ۔

الْوَقْفَةُ: ام مرتہ۔ شک۔ مِنَ التَّرْسِ: ڈھال کے گرد کا حلقہ جو لوہے یا سیٹنگ کا بنا ہوا ہو۔

الْوَقِيفَةُ: بھگایا ہوا شکار جو تھک کر ٹھہر جائے۔ ہر وہ مقام جہاں کئے اپنے مالکوں کو روک دیں۔

التَّوَقِيفُ: مص۔ جوئے کے تیر کا نشان۔ کتنن کی جگہ کی سفیدی۔ جانوروں کی ٹانگوں میں کالی دھاری یا کتنن کے مانند دھاری۔

الْوَأَقِفُ: فاء جِ وَقِفٌ وَوُقُوفٌ: عِنْدَ الْمُفْقَهَاءِ: فی سبیل اللہ وقف کرنے والا۔

الْوَأَقِفُ: دیو سستی کرنے والا۔ لڑائی سے رکنے والا۔

الْوَأَقِفَةُ: خوفزدہ جو ٹھہر جائے اور پیش قدمی نہ کرے۔

المَوْقِفُ وَالْمَوْقِفَةُ: ٹھہرنے کی جگہ۔ مَوْقِفُ الْمَرْأَةِ الْمُنْحَجِبَةِ: پردہ نشین عورت کے ہاتھ اور آنکھیں اور وہ اعضاء جن کا ظاہر کرنا ضروری ہو۔ المَوْقِفَانِ: دو رگوں کا نام ہے جو بربکی ہڈی کے ارد گرد ہوتی ہیں اگر ان میں جِ ہو جائے تو انسان اٹھنے پر قادر

ہونا وَعَبَّ النَّاقَةَ: تھنوں پر متوسط رسی باندھنا۔

وَأَكْبَ مَوَاكِبَهُ عَلَى الْأَمْرِ: مداومت کرنا المَوَاكِبَ: ملبوس میں ساتھ ساتھ چلنا۔
أَوْكَبَ إِيكَايَا جُلُوسِ كِتَابِهِ سَاتِحًا رَهْنًا۔

الطَّائِرُ: پرندہ کاڑنے کیلئے آمادہ ہونا یا اترتے ہوئے پر پھڑپھڑانا عَلَى الْأَمْرِ: مداومت کرنا
عُغْبِنَاكَ بَنَانًا۔

الْوَاكِبَةُ: جالور کی ایک ٹانگ۔
الْوَعَابُ: بہت غمگین۔

ظَبِيَّةٌ وَكُؤُبٌ: اپنے گلے کے ساتھ رہنے والی ہرنی۔

المَوَاكِبُ: سواروں یا پیدل چلنے والوں کی جماعت۔ رَجَ مَوَاكِبَ۔

وَكَمَتَ يَكْمُتُ وَكَمًا: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا الدَّابَّةُ: چوپایہ کا جلدی جلدی اُھٹانا اور رکھنا الفَذْحُ: پیالہ بھرنا الكتاب: کتاب میں نقطے لگانا فِي الشَّيْءِ: نشان لگانا۔

رَمَحْتَ تَوَكِّمُنَا الْقَرْيَةَ: مشک بھرنا۔
السُّنْبُرُ: چھٹی کارنگ ظاہر ہونا۔

الْوَكْمَتُ: سہ تھوڑی چیز۔
الْوَكْمَةُ: داغ۔

الْوَكْمَاتُ: سستی سے چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنے والا۔

الْوَكْمَةُ: چغل خوری۔
المَوَاكِبُ: متع۔ سخت غمگین۔

وَكَحَهُ يَكْحَهُ وَكَحًا: بوجھلہ: سخت رو دینا۔

أَوْكَحَ إِيكَايَا تَهْمَانًا: منع کرنا اور سائل پر سخت کرنا العَطِيَّةُ: کاٹنا عَنِ الْأَمْرِ: رکنا۔ باز رہنا فِي الْحَفْرِ: کھودنے میں پھریا سخت زمین پر پہنچانا۔

اسْتَوَكَّحَتْ اسْتَبْكَحَا الْفَرَاحُ: چوزوں کا مونا ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "سَأَلَهُ فَاسْتَوَكَّحَ" اس نے اس سے مانگا اور وہ دینے سے رک گیا۔

الْأَوْكَحُ: پتھر۔ سخت جگہ۔ مٹی۔

الْوُكْحُ: موٹے چوزے۔ واحد الْوَاكِحُ۔
يَا الْوُكْحُوحُ

وَكَحَدَ يَكْحُدُ وَكُؤُدًا بِالْمَكْمَانِ: اقامت کرنا (وَكُؤُدًا الشَّيْءِ: قصد کرنا اور کہا جاتا ہے "وَكَحَدَ وَكْحُدَهُ وَكَدَ الْأَمْرُ": مشق کرنا (وَوَكَحَدَ وَأَوَكَحَدَ وَأَكْحَدَ) الْعَهْدُ: السُّنْحُجُ: مضبوط کرنا۔ باندھنا (واو سے افع ہے)۔

تَوَكَّحَدَ وَتَوَكَّحَدَ: مضبوط ہونا۔ باندھا جانا۔
الْوُكْحُدُ: مراد۔ قصد۔ ارادہ۔

الْوُكْحُدُ: کوشش۔

الْوُكَادُ وَالْإِكَادُ: رسی یا تسمہ جس کو دو حصے کے وقت گائے کی ٹانگ میں باندھتے ہیں۔ رَجَ وَكَانِدًا۔

الْوُكَيْدُ وَالْإِكَيْدُ: سخت۔ مضبوط۔ ثابت۔
الْأَوْكُدُ وَالْإِكَادُ: اسم تفضیل۔

التَّوَاكَيْدُ وَالتَّوَاكَيْدُ وَالمَيَاكَيْدُ: تسمے جن سے زین کے اگلے حصے کو باندھتے ہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ ان الفاظ کے واحد نہیں۔

المَتَوَكَّحِدُ: کام کے لیے مستعد آمادہ۔

وَكَّرَ يَكْرُ وَكْرًا وَكُؤْرًا الطَّائِرُ: گھوسلے میں داخل ہونا الظَّنِيُّ: ہرن کا کودنا (وَكْرَهُ وَكْرًا) کسی کے ناک پر مکا مارنا (وَكُؤْرًا وَوَكْرًا وَوَكْرًا) الإِنَاءُ: برتن بھرنا۔

وَكَّرَ وَاتَّكَّرَ الطَّائِرُ: پرندہ کا گھوسلہ بنانا۔
تَوَكَّرَ الصَّبِيُّ: بچے کا حکم سیر ہونا الطَّائِرُ: پرندہ کا بھرے ہوئے پونے والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَ حَتَّى تَوَكَّرَ" اس نے پیا یہاں تک کہ آبیوہ ہو گیا۔

الْوُكْرُ: گھوسلہ رَجَ أَوْكْرًا وَأَوْكْرًا وَوُكُؤْرًا (وَالْوُكْرُ وَالْوُكْرِيُّ) دوڑ کی ایک اسم ناقص وُكْرِيٌّ: تیز رفتار اونٹنی۔
الْوُكْرَةُ: اسم مرثہ۔ گھوسلہ رَجَ وَكْرًا (وَالْوُكْرَةُ وَالْوُكْرِيُّ) الوُكْرِيُّ: عمارت سے فراغت کی خوشی کی دعوت۔

وَكْرَهُ يَكْرُهُ وَكْرًا: مکا مارنا۔ وَكْرَهُ

بِالرُّمْحِ: نیزہ مارنا۔ وَكَّرَ الرُّمْحَ فِي الْأَرْضِ: نیزہ کو زمین میں گاڑنا الْقَرْيَةَ: مشک بھرنا أَنْفَهُ: ناک توڑ دینا۔ وَكَّرَ فَلَانًا: دوڑنا۔

تَوَكَّرَ لِلْأَمْرِ: آمادہ ہونا عَلَى عَصَا: لاشکی پر ٹیک لگانا مِنَ الطَّعَامِ: شکم سیر ہونا۔
الْوُكْحَارُ: وَكَّرَ كَأَسْمَاءَ مَالِغَةً: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَكَّازٌ لِكَاؤَرٍ كَأَنَّه حَتَّى فَنَكَّازٍ" نَاقَةٌ وَكْرِيٌّ: پستہ تداو اونٹنی۔

وَكَسَّ يَكْسُ وَكْسًا الشَّيْءُ: گھٹنا۔ کم ہونا۔ وَكَسَّ الشَّيْءُ: گھٹانا۔ وَكَسَّ التَّاجِرُ وَأَوْكَسَ فِي تِجَارَتِهِ: نقصان اُھٹانا۔

وَكَسَّ الشَّيْءُ: گھٹانا فَلَانًا: بھڑکنا۔ ڈانٹنا۔
الْوُكْسُ: چاند کی وہ منزل جس میں گہن ہوتا ہے۔ چاند کا شمس ستارہ کی منزل میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ لَيْلَةُ الْوُكْسِ" یعنی یہ چاند کے شمس ستارہ میں داخل ہونے کی رات ہے۔ زخم کی پیپ۔ کہا جاتا ہے "بَرَأَتِ الشَّحَّةُ عَلَى وَكْسٍ" بزخم اندر سے پیپ رہتے ہوئے اوپر سے اچھا ہو گیا "وَلَا وَكْسٌ وَلَا شَطَطٌ" بغیر کی زیادتی کے۔

الْأَوْكْسُ: زیادہ کم۔ رَجُلٌ أَوْكَسٌ: خسیس کمینہ یا کم حصہ والا۔

وَكَطَطَ يَكْطُ وَكَطًا وَوَكَطَ عَلَى الْأَمْرِ: پیشگی کرنا۔ وَكَطَهُ: بھانا۔ دفع کرنا۔
عَلِمَهُ: کرنا۔
تَوَكَّطَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔ وَكَطَعَهُ يَكْطَعُهُ وَكَطًا: سرزنش کرنا۔ وَكَطَعَ أَنْفَهُ نَاكًا تَوْرَانًا الشَّاةُ: دو حصے وقت گھن پر ہاتھ مارنا۔

وَكَعَ يَوْكَعُ وَكَعًا: چھٹکیا کی طرف مڑے ہوئے قدم والا ہونا۔ صَفَتُ أَوْكَعٌ: مؤنث وَكَعَاءُ۔

وَكَعَ يَوْكَعُ وَكَعَاءَةً: لیم و کمینہ ہونا الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ صَفَتُ وَكَعَجٌ: أَوْكَعُ الرَّجُلُ: بے خبری و برکت ہونا۔ دشوار

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کام لاا لاشئى: مضبوط کرنا القَدَم: مونا اور سخت ہونا الأَمْر: مضبوط و سخت ہونا۔
 السَّقَاء: مضبوط کرنا۔
 اتَّكَع الشئى: سخت ہونا۔
 اسْتَوَكَعَ الرَّجُلُ: سخت معده والا ہونا۔
 مَعْدَتُهُ: سخت ہونا الفِرَاحُ: چوزہ کا مونا ہونا۔
 الوَكِيعُ: سخت مضبوط۔ أَمْرٌ وَكِيعٌ: مستحکم معاملہ۔ الوَقِيعُ: بکری کہ جس کے پیچھے گلہ کی بکریاں چلیں۔ اور کہا جاتا ہے وَكِيعٌ لِكَيْفِ وَوَكُوعٌ لِكُوعٍ یعنی کمینہ آدمی۔
 الاَوْكِعُ: کمینہ۔ بیوقوف۔
 المِيعُكُ: مضبوط۔ محکم۔ غلے کا بڑا بول۔
 المِيعُكَةُ: ہل کا پھل۔
 وَكَفَّ يَكْفُ وَكُفًّا وَوَكِيفًا وَوُكُوفًا وَكُفَانًا وَتَوَكَّافًا الدَّمْعُ وَنَحْوُهُ: پینا البَيْتُ: چھت پینا۔ وَكَفَّتْ وَكُفًّا وَوَكِيفًا وَوَكِيفًا العَيْنُ الدَّمْعُ: آنکھ کا آنسو پینا۔
 وَكَفَّ يُوَكِّفُ وَكُفًّا الرَّجُلُ: گناہ کرنا۔ ظلم کرنا۔
 اَوْكَفَ اِنْكَافًا الدَّمْعُ او البَيْتُ: پینا۔
 هُ: گناہ کرنا۔ اَوْكَفَتِ الْمَرْأَةُ: ولادت کے قریب ہونا۔
 وَكَفَّ وَأَكْفَفَ وَأَكْفَفَ الْحَمَارُ: گدھے پر پالان رکھنا۔ وَكَفَّ الوَكَّافُ: پالان بنانا۔
 وَأَكْفَفَ مُوَكَفَّةَ الرَّجُلِ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرَهَا: مقابلہ کرنا۔
 تَوَكَّفَ السَّطْحُ: چھت پینا البَيْتُ چھت پینا الأَثَرُ: ڈھونڈنا۔ طلب کرنا۔ پیچھا کرنا لِفُلَانٍ: کسی کے در پے ہونا یہاں تک کہ ملاقات ہو جائے الخَبْرُ: ظاہر ہونے کی امید رکھنا۔
 تَوَاكَفَ: انحراف کرنا۔ منہ پھرانا۔ کنارہ ہونا۔
 اسْتَوَكَّفَ اسْتِيعَاكَ المَاءَ: پینا۔ جاری کرنا۔
 الوَكْفُ: چڑے کا چھوٹا۔
 الوَكْفُ: سہ۔ عیب۔ کہا جاتا ہے "هذا

الأَمْرُ وَكَفَّ عَلَيْكَ" یہ کام تمہارے لیے عیب ہے۔ فساد۔ کمزوری۔ پسینہ۔ بوجھ۔ سختی۔ دامن کوہ ج اَوْكَفَ: کہا جاتا ہے "اننى لاأخشى عَلَيْكَ وَكَفَّ فُلَانٌ" مجھے تمہارے اوپر فلاں کے ظلم کا خوف ہے "وَفُلَانٌ عَلِيٌّ وَكَفَّ مِنْ حَاجَتِهِ" جبکہ نہ جانتا ہو کہ کون سی حاجت ہے۔ "وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِي هَذَا الأَمْرُ وَكَفَّ" تمہارے لیے اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔
 الوَكَّافُ والإِكْفَافُ: عرق کیرج وَكُفَّ الوَكَّافُ: فاسولاد ہار بارش۔
 سَحَابٌ وَكُوفٌ: تھوڑا تھوڑا برسنے والا بادل۔
 وَكَلَّ يَكْلُ وَكَلًّا وَوُكُلًا إِلَيْهِ الأَمْرُ: سپرد کرنا۔ کسی پر بھروسہ کر کے کام چھوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے "كَلَّنِي إِلَى كَذَا" مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کام کو کروں۔
 اَوْكَلَّ اِنْكَالًا: سپرد کرنا بِاللَّهِ: اعتماد و بھروسہ کرنا۔ مطیع و فرمانبردار ہونا۔ اَوْكَلَّ العَمَلَ عَلَيَّ فُلَانٌ: سارا کام کسی کیلئے چھوڑ دینا۔
 وَكَلَّ تَوَكَّلًا فُلَانًا: وکیل بنانا۔ اسم الوَكَّالَةُ والوَكَّالَةُ: واکل و واکلًا و مُوَأكَلَةُ القَوْمِ: بعض کا بعض پر بھروسہ کرنا (وَكَالًا) الدَّائِبَةُ: چوپایہ کا بڑا چلنا۔ ست چلنا۔
 تَوَكَّلَ: وکیل بنا لہُ بالتَّجَاحِ: کامیابی کا ضامن ہونا (وَاتَّكَلَّ) عَلَيَّ اللّهُ: بھروسہ کرنا۔ مطیع و فرمانبردار ہونا۔ اَتَّكَلَّ فِي أَمْرِهِ عَلَيَّ فُلَانٌ: اعتماد و بھروسہ کرنا۔ تَوَكَّلَ فِي الأَمْرِ: عاجزی ظاہر کرنا اور غیر پر اعتماد کرنا۔ تَوَاكَلَّ القَوْمُ: بعض کا بعض پر بھروسہ کرنا۔ تَوَاكَلُّوا: چھوڑ دینا اور مدد نہ کرنا۔ تَوَاكَلُّوا الكَلَامَ: ہر ایک کا اپنے ساتھی پر بھروسہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "اسْتَعْتَنَّا القَوْمُ فَتَوَاكَلُّوا" میں نے قوم سے مدد طلب کی ہر ایک نے دوسرے کے سپرد کیا۔

الوَكَّلُ والوَكَّلَةُ والتَّكَنُّهُ والوَكَّلُ: عاجز آدمی جو اپنے امور کو دوسرے کے سپرد کر دے اور اس پر بھروسہ کرے۔
 الوَكَّلُ: غبی۔ بزدل۔ عاجز۔
 الوَكَّالُ والوَكَّالَةُ: کمزوری۔ غبات۔
 الوَكَّالَةُ والوَكَّالَةُ: توکیل کے اسم ہیں۔ بمعنی سپردگی و بھروسہ مع کالات۔
 التَّكَلُّانُ: سپردگی و بھروسہ۔
 الوَاكِلُ: فاضل الخبیل: وہ گھوڑا جس کے چلنے کیلئے مارنے کی ضرورت ہو۔
 الوَكَّيْلُ: وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے یا وہ شخص جس کے سپرد عاجز آدمی اپنا کام کر دے۔ دلیر۔ ج و کلا۔ اور جب یہ اسماء حسنیٰ میں سے ہو تو اس وقت روزی دینے والا کفایت کرنے والا کہ معنی ہوتے ہیں۔
 المُوَكَّلُ: کہ کہا جاتا ہے "هذا الأَمْرُ مَوْكُولٌ إِلَيَّ رَأْيِكَ" یعنی یہ کام تمہارے سپرد ہے۔
 وَكَمَّ يَكُمُّ وَكَمًّا فُلَانًا عَنْ حَاجَتِهِ: بہت سختی سے باز رکھنا الأَمْرُ فُلَانًا: غمگین کرنا۔ وَكَمَّتِ الأَرْضُ: روندی ہوئی اور چری ہوئی گھاس والی ہونا۔
 وَكَمَّ يَكُمُّ كِمَّةَ الرَّجُلِ مِنَ الشئى: اداس و غمگین ہونا۔
 الوَكْمَةُ: اسم مرثہ۔ بیشہ جس میں درندے زیادہ ہوں۔
 المُوَكَّمُ: بہت غمگین۔
 وَكُنَّ يَكُنُّ وَكُنًّا وَوُكُنًا الطَّائِرُ بِيَضَّةٍ او عَلَيَّ بِيَضَّةٍ: پرندہ کا اٹلے پینا۔ صفت مذکر و اِكْنُ ج وَوُكُونٌ صفت مؤنث و اِكْنَةٌ ج وَوُكُونٌ و اِكْنَاتُ الطَّائِرِ: گھونٹلے میں داخل ہونا (وَكُنًّا) الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ بیٹھنا۔
 تَوَكَّنَ الرَّجُلُ: مجلس میں اچھی طرح تکیہ لگانا۔ کسی جگہ پر قرار پکڑنا۔
 الوَاكِنُ: بیٹھنے والا۔ مؤنث و اِكْنَةٌ مِنَ الطَّيْرِ: درخت یا کڑی یاد پوار میں وہ جگہ جہاں

الوالد باپ ج والدون. الوالذان باپ- شاة والد جاملہ بکری ج ولد

الوالذہ مال- ج والدات اللدۃ۔ ہم عمر۔ ہمسر (اس کی اصل ولد ہے) تم کہتے ہو "فلان لذتی فلاں میرا ہم عمر ہے شنیہ لذانج لذات ولذون اور اس کی تصغیر ولیدات و ولیدون۔ اللدۃ جننے کا وقت۔

الولادۃ بہت جننے والی۔

الولود من الشاة جننے والی بکری۔ بہت جننے والی ج ولد

الولودیۃ والولودیۃ بچپنا۔ سخت دلی۔ الولید پیدا شدہ۔ بچہ۔ غلام ج ولدۃ و ولدان مئث ولیدج ولیدم اُم الولید۔ مرغی کی کیت۔ کہا جاتا ہے "فعل ذلك فی ولیدتیہ اس نے اپنے بچپنے میں ایسا کیا۔

المولد۔ پیدائش کی جگہ یا وقت۔ ج موالد۔

المولد الکھربانی بچلی پیدا کرنے والا بجز شیر پالی یا پھول کے ذریعے۔

المیلاد پیدائش کا وقت وعیند المیلاد حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن۔ کرسمس ڈے۔

المولد۔ نیا پیدا شدہ اور اسی سے ہے "المولدون من الشعراء او الأدباء ان کے نئے ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا۔

رجل مولد و کلام مولد غیر خاص عربی مرد یا کلام۔

المولدة والی جنائی۔

المولدة نئی پیدا شدہ چیز۔ کہا جاتا ہے "جاءنا بیئنا مولدۃ ہمارے پاس ایسا بینہ لایا جو نیا ہے۔"

المولود۔ جھوٹا بچہ مولود۔

ولذہ یلد ولذہ الرجل تیز چلنا۔ تیز حرکت کرتا۔

ولست نلس ولسا وولسانا۔ الابل اونٹ کا تیز دوڑنا۔ صفت ولوس (ولسا) الرجل جو کادینا۔ خیانت کرنا۔

المحدیث کنایہ سے بات کرنا۔

والسۃ موالسۃ فریب دینا۔ مہانت کرنا (واولس) بالمحدیث کنایہ سے بات کرنا۔

توالس القوم علیہ کسی کے خلاف دھوکا اور خیانت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

الولاس بھیریا۔

ولع یلع ولعا وولعا جن مار لینا (ولعا وولعا) دوڑنے میں ہلکا پھلکا ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ اور کہا جاتا ہے "ما ادری ما ولعہ" مجھے نہیں معلوم اس کو کس چیز نے روکا۔

ولع یولع ویلع ولعا و ولوعا و اولع ایلاخا وتولع بہ بہت محبت کرنا۔ شیفٹ ہونا۔ بہت گرویدہ ہونا۔ ولع بہ بھڑکایا جانا۔

ولع الثور بہل کے چستہ رنگ کا لبا ہونا حسدہ سفید داغوں والا بنانا ہ فلان بھڑکانا۔ کہا جاتا ہے "اتلع فلانا والعه یعنی اس کا حال مجھ سے مخفی ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے۔

ایتلع فلان قلبی دل نکال لینا۔

الولع۔ جھوٹ۔

الوالع فا۔ جھوٹا ج ولع ولعہ ولعہ والعه کہا جاتا ہے "ولع والع ہذا جھوٹ۔"

الولع والولوع واللاعة بہت محبت اور تعلق والا۔

الولعۃ لایعنی باتوں کا گرویدہ۔ الولیع کھجور کا ٹھونڈنا ٹھنڈا۔ ولیعۃ۔

المولع۔ بے حس کی بیماری "المولع من الذواب" بچہ پاپیہ جس کے بدن پر سیاہ سفید کے علاوہ اور مختلف رنگ ہوں۔

الموتلع القلب والموتلع القلب آشفٹہ دل۔

ولع یلع وولع یلع وولع وولع ولعا وولعا وولوعا وولوعا ولعنا کلث الاناء وفی الاناء بٹے کا برتن میں منہ ڈالنا۔

اطراف زبان سے پینا۔

اولع ایلاخا کلث کتے کو پلانا۔

الولعۃ کم مرۃ۔ چھوٹی ڈوبی۔

المیلع والمیلعۃ برتن جس میں کتابخانہ ڈال دے یا جس میں پانی پلایا جائے۔ ج میلع۔

المستولع من الناس نیک و عار کی پروانہ کرنے والا۔

ولف یلف ولفا وولفا وولفا ولیفنا الیوقی بچی کا لگاتار چمکانا (ولیفنا) القوم: اکٹھے آنا۔

والفہ وولفا وولفا موالفۃ محبت کرنا۔ اپنی کسی کی طرف نسبت کرنا اور متصل ہونا۔

توالف موالفۃ وولفا نار الشیطان: ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنا۔

الولف سادھی۔ دوست۔

الولیف والولوف لگاتار چمکنے والی بچی۔

الولایف والولیف۔ ایک قسم کی دوڑ جس میں نائیکس یکبارگی زمین پر پڑتی ہیں۔

ولق یلق ولقا فی السیر جلدی چلنا ہ بالروح ہلکا تیز ہ مارنا ہ بالسیف تلوار سے مارنا الحدیث پھیلانا۔ گھڑنا عینہ آکھ پر مار کر پھوڑ دینا فی کذبہ او سیرہ لگاتار جھوٹ بولنا یا ہمیشہ چلنا۔

اولق ایلاقا ولق القباہ۔ ونا۔ صا۔ مالوق و ملوق۔

الولقی وولقی۔ بیروڑ۔ بی بی۔ "ناقۃ ولقی قہر فارسی۔"

الولیقۃ پتہ۔ م کا سماج۔ مادور۔ دور۔ تیار ہوتا ہے۔

الاولع بگل پن۔

اولم ایلاما لیمہ کرنا فلان بخلقت میں یا اخلاق و عقل میں کامل ہونا۔

الولم والولم بند۔ زین یا کجاوہ کا ٹک۔

الولمۃ نمائی۔ کسی چیز کا اجتماع۔

الولیمۃ شادی کی خوشی کا کھانا۔ ج ولیم۔ تولن الرجل مصائب کی وجہ سے بچ پڑنا۔

ولہ یلہ وولیمیلہ وولہ ولہا وولہ واتلہ بہت زیادہ ممکن ہونا یہاں تک کہ عقل راسل ہونے کے قریب ہو جائے شدت غم کی وجہ سے متحیر ہونا۔ صفت مذکر والہ

وَالِهَ وَوَلَهَانَ وَصَفَتْ مَوْنَتْ وَالِهَ وَ وَالِهَةَ
وَوَلِهِي وَوَلِهَ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ نَحْنُ كَالْكَهْمَرِ
کرموں کے پاس جانا اَلَمْ الْجِي وَلِدَهَا: مشتاق
ہونا۔

مِنْهُ: خوف کرنا۔
وَلَهَ الرَّجُلُ: شدت غم میں ڈالنا الْمَرْأَةَ:
عمورت اور اس کے بچے میں جدائی کر دینا
(وَأَوْلَاهُ) الْحَزْنَ أَوْ الْوَجْدَ فَلَانًا: سرگشتہ
وچیران بنادینا۔

أَتَلَهُ النَّيْبُ فَلَانًا: مدہوش کر دینا۔ عقل
زائل کر دینا۔

اسْتَوْلَى اسْتِيْلَاهَا: بدحواس ہونا۔
مَاءٌ مُؤَلَّةٌ وَ مُؤَلَّةٌ: بیابان کی طرف چھوڑا
ہوایا۔ الْمُوَلَّةُ: کمزری۔

الْمِيْلَةُ: حیرانی و پریشانی میں ڈالنے والا
بیابان۔

الْمِيْلَاهُ: تیز ہوا۔ اِمْرَأَةٌ مِيْلَاهُ: بچے کی
موت کی وجہ سے بہت جزع فزع کرنے والی
عورت۔ ج مَوَالِيَهُ:

وَلَوْلَتْ وَلَوْلَةٌ وَ لَوْلَا الْمَرْأَةُ: داویلا
کرنا۔ چھٹنا۔ وَلَوْلَتْ الْقَوْمُ: کمان سے آواز
نکلنا۔

الْوَلْوَالُ: شدت غم۔ زراؤ۔

وَلِيٌّ وَ وَلِيٌّ يَلِيُّ وَلِيًّا فَلَانًا: قریب ہونا۔
متصل ہونا (باب ضرب سے قلیل الاستعمال
ہے) بغیر فصل کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کہا جاتا ہے
”جَلَسْتُ مِمَّا يَلِيهِ“

وَلِيٌّ يَلِيُّ وَلَايَةً وَ وَايَةَ الشَّيْءِ وَ عَلِيٌّ
الشَّيْءِ: والی ہونا۔ متصرف ہونا الرَّجُلُ وَ
عَلِيَّهُ: مدد کرنا الْبَلَدَ: قابض و متصرف ہونا
(وَلَايَةً) الرَّجُلُ: محبت کرنا۔

وَلِيٌّ الْمَكَانَ: موسم بہار کی بارش سے
سیراب ہونا۔

وَلِيٌّ تَوَلَّى فَلَانًا الْأَمْرَ: والی مقرر کرنا۔
وَلَاهُ كَذَا: کسی کے پیچھے کرنا۔ وَلَاهُ ظَهْرَهُ:
اپنے پیٹھ کے پیچھے کرنا۔ وَلِيٌّ الشَّيْءِ وَ عَنِ
الشَّيْءِ: اعراض کرنا۔ دور ہونا۔ وَلِيٌّ هَارِبًا:

پیٹھ دے کر بھاگنا۔ وَلِيٌّ الرُّطْبُ: خشک
ہونے لگنا۔ عَنْ زَيْدٍ بَوَّذَهُ: دوستی کا بدل
جانا۔

أَوْلَى إِيْلَاءَ فَلَانًا الْأَمْرَ: والی مقرر کرنا۔

هُ مَعْرُوفًا: کسی پر احسان کرنا۔ اور اسی سے
ہے جو تَجِبُ کے موقع پر بولا جاتا ہے ”مَا
أَوْلَاهُ لِلْمَعْرُوفِ“ وہ کتنا فیاض ہے (اور یہ
شاذ ہے اس لیے کہ ثلاثی مزید ہے یہ صیغہ
نہیں آتا) أَوْلَاهُ عَلَى النَّيْمِ: وصیت کرنا۔

وَالِيٌّ وَلَايَةً وَ مَوَالِيَهُ الرَّجُلُ: دوستی کرنا۔
مدد کرنا الشَّيْءِ: لگا کر کرنا الْغَنَمَ: جدا جدا کرنا

بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: بیاپے کرنا۔

تَوَلَّى تَوَلَّى الْأَمْرَ: ذمہ داری لینا۔ کسی کے
کام کے لیے مستعد ہونا فَلَانًا: ولی مقرر کرنا
عَنْهُ: اعراض کرنا اور چھوڑ دینا تَوَلَّى هَارِبًا:
پیٹھ دے کر بھاگنا الشَّيْءِ: کسی چیز کے ساتھ
لازم ہونا الرُّطْبُ: خشک ہونے لگنا عَلِيٌّ
بَوَّذَهُ: دوستی کا بدل جانا۔

تَوَالَى تَوَالَى: بیاپے ہونا۔ اور کہا جاتا ہے
”تَوَالَى الْغَنَمَ عَنِ الْمَعْرِزِ“ بھیریں
بکریوں سے جدا ہو گئیں۔

اسْتَوْلَى اسْتِيْلَاءً عَلَيْهِ: غالب ہونا۔
قدرت یافتہ ہونا عَلِيٌّ الْعَايَةَ: انتہا کو پہنچنا عَلِيٌّ
الشَّيْءِ: قابض ہونا۔

الْوَلِيُّ: س۔ قرب۔ نزدیکی۔ بارش بہار کے
بعد دوسری بارش (پہلی بارش کو دوسری کہتے
ہیں) اور کہا جاتا ہے ”دَارَهُ وَلِيُّ دَارِي“ اس
کا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔

الْوَلَاءُ: محبت۔ دوستی۔ نزدیکی و قرابت۔
مرد۔ ملکیت۔ الوَلَاءُ: میراث جو آزاد کردہ
غلام سے یا عقد مولا کی وجہ سے حاصل ہو اور
کہا جاتا ہے ”جَاءَ وَالْوَلَاءُ أَوْ عَلِيٌّ وَلَايَةً“
وہ لوگ پے پے آئے۔

الْوَلِيُّ جِ الْأَوْلِيَّةُ: بہار کی بارش کے بعد
دوسری بارش جِ الْأَوْلِيَّةُ: محبت کرنے والا۔
دوست۔ مددگار۔ بڑوسی۔ حلیف۔ تابع۔
دالاد۔ ہر وہ شخص جو کسی کے کام کا منتظم ہو۔ کہا

جاتا ہے ”اللَّهُ وَلِيُّكَ“ اللہ تمہارا حافظ و
مددگار ہے۔ ”وَالْمُؤْمِنُ وَلِيُّ اللَّهِ“ یعنی
مومن اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔
وَلِيُّ الْعَهْدِ: وارث تخت و تاج۔ وَلِيُّ
النَّيْمِ: یتیم کا والی۔

الْوَلَايَةُ: س۔ وہ بلا جن پر ایک حاکم قابض
ہو۔ ج وَلَايَاتُ:

الْوَلَايَةُ: حکومت۔ امارت۔ سلطنت۔ وہ
ممالک جن پر ایک حاکم قابض ہو۔ الوَلَايَةُ
وَالْوَلَايَةُ وَالْوَلَايَةُ: رشتہ داری۔ اور کہا جاتا
ہے ”هُمْ عَلِيٌّ وَلَايَةً أَوْ وَلَايَةً وَاحِدَةً“
وہ لوگ میری مدد میں اکٹھے ہیں یا وہ سب
میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔

الْوَلِيَّةُ: ولی کا مؤنث نزدیکی۔ عرق گیر ج
وَلِيَّاتُ وَوَلَايَا: دارِ وِلْيَةٍ: نزدیک کا گھر۔

الْوَالِي: فا۔ وَالِي الْبَلَدِ: حاکم شہر۔ ج
وَلَاةُ:

الْأَوْلَى: زیادہ حقدار۔ زیادہ لائق۔ کہا جاتا ہے
”هُوَ أَوْلَى بِكَذَا“ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔
شْتِيَّةُ الْأَوْلِيَانِ جِ الْأَوْلُونَ وَ الْأَوْلَى مَوْنَتْ
الْوَلِيَّاتُ: شْتِيَّةُ الْوَلِيَّانِ جِ الْوَلِيِّ
وَالْوَلِيَّاتُ: ”وَأَوْلَى لَكَ“ دھکی اور وعید

کے طور پر استعمال ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ شر
تمہارے قریب ہے۔ بچو۔ اور بعضوں نے کہا
ہے کہ اس کے معنی الْوَلِيُّ لَكَ يَا أَوْلَاكِ
اللَّهُ مَا تَكْرَهُهُ“ کے ہیں۔ اس صورت میں
لام زائد ہے اور ایسا ہی ”أَوْلَى لِي وَ أَوْلَى
لَهُ“ کہا جاتا ہے۔

الْمَتَوَالِيَةُ: شیعہ حضرات جنہوں نے حضرت
علیٰ اور اہل بیت کو اپنایا۔

الْمَتَوَالِيَةُ الْحَسَابِيَّةُ: مجموعہ اعدا جن میں ہر
ایک بعد والا پہلے سے اساس کی بنیاد پر بڑھ
جائے۔ مثلاً: ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۴، ۳۷، ۴۰، ۴۳، ۴۶، ۴۹، ۵۲، ۵۵، ۵۸، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۰، ۷۳، ۷۶، ۷۹، ۸۲، ۸۵، ۸۸، ۹۱، ۹۴، ۹۷، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۴، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۲، ۱۴۵، ۱۴۸، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۵۷، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۱، ۱۸۴، ۱۸۷، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۱۴، ۲۱۷، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۴۱، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۰، ۲۵۳، ۲۵۶، ۲۵۹، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۷۱، ۲۷۴، ۲۷۷، ۲۸۰، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۹، ۲۹۲، ۲۹۵، ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۰۴، ۳۰۷، ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۱۶، ۳۱۹، ۳۲۲، ۳۲۵، ۳۲۸، ۳۳۱، ۳۳۴، ۳۳۷، ۳۴۰، ۳۴۳، ۳۴۶، ۳۴۹، ۳۵۲، ۳۵۵، ۳۵۸، ۳۶۱، ۳۶۴، ۳۶۷، ۳۷۰، ۳۷۳، ۳۷۶، ۳۷۹، ۳۸۲، ۳۸۵، ۳۸۸، ۳۹۱، ۳۹۴، ۳۹۷، ۴۰۰، ۴۰۳، ۴۰۶، ۴۰۹، ۴۱۲، ۴۱۵، ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۲۴، ۴۲۷، ۴۳۰، ۴۳۳، ۴۳۶، ۴۳۹، ۴۴۲، ۴۴۵، ۴۴۸، ۴۵۱، ۴۵۴، ۴۵۷، ۴۶۰، ۴۶۳، ۴۶۶، ۴۶۹، ۴۷۲، ۴۷۵، ۴۷۸، ۴۸۱، ۴۸۴، ۴۸۷، ۴۹۰، ۴۹۳، ۴۹۶، ۴۹۹، ۵۰۲، ۵۰۵، ۵۰۸، ۵۱۱، ۵۱۴، ۵۱۷، ۵۲۰، ۵۲۳، ۵۲۶، ۵۲۹، ۵۳۲، ۵۳۵، ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۴، ۵۴۷، ۵۵۰، ۵۵۳، ۵۵۶، ۵۵۹، ۵۶۲، ۵۶۵، ۵۶۸، ۵۷۱، ۵۷۴، ۵۷۷، ۵۸۰، ۵۸۳، ۵۸۶، ۵۸۹، ۵۹۲، ۵۹۵، ۵۹۸، ۶۰۱، ۶۰۴، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۳، ۶۱۶، ۶۱۹، ۶۲۲، ۶۲۵، ۶۲۸، ۶۳۱، ۶۳۴، ۶۳۷، ۶۴۰، ۶۴۳، ۶۴۶، ۶۴۹، ۶۵۲، ۶۵۵، ۶۵۸، ۶۶۱، ۶۶۴، ۶۶۷، ۶۷۰، ۶۷۳، ۶۷۶، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۵، ۶۸۸، ۶۹۱، ۶۹۴، ۶۹۷، ۷۰۰، ۷۰۳، ۷۰۶، ۷۰۹، ۷۱۲، ۷۱۵، ۷۱۸، ۷۲۱، ۷۲۴، ۷۲۷، ۷۳۰، ۷۳۳، ۷۳۶، ۷۳۹، ۷۴۲، ۷۴۵، ۷۴۸، ۷۵۱، ۷۵۴، ۷۵۷، ۷۶۰، ۷۶۳، ۷۶۶، ۷۶۹، ۷۷۲، ۷۷۵، ۷۷۸، ۷۸۱، ۷۸۴، ۷۸۷، ۷۹۰، ۷۹۳، ۷۹۶، ۷۹۹، ۸۰۲، ۸۰۵، ۸۰۸، ۸۱۱، ۸۱۴، ۸۱۷، ۸۲۰، ۸۲۳، ۸۲۶، ۸۲۹، ۸۳۲، ۸۳۵، ۸۳۸، ۸۴۱، ۸۴۴، ۸۴۷، ۸۵۰، ۸۵۳، ۸۵۶، ۸۵۹، ۸۶۲، ۸۶۵، ۸۶۸، ۸۷۱، ۸۷۴، ۸۷۷، ۸۸۰، ۸۸۳، ۸۸۶، ۸۸۹، ۸۹۲، ۸۹۵، ۸۹۸، ۹۰۱، ۹۰۴، ۹۰۷، ۹۱۰، ۹۱۳، ۹۱۶، ۹۱۹، ۹۲۲، ۹۲۵، ۹۲۸، ۹۳۱، ۹۳۴، ۹۳۷، ۹۴۰، ۹۴۳، ۹۴۶، ۹۴۹، ۹۵۲، ۹۵۵، ۹۵۸، ۹۶۱، ۹۶۴، ۹۶۷، ۹۷۰، ۹۷۳، ۹۷۶، ۹۷۹، ۹۸۲، ۹۸۵، ۹۸۸، ۹۹۱، ۹۹۴، ۹۹۷، ۱۰۰۰، ۱۰۰۳، ۱۰۰۶، ۱۰۰۹، ۱۰۱۲، ۱۰۱۵، ۱۰۱۸، ۱۰۲۱، ۱۰۲۴، ۱۰۲۷، ۱۰۳۰، ۱۰۳۳، ۱۰۳۶، ۱۰۳۹، ۱۰۴۲، ۱۰۴۵، ۱۰۴۸، ۱۰۵۱، ۱۰۵۴، ۱۰۵۷، ۱۰۶۰، ۱۰۶۳، ۱۰۶۶، ۱۰۶۹، ۱۰۷۲، ۱۰۷۵، ۱۰۷۸، ۱۰۸۱، ۱۰۸۴، ۱۰۸۷، ۱۰۹۰، ۱۰۹۳، ۱۰۹۶، ۱۰۹۹، ۱۱۰۲، ۱۱۰۵، ۱۱۰۸، ۱۱۱۱، ۱۱۱۴، ۱۱۱۷، ۱۱۲۰، ۱۱۲۳، ۱۱۲۶، ۱۱۲۹، ۱۱۳۲، ۱۱۳۵، ۱۱۳۸، ۱۱۴۱، ۱۱۴۴، ۱۱۴۷، ۱۱۵۰، ۱۱۵۳، ۱۱۵۶، ۱۱۵۹، ۱۱۶۲، ۱۱۶۵، ۱۱۶۸، ۱۱۷۱، ۱۱۷۴، ۱۱۷۷، ۱۱۸۰، ۱۱۸۳، ۱۱۸۶، ۱۱۸۹، ۱۱۹۲، ۱۱۹۵، ۱۱۹۸، ۱۲۰۱، ۱۲۰۴، ۱۲۰۷، ۱۲۱۰، ۱۲۱۳، ۱۲۱۶، ۱۲۱۹، ۱۲۲۲، ۱۲۲۵، ۱۲۲۸، ۱۲۳۱، ۱۲۳۴، ۱۲۳۷، ۱۲۴۰، ۱۲۴۳، ۱۲۴۶، ۱۲۴۹، ۱۲۵۲، ۱۲۵۵، ۱۲۵۸، ۱۲۶۱، ۱۲۶۴، ۱۲۶۷، ۱۲۷۰، ۱۲۷۳، ۱۲۷۶، ۱۲۷۹، ۱۲۸۲، ۱۲۸۵، ۱۲۸۸، ۱۲۹۱، ۱۲۹۴، ۱۲۹۷، ۱۳۰۰، ۱۳۰۳، ۱۳۰۶، ۱۳۰۹، ۱۳۱۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۸، ۱۳۲۱، ۱۳۲۴، ۱۳۲۷، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۶، ۱۳۳۹، ۱۳۴۲، ۱۳۴۵، ۱۳۴۸، ۱۳۵۱، ۱۳۵۴، ۱۳۵۷، ۱۳۶۰، ۱۳۶۳، ۱۳۶۶، ۱۳۶۹، ۱۳۷۲، ۱۳۷۵، ۱۳۷۸، ۱۳۸۱، ۱۳۸۴، ۱۳۸۷، ۱۳۹۰، ۱۳۹۳، ۱۳۹۶، ۱۳۹۹، ۱۴۰۲، ۱۴۰۵، ۱۴۰۸، ۱۴۱۱، ۱۴۱۴، ۱۴۱۷، ۱۴۲۰، ۱۴۲۳، ۱۴۲۶، ۱۴۲۹، ۱۴۳۲، ۱۴۳۵، ۱۴۳۸، ۱۴۴۱، ۱۴۴۴، ۱۴۴۷، ۱۴۵۰، ۱۴۵۳، ۱۴۵۶، ۱۴۵۹، ۱۴۶۲، ۱۴۶۵، ۱۴۶۸، ۱۴۷۱، ۱۴۷۴، ۱۴۷۷، ۱۴۸۰، ۱۴۸۳، ۱۴۸۶، ۱۴۸۹، ۱۴۹۲، ۱۴۹۵، ۱۴۹۸، ۱۵۰۱، ۱۵۰۴، ۱۵۰۷، ۱۵۱۰، ۱۵۱۳، ۱۵۱۶، ۱۵۱۹، ۱۵۲۲، ۱۵۲۵، ۱۵۲۸، ۱۵۳۱، ۱۵۳۴، ۱۵۳۷، ۱۵۴۰، ۱۵۴۳، ۱۵۴۶، ۱۵۴۹، ۱۵۵۲، ۱۵۵۵، ۱۵۵۸، ۱۵۶۱، ۱۵۶۴، ۱۵۶۷، ۱۵۷۰، ۱۵۷۳، ۱۵۷۶، ۱۵۷۹، ۱۵۸۲، ۱۵۸۵، ۱۵۸۸، ۱۵۹۱، ۱۵۹۴، ۱۵۹۷، ۱۶۰۰، ۱۶۰۳، ۱۶۰۶، ۱۶۰۹، ۱۶۱۲، ۱۶۱۵، ۱۶۱۸، ۱۶۲۱، ۱۶۲۴، ۱۶۲۷، ۱۶۳۰، ۱۶۳۳، ۱۶۳۶، ۱۶۳۹، ۱۶۴۲، ۱۶۴۵، ۱۶۴۸، ۱۶۵۱، ۱۶۵۴، ۱۶۵۷، ۱۶۶۰، ۱۶۶۳، ۱۶۶۶، ۱۶۶۹، ۱۶۷۲، ۱۶۷۵، ۱۶۷۸، ۱۶۸۱، ۱۶۸۴، ۱۶۸۷، ۱۶۹۰، ۱۶۹۳، ۱۶۹۶، ۱۶۹۹، ۱۷۰۲، ۱۷۰۵، ۱۷۰۸، ۱۷۱۱، ۱۷۱۴، ۱۷۱۷، ۱۷۲۰، ۱۷۲۳، ۱۷۲۶، ۱۷۲۹، ۱۷۳۲، ۱۷۳۵، ۱۷۳۸، ۱۷۴۱، ۱۷۴۴، ۱۷۴۷، ۱۷۵۰، ۱۷۵۳، ۱۷۵۶، ۱۷۵۹، ۱۷۶۲، ۱۷۶۵، ۱۷۶۸، ۱۷۷۱، ۱۷۷۴، ۱۷۷۷، ۱۷۸۰، ۱۷۸۳، ۱۷۸۶، ۱۷۸۹، ۱۷۹۲، ۱۷۹۵، ۱۷۹۸، ۱۸۰۱، ۱۸۰۴، ۱۸۰۷، ۱۸۱۰، ۱۸۱۳، ۱۸۱۶، ۱۸۱۹، ۱۸۲۲، ۱۸۲۵، ۱۸۲۸، ۱۸۳۱، ۱۸۳۴، ۱۸۳۷، ۱۸۴۰، ۱۸۴۳، ۱۸۴۶، ۱۸۴۹، ۱۸۵۲، ۱۸۵۵، ۱۸۵۸، ۱۸۶۱، ۱۸۶۴، ۱۸۶۷، ۱۸۷۰، ۱۸۷۳، ۱۸۷۶، ۱۸۷۹، ۱۸۸۲، ۱۸۸۵، ۱۸۸۸، ۱۸۹۱، ۱۸۹۴، ۱۸۹۷، ۱۹۰۰، ۱۹۰۳، ۱۹۰۶، ۱۹۰۹، ۱۹۱۲، ۱۹۱۵، ۱۹۱۸، ۱۹۲۱، ۱۹۲۴، ۱۹۲۷، ۱۹۳۰، ۱۹۳۳، ۱۹۳۶، ۱۹۳۹، ۱۹۴۲، ۱۹۴۵، ۱۹۴۸، ۱۹۵۱، ۱۹۵۴، ۱۹۵۷، ۱۹۶۰، ۱۹۶۳، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹، ۱۹۷۲، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸، ۱۹۸۱، ۱۹۸۴، ۱۹۸۷، ۱۹۹۰، ۱۹۹۳، ۱۹۹۶، ۲۰۰۰، ۲۰۰۳، ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸، ۲۰۲۱، ۲۰۲۴، ۲۰۲۷، ۲۰۳۰، ۲۰۳۳، ۲۰۳۶، ۲۰۳۹، ۲۰۴۲، ۲۰۴۵، ۲۰۴۸، ۲۰۵۱، ۲۰۵۴، ۲۰۵۷، ۲۰۶۰، ۲۰۶۳، ۲۰۶۶، ۲۰۶۹، ۲۰۷۲، ۲۰۷۵، ۲۰۷۸، ۲۰۸۱، ۲۰۸۴، ۲۰۸۷، ۲۰۹۰، ۲۰۹۳، ۲۰۹۶، ۲۰۹۹، ۲۱۰۲، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۱۱، ۲۱۱۴، ۲۱۱۷، ۲۱۲۰، ۲۱۲۳، ۲۱۲۶، ۲۱۲۹، ۲۱۳۲، ۲۱۳۵، ۲۱۳۸، ۲۱۴۱، ۲۱۴۴، ۲۱۴۷، ۲۱۵۰، ۲۱۵۳، ۲۱۵۶، ۲۱۵۹، ۲۱۶۲، ۲۱۶۵، ۲۱۶۸، ۲۱۷۱، ۲۱۷۴، ۲۱۷۷، ۲۱۸۰، ۲۱۸۳، ۲۱۸۶، ۲۱۸۹، ۲۱۹۲، ۲۱۹۵، ۲۱۹۸، ۲۲۰۱، ۲۲۰۴، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۳، ۲۲۱۶، ۲۲۱۹، ۲۲۲۲، ۲۲۲۵، ۲۲۲۸، ۲۲۳۱، ۲۲۳۴، ۲۲۳۷، ۲۲۴۰، ۲۲۴۳، ۲۲۴۶، ۲۲۴۹، ۲۲۵۲، ۲۲۵۵، ۲۲۵۸، ۲۲۶۱، ۲۲۶۴، ۲۲۶۷، ۲۲۷۰، ۲۲۷۳، ۲۲۷۶، ۲۲۷۹، ۲۲۸۲، ۲۲۸۵، ۲۲۸۸، ۲۲۹۱، ۲۲۹۴، ۲۲۹۷، ۲۳۰۰، ۲۳۰۳، ۲۳۰۶، ۲۳۰۹، ۲۳۱۲، ۲۳۱۵، ۲۳۱۸، ۲۳۲۱، ۲۳۲۴، ۲۳۲۷، ۲۳۳۰، ۲۳۳۳، ۲۳۳۶، ۲۳۳۹، ۲۳۴۲، ۲۳۴۵، ۲۳۴۸، ۲۳۵۱، ۲۳۵۴، ۲۳۵۷، ۲۳۶۰، ۲۳۶۳، ۲۳۶۶، ۲۳۶۹، ۲۳۷۲، ۲۳۷۵، ۲۳۷۸، ۲۳۸۱، ۲۳۸۴، ۲۳۸۷، ۲۳۹۰، ۲۳۹۳، ۲۳۹۶، ۲۳۹۹، ۲۴۰۲، ۲۴۰۵، ۲۴۰۸، ۲۴۱۱، ۲۴۱۴، ۲۴۱۷، ۲۴۲۰، ۲۴۲۳، ۲۴۲۶، ۲۴۲۹، ۲۴۳۲، ۲۴۳۵، ۲۴۳۸، ۲۴۴۱، ۲۴۴۴، ۲۴۴۷، ۲۴۵۰، ۲۴۵۳، ۲۴۵۶، ۲۴۵۹، ۲۴۶۲، ۲۴۶۵، ۲۴۶۸، ۲۴۷۱، ۲۴۷۴، ۲۴۷۷، ۲۴۸۰، ۲۴۸۳، ۲۴۸۶، ۲۴۸۹، ۲۴۹۲، ۲۴۹۵، ۲۴۹۸، ۲۵۰۱، ۲۵۰۴، ۲۵۰۷، ۲۵۱۰، ۲۵۱۳، ۲۵۱۶، ۲۵۱۹، ۲۵۲۲، ۲۵۲۵، ۲۵۲۸، ۲۵۳۱، ۲۵۳۴، ۲۵۳۷، ۲۵۴۰، ۲۵۴۳، ۲۵۴۶، ۲۵۴۹، ۲۵۵۲، ۲۵۵۵، ۲۵۵۸، ۲۵۶۱، ۲۵۶۴، ۲۵۶۷، ۲۵۷۰، ۲۵۷۳، ۲۵۷۶، ۲۵۷۹، ۲۵۸۲، ۲۵۸۵، ۲۵۸۸، ۲۵۹۱، ۲۵۹۴، ۲۵۹۷، ۲۶۰۰، ۲۶۰۳، ۲۶۰۶، ۲۶۰۹، ۲۶۱۲، ۲۶۱۵، ۲۶۱۸، ۲۶۲۱، ۲۶۲۴، ۲۶۲۷، ۲۶۳۰، ۲۶۳۳، ۲۶۳۶، ۲۶۳۹، ۲۶۴۲، ۲۶۴۵، ۲۶۴۸، ۲۶۵۱، ۲۶۵۴، ۲۶۵۷، ۲۶۶۰، ۲۶۶۳، ۲۶۶۶، ۲۶۶۹، ۲۶۷۲، ۲۶۷۵، ۲۶۷۸، ۲۶۸۱، ۲۶۸۴، ۲۶۸۷، ۲۶۹۰، ۲۶۹۳، ۲۶۹۶، ۲۶۹۹، ۲۷۰۲، ۲۷۰۵، ۲۷۰۸، ۲۷۱۱، ۲۷۱۴، ۲۷۱۷، ۲۷۲۰، ۲۷۲۳، ۲۷۲۶، ۲۷۲۹، ۲۷۳۲، ۲۷۳۵، ۲۷۳۸، ۲۷۴۱، ۲۷۴۴، ۲۷۴۷، ۲۷۵۰، ۲۷۵۳، ۲۷۵۶، ۲۷۵۹، ۲۷۶۲، ۲۷۶۵، ۲۷۶۸، ۲۷۷۱، ۲۷۷۴، ۲۷۷۷، ۲۷۸۰، ۲۷۸۳، ۲۷۸۶، ۲۷۸۹، ۲۷۹۲، ۲۷۹۵، ۲۷۹۸، ۲۸۰۱، ۲۸۰۴، ۲۸۰۷، ۲۸۱۰، ۲۸۱۳، ۲۸۱۶، ۲۸۱۹، ۲۸۲۲، ۲۸۲۵، ۲۸۲۸، ۲۸۳۱، ۲۸۳۴، ۲۸۳۷، ۲۸۴۰، ۲۸۴۳، ۲۸۴۶، ۲۸۴۹، ۲۸۵۲، ۲۸۵۵، ۲۸۵۸، ۲۸۶۱، ۲۸۶۴، ۲۸۶۷، ۲۸۷۰، ۲۸۷۳، ۲۸۷۶، ۲۸۷۹، ۲۸۸۲، ۲۸۸۵، ۲۸۸۸، ۲۸۹۱، ۲۸۹۴، ۲۸۹۷، ۲۹۰۰، ۲۹۰۳، ۲۹۰۶، ۲۹۰۹، ۲۹۱۲، ۲۹۱۵، ۲۹۱۸، ۲۹۲

میں سے بہہ کرے۔ اور کہا جاتا ہے ”اَوْهَبْتُ لِكَذَا“ یعنی میں اس پر قادر ہوں۔

تَوَهَّبَ الْقَوْمُ: بعض کا بعض کو بہہ کرنا۔ اَتَهَّبَ اِتِّهَابًا الْهَيْبَةَ: بہہ قبول کرنا۔

اسْتَوْهَبَ اسْتِيهَابًا الْهَيْبَةَ: بہہ طلب کرنا فَلَانًا وَمِنْ فَلَانِ الْهَيْبَةَ: بہہ کرنے کی درخواست کرنا۔

الْهَيْبَةُ: س۔ کسی کو کسی چیز کا بغیر عرض کے مالک بنانا۔ بہہ کی ہوئی چیز حیات الْوَهَابِ وَالْوَهَابَةِ وَالْوَهْوَبِ: بہت بہہ کرنے والا۔

الْمَوْهَبِ وَالْمَوْهَبَةِ: وَهَبَ كَالِاسْمِ۔ الْمَوْهَبَةُ وَالْمَوْهَبَةِ: عطیہ۔ بہہ کی ہوئی چیز۔ چھوٹا سا تالاب جیسے ”هُوَ اشْبَهِي مِنْ مَاءٍ مَوْهَبَةٍ عَلَى خَمْرٍ“ وہ تالاب کے پانی سے شراب کا زیادہ راغب ہے۔ ج مواہب۔ الْمَوْهَبَةُ پہاڑ کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔

وَهَتْ يَهْتُ وَهْتًا الشَّيْءُ: رہانا۔ سخت روندنا۔

اَوْهَتْ اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ الْوَهْتَةُ: پست زمین۔ ج وَهْتُ لَحْمٌ مَوْهَتْ: بدبودار گوشت۔

وَهْتُ يَهْتُ وَهْتًا وَهْتَةً فِي الشَّيْءِ: مشغول ہونا الشَّيْءِ: سخت روندنا۔

تَوَهَّتْ تَوَهَّتًا فِي الْأَمْرِ: خوب غور کرنا۔ وَهَجَتْ تَهَجٌ وَهَجًا وَوَهَجًا وَوَهَجًا وَهَجَانًا النَّارُ أَوْ الشَّمْسُ: آگ بھڑکانا۔ آفتاب روشن ہونا۔

أَوْهَجَ النَّارُ: آگ بھڑکانا۔ تَوَهَّجَ: بھڑکانا الْحَرُّ: گرمی سخت ہونا۔

يَوْمَنَا: سخت گرمی والا ہونا الْجَوْهَرُ: چمکانا رَائِحَةُ الطَّيِّبِ: بھڑکانا۔ خوشبو پھیلانا۔

الْوَهَجُ: آگ کی بھڑک یا آفتاب کی چمک۔ آفتاب کی یا آگ کی گرمی جو دور سے محسوس ہو

وَهَجَ الطَّيِّبُ: خوشبو کی بھڑک۔ يَوْمٌ وَهَجَانٌ وَوَهَجٌ: سخت گرم دن۔

الْوَهَّاجُ: سخت بھڑکنے والا۔ نَجْمٌ وَهَّاجٌ رُوشن ستارہ اور ایسا ہی سِرَاجٌ وَهَّاجٌ۔

وَهْدَ لَهُ الْفِرَاشُ: چھوٹا بچھانا۔ تَوَهَّدَ الْفِرَاشُ: بچھنا۔

الْوَهْدُ: پست زمین ج اَوْهْدٌ وَوَهْدَانٌ اور کہا جاتا ہے ”مَكَانٌ وَهْدٌ“ پست جگہ۔

الْوَهْدَةُ: پست زمین۔ گُرْحَا: ج وَهَادٌ وَوَهْدٌ۔

وَهْرَةٌ وَهْرَةٌ وَهْرًا وَوَهْرَةٌ: سخت مشکل میں پھنسانا۔

تَوَهَّرَ اللَّيْلُ أَوْ الشَّمْسُ: رات یا سردی کا اکثر حصہ گزر جانا فِي الْكَلَامِ: گفتگو میں

ایسی چیز کی طرف مجبور کرنا جس سے حیرانی ہو۔ اسْتَوْهَرَ: اسْتِيهَرًا بِه: یقین

کرنا۔ الْوَهْرُ: دھوپ کا زمین پر اس طرح تیزی سے پڑنا جس سے بخارات کی مانند اضطراب ظاہر ہو۔

لَهَبٌ وَاهِبٌ: بھڑک دار شعلہ۔ الْوَهْرَةُ: ایسی مشکل میں پھنسانا جس سے رہائی

نہ ہو۔ الْوَهْرَانُ: ڈرنے والا۔

وَهْرَةٌ وَهْرَةٌ وَهْرًا: روندنا۔ ہاتھ سے مارنا یا ہٹانا۔ وَهْرَةٌ عَلَى كَذَا: براہِیْتِ کرنا۔ وَهْرَ الشَّيْءِ: توڑنا الْقَمْلَةَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ: جوں کو انگلیوں کے درمیان مار ڈالنا۔

وَهْرَةٌ: جو بھل کرنا۔ تَوَهَّرَ: سخت روندنا۔ جو بھل چال سے چلنا۔

تَوَهَّرَ خَلْفَ فَلَانٍ: کودنا اور کہا جاتا ہے ”مَرَّ يَتَوَهَّرُ“ وہ گزرا اس حال میں کہ زمین کو سخت دبا تا ہوا چلتا ہے۔

الْوَهْزُ: س۔ پست قدم مضبوط بدن والا۔ الْوَهْزَةُ: شرمیلی عورت کی چال۔

الْأَوْهْزُ: اچھی چال والا۔ الْمَوْهَزُ وَالْمَوْهَزَةُ: سخت روندنے والا۔

وَهَسَ يَهْسُ وَهْسًا الشَّيْءُ: توڑنا۔ سخت روندنا الرَّجُلُ: تیز چلنا فِي الْأَمْرِ: جلد کرنا

عَلَى قَوْمِهِ: ظلم کرنا۔ دست درازی کرنا۔ وَأَهَسَ مَوَاهِسَةً: تیز چلنا۔ بَجَلًا: تیز

تَوَهَّسَ وَتَوَاهَسَ: جو بھل چال چلنا۔ تیز چلنا۔ تَوَهَّسَتِ الْإِبِلُ: اونٹوں کا اچھی چال چلنا اور کہا جاتا ہے ”تَوَهَّسَ الْأَرْضُ فِي مِشْيَتِهِ“ اس نے اپنی چال میں زمین کو بہت

دبایا۔ الْوَهْسُ: س۔ برائی۔ چغل خوری۔ الْوَهْسَةُ: عام راستہ۔

الْوَهَّاسُ: اسم مبالغہ۔ شیر۔ وَهَصَ يَهْصُ وَهْصًا الشَّيْءُ الرَّخْوُ: نرم

چیز کو توڑنا۔ سخت روندنا۔ سختی سے پھینکانا۔ زمین پر پھینکانا الرَّاسُ: سر کچل دینا۔

الْحَيَوَانُ: جانور کو خسی کرنا۔ الْوَهْصَةُ: وهص کا اسم مرہ۔ پست زمین۔ الْوَهَّاصُ: بڑا دینے والا۔

الْمَوْهَصُ: پست زمین۔ روندنے یا توڑنے کی جگہ ج مواهص۔

الْمَوْهُوصُ وَالْمَوْهُصُ الْخَلْقُ: گٹھے بدن والا۔ الْوَهْصَةُ: پست زمین۔

وَهْطَ يَهْطُ وَهْطًا: توڑنا۔ روندنا۔ نیزہ مارنا مَارًا الرَّجُلُ: کزور ہونا۔

أَوْهَطَهُ: کزور کرنا۔ مَارَ كَرَسَتْ: کرنا۔ بچھانا۔ مصیبت میں ڈالنا۔ أَوْهَطَ جَنَاحَ الطَّائِرِ: پرندہ کا بازو توڑ دینا۔

تَوَهَّطَ: توڑنا۔ روندنا جانا الْفِرَاشُ بَجَهَانًا فِي الطَّيْنِ: نرم مٹی میں غائب ہونا۔

الْوَهْطُ: س۔ لاغری۔ جماعت ج اَوْهَاطُ کہا جاتا ہے ”بَيْتُهُمْ أَوْهَاطُ“ ان کے درمیان بچھڑا اور شور وغل ہے۔

الْوَهْطَةُ: پست زمین ج وَهْطٌ وَوَهَاطٌ وَهَفَ يَهْفُ وَهْفًا وَوَهْفًا إِلَى كَذَا قَرِيبٌ هَوْنَا النَّبَاتُ: سبز اور پتے والا ہونا لَهْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا: سامنے آنا۔ ظاہر ہونا (وَهْفًا وَوَهَافَةً) النَّصْرَانِيُّ: مگر جا کی خدمت کے لیے مستعد ہونا۔

وہنا و وہن یوہن و ہنا۔ کام میں سنت

ہونا۔ کمزور ہونا۔
توہن البعیر: لیث الطائر: پرندہ کا زیادہ

کھانے سے اُتر سکتا۔

الوہن: من الرجال او الابل: موٹا

پتہ قد من اللیل: آدمی رات یاس کے کچھ

بعد (والوہن) کام میں سنتی۔ دن میں

کمزوری۔

الوہون: کمزور۔

الوہن: فا۔ کمزور۔ کندھے کی ایک رگ کا

نام۔

الواہنة: واہن کا مؤنث کمزوری۔ بازو۔

گردن کا مہرہ۔ ریح جو بڑھاپے کے وقت

کندھوں میں یا بازو میں یا ن دورگوں میں جن کا

نام اخذعان ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے

نیچے کی پٹلی۔ کہا جاتا ہے "انہ لشدید

الواہنتین" وہ مضبوط سینہ والا ہے۔

الوہناتہ من النساء: ناز و نعت کی وجہ سے

کام میں سنتی کرنے والی عورت۔

الموہن من اللیل: آدمی رات یاس کے

کچھ بعد۔

الموہون: کمزور۔ مؤنث موہونہ۔

وہوہ و ہوہ فی صوتہ: غم یا گھبراہٹ

کی وجہ سے بڑبڑانا الأسد فی زینہ: شیر کا

دھاڑنا۔ صفت و ہواہ۔

الوہواہ والوہوہ من الخیل: تیز و

چست رُجُل و ہواہ: بڑول مرد۔

وہی و وہی بیہی و ہیا التوب: کپڑے

کا پھٹنا الشی: بندش ڈھلی ہونا۔ بوسیدہ ہونا۔

کمزور ہونا الحانط: دیوار گرنے کے قریب

ہونا۔ گرنا الرُجُل: بیوقوف ہونا السحاب:

بادل کا موسلا دھار برسا۔

أوہی ایہنا فلانا: کمزور کرنا۔ سنت کر

دینا۔ کہا جاتا ہے "ضربہ فاوہی یدہ" اس

نے اسے مارا اور اس کے ہاتھ کو توڑ دیا۔

الوہی: س۔ شکاف۔ پھن ج و وہی و

أوہیہ۔

کرنا۔ بھولنا۔

وہمہ: وہم میں ڈالنا۔

أوہم ایہاما: وہم میں پڑنا: وہم میں ڈالنا

فلانا بگذا: تہمت لگانا۔ بدگمانی کرنا کذا

من الحساب: غلطی کرنا الشی: کل چھوڑ

دینا۔

اتہم: تہامہ میں داخل ہونا۔ اتہمہ بگذا:

تہمت لگانا۔ بدگمانی کرنا (یہ عوام کی بول چال

میں ہے فصیح اتہمہ ہے۔)

اتہمہ بگذا: تہمت لگانا۔ بدگمانی کرنا ہ فی

قولہ: سچائی میں شک کرنا۔ اتہم الرُجُل:

بدنام ہونا۔ متہم ہونا۔

توہم الأمر: خیال کرنا۔ گمان کرنا۔ توہم

فیہ الخیر: کسی کے اندر خیر کا اندازہ کرنا۔

الوہم: س۔ دل میں جو خطرہ گزرے۔ ج

أوہام: قوت وہم پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

قوت وہم اس حس باطنی کو کہتے ہیں جس کا

کام معانی جزئیہ کا ادراک کرنا ہے جن کا تعلق

محموسات سے ہے جیسے زید کی شجاعت۔

سختاوت۔ بکر کی بڑولی۔ ماں کی محبت وغیرہ

کشادہ راستہ۔ بڑا مرد۔ مضبوط موٹا سدھا ہوا

اونٹ۔ ج أوہام و وہم و وہوم: کہا جاتا

ہے "لا وہم من کذا" اس سے کوئی چارہ

نہیں۔

الوہمة: موٹی اونٹنی۔

الواہمة: قوت وہم۔

الوہمی: وہم والا۔

التہمة والتہمة: اتہام کا اسم۔ تہمت۔

شک۔ ج تہم و تہمات۔

التہیم: جس پر تہمت لگائی جائے۔

الموہوم من الأشياء: وہم کیا ہوا۔ تصور

کیا ہوا۔ خیال کیا ہوا۔

وہنہ بیہنہ و ہنا و واہنہ: کمزور کرنا۔

وہن و أوہن الرُجُل: آدمی رات میں

داخل ہونا۔

وہنہ کمزور کرنا۔

وہن و وہن یہن و وہن یوہن و ہنا و

أوہف ایہافا الشی الی کذا: قریب

ہونا۔ أوہف لہ الشی: سامنے آنا۔ ظاہر

ہونا۔

الوہف: فاب۔ گر جا کا خادم یا منتظم۔

الوہافة والوہفیة: گر جا کی خدمت۔

وہق یہق و ہقا الذابۃ: جانور کی گردن

میں رستی ڈالنا ہ عن کذا: روکنا۔ باز رکھنا۔ کہا

جاتا ہے "والقلب عندکم موہوق" دل

تم لوگوں کے پاس اٹکا ہوا ہے۔

واہق موأهقة البعیر البعیر: چلنے میں

گردن لمبی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ

مقابلہ کرنا۔

أوہق الذابۃ: جانور کی گردن میں رستی ڈالنا۔

توہق الحصى: نکلریوں کا دھوپ سے گرم

ہونا فلانا فی الکلام: گفتگو میں ایسی چیز کی

طرف مجبور کرنا جس سے حیرانی ہو۔

تواہق القوم فی الأمر: برابر ہونا یا مقابلہ

کرنا۔ تواہقت الابل: چلنے میں گردن لمبی کر

کے مقابلہ کرنا الساقیان: مقابلہ کرنا۔

الوہق الوہق: رستی کر جس کے ایک

طرف پھندا ہوتا ہے اور جس کو جانور کی گردن

میں ڈالتے ہیں ج أوہاق۔

وہل یہل و یوہل و ہلا الی الشی:

ایسی چیز کی طرف وہم جانا جس کا ارادہ ہو۔

وہل یوہل و ہلا: کمزور ہونا۔ گھبرانا۔

صفت وہل و ہل الیہ: فریاد طلب کرنا۔

پناہ لینا فی الأمر و عنہ: غلطی کرنا۔ بھولنا۔

وہلہ: خوف دلانا۔ گھبرانا۔

توہلہ: غلطی میں ڈالنا۔

الوہل والوہلۃ: گھبراہٹ۔ خوف۔ ڈر۔

کہا جاتا ہے لقیئہ اول و ہلۃ او و ہلۃ او

واہلۃ میں نے اس سے سب سے پہلے ملاقات

کی۔

وہم بیہم و ہما فی الشی: ایسی چیز کی

طرف وہم جانا جس کا ارادہ ہو الشی: خیال

کرنا۔ تصور کرنا۔

وہم یوہم و ہما فی الحساب: غلط

الْوَهِيَّةُ. اسم مرۃ۔ عکاف۔
 الوَاهِيَةُ. اسم فاعل ج وَاهُونَ وَوَاهَاةٌ
 مؤنث وَاِهِيَةٌ.
 الوَهِيَّةُ. مؤنث۔ ذبح کرنے کے لیے مونا
 اونٹ۔
 الْأَوْهِيَّةُ. پہاڑ کی چوٹی سے واوی تک کا
 فاصلہ۔
 وَاه وواه وواها وواها له وبيد چیزی کی
 خوبی کے لیے کلمہ تعجب گویا تم کہتے ہو
 "أعجب به ما أطيبه" اور اظہار افسوس کے
 لیے بھی آتا ہے جیسے "واها على ما فات"
 وی کلمہ تعجب جیسے وی لزید یعنی زید
 سے مجھے تعجب ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کیلئے بھی آتا
 ہے اور ذیل سے کنایہ ہوتا ہے تم کہتے ہو
 "وَيْلٌ لِّسَمْعِ قَوْلِي" تیرا برا ہو میری
 بات پر کان لگا۔ اور دھمکی کے لیے بھی مستعمل
 ہے جیسوی بک یا فلان۔

وَيْبٌ بمعنی ویل۔ کہا جاتا ہے "وَيْبُكَ
 وَوَيْبٌ لِّكَ وَوَيْبٌ لِّزَيْدٍ وَوَيْبٌ لَهُ وَ
 وَوَيْبٌ لَهُ وَوَيْبُهُ وَوَيْبٌ غَيْرُهُ" کسرہ اور
 ضمیر و اسم ظاہر کی طرف اضافت کے ساتھ۔
 وَوَيْبٌ زَيْدٍ فَتَحٌ اور اضافت کے ساتھ۔ و
 وَوَيْبٌ فَلَانٌ کسرہ اور رفع کے ساتھ۔ اور معنی
 ہر صورت میں ویل کے ہیں۔ یعنی اللہ اس کے
 لیے ویل لازم کرے اور ویب کا استعمال مقام
 تعجب میں بھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے "وَيْبًا"


لِهَذَا" یعنی اس کیلئے تعجب ہے۔
 الْوَيْبَةُ. بائیس یا چوبیس مد کا ایک پیمانہ ج
 وَيَبَاتٌ (مولدة) الْوَيْبُ: مصیبت۔ بلا۔
 رسوائی۔
 وَيَبِحُ. کلمہ ترمیم و توجیح۔ اور کبھی مدح اور تعجب
 کے موقع پر آتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ذیل کے
 معنی میں ہے تم کہتے ہو "وَيَبِحُ لِّزَيْدٍ وَوَيْبًا
 لِّزَيْدٍ وَوَيْبَةً" رفع ابتدا کی وجہ سے ہے اور
 نصب اضمار فعل کی بنا پر۔ گویا کہ تم کہتے ہو
 الزُّمَّةُ اللّٰهُ وَيَبِحَا
 الْوَاخِ وَالْوَاخَةُ. ریگستان میں سرسبز زمین
 ج لواحاح.
 وَيَبِحُ بمعنی بویح.
 وَيَسُ بمعنی وَيَبِحُ اور اس کے احکام بھی وَيَبِحُ
 کے احکام جیسے ہیں۔
 الْوَيْسُ. محتاجی۔ ارادہ کی ہوئی چیز۔ نہ چاہی
 ہوئی چیز۔

الْوَيْسَتَارِيَا: دیواروں پر پردے کرنے کے
 لئے ایک تیل جس کے پھول بخشی مائل بڑے
 بڑے ہوتے ہیں۔
 وَيَيْكُ کلمہ ہے جو وی اور کاف خطاب سے
 مرکب ہے۔
 وَيَيْلٌ تَوَيْبًا فَلَانًا وَ لِفَلَانٍ: کسی کے لیے
 بہت ویل کہنا۔
 تَوَيْبٌ. ویل کو پکارنا یا ویلی کہنا۔
 تَوَايِلُ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کے لیے

ویل ویل کہنا۔ کہا جاتا ہے "فَمَا يَتَوَايَلَانِ
 الْوَيْلُ. شر و برائی کا نزول۔ بلاکت۔ جہنم کی
 ایک واوی کا نام کہا جاتا ہے "وَيْلُهُ وَوَيْلُكَ
 وَوَيْلِي وَوَيْلُ لِّزَيْدٍ وَوَيْلًا لَهُ" نصب
 اضمار فعل کی بنا پر رفع ابتدا کی وجہ سے جبکہ
 اضافت نہ ہو اور اضافت کی صورت میں
 صرف نصب ہی ہوگا۔ اس وجہ سے کہ اگر رفع
 دیں گے تو بلا خبر کے رہ جائے گا۔ کہا جاتا ہے
 "وَيْلٌ وَوَيْلٌ وَوَيْلٌ وَوَيْلٌ" یعنی بہت زیادہ
 ویل۔

الْوَيْلَةُ. بلا رسوائی۔ تَوَيْلَاتُ
 وَوَيْلَمَهُ. یہ مرکب کلمہ ہے اس کی اصل
 "وَيْلٌ لِأَمَةٍ" ہے بمعنی بددعا کے مگر بعد میں
 تعجب اور استحسان کے موقع پر استعمال ہونے لگا
 مانند "فَاتَلَهُ اللّٰهُ" اور "لَا أَبَ لَكَ" کے۔
 کہا جاتا ہے۔ "رَجُلٌ وَوَيْلَمُهُ وَوَيْلَمَهُ" ضمہ
 لام و کسرہ لام کے ساتھ بمعنی چالاک و تیز فہم
 مرد۔

الْوَيْمَةُ. تہمت اور بقول بعض چغل خوری۔
 الْوَيْئُ. کالا انگور۔ عیب۔
 الْوَيْئَةُ. کالا خشک انگور۔
 وَيَهُ وَوَيْدٌ وَوَيْهًا. کلمہ تحریش و اغراء
 ہے۔ مفرد جمع مذکر مؤنث سب کیلئے یہی آتا
 ہے۔



۵ : الہاء نہ حروف تبدیلی میں چھپیواں
حرف ہے اور حروف حلقی سے ہے۔

۵ تین صورتوں میں مستعمل ہے۔
(۱) ضمیر غائب ہے۔ مضمون باوجود مجرور ہے جیسے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ "اس سے اس کے ساتھی نے باہم بات کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ کسرہ بیابا ساکنہ کے بعد ہو تو مکسور ہوتی ہے بشرطیکہ اس کے بعد الف نہ ہو اور اس کے علاوہ مضموم ہوتی ہے۔

(۲) حرف نسبت جیسے اِيَا هٰكِي هَا
(۳) ہاء سکتے۔ اور یہ حرکت یا حرف کے ظاہر کرنے کے لیے لاحق ہوتی ہے جیسے مَا هِيَ وَهَاهَا. وَوَا زَيْدَاهَا.
ہا اس کی بھی تین صورتیں ہیں۔

(۱) اسم فعل بمعنی خُذْ جیسے "هَذَا الْكِتَابُ"
کتاب لو۔ اس کے الف کو مدودہ کرنا بھی جائز ہے اور یہ مدودہ و مقصورہ کا ف خطاب اور بغیر خطاب کے دونوں طرح مستعمل ہیں۔ اور مدودہ ہونے کی صورت میں کاف کو حذف کرنا بھی جائز ہے اس طرح پر کہ ہمزہ کی گردان کاف کی گردان کی طرح کریں۔ اور کہیں حاء مذکر کے لئے۔ حاء مؤنث کے لئے و ہاؤ جمع مذکر کے لئے۔ ہاؤ مؤنثہ مذکر مؤنث کے لئے۔

(۲) مؤنث کی ضمیر مضموم جیسے ضَرِبَهَا اور مجرور جیسے كِتَابَهَا. ضمیر ہے اور الف علامت تانیف۔

(۳) تنبیہ کے لیے اور اس کی چار صورتیں ہیں۔

(الف) اشارہ سے پہلے جیسے هٰذَا وَهٰذَا.
(ب) ضمیر مرفوع جیسے "هَآ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ."
(ج) اکتالی صفت ندا کی صورت میں جیسے يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ.

(د) قسم کی صورت میں لفظ اللہ سے پہلے حرف قسم کو حذف کے وقت جیسے "هَآ اللّٰه"
ہی ء ہی ء۔ اسم صوت ہے جس سے آؤنٹ کو چارہ کھلانے کیلئے بلاتے ہیں۔

ہَا هَآ. اونٹوں کو ڈانٹنے کی آواز۔
هَآ هَآ هِنِهَآ. و ہا ہاء. ٹھٹھا مار کر ہنسا۔
صفت هَآ هَآ وَهَاهَآ بِالْأَبْلِ. اونٹ کو چارہ کے لیے بلانا اور ہی ء ہی ء کہنا یا ڈانٹنا اور هَآ هَآ کہنا اور اسم الہی ء ہے۔

جَارِيَةٌ هَآ هَانَةٌ. بہت ٹھٹھا مار کر ہنسنے والی لڑکی۔

هَؤُلَاءِ. جا کلمہ تنبیہ اور اذلال اسم اشارہ۔
هَبْ. و ہب سے امر کا صیغہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے "هَبْنِي فَعَلْتُ" فرض کر کہ میں نے کیا اور یہ کلمہ امر کا ہے جو دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔

هَبْتَن (ن) هَبُّوْنَا وَهَبْنَا وَهَبْنَا الرَّيْحُ
ہوا کا چلانا۔ هَبَّ الرَّجُلُ مِنَ النَّوْمِ. نیند سے بیدار ہونا النَّجْمُ سِتْرَاهُ كَالطُّلُوعِ. ہونا۔
هَبْتُ (ض) هَبًّا وَهَبُّوْنَا وَهَبْنَا وَهَبْنَا.
چست و تیز رفتار ہونا۔ هَبَّ يَفْعَلُ كَذَا: وہ

ایسا کرنے لگا۔ اور کہا جاتا ہے "مِنْ أَيْنَ هَبَّيْتُ" تم کہاں سے آئے (هَبًّا وَهَبُّوْنَا)
السَّيْفُ: تلوار کا بلانا فِي الْحَرْبِ: جنگت
كُهَانًا (هَبًّا وَهَبَّةً وَهَبَّةً) السَّيْفِ الشَّيْءُ:
تلوار کا کسی چیز کو کاٹنا۔

هَبَّ (س) هَبًّا. مدت تک غائب رہنا۔ کہا جاتا ہے "هَبَّ فُلَانٌ حِينَمَا تَمَّ قَدَمُ فُلَانٍ
ایک مدت تک غائب رہا پھر آگیا۔" وَ أَيْنَ هَبَّيْتُ عَنَّا" تم ہم سے کہاں غائب رہے؟
هَبَّ تَهَبُّوْنَا الثَّوْبُ: کپڑا بھراڑنا۔

أَهَبَهُ مِنْ نَوْمِهِ: نیند سے بیدار کرنا۔ أَهَبَّ السَّيْفُ: تلوار کو بلانا الرَّيْحُ: ہوا کا چلانا۔
تَهَبَّبَ الثَّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
إِهْتَبَّ الشَّيْءُ: کاٹنا۔
اسْتَهَبَّ الرَّيْحُ: ہوا کا چلانا۔

الْيَسَابُ: ذرات جو دھوپ پڑنے پر روشن دان وغیرہ میں معلوم ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "ثَوْبٌ هَبَائِبٌ وَهَبٌّ وَأَهْبَابٌ" پارہ پارہ شدہ کپڑا۔

الهِبَّةُ: هَبَّ كَالْأَسْمَرَةِ: صبح کی باقی ماندہ ایک ساعت۔ زمانہ کی ایک مدت۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتَهُ هَبَّةً" میں نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا "وَأَحْذَرُ هَبَّةَ السَّيْفِ" تلوار کے چلنے سے بچو۔

الهِبَّةُ: هَبَّ كَالْأَسْمَرَةِ: حال۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ تلوار کی کاٹ اور اس کا بلانا۔ صبح کی باقی ماندہ ساعت۔ زمانہ کی ایک مدت۔

الہبوب والہبوبۃ والہیب۔ من
الریاح: گردوغبار اڑانے والی ہوا۔
الہبَاب: بہت گردوغبار اڑانے والی ہوا۔
المہبُ: ہوا چلنے کی جگہ پر مہاب۔
المہبُ: کمزور۔ ج مہبون۔ بیدار کرنے
والا۔
ہبتہ (ض) ہبتا۔ مارنا۔ کسی کا سر جھکا دینا۔
مرتبہ سے گھٹا بنا۔ ذیل کرنا۔
ہبتہ بالسیف: تلوار سے مارنا۔
ہبت الرُّجُل: بزدل و ہوش باختہ ہونا۔
مفید ہبت و مہبوث۔
الہبتۃ: ہبت کا اسم مرہ۔ کمزوری۔ کہا جاتا
ہے ”فی عقبہ ہبتہ“ اس کی عقل کمزور
ہے۔
الہبتیر: پتہ قدیم۔
ہبجہ (ف) ہبجا بالعصا: لگانا لاشی
سے مارنا۔
ہبج (س) ہبجا وجہ الرُّجُل: چہرے کا
سوجنا۔ صفت ہبج۔
ہبجہ: متورم کرنا۔
تہبج: سوجنا۔
المہبج: سست۔ بھری طبیعت کا۔
ہبذ (ض) ہبذا وتہبذوا اہتذب الہبید:
اندراکن کا پھل توڑنا اور پکانا اور چننا۔ ہبذ
فلانا: اندراکن کا پھل کھلانا۔
الہبذ والہبید: اندراکن یا اس کا دانہ۔ واحد
ہبیدۃ۔
الہواید: اندراکن کے دانے چنے والیاں۔
ہبذ (ض) ہبذا و ہابذ و اہبذ و اہتذب
القرس او الطائر: گھوڑے کا تیز چلنا یا پرندہ
کا تیز اڑنا۔
الہابذۃ: تیز رفتار اونٹنی جو اید۔
ہبیر (ن) ہبیرا اللحم: گوشت کے بڑے
بڑے ٹکڑے کا ٹا۔ کہا جاتا ہے ”ہبیر لڈ من
اللحم ہبیرۃ“ اس نے اس کے لیے گوشت
کے ٹکڑے کاٹے ”وہبیرناہم بالسیف“
ہم نے ان کو تلواروں سے کاٹ دیا۔

ہبیر (س) ہبیرا البعیر: اونٹ کا زیادہ
گوشت والا ہونا۔
اہبیر الرجل: خوشنما ہونا۔
اہتیر البعیر: اونٹ کا دبا پتلا ہونا
فلانا
بالسیف: تلوار سے کاٹنا۔
الہبیر: سر۔ بغیر ہڈی کا گوشت۔ واحد
ہبیرۃ۔ الہبیر: پت زمین باریت کا قطعہ ج
ہبوز۔ و ہبیر۔ والہبیر فی القرائۃ: آیت
پر وقت کرنا۔
الہبیر: انگوڑا بیج۔ کتان سے جو گرے۔
الہبیر: من الجمال: بہت گوشت والا
اونٹ۔ کہا جاتا ہے ”بعیر ہبیر ذبیر“ بہت
گوشت اور اون والا اونٹ۔ مونث ہبیرۃ۔
الہبیر: کٹا ہوا۔
الہبیرۃ: روٹی کے اڑنے والے روئیں۔ سر
کی بھوسی۔ بانس اور نرکل سے جو بکھرے اور
پھر جمع ہو کر جم جائے۔
الہبور: کڑی۔
الہبیر: پتہ زمین کہ اس کے ارد گرد بلندی
ہوں۔ ہبیر و اہبیرۃ: اندام نہانی۔ کہا جاتا ہے
”ضرب ہبیر و ہبیر“ گوشت کو ٹکڑے
ٹکڑے کرنے والی ضرب۔
الہبیرۃ: بیو۔ ابو ہبیرۃ: مینڈک۔ ام
ہبیرۃ: مینڈکی۔
الاہبیر: بہت گوشت والا۔ مونث ہبیراء
ج ہبیر۔
الہباریہ: اڑنے والے پر۔ سر کی بھوسی۔
ریح ہباریۃ: غبار والی ہوا۔
الہبار: بہت بالوں والا بندر۔
سیف ہبار: کانٹے والی تلوار۔
الہبوز: چھوٹی بیوی۔ کھیتی کے گرسے
ہوئے خوشے۔
ہبوج الرجل: ڈمگاتے ہوئے چلنا۔
الثوب: منقش کرنا۔
الہبوج: تیز و سبک چال۔ مرد منکیر۔ ڈمگاکر
چلنے والا۔ منقش کپڑا۔ مونث ہبوز گوشت تیل۔
بوڑھا ہرن۔

الہبوج: مونث گوشت۔
المہبوج من الاوتار: خراب شدہ تانت۔
الہبوزی: فارسیوں کا کنگن۔ نیادیار۔ ہر
خوبصورت و خوشنما چیز۔ عمدہ موزہ۔ خالص
سونا۔ وام الہبوزی: بخار۔
تہبوس: ناز و انداز سے چلنا۔
ہبیر (ض) ہبیرا و ہبوزا و ہبیرانا۔
مرنا۔ باجا تک مرنا۔
ہبیش (ن) و ہبیش (س) ہبیشا
الرجل: پورے ہاتھوں سے دوہنا لاشی۔ جمع
کرنا۔ پنچنا لعیالہ: کمانی کرنا۔
فلانا: تکلیف دہ ہار مارنا۔
ہبیش تہبیشا المال: جمع کرنا۔
تہبیش القوم: لکھا ہونا لاشی۔ جمع کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”خرج یتہبش لعیالہ“ وہ اپنے اہل
و عیال کے لیے کمانی کرنے کے لیے نکلا۔
اہتیش المال: لکھا ہونا لاشی۔ جمع کرنا
منہ عطاء: حاصل کرنا۔
الہبابشۃ: جماعت۔ الہبابشۃ والہبابشۃ
مختلف قبیلوں کی جماعت۔ ج ہوابش و
ہبابشات۔ الہبابشات: کمانیاں۔
الہبابش: بہت کمانی کرنے والا۔ بہت جمع
کرنے والا۔
ہبص (س) و ہبص (ج) ہبصا
وہبصا: پھر تیرا و جلد باز ہونا۔ الکلب: کتے کا
شکار کا حریص ہونا۔ علی لاشی: مشتاق ہو
کر بے قرار ہونا۔ صفت ہبص
اہتص فی العمل: جلدی کرنا فی
المنشی: تیز چلنا (واہتص) للضحک:
بہت زور سے ہنسا۔
الہبصی: تیز چال۔ کہا جاتا ہے مشی
الہبصی وہ تیز چال چلا۔
ہبطلہ (ن) ہبطا من الجبل: پہاڑ سے
اتارنا المرض لحنہ: بیماری کا گوشت کو
لاغر کرنا فلانا: مارنا بلذ کذا: شہر میں
داخل ہونا السوق: بازار میں پنچنا الوادی:
وادی میں اترنا۔ صفت ہباط فلانا البلد شہر

جاتے ہیں۔ واحد **هَيْئَةٌ**
 الهَيْئَةُ عقل و تیز کھونا۔ جتو۔ کہا جاتا ہے
 "نَالَهُ بِهَيْئَةٍ"
 الهَيْئَةُ عَيْتِمْتِ۔
 الهَيْئَالُ کمانی کرنے والا۔ حیلہ ساز۔ فریب
 دینے والا شکاری۔

الهَيْبِلُ سر۔ حالت۔

الهَيْبِلُ بھیرا۔ فریب دینے والا۔

الهَيْبَلَةُ بوسہ۔

هَيْبَلُ زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔

الْأَهْبِلُ عقل و تیز کھونے والا۔ جِ هَيْبَلُ

الهَيْبَلُ والهَيْبَلُ بڑا یا لمبا مرد۔ حیلہ جو۔

الهَيْبَلُ ایک درخت کا نام۔

الهَيْبَلِيُّ ناز کی رفتار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

يَمْسِي الهَيْبَلِيَّ" حرام ناز سے چلتا ہے۔

الهِبُولُ بچہ کم کرنے والی عورت۔

السَّهْبَلُ جس کو بددعا دی جائے کہ تیری ماں

تجھے کم کرے۔ سو بے ہوئے چہرے والا بڑا

گوشت۔ پاگل۔

السَّهْبَلُ ہلکا۔

السَّهْبَلُ بھولنا۔

السَّهْبُولُ بے وہ جس کو اس کی ماں نے کم کر

دیا ہو۔

السَّلْقُ پستہ قد۔

السَّهْقُ بے قوف۔ پستہ قد۔

السَّهْنُ بے قوف۔ کمزور۔ چغل خور۔

السَّهْنَةُ کاؤنٹ سست کاٹل۔

هَنْبُ الرَّجُلِ تیز چلنا۔ نیند سے بیدار ہونا

السَّرَابُ سراب چمکانا۔ هَيْبَةُ ذَاتُنَا۔

هَيْبَةُ الْكِبْرِ مینڈھے کوڑن کرنا۔

تَبْنَهُ الشَّيْءُ ہلانا۔ حرکت کرنا۔

الهَنْبُ تیز رفتار۔ ہلکا چمکانا۔

الهَنْبَابُ تیز رفتار۔ چلانے والا۔ سراب

الهَنْهَى اچھی حدی گانے والا۔ اچھی

خدمت کرنے والا۔ پکانے والا۔ بکریوں کا

چرواہا۔ گوشت بھوننے والا۔ قضائی۔ عمدہ

طریقے سے محنت و مشقت کرنے والا۔ تیز

چلوانا۔

الهَيْعُ گدھا۔ اونٹ کا بچہ جو گرمی میں پیدا ہوا

ہو۔ هَيْعَاتٌ وَ هَيْعٌ مَوْنٌ هَيْعَةٌ

هَيْعَاتٌ

الهَيْعُ اونٹ کے بچوں کا مالک۔

أَيْلُ هَيْعٍ گردن پھیلا کے چلنے والے

اونٹ۔

هَيْعٌ (ف) هَيْوَعًا وَ هَيْوَعًا الرَّجُلُ ہونا۔

الهَيْعَةُ نیند۔

الهَيْعُ بہت سونے والا۔

أَهْبِطُ بِهِ الْأَرْضَ دھسنانا۔

الهَيْكَةُ اُخْتٌ۔ بیوقوف۔ زمین جس میں

پاؤں دھس جائیں۔ جِ هَيْكَاتٌ وَ هَيْكٌ

هَيْبَتٌ (س) هَيْبَلًا فَلَمَّا أُمُّهُ كَرْنَا بَعْدَ

فرزند ہونا۔ صفت ہارنا بددعا کے موقع پر

کہا جاتا ہے "هَيْبَتُهُ أُمَّهُ" یعنی اس کی ماں اس کو

گم کرے اور بسا اوقات مقام بددعا و استحسان میں

بولتا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم اور

صائب الرائے ہے۔

هَيْبَلُ الرَّجُلِ لِعِيَالِهِ اہل و عیال کیلئے کمانی

کرنا فَلَمَّا كُنِيَ سَ هَيْبَتِكَ أُمَّكَ کہنا

اللَّحْمُ فَلَمَّا كُنِيَ لِقَوْمٍ عَقْلٌ وَ تَمِيزٌ كُنِيَ

أَهْبِلُ الرَّجُلُ بے اولاد کرنا۔ عقل و تیز کھونا

اللَّحْمُ بگوشت تہ تہ چڑھنا۔

تَهَيْلُ لِعِيَالِهِ اہل و عیال کیلئے کمانی کرنا۔

أَهْتَبِلُ فَلَمَّا كُنِيَ بَحْتٌ بُولَانًا وَ حَيْلٌ كُنِيَ

الصَّيْدُ شَكَارًا كُفْرِيْبًا دینا۔

لِعِيَالِهِ اہل و عیال کے لیے کمانی کرنا۔

الشَّيْءُ عَيْتِمْتِ جانا۔ کہا جاتا ہے "أَهْتَبِلُ

كَلِمَةً حَكِيمَةً" حکمت کے کلمہ کو عیتِ

جان۔

عَلِيٌّ وَ لَدَهُ بے اولاد کرنا۔ کہا جاتا ہے

"أَهْتَبِلُ هَيْبَلًا" اپنی حالت کی درستی کو لازم

جانو۔

الهَيْبَالُ کمانی کرنے والا۔ حیلہ گر۔ بہت

گوشت و چربی والا۔

الهَيْبَالُ ایک درخت ہے جس سے تیر بنائے

میں داخل ہونا تَمِنُ السَّلْعَةُ وَ مِنْ تَمْنِيهَا
 قیمت گھٹانا۔

هَيْطٌ (ض ن) هَيْوَطًا التَّمْنُ قیمت

گھٹانا۔ کم ہونا۔ فَلَمَّا تَمَنَّا كُنَّا فَلَمَّا

مِنَ الْجَبَلِ پھاڑ سے اترنا مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى

آخِرٍ لِيَكُ جِلْدٌ مِنْ دُوسَرِي جِلْدٌ مَشْغَلٌ ہونا۔

کہا جاتا ہے "هَيْطٌ مِنَ الْحَشِيَّةِ" اس نے

خوف کی وجہ سے خاکساری کی۔ "وَ هَيْطَةٌ

الرِّمَانُ" اس کو زمانہ نے مملوک الحال بنا دیا۔

هَيْطُ الْعَدْلُ بوری کو اونٹ پر درست کر

کے رکھنا۔

أَهْبَطُهُ اُتَرْنَا۔ أَهْبَطُ التَّمْنُ قیمت

گھٹانا۔

تَهَيْطٌ مِنْ كَذَابٍ نَجَّى اُتَرْنَا الشَّيْءُ بچھنا۔

أَهْبَطُ الرَّجُلُ بچھ کرنا۔

الهَيْطُ فَا لَاعْرُ۔

الهَيْطُ سر۔ نقصان۔ بُرَأَى فِي بَرْنَا ذلت۔

کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ عَيْطًا لَا هَيْطًا" یعنی

اے اللہ ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ

لوگ ہم پر غبطہ کریں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں

کہ اپنی حالت سے بچتی میں آجائیں۔

الهَيْطَةُ هَيْطُ كَأْسٍ مَرَّةً۔ پست و ہموار

زمین۔ کہا جاتا ہے "هُمُ فِي هَيْطَةٍ مِنَ

الْأَرْضِ" وہ لوگ پست زمین میں ہیں۔

الهَيْوَطُ ذُحُلُوَانٌ۔ نشیب کی زمین۔

الهَيْبُ دہلا پتلا لاغر۔

المَهْطُ اترنے کی جگہ۔

المَهْطُ اُتْرُوا اُشِيْشَ۔ اُتْرُوا اُشِيْشَ۔ اُتْرُوا اُشِيْشَ۔

المَهْطُ دہلا پتلا۔ رَجُلٌ مَهْطٌ مَجْتَابٌ

و مَقْلَسٌ مَرْدٌ۔

هَيْعٌ (ف) هَيْعًا وَ هَيْوَعًا الْحَمَارُ

گدھے کا سست رفتار سے چلانا۔ اور جس کی

ایسی حالت ہو اس کو هَيْعٌ کہتے ہیں البَعِيرُ

اونٹ کا گردن پھیلا کر چلانا۔ هَيْعٌ بَعْفُهُ

جلدی کرنا اور گردن کا سہارا لینا۔ صَفْتُ هَيْعًا

وَ هَيْوَعًا

اِسْتَهْبَعُ البَعِيرُ اونٹ کو گردن پھیلا کے

رقارہا بھکا اونٹ اونٹ ہبیبیۃ
 ہبا ینہو ہبواست جنا الغبارا بارکا
 بلند ہونا الفرس گھوڑے کا بھگانا فلان:
 مرنا الرماڑا کہ کاٹی سے ملنا۔
 اہنی اہباء الفرس گھوڑے کا غبار اڑانا۔
 تہنی تہیلونوں ہاتھ جھاڑنا۔
 الہابی فاج ہبی کہا جاتا ہے "نجوم
 مئی غبار سے چھپے ہوئے ستارے۔
 الہابی قبر کی مٹی۔ کہا جاتا ہے "ہذا
 موضع ہابی التراب غبار والی مٹی کی
 جگہ ہے وتراب اوماذ ہاسنضا میں
 اڑنے والی مٹی پارا کہ۔
 الہبا غبار۔ باریک مٹی کے ذرات جو زمین
 پر بلند اور پھیلے ہوئے ہوں۔ کم عقل لوگ۔ ج
 اہباء۔
 الہبانیۃ غبار کا قطعہ۔
 ہبابۃ الشجر ذرت کی چھال۔
 الہبوة گرد و غبار۔ ج ہبوات و اہباء
 (غلاف قیاس) اہباء الزوبعۃ نوا۔
 الہبی چھوٹا بچہ۔ مونث ہیۃ۔
 المہنی کزور نظر والا۔
 ہنلون) ہتا۔ الكلام یم نقل کرنا۔
 خوش سلیقگی سے بیان کرنا الثوب کپڑے
 پھاڑنا العرض آبروریزی کرنا النباء پانی گرنا
 لالہز تہ گنا۔
 المرأۃ غزلہا عبورت کا لگاتار کاتا فلان
 نئی کلامہ: جلدی جلدی بولنا ورق
 الشجر قزرت کے پتے جھاڑنا۔ الشئی
 توڑنا اور چورہ کرنا (ہیتنا) البکر جوان
 اونٹ کا آواز کرنا۔
 الہش۔ کہا جاتا ہے "تزکھم ہتابنا"
 اس نے ان کو نکلے نکلے کر کے چھوڑا۔
 الہتات بھکا بھکا۔ بہت بک بک کرنے والا۔
 المہت یعنی ہتات۔
 ہتاۃ ینتاۃ ہتا بالعصا ونحوہا مٹی
 وغیرہ سے مارنا الطعام کھانا۔
 ہنی ینتا ہتا الرجل بیڑا ہونا۔

تہتا تہتا الثوب کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
 الہتاء الہتاء والہتی والہتاء و
 الہتی والہتیۃ والہتاء وقت۔ کہا جاتا
 ہے "مضى من اللیل ہتۃ زات کا کچھ
 حصہ گزر گیا۔
 الہتا والیتو شکاف۔ بچھن۔
 الاہتاء کزرا۔
 ہتر (ض) ہترا عرض فلان آبرو
 ریزی کرنا الکیبر فلانا بڑھاپے کا عقل کو
 زائل کرنا۔
 ہتر عرض فلان بہت زیادہ آبروریزی
 کرنا۔
 ہاترۃ مہاترۃ ہری گالی دینا۔
 اہتر الرجل بڑھاپے یا مرض یا غم کی وجہ
 سے عقل زائل ہونا۔ صفت مہتر بفتح التاء
 اور یہ شاذ ہے و اہتر فلان کسی چیز کے
 بارے میں کہنے کے لیے فریفتہ ہونا۔ اہترو
 فی ذکر اللہ اللہ کی یاد کرتے ہوئے بوڑھا
 ہونا۔
 تہاتر الرجلان ایک دوسرے پر جھوٹا
 دعویٰ کرنا اور کہا جاتا ہے "تہاترت
 الشہادات شہادتیں ایک دوسرے کے
 برخلاف ہوئیں۔
 استہتر فلان: لاپرواہی کے ساتھ
 خواہشات کا اتباع کرنا۔ بڑھاپے کی وجہ سے نہ
 سمجھنا۔
 استہتر الرجل بکذا بہت فریفتہ ہونا
 الرجل لیلو لاطل افعال کا مرتکب ہونا۔
 الہاترو فاج ہاترو ون ہترة۔
 الہتو جھوٹ۔ مصیبت۔ امر عجیب۔ بیوودہ
 گنگلو۔ رات کا نصف اول۔ ج اہتا کہا جاتا
 ہے "فلان ہترو اہتا لال بڑا چالاک
 ہے۔
 الہتو بڑھاپے یا مرض یا غم کی وجہ سے عقل
 کی خرابی۔
 التہاترو ایک دوسرے کے خلاف
 شہادتیں۔

التہتار والتہتر حماقت و جہالت۔
 المہتر کسی چیز کے متعلق کچھ کہتے رہنے پر
 فریفتہ۔ بڑھاپے یا مرض یا غم کی وجہ سے
 خراب عقل والا۔ رجل مہتر بفتگو میں خطا
 کار۔
 المستہتر بالشئی سخت فریفتہ۔ بہت
 باطل کار آدمی۔
 الہتو کثیر۔ سخت و مشکل زمانہ۔
 ہتس (ض) ہتسا الکلب بکتے کو
 برا بھینچتہ کرنا۔ آسانا کہا جاتا ہے "ہتس
 الکلب فانتس بکتے کو بھڑکایا گیا وہ بھڑک
 گیا۔ (اور یہ بکتے اور درندوں ہی کے لیے خاص
 ہے)
 ہتغاف) ہتغا الی قومہ جلدی متوجہ
 ہوتا۔
 ہتغاف (ض) ہتغا و ہتغافا الحمامۃ
 کبوتری کا کوکرنا (ہتغاف) فلان بفلان
 کرلانا فلانا و بفلان تعریف کرنا۔
 ہتغف تہنیفا الحمامۃ کبوتری کا نوحہ
 کرنا۔
 الہتایف یلیفون
 الہتایف فاج جس کی آواز سنائی دے اور
 دکھائی نہ دے۔ ٹیلی فون۔ تم کہتے ہو
 "سمعت ہتایفا ینیف" جبکہ تم آواز سنو
 اور کوئی دکھائی نہ دے کہا جاتا ہے قوس ہتغافۃ
 و ہتوف و ہتغی آواز دینے والی کمان۔
 حمامۃ ہتوف بہت کوکر کرنے والی
 کبوتری۔ ریح ہتوف صائیں سائیں کرنے
 والی ہوا۔ سخابۃ ہتوف کرجے والا بادل۔
 اور اسم الہتغی ہے۔
 الہتف والہتاف۔ سخت و بلند آواز۔
 ہتلاض) ہتگا الستر و نحوہ پردہ
 پھاڑنا کات کر علیحدہ کرنا۔ یا کچھ تھوڑا سا
 سوراخ کرنا تاکہ پردہ کے پیچھے کی چیز ظاہر ہو
 جائے الثوب کپڑے کو بچھا پھارنا۔ کہا جاتا
 ہے "ہتک اللہ ستر الفاجر" یعنی اللہ
 تعالیٰ فاجر کو سوا کریں۔ "وہتک عرشۃ"

هَتَمَلُ الرَّجُلِ: آہستہ بولنا الرَّجُلَانِ:

الہتہنۃ: سر لڑائی میں ٹھٹھ آوازیں۔

هَتْنِي يَهْتِي هَيْئًا التُّرَابُ: مٹی ڈالنا۔

هَاتَاهُ مَهَاتَاهُ: مذاق اڑانا۔

هَجَّ (ن) هَجًا وَهَجِيحًا النِّيتُ: گھر

ڈھانا (ہیبیحا) العین: آنکھ کا دھسنا۔

النَّارُ: آگ کا زور سے بھڑکانا۔ هَجَجَ

النَّارُ: آگ کا زور سے بھڑکانا۔

وَهَجَجَتْ عَيْنُهُ: آنکھ دھسنا۔

إِهْتَجَّ فِي الْأَمْرِ: دیر لگانا اور کسی سے مشورہ

نہ کرنا۔

إِسْتَهَجَّ فَلَانَ: خود رائے ہونا۔ السَّيْرَةُ

او القافلة: تیز چلانا۔

عَيْنٌ هَاجَةٌ: دھنسی ہوئی آنکھ۔

الهجاج: تیز چال۔ کہا جاتا ہے ”زکب

هجاج“ جن علی السکر یعنی وہ خود سر ہوا (اور

کبھی هجاج کے آخر کو فتح بھی دیا جاتا ہے

) اور اگر کوئی شخص لوگوں کو کسی چیز سے روکنا

چاہتا ہے تو کہتا ہے ”هجاجیک وهذا

ذیک“ یعنی دور رہو۔

الهجاججة: گردوغبار جو ہر چیز کو ڈھانپ

لے۔ یزوف۔ کہا جاتا ہے ”زجل هجاججة“

الهجج: تیل کی گردن کا جو۔

الهجج: پوکھلے۔

الهجج: مصل۔ گہری وادی۔ لمبی زمین جو

چلنے والوں کو جلدی لائے۔ کہانت کی کبیر میں جو

زمین پر کھینچی جائیں۔ ج هججان۔

الإهجاج: گہری وادی۔

عین مہججة: دھنسی ہوئی آنکھ۔

المهجاج: فادھنسی ہوئی آنکھ والا۔

المستهجج: ہر حق ناخن میں بولنے والا۔

هَجًا يَهْجَا هَجًا وَهَجْوًا جُوعًا: بھوک

بند ہونا (هَجًا) الطَّعَامُ: کھانا بظنہ: پیٹ

بھرنا الطَّعَامُ: آسودہ کر دینا۔

هَجِي يَهْجَا هَجًا: بہت بھوکا ہونا۔

أَهْجَا أَهْجَاءُ جُوعًا: بھوک زائل کرنا۔

فَلَانًا حَقًّا: حق اور آکرنا فَلَانًا الشَّيْءُ: کسی کو

کچھ کھلانا۔

دوسرے سے چھپا کر چپکے چپکے باتیں کرنا۔

الہتہنۃ: پوشیدہ بات۔

هَتَّتْ (ض) هَتْنَا وَهَتُّونَا وَهَتَّنَانَا وَ

هَتَّنَانَا وَتَهَّاتْنَا تَهَّاتْنَا تَهَّاتْنَا تَهَّاتْنَا: آسمان سے

لگاتار بارش ہونا الدَّمْعُ: آنسو کا ٹپکانا۔

الہتین: لگاتار بارش۔

سَحَابٌ هَاتِنٌ وَهَتُونٌ لگاتار بارش والا

بادل ج هَتْنٌ وَهَتْنٌ: عین ہتُون الدَّمْعُ

لگاتار آنسو پکانے والی آنکھ۔

التهتان: لگاتار برسنے والی بارش۔

هَتَّهتْ الشَّيْءُ: توڑنا فی الکلام: جلدی

جلدی بولنا البعير: اونٹ کو ”هت هت“

کہنے کے پینے کے وقت ڈانٹنا۔

التهتات: ہلکا ہلکا۔ جلدی بولنے والا۔

هَتَاهُ يَهْتُوهُ هَتْوًا: پیروں سے روند کر

توڑنا۔

هَاتَاهُ مَهَاتَاهُ: دنیا (اس فعل کی گردان غلطی

کی گردان کی مانند ہے) کہا جاتا ہے ”هات یا

رَجُلٌ“ اے مردے ”وہاتنی یا امرأة“

اے عورت دے ”وَمَا أَهَاتِيكَ“ میں تم کو

نہیں دوں گا۔

هَتَّ (ن ض) هَتًّا: جھوٹ بولنا۔ صفت

هَتَاتٌ یعنی جھوٹا۔

هَتْمٌ هَتْمًا: بہت بولنا۔

هَتْمَةٌ (ض) هَتْمًا: کوٹ کر باریک کرنا۔

هَتْمٌ لَهُ مِنْ مَالِهِ: یکبارگی عمدہ مال دینا۔

الہتیم: ایک کھلے مزے کا درخت۔ شکر۔

اور بقول بعض گدھ یا عقاب کا بچہ۔ سرخ رنگ

کاریت کا تیل۔

هَتَّهتْ هَتَّهتْ الشَّيْءُ: ٹھٹھ ہونا۔

الوَالِي النَّاسِ: ظلم کرنا السَّحَابَةُ

بِقَطْرِهَا: بہت زور سے برسنا الشَّيْءُ: سخت

روندنا۔

التهتات: جلدی کرنے والا۔ شئی

هتَّاتٌ: ملی ہوئی بے ترتیب چیز۔ رَجُلٌ

هتَّاتٌ: جھوٹا مرد۔

جیکہ عزت جاتی ہے۔

هَتَّكَ السُّتْرُ: بمعنی هَتَّكَ۔ تھکا۔ ید مبالغہ

کے لیے ہے۔

تَهَّتَكَ وَأَهْتَكَ السُّتْرُ وَنَحْوُهُ: پردہ کا

پھٹنا۔ تَهَّتَكَ فَلَانَ: رسوا ہونے کی بَطَالِيَّةُ:

بہادری میں چھوڑنا۔

هَاتَكَ مَهَاتَكَ: باہم رات کی تاریکی میں

چلنا۔ کہا جاتا ہے ”هَاتَكُنَا اللَّيْلُ“ یعنی رات

کی تاریکی میں ہم نے سفر کیا۔

التهتك: آدھی رات۔

تَوْبٌ هَيْتٌ: پارہ پارہ شدہ کپڑا۔

التهتكة: پردہ دری۔ رات کی ایک ساعت۔

التهتكة: رسوائی۔ بے عزتی۔ کہا جاتا ہے

”رَجُلٌ مُنْهَتٌ وَ مُنْهَتٌ لَأَنَّكَ وَ

مُسْتَهْتِكٌ“ بے عزتی سے لا پرواہ۔ رسوا۔

بدنام۔

التهتك: پارہ پارہ شدہ۔

هَتَلَتْ (ض) هَتَلًا وَهَتُولًا وَتَهْتَالًا وَ

هَتَلْنَا السَّمَاءَ: آسمان کا لگاتار بارسنا۔

سَحَابٌ هَتَلٌ: لگاتار برسنے والے بادل۔

التهتالان: ہلکی لگاتار بارش۔

هَتَمٌ هَتَمَةً الرَّجُلَانِ: دوسروں سے چھپا

کر چپکے چپکے باتیں کرنا۔

التهتمة: سر پوشیدہ بات۔

هَتَمٌ (ض) هَتَمًا فَاهُ: اگلے دانتوں کو توڑنا

الثَّيْبَةُ: جڑے توڑنا۔

هَيْتٌ (س) هَتْمًا: سامنے کے جڑے ٹوٹنے

ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت أَهْتَمٌ مُؤْتٌ

هَتْمًا ج هَتْمٌ:

هَتْمَةٌ بِالضَّرْبِ: بار بار کر ضعیف و کمزور کر

دینا۔

أَهْتَمٌ: دانتوں کو توڑنا۔

تَهَّتَمَ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے ”تَهَّتَمَتْ

أَسْنَانُهُ“ اس کے دانت ٹوٹ گئے۔

تَهَّاتَمَا: ایک دوسرے پر جھوٹا دعویٰ کرنا۔

التهامة: ٹوٹا ہوا کھانا۔

هَتَمَ الرَّجُلُ: بہت بولنا۔

تَهَجُّوا الْحَرْفَ بِحَرَائِ
 الْهَجْرَةِ بِرَدِّهِمْ جَوْ تَهَارِے اندر ہو اور ختم ہو
 جائے۔
 الْهَجْرَةُ بِوَقْفِ مَرِيضَةٍ
 هَجْرًا (ش) هَجْرًا بِاِكْتِنَا دَوْرًا لَانْهِي
 سے مارتا۔
 هَجْرًا (ن) هَجْرًا بِرَاتٍ مِثْلِ سَوَانَا بِيَدَارِ
 رہنا (ضد) اور بقول بعض هَجْرًا دِنٍ مِثْلِ
 سَوَانَا اور هَجْرًا دِيَاتٍ مِثْلِ سَوَانَا کے لئے
 ہے۔
 هَجْرًا تَهَجُّدًا الرَّجُلُ بِيَدَارِ سَوَانَا رَاتٍ
 مِثْلِ سَوَانَا رَاتٍ مِثْلِ نَمَازٍ پڑھنا فَلَانًا جِغَانَا
 سلانا (ضد)
 اَهَجْرًا الرَّجُلُ سَوَانَا فَلَانًا بِلَانَا سَوَانَا هَوَا
 پاتا۔
 تَهَجُّدًا الرَّجُلُ رَاتٍ مِثْلِ سَوَانَا بِيَدَارِ رَهْنَا
 الہاجد سونے والا۔ رات میں نماز پڑھنے
 وَاللَّاحِ هَجْرًا وَهَجْدًا
 الْهَجْرَةُ رَاتٍ مِثْلِ نَمَازٍ پڑھنے والا۔ رات
 هَجْرًا وَهَجْدًا
 التَّهَجُّدُ بِرَاتٍ مِثْلِ نَمَازٍ
 الْمَتَهَجُّدُ فَا رَاتٍ مِثْلِ نَمَازٍ كَيْفِيَّةً نِيَدًا
 بِيَدَارِ هَوَانَا وَاللَّاحِ اِزْهَرِي كَا قَوْلِ هُوَا كَمَا
 عَرَبٌ مِثْلِ حَاجِدِ كَا اِطْلَاقِ رَاتٍ مِثْلِ سَوَانَا وَاللَّاحِ
 پُرَاوْرٍ مَجْمُوعِ كَا رَاتٍ مِثْلِ نَمَازٍ كَيْفِيَّةً نِيَدًا
 ہونے والے ہے۔
 هَجْرًا (ن) هَجْرًا وَهَجْرًا نَانَا قَطْعَ تَعْلُقِ
 کرنا چھوڑنا هَجْرًا الشَّيْءُ بَرَكًا كَرْنَا
 اعراض کرنا زَوْجًا بغير طلاق دینے ہوئے
 الْكُفْرَانَا (هَجْرًا وَهَجْرِيَّةً وَاهْجِرِيَّةً)
 فِي نَوْمِهِ اَوْ مَرَضِيَّةً يَأْمُرُ فِي مِثْلِ كِبْرَانَا
 کرنا (هَجْرًا) بِهَ فِي النَّوْمِ خَوَابٍ دِيكُنَا
 (هَجْرًا وَهَجْرًا) الْبَيْتُ نَوَالٌ بَانْدَهَنِي
 رَتِي سَ بَانْدَهْنَا
 هَجْرًا الْقَوْمُ دُوپَهْرٍ مِثْلِ چَلْنَا النَّهَارِ مَخْتِ
 گرم ہونا اِلَى الشَّيْءِ بِوَرِي سَ جَانَا اَوْ رِسْمَتِ
 کرنا۔

هَاجَرَ مَهَاجِرَةً مِنَ الْبَلَدِ وَعَنْهُ هَجْرَتُ
 کرنا۔
 اَهْجِرَةً اَهْجَارًا جِجُونَا اَهْجِرَ الْقَوْمُ
 دوپہر میں چلنا۔ اَهْجِرَ فِي مَنَظِقِهِ كِبْرَانَا
 کرنا بفلان بھنسا کرنا اور نری بات کہنا۔
 تَهَجَّرَ الْقَوْمُ دُوپَهْرٍ مِثْلِ چَلْنَا فَلَانًا
 مہاجرین کے مشابہ ہونا۔
 تَهَاجَرُوا وَاهْتَجَرُوا بِأَهْمِ قَطْعَ تَعْلُقِ كَرْنَا
 تَهَاجَرُوا وَاهْتَجَرُوا بِأَهْمِ قَطْعَ تَعْلُقِ كَرْنَا
 تَهَاجَرُوا وَاهْتَجَرُوا بِأَهْمِ قَطْعَ تَعْلُقِ كَرْنَا
 اَهْتَجَرَةً جِجُونَا
 اَلْهَاجِرُ اِسْمُ فَاعِلٍ شَيْءٌ هَاجَرَ نَهَايَتِ
 عمدہ چیز۔
 الْهَاجِرَةُ الْهَاجِرُ كَا مَوْثُ غَرْمِي كَا دُوپَهْرِيَا
 زوالِ آفتاب سے عصر تک کا وقت۔ سخت
 گرمی۔ نَجْ هَاجِرَاتٍ وَهَوَاجِرٍ اَوْ رِكْبِي
 هَاجِرَاتٍ مَصَادِرُ مِثْلِ سَوَانَا ہوتا ہے جو فَاعِلَةٌ
 كَا دَرَنٍ پَرَاتے ہوں جیسے عَاقِبَةٌ وَعَاقِبَةٌ
 وَغَيْرُهُ نَاقَةٌ هَاجِرَةٌ عَمْدَةٌ اَوْ نَتِي۔ اور کہا
 جاتا ہے ”زَمَانَةُ بَهَاجِرَاتٍ“ اس نے اس کو
 افعالِ فاحشہ سے ہم کیا۔
 الْهَاجِرِيُّ بِهَتِ عَمْدَةٌ اَطْلَى وَفَاتِقٌ مَعْمَارٌ
 شہری۔
 هَاجِرَةٌ حَضْرَتِ اَسْمَاعِيلَ عَلِيَّ نَبِيَانَا عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ كِي الدَّمَامَةُ كَا اِسْمُ غَرْمِي۔
 الْهَجْرَةُ بِرِ حَفَاظَتِ كَا قَابِلِ حِيْرَا چھوڑنا۔
 بہت عمدہ مہار۔ دوپہر۔ سخت گرمی۔ کہا جاتا
 ہے ”اَلْقِسْمَةُ عَن هَجْرٍ“ مِثْلِ اس سے ایک
 سَالِ كَا بَعْدِيَا چھ روز یا اس سے زائد یا چھ بیت
 كَا بَعْدِيَا۔ ”وَذَهَبَتِ الشَّجْرَةُ هَجْرًا“
 یعنی درخت لہا اور بڑا ہوا۔
 الْهَجْرَةُ عَمْدَةٌ اَوْ نَتِيَا اَوْ نَتِي۔
 الْهَجْرَةُ تَبِيحٌ كَفْتَلُو فُحْشٌ كَوْنِي۔ اِهْجَارًا
 اسم۔
 الْهَجْرَةُ نَهَايَتِ عَمْدَةٌ اَهْتَهَ چلنے والا۔
 الْاَهْجِرَةُ اِسْمُ تَفْضِيلِ اَوْ كَرْنَا جَاتَا هُوَا ”هَذَا
 اَهْجِرٌ مِثْلِ ذَاك“ یعنی یہ اس سے لہا سوانا
 بڑا ہے۔

الْمُهَاجِرَةُ تَبِيحٌ كَفْتَلُو كَفَايَتِ۔ كَمَا جَاتَا هُوَا
 ”مَا عِنْدَهُ غِنَا ذَاكٌ وَلَا هَجْرًا اَوْ ذَا“ اس
 كَا زَوْدِي كَا نَه تَوَاسِ كَا لِي غِنَا هُوَا اور نہ
 كَفَايَتِ۔
 الْمُهَاجِرَةُ هَجْرًا كَا اِسْمُ مَرَّةٍ مَوْثِي عَمْرَتِ۔
 الْمُهَاجِرَةُ هَجْرًا كَا اِسْمُ نَوْعٍ تَهَاجَرًا كَا اِسْمِ۔
 الْمُهَاجِرَةُ وَالْمُهَاجِرَةُ بَرَكٌ وَنَمْنٌ اَيْ كَمَا مَلِكٌ
 سَ دُوَسْرَ مَلِكٍ كُوَا جَانَا۔
 الْمُهَاجِرَةُ دِيَهَاتِ مِثْلِ نَقْلِ هَوَانَا۔
 الْمُهَاجِرَةُ دُوپَهْرٍ مَخْتِ غَرْمِي۔ بَرَاوْرٍ كَشَادَه
 حَوْضِ بَرَاوْرِيَا۔ جَمَا هُوَا دُوَسْرُ۔ مَوْنَا كُوْرُخَرِ۔
 پَاؤں بَانْدَهْنِي كِي رَتِي سَ بِنْدَهَا هُوَا اَوْ نَتِي رَجِ
 هَجْرًا الْمُهَاجِرَةُ كَوْنَهْ اَوْ رِبْرَهْ كَا دَرِ مِيَانِ كَا
 عِلَاقَةُ۔
 الْمُهَاجِرَةُ دُوپَهْرٍ مَخْتِ غَرْمِي۔
 الْمُهَاجِرَةُ تَاتِ طَوَقٌ تَابِجٌ اَوْ نَتِي كَا
 پَاؤں بَانْدَهْنِي كِي رَتِي۔
 الْمُهَاجِرَةُ وَالْمُهَاجِرَةُ عَادَتِ۔
 الْمُهَاجِرَةُ هَجْرًا فِي نَوْمِهِ اَوْ مَرَضِيَّةً
 مَعْمَارَةً عَادَتِ كَمَا جَاتَا هُوَا ”هَذَا هَجْرًا“
 يَهْ اِسْمُ كِي عَادَتِ هُوَا۔
 الْمُهَاجِرَةُ عَادَتِ۔
 الْمُهَاجِرَةُ دُوپَهْرٍ كَا وَتِ كَا كَلْمَانَا۔
 الْاَهْجِرَةُ وَالْاَهْجِرَةُ وَالْاَهْجِرَةُ
 عَادَتِ۔
 الْمُهَاجِرَةُ بَرَكٌ خَوَابِ مَوْتِ۔ ہر چیز سے
 عمدہ دوسروں سے بڑھا پڑھا۔ عَدَدُ
 مُهَاجِرٍ بِهَتِ عَمْدَةٍ كَمَا جَاتَا هُوَا ”زَمَانَةُ
 بِمُهَاجِرَاتٍ“ اس نے اس کو افعالِ قبیحہ سے
 ہم کیا۔
 الْمُهَاجِرَةُ هَجْرَتِ كَا مَقَامَاتِ۔ كَمَا جَاتَا هُوَا
 ”تَكَلَّمْنَا بِالْمُهَاجِرَةِ“ اس نے فُحْشٌ كَفْتَلُو كِي۔
 الْمُهَاجِرَةُ مِثْلِ بِيَارِ سَوَانَا ہونے كِي
 كِبْرَانَا۔ وہ لفظ جس کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہو۔
 الْمُهَاجِرَةُ لِكُوْرٍ۔ لَمُوْرِي اَوْ رِقْمَتِ بَعْضِ
 لَمُوْرِي كَا پَتِي۔ رِقْمَتِ۔ تَالِقٌ اَدْمِي جِ هَجْرًا سِ
 الْمُهَاجِرَةُ نَمَانَهْ كِي سَخْتِيَا۔

الہنجوع والہنجوع۔ بیوقوف یا گل۔ بے
 قد کا لکڑا۔ ایک بہترین قسم کا شکاری کتا۔
 ہاجزہ مهاجرة چپے چپے بات کہنا۔
 هَجَسَ (ان ضلّ هَجَسًا الشَّيْءُ فِي
 صَدْرِهِ: وَسَوْسَ كَرَفَلَانًا: کام سے روکنا۔
 هَاجَسَهُ: چپے چپے بات کہنا۔
 اِنهَجَسَ عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔
 الہاجس۔ ف۔ اندیشہ و سوسہ ہو جس
 الہنجس۔ سر پست آواز جو سنائی دے اور
 سمجھ میں نہ آئے۔ اندیشہ۔ وسوسہ۔
 الہجاس۔ آواز کو سننے والا شیر۔
 الہنجسة۔ مشکیزہ میں بگڑا ہوا دودھ۔
 خَبِرَ مُتَهَجِّسًا۔ نظیری روئی بے خیر کی
 روئی۔
 المَهْجُوسُ۔ کہا جاتا ہے هُوَ قَعُوْنَا فِي
 مَهْجُوسٍ مِنَ الْأَمْرِ“ وہ کڑبڑی میں پڑ گئے۔
 هَجَسَ (ان هَجَسًا: اس اللذائبة چوپایہ
 کو زمی سے ہانک لینا القوم: فساد ڈالنا۔
 هَجَسَتْ لَهُ نَفْسِي: بہت خواہش مند ہونا۔
 الہاجسة۔ لوگوں کی جماعت۔ ج
 هُوَ اجس۔ کہا جاتا ہے جَاءَتْ هَاجِسَةٌ
 مِنَ النَّاسِ“ لوگوں کی جماعت آئی۔
 الہنجسة۔ اسم مرۃ۔ اٹھنا۔
 هَجَعٌ (ف هَجُوعًا وَ تَهَجُّعًا: رات
 میں سونا۔ سونا۔ اور کہا جاتا ہے هَجَعٌ جُوعُهُ
 هَجَعًا فَهَجَعٌ جُوعُهُ هَجُوعًا“ اس نے
 اس کی بھوک کو تسکین دی۔ پس اس کی بھوک
 تسکین پا گئی (لازم و متعدی) وَ هَجَعْتُ إِلَيْهِ
 فَهَجَعَنِي“ میں اس سے مانوس ہوا اور اس
 کے سامنے جھک گیا اور اس نے مجھے دھوکا دیا۔
 هَجَعٌ تَهَجُّعًا الْقَوْمُ: سونا۔
 اَهْجَعُ جُوعُهُ: بھوک کو تسکین دینا۔
 الہاجع۔ ف۔ هَجُوعٌ وَ هَجُّعٌ۔
 الہاجعة۔ رات میں سونے والی هَجُّعٌ و
 هَجُوعٌ وَ هُوَ اجعٌ وَ تَهَجُّعَاتٌ۔
 الہجع والہجع والہجع والہجعۃ۔
 غافل۔ بیوقوف۔ الہجعۃ: بہت سونے

والا۔
 الہجعۃ۔ هَجَعٌ کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے
 “أَتَيْتُ فَلَانًا بَعْدَ هَجَعَةٍ“ میں فلاں کے
 پاس ابتدائی رات میں تھوڑی سی نیند کے بعد
 آیا۔
 الہجعۃ۔ هَجَعٌ کا اسم نوع۔ رَجُلٌ
 هَجَعٌ: غافل بیوقوف مرد۔
 الہجع من الليل: رات کا ایک حصہ۔ کہا
 جاتا ہے هَجَعٌ مِنَ اللَّيْلِ“ رات کا
 ایک حصہ گزر گیا۔
 التَّهَجُّعُ۔ ہلکی نیند۔
 المَهْجَعُ۔ غافل بیوقوف۔ ہر ایک کا مطبوع
 فرمانبردار۔
 هَجَفٌ (س هَجْفًا: بھوکا اور ڈھیلے پیٹ
 والا ہونا۔ کوکھ کا پہلوؤں سے لگا ہوا ہونا۔
 نَهَجَفَ۔ لاغری کی وجہ سے نکل ہوئی ہڈیوں
 والا ہونا
 الہجفان۔ پیاسا۔
 الہجف۔ سخت بدن سست (شتر مرغ یا
 آدمی) مونا اور لمبا آدمی۔ بڑے پیٹ والا شتر
 الأَهْجَفُ۔ ڈبلا۔ مَوْنَهَجْفَاءُ۔
 هَجَلٌ (ان هَجَلًا بِالْقَصَبِ وَ غَيْرِهَا:
 بچیکٹا ہجالت المرأۃ بعینہا: آنکھ مارنا۔
 هَجَلٌ عَرْضُهُ: بے عزتی کی بھلان: فحش
 سنا اور گالی دینا۔
 هَاجِلٌ مُهَاجِلَةٌ۔ پست اور ہموار زمین میں
 چلانا: مقابلہ کرنا۔
 أَهْجَلُ الْإِبِلِ: اونٹوں کو بیکار چھوڑ دینا
 الشَّيْءُ: کشادہ کر لمان: مال ضائع کرنا
 الْقَوْمُ: قوم کا پست اور ہموار زمین میں آنا۔
 اِهْتَجَلَ الشَّيْءُ: ایجاد کرنا۔
 الْهَاجِلُ۔ ف۔ سونے والا۔ بہت سفر کرنے
 والا۔
 الہجَل۔ سر پست و ہموار زمین۔ لَهْجَالٌ
 وَ هِجَالٌ وَ هُجُولٌ۔
 الہجلة۔ هَجَلٌ کا اسم مرۃ۔ پست و ہموار
 زمین۔ تَهَجُّلَاتٌ۔

الہجول۔ بدکار عورت۔
 الہجیل۔ پست و ہموار زمین۔ حوض جو اچھی
 طرح سے بنا ہوا۔
 دُمُوعٌ هُجُولٌ۔ بچنے والے آنسو۔ مفرد
 ہاجل۔
 هَجَمٌ (ان هَجُومًا عَلَيَّ: غفلت کی
 حالت میں اچانک آنا۔ یا بغیر اجازت کے آنا
 البیت: مکان کا اللبذ او الشتاء سردی
 یا جائزے کا جلدی شروع ہونا هَجَمًا فَلَانًا:
 دھکارنا۔ دَعِ كَفَلَانًا عَلَيَّ الْقَوْمِ اچانک
 اللذائبة: چوپایہ کو زور سے ہانک لینا:
 گھر کو ڈھا دینا هُوَ اجزُ فَلَانًا: پسینہ بہنا
 فی الصَّرْعِ: تھن سے سارا دودھ پونہ خما
 هُجُومًا الشَّيْءُ: قرار و سکون پانا
 المَرَضُ: بیماری کا زائل ہونا اور سست پڑنا
 فَلَانٌ: چپ رہنا اور سر جھکانا هَجَمَتْ
 عَيْنُهُ: آنکھ کا دھنس جانا۔
 هَجَمَةٌ۔ اچانک لانا۔
 هَاجِمَةٌ مُهَاجِمَةٌ۔ ایک دوسرے پر اچانک
 آنا۔
 أَهْجَمَةٌ عَلَيْهِمُ: اچانک لانا هَجَمَ مَا فِي
 الصَّرْعِ: تھن سے سارا دودھ لیل الابل:
 اونٹوں کو باڑہ کی طرف واپس لانا اللہ
 المَرَضُ: بیماری کو زائل کرنا۔
 تَهَاجَمًا۔ ایک دوسرے پر اچانک آنا۔
 تَهَجَّمَ عَلَى الشَّيْءِ: کسی چیز پر اچانک آنا۔
 اِنهَجَمَ البیتُ: مکان کا شکستہ و ویران ہونا
 للذَّمْعِ او العَرَقِ: آنسو یا پسینہ بہنا۔
 نَهَجَمَتِ الْعَيْنُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔
 هَجَمَ مَا فِي الصَّرْعِ: تھن سے سارا دودھ
 لینا۔
 أَهْتَجَمَ الرَّجُلُ: کمزور ہونا۔
 الہجم۔ سر بڑا یا مال۔ پسینہ هَجَمًا۔
 الہجم۔ بڑا یا مال۔
 الہجمۃ۔ هَجَمٌ کا اسم مرقب الشتاء:
 سخت سردی من الصیف: سخت گرمی
 الابل: چالیس یا ستر اونٹوں سے لے کر سو تک

کا گلدہ۔ الہجْمَةُ: بوڑھی بھیڑ۔ رات کی ابتدائی تاریکی۔ کہا جاتا ہے ”جنتہ بعد هَجْمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ“ میں اس کے پاس رات کی ابتدائی تاریکی کے بعد آیا۔

الهِجَامُ: قوم پر بہت بجوم کرنے والا۔ بہادر۔ شیر۔

الهِجُومُ: جلد بجوم کرنے والے الرِّيحِ تیز ہوا۔ پسینہ آور۔ کہا جاتا ہے ”تَحْمَمٌ فَإِنَّ الْحَمَامَ هُجُومٌ“ حمام میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ حمام پسینہ آور ہے۔

الهِجْمِيَّةُ: گاڑھا دودھ۔

الْأَهْتِجَامُ: رات کا آخری حصہ۔

الْمَهْجُومُ: بنت مہجوم۔ گرا ہوا گمر۔ خیمہ جس کی طنابیں کھول دی جائیں۔

الهِجْمَانَةُ: موتی۔ زمکڑی۔

هَجَنَ (ان ض) هَجْنًا: ہاجن ہونا (دیکھئے لفظھاجن)

هَجْنٌ (ك) هَجْنَةٌ وَهَجَانَةٌ وَهَجُونَةٌ كَيْدٌ هَوَانٌ فَرَوَانِيَةٌ هَوَانٌ دَوغْلًا هَوَالِكُ الْكَلَامِ غَلَطٌ هَوَانٌ

هَجْنَةٌ تَهَجِنًا: ہجمن بنانا (دیکھئے لفظ هَجِين) هَجَنَ الْأَمْرَ: حقیر کرنا۔ عیب دار بنانا۔

أَهَجَنَ الرَّجُلُ: شریف النسل اوتنوں کا مالک ہونا۔ جاریہ: بلوغ سے پہلے شادی کر دینا۔

أَفْتَجَبَتِ الشَّاةُ: حمل ظاہر ہونا۔

اسْتَهَجَنَ فَعْلُهُ: قبیح سمجھا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا مِمَّا يَسْتَهَجَنُ ذِكْرُهُ“ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا ذکر کرنا قبیح سمجھا جاتا ہے۔

الهِجَاجِنُ: فاق۔ چقماق جس سے ایک دلف سے مارنے میں آگ نہ لگے۔ ٹہنی جس کی شادی بلوغ سے پہلے ہو جائے۔ کھجور کا درخت جو چھوٹے ہونے پر ہی پھل دے۔ تھو اجن۔

الهِجَانُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَمْدَةٌ خَالِصٌ مِنَ الْإِبِلِ: سفید نسل کا شریف اوتن (اس میں مذکر مونث جمع سب برابر ہیں) کہا جاتا ہے

”بَعِيرٌ هِجَانٌ نَاقَةٌ هِجَانٌ وَأَبْلٌ هِجَانٌ“ اور بسا اوقات ہججان بھی بولتے ہیں۔

هَيْوَاتُ هِجَانٍ شَرِيفٍ النِّسْلِ مَرْوَعَالِي هَذَا الْقِيَاسُ إِمْرَأَةٌ هِجَانٌ وَنِسْوَةٌ هِجَانِيَةٌ أَرْضٌ هِجَانٌ: سفید نرم مٹی والی زمین۔

الهِجَانَةُ: شرافت۔ سفیدی۔

الهِجْنَةُ: سس الکلام: عیب و قباحت فی العلم: علم کی بربادی۔ تھجج۔

الهِجِينُ: کمینہ۔ وہ جس کی ماں باندی اور باپ عربی ہو۔ تھجج و هَجْنَاءُ وَ هِجْنَانٌ وَ مَهَاجِنٌ وَ مِهَاجِنَةٌ مَوْنَثٌ هَجِينَةٌ تَهَجِنُ وَ هِجَانٌ وَ هِجَانِيْنَ كَمَا جَاءَتْ فِي فَرَسٍ وَ بِرِذْوَانَةٍ هَجِينٌ“ خراب نسل کا گھوڑا یا ترکی گھوڑا اور الھجین من الخیل: ترکی گھوڑی اور عربی گھوڑے سے پیدا شدہ گھوڑا۔

هَجِينٌ: دودھ جو نہ پتلا ہونے کاڑھا۔

غَلْمَةٌ أَهْجِنَةٌ: بلوغ سے پہلے شادی شدہ لڑکے۔

الْمَهْجِنَةُ وَالْمَهْجِنِيُّ وَالْمَهْجِنِيُّ وَالْمَهْجِنَاءُ: ناکارہ لوگ۔

الْمَهْجِنَةُ مِنَ النَّوْقِ: بجان کی جانب منسوب اونٹنی جو اچھی نسل سے ہونے کی وجہ سے خراب نسل کے اونٹوں سے باز رکھی جائے۔ کھجور کا درخت جس پر پہلی مرتبہ ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ اونٹنی جو پہلی مرتبہ حاملہ ہو۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

الْمَهْجِنَةُ: کھجور کا درخت جس پر پہلی بار ز کھجور کا پھول ڈالا جائے۔ کھجور جو چھوٹے ہونے کے باوجود پھل دے۔ ٹہنی۔

دھماکے سے گرانا۔ کہا جاتا ہے ”هَدْنَةُ الْمُصْبِيَةِ“ مصیبت نے اس کے اعضاء کو ضعیف بنا دیا۔ ”وَهَدْنِي هَذَا الْأَمْرُ أَوْ هَدْرٌ كُنْهِ“ یعنی اس معاملہ نے میری کرتوتز دی۔

هَدَّ (س ض) هَدًّا الرَّجُلُ: بوزھا ہونا۔

هَدَّ (ض) هَدًّا الْبَعِيرُ: اُونٹ کا بڑبڑانا (هَدِينًا) الْحَائِطُ وَ نَحْوُهُ: دیوار وغیرہ کا دھماکے سے گرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”هَذَا رَجُلٌ هَدَّكَ مِنْ رَجُلٍ“ یہ مرد تمہارے لیے فلاں مرد سے کافی ہے۔ بعض لوگ اس قول میں لفظ هَدَّ کو مصدر قرار دیتے ہیں اس وجہ سے وہ تشبیہ جمع مؤنث وغیرہ نہیں لاتے اور یہ اکثر کقول ہے۔ اور بعض فعل قرار دیتے ہیں اس وجہ سے وہ تشبیہ جمع مؤنث وغیرہ سب لاتے ہیں۔ کہتے ہیں ”مَرَزْتُ بِرَجُلٍ هَدَّكَ مِنْ رَجُلٍ وَ بِأَمْرَةٍ هَدَّتْكَ مِنْ أَمْرَةٍ وَ بِرَجُلَيْنِ هَدَّاكَ وَ بِرَجَالٍ هَدُّوكَ بِأَمْرَتَيْنِ هَدَّتَاكَ وَ بِسَيِّئٍ هَدُّوكَ“ اس اور کہا جاتا ہے ”إِنَّهُ لَهَدَّ الرَّجُلُ“ یعنی وہ لہتا آدمی ہے اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ قوت اور طاقت کی تعریف کی جائے۔ اور مطلقاً تعجب کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے اور فُلَانٌ يَهْدُوكَ بولا جاتا ہے جبکہ بہادری اور قوت کی تعریف کی جائے۔

هَدَّوْهُ وَ تَهَدَّدَهُ: دھمکانا۔ خوف دلانا۔

تَهَادَرَا تَهَادَرًا: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ اِنْتَهَدَّ الْجَبَلُ أَوْ الْبَيْتُ: پہاڑ یا مکان کا ٹوٹ پڑنا۔ کرنا۔

اسْتَهَدَّ: کمزور سمجھنا۔

الِهَادُ: فاسق۔ سندر کا شور۔

الِهَادَةُ الْهَادُوكَ مَوْتٌ كَرَجٍ: کہا جاتا ہے ”مَا سَمِعْنَا الْعَامَ هَادَةً“ ہم نے اس سال کرج نہیں سنی۔

الِهْدُ: سر۔ فیاض۔ بخت آواز (والِهْدُ) کزور مرد۔ جِ هَدُونٌ وَ هِدُونٌ.

الِهْدَادُ: بخت آواز۔

الِهْدَةُ: هَدَّ كَالِاسْمِ مَرَّةً: دھماکا۔

الِهْدَادُ: مہربانی۔ نرمی۔ مہلت۔ اور اسی سے ہے ”هَذَا دَيْكُ“ اور یہ ”حَنَانِيكُ“ کے قبیل سے ہے۔ گویا کہ کہنے والا کہتا ہے ”مَهْلًا بَعْدَ مَهْلٍ“ یعنی چھوڑ دو۔ دور رہو۔ علیحدہ ہو جاؤ قَوْمٌ هَدَادٌ: بزدل لوگ۔

الِهْدَادَةُ: بزدل۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ هَدَادَةٌ“ بزدل مرد۔

الِهْدُودُ: نرم زمین۔ دشوار گزار گھاٹی اَحْمَمَةُ هَدُوْدٌ: ٹیلہ جس سے اترا د شوار ہو۔

الِهْدِيْدُ: سر۔ لمبا مرد۔ دھماکا۔ آواز کی گنگناہٹ۔

الِهْدَانُ: اکڑ۔ بیوقوف مرد۔

الِهْدُ: بزدل۔

التَّهْدَادُ: ڈرانا۔ دھمکانا۔ کہا جاتا ہے ”جَاوَزُوا مَتَهَادِيْنَ وَ مُتَسَاتِلِيْنَ“ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آئے گویا کہ بعض بعض کو توڑ رہے تھے۔

هَذَا يَهْدُوكَ هَذَا وَ هَدُوْعًا: سکون ہونا (حرکت و آواز وغیرہ میں) هَذَا بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَسَاقَطُوا اِلَى بَلَدٍ كَذَا فَهَذَا وَ اِيْنِهِ“ لوگ فلاں شہر میں پہنچے اور وہاں اقامت کی فُلَانٌ مرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”اَنَا فُلَانٌ وَقَدْ هَدَّاتِ الْعَيْنُ وَ الرَّجُلُ“ یعنی فلاں ہمارے پاس اس وقت آیا جبکہ سارے لوگ سوچکے تھے (اور کبھی هَذَا الف سے بدل کر بھی بولتے ہیں) هَذَا الصَّبِيُّ: بچے کو سنانے کے لیے چھک دینا۔

هَدْنِي يَهْدُوكَ هَذَا: کمزور ہونا البَعِيْرُ: کثرت بوجھ کی وجہ سے چھوٹے کوبان والا ہونا۔

هَذَا تَهْدِيْتُهُ: تسکین دینا۔ چپ کرانا۔

اَهْدَاةً: تسکین دینا۔ چپ کرانا۔

اَهْدَا الصَّبِيَّ: بچے کو سنانے کے لیے چھک دینا التَّوْبُ: بوسیدہ کرنا الکِبْرُ: او الضَّرْبُ فُلَانٌ: کمزور دینا۔ جھکا دینا اللّٰهُ مَنَكِبَةٌ: موٹھے کو پست کر دینا۔ عرب کہتے ہیں ”لَا اَهْدَاةَ اللّٰهُ“ یعنی اللہ اس کے رنج و غم کو دور

نہ کرے۔

الِهْدِيُّ وَ الِهْدِيُّ: رات کا ابتدائی حصہ۔ کہا جاتا ہے ”اَنَا بَعْدَ هَدْيٍ مِنَ اللَّيْلِ“ وہ ہمارے پاس ایک حصہ رات گزرنے کے بعد یا لوگوں کے سونے کے بعد آیا الِهْدِيُّ: سیرت و خصلت۔ (لغت ہے هَدْيٌ بِالْيَاءِ مِثْلُ)

الِهْدَاةُ: هَدَا كَالِاسْمِ مَرَّةً مِنَ اللَّيْلِ رَاتٍ كَالِابْتِدَائِيِّ حَصَّةً۔

الِهْدَاةُ: هَدَا كَالِاسْمِ نَوْعًا: کہا جاتا ہے ”مَالَهُ هَدَاةٌ لَيْلَةً“ اس کے پاس رات کا گزارہ نہیں۔

الِهْدَاةُ: ایک قسم کی دوڑ۔

الِهْدَاةُ: و بلا گھوڑا (نہری کیلئے خاص ہے)

الِهْدُوْعُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ کہا جاتا ہے ”اَنَا فُلَانٌ هَدُوْعٌ“ فلاں ہمارے پاس سونے کے بعد آیا۔

الِهْدِيُّ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔

الِهْدَاةُ: کمزور کہا جاتا ہے ”مَنْكَبٌ اَهْدَاةٌ“ جھکا ہوا کندھا ”وَرَجُلٌ اَهْدَاةٌ وَ اِمْرَاةٌ اَهْدَاةٌ“ کمزور مرد یا کمزوری عورت ”وَهُوَ اَهْدَاةٌ مِمَّا كَانَ“ زیادہ مطمئن۔

المِهْدَاةُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔

المِهْدَاةُ: حالت کہا جاتا ہے تَرَسْتُهُ عَلَيَّ مُهْدِيَّةً: میں نے اس کو سابق حالت پر چھوڑ دیا اور یہ مَهْدَاةٌ كِي تَصْفِيْرِهِ۔

هَدَبٌ (ض) هَدْبًا الشَّيْءُ: کاٹنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کو دوہنا الشَّمْرَةُ: پھل توڑنا۔

هَدَبْتُ (س) هَدْبًا الْعَيْنُ: آنکھ کا لمبی پلکوں والی ہونا الشَّجْرَةُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔

هَدَبَ الثَّوْبُ: کپڑے میں چھور بنانا هَدَبَ وَ اِهْتَدَبَ الثَّمْرَةُ: میوہ توڑنا۔

اَهْدَبَتِ الشَّجْرَةُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔

تَهَدَّبَتِ الْأَعْصَانُ: ٹہنیوں کا لٹکنا تَهَدَّبَ السَّحَابُ: بلکے ہوئے بادل والا ہونا۔

الِهْدَبُ وَ الِهْدَبُ: پلک یا واحد هُدْبَةٌ

وہدبۃ۔ کپڑے کا چھورج اَہْدَاب۔ واحد
ہُدْبَة۔

الْهَدْبُ۔ ارطی اور اس کے مانند درختوں کی
شہنیاں اور تخت کے پتے جو ہمیشہ رہیں جیسے
سرویں النَّبَات: گھاس جس کے پتے نہ ہوں
اور وہ خود پتوں کے قائم مقام ہو اور بقول بعض
ہر پتے جن میں چوڑائی نہ ہو۔ هَدْبُ
الشَّجَرَة: شہنیوں کی لمبائی اور ان کا لگانا
اَہْدَاب۔

الْهَدْبُ۔ شَرِيفٌ مِنَ الْعُيُونِ وَالْأَشْجَارِ لِمَا
يَلْبَسُونَ فِيهَا أَلْمَمًا لِمَا يَلْبَسُونَ فِيهَا وَالْأَشْجَارِ لِمَا
الْهَدْبُ۔ کند خاطر و عاجز۔

الْهَدْبُ۔ کند خاطر و عاجز۔ پتے جو چوڑے نہ
ہوں اور واحد هُدَابَة کہا جاتا ہے "فَطَعُ هَدْبُ
الشَّجَرَة وَهَدَابِيهَا" اس نے درخت کی لمبی
شاخیں کاٹیں "هَدَابُ النَّخْلِ" درخت خرما
کی شاخیں هَدَابُ النَّوْب: کپڑے کے
چھور۔

الْهَيْدَبُ مِنَ السَّحَابِ زَمِينٌ قَرِيبٌ
لِذَا هُوَ أَبْدَلُ۔ الْهَيْدَبُ مِنَ الرُّجَالِ: کند
خاطر و عاجز۔ بہت بالوں والا الْهَيْدَبُ
پستان۔

الْهَيْدَبِيُّ۔ گھوڑوں کی ایک چال۔
الْأَهْدَبُ۔ لمبی اور گھنی پلکوں والا۔ مَوْنَثُ
هَدْبَاءُ ج هَدْبٌ۔ شَجَرٌ أَهْدَبٌ: لنگی
ہوئی شاخوں والا درخت۔ نَسْرُ أَهْدَبٍ:
لبے پروں والا گدھ۔ عَيْنٌ هَدْبَاءُ: لمبی پلکوں
والی آنکھ۔ شَجَرَةٌ هَدْبَاءُ: لمبی اور لنگی ہوئی
شاخوں والا درخت اَذُنٌ هَدْبَاءُ: لنگے ہوئے
کان۔ لِحْيَةٌ هَدْبَاءُ: لنگی ہوئی اڑھی۔

هَدَجٌ (ض) هَدَجًا وَهَدَجَانًا وَهَدَجًا.
بوڑھوں کی چال چلنا الظَّلِيمُ: شتر مرغ کا
کانچے ہوئے چلنا۔
هَدَجَتْ هَدَجًا وَهَدَجَةَ النَّاقَةَ: اونٹنی کا
اپنے پیچ پر شفیق ہونا الْقِنْدَرُ: ہانڈی کا زور سے
أَبْلَا الرِّيْحُ: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔
هَدَجَتْ النَّاقَةَ: اونٹنی کا بڑے اور بلند کوبان

والی ہونا۔
تَهْدَجُ الصَّوْتُ: کچکی کی وجہ سے آواز
منقطع ہونا۔ تَهْدَجَتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا پیچ
سے پیار کرنا۔ تَهْدَجُ الْقَوْمُ عَلَى فُلَانٍ:
مہربانیاں ظاہر کرنا۔

اِسْتَهْدَجَ: کانچے ہوئے چلنا۔
الْهَدَّاجُ: اسم مبالغہ۔ بوڑھوں کی چال چلنے
والا۔ ظَلِيمٌ هَدَّاجٌ: کانچے ہوئے چلنے والا
شتر مرغ اور اسی سے ہے "فَنَافِدُ هَدَّاجُونَ
حَوْلَ بَيْوتِهِمْ" سپہیان ان کے مکان کے
ارد گرد کانچے ہوئے چلتی ہیں۔
قِنْدَرٌ هَدْوَجٌ: جلدی اٹلنے والی ہانڈی۔

الْهُوْدَجُ: ہودہ ج ہودہ ج ہوداج۔
المِهْدَاجُ: پیچے سے پیار کرنے والی اونٹنی۔
سائیں سائیں کرنے والی ہوا۔
المُسْتَهْدَجُ: فاجہ جلد باز۔
المُسْتَهْدَجُ: جلد بازی۔ (مصدر میمی)
الْهَدَّاجُ ج: بوڑھوں کی چال چلنے والا شتر
مرغ۔

هَدْرٌ (ن ض) هَدْرًا وَهَدْرًا. الدَّمُ
وَغَيْرُهُ: خون وغیرہ رائیگاں جانا فُلَانٌ الدَّمُ
وَغَيْرُهُ: باطل کرتا۔
هَدْرٌ (ض) هَدْرًا وَتَهْدَارًا الْحَمَامُ كِبْرُ
كَو كَوْ كَرْتًا۔ ٹھکری کرنا الشَّرَابُ: جوش میں
آنا۔ هَدْرَتْ جُرَّةُ النَّبِيذِ: نیک کامی میں
جوش میں آنا الرَّغْدُ: بادل گرجنا التَّحَلُّ:
ٹھوکر لگانا (هَدْرًا وَهَدْرًا) الْبَعِيرُ: اونٹ
کا بڑبڑانا (هَدْوْرًا وَهَدْوْرًا) الْعُشْبُ: بہت
بڑھنا اور لمبی ہونا۔

هَدْرٌ الْبَعِيرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔
أَهْدَرُ دَمٌ فُلَانٌ: باطل کرتا۔ مباح کرتا۔
تَهَادَرُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے خون کو
مباح کرتا۔
أَهْدُوْدَرُ الْمَطْرُ: زور سے بارش ہونا۔
الْهَادِرُ: فاجہ ناکارہ ج ہَدْرَة۔ دودھ جس کا
اوپر کا حصہ گاڑھا ہو اور نیچے کا پتلا۔
الْهَادِرَة: الھادِر کا مَوْنَثُ اَرْضٌ هَادِرَة:

بہت گھاس والی زمین ج ہوادِر۔
الْهَدَّارُ: اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "رَغْدُ
هَدَّارٌ" بہت گرنے والا بادل۔
الْهَدْرُ وَالْهَدْرُ: ناکارہ رائیگاں کہا جاتا
ہے "ذَهَبَ دَمُهُ هَدْرًا أَوْ هَدْرًا" اس کا
خون رائیگاں گیا۔ "ذَهَبَ مَالُهُ أَوْسَعِيَةً
هَدْرًا أَوْ هَدْرًا" اس کا مال یا اس کی کوشش
رائیگاں گئی۔

الْهَدْرُ: ناکارہ لوگ۔ کہا جاتا ہے "هُمُ أَنْاسٌ
هَدْرٌ" وہ ناکارہ لوگ ہیں۔
الْهَدْرُ: ناکارہ ناکارہ ج ہَدْرَة۔ کہا جاتا ہے "بَنُو
فُلَانٍ هَدْرَة وَهَدْرَة وَهَدْرَة" فلاں کی
اولاد کلمی اور ناکارہ ہے۔ اور ایسا ہی واحد کیلئے اور
مَوْنَثُ کے لئے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ جِبَانٌ
هَدْرَة"

الْأَهْدَرُ: پھولا ہوا۔ مَوْنَثُ "أَهْدَرَاءُ ج
هَدْرٌ"۔

المَهْدَرَة: سامنے کے چھوٹے دانت۔
الْهَدَارِيْسُ: مصیبتیں۔
هَدَشَ هَدَشًا الْكَلْبُ: کتے کا بھڑکنا یا جانا۔
أَنْهَدَشَ أَنْهَدَاشًا الْكَلْبُ: کتے کا بھڑکنا۔
الْهُوْدَجُ: شتر مرغ۔
هَدَعَهُ (ف) هَدَعًا: توڑنا۔
أَنْهَدَعَ: ٹوٹنا الشَّيْءُ: خشک ہونے کے بعد
زرم ہونا الرُّطْبَةُ: مگر گر پھٹنا۔
هَدَفٌ (ن) هَدَفًا: اٹلنا ہونا۔
لِلْحَمْسِيْنَ: قریب پہنچنا۔
هَدَفٌ (ض) هَدَفًا: ست ہونا۔ کمزور

ہونا۔ کلمند ہونا اِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔
أَهْدَفَ لِلْحَمْسِيْنَ: قریب پہنچنا اَلْحَى
الْتَّلُّ: نلہ پر سے جھانکنا اِلَيْهِ: پتہ لینا لُ
الشَّيْءِ: پیش آنا مِنْهُ: قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے
"أَهْدَفَ لَكَ الصَّيْدَ فَارْمِهِ" شکار تمہارے
قریب سے اس پر تیرا ہوا۔
اِسْتَهْدَفَ لَهُ الشَّيْءُ: سیدھا کھڑا ہونا۔
الشَّيْءُ: بلند ہونا نشانہ بننا اور اسی سے مشہور
مقولہ ہے "مَنْ صَنَّفَ فَقَدْ اِسْتَهْدَفَ"

جس نے کوئی کتاب تصنیف کی وہ نشانہ بن گیا۔
اِسْتَهْدَفَ كَفَلَ الْإِنْسَانَ او الْحَيَوَانَ:
انسان یا حیوان کے چوڑکا برا ہونا۔

الْهَادِفُ. فَا۔ اچھی۔

الْهَادِفَةُ. جماعت۔

الْهَدْفُ. بڑے جسم والا۔

الْهَدْفُ. ہر ایک بلند (عمارت یا ٹیلہ یا پہاڑ۔
اور اسی وجہ سے نشانہ کو بھی "هَدْف" کہتے ہیں
الْهَدْفُ: بڑے جسم کا مرد یا بہت سونے والا
بھاری بھر کمزور یا ناکارہ یا ناموافق یا خداف۔

الْهَدْفَةُ. لوگوں کی جماعت۔ مکانات کہ جن
میں لوگ کچھ اقامت کریں اور پھر کوچ کریں
نَحْدَفُ.

هَذَكَ (ض) هَذَكَا الْبِنَاءُ: عمارت کو
ڈھانا۔

تَهَذَّتْ تَهَذَّتَا. بے وقوف بننے کا کلام:
دھمکانا۔

هَدَلٌ (ض) هَدَيْلًا الْحَمَامُ او الْغُلَامُ
آواز نکالنے والا (شئی): لگانا۔

هَدَيْلٌ (س) هَدَيْلًا ذُحَيْلًا بَوَالِبِغَيْرٍ: زخم کی
وجہ سے ڈھیلے ہونے والا ہونا۔

تَهَدَلَتِ الشَّفَّةُ: ہونٹ کا ڈھیلنا ہونا

أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ او ثَمَرَاتُهَا: درخت کی
ٹہنیوں یا پھل کا ٹکٹکا لٹقوب: کپڑے کا ٹکٹکا۔

الْهَادِلُ. فَا۔ بے غیر ہادیل: لٹکے ہوئے
ہونٹ والا اونٹ۔

الْهَدَالُ. لٹکی ہوئی شاخیں۔

الْهَدَالُ: وہ طفلی تیل جو دوسرے درختوں کی
شاخوں پر چڑھ کر ان کا رس چوستی ہے۔ ان میں
سے کچھ سفید پھلوں والی ہوتی ہیں موسم سرما
میں بادام اور سیب پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور
کچھ سرخ پھلوں والی زیتون کے درخت پر
ہوتی ہیں۔

الْهَدَالَةُ. جماعت۔

جَمَلَ هَدَيْلٌ. لے اور لٹکے ہوئے ہونٹ والا
اُونٹ۔

الْهَدَيْلُ. سر۔ کبوتر کی کوکو، کبوتر کا بچہ، بہت

بالوں والا مرد۔ اور بقول بعض گتھے ہوئے
بالوں والا جو کتھی نہ کرے۔ اور تیل نہ لگائے۔
رَجُلٌ هَدَيْلٌ: سست بوجھل مرد۔

الْأَهْدَلُ. لٹکے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْتٌ
هَذَلَاءُ. ج هَذَلٌ. مَشْفَرٌ أَهْدَلٌ: ڈھیلا
ہونٹ کا اونٹ۔ شَفِيفَةٌ هَذَلَاءُ: ٹھوڑی پر لوٹا
ہوا ہونٹ والا ہڈیل مِّنَ السَّحَابِ: زمین
کے قریب لٹکا ہوا بادل۔

هَدَمَ (ض) هَدَمْنَا الْبِنَاءَ: عمارت ڈھانا
الْقَوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا۔ اور کہا جاتا ہے
"ضَرْبُهُ فَهَدَمَهُ" اس نے اُس کو مارا اور پیٹھ
توڑی۔

هَدِمَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ: سمندر میں چکر
آتا۔

هَدَمَ الْبِنَاءَ: عمارت ڈھانا (تشدید مبالغہ کیلئے
ہے) الْقَوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا۔

تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا آہستہ آہستہ گرنا۔ کہا
جاتا ہے "تَهَدَّمَ عَلَيْهِ غَضَبًا" اس نے اسے
دھمکی دی الْقَوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

تَهَادَمُوا. ایک دوسرے کے خون کو مباح
کرنا۔

إِنْهَدَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا دیران و شکستہ ہونا۔

الْهَادِمُ. فَا. هَادِمٌ اللَّذَاتِ: کنایہ ہے
موت سے۔

الْهَدَامُ. چکر جو انسان کو سمندر میں لاقح ہو۔
الْهَدْمُ. سر۔ مباح کیے ہوئے خون۔ کہا جاتا

ہے "دَمُهُ هَدْمٌ" اس کا خون مباح ہے۔

الْهَدْمُ. بوسیدہ یا بیوند لگا ہوا کپڑا۔ جَا هَدَمًا
و هَدَمٌ. کہا جاتا ہے "عَلَيْهِ نِيَابٌ هَدْمٌ او
أَهْدَا قَامٌ" وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔
الْهَدْمُ: بھر فرقت، کھوٹ بڑھا۔ پرائنا۔
چرمی موزہ۔

الْهَدِمُ. منگٹ۔ بے وقوف۔

الْهَدْمُ. خون مباح۔ کہا جاتا ہے "دَمُهُ
هَدْمٌ" اس کا خون مباح ہے۔ کنوئیں کے
کناروں سے شکستہ ہو کر جو کنوئیں ہی میں گر
پڑے۔ ہر وہ عمارت جو دیران و شکستہ ہو گئی ہو۔

کہا جاتا ہے "إِنَّ حَفْرَكَ إِلَى لَهْدَمٍ وَإِنَّ
حَبْلَكَ إِلَى لَأَنْشُوطَةٍ" یہ اس وقت بولا
کرتے تھے جبکہ یہ کہنا مقصود ہو کہ تمہاری مدد

بہت کم ہے نیز عرب معاہدہ اور نصرت کے
وقت کہا کرتے تھے "دَمِي دَمَلٌ و هَدَمِي
هَدَمَكُ" یعنی اگر کوئی مجھے قتل کرے تو تم
میرے خون کا مطالبہ کرو جیسے تم اپنے اولیاء
کے خون کا مطالبہ کرتے ہو اور اگر کسی نے
میری عزت بگاڑی تو اس نے تمہاری عزت پر
بڑ لگایا۔ اور کہا جاتا ہے "انْقَضَ هَدْمٌ مِّنَ
الْحَائِطِ" دیوار منہدم ہو گئی شَهَيْدُ الْهَدْمِ:
وہ شخص جو کنوئیں میں گر جائے یا اس کے اوپر
دیوار گر پڑے۔

الْهَدْمَةُ. اسم مرء۔ ہلکی بارش۔

الْهَدْمَةُ. پرائنا کپڑا۔ جَا هَدْمُومٌ.

الْهَدِيمُ. پہلے سال کی باقی ماندہ گھاس۔

عَجُوزٌ مُنْهَدَمَةٌ. بہت بڑھیا۔

المُهْدَمُ والمُهْدُومُ والمُهْدُومَةُ گاڑھا
اور جما ہوا دودھ۔ اَرْضٌ مِهْدُومَةٌ: زمین
جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔

خَفَّ مِهْدَمٌ. بوسیدہ بیوند لگا ہوا چرمی موزہ۔

هَدَمَلُ الرَّجُلُ: کپڑے پھاڑنا۔

الْهَدْمَلُ. بڑا کپڑا۔ ویرینہ۔ بہت بالوں والا۔

الْهَدْمَلُ. بڑا کپڑا۔ جمع شدہ بلند پشت۔

الْهَدْمَلَةُ. بہت درختوں والا ریگستان۔ زمانہ
قدیم۔ لوگوں کی جماعت۔

هَدَنٌ (ض) هَدُونًا. آرام پانا۔ بزدل ہونا

ڈھیلا ہونا (هَدَنًا) آرام دینا۔ جھوٹے وعدہ
سے راضی کرنا الصَّبِيُّ: خوش کرنا۔

الشَّبِيُّ: دُخْنٌ کرنا فُلَانًا: قتل کرنا۔

هَدَنَ عَنَكَ فُلَانٌ: کسی کا تم سے تھوڑی سی
چیز یا کر راضی ہونا۔

هَدَنَهُ. تسکین دینا۔ باز رکھنا۔ کہا جاتا ہے

"هَدَنُوهُ بِالْقَوْلِ حَتَّى هَدَنَ" اس کو انہوں
نے قول سے راضی کیا یہاں تک کہ وہ راضی
ہو گیا الصَّبِيُّ: خوش کرنا۔ کہا جاتا ہے
"هَدَنَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيهَا بِكَلَامِهَا لِيَنَامَ"

الطَّرِيقَ إِلَى مَكَانٍ كَذَا“ یعنی اس نے
فلاں جگہ کا راہ راست یا اِلْهْتَدَى الْعُرُوسُ
إِلَى بَعْضِهَا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔
الْفَرْسُ الْخَيْلُ: گھوڑوں کے گلے کے آگے
بڑھتی الرَّجُلُ: ہدایت طلب کرنا۔
ہدایت پر قائم رہنا۔
اسْتَهْدَى اسْتَهْدَاءً: ہدایت طلب کرنا
الشَّيْءُ: ہدیہ طلب کرنا۔
الْهَادِي: اسم فاعل هَادُونَ و هُدَاةُ.
الْهَادِي: آگے رہنے والا۔ گردن۔ پکان۔
لا شئ۔ شیر الھوادی۔ ہوادی اللیل:
رات کا ابتدائی حصہ۔ ہوادی الایبل:
اُونٹوں میں سے پہلا اُونٹ جو نمودار ہو۔
الْهَادِيَّةُ: الھادی کا مؤنث۔ لا شئ۔ پانی میں
اوپر کو نکلی ہوئی چٹان۔ گردن۔ ہجادیات و
ھوادی: کہا جاتا ہے ”اَقْبَلْتُ هَادِيَاتٍ
لِخَيْلٍ وَ هَوَادِي اَهَا“
رَجُلٌ هِدَاءً: کزور کندز بہن مرد۔
الھدایۃ: س۔ رہنمائی۔
الھدایۃ: رہنمائی۔ بیان۔ دلالت (مذکورہ
مؤنث) کہا جاتا ہے ”ھو علی الھدی“ وہ
ہدایت پر ہے۔ دن۔
الھدی: س۔ طریقہ۔ سیرت۔ کہا جاتا ہے
”مَا أَحْسَنَ هَدْيِهِ“ اس کی سیرت کس قدر
اچھی ہے۔ ”وَهْدَى هَدِيَةً“ وہ اس کی سیرت
پر چلا الھدی: محترم۔ قربانی کا جانور جو حرم
میں بھیجا جائے۔ واحد ہدیۃ: اور کہا جاتا ہے
”مَالِي هَدْيٌ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا“ یہ
مقولہ بطور قسم کے ہے۔ ”وَجَنَّةٌ بَعْدَ هَدْيٍ
مِنَ اللَّيْلِ“ میں اس کے پاس رات کے ایک
حصہ گزرنے کے بعد آیا۔
الھدایۃ والھدییۃ: طریقہ۔ سیرت۔ کہا جاتا
ہے ”مَا أَحْسَنَ هَدْيَتَهُ وَ هَدِيَّتَهُ“ اس کی
سیرت کس قدر اچھی ہے۔ ہدیۃ:
الھدییۃ: ہدی کا اسم نوع۔ اور کہا جاتا ہے
”خُذْ فِي هَدِيَّتِكَ“ جس کام میں تم مشغول
تھے اسی میں لگے رہو اور اس سے تجاومت

کرنے والا کبوتر۔ ہج اھد و ہج اھید۔
الھدھدۃ: س۔ کبوتر کی کو کو کی آواز۔
الھدھاد: نرمی۔ تم کہتے ہو ”عَلَيْكَ
بِالْهَدَاهِدَةِ“ اپنے اوپر نرمی کو لازم کرو۔
هَذَاهُ يَهْدِيهِ هُدًى وَ هُدًى وَ هُدْيَةٌ وَ
هَدَايَةٌ: رہنمائی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَاهُ
الطَّرِيقَ وَ هَذَاهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَ لِلطَّرِيقِ“
اس نے اس سے راستہ بیان کر دیا اور پہنچوا دیا
هَذَاهُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ أَوْ لِلْإِيمَانِ:
ہدایت پانا۔
هَذَاهُ يَهْدِي هَذَاهُ الْعُرُوسُ إِلَى بَعْضِهَا:
دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا: آگے ہونا
”جَانِبَ الْخَيْلِ يَهْدِيهَا فَرْسٌ أَشْفَرُ“
گھوڑوں کا گلہ آیا جن کے آگے ایک ہلکے لال
رنگ کا گھوڑا تھا۔
هَدًى يَهْدِيهِ الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔
الْهَدْيَةُ لِفُلَانٍ وَ إِلَيْهِ: تحفہ دینا اور
الھدیۃ: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔
هَذَا هَذَا مَهَادَاةٌ وَ هَذَا: ہر ایک کا دوسرے
کو تحفہ دینا۔ هَادِي فُلَانًا: اپنا اپنا کھانا
لا کر ساتھ کھانا: چلانا۔ اور کہا جاتا ہے
”جَاءَ فُلَانٌ يَهْدِي بَيْنَ اثْنَيْنِ“ فلاں دو
آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔
أَهْدَى إِهْدَاءَ الْعُرُوسِ إِلَى بَعْضِهَا: دلہن
کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ الھدیۃ الی الحرم
ہدی کا جانور حرم میں بھیجنا۔ فُلَانًا وَ إِلَى
فُلَانٍ كَذَا: تعظیم و اجلال کے لیے تحفہ بھیجنا
الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔
تَهْدَى تَهْدِيًا: ہدایت پانا۔
تَهَادَى تَهَادِيًا الْقَوْمُ: بعض کا بعض کو ہدیہ
دینا۔ الرَّجُلُ: لڑکھڑاتے ہوئے تہا چلنا۔ اور کہا
جاتا ہے ”جَاءَ يَتَهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ“ وہ دو
آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔ وَ هَذَا
شَيْءٌ يَتَهَادَى“ یعنی وہ چیز ہے جس کو لوگ
آپس میں تحفہ کے طور پر دیتے ہیں۔
اِهْتَدَى اِهْتِدَاءً: ہدایت پانا۔ راہ راست پانا۔
كَمَا جَاءَتْهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَ اِهْتَدَى
کہا جاتا ہے

عورت نے اپنے بچے کو سونے کیلئے لوری دی۔
أَهْدَنَ الْخَيْلُ: دبا کرنا۔ گھوڑے کو چھریرا
بنانا۔
هَادَنَهُ مَهَادَنَةً: صلح کرنا۔
تَهَادَنَ الْأَمْرُ: درست ہونا۔ ہاتھ باہم صلح
کرنا۔
إِهْتَدَنَ الرَّجُلُ عَنْ عَزْمِهِ: سنت ہونا۔
الھدیان: اکھڑ۔ بیوقوف۔ جنگ میں ست۔
هَدُونُ:
الھدایۃ: لڑائی کے بعد صلح۔
الھدین: سرسبز۔ فراخی۔ ارزانی۔
الھدین: ڈھلا۔
الھدینۃ: ہڈنکا اسم مرثہ۔ تھوڑی ہلکی
بارش۔
الھدینۃ: مصالحت۔ آرام۔ سکون۔ ج
ھدن:
الھدُونُ: سکون۔ صلح۔
الْمَهْدُونُ: س۔ بہت سونے والا جو نہ صبح کی
نماز پڑھے اور نہ اپنی ضروریات کے لیے
جائے۔ کندز بہن جو صرف باتوں سے راضی ہو
جائے۔
الْمَهْدِيَّةُ: سکون۔ آرام۔
الھیدیان: بزدل۔ بخیل۔
هَذَهْدٌ هَذَهْدَةٌ الْبَعِيرُ: اُونٹ کا بیڑا پانا
الطَّائِرُ: پرندہ کا ٹکری کرنا۔ هَذَهْدَتِ
الصَّبِيُّ أُمَّهُ: بچے کو سونے کے لیے بلانا
هَذَهْدَ الشَّيْءُ مِنْ عَلْوٍ إِلَى أَسْفَلٍ: اتارنا۔
کہا جاتا ہے ”يَهْذَهُدُ إِلَى كَذَا“ مجھے ایسا خیال
ہوتا ہے۔
الھدھد: جنات کی آوازیں (اس کیلئے واحد
نہیں)
الھدھد والھدھد والھدھد
واحد هُدْ هُدَّةٌ وَ هُدَّةٌ وَ هُدَاةٌ ج
هَذَا هُدٌ وَ هَذَا هِدٌ “أَبْصُرْ مِنْ هَذَهْدٍ“
کہتے ہیں اس وجہ سے کہ عرب کا خیال تھا کہ یہ
پانی کو زمین کے نیچے سے دیکھ لیتا ہے۔
الھدھد: ہر کو کو کرنے والا پرندہ۔ بہت کو کو

ہڈر (س) ہڈرًا کلامہ لغو و بیہودہ ہوتا۔
اھڈر فی منطقیہ و فی کلامہ بکواس
کرنا۔

یوم ہاڈر بخت گرم دن۔

الہڈر س بکواس و بیہودہ گفتگو۔

رَجُلٌ هَذِرٌ وَ هَذِرٌ وَ هَذِرَةٌ وَ هَذِرَةٌ وَ
هَذَارٌ وَ هِنْدَرٌ وَ هِنْدَارَةٌ وَ هِنْدَرِيَانٌ وَ
مِهْنَدَرٌ وَ مِهْنَدَارٌ وَ مِهْنَدَارَةٌ بکواس کرنے
والا۔ بیہودہ بکنے والا۔ وَ رَجُلٌ هَذِرِيَانٌ:
جلدی بولنے والا۔ خدمت میں چست۔ اِمْرَاةٌ
هَذِرَةٌ وَ هِنْدِرَةٌ وَ مِهْنَدَارٌ بکواس کرنے
والی عورت۔

هَذِرَبٌ جلدی جلدی بہت بولنا۔

الہڈر یان جلدی بولنے والا۔ خدمت میں
چست۔

الہڈر بنی عادت۔

هَذِرَفٌ جلدی کرنا۔ تیز چلنا۔

الہڈر وف تیز رفتار چلنا۔

هَذِرَمٌ هَذِرَمَةٌ بہت بولنا۔ پڑھنے اور بولنے
میں جلدی کرنا الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ كَثِيرٌ
کرنا۔

الہڈر مہ س۔ تیز رفتاری۔

الہڈرام بہت بولنے والا۔ کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ هَذِرَامٌ بہت بولنے والا مرد۔“

الہڈارم و الہڈار مہ پڑھنے بولنے میں
جلدی کرنے والا۔ کہا جاتا ہے اِمْرَاةٌ
هَذِرْمِيَةٌ بہت شور۔ او شرارت والی عورت۔

هَذِرَفُشٌ هُذِرَفٌ تیز چلنا۔

رَجُلٌ هَذِرَفٌ وَ مِهْنَدِرَفٌ وَ هَذِرَفٌ تیز
رفتار مرد۔

هَذِرَاضٌ هَذِرَانٌ تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے
”اَهْذَبٌ فِي مَشِيهِ وَ اَهْذَلٌ فِي تِزْوَرِّهِ“

الہاڈل رات کا درمیانی حصہ۔

الہڈلؤل بکا پھلکا مرد۔ بکا تیر۔ چست
بھیریا۔ لسا اور سخت بدن کا گھوڑا۔ چھوٹا ٹیلہ،
پانی کی چھوٹی تالی۔ ریت کے ذرات۔ آفت۔
ابدائی رات یا بقیہ شب۔ پارک بادل۔ بارش

العُدْوُ و شمن کو ہلاک کرنا فَلَانًا بِلِسَانِي
تکلیف دینا اور تکلیف دہ باتیں سنانا۔ الْكَلَامُ:
لغو باتیں کرنا۔ هَذَاتِ الْاِبْلِ تھک کر گر
پڑنا۔

هَذِيٌّ يَهْدُ هَذَا مِنْ الْبِرِّ بَرْدِي سے
ہلاک ہوتا۔

تَهْدَاتِ الْقَرْحِ ختم کا خراب ہونا اور پھٹ
جانا

سَيْفٌ هُدَاءٌ وَ هُدَاءٌ تلوار قاطع۔

الہڈاؤ بکوال۔ پھاڑو۔

هَذَا اِيكٌ كَلِمَةٌ هِيَ جَوْمَرٌ كَبِيرٌ هِيَ
اور ذال اسم اشارہ سے۔

هَذِبَاضٌ هَذِبًا الشَّجَرُ وَ غَيْرُهُ شَاخٌ
تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا النَّخْلَةَ:
درخت خرما کی چھال اتارنا الشَّيْءُ بِيَهِنًا
(هَذِبًا وَ هَذَابَةٌ جلدی کرنا الْقَوْمُ بہت
شور و غل کرنا۔

هَذَبٌ جلدی کرنا الشَّجَرُ وَ غَيْرُهُ شَاخٌ
تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا (تشدید
کثرت کے لیے ہے) الشَّعْرُ درست کرنا۔
اصلاح کرنا الرَّجُلُ يَكْبِرُهُ اخلاق والا بنانا۔

هَادِبٌ مَهَادِبَةٌ جلدی کرنا۔

اَهْذَبٌ جلدی کرنا۔ اَهْذَبَتِ السَّحَابَةُ
ماء ہا جلدی برساتا۔

تَهْدَبٌ پاکیزہ ہونا۔ درست ہونا۔

الرَّجُلُ شَانِسَةٌ ہونا۔

الِهْدَبُ صفائی۔ خلوص۔

فَرَسٌ هَذِبٌ تیز رفتار گھوڑا۔

اِبِلٌ مَهَادِبٌ تیز رو اونٹ۔ مفرد
مِهْنَدَابٌ۔

المِهْدَبُ س۔ پاکیزہ اخلاق والا۔ عیوب سے
پاک صاف۔ کلامٌ مِهْدَبٌ او شعرٌ

مِهْدَبٌ عیوب سے پاک کلام یا شعر۔ فَرَسٌ
او طائرٌ مِهْدَبٌ تیز رفتار گھوڑا یا پرندہ۔

هَذِرَانٌ ش) هَذِرًا وَ تَهْدَارًا الرَّجُلُ
فِي كَلَامِهِ بَكْوَسٌ کرنا (هَذِرًا: الْيَوْمُ مَنْ
کاخٹ گرم ہونا۔

كَرُو۔ ”وَصَلَّ هَذِيَّتَهُ“ یعنی اس طریقہ کو
چھوڑ دیا جس کو کرنا چاہتا تھا۔

هَذِيَّةُ الْأَمْرِ بتلث الہاء بجمت کار۔ کہا
جاتا ہے ”نَظَرَ فَلَانٌ هَذِيَّةً أَمْرِهِ فَلَانَ
اپنے طریقہ کار پر غور کیا۔

الِهْدُوُّ زہنبا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ هَدُوٌّ“
یعنی راہنما مرد۔

الِهْدِيُّ قیدی۔ دلہن۔ قربانی کا جانور جو حرم
میں بھیجا جائے۔ مرد محترم۔ الحمامُ الْهَدِيُّ
ڈاک کے کبوتر جو خطوط لے جائیں اور جواب
لائیں۔

الِهْدِيَّةُ الْهَدِيُّ كَمَا مَوْثُ۔ دلہن۔ تھنخ
هَذَا يَا وَ هَذَا وَي وَ هَذَا وَ
الِهْدِيَّةُ ش)۔ کہا جاتا ہے ”لَكَ عِنْدِي

هَذِيَّةً هَاتِمًا“ لیے میرے پاس اس کے
مثل ہے۔

المِهَادَاةُ صلح کرنا۔

المِهَادَاةُ وہ جس کی عادت ہدیہ دینے کی ہو۔
کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ مِهْدَاءٌ وَ اِمْرَاةٌ
مِهْدَاءٌ“

المِهْدِيُّ تمنا کی طبق وغیرہ جس میں ہدیہ بھیجا
جائے۔

المِهْدِيُّ س۔ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ حق
کی طرف رہنمائی کریں۔

المِهْدَاةُ وَ المِهْدِيَّةُ دلہن جو شوہر کے
پاس بھیجی گئی ہو۔

هَذَا وَ هَذَا وَ هَذَا وَ هَذَا اِبْلِدِي
کاٹا۔ کاٹا اَلْحَدِيثُ بیان کرنا۔

اِهْتَذَرْتُ الشَّيْءَ جلدی سے کاٹ دینا۔
هَذَا ذِيكَ یہ کلمہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ

کسی کو کسی چیز سے روکنا ہو۔

الِهْدَبُ بہت کاٹنے والا۔

الِهْدَاؤُ الْهَدُوُّ ذُو بَهْتِ کاٹنے والا۔ شَفْرَةٌ
هَذِرٌ ذُو کاٹنے والی دھار۔ جَمَلٌ هَذَا:
آگے بڑھنے والا اونٹ۔

اِرْمِيلٌ هَذِبٌ کاٹنے والی راہی۔

هَذَا يَهْدَاةٌ هَذَا جلدی کاٹنا۔ هَذَا

<p>ہونا الہرّج۔ قند وفساد۔ آشوب۔ الہرّج۔ قوف۔ ہر چیز سے کمزور۔ الہرّجہ۔ ہر کچھ اسم نوع۔ نرم کمان ج ہرج۔ الہرّاج ہم مبالغہ۔ قوس ہرّاجت۔ دوڑنے والا گھوڑا۔</p>	<p>ج ہرّاب۔ ہرّاق (ض) ہرّاق بالرمّیخہ مارنا۔ ہرّات اللّحمّ شت گلا کر پکانا الثّوب۔ کپڑا بھاننا عرض فلاقبزوری کرنا۔ ہرّاق (ض) ہرّاق الشّیئ شادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”ہرّاق شدقطن“ نے اپنی باجھیں کھولیں۔</p>	<p>وہ بد حال ہو گیا۔ الہرّاق بیہودہ و غیر مربوط کلام (والہرّاق) بہت اور بیہودہ کہنے والا۔ امّراة ہرّاقۃ مُرقّات اور بیہودہ کہنے والی عورت۔ الہرّاق بعث خرما کا پودا۔ الہرّاقی بھت پکا ہوا گوشت جو ہڈی سے علیحدہ ہو جائے۔</p>
<p>الہرّاجۃ۔ الہرّاق بیہودہ۔ بے جوڑ اور و بہت باتیں کرنے والی جماعت۔ قوس مہرّج و مہرّاجت دوڑنے والا گھوڑا۔</p>	<p>أهرت اللّحمّ شت گلا کر پکانا۔ الہرت والہرّات والہرّوات الہرّیشیر۔ الہرّیشادہ۔ کشادہ باجھوں والا۔ راز کو نہ چھپانے والا۔ بیہودہ کہنے والا۔</p>	<p>الہرّیشیبت الہرّی بخت سردی کا وقت، کہا جاتا ہے ”ہذہ قوۃ لها ہرّیشیبت“ ایسی شہدک ہے کہ جس میں لوگوں کو اور جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور مر جاتے ہیں۔ المہرّیبت پکا ہوا گوشت۔</p>
<p>الہرّاجب والہرّجب۔ لمبا۔ ج ہرّاجب۔ الہرّجشتر سیدہ اونٹنی۔ الہرّجعل باونگھڑا۔ الہرّجفردست و نرم۔</p>	<p>الہرّت کشادہ باجھوں والا۔ کہا جاتا ہے ”أسد اهرت و أسود هرت“ المہرّت سبت کبوتر کرنے والا۔ المہرّت شیر۔ کلاب مہرّتۃ الاشدّاقیڑی باجھوں والے کتے۔ کہا جاتا ہے ”ہو مہرّوت الفمّ چوڑی باجھوں والا ہے۔ ج مہاربت۔ أسد مہرّت الشدّاقیڑی باجھوں والا شیر۔</p>	<p>ہرّاب (ض) ہرّاب و ہرّوبا و مہرّابا و ہرّابنا گنا فی مشبہ تیز چلنا الأرض ورت تک جانا فی الأمربانہ کرنا۔ ہرّاب (ض) ہرّابا الرّجل ورتھا ہونا۔ ہرّابنا گنا۔ أهرت الرّجل گھبرا کر یا بغیر گھبرائے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنا۔ دور تک جانا فلان فلا تھانے پر مجبور کرنا۔ أهرت شیر۔ الرّیغ کا غبار اڑانا۔ تھارّیبا ہم مل کر بھاگنا۔ الہارّیبا۔ کہا جاتا ہے ”ما لہ ہارّیبت ولا قاربنا“ سے کوئی بھاگنے والا ہے نہ قرب جانے والا یعنی وہ ناکارہ ہے۔ المہرّیب۔ بھاگنے کی جگہ، کہا جاتا ہے ”فلان لنا مہرّیب فلان شخص ایسا ہے جس کے پاس سختیوں میں ہم بھاگ کر جاتے ہیں۔ ہرّیج ہرّیجۃ۔ الاموۃ طریقہ سے کرنا۔ الہرّابذۃ بندوں کے بڑے بڑے لوگ بقول بعض ہندوؤں کے پنڈت، آتش پرستوں کی آگ کا خادم۔ او احد ہرّیبت۔ الہرّیبتگی سے آہستہ چال۔ الہرّیج حسرت وچالاک چور، ہلکا پھلکا بھیریا</p>
<p>ہرّاجیل بے لے لوگ۔ موٹے موٹے اوتھ۔ الہرّاجیل بے قدم ڈالنے والا جھراجل۔ ہرّادش) ہرّاد کبڑے ٹکڑے کرنا۔ پھاڑنا۔ ہرّاد اللّحم گوشت کو گلا کر پکانا الشّیئ تاد ہونا۔ عرض صفت آرونی کرنا الشّیئ تاد کرنے کے لیے پھاڑنا۔ ہرّاد (ض) ہرّاد اللّحم شت کا گل کر پکانا۔</p>	<p>الہرّیبتا کپڑا۔ الہرّیبت و الہرّیبتہر۔ الہرّیبتکے کتھنوں کے درمیان کی سیاہی۔ شیر۔ ہرّاق (ض) ہرّاقا الناس قند وفساد میں پڑنا الباسف وازہ کھلا ہوا چھوڑنا القوس گھوڑے کا تیز دوڑنا فی الحدیثہ جوڑ آور بہت باتیں کرنا۔ ہرّاق (ض) ہرّاقا الرّجل زری یا چلنے سے سانس چڑھنا۔</p>	<p>الہرّیبتا کپڑا۔ الہرّیبت و الہرّیبتہر۔ الہرّیبتکے کتھنوں کے درمیان کی سیاہی۔ شیر۔ ہرّاق (ض) ہرّاقا الناس قند وفساد میں پڑنا الباسف وازہ کھلا ہوا چھوڑنا القوس گھوڑے کا تیز دوڑنا فی الحدیثہ جوڑ آور بہت باتیں کرنا۔ ہرّاق (ض) ہرّاقا الرّجل زری یا چلنے سے سانس چڑھنا۔</p>
<p>ہرّاد درنگا ہو کپڑا پھینا اللّحم شت کو گلا کر پکانا۔ کہا جاتا ہے ”ہرّاد الشّیئ یہرّیذہ ہرّاد فہمّنے اراد یرید ارادۃ ہمزہ کو با سے بدل دیا گیا ہے جیسے اراق و ہرّاق۔ الہرّاد۔ قند وفساد۔ الہرّاد شتر مرغ، مرد بے وقار و بے اعتبار۔ الہرّاد درکرم۔ سرخ مٹی، ہلدی۔ الہرّادی و الہرّاد الیک قسم کی گھاس۔ الہرّاد علی ہدی سے رنگا ہوا۔</p>	<p>ہرّاق بالسنّیبتا۔ ڈرانا الشّیئ فلان مست کر دینا۔ عوام کہتے ہیں ”ہرّاق فی الحدیثان نے ہسی کی باتیں کیں۔ تھارج القولیک دوسرے پر حملہ کرنا۔ انہرّاق فلان من السنّیبت ہونا۔ استنہرّاق لہ الرّاخاے کا قوی اور ہمہ گیر</p>	<p>الہرّیبتا کپڑا۔ الہرّیبت و الہرّیبتہر۔ الہرّیبتکے کتھنوں کے درمیان کی سیاہی۔ شیر۔ ہرّاق (ض) ہرّاقا الناس قند وفساد میں پڑنا الباسف وازہ کھلا ہوا چھوڑنا القوس گھوڑے کا تیز دوڑنا فی الحدیثہ جوڑ آور بہت باتیں کرنا۔ ہرّاق (ض) ہرّاقا الرّجل زری یا چلنے سے سانس چڑھنا۔</p>

رَجُلٌ أَهْرَدَ الشَّدَقَ: چوڑی باجھوں والا مرد۔

المَهْرُودُ: طرد سے رنگا ہوا زرد کپڑا۔

هَرْدَبٌ هَرْدَبَةٌ: سست دوڑنا۔

الهِرْدَبَةُ: بڑھیا۔ بڑوں۔ بڑے پیٹ والا۔

هَرْدَجُ الرَّجُلِ: تیز چلنا۔

الهِرْدِيشَةُ: عمر رسیدہ اونٹنی و بھیڑ، بڑھیا۔

هَرَزٌ (لُحْشٌ) هَرَزًا: سختی سے چھبنا۔ کھڑکی سے مارنا۔

هَرَزٌ (س) هَرَزًا وَ هَرَوَزًا: ہلاک کرنا۔

تَهَرَوَزٌ مِنَ الْجُوعِ: بھوک سے ہلاک ہونا۔

هَرَسٌ (ن) هَرَسًا الشَّيْءُ: سخت کوٹنا۔

الطَّعَامُ: بہت کھانا۔

هَرَسٌ (س) هَرَسًا: بہت کھانے والا ہونا۔

چھپا کر کھانا۔

الهِرَّاسُ: بڑے کانٹوں کا ایک درخت واحد

هَرَّاسَةٌ: هَرَّاسَةُ الْقَوْمِ: قوم کی عزت۔ قوم کا سخت حملہ۔ کہا جاتا ہے "لَبِنِي فُلَانٌ هَرَّاسَةٌ" فلاں کی اولاد کے لیے عزت و تہر ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں۔

الهِرَّاسُ: بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔

الهِرَّاسُ: بر۔ بلی۔

الهِرَّاسُ: پراتا کپڑا۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔

مَكَانٌ هَرَسٌ: ہر اس درخت آگاہے والی جگہ۔ مؤنث هَرَّاسَةٌ۔

الْأَهْرَسُ: سخت گرانبار۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔

الهِرَّاسُ: اسم مبالغہ۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر، ہریرہ بنانے والا ہریرہ بیچنے والا۔

الهِرَّاسُ: باریک کوٹا ہوا (و الہرئیسۃ) ایک قسم کا کھانا جو گوشت اور کوٹے ہوئے

گیہوں کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

رَجُلٌ مَهْرَسٌ: بہت کھانے والا۔

المَهْرَاسُ: ہاون۔ المَهْرَاسُ: پتھر کا ہاون۔ اوکھلی۔ بہت کھانے والا اونٹ۔ ہماری

جسم کا اونٹ۔ مرد جو رات میں چلنے سے نہ ڈرے۔ ج مھارئیس۔

هَرَشٌ (ن ض) هَرَشًا الذَّهْرُ: زمانہ کا سخت ہونا۔

هَرَشٌ (س) هَرَشًا: بدخلق ہونا۔

هَرَشٌ بَيْنَ الْكِلَابِ: کتوں کے درمیان بھڑکانا بَيْنَ النَّاسِ: لوگوں میں فساد ڈالنا۔

هَارَشٌ مَهَارِشَةٌ وَ هَرَّاشٌ نَعَضٌ الْكِلَابِ عَلَيَّ: بعضہا بعض کو بعض پر بھڑکانا فُلَانٌ فُلَانًا: ایک دوسرے پر حملہ

کرنا۔ ایک دوسرے سے جھگڑنا۔

تَهَارَشَتْ وَ اهْتَرَشَتْ الْكِلَابُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

تَهَرَّشَ الْغَيْمُ: بادل کھل جانا۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

المَهْرَاشُ: ہاراش ہاراش کا مصدر، جھگڑا۔ مقاتلہ۔

بدن کا ہسٹک اٹھنا۔

هَرَطًا (ن) هَرَطًا: عَرَضَ فُلَانٌ وَ فِي عَرَضِهِ: آبروریزی کرنا فِي الْكَلَامِ: غیر

مربوط اور بیہودہ کہنا۔

هَرَطًا (س) هَرَطًا: بیماری وغیرہ کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والا ہونا۔

الْمَهْرَطَةُ: عیسائیوں کے نزدیک۔ دین میں بدعت اس کی طرف نسبت۔ ہرطوفی۔

تَهَارَطًا: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

المَهْرَطُ: (و المَهْرَطُ) بہت دہلا گوشت۔

متمول مرد۔ دہلی بوڑھی بھیڑ۔ نَاقَةٌ هَرَطٌ: عمر رسیدہ اونٹنی۔ ج أَهْرَاطٌ وَ هُرُوطٌ۔

المَهْرَطَةُ: دہلی بوڑھی بھیڑ۔ بیوقوف۔

بزدل۔ کمزور ج هَرَطٌ۔

المَهْرَطُ: نرم۔ المَهْرَطُ: لمبے قد والا۔

المَهْرَطَانُ: ایک قسم کا غلہ۔

هَرَعٌ (ف) هَرَعًا: اِلْيَهِ: اضطراب کے

ساتھ جلدی جانا۔

هَرَعٌ (س) هَرَعًا: الدَّمُ: خون کا جلدی

ہونا۔

الرَّجُلُ يَمِيزُ فَرَّارًا جلدی رونے والا ہونا۔

هَرَعُ الْقَوْمِ: رَمَاحٌ: قوم کا نیزہ سیدھا کر کے چلنا۔

هَرَعٌ وَ هَرَعٌ الرَّجُلُ: چلنے میں جلدی

کرنا۔

أَهْرَعُ الرَّجُلُ: جلدی کرنا الْقَوْمِ رَمَاحُهُمْ: نیزہ سیدھا کر کے چلنا۔

أَهْرَعُ الرَّجُلُ: خَفِيفُ الْعَقْلِ: غصہ یا

کمزوری یا خوف یا سردی سے کانپنا۔ جلدی دوڑنا

جانا۔ صفت مَهْرَعٌ اور کہا جاتا ہے "أَقْبَلَ الشَّيْخُ يَهْرَعُ" بڑھا مضطرب ہو کر دوڑنے لگا۔

تَهَرَّعَتِ الرَّمَاحُ: نیزوں کا سیدھا ہونا۔

تَهَرَّعَ إِلَيْهِ جلدی کرنا۔

إِهْتَرَعُ الْعُرْدُ: بگڑی توڑنا۔

أَسْتَهْرَعَتِ الْإِبِلُ: جوحش کی طرف دوڑنا۔

المَهْرَاعُ: اضطراب کے ساتھ تیز رفتاری۔

خوش رفتار عورت۔ بڑے سرین والی عورت۔
الہرقکلة۔ خرام نام۔

الہرق۔ پہلے شوہر کا بیٹا۔
ہرم (س) ہرما و مہرما و مہرمة۔

کمزور ہونا اور بہت بوڑھا ہونا۔ صفت ہرم۔ ج
ہرمون و ہرمی مونث ہرمة ج ہرمات
و ہرطی۔

ہرمة الذہر: بہت بوڑھا کر دینا۔ ہرم
فلاناً تعظیم کرنا اللحم: چھوٹے چھوٹے

کٹڑے کرنا۔ کہا جاتا ہے ”جاء فلان یہرم
علینا الامر او الخیر“ فلاں آیا اور ہمارے

سامنے معاملہ کو یا خبر کو بڑا کر کے بیان کرتا
ہے۔

اہرمة الذہر: بہت بوڑھا کرنا۔ کمزور کر
دینا۔

تہارم الرجل: جگت اپنے آپ کو بوڑھا
ظاہر کرنا۔

استہرمة: بہت بوڑھا سمجھنا۔ بہت بوڑھا پانا۔
الہرم: ایک قسم کی ترشی مائل نمکین گھاس۔

واحد ہرمة۔ کہا جاتا ہے ”هو اذل من
ہرمة“ وہ ہرمة گھاس سے بھی زیادہ ذلیل

ہے۔

الہرم: بہت بڑھاپا۔ نفس و عقل۔ کہا جاتا ہے
”إنک لا تدری بما یولع ہرمک“ تم

نہیں جانتے ہو تمہارا نفس کس چیز پر فریفت
ہے۔ قدح ہرم: ٹوٹا ہوا۔ الہرم: عمدہ

رائے۔

الہرم: س۔ انتہائی بڑھاپا۔
الہرم عند ارباب المساحة: مخروطی

شکل کی عمارت جس کی کرسی شلت یا مربع یا
بہت اضلاع والی ہو۔ ج اهرام و ہرام۔ اور

اسی سے ”الہرام مصر“ ہے جو اس لیے بنائے
گئے تھے تاکہ بادشاہوں کے مدفن کا کام دیں۔

الہرم ج اهرام و ہرام (ھ)
وہ جسم جس کے تین حصے اور سر ایک ہو۔ اور
مصلع تین حصوں والے جو اس سر کے مقابل
ہوں سے بنتا ہے۔

سے بدل دیا گیا ہے۔ اور ہراقہ کی اصل
ہریقہ دحرجہ کے ذہن پر ہے۔ اور اسی

وجہ سے مضارع میں بھریقہ کی باکو فتح دیا جاتا
ہے جیسا کہ یدحرجہ میں داخل کو، اور امر کا

صیغہ ہرق کی اصل ہریق ہے دحرج کے
وزن پر، ثقالت کی وجہ سے یا کے سرہ کو نقل کر

کے اجتماع سائین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا
گیا۔ مثنیہ کا صیغہ ہریقاً اور جمع کا ہریقوا۔

اور کہا جاتا ہے ”ہریقوا علیکم اول
اللیل“ وہ لوگ تمہارے پاس ابتدائی رات میں

آئے۔
اور کبھی ہام اور ہمزہ دونوں کو جمع کیا جاتا ہے اور

کہا جاتا ہے ”اہراقہ بھریقہ اہراقہ“ سکون
ہام سے گویا کہ ہمزہ ہام کی حرکت کی عوض میں

بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس زیادتی سے
فعل خماسی نہیں ہوتا۔ اسم فاعل کا صیغہ

مہریق اور اسم مفعول مہراق و مہراق۔
تہارقوا۔ بعض کا بعض پر پانی گرانا۔

اہرورق اہرنورقاً الذمغ والمطر:
آنسو پاش کا جاری ہونا۔

الہرق: پرانا کپڑا۔
المہرق: اہرق کا اسم مفعول۔ صحیفہ۔

سفید ریشم کا کپڑا جس کو گوند سے چکنا کر کے
لکھنے کے کام میں لاتے ہیں۔ چٹیل بیان یا کپڑا

یا گند چکنا کرنے کا آلہ۔ ج مہارق۔
المہرقان والمہرقان۔

سندر۔ کنارہ سمندر جہاں پانی چڑھے اور پھر اتر
جائے اور کوڑیاں باقی رہ جائیں۔

مطر مہرورق۔ موسلا دھار بارش۔
ہرکل ہرکلة۔ سست اور ناز سے چلنا۔

جمل اور جل ہوا کیل مونا اور بڑے جسم
کا اونس یا مرد۔

الہراقکلة۔ بڑی بڑی مچھلیاں، آبی کتے۔
بڑے چوڑے والے دریائی جانور۔ سمندر کی

موجوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ واحد ہرکل۔
الہرکلة والہرکمة والہرکلة
والہرکولة والہرکیل۔ خوبصورت اندام

تیز ہانکنا۔

الہرق: س۔ اضطراب کی چال۔ تیز ہانکنا۔
الہرق: جلدی بننے والا خون۔ رجل ہرق

جلدی رونے والا۔ تیز رفتار۔ مونث ہرمة۔
الہرعة والہرعة۔ جوں کے مانند ایک

کیڑا۔ پاجھوٹی جوں، اور بقول بعض بڑی جوں۔
الہریعة۔ باریک ٹہنیوں والا درخت۔

المہرق والمہراق۔ شیر۔
المہرورق: پاگل۔ محنت و مشقت سے

درماندہ۔
المہرق: س۔ لالچی۔

الہریق: بزدل، پوقوف، جلد باز۔ جست
عورت ریح ہریق و ہیرعة۔ تیز چلنے

والی ہوا جو مٹی اڑائے۔
الہریقعة۔ چرواہے کی بانسری اور اس کو

یزاغہ بھی کہتے ہیں۔
ہرق (ض) ہرقاً بفلان: کسی پر تعجب

کرتے ہوئے مدح میں مبالغہ کرنا۔ بغیر جانے
بوجھے مدح کرنا۔ اور اسی سے ہے ”لا تہرق

بما لا تعرف“ جس کو تم جانتے نہیں اس کی
مدح مت کرو۔ ہرقفة الریح: ہوا کا اڑنا۔

وہرق السبع: دزدے کا لگاتار آواز
نکالنا۔

ہرقفة تہریقاً التخلئة: جلدی پھل دار
ہوتا۔ ہرق القوم الى الصلوة: نماز کیلئے

جلدی کرنا۔
اہرقفة التخلئة: جلدی پھل دار ہونا۔

اہرق الرجل: ہل نامی کا مالک ہونا۔
ہرق (ف) ہرقاً و اہرق الماء: پانی

گراتا۔
ہرق الماء: پانی گرانا (تشدید کثرت کے

لئے ہے) اور کہا جاتا ہے (ہرق علی
جمرک“ یعنی اپنی جگہ پر قائم رہو، یہ ایک

مقولہ ہے جو غضبناک آدمی سے کہا جاتا ہے
مقصود یہ ہے کہ اپنے غضب کی آگ کو بجھاؤ۔

ہراق الماء بھریقہ ہراقہ۔ گرانا۔ اس کی
اصل ”اراقہ یریقہ اراقہ“ ہے۔ ہمزہ کو با

مشترک راسِ ہرم کا راس ہے۔

اور مثلثاتِ ہرم کے اطراف جانی ہیں۔ اور مصلحِ ہرم کا قاعدہ ہے۔ اور ہرم مثلثی رباہی اور رخاسی ہوتا ہے جب اس کا قاعدہ مثلثِ مربع یا خماسی ہو۔

الہرمی خشک لکڑی۔

الہرممان عقل۔ عمدہ رائے۔

اینِ ہرمۃ غیر منصرف۔ بڑھے بڑھیا کی آخری اولاد۔

الہرمۃ الہرم کا مؤنث۔ شیرنی۔

الہرموم بدعات۔ خبیث عورت۔

المہرمۃ من انتہائی بڑھاپا۔

الہرمایت پرانے کنوئیں۔

ہرمز ہرمزۃ الرجل کینہ ہونا۔ آہستہ چبانا۔ ساتھی سے چمپا کر گفتگو کرنا اللقمۃ لقمہ چبانا اور منہ میں پھرانا اور نہ نکلنا النار آگ کا جھنڈا۔

ہرمس ہرمسۃ وجہہ تیوری چڑھانا۔

الہرمسۃ سر لوگوں کا شور و جج۔

الہرماسۃ ماہرین علم نجوم۔

الہرموس مضبوط رائے والا۔ تجربہ کار چالاک۔

الہرماس لوگوں پر سخت حملہ کرنے والا شیر۔

الہرماس سخت حملہ کرنے والا شیر۔ چیتے کا بچہ۔

الہرمیس سخت حملہ کرنے والا شیر۔ گینڈا۔

ہرمط عرضۃ ہے آبروئی کرنا۔

إهرمعا إهرمعا الرجل تیز چلنا۔ جلدی رونے والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "إهرمعت العین کرب کہ آنکھوں سے آنسو جلد نکل پڑے۔

فی منطقہ بہت بولنا۔ إهرمعا إلیہ جگلف رونا۔

الہرمع جلدی رونے والا۔ چال میں سرعت و سکی۔

ہرملہ ہرملۃ بال اکھیرنا ہرمل الشعر والوبر والریش: اکھیرنا۔ کاٹنا۔ ہرمل عملمہ: بگاڑنا۔ خراب کرنا۔ ہرملت العجوز بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہونا الوبر: اونٹ کے بالوں کا گرنا۔

الہرمیل بوڑھی اونٹنی۔ عمر سیدہ عورت۔

الہرمول بالوں کا کچھ حصہ جو سر کے اطراف میں باقی رہ جائے ج ہرمیل۔

الہرمولۃ کپڑے کا ٹکڑا جو پرانے کرتے کے دامن سے بٹھ جائے۔

ہرنف ہرنفۃ آہستہ ہنسنا۔

المہرنفۃ کمزور آواز والی۔ رونے میں

سست آواز والی۔

ہرہر ہرہرۃ الشی: حرکت دینا الرجل: بے فائدہ ہنسنا بالغنم اولایل بکریوں یا اونٹوں کو پانی پر بلانا یا گھاٹ پر لے جانا علی

فلان: دست درازی کرنا الصان: بھیڑ کا مینا (وتہرہرت) الریح: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔

الہرہر بوڑھی بکری۔

الہرہرۃ سر لڑائی میں ہندوؤں کے شور و غل کی نقل۔ بھیڑ کی آواز۔ ہرہرۃ الاسد شیر کے دہانے کی گونج۔

الہرہرۃ انگور کی تیل کی جڑ میں انگور کا گرا ہوا دانہ۔

الہرہر بہت دودھ اور پانی۔ شیر۔ ج ہرہر۔

الہرہر بہت دودھ اور پانی۔ بے فائدہ ہنسنے والا۔ دبلا گوشت۔ شیر۔

الہرہر بہت دودھ اور پانی۔ آواز دینے والا جاری پانی۔ ایک قسم کی کشتی۔ انگور کا بکھرا ہوا دانہ۔ بوڑھی بکری۔

الہرہر ایک قسم کی مچھلی۔ ایک خبیث قسم کا سانپ۔

ہرہ ہرہوۃ ہرہوۃ وتہرہۃ تہرہۃ لاٹھی سے مارنا۔ ڈنڈے سے مارنا۔

الہرہوۃ موٹا ڈنڈا۔ سوٹنا۔ ج ہرہوۃ و

ہرئی و ہروی۔

الہرہاء ہروی کپڑوں کا بیچنے والا۔

ہرہاء: خراسان کے ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لیے ہروی۔

ہرول تیز چلنا۔ دوڑنا۔

ہرہ ہرہۃ ہرہۃ تیز چلنا۔ دوڑنا۔

ہرہۃ تہرہۃ الثوب: کپڑے کو زور دینا۔

ہرہۃ مہارہۃ: باہم ٹھسنا کرنا۔

الہرہاء کھجور کا پودہ۔

الہرہۃ گیہوں وغیرہ جمع کرنے کا بڑا مکان ج اہرہاء۔

ہر (ن) ہرۃ الشی وبالشی: ہلانا من

عطف فلان: کام کیلئے اُٹھانا۔ ہرہہ

السیور کی وجہ سے جلدی چلنا (ہرہیزا)

الابل: اونٹ کو حدی سے نشاط میں لانا

الکوکب: ستارہ کا ٹوٹنا۔

ہرہۃ تہرہیزا: ہلانا۔

اہرہۃ: ہلانا الابل: اونٹ کا حدی کی آواز سے

چلنے میں جھومنا۔ اہرہۃ الیہ قلبہ: خوش ہونا۔

کہا جاتا ہے "ہو یہرہۃ للمعروف" وہ اچھے

اعمال سے خوش ہوتا ہے الماء فی جزئیانہ:

پانی کا رواں ہونا الکوکب فی انقصاصہ:

ستارہ کا جلدی ٹوٹنا الأرض اکانا الثبات:

لہلہانا اور بڑھنا۔

تہرہۃ: ہلانا۔ جھومنا۔

الہرہۃ: ہرہۃ کا اسمِ مرتہ۔ امرۃ ہرہۃ: برائی سے خوش ہونے والی عورت۔ جمع نساء ہرہات۔

الہرہۃ: ہرہۃ کا اسمِ نوع۔ نشاط و شادمانی۔ ہانڈی

کے جوش کی آواز۔ بادل کی گڑگڑاہٹ۔

اونٹوں کی چال کی ایک قسم۔ انبساط و بحالی

فرحت۔

الہرہیزا: سر سر اہٹ۔

الہرہانز: سختیاں (اس کیلئے واحد نہیں)

المہرہۃ والمہرہۃ: حرکت۔

ہرہۃ ہرہۃ ہرہۃ: توڑنا۔ ہرہۃ ابلہ:

سردی سے مارڈالنا اِحکنتہ: بلائنا ہزاً زیندہ:
مرنا۔

هَزَأٌ وَهَزِيٌّ يَهْزَأُ هَزْأً وَهَزْأً وَهَزْأً
وَهَزْأً وَهَزْأً وَهَزْأً بِفُلَانٍ وَمِنْهُ: مَهْضَا كَرْنَا
هَزِيٌّ (س) هَزْأً. مرنا۔

أَهْزَأَ إِهْزَاءً. سخت سردی میں داخل ہونا۔
إِبْلَةٌ: سردی سے مارڈالنا اِهْزَأَتْ بِهِ ذَاتُنَا:
جلدی لے جانا۔

تَهَزَأَ تَهْزِئًا وَتَهَازَأَ تَهَازِئًا وَاسْتَهْزَأَ
اسْتَهْزَاءً. مٹھا کرنا۔

الِهَازِي. نا۔ کہا جاتا ہے "هَلِدُهُ مَقَارَةٌ
هَازِنَةٌ بِالرَّحْبِ وَهَازِنَةٌ بِهِمْ" یہ بیان
دشوار گزار ہے۔ و "عِدَادَةُ هَازِنَةٌ" بہت
ٹھنڈی صبح۔

رَجُلٌ هَزَأَةٌ. جس سے مٹھا کیا جائے۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ هَزَأَةٌ بَيْنَ النَّاسِ" یعنی لوگ
اس سے مٹھا کرتے ہیں۔

رَجُلٌ هَزَأَةٌ لَوْكُوں سے مٹھا کرنے والا
مرد۔

الِهَوْزِب. مضبوط و قوی اُونٹ۔ بڑی عمر کا
اُونٹ۔ گدھ۔

الِهَيْزِب. مضبوط شیر۔
هَزْبَةٌ. کانا۔

الِهَزْبِر وَالِهَزْبِرِ وَالِهَزْبِيرِ. شیر۔
الِهَزْبِر: موٹا۔ مضبوط قوی۔ کھڑا ہوا۔

هَزْبِلٌ هَزْبَلَةٌ. بہت محتاج ہونا۔
الِهَزْبِيلِيل. بہت تھوڑا سا۔

هَزَجٌ (س) كَهَزَجًا الْمَغْنَى فِي عِنَابِهِ:
گوئیے کاسر سے گانا پڑھنا۔ ہزج کے
اشعار پڑھنا۔

هَزَجٌ سُرٌّ سُرٌّ كَاسْوَتَةٍ: پے در پے آواز
نکالنا۔

أَهْزَجَ الشَّاعِرُ: ہزج کے اشعار بنانا۔
تَهَزَجٌ سُرٌّ سُرٌّ كَالصَّوْتِ: پے در پے
ہونے والا سُرٌّ: آواز نکالنا۔

الرَّغْدُ: بادل کا گڑگڑانا۔
الِهَزَج. مصل۔ بادل کی گڑگڑاہٹ۔ ترابند۔

سُرٌّ: طرب انگیز آواز۔ ہر کلام جو متماثل ہو،
اشعار کی ایک بحر کا نام۔ جانوروں کی ٹانگ
پڑنے کی سرعت اور سخت۔

الِهَزَج. طرب انگیز۔ کہا جاتا ہے "مُعَفَّنٌ
هَزَجٌ" طرب انگیز گوتا۔ قَرَسٌ هَزَجٌ:
گھوڑا جس کی ٹانگ جلدی اور ہلکی پڑے۔

الِهَزِيح مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔
الْأَهْزُوجَةُ: ترم آمیز گیت مَعَاذِجِ.

هَزْرَةٌ (ض) هَزْرًا بِالْمَصَا: ڈنڈے سے
بہت مارنا۔ هَزَّرَ الشَّيْءُ: سخت چھوٹا لانا:
جلا وطن کرنا۔ صفت مفعولہ هَزُورٌ وَهَزِيوُ

بِهِ الْأَرْضُ: بچھارنا الْفُلَانُ: بہت دینا
الرَّجُلُ: ہنسنا۔ حاجت کے لیے جلدی کرنا
الْبَائِعُ: گراں کرنا۔ قیمت بڑھا دینا۔

الِهَزَارُ. بلبل۔ ہزار داستان مَعَارَاتِ.
الِهَزْرُ. نقصان زدہ۔ بیوقوف۔ سخت۔

الِهَزْرَةُ وَالِهَزْرَةُ. نرم زمین مَعَارَاتِ
الِهَزْرَةُ: کابل۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذُو
هَزْرَاتٍ" ہر چیز میں نقصان زدہ مرد۔

رَجُلٌ مِهْزَرٌ. ہر چیز میں نقصان زدہ مرد۔
هَزْرَفٌ فِي عَدْوِهِ: تیز دوڑنا۔

الِهَزْرَافُ وَالِهَزْرَافُ وَالِهَزْرُوفُ
وَالِهَزْرُوفُ. تیز رفتار بگا پھلکا شتر مرغ۔
الِهَزْرُوفُ: بڑے جسم والا۔

هَزَعٌ (ف) كَهَزَعًا: جلدی کرنا الشَّيْءُ:
توڑنا۔

هَزَعَهُ تَهْزِئًا. نکلنے نکلنے کرنا۔
تَهْزَعُ الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ تیوری پڑھنا۔
لَهُ: اپنے کو ناشاختہ بنانا۔ تَهْزَعَتِ الْمَرْأَةُ

فِي مَشِيئَتِهَا: ڈگڈگالایبل فی سِرِّهَا:
اُونٹ کا چلنے ہوئے جھومنا۔

إِنْهَزَعَ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔
إِنْهَزَعَ: جلدی کرنا۔ تَهْزَعُ كَالسَّيْفِ وَ

تَحْوَةٌ: تلوار وغیرہ کا حرکت کہنا۔
الِهَزْعُ. اضطراب۔

الِهَزَاعُ. اکیلا۔ کہا جاتا ہے مَا فِي الْجَعْفَةِ
أَلَا سَهْمٌ هَزَاعٌ" ترش میں صرف ایک ہی

تیر ہے۔

الِهَزَاعُ. شکار کو بہت پھانسنے والا شیر۔

الِهَزَاعُ. شکار کو بہت پھانسنے والا شیر۔

الِهَزْيَعُ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ یا تہائی یا
چوتھائی رات اور بقول بعض رات کی ایک
ساعت۔ مَعْرُوعٌ. الِهَزْيَعُ: بیوقوف۔

الْأَهْزَعُ. ترش کا آخری تیر عمدہ ہو یا
خراب۔ کہا جاتا ہے "مَالُهُ أَهْزَعٌ" اس کے

پاس کچھ نہیں "وَمَا فِي الدَّارِ أَهْزَعٌ" گھر
میں کوئی نہیں۔ "وَمَا بَقِيَ فِي سَنَامِ

بَعِيْرِكَ أَهْزَعٌ" تمہارے اُونٹ کے کوہان
میں بقیہ چربی نہیں۔

الِهَزْيَعَةُ. خوف۔ جنگ میں شور۔
الِمِهْزَعُ. درختوں کو توڑنے والا۔ کونٹے کا
آلہ۔

سَيْفٌ مُهْزَعٌ. بہت جرکت کرنے والی
تلوار۔ قَرَسٌ مُهْزَعٌ: تیز دوڑنے والا
گھوڑا۔

هَزْفَنَةٌ (ض) كَهَزْفًا الرِّيْحُ: ہلکا پانا۔ اُڑالے
جانا۔

هَزَقٌ (س) هَزَقًا. چست ہونا فی
الصَّحْكِ: بہت ہنسنا۔

أَهْزَقَ فِي الصَّحْكِ: بہت ہنسنا۔
الِهَزَقُ. چستی۔ ہلکی۔ بادل کی تیز
گڑگڑاہٹ۔

الِهَزَقُ. سخت گریختن الرِّجَالِ: بہت ہسنے
والا اوچھا مرد۔

الِهَزَقَةُ مِنَ النَّسَاءِ: عورت جس کو ایک
جگہ پر قرار نہ ہو۔

الِمِهْزَاقُ. چپقل عورت، بہت ہسنے والی۔
رَجُلٌ مِهْزَاقٌ: بہت ہسنے والا اوچھا مرد۔

هَزَلٌ (ن) كَهَزَلٌ (س) كَهَزَلٌ هَزْلًا وَ
هَزْلًا وَ هَزْلًا. کمزور ہونا۔ دبلا ہونا۔

هَزَلْتُ خَالَ فُلَانٍ: تنگ ہونے والا جسم
کی تشبیہ دیتے ہوئے) کہا جاتا ہے جَلَّةٌ فَضْلٌ

جَزْبِلٌ وَ حَالَ هَزْبِلٌ" اس کا فعل بہت
زیادہ ہے اور حال پتلا ہے۔

هَزَلٌ (ض) هَزَلًا فِي كَلَامِهِ: ٹھٹھا کرنا۔
بکواس کرنا۔ بیہودگی کرنا الدَّابَّةُ: دہلا کرنا۔
ابھی طرح نگہبانی نہ کرنے کی وجہ سے کمزور
کرنا۔ هَزَلُ الْقَوْمِ: ڈبے مویشی والا ہونا
فُلَانٌ: جانوروں کے مرنے کی وجہ سے محتاج
ہونا۔

هَزَلَةٌ: لاغر و دہلا کرنا۔

هَازَلٌ مَهَازَلَةٌ: بیہودگی کرنا فُلَانًا: ٹھٹھا
کرنا۔

أَهْزَلَ فُلَانًا: کمزور کرنا (هَزَلٌ میں ایک
لغت ہے مگر زیادہ فصیح نہیں) کھلاڑی پانا
الْقَوْمِ: ڈبے مویشی والی ہونا۔ تختی اور ٹنگی کی
وجہ سے اپنے مال کو روک لینا۔

المَهْزَالُ: س۔ لاغری۔ دہلا پن۔

المَهْزَالَةُ: خوش طبعی۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعَتْ
بَيْنَهُمَا هَزَالَةٌ“ ان کے درمیان خوش طبعی
ہے۔

المَهْزَالُ وَالْمَهْزِيلُ: بہت ڈبلا۔

المَهْزِيلِيُّ: شعبدہ باز کا فعل

المَهْزِيلِيُّ بہت سانب (جمع ہے واحد نہیں)

المَهْزِيلُ: دہلا۔ ہز ہزلی۔

المَهْزِيلَةُ: هَزَالٌ سے اسم مشتق ہے۔ جیسے
شَتَمٌ ہے شَتِيمَةٌ۔ پھر هَزِيلَةٌ کا اطلاق
اُدُنُونٌ میں ہوئے لگا۔ ہز ہزائل و ہزلی۔

المَهْزِيلَةُ: بڑا جھنڈا۔ کہا جاتا ہے ”سَارُوا و
فِيهِمْ هَزِيلَةٌ“ وہ لوگ چلے اور ان کے اندر بڑا
جھنڈا تھا۔

المَهْزُولُ: لاغر شدہ ہز ہزائل۔ اَرْضٌ
مَهْزُولَةٌ: نرم زمین۔

المَهْزَالُ: خشک سالیان۔

هَزَلَجٌ هَزَلَجَةٌ: جلدی کرنا۔

المَهْزَلَجُ: جلد باز۔ ہلکا ہلکا۔ بھیڑیا۔ ہز
ہز الج۔

المَهْزَلَجَةُ: س۔ آوازوں کا اختلاط۔ جلدی۔

هَزَمٌ (ض) هَزَمًا الْعَدُوَّ: دشمن کو شکست
دینا الشَّىءُ: ہاتھ سے دبا کر ٹھہاڑا الفُلَانُ:
ایسی ضرب مارنا کہ سرین سے ناف پر نکل آئے

الْقَوْسُ: کمان کا آواز دینا لَهُ حَقْفَةٌ: حق کم کرنا
الْبَنُو: کنواں کھودنا فُلَانًا: قتل کرنا (هَزُوْمًا)
اللَّيْلُ: سفیدی صبح کا چھٹنا۔
هَزَمْتُ عَلَيْهِ: مہربان بنایا جانا۔
هَزَمَ الْعَدُوَّ: دشمن کو شکست دینا (تشدید
مبالغہ کے لیے ہے)

تَهَزَمَتِ الْقَوْسُ: کمان کا آواز دینا الرَّعْدُ:
گرجنا السُّحْبُ بِالْمَاءِ: آواز کے ساتھ برسا
القَرِيْبَةُ: مَنَكٌ کا خشک ہو کر چھٹنا۔ تَهَزَّمَ
الْبِنَاءُ: عمارت کا گر پڑنا۔ اِنْهَزَمَ: ٹکست

کھانا۔ الضَّاءُ: لاشعی کا چرچا کر ٹوٹنا۔ الحَيْشُ:
ٹکست کھانا۔ اِهْتَزَمَتِ السَّحَابَةُ بِالْمَاءِ
آواز کے ساتھ برسا القَوْسُ: گھوڑے کا چلنا

اس طرح پر کہ آواز سنائی دے۔ اِهْتَزَمَ
الشَّاةُ: بکری کو ذبح کرنا الشَّىءُ: سبقت کرنا۔
جلدی کھانا۔

اِسْتَهَزَمَ الْجُبُوشُ: ٹکست دینا۔ ٹکست
چاہنا۔ ٹکست خورد دینا۔

المَهْزَمَةُ: مصیبت ہز ہزوم۔

المَهْزَمُ: س۔ پست زمین۔ بغیر پانی کے تپلا بادل
ہز ہزوم۔

المَهْزَمُ مِنَ الْخَيْلِ: مطع۔ کہا جاتا ہے
”قَرَسٌ هَزَمٌ وَ قَرَسٌ هَزَمٌ الصَّوْبُ“
بادل کی گرج کے مشابہ آواز والا گھوڑا۔ غَيْثٌ

هَزَمٌ: موسلا دھار بارش۔
المَهْزَمُ: کمان کی آواز۔

المَهْزَمَةُ: اسم مرہ۔ سینہ کا گڑھا۔ سبب وغیرہ
کا گڑھا جو ہاتھ سے دبانے سے پیدا ہو۔ ہنسی کی
بڑیوں کے درمیان کا گڑھا۔ پست زمین ہز ہزوم

و هَزَمٌ وَ هَزَمَاتٌ. هَزُوْمٌ الْجَوْفِ پیت
میں دانہ پانی کی جگہ۔

فَقَدَرْتُ هَزَمَةً: بہت اُٹنے والی ہانڈی۔
المَهْزُوْمُ: آواز دینے والی کمان۔ کہا جاتا ہے

”قَوْسٌ هَزُوْمٌ بَيِّنَةُ الْمَهْزَمِ“ بہت آواز
نکلنے والی کمان۔

المَهْزِيْمُ: گرج کی آواز۔ گرج۔ سخت آواز والا
گھوڑا۔ غَيْثٌ هَزِيْمٌ: نہ رکنے والی بارش

جیشِ هَزِيْمٌ: ٹکست خوردہ لشکر۔
المَهْزِيْمَةُ: ٹکست ہز ہزائم۔ المَهْزِيْمُ:
بہت پانی والے کنوئیں۔ هَزِيْمَةُ الْقَرْسِ:
سخت دوڑ کے وقت پینہ کا ٹکٹا۔
المَهْزِيْمُ: سخت مضبوط۔ شیر۔
المَهْزِيْمِيُّ: ٹکست۔
المَهْزَمُ: نا۔ گرج۔ قَصَبٌ مُنْهَزَمٌ وَ
مُهْزَمٌ ٹوٹا ہوا یا پھینا ہوا نکل۔ سِقَاءٌ مُنْهَزَمٌ
وَ مُهْزَمٌ باوجود خشک ہونے کے نہ کی ہوئی
مَنَكٌ۔
المَهْزَامُ: کرپٹنی۔ چھوٹی لاشعی۔ بیشی۔ ج
مہازیم۔
هَزَهْرَةٌ هَزَهْرَةٌ: تابع کرنا۔ هَزَهْرَ الشَّىءُ
ہلانا۔
تَهَزَهْرَ الشَّىءُ: بلنا إِلَيْهِ قَلْبِي: خوشی سے
اچھلانا۔
المَهْزَاهُ: بہت جاری ہونے والا پانی۔ بَعِيرٌ
هَزَاهِيٌّ: تیز آواز والا اونٹ۔
المَهْزَاهِيٌّ: فتنے جو انسان کو جھڑپھڑادیں۔ کہا
جاتا ہے ”فُلَانٌ شَهِدَ الْمَهْزَاهِيَّ“ فلاں
جنگوں اور تختیوں میں حاضر ہوا ہے۔
المَهْزَاهَا: بہت جاری ہونے والا پانی۔
”سَفَتْ هَزَاهَا“ بہت چمکنے والی صاف
تلوار۔
المَهْزُهُ: بہت جاری ہونے والا پانی۔ اور کہا
جاتا ہے ”مَاءٌ هَزُهُزٌ وَ هَزَاهُزٌ وَ هَزَاهِيٌّ“
یعنی لہریں لینے والا پانی۔ ”وَيَبْرُ هَزُهُزٌ“
گھبرا کنواں ”وَعَيْنٌ هَزُهُزٌ“ بہت پانی والا
کشادہ چشمہ۔
المَهْزَهْرَةُ: س۔ جنگ وقت بھڑکانا۔ کہا جاتا ہے
شَهِدَ فُلَانٌ الْمَهْزَهْرَةَ فلاں جنگ وقتے میں
حاضر ہوا۔
هَسٌ (ن) هَسًا الشَّىءُ: کونٹا۔ توڑنا۔
هَسٌ (ض) هَسًا: دل میں بات کرنا۔
الْكَلَامُ: چھپانا۔
المَهْسِيْسُ: ریزہ ریزہ کیا ہوا۔ پوشیدہ کلام۔
هَسِيْسُ الْجِنِّ وَ هَسَاْسُهُا: بیابان میں

لِلْمَعْرُوفِ“ اس نے اس سے بھلائی طلب کی۔
 اِنْهَشِمَ الشَّيْءُ: ٹوٹا۔ اِنْهَشَمَتِ الْاِبِلُ:
 اونٹ کاسٹ وکمزور ہونا۔
 اِنْهَشَمَ النَّاقَةَ: اونٹنی کو دوہنا۔ اور کہا جاتا
 ہے ”اِنْهَشَمَتِ نَفْسِي لَهٗ“ میرا نفس اس
 کے سامنے مطع و فرما ہمدار ہو گیا اور بغیر
 انصاف کے راضی ہو گیا۔
 الْهَاشِمَةُ: الْهَاشِمِ كَامُونْتِ۔ سر کا زخم جو
 بڑی کوتوڑے۔
 الْهَشَامُ: سخاوت۔ بخشش۔
 الْهَشْمُ: س۔ قحط زدہ زمین۔ پست زمین ج
 ہشوم۔
 الْهَشِيمُ: سخی۔ فیاض۔
 الْهَشْمُ: نرم پہاڑ۔ دودھ کے ماہر۔ دوہنے
 والے۔ واحد ہاشیم۔
 الْهَشْمَةُ: ہشم کا اسم مرۃ۔
 الْهَشْمَةُ: پہاڑی بکری۔ ج ہشَمَاتِ۔
 الْهَشِيمُ: توڑا ہوا۔ ٹوٹی ہوئی خشک گھاس۔
 خشک شدہ گھاس یا درخت۔ پہلے سال کی باقی
 ماندہ گھاس۔ کہا جاتا ہے ”بِتَّ هَشِيمٌ“ جیسا
 کہا جاتا ہے ”بِتَّ عَامِي وَ حِطِيمٌ“ کمزور
 بدن والا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ هَشِيمٌ“ کمزور
 بدن کا مرد۔ اور کہا جاتا ہے ”صَارَتْ
 الْاَرْضُ هَشِيمًا“ زمین کے درخت اور
 گھاس خشک ہو گئے اور ٹوٹ گئے۔
 الْهَشِيمَةُ: زمین جس کے درخت خشک
 ہو گئے ہوں۔ خشک درخت۔
 نَاقَةٌ مِهْشَامٌ: جلدی لاغر ہونے والی اونٹنی۔
 كَلَامٌ هَشِيمٌ: نازک و نرم گھاس۔
 هَشِيمٌ الشَّيْءُ: ہلانا۔
 الْهَشْهَاشُ: اچھے اخلاق کا سخی مرد۔
 هَاشَاةٌ مَهَاشَاةٌ: ہنسی مذاق کرنا۔
 هَصَّ (ن) هَصًّا الشَّيْءُ: روند کر چکانا۔
 باریک کرنا۔ توڑنا۔ اگلیوں سے زور سے دبانا۔
 صفت مفعولی هَصِيصٌ و مَهْضُوصٌ۔
 هَصَّصَ الرَّجُلُ: پچھدر آکھوں والا ہونا

والا گھوڑا ”وَأَنَا بِهِ هَشٌّ“ میں اس سے بہت
 خوش ہوں۔
 قَرْبَةٌ هَشَّاشَةٌ: پانی نکانے وان منک۔ نَاقَةٌ
 هَشْوَشٌ اَوْشَاةٌ هَشْوَشٌ: بہت دودھ
 دینے والی اونٹنی یا بکری۔
 الْهَشِيثُ: مانگنے سے خوش ہونے والا۔ نرم
 ڈھیلا ڈھالا۔ توڑا ہوا۔ چورہ کیا ہوا۔
 هَشْرٌ (ن) هَشْرًا النَّاقَةَ: اونٹنی کا سارا
 دودھ دوہ لینا۔
 الْهَشْرُ: س۔ ہلکان۔ پتلا پن۔
 الْهَشْرَةُ: آکر۔ غرور۔
 شَجْرَةٌ هَشْرَةٌ و هَشْوَرٌ: درخت جس
 کے بچے جلدی گر جائیں۔
 الْهَشِيرُ مِنَ الرَّجَالِ: نرم کمزور و لمبا مرد۔
 هَشَلَتْ تَهَشِيلاً النَّاقَةَ: تھوڑا دودھ
 اتارنا۔
 اَهْشَلُ الرَّجُلُ: سواری کا جانور بغیر مالک کی
 اجازت کے دینا۔
 اِهْشَلُ الْفَرَسِ: گھوڑے پر بغیر مالک کی
 اجازت کے سوار ہونا۔
 الْهَشِيْلَةُ: سواری کا جانور جس پر بغیر مالک کی
 اجازت کے سوار ہوں مِنَ الْاِبِلِ وَغَيْرِهَا:
 غضب کیا ہوا اونٹ وغیرہ۔
 الْهَشِيْلَةُ: عمر رسیدہ موٹی اونٹنی۔
 هَشَمٌ (ض) هَشْمًا الشَّيْءُ: توڑنا۔ کہا جاتا
 ہے ”هَشَمَ الثَّرِيْدُ لِقَوْمِهِ“ اس نے اپنی قوم
 کے لیے روٹی کو توڑ کر شوربے سے تر کر کے
 ٹرید بنا لیا۔ صفت هَاشِمٌ۔
 هَشَمَ الشَّيْءُ: توڑنے میں مبالغہ کرنا فَلَانًا:
 اکرام و تعظیم کرنا النَّاقَةَ: اونٹنی کو دوہنا۔
 تَهَشَّمُ الشَّيْءُ: ٹوٹنا الشَّجْرُ: خشک ہو کر
 ٹوٹنا الْاِبِلُ: اونٹ کاسٹ و کمزور ہونا فَلَانٌ
 الشَّيْءُ: توڑنا الرَّجُلُ: اکرام و تعظیم کرنا
 النَّاقَةَ: اونٹنی کو دوہنا زَيْدًا: مہربان بنانا۔
 رضامند کرنا عَلِيٌّ فَلَانٌ: مہربان ہونا۔
 تَهَشَّمَتِ الْاَرْضُ: بارش منقطع ہونے سے
 زمین کا خشک ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تَهَشَّمَةُ

جوں کی آواز۔
 هَشَسَ هَشَسَةً الْمَاءُ: پانی کا لگاتار بہنا
 الدَّرْعُ او العِلْيُ: زرہ یا زیور میں جھنکار ہونا
 الْحَدِيْثُ: بات چھپانا۔
 تَهَشَسَ الدَّرْعُ او العِلْيُ: زرہ یا زیور
 میں جھنکار ہونا۔
 الْهَسَاهِسُ: رات میں چلنا۔ هَسَاهِسُ
 النَّاسِ: آہستہ گفتگو۔
 الْهَسْهَسُ: تمام رات بکریاں چرانے والا
 چرواہا۔ کام کے لیے ساری رات بیدار رہنے
 والا۔ قَصَالٌ: غیر مفہوم کلام۔ وسوسہ۔
 الْهَسْهَسَةُ: س۔ زیور یا زرہ کی جھنکار۔ نرم
 آواز والی چیز۔
 هَشٌّ (ن ض) هَشًّا وَرَقَ الشَّجَرِ: پتے
 جھڑانا۔
 هَشٌّ (ض) هَشْوَشَةُ الْخَيْزُرِ: روٹی کا نرم
 ہونا الرَّجُلُ: سست و کمزور ہونا۔
 هَشٌّ (س ض) هَشَّاشَةٌ و هَشَّاشًا
 سکرانا۔ بھلائی پر خوش ہونا۔ شادمان ہونا۔
 نشاط میں ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هَشَشْتُ و
 هَشَشْتُ بِفُلَانٍ و لِفُلَانٍ و اِهَشُّ
 وَاَهَشُّ بِهِ وَلَهُ“ میں فلاں سے خوش ہوا۔
 هَشٌّ (س) هَشَّاشَةٌ و هَشْوَشًا الشَّيْءُ:
 نرم اور ڈھیلا ہونا۔ صفت هَشٌّ: لکڑی کا نرم
 ہونا کہ جلدی ٹوٹ جائے۔
 هَشَّشُهُ: نرم سمجھنا۔ خوش کرنا۔ شادمان
 بنانا۔
 اِهْتَشَّ لِكَذَا: خوش ہونا۔ خواہش مند ہونا۔
 اِهْتَشَّ فُلَانٌ بِي: فلاں مجھ سے خوش ہوا۔
 اسْتَهَشَّهُ: لگا سمجھنا۔
 خَيْرٌ هَشَّاشٌ: نرم روٹی۔
 الْهَشُّ: س۔ نرم ڈھیلا۔ خُبْرَةٌ هَشَّةٌ: نرم
 روٹی، اور کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ هَشٌّ
 الْمِكْسَرُ“ فلاں مہربان اور نرم عادت والا
 ہے ”وَفُلَانٌ هَشٌّ الْوَجْهَ“ فلاں ہنس کھ
 ہے، اور کہا جاتا ہے ”فَرَسٌ هَشٌّ“ بہت پسینہ
 والا گھوڑا۔ ”وَفَرَسٌ هَشٌّ الْعِنَانُ“ نرم لگام

اچھی طرح آنکھیں کھولنا۔ گھورنا۔

الْهَاصَةُ ہاتھی کی آنکھ۔

الْهَيْصُ س۔ سخت چیز۔

الْهَيْصُ الْمَهْضُوصُ رونڈ کر چکی

ہوئی چیز۔ هَيْصُ النَّارِ آگ کی چمک۔

هَضَبٌ (ض) هَضَبًا بھاگنا۔

هَصْرٌ (ض) هَضْرًا الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ کھینچ کر جھکانا الْغَضْنَ وَالْغَضْنَ شے کو

جھکا کر توڑنا کہ دونوں کلمے علیحدہ نہ ہوں۔

الشَّيْءُ: توڑنا۔ دُفِعَ كَرْنَا قَرِيْبًا كَرْنَا قَرِيْبَةً:

دباناً أَلَسَدَ فَرِيْسَةً: توڑ دینا۔

إِنْهَضْرٌ وَإِنْهَضْرٌ جھکانا۔ مَرْتَانًا کھینچنا جانا۔

إِنْهَضْرُ الْغَضْنِ: جھکا کر توڑنا کہ دونوں

کلمے علیحدہ نہ ہوں۔ إِنْهَضْرُ النَّخْلَةِ:

کھجور کے خوشوں کو درست و ہموار کرنا۔

تَهَضَّرَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: لٹکانا۔

الْهَيْصِرُ وَالْهَيْصِرُ وَالْهَيْصُورُ وَالْهَيْصُورُ

وَالْهَيْصِرُ وَالْهَيْصِرَةُ وَالْهَيْصُورَةُ

وَالْهَيْصِرُ وَالْهَيْصَارُ وَالْهَيْصُورُ

وَالْهَيْصَارُ وَالْمِهْصِرُ وَالْمِهْصَارُ

وَالْمِهْصِرُ وَالْمِهْصِرُ شِرٌّ۔ رَجُلٌ

هَيْصِرٌ: ہمسر کو بہت دبانے والا مرد۔

الْهَيْصِرَةُ وَالْهَيْصِرَةُ: افسوس کے مہرے

جن سے عورتیں مردوں کو اپنے قابو میں رکھتی

ہیں۔

الْهَوَاصِرُ وَالْهَوَاصِرُ شِرٌّ جو شکار کو چھڑ

دیں اور توڑیں اور یہ هُصُورٌ کی جمع ہیں۔

هَضَمَةٌ (ض) هَضَمًا توڑنا۔

نَابٌ هَيْصَمٌ ہر چیز کو توڑ دینے والا دانت۔

هَضْمَةٌ هَضْمَةٌ ہاتھ سے دبانا۔

الْهَضْمُ وَالْهَضْمُ مَضْبُوطٌ آدی یا

شیر۔

الْهَضْمُ وَالْهَضْمُ جھکدار آنکھوں والا۔

الْمُهَضْمَةُ رات میں چور کی آنکھ۔

هَضْمًا يَهْضُو هَضْمًا الرَّجُلُ: عمر رسیدہ اور

پورھا ہونا۔

هَاصَاهُ مَهَاصَاةً بِمِثْلِهِ تُوْذِرُنَا۔

الْأَهْضَاءُ مضبوط و توانا لوگ۔

هَضٌّ (ن) هَضًّا الشَّيْءُ: توڑنا اور باریک

کرنا۔ صفت مفعولٍ هَضِيضٌ وَ مَهْضُوضٌ

هَضْنَتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ هَضٌّ

فُلَانٌ الْمَشْيُ: عمدہ چال چلنا فُلَانًا: بھڑکانا۔

أَسَانَا۔

هَضَضٌ: زمین پر زور سے پاؤں مارنا۔

إِنْهَضَّ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔

أَهْضَضَ الشَّيْءُ: توڑنا۔ کہا جاتا ہے "إِنْهَضَّ

نَفْسَهُ لِفُلَانٍ" وہ فلاں کے سامنے تابعدار

ہو گیا اور بغیر اُصاف کے راضی ہو گیا۔

الْهَضَاءُ: لوگوں کی جماعت۔ گھوڑوں کا گلہ۔

الْهَضَاضُ: اسم مبالغة۔ فَحْلٌ هَضَاضٌ

جو انوں کی گردن توڑ دینے والا۔

الْهَضِضُ: ٹوٹ۔

هَضَبَتِ (ض) هَضْبًا السَّمَاءُ: برسا

السَّمَاءُ الْقَوْمُ: اچھی طرح سے تر کر دینا۔

هَضَبَ الرَّجُلُ: سست چال چلنا الْقَوْمُ

فِي الْحَدِيثِ: باتوں میں مشغول ہونا اور

آواز بلند کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "إِهْضُبُوا يَا

قَوْمُ" یعنی بات چیت کرو۔

أَهْضَبَ الْقَوْمُ: پہلاڑی چوٹیوں پر اترنا۔

إِهْضُبُوا فِي الْحَدِيثِ: باتوں میں مشغول

ہونا اور آواز بلند کرنا۔

اسْتَهْضَبَ الْجَبَلُ: پہاڑ کا زمین پر پھیلا ہوا

ہونا۔ مُسْتَظِلٌّ ہونا۔

الْهَضْبَةُ: زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ۔ اکیلا لبا

پہاڑ۔ بلند زمین۔ بارش کی بوچھاڑ۔ جِ هَضْبٌ

وَ هَضْبٌ وَ هَضْبٌ وَ هَضْبٌ وَ هَضْبٌ وَ دَجٌّ

أَهَاضِبٌ. رَجُلٌ هَضْبَةٌ: بہت بولنے والا

مرد۔

الْهَضْبُ: مضبوط و قوی۔ بہت پسینے والا

گھوڑا۔

عَتَمَ هَضِيْبٌ: کم دودھ والی بکری۔

الْأَهْضُوْبَةُ مِنَ الْمَطَرِ: بارش کی بوچھاڑ۔

جِ أَهَاضِبٌ. رَوْضَةٌ مَهْضُوْبَةٌ: بارش سے سیراب باغ۔

هَضَّحَ الْمَوَاشِي: اچھی طرح نہ چرانا۔

صَيَاتٌ هَضِيْحٌ: چھوٹے بچ (اس کیلئے

واحد نہیں)

هَضَلٌ (ن ض) هَضَلًا بِالشَّعْرَا وَ

بِالْكَلَامِ بہت کہنا۔

أَهْضَلَتِ السَّمَاءُ: برسا الدَّلُو: ڈول کا

ٹوکس میں ٹکرا کر پانی سے بھر جانا۔

الْهَضَلُ: س۔ بہت۔

الْهَضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔

الْهَضَالُ: حدی گانے والا۔

الْهَيْضَلُ: ہتھیار بند جماعت۔ بڑا لشکر جَمَلٌ

هَيْضَلٌ: موٹا بڑا البادونٹ۔

الْهَيْضَلَةُ مِنَ النَّوْقِ: موٹی لمبی اونٹنی۔ عمر

رسیدہ۔ زیادہ دودھ دینے والی۔ اوھیز عورت۔

ہتھیار بند جماعت۔ لوگوں کی آواز۔

هَضَمٌ (ن) هَضْمًا الشَّيْءُ: توڑنا فُلَانًا:

ظلم کرنا۔ غصب کرنا اور اسم الْهَضِيْمَةُ.

هَضَمَهُ حَقًّا: حق کم کرنا۔ هَضَمَ لَهُ مِنْ

حَقِّهِ شَيْئًا رضامندی سے اپنے حق میں سے

کچھ چھوڑ دینا لَهُ مِنْ مَالِهِ: دینا۔ هَضَمَتِ

الْمِعْدَةَ الطَّعَامِ غِذَاكَ جزو بدن ہونے کے

قابل بنا دینا۔ هَضَمَ عَلَى الْقَوْمِ: اچانک

پہنچنا۔ کہا جاتا ہے "مَا شَعْرُوْنَا بِنَا حَتَّى

هَضَمْنَا عَلَيْهِمْ" اُن کو ہماری اطلاع نہیں

ہوئی اور ہم اچانک اُن کے پاس پہنچ گئے۔

"وَمَا هَضَمَ عَلَيْهِ" وہ اس سے قریب نہیں

ہوا۔

هَضَمٌ (س) هَضْمًا نازک اور پتلی کر دالا

ہونا۔ صفت مذکر أَهْضَمٌ مؤنث هَضْمَاءُ جِ

هَضْمٌ. کہا جاتا ہے "فِي كَسْحِهِ هَضْمٌ"

یعنی وہ بڑے پیٹ والا نہیں ہے یا اس کی کمر پتلی

ہے۔ هَضَمَتِ الْخَيْلُ: گھوڑے کا اٹھی

ہوئی پسلیوں اور پچکے ہوئے پیٹ والا ہونا (اور

یہ عیب ہے)

تَهَضَّمَهُ: ظلم کرنا۔ جھین لینا۔ ذلیل کرنا۔

تُوْذِرُنَا. تَهَضَّمٌ لِلْقَوْمِ: مطیع ہونا۔ کہا جاتا ہے

"تَهَضَّمْتُ لَهُ نَفْسِي" یعنی میں اس سے

بغیر انصاف کے راضی ہو گیا۔

انْهَضَمَ الطَّعَامُ: غذا کا جزو بدن ہونے کے قابل ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَعَامٌ سَرِيْعٌ اِلَّا نَهَضَمًا" یہ کھانا جلدی جزو بدن ہونے کے قابل ہے الشیءُ لَمُنَا۔

اِنْهَضَمَهُ: کھلم کھلا کرنا۔ چھین لینا۔ حق رہانا۔

الْمَهَاضِمُ: فاشی ہاضمہ: نرم چیز۔

الْمَهَاضِمَةُ الْمَهَاضِمُ: کھانے کا مؤنث۔ غذا کو جزو بدن بنانے والی قوت۔

الْمَهَاضُومُ: کھانے کو ہضم کرنے والی دوا۔ اپنے مال کو خرچ کرنے والا۔ شیر۔

الْمَهْضَامُ: اہم مبالغہ۔ کھانے کو ہضم کرنے والی دوا۔

المهضم: غذا کا جزو بدن ہونا۔

المهضم والمهضم: پست زمین۔ بطن وادی

ج انْهَضَمَ وَر مَهْضُومٌ (والمهضم و المهضمة) بخور کی ایک قسم۔

المهضموم: غذا کو ہضم کرنے والی چیز۔ یَدُ مَهْضُومٍ: فیاض ہاتھ۔ ج مَهْضُومٌ اور کہا جاتا ہے "فِي يَدَيْ مَهْضُومٍ" خرچ کرنے والے

جو ان۔ "وَرَجُلٌ مَهْضُومٌ الشَّيْءَ" قطع کے زمانے میں خرچ کرنے والا مرد۔

المهضم: توڑا ہوا۔ اِمْرَاةٌ مَهْضِيْمَةٌ: پتی کر والی عورت۔ بَطْنٌ مَهْضِيْمٌ: پتلا پیٹ۔

قَضْبَةٌ مَهْضِيْمَةٌ: بال سری۔

المهضمية: کھلم کھلا۔ غصہ۔ کھانا جو میت کے بعد کھلایا جائے۔ ج مَهْضَامٌ

الْمَهْضَامُ: موٹے دانتوں والا۔ مؤنث

مَهْضَاءٌ ج مَهْضُمٌ: اَمْهَضَمُ الْكُشْحِيْنُ: پتلے پہلوؤں والا۔

المهضمومة: خشک اور بان سے مرکب ایک خوشبو۔ قَضْبَةٌ مَهْضُومَةٌ: بال سری۔ کہا جاتا ہے

"رَأَيْتُهُ مَهْضُومًا" میں نے اس کو غمزہ دیکھا۔

هَاضَاهُ مَهَاضَاةٌ: بیوقوف سمجھنا۔ حقیر جانا۔

الْمَهْضَاةُ: گیسو۔ گدھی۔

الْمَهْضَاءُ: لوگوں کی جماعت۔

هَضَرَ (ض) هَضْرًا الْكَلْبُ: لکڑی سے مار ڈالنا یا مارنا۔

تَهَطَّرَتِ الْبَيْزُ: ویران ہونا۔ گرنا۔ تَهَطَّرَ الرَّجُلُ: ذلیل ہونا۔

الْمَهْطَرَةُ: اسم مرءة۔ غنی کے سامنے سوال کے وقت فقیر کی ذلت۔

تَهَطَّرَسَ الرَّجُلُ: لچک لچک کر چلنا۔

هَطَّعَ (ف) هَطَّعًا وَهَطَّوْعًا: ڈرتے ہوئے جلدی پیش قدمی کرنا۔ ایک ہی طرف تھکنگی لگانا۔

أَهْطَعَ: گردن اٹھانا اور سر جھکانا فی السَّيْرِ: ڈرتے جلدی چلنا۔

اسْتَهْطَعَ الْبَعِيْرُ فِي سَبِيْرِهِ: اُونٹ کا دوڑنا۔ الهطيع: کشادہ راستہ۔

نَاقَةٌ مَهْطَعِيٌّ: تیز رو اُونٹنی۔

المهطع: فاش۔ ذلت اور عاجزی سے ایک ہی طرف نظر بھانے والا۔

هَطَفَ (ض) هَطْفًا الرَّاعِي: دوہنا۔

السَّمَاءُ: برسنا۔

الهطف: بہت بارش۔

هَطَلٌ (ض) هَطْلًا وَهَطْلَانًا وَتَهَطَّلًا: متفرق طریقہ سے بڑی بڑی۔

المطر: بوندوں والی لگاتار بارش ہونا۔ صفت مذکر

هَاطِلٌ صفت مؤنث هَاطِلَةٌ ج هُطَلُ الْجَزْيِ الْقَرَسِ: پسینہ بہانا۔ هَطَلَتْ النَّاقَةُ: اُونٹنی کا آہستہ چال چلنا۔ هَطَلُ الرَّجُلُ: اپنی ضرورت سے پیدل چل کر جانا۔

هَطَلَتْ الْعَيْنُ بِالذَّمْعِ: آنسو بہانا۔

تَهَطَّلَ الْمَطْرُ: بڑی بوندوں والی لگاتار بارش ہونا۔

تَهَاطَلُوا: عَلَي كَذِبًا: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔

الهاطل: فاش۔ گنجان بھیتی۔

الهطال من المطر والسحاب: زور سے بڑی بوندوں سے برسے والی بارش۔

الهطل: س۔ لگاتار آہستہ بارش۔ تمھکن۔

الهطل: بھیڑیا۔ چور۔ بیوقوف۔

دِيْمَةٌ هَطْلٌ: لگاتار بارش۔

الهطل: بڑی بوندوں کی متفرق لگاتار بارش۔ کہا جاتا ہے هَطَلَتْ سَحَابٌ هَطْلًا: کہا جاتا ہے دِيْمَةٌ هَطْلَاءٌ بڑی بوندوں کی متفرق لگاتار بارش۔ اور

"سَحَابٌ اَهْطَلٌ" نہیں بولا جاتا۔ جس طرح "فَرَسٌ رَوْعَاءٌ" تو کہتے ہیں مگر مذکر کے لیے "اَرْوَاعٌ" نہیں کہتے "اِمْرَاةٌ حَسَنَاءٌ" تو بولتے ہیں مگر مرد کو "اَحْسَبٌ" نہیں کہتے۔

نَاقَةٌ هَطْلِيٌّ: آہستہ رو اُونٹنی۔ کہا جاتا ہے "مَسَّتِ الطَّبَاءُ هَطْلِيٌّ" یعنی ہرنیاں آہستہ چلیں۔ اِبِلٌ هَطْلِيٌّ وَهَطْلِيٌّ بغير ساربان کے چھوٹے ہوئے اُونٹ۔

الهطيل: لومڑی۔ الهطيل: غازیوں کی قلیل جماعت۔ مادراء النہر کے چند شہروں کا نام۔ ترکوں یا ہندوستانیوں کی ایک قوم ج

هَيَاطِلٌ وَهَيَاطِلَةٌ: ہٹیل یا تانبے کی دھچی (دخیل) هَطَلَسَ الشَّيْءُ: سارالے لینا۔

تَهَطَّلَسَ اللَّصُّ: چور کا حیلہ و فریب کرنا المرِيضُ مِنْ عِلَّتِهِ: مریض کا بیماری سے افاقہ پانا۔ صحت یاب ہونا۔

الهطلس والهطلس: بٹ مار۔ چور۔ بھیڑیا۔ بڑا شکر۔

هَطَّطَ الْفَرَسُ: گھوڑے کا نہننا الرَّجُلُ: تیز چلنا فی الْعَمَلِ: جلدی کرنا۔

الهطاطط: گھوڑا۔ هَطَّ يَهْطُو هَطْوًا بَكْدًا: بھجکنا۔

الهطى: بچھاڑ۔ سخت مار۔ هَعَ (ن) هَعًا وَهَعَةً: تے کرنا۔

هَفَّتْ (ض) هَفًّا وَهَفِيْفًا الرَّيْحُ: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ هَفَّ الرَّجُلُ: تیز چلنا الشَّيْءُ: سبک اور چمکدار ہونا۔

اِهْتَفَّ السَّرَابُ: سراب کا چمکنا۔ اِهْتَفَّتْ اُذُنُهُ: کان کا سائیں سائیں کرنا۔

الْهَفْتُ. کھیتی جس کے کانٹے میں تاخیر ہو جائے اور اس کے دانے بکھر جائیں۔ چھوٹی مچھلیاں۔ پانی کے بڑے بڑے کالے کیڑے۔ واحد هَفَّةٌ. والِهْفٌ: ہلکا پھلکا مرد۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ هَفٌّ“ کم شہدیا بے شہد کا چھتہ۔ ہر ہلکی چیز جس کے جوف میں کچھ نہ ہو۔ سَحَابٌ هَفٌّ: پتلا بے پانی کا بادل۔ کہا جاتا ہے ”مَا فِي بَيْتِكَ هَفَّةٌ وَلَا سَفَّةٌ“ یعنی تمہارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ کہا جاتا ہے هَفَّتْ هَافَةٌ مِنَ النَّاسِ: قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کی جماعت آگئی۔

الْهَفَافُ. چمکدار مِنَ الْأَجْبَحَةِ: اُزْنِي فِي بِلَاكٍ مِنَ الْقَمِيصِ: پتلے شفاف قمیص من الحُمْرِ: سبک و چست مِنَ الظَّلَالِ: مُخْذِرًا سَائِبًا۔ اور کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ هَفَافٌ الْقَمِيصِ“ ہلکا پھلکا مرد۔

الْهَفَافَةُ. الْهَفَافُ كَامُونْتُ۔ رِيحٌ هَفَافَةٌ: خوشگوار یا تیز چلنے والی ہوا۔

الْهَفَّانُ. نشان قدم۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ عَلِيٌّ هَفَّانًا“ وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔

جَارِيَةٌ مَهْفُفَةٌ. پتلی کروالی لڑکی۔ هَفَّتْ (ض) هَفَّتًا وَ هَفَّاتَا الشَّيْءُ: خفت کی وجہ سے اُٹنا۔ پست ہونا۔ باریک ہونا

الرَّجُلُ: بلا سوچے سمجھے بہت بولنا۔ تَهَافَتَ عَلَيَّ الشَّيْءُ: لگا تار گرتا (اکثر اس کا استعمال شرم میں ہوتا ہے) الْفِرَاشُ عَلَيَّ النَّارُ: پروانہ کا آگ میں گرنا النَّاسُ عَلَيَّ الْمَاءُ: بیجوم کرنا الْقَوْمُ: مر کر گرنا الثَّوْبُ: کیڑے کا بوسیدہ ہو کر کٹڑے ٹکڑے ہونا۔

انْفَهَقَتِ الشَّيْءُ: پست ہونا۔ ذلیل ہونا۔ الْهَفَاتُ. بیوقوف۔

الْهَفْتُ. مصل۔ پست زمین۔ بہت بیوقوفی۔ کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا۔ الْهَفْتُ مِنَ الْمَطَرِ: جلدی برسنے والی بارش من الْكَلَامِ: بلا سوچ و سمجھ کے بہت گفتگو۔

الْهَفِيئَةُ مِنَ النَّاسِ: بھوک یا سختی کے مارے ہوئے لوگ۔

الْمَهْفُوتُ. حیران۔

تَهَفَّكَ. اضطراب کے ساتھ سُت چال چلنا۔

الْمَتَهَفِّكُ. فَا۔ اضطراب کے ساتھ سُت چال چلنے والا (والمُهَفِّكُ) بہت غلطی اور گڑبڑی کرنے والا۔

هَفْفَهْفٌ هَفْفَةٌ الرَّجُلُ: لاغر اندام و نازک ہونا الشَّيْءُ: ہلانا۔

تَهَفَّفَ الرَّجُلُ: لاغر اندام و نازک ہونا۔ ظِلُّ هَفْفَفٍ. مُخْذِرًا سَائِبًا جس میں ہوا چل رہی ہو۔

الْهَفْفَافُ. پتلے پیٹ والا۔ نِيَسَا مِنَ الْقَمِيصِ وَالْأَجْبَحَةِ: پتلا و شفاف۔ ظِلُّ هَفْفَافٍ: مُخْذِرًا سَائِبًا جس میں ہوا چل رہی ہو۔ عُرْفَةٌ هَفْفَافَةٌ: سایہ دار مُخْذِرًا جھروکے۔

الْمُهَفَّفُ. پتلے پیٹ باریک کر والا مُونْتُ مَهْفُفَةٌ.

هَفَا يَهْفُو هَفْوًا وَ هَفْوَةً وَ هَفْوَانًا تَبَرُّ وَرُثَا الطَّائِرِ: پر پھڑ پھڑانا اور اُزْنَا الرَّجُلُ: پھسلنا۔ بھوکا ہونا۔

هَفَّتْ تَهْفُو هَفْوًا وَ هَفْوًا الرَّيْشَةُ او الصُّوفَةُ فِي الْهَوَاءِ: پریا اون کا ادھر ادھر اُزْنَا الرَّيْحِ بِالصُّوفَةِ: ہوا کا اُون کو ادھر ادھر اُزْنَا۔ هَفَا الْفَوَازُ: ول دھڑکنا، فریفت ہونا

فُلَانٌ: اوچھا ہونا۔ هَفَا الظَّلِيمُ: شتر مرغ کا دوڑنا۔ اور کہا جاتا ہے ”هَفَا الْقَلْبُ مِنَ الْحُزْنِ او مِنَ الطَّرْبِ“ ول غم سے پر اگندہ ہو یا خوشی سے قابو میں نہیں رہا۔

هَافَاةٌ مَهَافَاةٌ. خواہش کی طرف مائل کرتا۔ الْهَافِي. فَا۔ بھوکا۔

الْهَافِيَةُ. الْهَافِي كَامُونْتُ جَ هَوَافٍ هَوَا فِي الْإِبِلِ: گم شدہ اُونٹ۔

الْهَفَا. بارش جو کبھی برسے کبھی رک جائے۔ الْهَفَاءُ. غلطی۔ لغزش۔

الْهَفَاةُ. بارش۔ رَجُلٌ هَفَاةٌ: بیوقوف مرد۔

الْهَفْوَةُ. لغزش جَ هَفْوَاتٍ.

الْأَهْفَاءُ. بیوقوف لوگ۔

هَقَّ (ض) هَقًّا الرَّجُلُ: بھاگنا۔

هَقَعَ (ف) هَقَعًا الْقَرْسُ: گھوڑے کو داغ دینا۔

تَهَفَّقَ الرَّجُلُ عَلَيْنَا: نادانی برتنا۔ تکبر کرنا۔ فعل تَفَقُّعٌ کا ارتکاب کرنا۔

تَهَفَّقَ. او نڈھکا ہونا۔

انْفَهَقَ الرَّجُلُ: سخت بھوکا ہونا۔

اهْتَفَعَهُ. باز رکھنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اهْتَفَعَ فُلَانًا عِرْفًا سُوِيًّا“ فلاں کو بداصلی نے عزت و شرافت تک پہنچنے سے روک دیا

”اهْتَفَعَتِ الْحُمَى فُلَانًا“: ایک دن نافذ دے کر بخار آنا۔ اهْتَفَعَ الشَّيْءُ فُلَانًا: دوبارہ لوٹ کر آنا۔

اهْتَفَعَ لَوْنُهُ: خوف یا گھبراہٹ سے رنگ بدل جانا۔

الْهَفَاقُ. غم یا بیماری کی وجہ سے غفلت۔ الْهَقِيعُ. لا بھلی۔ مُونْتُ هَقِيعَةٌ.

الْهَقِيعَةُ. هَقَعَ كَاسَمَ مَرَّةً۔ جوزا کے اوپر تین روشن ستارے جو دیکھنے کے پایہ کے مانند

ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ الْهَقِيعَةُ: گھوڑے کے سینے کے وسط میں دائرہ۔

الْهَقِيعَةُ. لوگوں کے درمیان بہت ٹیک لگانے والا یا لینے والا۔

الْهَقِيعَةُ. تلوار کی جھکار۔ تلوار کی جھکار کی نقل۔ کہا جاتا ہے ”سَمِعْتُ لِلْسَيُوفِ هَقِيعَةً“ میں نے تلواروں کی جھکار سنی۔ آواز سننے کے لیے خشک چیز کو خشک چیز پر مارنا۔ یا لوہے کو پتھر سے مارنا۔

الْمَهْفُوعُ. مَن مِنَ الْحَيْلِ: سینے کے وسط میں دائرہ رکھنے والا گھوڑا۔

الْهَاقِلُ. چوہا۔

الْهَقْلُ. جوان شتر مرغ۔ لِبَا بِيَوْقُفٍ۔ مُونْتُ هَقْلَةٌ.

الْهَقْلُ. بھوکا۔

الْهَقْلُ. جوان شتر مرغ۔ گوہ۔

الْهَقْلَةُ. ایک قسم کی چال۔ کہا جاتا ہے

”اَخَذَ يَمْشِي الْهَيْقَلَةَ“

هَيْقَم (س) هَيْقَمًا: بہت بھوکا ہونا۔ صفت
هَيْقَمٌ: بہت کھانا اور بد ہضمی نہ ہونا۔

تَهَقَّمَهُ: مغلوب کرنا۔ تَهَقَّمَ الطَّعَامَ: پے
در پے بڑے بڑے لقمے لگانا۔

الهِقْمُ: سمندر۔ بہت کھانے والا مرد۔

الهِقْمُ: وسیع سمندر۔ سمندر کا شور۔

هَقِي يَهْقِي هَقِيًا: بکواس کرنا۔ اور کہا جاتا
ہے ”فُلَانٌ يَهْقِي بِفُلَانٍ“ فلاں فلاں کے
ساتھ بک بک کرتا ہے فُلَانًا: گالی دینا
فَوَادَةٌ: دل پر آئندہ ہونا۔

أَهْقَاهُ أَهْقَاءً: خراب کرنا۔

هَكَ (ن) هَكًا: گوز کرنا الطَّائِرُ پرندہ کا
بیٹ کرنا النَّعَامُ: شتر مرغ کا پانچنڈ کرنا الشَّيْءُ:

پینا۔ صفت مفقولة مَهْمُوكٌ و مَهْمِكٌ:

هَكَّهُ بِالرُّمْحِ: پیارے نیزہ مارنا۔ هَكَّهُ

بِالسَّيْفِ: تلوار مارنا هَكَّتِ التَّيْدُ فُلَانًا:

مست کرنا اللبِنُ: دودھ نکالنا فُلَانًا: لاغر کرنا

التَّجَارُ الحَرَقِيُّ: بڑھتی کاسوراج نوکشادہ کرنا

الحَجَارِيَّةُ: بہت جماع کرنا۔ هَكَّتِ البِنُو:

کونوئیں کا گرجانا۔

هَكَ الشَّيْءُ: گرایا جانا۔

تَهَكَّتِ الرُّجُلُ: مضطرب ہونا۔

الأُنْفَى: قریب الولادة ہونے کی وجہ سے تھن

کا بڑا ہونا۔

إِنْهَكَ البَعِيرُ: بیٹھنے کے وقت زمین سے چٹنا

الرُّجُلُ: مست ہونا۔ إِنْهَكْتَ البِنُو:

کونوئیں کا گرجانا۔ کہا جاتا ہے ”مَا يَنْهَكَ يَفْعَلُ

مَعْدًا“ وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا۔

الهَكُّ: س۔ فاسد العقل ج هَكَّجَةٌ و

أَهَكَكَ: سخت بارش۔

الهَمْكُوكُ: ہنسی مذاق کرنے والا۔ کمزور کمینہ۔

أَحْمَقُ هَاكًا: انتہائی بیوقوف۔ کہا جاتا ہے

”رَجُلٌ هَكَكٌ بِالكَلَامِ“ غلط کلام کو صحیح

سمجھ کر بولنے والا۔

الهَمْكُوكُ: موٹا۔ ہنسی مذاق کرنے والا۔ سخت

جگہ۔ اور بقول بعض نرم جگہ۔

الهَيْكِكُ: پسا ہوا۔ منخت۔

المَهْمُوكُ: س۔ کلام میں ہنسی مذاق کرنے

والا۔ مخراب۔

المُنْهَكَةُ: دُشَواری سے بچنے والی

عورت۔

هَكَبَ (ض) هَكْبًا يه: ٹھٹھا کرنا۔

هَكَّدَ عَلَيَّ غَرِيْمِيه: قرض دار پر سختی کرنا۔

هَكَرَ (ض) وَهَكَرَ (س) هَكَرًا وَهَكَرًا

وَهَكَرًا مِنْ كَذَا: سخت متعجب ہونا۔

هَكَرَ (س) هَكَرًا وَهَكَرًا: اوگھنا۔

تَهَكَّرَ: تعجب کرنا۔ حیران ہونا۔

الهَيْكِرُ: متعجب (والهَيْكِرُ) اوگھنے والا۔ کہا

جاتا ہے مَا فِيْه مَهْكَرًا أَوْ مَهْكَرَةٌ: اس میں

کوئی تعجب نہیں۔

هَكَعَ (ف) هُكُوْعًا: ٹھہرنا۔ مطمئن ہونا۔

هَكَعَتِ البَقْرُ تَحْتَ الشَّجَرِ: سخت گرمی

میں درخت کے نیچے سایہ لینا الرُّجُلُ:

اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”ذَهَبَ فُلَانٌ فَمَا

يَذُرِي أَيْنَ سَكَعٍ وَأَيْنَ هَكَعٍ“ فلاں گیا

نہیں معلوم ہے کہ کس طرف گیا اور کہاں

اقامت کی۔ هَكَعَ اللَّيْلُ تَارِكِي بَيْتِي فُلَانًا

بِالقَوْمِ وَإِلَى القَوْمِ شام ہونے کے بعد قوم

کے پاس واپس آنا الرُّجُلُ: غم یا غصہ سے سر

جھکانا إِلَى الأَرْضِ: اوندھا ہونا عَظْمَةٌ:

درستی کے بعد ٹوٹنا۔

هَكَعَ (س) هَكْعًا وَاهْتَكَعُ: مطبوع ہونا۔

گھبراتا۔ عاجزی کرنا۔

الهَيْكَاعُ: کھانسی۔ تھکن کے بعد کی نیند۔

الهَمْكُوعُ: درخت کے نیچے سایہ لینے والی

گایوں کا ریوڑ۔

الهَمْكَعَةُ: بیوقوف۔

هَكَلُ تَهَكَيْلًا: الحِصَانُ أَوْ المَرْأَةُ:

کھوڑے یا عورت کا اٹھلانے ہوئے چلنا۔

تَهَاكَلُ القَوْمُ: کسی معاملہ میں جھگڑا کرنا۔

هَيْكَلُ الرُّزْغِ: کھینچی کا بڑھنا اور لبا ہونا۔

الهَيْكَلُ: سبکی اور بڑی نباتات یا درخت واحد

هَيْكَلَةٌ: بلند عمارت۔ موٹا (ہر جاندار) گر جا

میں قربان گاہ۔ صورت۔ بیکر۔ مجسمہ ج

هَيْكَلٌ: قَرَسٌ هَيْكَلٌ: بلند گھوڑا۔

هَكَمٌ تَهَكَيْمًا فُلَانًا وَ لِفُلَانٍ: کسی کیلئے

گانا۔

تَهَكَمَتِ البِنُو وَ نَحَوَهَا: کونوئیں کا گرجنا۔

تَهَكَمَ فُلَانًا وَ بِفُلَانٍ: ٹھٹھا کرنا زَيْدًا:

پیارے نیزہ مارنا الرُّجُلُ: جھوٹی مغرورانہ چال

چلانا اور ہر چیز میں مقدار سے بڑھ جانا۔ تَهَكَمَ

عَلَيَّ فُلَانٌ: سخت غضبناک ہونا عَلَيَّ الأَمْرُ

الفَائِتُ: نادم ہونا المَطْرُ: ناقابل برداشت

بارش ہونا فُلَانٌ: گانے فُلَانٍ: کسی کے لئے گانا

بِفُلَانٍ: بہت یاد کرنا۔

الهَيْكَمُ: لا یعنی امور میں چھٹنے والا۔ شری۔

الأَهْكَوْمَةُ: ٹھٹھا۔ استہزاء۔

المُنْهَكِمُ وَ المُنْهَكِمَةُ: مغرور۔

تَهَكَّنَ عَلَيَّ الأَمْرُ الفَائِتُ: نادم ہونا۔

(هَكَا). هَاكَاهُ مَهَاكَاةً: اپنی عقل کو عاجز

دنا کام سمجھنا۔

الإهْكَاءُ: حیران لوگ۔

هَلٌ: حرف استفہام بمعنی کیا جیسے ”هَلْ طَلَعَ

النَّهَارُ“ کیا دن نکل آیا۔ اور ”هَلْ“ نسبت

ایجابیہ کے لیے مخصوص ہے جیسے ”هَلْ قَامَ

زَيْدٌ“ اور هَلْ لَمْ يَقْمَ زَيْدٌ“ نہیں کہا جاتا۔

اور اگر نسبت سلبیہ سے استفہام مقصود ہو تو

ہمزہ لاتے ہیں اور هل ایسے اسم پر بھی داخل

نہیں ہوتا جس کے بعد فعل ہو اسی لیے ”هَلْ

قَامَ زَيْدٌ“ اور هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ“ کہنا تو جائز ہے

مگر ”هَلْ زَيْدٌ قَامٌ“ کہنا جائز نہیں۔

اور هل جملہ شرطیہ پر بھی داخل نہیں ہوتا

اس وجہ سے کہ اس میں ایجاب و نفی دونوں کا

احتمال ہے اور اس جملہ پر بھی داخل نہیں ہوتا

جس بیانِ حرف تحقیق داخل ہو اس لیے کہوں

تقریر و واقع کے لیے آتا ہے اور هل استفہام

کے لیے اور ان دونوں میں منافات ہے۔ اسی

وجہ سے ”هَلْ إِنْ قَامَ زَيْدٌ نَفَمَ“ اور ”هَلْ

إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ“ کہنا جائز نہیں۔ بخلاف ہمزہ

کے کہ یہ استفہام میں اصل ہے اور اس میں

بڑی وسعت ہے۔

اوہل جب مضارع پر داخل ہو تو استقبال کے لئے خاص کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہل تَذَهَبُ الْآنَ کہا جا رہا ہے۔

هَلْ (ن) هَلًّا الْمَطْرُ: زور سے برسنا الہلال: نیا چاند لکھلکھل شہر: مہینہ شروع ہو کر رُجُل: خوش ہونا۔ چلانا۔

هَلَّلَ تَهْلِيلًا: تسبیح پڑھنا هَلَّلُوْنَا (عبرانی کلمہ ہے جس کے معنی ہیں ”پروردگار کی تسبیح پڑھو۔“ کہنا) (ذخیل) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔ اور هَيْلَلَةً سے ماخوذ ہے هَيْسَمَلَةً بِسْمِ اللَّهِ پڑھنا اور حَوْلَةً لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنا۔ کہا جاتا ہے سَبَّحَ فَلَانَ وَهَلَّلَ

فَلَانَ نے تسبیح پڑھی اور اِلَہَ إِلَّا اللہ کہنا۔ وَهَلَّلَ الرَّجُلُ: بزدل ہونا۔ بِمَا كُنَّ قَوْلُهُ: پیچھے پھن ششمہ: گالی دینے سے رُک جانا۔ ہٹ جا۔ لکتاب: لکند۔

هَالًا هَلَالًا وَ مَهَالَةً الْأَجِير: درماہ اجرت مقرر کرنا۔ تم کہتے ہو ”تَكَارُفُهُ مَهَالَةٌ“ یعنی ایک چاند سے دوسرے چاند تک جیسا کہ ”مُشَاهَرَةٌ“ یعنی ایک مہینہ سے دوسرے مہینہ تک۔

أَهْلَ الْهَيْلَالِ: نیا چاند لکھلکھل شہر مہینہ شروع ہونا۔ أَهْلَ الْقَوْمِ الْهَيْلَالِ: چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا اَلْهَيْسِيُّ: بچے کا رونے میں آواز بلند کرنا رُجُلُ: نیا چاند دیکھنا السَّيْفُ بَفْلَانٍ: تلوار کا کاٹل عَطَشَانُ:

پیاسے کا تھوک جمع ہونے کے لیے زبان کو تالو سے ملا لکھلکھل السَّحَابُ: برساتا شہر:

مہینہ کا چاند دیکھلکھلی: تلبیہ کے وقت آواز بلند کرنا فَلَانَ بَدَّخِرَ اللَّهُ: کسی نعمت یا کسی عجیب چیز کو دیکھ کر اللہ کے ذکر میں آواز بلند کرنا کہا جاتا ہے ”أَهْلٌ بِالسَّمِيَةِ عَلِي الدَّبِيحَةِ“ اس نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا۔

أَهْلُ الْهَيْلَالِ: نیا چاند لکھلکھل شہر مہینہ شروع ہونا۔ تَهَلَّلَ الْوَجْهَ أَوْ السَّحَابَ: چمک اٹھنا۔

فَلَانَ: خوشی سے دکتے ہوئے چہرے والا ہونا تَهَلَّلَتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا تَهَلَّلَتِ دُمُوعُهُ: آنسو بہنا۔

أَنْهَلَ الْمَطْرُ: زور سے آواز کے ساتھ بارش ہونا أَنْهَلَتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا السَّمَاءُ بِالْمَطْرِ: برساتا۔

أَنْهَلَ الْوَجْهَ وَالسَّحَابَ: چمک اٹھنا الرَّجُلُ: ہنسنے میں دانت ظاہر کرنا لَمَطْرُ: زور سے آواز کے ساتھ برسنا۔

أَسْتَهَلَّ الْمَطْرُ: زور سے آواز کے ساتھ برساتا السَّمَاءُ: پہلی بارش برساتا الْقَوْمُ الْهَيْلَالِ: نیا چاند لکھلکھل شہر: مہینہ شروع ہونا السَّهْرُ: مہینہ کا نیا چاند دیکھلکھل وَجْهًا: خوشی سے دک اٹھلکھلی: پیدائش کے

وقت چلانا۔ اور ایسا ہی ہر بولنے والے کے آواز بلند کرنے کو اسْتَهْلَالُ کہتے ہیں۔ وَأَسْتَهَلَّتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔

أَسْتَهَلَّ الْهَيْلَالِ: نیا چاند لکھلکھل السَّيْفُ: سونتا جانا۔

أَهْلَالُ: مصدر هَالًا کا۔ نیا چاند۔ شروع مہینہ کی دور اتوں یا تین راتوں یا سات راتوں کے چاند کو ہال کہتے ہیں۔ اور مہینہ کی آخری دور اتوں چھبیسویں اور ستائیسویں کے چاند کو بھی۔ اور ان کے علاوہ کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔

وَالْهَيْلَالُ عِنْدَ أَهْلِ الْهَيْبَةِ: پہلی رات کا چاند اَلْهَيْلَالُ: تھوڑا پانی۔ شکار کو زخمی کرنے کا لوہا۔ سانپ۔ اور بقول بعض نر سانپ۔ سانپ کی کٹیختی۔ جوتے کا تسمہ۔ دہلا اونٹ۔ غبار۔

ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ اونٹ کا نشان۔ خوبصورت لڑکا۔ چکی وغیرہ کا کنارہ جبکہ ٹوٹ جائے۔ بوجھار۔ پہلی بارش۔ رَجْهَلَةٌ اور أَهْلَالِي (نادر)

الاهاليل۔ بارشیں۔ اس کے لیے واحد نہیں یا اس کا واحد اهلول ہے۔

الہلال۔ پہلی بارش۔ الہل۔ س۔ باریک بال۔ کپڑا۔ الہل۔ نموداری۔ ماہ نور۔ کہا جاتا ہے ”أَتَيْتُهُ

فِي هَلِّ الشَّهْرِ“ میں اس کے پاس نئے چاند طلوع ہونے کے وقت آیا۔

الهلل۔ خوف۔ ڈر۔ کہا جاتا ہے ”هَلَّكَ فَلَانَ هَلًّا“ فلاں خوف کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ پہلی بارش۔ کڑی کا جالا۔ بارشیں۔ واحد هَلَّةٌ۔

هَلًّا: کلمہ تخصیص و تہدیم ہے۔ مرکب ہے هَلٌّ وَلَا سے۔ اگر ماضی پر داخل ہو تو ترک فعل پر لامت کے لیے جیسے هَلَّا آمَنْتَ یعنی تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور اگر مضارع پر داخل ہو تو براہیختہ کرنے کیلئے جیسے ”هَلَّا تَوَمَّيْنُ“ تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔

الهللي۔ خوشی جو غم کے بعد حاصل ہو۔ الهلة۔ هَلٌّ کا اسم مرتبہ۔ حلل کا واحد۔ چراغ دان۔ اور کہا جاتا ہے ”أَتَيْتُهُ فِي هَلَّةِ الْقَمَرِ“ میں اس کے پاس چاند کے طلوع کے وقت آیا (وَمَا أَصَابَ هَلَّةً) اس نے کچھ نہیں پایا۔

الهلل۔ بارشیں۔ واحلة۔ اور کہا جاتا ہے ”جَاءَ نَا فَلَانَ فَلَمْ يَأْتِنَا بِهِلَةً وَلَا بِلَّةً“ فلاں ہمارے پاس آیا اور کچھ نہیں لایا۔ کہا جاتا ہے ”ذَهَبَ بِهِلِيَانٍ وَبِدِي هَلِّيَانٍ“ وہ گیا اور نہیں معلوم کہاں گیا ہے۔

الهليلة۔ زمین جس پر بارش ہوئی ہو اور ارد گرد بارش نہ ہوئی ہو۔

المهلل۔ فا۔ وہ شخص جو اپنے ہمسر پر حملہ کرے پھر بزدلی کی وجہ سے ہٹ جائے۔ ابل مهللة: دے اور جھکے ہوئے اونٹ۔

المهلل۔ جھکا ہوا۔ هَلْبَةٌ (ض) هَلْبَانٌ: کسی کے بال اکھیڑنا

ذَنَبَ الْقَرَسُ: گھوڑے کی دم کو کاٹنا السَّمَاءُ الْقَوْمُ: ترکرنا۔ یا لگاتار برساتا الْقَرَسُ: گھوڑے کا لگاتار دوڑنا۔

فَلَانَ الْقَوْمُ بِلَسَانِهِ: جھوکرنا۔ گالی دینا۔ هَلِبٌ (ر) هَلْبَانٌ: بہت ہالوں والا ہونا۔

أَهْلَبَ الْقَرَسُ: گھوڑے کا لگاتار دوڑنا۔ هَلَبَتِ السَّمَاءُ الْقَوْمُ: ترکرنا۔ تَهَلَّبَ وَانْهَلَبَ الشَّعْرُ: بال اکٹرا ہوا

ج هوَالع. شَحْ هَالع: غم انگیز شدت

بخل۔

الہلع. غمگین۔

الہلع. سر (والہلوع والہلعان) مقابلہ

کے وقت بزدلی۔

الہلعة. جلد گھبرانے والا۔

الہلوع. گھبرانے والا۔ ڈر پوک۔ لالچی و

بخل۔ مصائب پر صبر نہ کر سکنے والا۔

الہلیاغ. ایک چھوٹا نرندہ جانور۔ یاز سیمی۔

الہلوف. بھاری بھر کم سخت بدن والا۔ بڑی

داڑھی والا۔ بہت بالوں والا۔ گھسی داڑھی۔ ابر

آلود دن جس میں آفتاب نہ نکلے۔ بہت اون

والا بوڑھا اونٹ۔ جنگلی سور۔

الہلوف. بہت بوڑھا۔ چھوٹا۔

الہلوفة. بہت چھوٹا۔ گھسی داڑھی۔ بڑھیا۔

الہلوفوف. سخت بدن اور بہت بالوں والا۔

هَلَق (ض) هَلَقًا وَ تَهَلَّقُ. جلدی کرنا۔

هَلَقَمُ الشَّيْءِ: ٹٹانا۔

الہلقام. لہب۔ موٹا۔ شیر۔ چوڑی باجھوں کا

اونٹ وغیرہ (و الہلقم) بڑا فیاض سرد راجو

لوگوں کی دیت وغیرہ کو اپنے اوپر برداشت کر

لیتا ہوا۔

الہلقام والہلقم والہلقامة والہلقامة

والہلقم. بہت کھانے والا۔

الہلقم. قوی۔ چوڑی باجھوں والا۔ بڑی

عورت۔ اور بڑے سمندر کو "بَحْرُ هَلَقَم" کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز کو نگل لیتا

ہے۔

هَلَك (ض ف س) هَلَاكًا وَ هَلَاكًا وَ هَلُوكًا وَ هَلُوكًا وَ تَهْلُوكًا وَ مَهْلُوكًا وَ تَهْلُوكَةُ

بتثلیث اللام فی الاخیرین: فنا ہونا۔

مرنا۔ نیست و نابود ہونا (عموماً اس کا استعمال

بڑی موت کے لیے ہوتا ہے (هَلَاكًا) اِلَيْهِ

وَ عَلَيْهِ: لالچی ہونا۔ بہت خواہش مند ہونا۔

هَلَكَةٌ وَ اَهْلَاكُهُ. فنا کرنا۔ نیست و نابود کرنا۔

اگر کوئی شخص کسی بڑے کام کو کرے تو اس سے

"هَلَكْتُ وَ اَهْلَكْتُ" کہا جاتا ہے اَهْلَكْتُ

الهِلَاثُ. ڈھیلا پن۔

الهِلْثِيُّ وَ الْهَلْثَاءُ وَ الْهَلْثَاءُ وَ الْهَلْثَاءُ

قِرَالِ الْهَلْثَانَةِ وَ الْهَلْثَةِ شُورِ بَچانے والی

جماعت۔ الْهَلْثَانَةُ وَ الْهَلْثَانَةُ: ڈھیلا پن۔

هَلَج (ض) هَلَجًا. ناقابل یقین خبریں

دینا۔

اَهْلَجُ الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔

الهِالِج. خواب ہائے پریشانی دیکھنے والا۔

الهِلَج. سر۔ ناقابل یقین خبریں۔ ہلکی نیند

(وَ الْهِلَج) خواب ہائے پریشانی۔

الهِلَج. ایک خاردار درخت۔

تَهَلَّجُ الرَّجُلُ: دامن سینیٹا۔ چوکس ہونا۔

جان و چوبند ہونا۔

هَلَسَ (ض) هَلَسًا الْمَرَضُ: لاغر کر

دینا۔

هَلَسَ. سل کی بیماری لاحق ہو کر عقل زائل

ہونا۔ مفت مہلوس۔

هَلَسَ الرَّجُلُ: لاغر ہونا۔

هَالَسَهُ مَهْلَسَةً. چپکے چپکے باتیں کرنا۔

اَهْلَسَ. آہستہ آہستہ ہنسنا اُخْبِرْنِي: پوشیدہ

کرنا اِلَى فُلَانٍ: چپکے سے کہنا الْمَرَضُ:

فُلَانًا: گھلا دینا۔

الهِالِس. فا۔ دلچے پتلے جسم والا۔ ج

هَوَالِس.

الهِالَس. سل کی بیماری۔

الهِلَس. سر۔ خیر کثیر۔ ڈبلا پن۔ پتلا پن۔ سل

کی بیماری۔

الهِلَس. مرض سے لاغر شدہ لوگ۔ کمزور

لوگ چاہے مرض سے لاغر نہ ہوں۔

المَهْلُوس. نیر۔ رَجُلٌ مَهْلُوسٌ الْعَقْلُ وَ

مُهْتَلِسُهُ: مسلوب العقل۔

ظَلَامٌ مَهْلِسٌ. مدہم اندیزرا۔

هَلِج (س) هَلَجًا. بے صبری سے شور۔

صفت هَلِج وَ هَلُوع. بھوکا ہونا۔

الهِلَج. لالچی۔

الهِالِج. فا۔ نَعَامٌ هَالِجٌ: تیز رفتار شتر

مرغ۔ کہا جاتا ہے "نَعَامَةٌ هَالِجَةٌ وَ هَالِجٌ"

ہونا۔ اِهْتَلَبَ السَّيْفَ مِنْ غِنْدِهِ: تلوار کو میان

سے سونٹنا۔

لَيْلَةٌ هَالِيَةٌ. بارش والی رات۔

الهِلْب. بال۔ پلکیں۔ اور بقول بعض موٹی

پلکیں۔ اور بقول بعض دم کے بال اور بقول

بعض سور کے بال۔ واحد هَلْبَةٌ.

الهِلْب. بہت بالوں والا۔

الْاَهْلَب. بہت بالوں والا۔ بے بال والا۔

ذَنْبٌ اَهْلَبٌ: کٹی ہوئی دم۔ غَامٌ اَهْلَبٌ

بہت بارش والا سال۔ سرسبز سال۔ عیش

اَهْلَبٌ: کشادہ آسودہ زندگی۔

الهِلْبَاءُ. الْاَهْلَبُ كَأَمْوَنٍ رَقِيَّةٌ هَلْبَاءُ

بہت بالوں والی گردن۔ کہا جاتا ہے "وَقَعْنَا فِي

هَلْبَةٍ هَلْبَاءٍ" ہم بڑی سخت مصیبت میں پڑ

گئے۔

الهِلْبَةُ. حلب کا واحد۔ بیڑو۔ ایک ستارہ۔

هَلْبَةُ الشَّهْرِ: مینے کا آخر۔ هَلْبَةُ الشَّتَاءِ او

الزَّمَانِ: جاڑے یا زمانے کی تختی۔

الهِلَابُ. اسم مبالغہ۔ بہت بھوک کرنے والا۔

بارش کے ساتھ سختی ہوا۔ غَامٌ هَلَابٌ:

بہت بارش والا سال۔ یَوْمٌ هَلَابٌ: ہوا اور

بارش کا دن۔ الْهَلَابُ وَ الْهَلِيبُ

وَ الْمَهْلَبُ: جنوری کے مینے میں بہت

سختی سے چند دن۔

الْهَلْبَانَةُ: بارش کے ساتھ سختی ہوا۔

الْاَهْلُوبُ. فن۔ طریت۔ اسلوب ج

اَهَالِيب.

الْمَهْلِيَّةُ: دودھ پیے ہوئے چاول اور چینی کا

حلوہ۔

هَلْبَةُ الشَّتَاءِ او الزَّمَانِ: جاڑے یا زمانہ کی

شدت۔

قَرَسٌ مَهْلُوبٌ. دم کٹا گھوڑا۔

المَهْلَبُ. بھوکا ہوا۔

هَلَّتْ (ن) هَلَّتْنَا الشَّيْءَ: چیلنا۔

انْهَلَّتْ. چھپلا جانا۔ اور کہا جاتا ہے "انْهَلَّتْ

بَعْدُو" وہ دوڑتا ہوا کھس گیا۔

الْمَالِ: بچنا۔

تَهْلِكُ فِي مَشِيهِ: مٹک کر چلنا۔

فِي الْمَفَاوِزِ: بیابان میں آوارہ و حیران پھرنا۔

تَهْلِكُ عَلَى الْفِرَاشِ: بسترے پر گرنا فی مَشِيهِ: مٹک کر چلنا عَلَى الشَّيْءِ: بہت خواہشمند ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا مُتَهْلِكٌ فِي مُوَدَّتِكَ" میں تمہاری دوستی کا بہت خواہش مند ہوں فِي الْأَمْرِ او الْعَدُوِّ: کوشش کرنا۔

أَنْتَهْلِكُ وَأَهْتَلِكُ: اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَرٌّ يَهْتَلِكُ فِي عَذْوِهِ" وہ گزر اس حال میں کہ دوڑنے میں کوشش کر رہا تھا۔

إِسْتَهْلِكُهُ: ہلاک کرنا۔ إِسْتَهْلَكَ الْمَالُ: مال خرچ کرنا۔ ختم کرنا فِي الْأَمْرِ: جلدی کرتے ہوئے کوشش کرنا۔

الِهَالِكِ: فاج ہلکی و هَلَك و هُلَاك و هَوَالِكِ (اور یہ ساذ ہے جیسے فَوَارِس و نَوَاصِيس)

الِهَالِكَةُ: الْهَالِكِ کا مؤنث۔ نفسِ حریص۔ الْهَالِكِيُّ: لوہار (ہالک بن عمرو بن اسد بن خزیمہ کی جانب منسوب کہ لوہاری کا کام اسی نے شروع کیا تھا)

الِهَالِكِ وَالِهَلِكِ: ہلاکت۔ تم کہتے ہو "لَاذَهَبِيْنَ فَيَا هَلِكِ وَإِمَا مَلِكِ" یعنی میں جاؤں گا یا تو تخت نصیب ہو گا یا تخت۔

الِهَالُوْكُ: سکھیا۔

الِهَلِكِ: قحط سالی کے سال۔ وَاَحَدُ هَلِكَةٍ: مردار کی لاش۔ پہاڑ کی چوٹی اور دامن کا درمیانی حصہ۔ دو چیزوں کے درمیان کی فضا۔ گرنے والی چیز۔

الِهَلِكِ: ہلاک ہونے والا نفس۔

الِهَلِكَاءُ: ہلاکت۔ تاکید کے لیے "هَلِكَةٌ هَلِكَاءٌ" بولا جاتا ہے۔

الِهَلِكَةُ: هَلِكِ کا اسمِ نوع۔ گرنے والی جِ هَلِكِ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ هَلِكَةٌ مِّنْ

الِهَلِكِ"

الِهَلِكَةُ: ہلاکت۔ الْهَلِكُ: الْهَلِكِ کا واحد جِ هَلِكَاتُ:

الِهَلَاكُ: فقراء۔ چارہ پانی تلاش کرنے والے لوگ جو راستہ کھو چکے ہوں۔

الِهَلِكُوْنَ وَالِهَلِكُوْنَ: قحط زدہ زمین اگرچہ پانی اس میں ہو۔ ایسی زمین جس پر ایک زمانہ دراز سے بارش نہ ہوئی ہو۔

الِهَلُوْكُ: بدکار عورت جِ هَلِكُ:

الِتَهْلُكَةُ: بردہ چیز جس کا انجام ہلاکت ہو۔

الِتَهْلُوْكُ: ہلاکت۔

أَهْلَكَ النَّاسُ: لوگوں میں زیادہ ہلاک ہونے والا۔

الْمُهْتَلِكِ: وہ شخص جس کی تمنا یہی ہو کہ کسی کا مہمان بنے۔ مفت خور۔

الْمُهْتَلِكُوْنَ: چارہ پانی تلاش کرنے والے جو راستہ کھو چکے ہوں۔

الْمَهْلِكَةُ وَالْمَهْلِكَةُ وَالْمَهْلِكَةُ: ہلاکت کی جگہ۔ بیابان جِ مَهَالِكِ: الْمَهَالِكِ:

لِزَبَانِ: کہا جاتا ہے "طَرِيقٌ مُسْتَهْلِكٌ الْوَرْدُ" دشوار گزار تھا دینے والا راستہ۔

أَهْلَمَ بَفَلَانٍ: بلانا۔ پکارنا۔

الِهَلْمُ: ڈھیلا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ هَلْمٌ وَامْرَأَةٌ هَلْمَةٌ"

الِهَلْمُ: هَلْمٌ کا جواب۔ جب کوئی شخص مطیع ہو جائے تو کہا کرتے ہیں "جَادَ بَهَلْمِهِ"

الِهَلْمُ: پہاڑی ہرنیاں۔

هَلْمٌ: آؤں لازم ہے اور کبھی متعدی مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے "هَلْمٌ شَهِدْنَاكُمْ" یعنی اپنے

گواموں کو حاضر کر دو۔ اور یہ اسمائے افعال میں سے ہے جس میں واحد جمع مذکر مؤنث سب مساوی ہیں اور اس کی تصریف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو فعل قرار دیتے ہیں اور اس کے آخر میں ضمائر لائق کرتے ہیں۔ شی کے لیے هَلْمَتْ مَوْثٌ کے لیے هَلْمَتِي جمع مذکر کے لیے هَلْمْتُمْ اور جمع مؤنث کے لیے هَلْمْتُنَّ۔

یہی خیال اکثر عرب کا ہے اور پہلا صحیح ہے۔

اور کبھی لام لگایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے هَلْمٌ لَكَ وَ هَلْمٌ لَكُمْ۔ اور کبھی نون ثقیلہ لاحق ہوتا ہے جیسے هَلْمُنَّ يَارْجُلُ وَ هَلْمُنَّ يَا امْرَأةُ وَ هَلْمَانُ يَارْجُلَانِ وَ يَا امْرَاتَانِ وَ هَلْمُنَّ يَا رِجَالًا وَ هَلْمُنَّانَ يَا نِسوةً۔

الِهَلَامُ: ایک قسم کا کھانا جو بھجڑے کے گوشت مع پوست کے تیار کیا جاتا ہے۔ سلکباج کا شور با جس کو ٹھنڈا کر کے روغن سے صاف کر دیا گیا ہو۔

الِهَلِيمُ: چکنے والا۔

الِهَلِيُوْ سَكُوْبٌ: دور بین۔

هَلِيُوْ كُوْبِتْرٌ: نیلی کا پتھر۔ (یونانی لفظ)

الِهَلِيُوْمُ: ایک گیس والا عنصر گاڑھا خفیف وزن والا جس کو آگ نہیں لگتی قدرتی پٹرول کے چشموں سے نکالا جاتا ہے۔

الِهَلِيُوْنُ: وَاَصْهَلِيُوْنِيَّةُ: وہ پودا جس کے تنے زمین اندر ہوتے ہیں ان تنوں کو بھون کر کھایا جاتا ہے۔ اس کے پھل سرخ اور خوبصورت ہوتے ہیں۔

الِهَلِيْمَانُ وَالِهَلِيْمَانُ وَالِهَلِيْمَانُ بہت چیز۔ اور بقول بعض خیر کثیر۔ کہا جاتا ہے "جَاءَنَا بِالِهَلِيْلِ وَالِهَلِيْمَانِ" نارے پاس بہت مال لے کر آیا۔

هَلْمَمَ هَلْمَمَةً بَفَلَانٍ: سی۔ هَلْمٌ لہہ کے پکارنا۔

هَلْهَلُ النَّسَاجِ الثَّوْبِ: کپڑے کو باریک بناؤصوت: گلے میں آواز پھرانا الشَّعْرِ:

شعر عمدہ بنانا۔ بغیر اصلاح و تہذیب کے جیسا کہا ہو ویسا ہی سنا دینا۔

الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ: انتظار کرنا۔ دیر کرنا الطَّحِيْنُ: آنے کو باریک چھاننا عَلَى الشَّيْءِ: واپس ہونا۔ لَوْثُ الْفَرَسِيَّةِ: ہلاکہ کے ڈانٹنا۔ اور کہا جاتا ہے "هَلْهَلُ يَذْرُكُهُ" بخمٹے کاذ

يَذْرُكُهُ:

الِهَلَاهِلُ وَالِهَلْهَالُ وَالِهَلْهَلُ عمدہ شعریا باریک کپڑا۔ الِهَلَاهِلُ: بہت اور صاف پانی۔

وَالِهَلْهَلُ: خراب پانی کا پتھر۔

الْهَلْهَلُ برف۔

هَالَاةٌ مَهْلَاةٌ جھڑا کرنا۔

الْهَالِي هائل کا مقلوب۔ یعنی ہولناک۔

هَلَا كھوڑوں کے لیے کلمہ زجر۔

حَيْهَلَا دیکھو لہجہ ہی۔

الْهَلْيُون ایک قسم کی نرم گھاس ہے جو کھائی

جاتی ہے جس کو فارسی میں مارچو بہ و مار گیاہ اور

ہندی میں ناگدون کہتے ہیں۔ واحد هَلْيُونَةٌ۔

هَمَّ (ن) هَمًّا و مَهْمَةً الْأَمْرُ فَلَانًا:

رنجیدہ کرنا۔ غمگین کرنا السَّقْمُ جَسْمَةً:

بیماری کا جسم کو گھلادینا فَلَانًا الشَّحْمُ: چربی

پگھلانا۔

الشَّمْسُ النَّالِجُ آفتاب کا برف کو پگھلانا۔

اللَّبَنُ دودھ دوہنا (هَمًّا) بِالشَّيْ ارادہ

کرنا۔ چاہنا۔ پختہ ارادہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے

”وَقَعَتِ السُّوسَةُ فِي الطَّعَامِ فَهَمَّتَهُ“

غلہ میں گھن پڑ گئے اور غلہ کے گودے کو کھا کر

کھوکھلا کر دیا۔

هَمَّ (ن) هُمُومَةً و هَمَامَةً الرَّجُلُ:

بہت بوڑھا ہونا۔

هَمَّتْ (ض) هَمًّا و هَمِيمًا خَشَاشُ

الْأَرْضِ تَرْمِين کے کیڑے کوڑوں کا ریگنا۔

هَمَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِ الصَّبِيِّ لُورِي

سے سلانا۔ جو نکالنا۔

أَهَمَّ الشَّيْخُ: بہت بوڑھا ہونا الْأَمْرُ فَلَانًا:

رنجیدہ کرنا۔ غم میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے ”أَهَمَّهُ

الْأَمْرُ حَتَّى هَمَّهُ“ اس کو معاملے نے غمگین

کیا یہاں تک کہ گھلادیا۔

تَهَمَّتِ الشَّيْ سَلاش کرنا۔ ڈھونڈنا

رَأْسَهُ جَوْعِيں نکالنا۔

إِنْهَمَّ الشَّيْخُ: بہت بوڑھا ہونا الشَّحْمُ او

الْبُرْدُ: پگھلانا۔ گھلنا العَرَقُ فِي جَبِينِهِ: پینہ

پہنا۔ إِنْهَمَّتِ الْقَوْلُ نَائِدِيوں میں پکایا جانا۔

إِنْهَمَّ الرَّجُلُ: غمگین ہونا لَهُ بِأَمْرِهِ اِهْتِمَامُ

کرنا۔

اسْتَهَمَّهُ بِالْأَمْرِ وَ فِي الْأَمْرِ: متوجہ کرنا۔

مَشغُول ہونے کی خواہش کرنا۔ اسْتَهَمَّ فَلَانٌ

امور قوم میں محنت اٹھانا۔

الْهَامَةُ ہرزہ دار کپڑا جیسے سانپ وغیرہ۔ ج

هَوَامٌ اور بھی هَوَامٌ کا اطلاق ان کیڑوں پر

بھی ہوتا ہے جو زہر دار نہیں۔ جیسے حدیث میں

ہے ”أَبُو ذَيْنَبٍ هَوَامٌ رَأْسِكَ“ کہ یہاں پر

هَوَامٌ رَأْس سے مراد جو مین ہیں۔

الْهَمَامُ عالی ہمت بادشاہ۔ بہادر نخی سردار

(مردوں ہی کے لیے مخصوص ہے) شِرٌّ مِنْ

النَّالِجِ او الشَّحْمِ: پگھلی ہوئی برف یا چربی ج

هَمَامُ۔

الْهَمُّ س۔ غم ج هُمُومٌ ارادہ۔ جس کا ارادہ

کیا جائے یا جس کے کرنے کیلئے فکر کی جائے اور

کہا جاتا ہے ”هَذَا رَجُلٌ هَمُّكَ مِنْ رَجُلٍ“

یہ شخص تمہارے لیے فلاں شخص سے کافی

ہے۔ ”وَهَذَا رَجُلٌ هَمٌّ“ یعنی یہ شخص

صاحب ہمت ہے۔

الْهَمُّ بجز فرقت ج اَهْمَامٌ: ڈبلا پتلا۔ قَدَحٌ

هَمٌّ: ٹوٹا ہوا لہ انا پیالہ۔

الْهَمَامُ: کر گزرنے والا آدمی۔ چغل خور۔

الْهَمَّةُ بجز فرقت۔ بہت بوڑھا۔ ج هَمَاتٌ

و هَمَانِيمُ۔

الْهَمَّةُ وَالْهَمَّةُ: ہمت۔ قصد۔ ارادہ۔

خَوَاشٍ۔ ابتدائے عزم۔ عزم توی۔ کہا جاتا ہے

”لَهُ هَمَّةٌ عَالِيَةٌ وَهُوَ بَعِيدُ الْهَمَّةِ“ ج

هَمَمٌ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ رَجُلٌ

هَمَّتَكَ مِنْ رَجُلٍ“ یہ شخص تمہارے لیے

فلاں شخص سے کافی ہے۔

سَحَابَةٌ هُمُومٌ بارش برسانے والا بادل۔

بَنَرٌ هُمُومٌ: بہت پانی والا کنواں۔ نَاقَةٌ

هَمُومٌ: خوش رفتار اونٹنی۔ اور کہا جاتا ہے

”قَصَبٌ هَمُومٌ“ کرکل جس کو ہوا ہلا دے۔

الْهَمِيمُ نرم ہرقاری۔ سرایت۔ کہا جاتا ہے

”لِلشَّرَابِ هَمِيمٌ فِي الْعِظَامِ“ شراب کا

اثر ہڈیوں تک میں ہے مِنَ الْمَطَرِ: ہلکی

بارش۔

الْهَمِيمَةُ: چھوٹی چھوٹی بوندوں کی آہستہ

بارش ج هَمَانِيمُ۔

التَّهْمِيمُ س۔ ہلکی بارش۔

المُهْمٌ فاد۔ شدید معاملہ۔ مشغول کرنے والا

معاملہ۔ ج مَهَامٌ۔

المُهْمَةُ مؤنث المُهْمٌ ج مِهْمَاتٌ۔

المُهْمَاتُ مِنَ الْأُمُورِ: سخت اور اہم امور۔

کہا جاتا ہے ”لَا مَهْمَةَ لِي بِذَلِكَ“ یعنی مجھے

نہ تو اس کا قصد ہے نہ کروں گا۔

المُهْمُومُ س۔ غمگین۔ پگھلا ہوا۔

هَمًّا يَهْمَا هَمًّا الثَّوْبُ: کپڑا کھینچ کر پھاڑنا۔

بوسیدہ کرنا۔ أَهْمًا الثَّوْبُ: کپڑا پھاڑنا اور

بوسیدہ کرنا۔

إِنْهَمًا وَ تَهْمًا الثَّوْبُ: کپڑا پھٹنا اور بوسیدہ

ہونا۔

الْهَمُّ پُرانا بوسیدہ کپڑا ج أَهْمَاءُ۔

هَمَّتْ (ن) هَمًّا الثَّرِيدُ: چکنائی سے تر

ہونا۔

أَهَمَّتِ الْكَلَامُ او الضَّحْكُ: آہستہ

آہستہ باتیں کرنا۔ چپکے چپکے ہنسا۔

هَمَجَتْ (ن) هَمَجًا الْإِبِلُ مِنَ الْمَاءِ:

ایک ہی مرتبہ پانی پی کر سیراب ہونا۔ صفت

هُوَ امِجٌ (هَمَجًا) بھوکا ہونا۔

أَهْمَجَ الْقَرَسُ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔

الشَّيْ بوسیدہ کرنا۔

إِهْتَمَجَ الرَّجُلُ: کزور ہونا وَجْهَهُ پڑمردہ

ہونا۔

الْهَامِجُ انبوه جس کا کوئی قاعدہ ہو۔ بے

چرواہے کے ریوڑ۔ بے افسر کے فوج اور

”هَمَجَ هَامِجٌ“ کا اطلاق کینے لوگوں پر ہوتا

ہے اور یہ بطور تاکید ہے جیسے ”لَيْلٌ لَائِلٌ“

میں۔

الْمَهْمَجُ س۔ بھوک۔ بدانظامی۔ ایک قسم کا

مچھر۔ چھوٹی قسم کی کبھی جو جانوروں کے منہ

اور آنکھ پر بیٹھتی ہیں۔ دُبْلَى بکری۔ واحد

هَمَجَةٌ. الْمَهْمَجُ بوقوف لوگ۔ کہا جاتا ہے

”رَجُلٌ هَمَجٌ وَهَمَجَةٌ وَامْرَأَةٌ هَمَجَةٌ وَ

رَجَالٌ هَمَجٌ وَ قَوْمٌ هَمَجٌ“ ناکارے

لوگ۔ ج أَهْمَاجُ۔

الْهَمِيح مِنَ الطَّيِّبِ: جوان خوبصورت ہرن
مِنَ الرَّجَالِ: بیکے ہوئے پیٹ والا۔
هَمَدَتْ (ن) هَمُوْدًا النَّارُ: وحشی ہونا،
بھٹنا۔ هَمَدَ الْقَوْمُ: مرنا۔ کہا جاتا ہے
”كَأَدْيِهِمْ مِنَ الْجُوعِ“ وہ بھوک سے
قریب الہرگ سے صفت ہا ہد و هَمْدٌ و
هَمِيْدٌ۔ هَمَدَتْ أَصْوَاتُهُمْ خاموش ہونا۔
آواز بند ہونا۔
هَمَدَ (ن) هَمْدًا و هَمُوْدًا النَّوْبُ:
پرانے ہونے کی وجہ سے تہوں پر سے پھٹنا۔
صفت ہاھدج هَمْدٌ۔ هَمَدَتْ الْأَرْضُ:
بجھڑ ہونا۔ اوسر ہونا۔ هَمَدَ شَجَرُ الْأَرْضِ:
درخت کا پرانا ہوا کر ضائع ہونا۔
هَمْدَةٌ۔ بجمائے۔
أَهْمَدَ فِي الْمَكَانِ: اقامت کرنا فی
السَّيْرِ: تیز چلنا الِكَلْبِ: تیز دوڑنا۔
الْقَوْمِ فِي الطَّعَامِ: کھانے پر ٹوٹ پڑنا۔
أَهْمَدَتِ الرِّيحُ: ہوا کا ٹھہر جانا الِهَدِيَّةِ
عَضْبَةٍ: غصہ فرو کرنا۔ بجمائے أَهْمَدَ فَلَانٌ:
ناگوار چیز پر خاموش رہنا أَصْوَاتِ الْقَوْمِ:
خاموش ہونا۔ آواز بند ہونا۔
الْقَحْطِ الْأَرْضِ: خشک کر دینا۔ کہا جاتا ہے
”أَتَوْا عَلَى قَوْمٍ فَأَهْمَدُوهُمْ“ وہ لوگ قوم
کے پاس آئے اور ان کو مار ڈالا۔
الِهَامِدُ: پرانا کالا متغیر شدہ۔ خشک نباتات
و درخت۔ بجز زمین۔ ج ہوامید۔
الْمُهْمَدُ: آواز کو زیادہ کرنے کا آلہ۔
الِهَمْدَةُ: سکتہ۔
الِهَمِيْدُ: وہ مال جو کسی کے ذمہ حکومت کے
دفاتر میں لکھا ہو۔
الِهَمَادِيُّ: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّهُ
لَلدُّوْ هَمَادِيُّ فِي جَزِيْبِهِ“ وہ چلنے میں تیز
رفتار ہے۔ تیز رفتار اُونٹ یا اونٹنی۔ بارش کی
شدت۔ گرمی کی سختی۔
هَمْدَانُ: ایک شہر کا نام جو مملکت ایران میں
ہے۔
الِهَمْدَانِيُّ: ہمدان کی جانب منسوب۔ بہت

بولنے والا مِنَ الْمَشْيِ: مختلف چالیں چلنا۔
کہا جاتا ہے ”هُوَ يَمْشِي هَمْدَانِيًّا“ وہ مختلف
چالیں چلتا ہے۔
هَمْرٌ (ن) هَمْرًا: الْمَاءُ: پانی گرنا الْمَاءُ:
پانی گرنا۔ بہنا۔ کہا جاتا ہے ”هَمَرَتِ الْعَيْنُ
بِالدَّمْعِ“ آنکھ نے آنسو بہایا۔ هَمْرٌ مَا فِي
الصَّرْعِ: سارا تھن دوہ لینا الْكَلَامِ و فِي
الْكَلَامِ: بہت بولنا الْفَرَسِ الْأَرْضِ گھوڑے
کا سخت ٹھوکریں مارنا لِفَلَانٍ مِنْ مَالِهِ: دینا
الْبِنَاءِ: عمارت ڈھانا۔
هَامِرَةٌ مَهَامِرَةٌ الشَّيْءُ: کل لے لینا۔
الِهَمْرُ الْمَاءُ: پانی بہنا الشَّجَرَةَ: جھڑے
ہوئے پتوں والا ہونا الْبِنَاءِ: عمارت گرنا۔
دیران ہونا۔ سہارا ہونا۔
الِهَمْرُ الْفَرَسُ: گھوڑے کا دوڑنا الْفَرَسُ
الْأَرْضِ: گھوڑے کا سخت ٹھوکریں مارنا۔
الِهَامِرُ: فَا۔ سحابِ هَامِرٌ: خوب برسنے
والا بادل۔
الِهَمْرُ: موٹا مرد۔ رَمْلٌ هَمْرٌ: بہت
ریت۔
الِهَمْرَةُ: هَمْرٌ کا اسمِ مرثہ۔ بوجھار۔ غصہ
سے گفتگو کرنا۔ الِهَمَارُ مِنَ السَّحَابِ:
بہت برسانے والا بادل۔ بہت
بک بک کرنے والا۔
الِهَمِيْرُ وَالِهَمِيْرَةُ: بہت بڑھیا۔ ظنی
ہمیں: پتھے بدن والی ہرنی۔
الْمِهْمَرُ وَالْمِهْمَارُ: بہت بک بک کرنے
والا۔ الْمِهْمَارُ: مہمانوں کی بہت ضیافت
کرنے والا۔
الِيَهْمُوْرُ: بہت بک بک کرنے والا۔ بہت
ریت۔
هَمْرَجٌ: عَلَيْهِ الْخَبِيْرُ بگڑ بوخر بیان کرنا۔
الِهَمْرَجَةُ: خبر میں گڑبڑی۔ اختلاط۔ ٹھنٹ۔
سرعت۔ لوگوں کا شور۔ باطل۔
الِهَمْرَجَلُ: تیز رفتار اُونٹ دا اونٹنی۔
الِهَمْرُ جَانُ: لوگوں کا شور۔
تَهْمَرُشُ الْقَوْمِ: حرکت میں آنا۔ اور اسم

الِهَمْرُشَةُ:
الِهَمْرُشُ: حرکت۔
الِهَمْرُشُ: بہت بڑھیا۔ بہت دودھ والی
اونٹنی۔
هَمْرَةٌ (ن ض) هَمْرًا: دہانا۔ بھینٹنا۔
چھوٹا۔ دفع کرنا۔ مارنا۔ دانت سے کاٹنا۔ پیچھے
پیچھے غیب کرنا۔ صفت هَمَارٌ و هَمْرَةٌ:
توڑنا۔ هَمْرُ الشَّيْطَانِ الْإِنْسَانِ: شیطان کا
دوسو ڈالنا بِه الْأَرْضِ: بچھاڑنا الْفَرَسِ
گھوڑے کو دوڑانے کے لیے مہمیز چھوٹا۔
الْعَبَبُ أَوْرَاسُهُ: ٹھوڑا الْكَلِمَةَ او
الْحَرْفِ: ہمزہ کے ساتھ بولنا یا ہمزہ کی
علامت لگانا۔
الِنْهَمْرَتُ الْكَلِمَةَ او الْحَرْفِ: ہمزہ کے
ساتھ پڑھا جانا یا ہمزہ کی علامت والا ہونا۔
الِهَامِرُ: فَا۔ عیب گیری کرنے والا۔ ج
هَمَارٌ و هَامِرُوْنَ:
الِهَمْرُ: س۔ هَمْرُ الشَّيْطَانِ: جنون۔ کہا
جاتا ہے: رِيْحٌ هَمْرِيٌّ: تیز آواز والی ہوا
”قَوْسٌ هَمْرِيٌّ“ زور سے تیر پھینکنے والی
کان۔
الِهَمْرَةُ: هَمْرٌ کا اسمِ مرثہ۔ حروفِ بجا کا
حرف۔ ج هَمْرَاتُ: هَمْرَاتُ الشَّيْطَانِ:
شیطانی خطرے۔
الِهَمْرَةُ: عیب جو کتبہ میں۔ کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ هَمْرَةٌ وَأَمْرَةٌ هَمْرَةٌ“ عیب جو
مرد۔ عیب جو عورت۔
الِهَمَارُ: عیب جو۔ طعن تشنیع کرنے والا۔
قَوْسٌ هَمْرُوْرٌ: زور سے تیر پھینکنے والی کان۔
رَجُلٌ هَمِيْرٌ الْفَأْدُ: تیز طبیعت مرد۔
الْمِهْمَرُ وَالْمِهْمَارُ: مہمیز ج مہماز و
مہامیز۔
الْمِهْمَرَةُ: چابک تازیانہ۔ ڈنڈا جس کے
سرے پر لوہا لگا ہو۔ اور جانور کے تیز کرنے کے
لیے کام میں لایا جائے۔
هَمْسٌ (ض) هَمْسًا الصَّوْتُ: آواز کو
پست کرنا اِلَى بَحْدِيْنِيْهِ: آہستہ آہستہ باتیں

کرنا العنب: انگور کو نچرنا الشی: توڑنا
الطعام: منہ بند کر کے چبانا الشیطان:
دوسرے والیا بالقدم: آہستہ قدم رکھنا
الرّجُل: بغیر سستی کے رات میں چلنا۔
ہامسة مہامسة: چپکے چپکے باتیں کرنا۔
تہامسا: باہم چپکے چپکے باتیں کرنا۔ کہا جاتا
ہے ”تہامسوا سیراً“ انہوں نے رازدارانہ
باتیں کیں۔

الہمس: سہ پست آواز۔ آہستہ قدم۔ کہا
جاتا ہے ”هُوَ يَطَأُ الْأَرْضَ هَمْسًا“ وہ زمین
پر آہستہ قدم سے چلتا ہے ”وَيَتَكَلَّمُ هَمْسًا“
وہ آہستہ بولتا ہے۔ ”هُوَ يَأْكُلُ هَمْسًا“ وہ
کھانے میں منہ نہیں کھولتا ”وَأَخَذَتْهُ أَخْذًا
هَمْسًا“ میں نے اس کو سختی سے پکڑا۔

الہمّاس: اسم مبالغہ۔ شکار کو پھانسنے والا
شیر۔ الہمّوس: رات میں چلنے والا۔ شکار کو
پھانسنے والا شیر۔ آہستہ قدم سے چلنے والا شیر
الہمیس: آہستہ چال۔ اونٹ کے پاؤں کی
آہستہ۔

المہمّوس: منع من الکلام: غیر
واضح من الحروف: ضد مجبور ءاور
حروف مہوسہ دس ہیں جن کا مجموعہ ”حخه
شخص فسکت“ ہے۔

ہمّش (ن) ہمّشا الشی: جمع کرنا۔
فلاناً: وانت سے کاٹنا۔

ہمّش (ض) ہمّشا و ہمّش (س)
ہمّشا الرّجُل: بہت تک تک کرنا۔

القوم: بولنا اور حرکت میں آنا الجراد:
نڈیوں کا ظاہر ہونے کے لیے حرکت کرنا۔

ہامسة مہامسة: جلدی کرنا۔

تہمّش منبٹ البنو: کونیس کے سوت کا
جاری ہونا الشی: کھوکھلا ہونا۔

تہامش القوم: آپس میں گڈمڈ ہونا اور
حرکت کرنا۔

اھتمّش القوم: مخلوط ہونا اور آگے پیچھے
ونا۔ اھتمّست الدابة او الجراد:
آہستہ چلنا۔ ریگنا۔

الہامیش: فا۔ کتاب کا حاشیہ (مولد)

الہمّش: سہ کھانے کی تیزی۔

امرأة همّشی او همّشی الحدیث بہت
بولنے والی اور شور مچانے والی عورت۔

الہمّش: اگلیوں سے تیز کام کرنے والا۔

الہمّيشة: ہانڈی میں پکی ہوئی نڈی۔ اور اگر
آگ پر بھوئی جائے تو اسے المحسوس کہتے

ہیں۔

الرّجُل: کس کو پچھا کر اور پینھنا اور قتل کرنا۔

ہمّط (ض) همّط الرّجُل: ظلم کرنا۔

بولنے اور کھانے میں لا پرواہ ہونا الشی: بغیر
اندازہ کے لینا المال: زبردستی لے لینا۔

تہمّط و اھتمّط المال: زبردستی لے

لینا۔ اھتمّط عرض فلان: بے آبروی

کرنا۔ گالی دینا الذنب الشاة: بھیڑیے کا

بکری کو پکڑنا۔

الہمّاط: ظالم۔

ہمّعت (ف ن) همّعا و همّعا و

همّوعا و همّعانا و تهمّعا العين: آنسو

بہانا۔ اور همّعت العين بالدمع بھی بولا

جاتا ہے و همّع الطلّ علی الشجرة: شبنم

گرنا۔ همّع راسہ: زخمی کرنا۔

اھمّع الذمّع و نحوہ آنسو بہنا الطلّ

درخت پر شبنم گرنا۔

تہمّع الرّجُل: جھکنا و ذمّع و

نحوہ: آنسو بہنا۔

اھتمّع لونه: رنگ بدل جانا۔

الہامیعة: الہامع کا مؤنث ج ہوامع

دُموع ہوامع: بننے والے آنسو۔

سحاب همّع: برسنے والا بادل۔ عین

ہمّعة: ہمیشہ روتی ہوئی آنکھ۔

الہمّوع: بننے والا۔

الہمیع: فوری موت۔

همّع (ف) همّعا راسہ: سر توڑنا۔

انهمّفت الرطبة: ترکھجور کا پھٹ جانا

القرحة: زخم کا برابہونا۔

الہمیع: موت یا فوری موت۔

الہمّوق: نرم گھاس۔ بہت گھاس۔ خشک

گھاس۔

همّك (ن) همّكا فی الامر: کسی کام

کے لیے کسی پر زور دینا۔

تہمّك و انهمّك فی الامر: کسی کام میں

منہک ہونا۔ بے حد مصروف ہونا۔

اھمّك اھمّك اھمّك الرّجُل: غصّہ سے بھر

جانا۔ صفت مہمّتك۔

همّلت (ن ض) همّلا و همّلا و

همّولا عینہ: آنسو بہانا السماء: آہستہ

آہستہ لگاتار برسا۔

همّلت (ض) همّلا الابل: بغیر چرواہے

کے آزادانہ پھرنا۔ صفت ہامل ج ہوامیل و

همّولة و ہاملّة و همّلت و همّلت و

همّال و همّلی۔

اھمّلة: جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دینا۔

اھمّلت امرؤ: اچھی طرح سے نہ کرنا

الحرف حرف پر نقطے نہ لگانا۔

انهمّلت عینہ: آنسو بہانا السماء: لگاتار

برسا۔

الهمّلت: پیوند لگا ہوا کپڑا۔

الهمّلت من الابل: رات یا دن میں بغیر

چرواہے کے چھوڑے ہوئے اونٹ۔ اتارا ہوا

تھجور کا چھلکا۔ بے روک کے بننے والا پانی۔

الهمّلت: چھوٹا مکان۔

الهمّلت: عمر رسیدہ۔

الهمّال: نرم، ویران زمین جس کو کوئی آباد

نہ کرے۔

الهمّالیل: گھاس کا بقیہ۔ پھنا ہوا کپڑا۔

المهمّلت: سبب الکلام: غیر مستعمل۔

من الحروف: غیر منقوٹ حروف۔

همّلت همّلت البرذون: تیز رفتاری کے

ساتھ نرم چال چلنا۔ عمدہ چال والا ہونا۔

الهمّلاج: عمدہ چال کا ترکی گھوڑا۔ ج

همّالیح: اور کہا جاتا ہے ”ذابّة همّلاج“

تیز رفتاری کے ساتھ اچھی چال والا جانور۔

نذکر مؤنث اس میں برابر ہیں۔

”وَأَكَلْتَهُ هَيْئًا مَرِيئًا“ میں نے اس کو بغیر کسی مشقت کے بڑے مزے سے کھایا ”وَهَيْئًا لَكَ“ تمہارے لیے بغیر مشقت کے ہے۔
 الْمَهْنَةُ: بلا مشقت حاصل ہونے والی چیز۔
 هَنْبَتٌ هَنْبَتَةُ الرَّجُلِ: ڈھیلا ہونا۔ ست ہونا۔

الْمَهْنَةُ: مشکل کام۔ قول میں گڑبڑی ج هَنْبَاتٌ: الْهَنْبَاتُ: مصیبتیں۔ گڑبڑ معاملے۔ گڈمڈم خبریں۔

الْمَهْبَدَةُ: سخت کام۔ ج هَنْبَادٌ: الْهَنْبَائِيرُ: ریت کے بلند ٹیلے۔

هَنْبُورَةٌ (اور ہینہائیر کا مقلوب ہے) الْهَنْبِيرُ: گدھے کا بچہ۔ بچو کا بچہ۔

الْهَنْبِيرَةُ وَالْهَنْبِيرَةُ وَالْهَنْبِيرُ: بچو۔ الْهَنْبِيرَةُ هَنْبِيرٌ كَامُونُفٌ: گدھی۔

الْهَنْبِيرُ: تیل۔ گھوڑا۔ خراب چڑا۔ یا اس کا کنارہ۔

الْمَهْبُورُ: ریت کا بلند ٹیلہ۔ هَنْبَسٌ وَتَهَنْبَسٌ: خبروں کی کھوج میں ہونا۔

الْمَهْنُوعُ: لڑکیوں کے لیے نقاب جیسی ایک چیز جس کے اگلے حصے کو سی دیتے ہیں۔

هَنْبَعُ الرَّجُلِ: بھوکا ہونا الْعَجَاجُ: غبار کا بہت ہونا اور اڑنا۔

الْمَهْنُوعُ: ذرا سی حرکت سے اڑنے والی خاک۔ شیر۔ بدکار بیوقوف عورت۔ بھوک کی سختی۔ اور بھوک کی صفت میں کبھی واقع ہوتا ہے۔ کہا

”جَاتَا بِدَجْوَعٍ هَنْبُوعٍ وَهَنْبَاغٍ وَهَنْبُوعٌ“ یعنی سخت بھوک۔

هَنْبَلُ الرَّجُلِ: لنگڑا ہونا اور بھوک کی طرح چلنا۔

هَنْتَبٌ فِي أَمْرِهِ: سستی کرنا۔ تَهْنِجُ الْفُصَيْلِ: اونٹ کے بچے کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا۔

هَنْدُ الرَّجُلِ: اُلُو کی طرح پینچلی اَلْأَمْرُ: کوتاہی کرنا فَلَانًا: قبیح گالی دینا نَنْدٌ: گالی برداشت کرنا اور گالی دینے والے کو گالی دینے

هَنَا: بِتَثْلِيثِ الْهَيَاءِ: دُور کی جگہ کے لیے اَشْرَاهُ: وہاں۔ اس جگہ۔ اور کہا جاتا ہے ”تَنْحَ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا“ کچھ ہٹ جاؤ۔

هَنَاءُ يَهْنُوهُ وَ يَهْنِيَهُ هَنَا: کھانا۔ هَنَا فَلَانًا: دینا الْإِبِلَ: اونٹ پر قطران ملنا الرَّجُلِ: مدد کرنا۔

هَنَا يَهْنِي وَ يَهْنَا وَ يَهْنُو هَنَا وَ هَنَا وَ هَنَاءُ الطَّعَامِ: کھانا تیار کرنا۔ دُرُوسٌ کرنا۔ هَيْئٌ (س) هَنَا وَ هَنَا يَه: خوش ہونا۔ الطَّعَامِ: کھانے سے لطف اٹھانا۔ لَذْتُ پانا۔ اور کہا جاتا ہے ”أَكَلْنَا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ حَتَّى هَيْئْنَا مِنْهُ“ اس کھانے کو ہم لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے۔ هُنُو يَهْنُو هَنَاءً وَ هَنَاءً وَ هَنَا بَغَيْرِ رَجْحٍ وَ مَشَقَّتٍ كَمَا صَارَ هُنَا وَ هَنَا تَهْنِيْنَا وَ تَهْنِيَةُ بَكْدَا: مبارکباد دینا۔ أَهْنَاءُ أَهْنَاءٌ: دینا۔ تَهْنَأُ تَهْنُؤًا يَه: خوش ہونا الطَّعَامِ: کھانے سے لطف اٹھانا۔ لَذْتُ پانا۔ إِهْنَاءٌ إِهْنَاءٌ: درست کرنا۔ اسْتَهْنَأُ اسْتَهْنَاءً: مدد طلب کرنا۔ عطية مَا كَلَّمَا الطَّعَامِ: خوشگوار کھانا۔ الْهَنْائِيُّ: فَا۔ خَامٌ۔ الْهَنْاءُ: قطران (تار کول) کھجوروں کا پھل۔ الْهَنْءُ: قطران یعنی تار کول ملنا۔ عطية۔ رات کا حصہ۔ الْهَنْيَةُ: خوشگوار۔ بلا مشقت کے حاصل ہونے والی چیز۔ ابدال اور ادغام کر کے الْهَنْيَةُ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے هَذَا أَمْرٌ أَنَاكَ هَيْئًا“ یہ بات تم کو بلا مشقت حاصل ہوگی

الْهَمْلَعُ: بے وفا آدمی۔ تیز رفتار اونٹ۔ تیز رفتار آدمی جو سختی سے قدم ڈالے۔ بھیریا۔ هَمَلَقٌ هَمَلَقَةٌ: تیز چلنا۔ هَمَمَهُمْ هَمَمَةٌ: آہستہ بولنا۔ غم کی وجہ سے آواز کو سینہ میں پھرانَا الرَّعْدُ: بادل کا گرجنا۔ الْهَمْمَاهُ: بہادر سختی سردار۔ شیر۔ الْهَمْمَاهَةُ وَالْهَمْمُومَةُ: اونٹوں کا بڑا ریوڑ۔ هَمْمَاهُ: مبنی علی الکسر: اسم فعل بمعنی کچھ باقی نہیں۔ الْهَمْمَمَةُ: س۔ گانے یا قسمی وغیرہ کی آواز۔ ہر آواز جس میں کچھ گورگور لگی ہو جَمَاهِمُ: الْهَمْمُومُ وَالْهَمْمَنُمُ: شیر۔ الْهَمْمُومُ: آواز لگانے والا۔ ہوا کی وجہ سے ہلنے والا بلس۔ الْهَمْمَنُمُ: ریگنے والا گدھا۔ هَمًا يَهْمُو هَمُومًا الْمَاءُ او الدَّمْعُ: بمعنی هَمِي يَهْمِي هَمِي يَهْمِي هَمِيًا وَ هَمِيًا وَ هَمِيَانًا الْمَاءُ او الدَّمْعُ: پانی یا آنسو بہنا۔ جاری ہونا۔ هَمَّتِ الْعَيْنُ: آنسو بہنا الْمَاشِيَةُ: جانوروں کا چرنے کے لیے منتشر ہونا (هَمِيًا) الشَّىءُ: گرنا۔ ضائع ہونا۔ الْهَامِيَةُ: اسم فاعل مَوْثٌ نَحْوَامٌ هَوَامِي الْإِبِلِ: چراگاہ میں گم شدہ اونٹ۔ الْهَمِيَانُ: بچی۔ وہ بچی جو تھیلی یا بٹوے کا کام دے تَعَمَّيْنِ: (دخیل) هَنْ (س) كَهْنَا وَ هَيْئًا: روتلائیہ: مشتاق ہونا۔ أَهَنْ الْجَمَلِ: قوی کرنا۔ صفت مفعولی مَهْنُونٌ: خلاف قیاس ہے جیسے أَحَمَةُ کا صفت مفعول تَعْمُومٌ: قیاس کے مطابق مُهْنٌ وَ مَحَمٌ آنا چاہئے تھا۔ الْهَائَةُ وَالْهَنْائَةُ: آنکھ کی پتلی کے نیچے کی چربی۔ کہا جاتا ہے مَا يَه هَائَةٌ“ یعنی اس کے اندر کچھ بھی خیر نہیں۔ الْهَنْائَةُ: رونے والی عورت۔

سے باز رکھنا سنیف تلوار تیز کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”مَا هُنْدٌ عَنِ الْأَمْرِ“ وہ کام سے پیچھے نہیں ہٹا۔

هِنْدَتُهُ الْمَرْأَةُ بَرِيٌّ اور ملاطفت سے اپنے عشق میں مبتلا کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”هِنْدَتٌ بِقَلْبِهِ“ وہ اس کے دل کو اڑالے گی۔

ہند و ہندیۃ ہوا سو سے زائد اونٹوں کا ریوڑج اُھند و اُھناد و ہنود۔ ہند: عورت کا نام۔ پھر عورتوں کیلئے علم جس کے طور پر استعمال ہونے لگا جیسے زید عمر و مردوں کے لیے ج ہنود و ہندات۔ و الھندیۃ: ہندوستانی ملک کو بھی ہند کہتے ہیں۔ اور نسبت کے لیے ہندیۃ ج ہنود اور بسا اوقات امریکہ کے اصلی باشندوں کو بھی ہنود کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے ”لَقَبِي هِنْدُ الْأَحْمِيسِ“ یعنی وہ مر گیا۔

الھندوانی و الھندوانیۃ ہند کی جانب منسوب۔ کہا جاتا ہے ”سِنْفٌ هِنْدِوَانِيٌّ“ ہندی تلوار (اور یہ نسبت شاذ ہے)

الْأَهَانِدُ وَالْهِنَادِكُ ہندوستان کے مرد۔ المُھِنْدُ ہندوستانی لوہے کی تلوار۔

الھندب و الھندباء و الھندیبا و الھندیباء کا سنی۔

الھندیباۃ و الھندیباۃ ہند باکا واحد۔ الھنداز حد و قیاس۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے

”أَعْطَاهُ بِلَا هِنْدَازٍ وَ لَا حِسَابِ“ اس نے اسے بلا اندازہ اور حساب کے دیا۔ (دخیل)

الھندازۃ بئز۔ المُھِنْدِزُ النجیتر۔

هِنْدَسٌ هِنْدَسَةٌ بمارت کا اندازہ کرنا اور نقشہ بنانا۔

الھندس من الرجال تجرہ کار۔ دور اندیش۔

الھندسۃ میں حد و قیاس۔ اور اس کی اصل اندازہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ چائیرٹی۔

هِنْدُوسُ الْأَمْرِ کام کا جاننے والا۔ ج ہنادسۃ۔

المُھِنْدِسُ النجیتر۔ چائیرٹی کا جاننے والا۔ الھِنَادِكُ ہندوستان کے مرد (کاف تحقیر کے لیے ہے) واحد ہندکی۔

هِنْدَمُ الشَّيْءُ بقدر تناسب ترتیب دینا۔ مضبوط کرنا العود و غیرہ اندازہ سے درست کرنا۔

الھِنْدَامُ تدکی خوبصورتی اور اعتدال۔ هِنْعُفٌ (هِنْعُفٌ) هِنْعًا الشَّيْءُ بُوْرًا۔ دُھرا کرنا لِفْلَانٍ فروتنی کرنا۔ صفت هَانِعٌ هِنْعٌ۔

هِنْعٌ (س) هِنْعًا پست گردن اور جھکے ہوئے قد والا ہونا۔ صفت اَهْنَعٌ۔ اِسْتَهْنَعُ الرَّجُلُ جواب سے عاجز ہونا۔ الھِنْعُ ایک قسم کی بیماری جو آدمی کی گردن میں ہوتی ہے۔

الھِنْعُ قد کا جھکاؤ۔ اُونْتُ کی گردن کا جھکاؤ۔ الھِنْعَاءُ۔ اَهْنَعُ مؤنث۔ نَعَامَةٌ هِنْعَاءٌ۔ پیچیدہ گردن کا شتر مرغ۔ اَكْمَةٌ هِنْعَاءٌ۔ چھوٹا ٹیلہ۔

الھِنْعَةُ هِنْعًا اسم مرآۃ اُونْتُ کی گردن کی جز کا دارغ۔ چاند کی ایک منزل جو صفت بستہ پانچ ستاروں پر مشتمل ہے اور جو زائے کے بائیں جانب واقع ہے۔

الْأَهْنَعُ جھکے ہوئے قد والا۔ زین پر ادھر اُدھر مائل ہونے والا۔

هِنْفٌ الرَّجُلُ دُرْنَا۔ تیز چلنا۔ هَانَفْتُ مَهَانَفَةً وَ هِنَافًا الْمَرْأَةُ خَاصَةً۔

مُخَوْلٌ کرنے والے کی مانند ہنسنا۔ هِنْفٌ فُلَانٌ صَاحِبًا بِمِثْلِ كُودِ كَرْنَا۔ اَهْنَفٌ مُخَوْلٌ کرنے والے کی مانند ہنسنا الرَّجُلُ بِيَزْجِلْنَا الصَّبِيَّ كُودًا وَ اِنْسَانًا ہونا۔ تَهْنَفٌ دَنَا۔

اَهْنَفْتُ الْمَرْأَةَ جَعْنِي هَانَفْتُ۔ تَهَانَفْتُ مُخَوْلٌ سے ہنسنا الصَّبِيَّ كُودًا وَ اِنْسَانًا ہونا۔ تَهَانَفْتُ بِهٖ تَعِبٌ کرنا۔

الھِنُوفُ سکرابٹ سے کچھ زیادہ ہنسی۔ الھِنُقُ بے آراہی۔ بے قراری۔ الھِنْمُ مجبور یا اس کی ایک قسم۔

الھِنْمُ رُوئِي۔ الھِنْمَةُ بزم و پست آواز۔ ایک قسم کی ترکاری۔ الھِنُوْتُ وقت۔

الھِنُ۔ بتخفيف النون و قد تَشَدَّدَ فِي الشَّعْرِ بِرِاسِمْ جَمَسٍ سے کنایہ کے لیے بمعنی شئی کہا جاتا ہے ”هَذَا هِنْكٌ“ یہ تمہاری چیز ہے اور اس کی تصغیر هُنِّيٌّ ہے۔ اور مؤنث هِنَّةٌ اور اس کا لام کلمہ محذوف ہے بعض لغت میں وہ لام کلمہ ہاء ہے تو اس کی تصغیر هِنِيَّةٌ ہوگی۔ اور اسی سے ہے ”أَمْكُتُ هِنِيَّةٌ“

یعنی تھوڑی دیر ٹھہرو۔ اور بعض لغت میں لام کلمہ واؤ سے تو اس کی تصغیر مؤنث کی صورت میں هِنِيَّةٌ ہوگی اور اس کی جمع هِنُوَاتُور کبھی جمع لفظ کے لحاظ سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں هِنَاتُ اور اس کا اعراب حروف اے ہے۔ حالہ رفعی میں هِنُوَهور نفسی میں هِنَاہلور جری میں هِنِيہاکیں گے۔ اور هِنُجُ شنیہ هِنَا لفظ کے لحاظ سے اور هِنُوَاتُ اصل کے لحاظ سے اور جمع هِنُونُ اور کہا جاتا ہے ”فِي فُلَانٍ هِنَاتٌ“ کلاں کے اندر بُری خصلتیں ہیں اور اس کا استعمال خیر میں نہیں ہوتا۔

الھِنَابُ خیس و کینہ نسب۔ وَهِنَابُ عِنِّي أَنَا۔ تم کہتے ہو هِنَا فَعَلْتُ جَعْنِي أَنَا فَعَلْتُ۔ هِنَا اسم اشارہ ہے۔ مکان قریب کے لیے بمعنی یہاں۔ اور اس میں هِنَا تنبیہ اور کاف خطاب لاحق ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ”هِنَانُ“ اور ”هِنَانُكَ“ اذکر کاف خطاب کے ساتھ ساتھ لام بعد بھی لگایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے هِنَانُكَ۔ هِنَا مَعْرُفَةٌ كَمِثْلِ كُودٍ کہا جاتا ہے ”جَاءَ مِنْ هِنِيٍّ“ یعنی وہ یہاں سے آیا۔

الھِنَاةُ صِبِيَّتٌ ج هِنَوَاتُ۔ هَمْدُ كَرَاهٍ وَرَدٌ هَمِكٌ كَيْلِيَّةٌ اسم صوت۔ هِنُوسٌ هِنَا وَ هِنِيَّةٌ تَلَانَا۔ زبان رکنا۔ هُوَ مَفْرُودٌ ذَكَرٌ غَائِبٌ كِي صَمِيرٌ ہے اور شنیہ کے لیے هَمْمَعٌ ذَكَرٌ کے لیے هُمٌ مَفْرُودٌ مؤنث کے لیے هَمٌّ وَرَجْعٌ کے لیے هُنَّ وَوَأُو

اور فاکے بعد ہوا اور ہی کے ہاء کو ساکن کرنا بھی جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "وہو فہو وھی و فہی" اور لام کے بعد جیسے "ان هذا لہو الحق" مگر یہ قلیل ہے۔ اور کبھی اشعار میں ہمزہ استفہام کے بعد بھی ساکن ہوتا ہے۔ الہویہ چیز یا شخص کی حقیقت جو صفات جوہری پر مشتمل ہو۔ اور یہ ہو کی جانب منسوب ہے۔

الہویہ لفظ ہے جو مرکب ہے ہو مرکب سے اس کو اسم معرف بنا لیا گیا ہے۔ اور اس کے معنی اتحاد بالذات کے ہیں۔

ہاء بیہو ہونا بنفسہ الی المعالی بلند کرنا۔ ہاء ذہبیر او شر و ہاء بہ خیرا او شرا گمان کرنا یا تہمت لگانا۔ "ہاء بفلان" خوش ہونا اور کہا جاتا ہے "ہاء ہینہ حسنة" وہ اچھی شکل و صورت پر ہو گیا۔

ہوی بیہو ہوا الیہ ارادہ کرنا۔

ہاء کلمہ اجابت ہے۔ مٹی بر فتح ہے۔ کہا جاتا

ہے "ہاء یا رجل بکسر الہمزة" یعنی

لاؤ اور اس میں ہات کی گردان جیسی گردان

ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "ہاء ہانیا ہاء و ا

ہای ہانیا ہانین" ہمزہ ہات کی تاکے

قائم مقام ہے اور جب تم ہاء یا رجل فتح

ہمزہ کے ساتھ کہو گے تو اس وقت اس کے

معنی ہوں گے۔ اے مرد لے۔ مذکر کی صورت

میں "ہاء ہا و ما ہاؤ" اور مؤنث کی

صورت میں ہاء کسرہ کے ساتھ بغیر یاء کے۔

اور ہاؤ ما ہاؤ ن اور تم کہہ سکتے ہو ہاک

ہاکما ہاکم ہاک ہاکما ہاکش کاف

ہمزہ کے قائم مقام ہے۔

الہویہ۔ مص۔ بہت۔ زای صائب۔ ارادہ۔

گمان۔ کہا جاتا ہے "وقع کذا فی ہونی او

ہونی" میرے گمان میں ایسا واقع ہوا۔

الہویہ ڈوری۔ بکواس کرنے والا۔

بیوقوف۔ آگ کی بھڑک۔

الہویہ سوسن یا سرخ سوسن۔ چیتا۔ بہت

بالوں والا بندر۔

ناقہ مہوبرہ بہت گوشت والی اونٹنی۔ اذن مہوبرہ و مہوبرہ کان جس پر بال یا اون ہو۔

ہوت بہ تہوینا۔ چلانا فلان پست زمین میں آنا۔

الہویہ و الہویہ۔ پست زمین۔ ڈھلوان راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو۔ ج ہوت الہویہ بیاس۔

ہو ج ہو ج لمبا بیوقوف۔ جلد باز ہوتا۔ صفت اہو ج

اہو جہ لمبا بیوقوف جلد باز پانا۔

تہو ج الحر شدت سے گرمی پڑنا۔

الہو جاء الہو ج کا مؤنث۔ تیز رفتار

اونٹنی (اونٹ کو اہو ج نہیں کہتے) الہو جاء

من الریاح تیز آندھی ج ہو ج۔ کہا جاتا

ہے "لعبت بہا ہو ج الریاح" تیز

آندھیوں نے اس کے ساتھ کھیل کود کیا۔

ضربہ ہو جا، ایسی مار جس کا اثر جوف تک

ہو۔

الاہو ج۔ بہادر جنگ آزمودہ۔ اور کہا جاتا

ہے "ہو اہو ج الطول" وہ بہت لمبا ہے۔

ہو جل الرجل تھوڑا سوتا۔ بے نشان

راستہ پر چلنا۔

الہو جل۔ بے نشان ڈور کا بیابان، بے نشان

راستہ، ایسی زمین جس میں کچھ پتہ نہ چلے، ست،

بیوقوف، بدکار عورت، لمبی رات، اونگھ کا بقیہ،

کشتی کا ٹکڑا، ماہر ہیر، ست رفتاری، اور کہا جاتا

ہے "مشنی ہو ج" ڈھیلی ڈھالی چال۔

ہاد بیہود ہودا توبہ کرنا۔ حق کی طرف

لوٹنا کہا جاتا ہے "ہاد المذنب الی اللہ"

گنہگار نے توبہ کی۔ صفت ہاند ج ہود

فلان۔ یہودی بنو تہو ادا، نرم آواز سے

بولنا فی المنطق نرمی اور آہستگی سے بولنا۔

ہود تہو ادا نرمی کے ساتھ گلے میں آواز

پھرانا۔ گانا۔ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے چلنا۔

کوبان کا گوشت کھانا فلان۔ یہودی بنانا۔

طرب میں ڈالنا۔ کھیل کود میں ڈالنا الشراب

فلانا: مست کرنا فلان فی المنطق نرمی اور آہستگی سے بولنا فی السیر۔ دیر کرنا۔ ہود سونا۔

ہاودہ مہاودہ ایک دوسرے کو مائل کرنا۔ صلح کرنا۔ باہم وعدہ کرنا۔

تہود تہودا توبہ کرنا۔ حق کی طرف لوٹنا۔ یہودی ہونا فی المنطق نرمی اور آہستگی سے بولنا۔

الہو ادة نرمی۔ وہ چیز جس سے قوم کے درمیان بھلائی کی امید کی جائے۔ تخفیف و سہولت۔ میلان۔ اور اسی سے ہے "لا نبعثک

اللی رجل لا تاخذہ فیک ہو ادة" میں تم

کو ایسے شخص کے پاس بھیجوں گا جس کو

تمہارے بارے میں کوئی میلان نہ ہوگا۔

الہود۔ یہود ہاند کی جمع۔

ہود ایک نبی کا اسم گرامی۔ وقوم ہود

قوم عاد۔

الہود و الہود۔ کوبان ج ہود۔

التہوید۔ س۔ ریت میں ہوا کی سائیں سائیں

کی آواز۔

التہوید و التہواد کمزور و نرم آواز۔

التہواد نرمی و ملامت۔

یہود۔ یہودی۔ علیت اور وزن فعل کی وجہ

سے غیر منصرف ہے اور اس پر الف لام داخل

ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے الیہود۔

الیہودی۔ الیہود کا واحد۔

الیہودیۃ۔ یہودن۔ بیت المقدس اور اس

کے ارد گرد کا علاقہ۔

المہاودۃ۔ س۔ مراجعت۔

المہود۔ ف۔ کھیل کود طرب میں ڈالنے

والا۔

اہود ہیر کلان۔ دو شنبہ۔

الہود ج۔ ہود ج ہودا ج

الہود ج۔ شتر مرغ۔ واحد ہود عدا۔

الہود ک۔ مونٹ ہود ک۔

ہودا ہو مبتد اور ذخیر سے مرکب ہے اور

کبھی اس پر ہاء تثنیہ داخل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے

”ہا ہُوَ ذَا“

الہَاذَةُ. ایک قسم کا درخت جھاڑ۔
الہُوذَةُ. سبک خوار پرندہ جو ہُوذِ
الہُوذِيُّ. یہودی۔

ہَا ز يَهُوْرُ هُوْرًا فُلَانًا بِالْأَمْرِ: تمہمت لگانا
ہُ بَكْدًا: گمان کرنا۔ خیال کرنا عَنِ الشَّيْءِ:
باز رکھنا عَلَي الشَّيْءِ: براہِ مَحْتِجَتِ كِرْفَانًا:
دھوکا دینا۔ پھجھارالْمَشْيِ: تخمینہ کرنا۔ اندازہ
كِرْفَانِيَاءَ: عمارت ڈھانسیاءَ: عمارت
منہدم ہونا۔ شکستہ و ویران ہونا هُوْرًا و
هُوْرًا (هُوْرًا) البِنَاءِ: عمارت کا پھٹ جانا۔ صفت
ہَائِرٍ اَوْ هَارٍ بھی کہا جاتا ہے جَيْسَانِيَّةُ
السَّلَاحِ مِيْشَاكِي السَّلَاحِ.

هُوْرَةٌ تَهُوْرًا پھجھارنا۔ ہلاکت میں ڈالنا۔
تَهُوْرٌ تَهُوْرًا و تَهْيِيرٌ و تَهْيِيرًا البِنَاءِ:
عمارت کا منہدم ہونا۔ گرا لہْرَجُلٌ: لا پرواہی
سے کسی کام میں گھس پڑنا يَلْمُوْعُكَ النَّاسُ:
بخار پھیل جانا يَلْبِيْلٌ: گزر جانا یا اکثر حصہ گزر
جائے۔ قریب قریب ختم ہونا۔
اِنْهَارٌ اِنْهَارًا البِنَاءِ: عمارت شکستہ و ویران
ہونا۔ گرا لہْرَجُلٌ: پھجھار اور گرنے۔

اِهْتَوْرٌ اِهْتَوْرًا الشَّيْءُ: ہلاک ہونا۔
الهُوْرُ: چھوٹا سمندر جس میں ندی نالوں
کا پانی آجانے سے وسعت پیدا ہو جائے ج

أَهْوَارٌ. الہوْر: بکریوں کا ریوڑ اس وجہ سے
کہ وہ بھی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے پر
گرتی ہیں حَرْقٌ هُوْرٌ: کشادہ پھشن۔ کہا جاتا
جَعْلٌ هَارٌ و هَارٌ: زمانہ کی سختی کی وجہ
سے کمزور مرد۔

الهُوْرَةُ. ہلاکت۔
الهُوْرَةُ. ہلاکت کی جگہ هُوْرَاتُ.
الهُوْرَةُ. تمہت اور گمان اور هِيَارَةُ کا اسم
ہے۔

الهِْيَارُ. کمزور۔
الهِْيَرُ. بے باکی سے کاموں میں گھس پڑنے
والا۔
التَّيْهُوْرُ. ریت کے تودہ سے گرمی ہوئی

ریت۔ پست زمین۔

هُوْرٌ تَهُوْرًا. مرنا۔

الهُوْرُ. آفرینش پیدا آئش۔ تم کہتے ہو ”مَا فِي
الهُوْرِ مِثْلُكَ“ مخلوق میں تمہارے مانند کوئی
نہیں۔ ”وَمَا اَدْرِي اَيُّ الْهُوْرِ هُوَ“ میں
نہیں جانتا وہ کون مخلوق ہے۔

هُوْرٌ. حسابِ جمل کے حروف کا دوسرا
مجموعہ۔

الْأَهْوَا زُ. بصرہ اور فارس کے درمیان کا ایک
علاقہ جو نو آبادیوں پر مشتمل ہے، ہر آبادی کا
علیحدہ علیحدہ نام ہے اور ان سب کے مجموعہ کو
اَهْوَا زُ کہتے ہیں۔ اور ان آبادیوں میں سے
ایک کھُوْرُ نہیں کہتے۔

الهُوْرُبُ. گدھ۔ مضبوط و قوی اونٹ۔

الهُوْرُنُ. غبار۔

هَاسٌ يَهُوْسُ هُوْسًا الشَّيْءُ: کوننا۔ توڑنا۔
کہا جاتا ہے ”حَمَلٌ عَلَي الْعَشْكَرِ فَدَاسَهُمْ
وَهَاسَهُمْ“ اس نے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو
تتر بتر کر دیا اللَّيْلُ رات میں گھومنا پھرنا
الطَّعَامِ: بہت کھانا لالبا۔ اونٹوں کو آہستہ
بَاكَلَهْرَجُلٌ: زمین پر سخت ٹیک لگاتے ہوئے
چلنا الذَّنْبُ فِي الْعَنَمِ: بھیڑیے کا بکریوں
میں تباہی پھیلنا دِيحُوْلُ الشَّيْءِ: ارد گرد
گھومنا۔

هُوْسٌ يَهُوْسُ هُوْسًا لِقَوْمٍ. حیرت و
اضطراب میں پڑنا لَانٌ: ہوس والا ہونا دیکھئے
(لفظ ہوس)

هُوْسَةٌ. ہوس پرا بھارنا۔ کوننا۔

تَهُوْسٌ. ہوس والا ہونا۔ نرم زمین میں سخت
چال چلنا۔

الهُوْسُ. سوجنوں کی ایک قسم۔ سبکی عقل۔
اور کہا جاتا ہے ”رَأْسُهُ هُوْسٌ“ اس کے سر
میں چکر ہے۔

الهُوْسُ وَالهُوْسَةُ رات میں گھومنے والا
شیر۔ تجربہ کار بہادر جُلُّ هُوْسٌ: بہت
کھانے والا مرد۔

الهُوَيْسُ فکر۔ وہ چیز جس کو تم اپنے دل میں

چھپاؤ۔

الْأَهْوَسُ. ہوس والا۔ بہت کھانے والا
مَوْسُ هُوْسِيٌّ: کہا جاتا ہے ”النَّاسُ هُوْسِيٌّ
وَالزَّمَانُ اَهْوَسٌ“ یعنی لوگ زمانہ کی لذیذ
اور پاکیزہ چیزوں کو کھاتے ہیں اور زمانہ لوگوں کو
کھاجاتا ہے۔

الْمُهْوَسُ. سُرْجُلٌ مُهْوَسٌ: خود بخود
باتیں کرنے والا۔

هَاشٌ يَهُوْشُ هُوْشًا الْمَالُ. حرام طریقہ
سے جمع کرنا لِقَوْمٍ: مضطرب ہونا۔ گدگد ہونا۔
قَوْمٌ کے درمیان فتنہ واقع ہونا يَلْمُوْعُ الْحَرْبِ
بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِهِمْ: بعض کا بعض کی
طرف اٹھنا هَاشَتْ الْخَيْلُ فِي الْعَارَةِ:

بدکنا، ادھر ادھر ہونا۔ صفحہ ہوا نش

هُوْشٌ يَهُوْشُ هُوْشًا. مضطرب ہونا۔ اور
بقول بعض لاغری کی وجہ سے چھوٹے پیت والا
ہوا يَلْمُوْعُ: مضطرب ہونا۔ گدگد ہونا۔

هُوْشٌ تَهُوْشًا الشَّيْءُ: ملانا۔ هُوْشَتِ
الرِّيْحُ بِالْغُبَارِ: ہوا کا طرح طرح کا غبار اُرَا
كُلِّ الْقَوْمِ: فتنہ اور اختلاف ڈالنا الشَّيْءِ:
ادھر ادھر سے جمع کرنا۔

هَاشَتْهُمْ مَهَاشَةٌ. ہام ملنا۔

تَهُوْشُ الْقَوْمِ تَهُوْشًا و تَهَاشُوْا
تَهَاشُوْا. ملنا تَهَاشُوْا عَلَي فُلَانٍ: جمع
ہونا۔

الْمَهَانِشُ. فاهوش کی تاکید میں واقع ہوتا
ہے۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ بِالْهُوْشِ الْمَهَانِشُ“
وہ بہت تعداد میں آیا۔

الهُوْشُ. سوجنیت کا خالی ہونا۔ عدد کثیر۔ کہا
جاتا ہے ”جَاءَ بِالْهُوْشِ وَالْبُؤْشِ“ وہ
لوگوں کی بڑی جماعت لے کر آیا۔

الْمَهْوِشَةُ. اسمِ مرۃ۔ مخلوط جماعت۔ فتنہ و
اضطراب۔ جھوشات. اور کہا جاتا ہے
”اَيَّاكُمْ و هُوْشَاتِ اللَّيْلِ“ اپنے آپ کو
رات کے حوادث اور کمزوبت سے بچاؤ۔
”وَاتَّقُوا هُوْشَاتِ السُّوْقِ“ اس سے بچو کہ
بازار میں کوئی تمہارے ساتھ حیلہ کر کے تمہارا

بال جرالے۔
 الہواشات۔ لوگوں کی جماعتیں۔ اونٹوں
 کے بوڑھے مال حلال و حرام جمع کیا ہوا۔
 الہویستہ۔ مخلوط جماعت۔
 التہاوش۔ مال حرام۔
 المہاوش۔ حرام طریقہ سے جمع کیا ہوا مال۔
 ہاع ہباع ہوعا۔ سبک ہونا اور گھبرانا
 القوم بعضهم الى بعض۔ ایک دوسرے
 پر حملہ کارا وہ کر (ہباع و ہوعا ہوعا)
 الرجل۔ بغیر تکلف کے تے کرنا۔ اسم
 الہوع و الہوعا و الہیوعا۔
 ہوع تہویعا الرجل ما اكله۔ تے کرنا
 و بنا اور تہویل کے موقع پر کہا جاتا ہے "لاہو
 عنہ ما اكله" جو کچھ اُس نے کھایا یہاں اس
 کے حلق سے نکال لوں گا۔
 تہوع تہوعا۔ تکلف سے تے کرنا۔ خون
 کی تے کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "تہوع القی"
 اس نے بخت تے کی۔ "وتہوع نفسه"
 اس نے اپنے نفس کی تے کی گویا کہ وہ اسے
 نکال رہا ہے۔
 الہوع و الہوعا۔ تے الہوع: ماہ
 ذی تعدہ ہواعات و اہوعا۔
 الہاع۔ جیس۔ لاپچی۔ کہا جاتا ہے "رجل
 ہاع و ہاع" یعنی لاپچی مرد (اور یہ صالح کا
 مقلوب ہے)۔
 الہوع۔ مص۔ بدترین قسم کا لاپچی۔
 الہوع و الہوع۔ دشمنی۔
 المہوع و المہوع۔ لڑائی میں چلانے
 والا۔
 الہوع۔ بہت چیز۔
 الہوف و الہوف۔ گرم ہوا۔ ٹھنڈی ہوا۔
 الہوف: خیر و برکت سے خالی مرد۔ بیوقوف
 مرد۔
 الہوفۃ۔ جماعت۔ گروہ۔
 ہوک یہوک ہوکا۔ احمق ہونا۔ صفت
 ہوک۔
 ہوک تہویکا۔ گڑھا کھونا۔ ہوکۃ۔

بیوقوف بنالے۔
 تہوک تہوکا و انہاک انہیاکا۔ حیران
 ہونا اور لاپرواہی اور بے فکری کی وجہ سے مشکل
 میں پھنسنا۔ مضرب القول ہونا۔
 الہوک و الہوک و الاہوک و الہوک
 و الیہوک۔ بیوقوف جس میں تھوڑی سی
 عقل بھی ہو۔
 الہوک۔ تھوڑی عقل کے ساتھ
 بیوقوفی۔
 الہوکۃ۔ گڑھا۔
 الہوک۔ حیران و سرگشتہ۔
 الہوکۃ۔ ہوک کا مؤنث۔ ارض ہوکۃ
 و ہوکۃ۔ زمین شور۔
 الاہکاء۔ ختمیر لوگ۔
 المئہوک۔ حیران۔ ہلاکت کے گڑھے میں
 گرنے والا۔
 ہال ہہول ہولا الامر فلانا: گھبراہٹ
 میں ڈالنا۔ خوفناک ہونا۔
 ہیل ہولا السحران: حالت نشہ میں
 مختلف قسم کے رنگ دیکھ کر گھبرانا۔ کہا جاتا ہے
 "ہلت منہ" میں اس سے گھبرایا۔
 ہولہ تہویلا: گھبراہٹ میں ڈالنا ہولت
 المرآة: لباس اور زیورات سے مزین ہونا۔
 ہول الامر ہرا و کھایندی الامر
 خوفناک بنا القوم علی الرجل بگذا
 گھبرا دی علی الرجل۔ حملہ کرنا۔
 تہول تہولا الرجل: خوفناک ہونا۔
 نظر بدلگانے کا ارادہ کرنا۔
 اھتال اھتایلا: گھبرانا۔ تم کہتے ہو "ہلتہ
 فہتال" میں نے اس کو گھبراہٹ میں ڈالا وہ
 گھبر گیا۔
 استھال یستھیل فلان الامر: خوفناک
 پانا۔ بعض لوگ "یستھولہ" کہتے ہیں مگر
 جید لغت "یستھیلہ" ہی ہے۔
 الہائل۔ گھبراہٹ میں ڈالنے والا۔ من
 الامور: خوفناک۔ تاکید کیلئے کہا جاتا ہے
 "ہول ہائل" مانزل لائل کے۔

کا اوجس کو "الصدی" بھی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "ہذا ہامۃ الیوم او غد" یعنی وہ آج یا کل مرجائے گا "واضح فلان ہامۃ" فلاں مر گیا۔ بنات الہام: دماغ کا مغز۔ الہیم: ریگستان جو بھی سیراب نہ ہوتے ہوں۔ قوم ہیمہ: بیاسے لوگ۔

الہوماۃ والہومۃ: بے آب و گیاہ میدان۔ الہوام شیر۔ الہوم: بڑے سروال۔

ہان یھون ہوناً الامر علی فلان: نرم و آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے "ہن عندی الیوم" یعنی آج میرے پاس اقامت کرو اور آرام کرو۔

ہان یھون ہوناً و مہاناً و مہانۃ الرّجل: ذلیل و حقیر ہونا۔ کمزور اور ممکن ہونا۔

ہون تھونید علیہ الامر: نرم و ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے "ہون علیک" کوئی پروانہ کر۔ ہون الشیء یحیح: سمجھنا۔

ہاون مہاونۃ: نفسہ: نرمی کرنا۔ اہانۃ اہانۃ: حقیر و بیچ سمجھنا۔

تھاون نہ تھاونا و استھان بہ استھانۃ: حقیر سمجھنا۔ استہزاء کرنا۔ بیچ سمجھنا۔

اھو أنت اھونانا المفارۃ: بیابان کا وسعت کے ساتھ پست ہونا۔

الہاون والہاون والہاؤون: دو اور غیرہ کوٹنے کا ہاون: ہواوین۔

المھون: مص۔ سکون و وقار۔ کہا جاتا ہے "امش علی ہونک" یعنی اپنی روش پر چلو۔

"وہذا شیء ہون" یہ حقیر چیز ہے "اھین حبیبک ہونا ما" اپنے دوست سے دوستی کرو جس میں فرطانہ ہو۔

الھون: ہر۔ رسوائی۔ قرآن میں ہے "فاخذنہم صاعقۃ العذاب الھون" مخلوق کہا جاتا ہے "ما اذنی ای الھون" مجھے نہیں معلوم وہ کون مخلوق ہے۔

الھونۃ: تسکین۔ ص۔ ج ہون (والھونۃ)

آہنگی سے کام کرنے والی عورت۔

الھینۃ: اسم نوع۔ سکون۔ وقار۔ کہا جاتا ہے امش علی ہینتک نرمی سے چلو۔

الھونینا نرمی و ملائمت۔ اور یہ ہوننی کی تصویر ہے اور ہوننی اھون کی تائید ہے۔

الھین والھین: نرم۔ کمزور۔ ذلیل۔ آہستہ کار۔ ج اھوناء و ہینون و ہینون و مؤنث ہینۃ و ہینانج حسات و ہینات

الاهون اسم تفصیل۔ نرم۔ آسان۔ کہا جاتا ہے "ہو اھون عبدہ" وہ اس پر آسان ہے۔

المھوننّ و المھونانّ: دور جگہ یا پست ہموار زمین ج مھوننّ

المھونان بہت نرم۔ ج مھاوین۔ المھانۃ: رسوائی۔ کہا جاتا ہے "رجل فید مھانۃ" کمزور و ذلیل مرد۔

تھونۃ الرّجل: درومند ہونا۔ الھوہ و الھوہیۃ: بزدل۔

الھوہی: واپسی تباہی باتیں۔ الھوہانۃ: بیوقوف (والھوہا) کھونا جس میں اترنے والے کے لیے کوئی سہارا نہ ہو۔

رجل ہوہا: کمزور دل۔ بیوقوف۔ الھو: جانب۔ کنارہ۔ روشندان۔

الھوۃ: پست زمین۔ گہرا گڑھا۔ فضاء آسمانی۔ ج ہوی و ہو و ہونید

الھوۃ: پست زمین۔ گہرا گڑھا۔

ھون تھون ہوناً: ہونیا و ہونیا و ہونیا

نرم کا چوڑا ہونا العقب: عقب کا شکار وغیرہ پر ٹوٹ پڑنا

یدی لہ با تھ کا بڑھنا اور بلند ہونا الریح: ہوا کا چلنا الناقۃ: برا کبھیا اونٹنی کا تیز دوڑنا۔

ھوی الرّجل: مرنا فی السیر۔ گزرتا فی الارض: جانا۔

ھوی یھوی ہوناً و ہوناً و ہونیا الشیء: اوپر سے نیچے کرنا۔ بلند ہونا۔ اور چڑھنا اور کہا گیا ہے کہ الھوی یفتح الہاء ارتقاع کے لیے اور الھوی: اُتھا کے لیے۔

ھون الہم: ہلاک ہونا اور بقول بعض لڑچم گم کرنا۔ صفت

ھاویۃ

ھوی یھوی ہونۃ: الجبل پھاڑ پر چڑھنا۔ ھون تھون ہوناً الاذن کان کا سننا۔

ھویۃ یھواۃ ھوی: محبت کرنا۔ خواہش کرنا۔ صفت ھو

ھاواۃ مھاواۃ و ھواء: مدارات کرنا۔ ھاوی فلان: تیز چلنا۔

اھوی اھواء الشیء: کرنا۔ اھون یدی لہ با تھ کا بڑھنا اور بلند ہونا۔ اور کہا جاتا ہے

"اھوی الیہ یدہ لیأخذہ" اس نے پکڑنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک باہ زندہ ہے۔ اور اس کی اصل "اھوی یدہ الیہ" ہے۔ یعنی اس نے اس کی طرف ہاتھ جھکا دیا۔ اور کہا گیا ہے

"اھویت بالشیء" یعنی میں نے اس کا اشارہ کیا۔ "اھویت لہ بالسیف" فاطرت ازنیۃ انفہ: یعنی میں نے اس کی طرف تلوار سے اشارہ کیا اور اس کی ناک کا بانسہ اڑا دیا۔

اھوت العقاب: عقاب کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ اھوی الشیء: اوپر سے کرنا۔

تھاوی القودۃ فی المھوۃ: بعض کا بعض کے پیچھے گڑھے میں کرنا۔ تھاوی الرّجل: تیز چلنا۔

اھنوی اھواء: الیہ بشیء: اشارہ کرنا۔ اھنوی اھواء الشیء: اوپر سے نیچے کرنا۔

استھوۃ استھواء: سرکش و حیران بنانا۔ مدھوش کر دینا۔ عیش کو مزین کر کے دکھانا۔

الھاوی: فا۔ مڈی۔ حرف الف کو بھی "ھاوی" کہتے ہیں اس وجہ سے کہ واو اور یا کے حُزُن سے اس کا حُزُن زیادہ وسیع ہے اور معنی ذُو الھواء کے ہیں جیسے نابل یعنی ذُو النبل والناسیب یعنی ذُو النشاب۔

المھاویہ: قضا۔ پچھم کرنے والی عورت۔ ھاویۃ: دوزخ۔ معرفہ اور غیر منصرف ہے اور بھی الف لام بھی صفت کا لحاظ کر کے داخل کرتے ہیں۔

الھواء: فضاء آسمانی۔ ج اھویۃ: خالی چیز۔ بزدل۔ واحد اور جمع اس میں برابر ہیں۔ کہا جاتا

تھاوی القودۃ فی المھوۃ: بعض کا بعض کے پیچھے گڑھے میں کرنا۔ تھاوی الرّجل: تیز چلنا۔

اھوت العقاب: عقاب کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ اھوی الشیء: اوپر سے کرنا۔

اھنوی اھواء: الیہ بشیء: اشارہ کرنا۔ اھنوی اھواء الشیء: اوپر سے نیچے کرنا۔

استھوۃ استھواء: سرکش و حیران بنانا۔ مدھوش کر دینا۔ عیش کو مزین کر کے دکھانا۔

الھاوی: فا۔ مڈی۔ حرف الف کو بھی "ھاوی" کہتے ہیں اس وجہ سے کہ واو اور یا کے حُزُن سے اس کا حُزُن زیادہ وسیع ہے اور معنی ذُو الھواء کے ہیں جیسے نابل یعنی ذُو النبل والناسیب یعنی ذُو النشاب۔

المھاویہ: قضا۔ پچھم کرنے والی عورت۔ ھاویۃ: دوزخ۔ معرفہ اور غیر منصرف ہے اور بھی الف لام بھی صفت کا لحاظ کر کے داخل کرتے ہیں۔

ہے "ہو ہواؤ اوہم ہواؤ" وہ بزدل ہے یا وہ سب بزدل ہیں۔ الہواء: ہر وہ چیز جس کا نچلا حصہ پھٹ گیا ہو۔ جس کی وجہ سے چیز کی حفاظت نہ ہو سکے جیسے توشہ دان کہ جس کا نچلا حصہ پھٹ گیا ہو۔ الہواء کا اطلاق ہر اس بننے والی چیز پر بھی ہوتا ہے جس کو تم سو گتھ سکو۔

الہواء واللؤاء: کبھی نرمی اور کبھی سختی سے معاملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "عاملہ بالہواء واللؤاء" اس نے اس سے نرم گرم معاملہ کیا۔

الہوی: ہوی کا مصدر۔ خواہش۔ عشق چاہے خیر ہو یا شر۔ محبوب و معشوق محمود ہو یا مذموم مگر غیر محمود کا غلبہ ہے۔ کہا جاتا ہے "فلان اتبع ہواؤ" فلاں نے اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا اور یہ مذمت کے وقت بولا جاتا ہے۔ ایسا ہی "فلان من اهل الاہواء" فلاں ان لوگوں میں سے ہے جو راست سے ہٹ گئے ہیں۔

الہوی: مشتاق۔ شائق۔ مؤنث صوریۃ۔ الہوی: کان میں سنناہٹ۔ محبوب اور کہا جاتا ہے "مضی ہوی او ہوی من اللیل" رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ "وجلست عندہ ہویاً" میں اس کے پاس دیر تک بیٹھا رہا۔

الہویۃ: گہرا کتواں نچوایا۔ الہوی: ہوی کا اسم تفصیل۔ تم کہتے ہو "هذا الشیء اہوی الی من کذا" یہ چیز میرے نزدیک فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ الہویۃ: فضاء آسانی۔ گہرا گڑھا۔ کہا جاتا ہے "مضیت ہواؤ من اللیل" یعنی رات کا ایک حصہ گزر گیا۔

المہوی والمہوۃ: فضاء دو پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ نکھارو۔

ہاء بیہیۃ و ہینی بیہاء و بیہاء و ہویہ و ہینیۃ حیاء و حیاء: خوش شکل ہونا۔ ہاء بیہاء حیاء الیہ: مشتاق ہونا۔ بیہیۃ و بیہیۃ حیاء للامر: تیار ہونا۔

حیاء تہینۃ و تہینا درست کرنا۔ تیار ہونا۔

ہایاء مہایاء فی الامر: موافقت کرنا۔ کبھی ہمزہ کو یاء سے تخفیفاً بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں "ہایئہ مہایاء" کہا جاتا ہے "ہایاء فی دار کذا" یعنی کچھ مدت تک ایک رہا اور کچھ مدت تک دوسرا۔ اور بقول بعض اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک نے اپنے حصے سے نفع اٹھایا۔

تہیناً تہینوا للامر: تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا۔ الشیء للفلان: قدرت دینا۔

تہایاؤ تہایو علی الامر: باہم موافقت کرنا۔ علی کذا: جمع ہونا۔

الہی و الہی: کھانے پینے کا بلاوا۔ الہیۃ و الہیۃ: حالت۔ کیفیت۔ شکل صورت۔ حینات علم الہیۃ: وہ علم جو اجرام سماویہ کے احوال سے بحث کرے۔ الہی و الہی: خوش شکل۔

ہایہ بیہایہ ہیا و ہینہ و مہایہ خوف کرنا۔ بچنا۔ چونکارنا۔ صفت فاعل ہانہ و ہویب و ہویۃ و ہیاب و ہیاب و ہیاب و مہویب و مہویب و مہویب اور کومتے ہیں جس سے لوگ ڈریں۔ اور ایک لغت ہایہ بیہیۃ کی بھی سچاں الرجل فلان: تعظیم و توقیر کرنا۔

ہینہ تہینا الی فلان: ہیبت دار بنانا۔ رعب دار بنانا۔

اہاب اہابہ الاعمی بعنہ: بکریوں کو ٹھہرنے یا لوٹنے کے لیے چلاتا لایا۔ اونٹوں کو اہاب: کہہ کے ڈانٹنا۔ لایا۔ کھوڑے کو ہب یا ہسی کہہ کے بلانا یا ڈانٹنا۔ اہاب بصاحبہ: پکارنا۔ بلانا۔

تہینہ تہینا خوف کرنا۔ گھبراہٹ میں ڈانٹنا۔ خوف دلانا۔ کہا جاتا ہے "تہیننی زیداً" زید نے مجھ کو خوف دلایا۔

اھتاب اھتیا۔ ڈرنا۔ خوف کرنا۔ الہاب: سانپ۔

الہیۃ: خوف۔

الہیان: لوگوں سے ڈرنے والا۔ بزدل۔ ہکا۔ چرواہا۔ مٹی۔ اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ بہت۔

الاہیب: زیادہ رعب والا۔ مکان مہاب و مہوب: خوفناک جگہ۔ کہا جاتا ہے "هذا الشیء مہینۃ لک" یعنی یہ چیز تمہارے لئے ڈر کا باعث ہے۔

ہیت تہینا بفلان: چلانا۔ پکارنا۔ ہات اعم فعل بمنع اعطی: کہا جاتا ہے "ہات یا رجل و ہاتی یا امرأۃ و ہاتی یا رجلان و یا امرأتان و ہاتوا یا رجال و ہاتین یا نساء"۔

الہیت: بہت گہری زمین۔ کہا جاتا ہے "ہیت لک (بتثلیث التاء فیہما) یعنی ہلم و تغال یعنی آؤ، حاضر ہو اور جمع مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں۔ مگر عدد کا اظہار بعد

والے کلمے میں ہوتا ہے جیسے ہیت لکما و ہیت لکم و ہیت لکن۔

ہات ہیئت ہینا و ہینانا للفلان تھوڑا سا دینا۔ المال: ضرورت کے مطابق پانچویں الشیء: سیادۃ النوا اور ایسا کلمات الذنب فی الغنم: بھیرے نے بکریوں میں تباہی ڈالی۔ برغله التراب مٹی کو پاؤں سے کرینا (ہینا) القوم: جھگڑے کے وقت آپس میں ایک دوسرے سے گتھ جانا۔ ہنا۔

ہایئہ مہایئہ: کثرت مال یا کثرت عدد پر فخر کرنا۔

تہیت تہینا لہ شینا: دینا۔ تہینوا: جھگڑے کے وقت آپس میں ایک دوسرے سے گتھ جانا۔

استہات استہاتۃ: ما اعطاه: زیادہ کرنا۔ المال: تباہ کرنا۔

الہیت: حرکت۔ الہیۃ: لوگوں کی جماعت۔

ہایئہ القوم: قوم کا شور۔ المہایب: بہت لینے والا۔

جمع کرنا الرُّجُلُ بشاد ہونا۔
 الهيضة: الرُّجُلُ مخلوط جماعت۔ اضطراب۔ تذبذب
 هيئات.
 هاض يهض هيصا بالشئ: تفتي برتتا
 عنقه: بردن توڑنا الطير پرندہ کا بیت کرنا۔
 المهايض: بیت کرنے کی جگہ۔
 واحد مهيص.
 الهيض: پرندے کی بیت۔

هاض يهض هيصا الطائر: پرندہ کا بیت
 کرنا فلان العظم: ہڈی کو جڑ جانے کے بعد
 توڑ دینا۔ اور کہا جاتا ہے "فما
 فهاضه كذا" مریض اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اس
 کو فلاں چیز نے پھر دوبارہ مبتلا، مرض کر دیا
 الحزن قلبه: بار بار غم لاحق ہونا۔
 الحزن اور ریزہ ریزہ کرنا۔
 هاضه: ہاضیختہ کرنا۔ بھڑکانا۔ آسانا۔
 هيضة: ہاضیختہ کرنا۔ بھڑکانا۔ آسانا۔

تهيض تهيصا وانهاض انهياضا
 العظم: ہڈی کا جڑ جانے کے بعد توڑنا۔
 تهيصه المرض ونحوه: بیماری کا بار بار
 لوٹنا۔

انهياض انهياضا العظم: ہڈی کو جڑ جانے
 کے بعد توڑنا۔
 الهيض: پرندے کی بیت۔
 الهيض: لوگوں کی جماعت۔

الهبيضا: حاض کا اسم مرۃ۔ رنج و غم کا عود۔
 الهيضة: بیماری کے بعد بیماری۔ پیٹ کا چلنا
 نیند لاحق ہونے کی وجہ سے
 الكرى: جڑنے کے بعد توڑی ہوئی
 عظم مهيص
 ہڈی۔

وه شخص جس کی ہڈی جڑ جانے
 کے بعد دوبارہ ٹوٹ جائے، وہ مریض جو صحت
 پانے کے بعد دوبارہ بیمار ہو جائے۔

هاط يهيط هيطا: شور مچانا۔
 هابط مهابطه وهباطا: شور مچانا۔
 فلانا:
 تهابط تهابط القوم: اکٹھا ہونا اور آپس
 میں اپنے معاملات دوسرے سے کرنا۔

هاذبه يهيد هيدا وهاذا: گھبراہٹ میں
 ڈالنا۔ تم زوہ کرنا۔ بلانا۔ درست کرنا۔ زائل
 کرنا۔ منہدم کرنا۔ بزرگنا۔ جھڑکانا۔ ڈانٹنا۔ کہا
 جاتا ہے "ها يهيدني ذلك" یہ چیز مجھ کو
 برا ہیختہ نہیں کرے گی اور نہ اس کی میں پروا کرتا
 ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ "وکا استعمال
 حرف نفي کے ساتھ خاص ہے۔
 يهيد"

هيدة تهيدا: ہادہ (مذکورہ بالا معانی
 میں) هيد الرجل: تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے "فا
 هيد عن شئ" وہ مجھے گالی دینے سے نہ
 پیچھے ہٹاؤں گا۔

س۔ اونٹ کی ڈانٹ کا لکہ۔ کہا جاتا ہے
 الهاد:
 "مذله هاد" یعنی وہ ایسا ہے کہ نہ تو اسے منع
 کیا جا سکتا ہے نہ ڈانٹا جا سکتا ہے۔

س۔ مضطرب و پریشان۔
 الهيد:
 بزل۔ مضطرب۔ بیوقوف۔
 بخل الهيدان:

هيره فتهير هوره فتهور
 جو منہدم اور ساقط ہو۔
 الهيار:
 الهير والهير: بادشاہ۔
 رات کا نصف اول۔ الهير والهير من
 اللیل:
 لاپرواہی سے کاموں میں گھس پڑنے والا۔

نرم زمین۔
 الهيرة: کمزور مرد۔
 رجل هيار: ایک قسم کی سمجور۔
 واحد:
 الهيرون:
 هيرونة:

كبهاس يهيس هيسا الشئ ومن الشئ
 بكثر: تیزی سے چلنا۔
 فلان:
 بہادر۔ بہت کھانے والا۔

الاهيس: کسی چیز سے نہ رکنے والا اونٹ۔
 من الابل:
 جوتنے کے لیے بیوں کی جوڑ
 اور بقول بعض اس کا کل ساں۔

خراب کرنا۔
 هاش يهيش هيشل الشئ: آنا۔ کہا جاتا
 ہے القوم:
 تم ہم لوگوں کے اوپر
 جوش و خروش میں آئے
 او نفي کو آہستہ آہستہ دوھٹا

الناقاة:
 المال:

هاج يهيج هيجا و هياجا و هيجانا
 الشئ: برا ہیختہ ہونا۔ سمندر کا
 جوش مارنا الرُّجُلُ: بیوقوفی سے
 ہونا۔ بہادر ہونا۔ کود پڑنا الشئ وبالشئ:
 برا ہیختہ کرنا هاجت الابل:
 آدمیوں کا پیاسا ہونا۔
 هاجت النبت نباتات کا خشک ہونا۔
 هاجت الارض: سوکھی نباتات والی ہونا۔
 هاج الابل: آدمیوں کو رات میں گھاس یا
 گھات کی طرف چلانا۔ کہا جاتا ہے "هاجت
 السماء فمطرنا" آسمان میں ابرو باد ظاہر
 ہوا اور ہمارے اوپر بارش ہوئی۔

هيج تهيجا الشئ: برا ہیختہ کرنا۔ بھڑکانا۔
 کہا جاتا ہے "هيج بينهما الشئ"
 ان دونوں کے درمیان سرد و سرد کو بھڑکا دیا۔

هايجه و مهياج و هياجا:
 اور لڑائی کرنا۔
 اهاجت اهاجة الريح النبت
 ہوا کا نباتات کو خشک کرنا۔

اهيج اهاجا الارض:
 سوکھی نباتات والی
 پانا۔
 تهيج تهيجا:
 برا ہیختہ ہونا۔ بھڑکانا۔

تهايج تهايجا القوم:
 باہم لڑائی کرنا۔
 اهاج اهاجا الشئ:
 بھڑکانا۔
 الهاج:
 فاج۔ جوش۔ مضطرب۔ کہا جاتا ہے

"هاج هاجه" اس کا غصہ بھڑک گیا
 "وهذا هاجه"
 اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔
 کا مؤنث۔

الهاججة:
 خشک یا زرد گھاس والی زمین۔
 ارض:
 هاججة:
 س۔ لڑائی۔ زردی۔ خشک شدگی۔

الهاجج:
 حرکت۔ تیز ہوا۔ کہا جاتا ہے "هوج
 یا بادل بارش کا دن۔ جب بادل اول ہوج
 شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے "هاج له هيج"
 حسن:

مؤنثی سے ہونے والی مہیا ج استعمال ہے۔
 مینڈکی۔ ہینوج
 الهاجة:
 لڑائی۔
 الهيجا و الهيجاء:

الْهَيْقُ مِنَ الرِّجَالِ بَهِتٌ لِمَا تَزْكَوْا. اور
بقول بعض لمبا پتلا۔ شتر مرغ۔ ح. اھیق و

هَيْقُؤُتْ هَيْقَةٌ.

الْأَهْيَقُ لَبِي كِرْدُونِ وَاللَّـ

هَيْكُ تَهَيْكًا جَلْدِي كَرْنَا. کھودنا۔

هَيْكَا كَلْ كَانَادَه دَكْهِي۔

هَال يَهْلُ هَيْلًا عَلَيْهِ التَّرَابُ مِثْلُ ذَالِـ

هَيْلُ تَهَيْلًا عَلَيْهِ التَّرَابُ. مِثْلُ ذَالِـ

(تشدید لثرت کے لیے ہے)

تَهَيْلُ تَهَيْلًا وَأَنْهَالُ أَنْهَالًا التَّرَابُ:

مِثْلُ پُرْنَا۔ مِثْلُ ذَالَا جَانَا۔ کہا جاتا ہے ”هَالَةٌ

فَأَنْهَالُ وَهَيْلَةٌ فَتَهَيْلُ لِمَنْ نَعْنِي اس پر مِثْلُ

ذَالِ اور وہ پڑتی۔ اِنْهَالُوا عَلَيَّ فُلَانٍ فُلَانٌ

کولوگوں نے مارا اپنا گالی دی۔

الْهَيْالُ ذَالِ هَوِي رِيْت۔ کہا جاتا ہے ”زَمَلٌ

هَالٌ بَرْنِي رِيْت۔

الْهَيْلُ۔ گری ہوئی ریت یا خاک وغیرہ۔

اسی سے مثال ہے ”جَاءَ بِالْهَيْلِ وَ

الْهَيْلْمَانُ، یعنی وہ بہت مال لایا یا وہ ریت اور

ہوالایا۔

الْهَيْبَالُ ذَمِيرُ گِی هَوِي رِيْت۔ جمع شدہ ریت۔

الْهَيْلَانُ ذَمِيرُ گِی هَوِي رِيْت۔ جمع شدہ

ریت۔

الْهَيْالَةُ جَانِدُكَ ارْدُ كَرْدُ كَا حَلْقُ۔ ج. هَالَاتُ

الْهَيْوَلُ ذَرَاتُ جَوْرِ شَدْنَانِ مِثْلُ ذَهْوَبِ

پڑتے وقت معلوم ہوں۔

الْهَيْوَلِيُّ وَالْهَيْوَلِيُّ بَادَةُ اُولَى نَسْبِ

کے لئے

هَيْوَلِيٌّ وَهَيْوَلَانِيٌّ هَيْوَلَاتُ.

هَيْلَلُ هَيْلَلَةٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اِهْتَا۔

هَامُ يَهِيمُ هَيْمًا وَهَيْمًا وَهَيْمًا وَ

هَيْمَانًا وَتَهَيْمَانًا بَكْدًا. محبت کرنا علی

وَجْهِهِ: آوارہ چرنا (ہیما ہیما ہیما) کہا

جاتا ہے ”هَمَّ نَفْسِكَ“ یعنی اپنی ذات کے

لیے طلب کرو اور اسی کے لیے اہتہا م کرو۔

هَيْمَةُ الْحُبِّ محبت کا کسی کو پاگل کر دینا۔

تَهَيْمُ تَهَيْمًا الْهَوِي فُلَانًا پگل ہونے پر

برا بھرت کرنا۔ فُلَانٌ اِسْمِي چال چلنا۔

عورت یا ایک حالت پر قائم نہ رہنے والی
عورت۔

هَيْعٌ تَهَيْعًا السَّمَطُ الْأَرْضُ بَارَشُ كَا زَمِينِ
کواپنی طرح سے ترکنا۔

أَهْيَعُ الْقَوْمُ تَوْمُ كَا خَوْشُ حَالِ هُونَا۔

الْأَهْيَعُ تَرَوَاتَزَه زَمْدُگِ۔ بہت پانی۔ سر سبز

سال۔ وَالْأَهْيَعَانُ تَرَوَاتَزُگِ اور اچھی حالت

یا کھانا پینا۔

هَافٌ يَهَيْفُ هَيْفًا: بہت پیاسا ہونا (يَهَافُ

هَيْفًا) الْعَيْدُ غَلَامُ كَا بَهَاگِنَا۔ (هَيْفًا وَ

هَيْفًا) الْاِبِلُ اِدْنُوں كَا تَحْتِ پِيَاَسِ كِي وَجِ

سے مُنْهَ كَهْوَلُ كَر كَرْمِ هَوَا كِي طَرَفِ رَحِ كَرْنَا۔

هَيْفٌ يَهَيْفُ: هَافٌ يَهَافُ هَيْفًا وَ هَيْفًا

الْعَلَامُ پگل کمر والا ہونا۔ صفت مذکر اھیف۔

صفت مؤنث هَيْفَانِيٌّ هَيْفٌ.

أَهَافٌ أَهَافَةٌ الرِّجُلُ بِيَاَسِ اِدْنُوں وَالَا

ہونا۔

أَهْتَاَفُ اِهْتِيَاَفَا: پیاسا ہونا۔ صفت

مُهْتَاَفٌ.

اِسْتَهَافُ بَادُ دَمِيْفُ كے لگنے سے پیاسا ہونا

(دیکھئے هَيْفٌ).

الْهَائِفُ فَا۔ تَحْتِ پِيَاَسِ وَالَا۔

الْهَائِفَةُ: هَائِفٌ كَا مَوْنِثُ۔ تَحْتِ پِيَاَسِ كِي وَجِ

سے مُنْهَ كَهْوَلُ كَر بَادُ هَيْفِ كِي طَرَفِ رَحِ كَرْنَا

وَالِ اِدْنُوں (دیکھئے دَمِيْفُ).

الْهَيْفُ۔ گرم ہوا جو نباتات کو خشک کر

دیتی اور پانی کو سکھادیتی ہے اور حیوانات کو پیاس

میں مبتلا کر دیتی ہے۔ امثال عرب میں سے ہے

”ذَهَبْتُ هَيْفًا لِذِيَانِيهَا“ اس شخص کے

لیے بولتے ہیں جو اپنی عادت پر اڑا رہے، یا اس

وقت جب کہ ہر شخص اپنی اپنی حالت پر متفرق

ہو جائیں۔

رَجُلٌ هَافٌ پِيَاَسِ پَر صَبْرُنَا كَر سَكْنُ وَالَا۔

اِبِلٌ هَافَةٌ: جلد پیاسے ہونے والے ادنٹ۔

المَهْيَاَفُ وَالْمَهْيَانُ وَالْمَهْيُوفُ: پیاسا۔

تَحْتِ پِيَاَسَا۔ جلد پیاسا ہونے والا۔

أَهْيَقُ الطَّلِيْمُ: شتر مرغ کا لمبا ہونا۔

الْمَهْيُطُ۔ کہا جاتا ہے ”مَا زَالِ فِي هَيْطٍ وَ

مَهْيُطٌ، وہ ہمیشہ شور و غوغا اور برائی میں رہا۔ کہا

جاتا ہے هَمَّ فِي هَيْطٍ وَ مَهْيُطُهُ لَوُگِ

اضطراب اور آنے جانے میں ہیں۔

هَاعٌ يَهْيَعُ وَ يَهْيَاعُ هَيْعًا النَّسَى زَمِينِ پَر

پھیلنا الرِّصَاصُ: پھیلنا الرِّجُلُ: جھوکا ہونا

الْاِبِلُ اِلَى الْمَاءِ: خواہش مند ہونا الرِّجُلُ:

تکلف نے کرنا (هَيْعًا وَ هَيْعَةً وَ هَيْوَعًا وَ

هَيْوَعَةً وَ هَيْعَانًا: بزدل ہونا۔ گھبرانا

(هَيْعَةً وَ هَاعًا) تَحْتِ حَرِيصِ هُونَا مِّنْ

النَّسَى: تنگ دل ہونا، زنج ہونا۔

تَهَيَّعٌ تَهَيَّعًا وَأَنْهَاعٌ اِنْهَاعًا. النَّسَى:

زَمِينِ پَر پھیلنا۔ کہا جاتا ہے ”تَهَيَّعٌ وَأَنْهَاعٌ

السَّرَابُ: سراب زَمِينِ پَر پھیلنا ہوا ہے۔

الْمَهْيَاعُ فَا۔ لَيْلٌ هَائِعٌ: تاریک رات۔ کہا

جاتا ہے ”رَجُلٌ هَائِعٌ لَانِعٌ، بزدل۔ کمزور۔

گھبرانے والا مرد۔

الْمَهَائِعَةُ: الْمَهْيَاعُ كَا مَوْنِثُ۔ تیز آواز۔ دشمن

کی آواز جس سے تم خوف کرو اور گھبر او۔

الْمَهْيَاعُ: پھیلنا۔ کہا جاتا ہے ”رِيْحٌ هَيْعٌ

لِيَاَعُ، تیز ہوا۔

الْمَهْيَاعُ تَحْتِ لَاحِجٍ۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ هَاعٌ

لَانِعٌ، یعنی کمزور بزدل مرد۔ اور ایسا ہی اَفْرَاةٌ

هَاعَةٌ لِاَعِيَّةٍ“

الْمَهْيَعَةُ: دشمن کی آواز جس سے تم خوف کرو

اور گھبر او۔ سطح زمین پر بننے والی چیز۔ سخت

لاج۔ ہر آوازی برائی جو تم کو گھبراہٹ میں ڈال

دے۔ اَرْضٌ هَيْعَةٌ: کشادہ پھیلی ہوئی زمین۔

رَجُلٌ هَيْعٌ لَانِعٌ: کمزور گھبرانے والا مرد۔

الْمَنْهَعُ: برائی کی طرف جلدی کرنے والا۔

حیران۔

الْمَهْيَعُ: کھلا ہوا کشادہ راستہ۔ اور کہا جاتا ہے

”طَرِيقٌ مَهْيَعٌ“ ج. مَهْيَاعُ: بَلَدٌ مَهْيَعٌ.


کشادہ پھر۔

هَيْعُوتٌ هَيْعَةٌ: الْمَرْأَةُ: بدکار ہونا

(وَتَهْيَعُوتُ) ایک جلد بزنہ گھبرانا۔

الْهَيْعَةُ: نخت۔ ٹپس۔ بھوتی۔ بدکار

مغرب بھی ہیں اور جینی بھی۔ اور ایک لغت ایہا ہے۔	قلب مستہام۔ عشق و محبت کی وجہ سے شیفۃ و سرگشتہ دل۔	اھتام اھتیا ما لنفسہ: حیلہ کرنا۔ اُسْتَهْمُ فُوَادُه: محبت وغیرہ کی وجہ سے دل کا شیفۃ و سرگشتہ ہونا۔ صفت مُسْتَهَام الفُوَاد۔
المہیو فاریقون۔ زرد پھولوں والا پودا بعض طبی فوائد رکھتا ہے۔	المہیوم۔ سخت پیاس والا۔ ہِیَام کی بیماری والا۔	الہیانم۔ فا۔ حیران۔ نَجْهِيمٌ و ہِیَام۔ الہِیَام: وسوسہ میں مبتلا عشاق۔
ہیا۔ بعید کے لیے حروف نداء میں سے ہے اور اس کی اصل آیا ہے۔	الطائر علی فراخہ: پرندے کا بچے پر پھیلاتا۔	الہیام۔ ہمیشہ گرتے رہنے والی ریت نَجْم۔ الہیام۔ جَوْن عشق۔ سخت پیاس۔ الہیام: سخت پیاس کی بیماری جو اونٹوں کو ہوتی ہے۔
ہی بی بی و ہیان بن بیان غیر معروف شخص جس کے والد کا بھی پتہ نہ ہو۔	فلان علی کذا نگہبان ہونا۔	الہیم۔ سر۔ کہا جاتا ہے "ہیم اللہ"۔ بمعنی "ایم اللہ" یعنی خدا کی قسم۔
ہی۔ اسم فعل بمعنی امر ہے یعنی جس کام میں تم ہو جلدی کرو۔ اس کے آخر میں کاف خطاب لاحق ہوتا ہے جیسے ویدک اور ہاک میں، کہا جاتا ہے ہیک اور کبھی ہتھیہ کے لیے "ہیا" اور جمع کے لیے "ہیو" کہا جاتا ہے۔	المہیمن۔ الہیمین۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہیں۔ بمعنی خوف سے امن دینے والا یا عمل روزی موت و حیات وغیرہ کا کفیل۔	الہیماء بے پانی کا بیابان۔
ہیا ہیا اسماء افعال میں سے ہے یعنی جلدی کرو۔	الہینمۃ۔ پست آواز۔	الاہیم۔ ہِیَام کی بیماری والا۔ مَوْتِہِیْمَاء نَجْم۔ لَیْل اھیم و لَیْلۃ ہِیْمَاء: رات جس میں ستارے نہ ہوں۔
الہیۃ۔ شان۔ معاملہ۔ کہا جاتا ہے "ما ہیۃ" اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کی کیا حالت ہے۔	الہینوم غیر مفہوم کلام۔	الہیمان۔ پیاسا ہیم کی بیماری والا۔ مَوْتِہِیْمِ نَجْم و ہِیْمِ۔ رَجُلٌ ہِیْمَان: محبت کی وجہ سے شیفۃ و سرگشتہ فرد۔
	ہیہ ہیہ۔ کسی چیز کو دفع کرنے کیلئے بولا جاتا ہے (کلمہ استزادہ ہے)	الہیوم۔ حیران۔
	ہیہات۔ بتثلیث الاخر: اسم فعل ہے بمعنی دور ہوا۔ اور اس میں چند لغات اور ہیں	رَجُلٌ اھیم سخت پیاس والا مرد۔
	ایہات و ایہان و ہیہات و ہایہات و ہایہان حرف آخر میں تینوں حرکتیں ہیں۔	



ی: الیاء حروف تہجدی میں سے اٹھائیسواں حرف ہے۔ یہ حروف جوف سے ہے۔ بحساب جمل اس کا عدد (۱۰) ہے۔

الیاء ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے جیسے تَقْوَمِینَ وَ قَوْمِی اور ضمیر متکلم کا کام دیتی ہے جیسے ضمیر بنی و کتابی۔

یا: حرف ندا ہے۔ بعید و قریب دونوں کے لیے اور کبھی منادی محذوف ہوتا ہے جیسے یا "لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ" و یا "رَبُّ کَاسِیةٍ فِی الدُّنْیَا عَارِبَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ" اور یا یہ کہ ان جیسی تراکیب میں یا صرف تنبیہ کے لیے ہے۔

اور "اَتَانِی رَجُلٌ وَیَالَهُ رَجُلًا اَوْ مِنْ رَجُلٍ" و "یا لک من فارس" جیسی ترکیبوں میں یا حرف ندا اور لام توجب کے لیے ہے۔

ییس ییاس و یئیس یاسا و ییاسا منہ: نامید ہونا۔ صفت فاعلی یانس و یؤس و یؤس جمع یؤوس اور صفت مفعولی میؤوس منہ اور یئیس جانتے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے "اَلَمْ تَبْأَسُوا اَنِّی ابْنُ فَارِسٍ زَهْدَمٌ" کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں فارس زہدم کا بیٹا ہوں۔

یئست المرأة تیاس: بانجھ ہونا۔ صفت یانس

ایاسا یناسا وائیسہ ایاسا و مؤایسہ: نامید کرنا۔ یاس اللہ المرأة بانجھ کرنا۔

اتاس اتناسا و استیاس استیاسا منہ: مایوس ہونا۔

الیاس و الیاسا: نامیدی۔ یایا یایا و یایاء القوم پکارنا۔ بالابل: ائی کہہ کے ٹھہرانا (ای ایک کلمہ ہے جس سے اونٹوں کو ڈانٹتے ہیں)

یایا لوگوں کے جمع ہونے کے لیے پکارنے کا اسم صوت۔

الیاء: سنیوئو نای شکاری پرندہ کی چیخ۔ الیؤئو: ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ باز کے مشابہ مگر اس سے کچھ چھوٹا جس کو جلم بھی کہتے ہیں نہجایی۔

ییب المنزل: ویران کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَرَبُوهُ وَ بَیَّوُوهُ" انہوں نے اسے تباہ و ویران کیا۔

الیباب ویران۔ کہا جاتا ہے "منزل خراب یاب" ویران منزل۔

الایید: ایک قسم کی نباتات۔

ییسن ییس و ییسس ییسا و ییسا و ائیس خشک ہونا۔ صفت ییس و ییس و یابس و بوس و ییسس و ائیس کہا جاتا ہے "ییس ما یئیسما" ان دونوں کے تعلقات منقطع ہو گئے۔

ییس و ائیس الشئی خشک کرنا۔ ائیس المکان خشک نباتات والی ہونا۔ ائیس القوم خشک زمین میں چلنا۔ ائیس العوذ خشک ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "ائیس یا رجل"

یعنی چپ رہو۔

استیس الریق تھوک خشک ہونا۔

الیاس: فائیس راجل یابس بے برکت آدمی۔ حجر یابس سخت پتھر۔

الییس خشک جس میں کبھی تری نہ رہی ہو۔ خشک جگہ جو پہلے تر رہی ہو شاد آیس بے دودھ کی بکری۔

الییس: سر خشک۔ یابس کی جمع۔ جیسے راکب کی جمع راکب کہا جاتا ہے راجل ییس بے برکت شخص۔

شئی یابس خشک چیز۔ الیؤسہ خشکی۔

ییس الماء: پسینہ۔

الایسان کلانی یا پٹھلی کے کنارے کی ہڈیاں جن پر گوشت نہیں ہوتا۔

الایابس سخت چیزیں جن پر تلوار کی آزمائش کی جاتی ہے ائیس کی جمع۔

المیاس پودوں کو خشک کرنے والی ہوا۔ الینوع و الینوع دودھ والے پودے ج ینوعات۔

یتیم یتیم و یتیم یتیم و یتیم یتیم و یتیم یتیم الصبی من ایہ: یتیم ہونا۔ یتیم (رض) یتیم کو تائی کرنا۔ سستی کرنا۔ ٹھکانا۔ دیر کرنا منہ هذا الامر رہائی پانا۔

یتیم الصبی یتیم ہونا۔

یتیمہ و ایتیمہ یتیم کرنا۔ ایتیمت المرأة یتیم بچوں والی ہونا۔ صفت موتہ ج

جن پر جو اٹھایا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں تادمہ تھا کہ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور اٹھائیں یا دس حصے کرتے تھے اور پھر ان پر تیروں سے قرعہ ڈالتے تھے اور تیروں میں حصے والے اور بے حصے والے دونوں ہوتے تھے جس شخص کے نام حصہ والا تیر ڈالتا تھا وہ اتنا حصہ لے لیتا تھا اور جس شخص کے نام پر بے حصہ کا تیر نکلتا تھا وہ اتنا حصہ لیتا تھا۔

المیسرة بائیں جانب۔ بائیں جانب کا دستہ فوج میاسر (والمیسرة والمیسرة) آسانی۔ تو انگری۔

المیسور۔ آسان کیا ہوا۔ آسان ج

میاسیر۔

الیاسمین والیاسمون۔ چینی۔

یسین یسن یسن الماء۔ شیر ہونا۔

الیزب والیزب۔ یشب۔

الایصر۔ سوئی حاس ج ایاصر۔

یعرث یعرث یعرث یعرث یعارا الشاة او المعزى۔ بکری کا بچہ جس کو شیر اور بھیرے کے شکار کے لیے گڑھے کے پاس باندھ دیتے ہیں ج

الیعسوب۔ شہدی نکلیوں کا بادشاہ۔ ج

یعاسب۔ ہرن۔

الیعفور۔ ایک جانور جو کتے سے چھوٹا اور بلی سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور خاکستری رنگ کا ہوتا ہے اور اس کو غریب بھی کہتے ہیں۔

یَفَخُ يَفَخُ يَفَخُ يَفَخُ الْوَلَدُ۔ لڑکے کی چندیا پر مارنا۔

اليفوخ واليفوخ۔ نوموود بچے کے سر کا وہ حصہ جو حرکت کرتا رہتا ہے ج

یو افیخ۔ اور

کہا جاتا ہے "صَدَحَ الْقَوْمُ يَفُوحُ اللَّيْلُ" جب کہ رات میں "ومس بيافوخه السّمَاكُ" جبکہ تکبر کرے "فلاذق يوافيخ القروم" جبکہ سب لوگ سرکاری کو

سے جننا۔

يَاسِرَةٌ مَيَاسِرَةٌ نَزِيٌّ بَرْتَانُ۔ بائیں جانب سے آنا۔ یاسر۔ الشّعبُ۔ بائیں جانب لینا۔

بِالْقَوْمِ بِأَهْمِ آسَانِي وَنَزِيٌّ كَرْنَا۔

تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ مَقَاتِلَهُ كَيْلَيْهِ تَارَ هَوْنَا الْبِلَادُ۔

سر سبز ہونا التّھارُ دن کا ٹھنڈا ہونا

(وَأَسْتَيْسِرُ الْأَمْرُ) آسان ہونا۔

وَأَسْتَيْسِرُ الْأَمْرُ تَيَارَ هَوْنَا۔

تَيَاسِرُ بِأَهْمِ آسَانِي كَرْنَا الرَّجُلُ۔ بائیں جانب سے کرنا القومُ۔ بائیں جانب لینا

(وَأَسْتَيْسِرُ الْأَمْرُ) القومُ جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو باہم تقسیم کرنا۔ اور کہا جاتا ہے

"تَيَاسَرَتِ الْأَهْوَاءُ قَابِيَهُ" خواہشات نے اس کے دل کو تقسیم کر لیا۔

التيسر والبسر واليسارة۔ آسانی، نرمی، تو انگری۔ ایک درخت کا نام جس کا

داند بہت کالے رنگ کا ہوتا ہے اور خوشبو اچھی ہوتی ہے اس کو کھیلنے کے لئے دھاگے میں پرو لیتے ہیں۔

اليسار۔ آسانی۔ تو انگری (واليسار)

بایاں۔ ج یسر و یسر تیار کیا ہوا۔ جو کھیلنے میں آسان۔

اليسار۔ کہا جاتا ہے والوں کی جماعت ج

"رَجُلٌ أَعْسَرَ يَسْرٌ" دونوں ہاتھوں سے یکساں کام کرنے والا مرد۔ اور مؤنث کے لیے

عَسْرَاءُ يَسْرَاءُ۔

فَا آسان۔ بایاں۔ جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو تقسیم کرنے کا منتظم۔ قضائی ج

آيسار۔ ہاتھ کی غیر متصل کبیریں۔ دونوں

اليسرة دغ ج

بلی ٹانگیں۔ آيسار و يسرات۔

اليسرات۔

اليسرى۔ بائیں جانب والی۔ آسان۔

الایسر۔ کم۔ نرم آسان (والیسور)

اليسر۔ چوئے باز۔ ج

یسر۔ تیروں کا جوا۔ ذبح شدہ جانور

المیسر۔

اليزاع واليزع۔ بھنگا۔

اليزاعة۔ جلنو۔ رطل۔ ج یزاع۔ جردا بے

کی باسری۔ قلم۔ بیوقوف۔ بزدل۔ جھاری۔ شتر مرغ۔

اليزوع۔ خوف۔ ڈر۔

يزوق۔ برفان کی بیماری والا ہونا۔

اليزقان واليزقان۔ کھیتی کے لیے ایک آفت جس میں کھیتی پھٹی پڑ جاتی ہے۔ یا کبڑے

جو کھیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک مشہور بیماری کا نام جس سے بدن پیلنا ہو جاتا ہے۔

الميزوق والمأزوق۔ من الزرع والناس۔ برفان زدہ۔

اليزقانة والادت کے قوت جانوروں کا اپنی صورت کو غضبناک اور خطرناک حالت میں

کرنا۔

اليزمع۔ پھر کی۔ سفید چمکنے والی کنکریاں ج

برامع۔ ہاتھی کا داغ۔ جانور کا پسینہ۔ نر جانور کی

یزونا یزونة الشی۔ مہندی سے رنگنا۔

اليزنا واليزنا واليزناء۔ مہندی۔

یسر یسر یسرا و یسرا۔ نرم ہونا۔ مطب

ہونا۔ یسوت المرأة۔ آسانی سے جننا۔

جوا کھینا۔ بائیں جانب سے آنا

القوم الناقة۔ حصے کر کے گوشت کو تقسیم کر لینا۔

یسر یسر یسرا۔ کم ہونا۔ صفت یسر۔

یسر یسر یسرا و یسر یسر یسرا

الامر۔ آسان ہونا۔ صفت یسر۔

یسر الشی لفلان۔ آسان کرنا۔ تومش دینا

(خیر و مردوں کے لیے مستعمل ہے)

یسر الغنم۔ زیادہ دودھ دینے والی ہونا۔

یسر الرجل۔ آسانی سے بچنے والی بکری اور اونٹ والا ہونا۔

آیسر ایساراً۔ دولت مند ہونا۔ صفت

یوسیع میاسیر۔ آیسر الرجل۔ مطالبہ میں کسی نہ کرنا۔ آیسر المرأة۔

نشان بیابان۔ سخت سال۔ مضبوط او نغی ارض
بہمءا۔ بے نام و نشان دے چراگاہ زمین۔
بسون نھم۔ بے گھاس و پانی اور بے درخت
والے سال۔

یہود دیکھے مادہ ہود۔
یوح و یوحی۔ آفتاب کے ناموں میں سے
ہے۔ کہا جاتا ہے "جعلک اللہ اعمر من
نوح و انور من یوح، اللہ تعالیٰ تیری عمر
نوح کی عمر سے بھی زیادہ دراز کرے اور آفتاب
سے زیادہ روشن کرے۔

الیوذ سیاہ خاکستری بلوری رنگ کا جسم جس کا
دھواں تیزی سے پھیل جاتا ہے۔

الیوم الشمسی الحقیقی وہ وقت جب
سورج خط باہرہ سے دو دفعہ گزرتا ہے۔

یاومہ یواما و میاومہ دنوں کے لحاظ سے
معاملہ کرنا۔

الیوم دن۔ وقت۔ کہا جاتا ہے "ذخونک
لہذا الیوم" تم کو میں نے اسی دن کے لیے
ذخیرہ بنایا تھا۔

آباد کے دن یعنی خدا کے انعامات یا سزا میں آباد
العرب جنگ ہائے عرب: ابن الایاد:
زمانہ شناس۔ "ابن الیوم" زمانہ ساز۔ کہا جاتا

ہے "یوم ایوہ" مہینے کا آخری دن۔ "یوم
ایوہ و یوہ و وروہ و ذو ایاد و ذو ایاریم
و ذو ایاییم" تحت طویل دن۔

الیونان یونانی لوگ۔ ایک ملک کا نام۔
یونانی یونان کا رہنے والا۔ ترانیون
الیایوی یا کی جانب منسوب۔

الیسمیہ خود۔
بیاتینیۃ الیاء لکھا۔

مسافر کے لیے دُعا ہے یعنی توفیق کے ساتھ
سفر کرو۔

الیسوت ایک قسم کی نباتات۔
ینبوع دیکھئے مادہ نبغ۔

الیانسون ایک قسم کی خوشبودار نباتات۔
ینع ینیع وینیع ینعا وینعا وینوعا
وینیع الشیر پھل کا پختہ ہونا۔ صفت یانع۔

ج ینع۔ وینع الیانع ہر چیز کا سُرخ وینع
الشئی نیز سُرخ ہونا۔
الینوع خون کی سُرخ۔

الینع سُرخ مہرہ۔ واحد ینعۃ عقیق کی ایک
قسم۔

الیسم ایک قسم کی نباتات واحد ینسمۃ۔
ایہت ایہانا الذحم گوشت بدبودار
ہونا۔

استیہر بے عقل ہونا فی الامر: کسی کام
میں مدت گزارنا بالامر یعنی کرنا۔

الیہر والیہر کشادہ جگہ۔ کسی کام میں
مدت گزارا۔

الیہیر سراب۔ سخت پتھر۔ لجاجت جھوٹ،
اندران۔ زہر۔

الیہیری بہت پانی۔ باطل۔
المستیہر فاء بہت لجاجت کرنے والا۔

الیہفوف بزدل۔ بیوقوف۔ چھیل زمین۔
تیز قلب۔

الیہم دیوانگی۔ جنون۔
الیہیم دیوانہ۔ مجنون۔ خشکی۔ بلند پہاڑ۔

بہرا۔ دلیر، چکنا پتھر، بے نشان شہر لیل الیہم
بے تاروں والی رات۔ مؤنث یہماء ج ینہم
الیہماء۔ اینہم کا مؤنث۔ بے پانی، اور بے

و ایمان و ایامن و ایامین تصغیر یمین
بغیر ہاء کے ج یمان۔

الیمین ج ایمن و ایمان قسم (مؤنث)
ایمن اللہ اسم ہے جو قسم کے لیے وضع کیا

گیا ہے اور اس کی تفریر ایمن اللہ قسمی
ہے اور اس میں اور بھی لغات ہیں۔ ایمن
اللہ و ایمن اللہ و ایمن اللہ و ایمن اللہ

اور اسی کے معنی میں ہے ایہ اللہ و ایہم اللہ
واہ اللہ میم کی تثلیث سے و من اللہ میم اور
نون کی تثلیث سے و مالہ میم کی تثلیث سے

اور کہا جاتا ہے "یمین اللہ لا افعل" قسم
اللہ کی میں نہیں کروں گا۔

الیمین برکت و قوت۔ ج ایمان کہا جاتا
ہے "فلاق عندنا بالیمین" فلاں ہمارے

زردیک اچھے رتبہ پر ہے۔ و قدم علی ایمن
الیمین وہ برکت کے ساتھ آیا۔

الیمنی دایاں ہاتھ یا دائی جانب۔ قنی
تیمیان ج یمینات

الیمنۃ و الیمینۃ یعنی چادر۔
الایمن دائی جانب۔ مؤنث یمان ج

یمن و ایامن کہا جاتا ہے "دھب الی
ایمن الابل" وہ اونٹوں کی دائی جانب گیا

"و نظر ایمن منہ" اس نے دائی جانب
دیکھا۔

الیمنۃ برکت۔ دائی جانب کا دستہ فوج ج
میامن

الیمن برکت لانے والا۔
الیمنون مبارک۔ ج میامین کہا جاتا
ہے "ہو میمنون الطائر" وہ مبارک چہرہ
والا ہے "وسر علی الطائر المیمون"

ملحق

جدید عربی الفاظ

جواہل عرب کے ہاں دورِ حاضر میں بولے جاتے ہیں

ابد - الموبد: ہمیشہ جس کی انتہا نہ ہو۔
کہا جاتا ہے: صَحْنٌ مَّوْبَدٌ: عمر بھر کا قیدی۔
ابو - الأبوّة: باپ ہونے کی صفت۔ جَيْهَوَةٌ
شرعیّۃً شرعی (قانونی) باپ ہونا۔ اَبُوَّةٌ
طبیعیّۃً:

طبعی باپ ہونا۔ خاص اجتماعی نظام جس میں
خاندان یا قبیلے پر باپ کی مطلق العنان حکومت
ہو۔ اس کو نظام یادور نظر پر کی کہا جاتا ہے۔
سربراہ کی حکومت رعایا پر یا کام کرانے والے کی
مزدوروں پر اجتماعی نظام حکومت روحانی طور پر
کا بہن اہم (باپ) بولتے ہیں۔

اثر - الاثنا: ترجیح و تفضیل۔ دوست کو
ترجیوں پر ترجیح دینا۔ عزت کو منفعیت پر ترجیح
دینا۔ ذالی بہتری پر دوسروں کی بہتری کو ترجیح
دینا۔ مہمان کی عزت کرنا۔ اِثْنًا کذا
و کذا۔ کسی کی کسی بات میں اتباع کرنا۔

اخو - المُوخْرَةُ: سب سے آخر میں چیز۔
جَيْهَوَةٌ خِرَّةٌ سَفِينَةٌ: کشتی کا چھلا حصہ۔
فوج کا آخری دستہ جو گرائی و حفاظت سامان کی
ذیوبی انجام دیتا ہے۔ اس کا ضمیمہ مَدَمَةٌ۔

ادب - الادبی: المعنوی۔ روحانی ادب جو
کہ مادی ادب کے مخالف ہے۔

ادب اور سزا دینے کا مرکز جن کا تعلق اخلاق
سے ہے۔ معنوی کو لاہوت ادبی بھی بولا جاتا
ہے۔ وہ جسکو ادب کے وسیع تر معنی کی طرف
منسوب کیا گیا۔ یعنی انسان کے اندر فنی ادب کو

پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اسی کو ادبی
بحث و تنقید بھی کہا جائے گا۔
اَلتَّزَامُ ادبیّیّ جو قواعد سلوک کے مطابق اور
معاشرے کی نگاہ میں بھلا معلوم ہو۔

جَيْهَوَةٌ ادبیّیّ: ادبی ذوق

اَسْلُوبٌ ادبیّیّ: ادبی اسلوب۔

وہ ادب جس کا تعلق کلام کو خوبصورت انداز
میں پیش کرنے سے ہو۔

اَلتَّأْدِيبُ: نوجوانوں کو مہذب بنانا۔

جانوروں کو سدھانا۔ اولاد کو برے کام پر سزا
دینا۔ شاگردوں کو فنون و ادب کی تعلیم دینا۔

اصلاح اور حسن اخلاق کی تربیت دینا۔

حدیث (ادبیّیّ ربیّی فاحسن تأدیبیّی))

میرے رب نے میری اچھی تربیت کی۔

فقد میں تقادیب: معمول ملامت کرنا جس کا
مقصد اصلاح ہوتا ہے۔

اَلْمَجْلِسُ التَّأْدِيبِیّیّ وہ حکومتی تنظیم جو
خلاف قانون امور پر مرکزی نگاہ رکھے۔

اَلذَّنُّ اَلْمُوذَّنُّ: اعلان عام کرنے والا۔

اسلامیّا: نماز پڑھنے کی طرف مآثر الفاظ کے
ساتھ دعوت دینے والا۔

ازو - الاَزْوَتُ نائز و جن (بے رنگ و بے
ذائقہ و بے اعراض) علامت ایسی نمبر کمیتی

140 008 7 N

الاستراتیجیّی الاستراجیجیّی کی طرف
منسوب۔

سست - الاستراجیجیّی: فوجی قیادت میں لشکر
کو چلانے کا ایک خاص فن۔

موقع استراتیجیّی: مخصوص فن قیادت کا
مقصود۔

سسو - التماسیّی: صبر و حوصلہ کرنا۔

اصل - الاصلیّی: بڑا اثر دہا جو کہ زہر سے عاری
ہوتا ہے جس کی لمبائی (17) میٹر سے زیادہ
ہوتی ہے شکار کو اپنے جسم میں لپیٹ کر پکڑتا
ہے پھر اس کو نگل جاتا ہے۔

افس - الاُفسُتُ: اشیاء کو طبع کرنے کا ایک
طریقہ جس میں معدنی پلیٹ سیاہی سے بھری
ہوتی ہے اس پر حروف و انصوس ہوتے ہیں ان
کو کاغذ پر منتقل کرتی ہے۔ آد طباعت (پریس)

اکل - التَّاکُلُ و التَّاکُلُ: مواد یا جسموں کو
رگڑنے یا کیمیائی تاثیر سے تراشنا ہموار کرنا۔

مآخُلٌ حدید: لوہے کو رگڑنا۔ تآخُلٌ

ضخو: پتھروں کو تراشنا۔

الف - الاِنْتِلاَفُ: اجتماع اور موافقت

انتلاف اشخاص: ایک ہی آواز سے سب
کا مل کر بولنا یا پڑھنا۔

الانتلاف فی البلاغۃ: الفاظ کی الفاظ کے
ساتھ یا ان کے معنی کے ساتھ مطابقت۔

الانتلاف فی السیاسة: مخالف دھڑوں کا
سیاسی میدان میں اتحاد۔ حکمہ انتلاف

انتخابی اتحاد۔

الک - الاِنْتِکَرُونُ: الکھرب و الکھیرب

چھوٹا عنصر جو بجلی پیدا کرے۔

۱۵۔ انصاف: امام کی طرف نسبت یا امامت کی طرف۔ شیعوں کا ایک فرقہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ امامت دین کے اصولوں میں سے اصل ہے۔ اور وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے حق میں نبی کی طرف سے واضح نص ہے۔

امن - لامستما: در خواست فارم - داخلہ فارم - خارجہ فارم -
امن مجرد: ایک فرد یا ادارہ کے دو یا دو سے زیادہ افراد کا خفیہ سازش کرنا۔

امن و امان: بے خطر و بے خطر کرنا۔
امن و امان: بے خطر و بے خطر کرنا۔

امن - الامن: مصدر امن کا۔ بے خوف سکون۔ جیسے کہا جاتا ہے: ماہ شی امن بے خوفی میں سونا۔ شہروں کی حالت حفاظت نظام اور احترام قانون کے لحاظ سے۔ اسی سے ہے۔

افقوی الامن یعنی امن و امان کی حفاظت کے لئے فورس و ساز و سامان۔

الانسان کسی شخص کو کسی چیز پر امین بنانا۔ کسی کو امین شمار کرنا۔

فی القلوب کسی شخص کے سپرد کرنا مال منقول یا یر منقول، قرض یا امامت، وکالت نامہ، اجرت نامہ، عاریہ چیز، زمین، کسی سے کام کرانا اجرت پر یا بلا اجرت۔

سواء الانسان جان بوجہ کہ انسان متعده چیز میں خرابی کرنا۔

الانسان فی الاقتصاد انسان تجارتی۔ مال کو بطور قرض دینا تاکہ برآمد و درآمد میں اضافہ ہو۔ اس میں دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ (۱) اتاد (۲) وقت مقرر۔

التائیس کسی کو امن و اطمینان میں کرنا۔ کسی کو مال منظم و امین بنانا۔ خوراک میں تحقیق و ایجاد کرنا۔ آمین کہنا۔

انٹرنس (بیمہ) کسی شے کی حفاظت کا ذمہ دار ہونا اور ضمانت لینا اور بصورت نقصان تاوان ادا

کرنا۔ اس کو عقد نامہ اور قسط نامہ بھی کہا جاتا ہے۔

فی الادارة: (نامین العداد) نامین جہاز الہاتف، بجلی و ٹیلی فون وغیرہ کے اداروں میں بیر پلیسی اختیار کرنا۔

انز - الانزیجہ جلدی لکھل جانے والا مادہ جو کیمیائی اثرات کو قبول کرنے پر مدد کرتا ہے۔

انس - الانسانی انسان کی طرف منسوب۔ طبعیت انسانیہ انسانی طبعیت۔

علاقات انسانیہ انسانی تعلقات۔

رحل انسانی انسان سے محبت اور خیر خواہی کرنے والا مرد۔ عمل انسانی یتیم خانہ قائم کرنا انسانی کام ہے۔

انسانیہ کسی پر حسد (ظن) انسان کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے۔

لا طینی اور یونانی پرانے آداب کی تحقیق پر بولا جاتا ہے تاکہ اس کو الہیات (معبود والے اوصاف) سے تمیز کیا جاسکے۔

یہ لفظ آداب، فلسفہ، فنون، ایوان اور تاریخ وغیرہ کی تحقیق پر بولا جاتا ہے تاکہ علوم مضبوط سے تمیز ہو سکے۔

التائیس ناموس کرنا۔ انسانی صفات و اعمال و دیگر کائنات کی طرف لگانا۔

فی التصوف مرید کو گرویدہ کرنے کے لئے محسوس تجلی کرنا۔

المانوس جس کو انت دی گئی اور وحشت دور کی گئی۔ مکان مانوس وہ جگہ جہاں انسان کو دل لگی ہو۔ حسب مانوس پسند کی گئی آواز۔

عام لوگوں کے نزدیک: مانوس قبول کی گئی کلام اور مالوف سے مراد غیر مانوس کلام۔

الاهلج مختلف انواع کے درختوں کی جنس جو لکڑی، پھل اور رنگنے کے کام بھی آتے ہیں۔ (علم ہندسہ) میں شکل بیضوی جس کو قطع ناقص بولتے ہیں۔

اوز - الاوزن آسٹین کی ایک طاقتور عنصر جو کہ پانیوں کی صفائی کے لئے استعمال کی جاتی

ہے۔

اول - التاویل کلام اللہ کی تفسیر کرنا۔

تاویل نص نص کی تقدیر۔ تاویل الروایا: خواب کی تعبیر و حقیقت بیان کرنا۔

تاویل القرآن و الحدیث نصوص دینیہ کی وضاحت اس کے ظاہری معنی سے علاوہ کے ساتھ کرنا۔

الایلولہ: آل کا مصدر ہے جس کا معنی رجوع کرنا۔ الایلولۃ الی الجبل پہاڑ کی طرف واپسی۔ ایلولۃ صیرات ایک سے دوسرے کی طرف حق یا مال منتقل ہونا۔

اون - الاونی الاقن کی طرف منسوب۔

حدث انی: فوری واقعہ۔ موضوع جس میں وہ حال جس میں اب ہو یا وہ موضوع جس میں اب ہو۔

الادب سبکو اقوام متحدہ کا تنظیمی ادارہ جو ۱۹۴۶ء میں قائم ہوا۔ اس کے اہداف میں سے اقوام متحدہ کے تحت ممالک کے درمیان تعلیم و تربیت کا تعاون کرنا، نشر و اشاعت کی آزادی اور تعلقات کا کسی حد تک استحکام اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ ہے۔

مشرق وسطیٰ کے لئے بیروت ہے۔

ایون - الایون ایک یا مجموعہ ذرات جن میں منفی اور مثبت بجلی بھری ہو۔

نار - النار مشروبات کی دکان جس میں خریداروں کو کھڑے ہو کر یا بٹھا کر مشروبات دیئے جاتے ہیں۔

باص - الباص بس۔ بڑی گاڑی۔

بت - البت ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے نشریات۔

بحر - البحر بحیرہ سمندری لشکر جن میں افراد کشتیاں، آبدوز کشتیاں اور بحری بیڑے شامل ہیں۔

بحرہ: تجارتی وہ تمام کشتیاں جو کہ سامان تجارت اور مسافروں کو اوارے لے جاتے ہیں۔

بحر - البحر بحیرہ سمندری لشکر جن میں افراد کشتیاں، آبدوز کشتیاں اور بحری بیڑے شامل ہیں۔

بحرہ: تجارتی وہ تمام کشتیاں جو کہ سامان تجارت اور مسافروں کو اوارے لے جاتے ہیں۔

بحر - البحر بحیرہ سمندری لشکر جن میں افراد کشتیاں، آبدوز کشتیاں اور بحری بیڑے شامل ہیں۔

بحرہ: تجارتی وہ تمام کشتیاں جو کہ سامان تجارت اور مسافروں کو اوارے لے جاتے ہیں۔

لیا۔ دھونی سے خوشبودار ہونا۔ عرق حاصل ہونا۔

بداء- البدائی: البدائیۃ کی طرف منسوب۔ عادات بدائیۃ: فطری عادات۔

مجتمع بدائی: فطری معاشرہ۔ البدائیۃ: انسان اور معاشرہ کا ابتدائی فطری حال۔ انسان اور معاشرے کی فطری حالت۔

بدع- البدیعات: وہ قصائد جو علم بدیع میں لکھے گئے۔ ان میں سے زیادہ مشہور صفی الدین الحلی، ابن حجر الحموی اور عائشہ الباغونیدہ دشتیہ کے قصائد بدیعات ہیں۔

بدو- البدائیۃ فی علم الکلام: شیعوں کا ایک فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے "البداء" کا لفظ درست تصور کرتے ہیں۔ "البداء" کا معنی اس چیز کا انکشاف جس کا پہلے معلوم نہ ہو۔

بذر- البذیرۃ: درختوں کی مادہ جب اس میں بیو نہ لگا جائے تو پھل یا پھول دار ہو جاتی ہے۔ برت- البرتقالی: المارنگ والا مالے رنگ کی بنائی المارنگ، جیسے کہا جاتا ہے: "لا یحب البرتقالی الفاقع" وہ گہرے مالے رنگ کو پسند نہیں کرتا۔

برج- البرجل: پرکار برد- التبرید: کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا۔ مطعومات اور غذائی مواد کو محفوظ رکھنے اور مواد کو ٹھنڈی کرنے کے لئے فن کے ذریعے ٹھنڈک پیدا کرنا۔ جیسے۔

"جهاز التبرید": ٹھنڈا کرنے کی مشین۔ عرفة التبرید: ٹھنڈا کرہ۔ تبرید الالم: درد کو ہلکا کرنا اور سکون دینا۔

برط- البرطمان أو الموطبان: مرطبان (شخصی یا کبی ہوئی مٹی کا برتن) جس میں مرکب غذائیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ فارسی لفظ۔

بری- البروة: چھوٹا صابن جو استعمال کے بعد رہ گیا ہو۔

المباراة ج المباریات: میچ۔ میچ کھیلنا۔ زندگی کے کسی میدان میں مقابلہ اصطلاحی قواعد کے مطابق۔ موشحون لمباراة: میچ

کے امیدوار۔ مباراة فی الكرة الطائرة: والی بال میچ۔

بست- بست: عمل بستہ کرنا۔ البسترة: دودھ وغیرہ فرانسسی طریقہ کے مطابق ۷۵ تا ۸۰ درجہ حرارت پر پکانا کہ اس کے جراثیم ختم ہو جائیں اور غذائیت و قوت محفوظ رہے۔

البستنة: زراعت باغات کا علم۔

بسط- البسط فی علم الحساب قدیمًا: پرانے علم حساب میں کسر میں سب سے بڑا عدد۔ آج اس کو "الصورة" بولتے ہیں۔ علم تصوف میں: اس کا حال جو اشیاء کو گھیر لے اور اس کو کچھ سنائی نہ دے۔

بشور- البشريات: سرداریوں کا مرتبہ جس کا اطلاق صرف انسانیت پر ہوتا ہے۔

البشریۃ: بشری صفت۔

صفت البشریۃ: بشری کمزوری۔ تاریخ البشوری: تمام انسانیت کی تاریخ۔

محمسن البشریۃ: انسانیت پر احسان کرنے والے۔

التبشیر: کامیابی کی خبر دینا۔ ثواب کا وعدہ دینا۔ ہوا کا بارش کو لانا۔

بشک- البشکیز: غسل خانہ میں بڑا تو لیا۔

بصر- البصیر ج بصراء: دانا بینا۔

بطح- الانبضاح: لشکری (فوجی) انداز میں منہ کے بل لیٹنا۔

بطن- الباطنی: اندرونی۔ "الطب الباطنی" اندرونی علاج۔ باطن کی طرف منسوب۔ باطنیہ فرقہ کو ماننے والا۔

البطنیۃ: پینے کے لیے چادر۔ بعم- البعم: افریقی بندروں کی قسم جو انسانوں کے ساتھ بہت مانوس ہوتے ہیں۔

بقع- التبضع: تبضع الثوب: کپڑے کا بھیک کر جگہ جگہ سے گلیا ہونا۔ سیب اور امرود کے پھل پھٹ جانے کی بیماری۔

بقی- الباقیۃ: الحیاة الباقیۃ: آخرت کی زندگی۔ اس کی ضد "الفانیۃ" ہے۔

البقاء: فنانہ ہونا۔ دوام اور ہمیشگی۔

دار البقاء: آخرت۔ الابلال: بیماری سے تندرست ہونا۔ التبلد: ایسے شہر میں جانا جہاں اس کا تعلق دار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: تبلد الحاکم: حاکم کا مسلط ہو کر دوسرے کی زمین پر قابض ہو جانا۔ جانور یا نباتات کا اپنے وطن کے علاوہ وطن کے ساتھ موافق ہونا۔ اجنبی اور دخل انداز کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے اس علاقہ کے اخلاق میں ہونا جہاں جائیں۔

بیوقوف ہونا۔ کند ذہن ہونا۔ بیوقوفی ظاہر کرنا۔

بلد- التبلید: کم زور رائے والا اور کم ہمت ہونا۔ گھوڑے کا دوڑے پیچھے رہ جانا۔

کسی مقام سکونت کی آب و ہوا کا جانوروں اور نباتات کو عادی بنانا۔

بلور- البلوریات: شیشہ کے برتن یا دیگر شیشہ سے بنائی گئی چیزیں۔ وہ علم جس میں بلور بنانے اور اس کی جزییات کو ہندسی اشکال میں پردنے کی بحث ہو۔ اسی کو علم البلور کہا جاتا ہے۔

بلغ- البلاغۃ: وہ کلام جو مقتضی حال حسن و بیان اور قوت تاثیر کے مطابق ہو اسی سے "بلاغۃ القرآن" لیا گیا ہے۔

بلاغۃ الخطیب: خطیب کا حسن بیان و تاثیر پر قدرت رکھنا۔ علم البلاغۃ او البلاغۃ: وہ علم جو بلاغۃ کے مکمل معنی کی تحقیق کی طرف رہنمائی کرے۔ اس علم میں معانی بیان اور بدیع کے علوم شامل ہیں۔

بلمی- البلیون: بلین یعنی دس لاکھ۔

اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اس کا معنی ہزار بلین یعنی ایک ارب۔

الامبالاة: لاپرواہی۔

بنی- البناؤن الاحرار: خنیہ تنظیم جو اپنے ارکان کے درمیان اخوت کے قائل ہیں۔ اور

اشاروں و رموز سے آپس میں متعارف ہوتے ہیں۔ ان کو البناؤنیون بھی کہا جاتا ہے۔

التبئی: کسی کو اپنا بیٹا بنانا کسی کو بیٹے کی طرح

معانی کی تعبیر کے ذریعے خطوط اور رنگوں پر قدرت ہوتی ہے۔

فلسفی نظریہ جن میں ان کا رجحان ہے کہ مجردات اور محسوسات کے درمیان شان کے لحاظ سے مساوات (برابری) ہے۔

جوف - الْجَوَافَةُ: ایک طاقتور گاڑی جو سینٹ برف وغیرہ کو توڑنے اور صاف کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

جروی - الْجَوَاءُ: اجراء الماء پانی بہانا۔ اجراء المطیة: سواری چلانا۔ اجراء القصاص: قصاص لینا۔ اجراء الحساب: کسی کے ذمہ کچھ بھایا نکالنا۔ یا اس کے حق میں بقایا لکھنا۔

اجراء الامر: کام کو جاری اور نافذ کرنا۔ اجراء الرزق: کسی کو رزق دینا۔ اجراء الكلمة: کلمہ کو منصرف بنانا۔ اجراء: کاروائی ج اجراء ات: اجراء کتفسی: ظالمانہ کاروائی۔

اتخذت اجراء ات مُشددة: سخت کاردایاں کی گئیں۔ و فی القانون: قانون میں عدالتی فیصلے جاری کرنے کا طریقہ۔

اجراء ات جنائیة: جرائم پر کارروائیاں۔

اجراء ات اِداریة: فزتری کارروائیاں۔

اجراء ات التنفیذ: احکام جاری کرنے کی کارروائیاں۔

جزا - التجرئة: تقسیم و تفریق: تجرئة المادّة الی اجسام مُعزلة ناه کو الگ الگ اجسام کی طرف تقسیم کرنا۔ تجارة التجرئة: جسے بھیر کر سامان تجارت فروخت کرنا۔

اَثْمَانُ التَّجْرِئَةِ: کھیت کرنے والوں کی قیمتیں۔

التَّجْرِئَةُ فی العُرُوض: شعروں کی تقطیع کرنا۔ جیسے شعر

فَنَحْنُ فی جَدَلِ الرُّومِ فی وِجَلِ
و البرفی شغلی والبحر فی حجل
التَّجْرِئَةُ فی البلاغة: معنی کو لے کر زیر حکم

عادات اور اخلاق اپنانا۔

ثمی - الثَّمَوِيُّ: الثانی کی طرف منسوب ہے۔

سبب ثَمَوِيُّ وہ سبب جو پہلے کے بعد ہوا ہو۔

أَمْرٌ ثَمَوِيُّ وہ حکم جس کو پہلے والی اہمیت نہ ہو۔

التعلیم الثَمَوِيُّ: نڈل کے بعد درجہ تعلیم

جس کو میٹرک کہا جاتا ہے۔ الثَمَوِيُّ: الثَمَوِيُّ

کی موت: وہ مدرسہ جس میں درجہ ثانویہ تک

تعلیم دی جاتی ہو۔

الثَمَوِيُّ: زروشت کے ماننے والوں کا مسلک

جن کے نظریہ میں یہ بات شامل ہے کہ نظام کو

چلانے والے دو خدا ہیں۔ (۱) نور (۲) ظلمت۔

نور کے ذریعے خیر اور ظلمت کے ذریعے برائی

حاصل ہوتی ہے۔

جاز - الْجَازُ: انگریزی امیر کی موسیقی جس

میں مسلسل نغمہ بازی اور انتظامی نغمہ سازی کی

جاتی ہے۔

جبل - الْجَبَالَةُ: وہ آلہ جو مختلف اجزاء کو ملا

دے۔ سینٹ بجزی ریت اور پانی کو ملا کر بلڈنگ

تیار کرنے کی مشین۔

جحل - الْجَحْلُ: ج حشایق: (یونانی لفظ)

جس کا معنی سال ہے۔ مسیحیت کے ابتدائی دور

میں ان چار کرسیوں پر یہ لفظ بولا جاتا تھا جو

انطاکی کرسی کے تابع تھیں۔

یہ لفظ آج تک نسطری، کلدانی اور ارمنی

زبانوں میں پایا جاتا ہے۔

جرب - الْجَرْبُ: نڈیہ چیز ہے۔ کایک جس میں

شکاری اپنی شکاری ہوتی ہے جس کو رکھتا ہے۔

جود - الْجَوْدُ: زیدیہ: شیعہ فرقہ ان

کی نسبت ابی الجارود زیاد بن ابی زیاد کی طرف

ہے۔

ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی کو امامت نبی علیہ

السلام کے فرمان کے ساتھ حضرت علی کے

وصف کی وجہ سے لی نہ کہ ان کے نام کو متعین

کرنے کے ساتھ۔

التَّجْرِيدِي: تجریدی اور تجریدی کی طرف

منسوب ہے۔ فَن تجریدی: وہ فنی نظریہ

جس میں دعویٰ ہے کہ مختلف احساسات اور

شرعی نوآمد دینا۔ اس کو "التَّيْبِيُّ بِالْوَصِيَّةِ"

کہا جاتا ہے۔ تَبْيُّ الرَّاْيِ برائے قبول کرنا۔

الاباحية: اباحتی کی حالت بے حیاء ہونا۔

"اباحية مشهده سينماي"

سینما کے مناظر کا بے حیائی والا ہونا۔

وہ اخلاقی نظریہ جو آداب، دین اور قانون کی

پابندیوں سے آزاد کرانے۔

صوفیوں کی وہ جماعت جو اس کا انکار کرتی ہے کہ

انسان نافرمانیوں سے بچنے اور احکام کو ماننے کی

طاقت رکھتا ہے جیسا کہ وہ جائیداد کی ملک کا انکار

کرتے ہیں اور سب لوگوں کو دوسروں کے مال

اور بیویوں میں شریک سمجھتے ہیں۔

بوص - الْبُوصَةُ: قطب نما۔

بیز - ابیزنطی: بیزنطیہ کی طرف

نسبت۔ جیسے فَن بیزنطی: جڈل بیزنطی:

بے فائدہ بحث۔

تبع - التَّبَاعَةُ: جنسیت۔ قومیت۔

التَّبَاعَةُ: کسی شخص یا چیز کا دوسرے کے تابع

ہونا۔ تَبَعِيَّةُ خَادِمِ المَتَّبَعِ:

خادم کا تابع ہونا۔ جنسیت، قومیت۔ فلسفہ میں

تابع کا متبوع کے تابع ہونا۔ تابع (نعت بدل)

تاکید اور عطف) کا متبوع کے تابع ہونا

(اعراب وغیرہ میں) ایک ملک کا کسی طاقت ور

ملک کی پالیسی کے مطابق چلنا۔

التوابع (نحو میں) وہ کلام جو اعراب میں اپنے

ماقبل کے تابع ہو اور توابع چار ہیں۔

نعت 'عطف'، تاکید اور بدل)

الاتباعی: اتباعیہ کی طرف منسوب ہے۔

تحف - الْمُتَحَفُّ: عجائب گھر جس میں

تاریخی، فنی اور علمی آثار قدیمہ کی چیزیں جمع

ہوں۔

الْمُتَحَفُّ الوطني: ملکی عجائب گھر۔

الْمُتَحَفُّ العسکری: فوجی عجائب گھر۔

الْمُتَحَفُّ الزراعی: زرعی عجائب گھر۔

ترب - التَّرْبَةُ: سینٹ۔

تربس - التَّرْبَسُ: ج تربیس۔ چٹنی۔

تَرْك - تَرْك: ترکوں کی زبان بولنا، ان کی

آنے والی اقسام کو شمار کرنا۔

جزر۔ الْمَجْزُورَةُ مَجْزُورَةٌ فِي مَعْسَكِرِ
اِعْتِقَالِ قَتْلِ كَاهِ-

اجتماعی قتل جس میں وحشی قاتل بے دردی سے قتل کریں اور اپنے دفاع کے لئے مقتولین عاجز ہوں۔

جسم۔ التَّجْسِيمُ کسی چیز کو مونا کرنا۔
مضبوط کرنا۔ بڑا سمجھنا۔ وَ فِي الْوَصْفِ
وصف میں۔

معانی مجردہ کو اجسام کی صورت میں پیش کر کے
ان کو محسوس بنانا۔ جیسے حَدَّثَنِي نَفْسِي:
میرے نفس نے مجھ سے بات کی۔

و فِي عِلْمِ الْكَلَامِ عِلْمُ كَلَامِ مِثْلِ: اللّٰهُ تَعَالَى
کے لئے جسم ہونے کی بات کرنا۔

کسی جسم کو تین اطراف لمبائی چوڑائی دینا۔
التَّجْلِيدُ پانی کو ٹھنڈک کے ساتھ جمانا۔ کسی
چیز پر پردہ ڈالنا۔ کتاب کی جلد باندھنا۔

جلد۔ تَجْلِيدُهُمَ جَانًا۔
جلو۔ التَّجَلُّوْا ظَهْرًا ہونا۔ وہ مبارک حالت
جس میں حضرت عیسیٰ اپنے تین شاگردوں کے

سامنے کوہ طور پر ظاہر ہوئے۔ عیسائیوں کے
زردیک اسی سے عید تجلی ہے۔

فی التَّصَوُّفِ (تصوف میں) دلوں کو اسرار
غیب معلوم ہوتے ہیں۔

جمیز۔ الْجُمُازُ جسمانی ورزش۔
جمش۔ الْجُمُشَاتُ ایک قیمتی پتھر۔

جمع۔ الْجُمُعِيَّةُ عَظِيمٌ كَمِثْلِي سَوَاسِي۔
”جمعیۃ خیریتہ“ رفاہی کمیٹی۔ جمعیۃ
مُسامِہِمِیْنَ اِیَّے حَقُوْقِ كَے لَئے دِفَاعِ وَائِی
کمیٹی۔ اِجْتِمَاعُ نَوَاجِی كَے لَئے دِفَاعِ وَائِی
اصْدِقَائِهِ وَوَسُوْتُوْا كِی مَلَاقَاتِ۔ اِجْتِمَاعُ
عِلْمَاءِ اِجْتِمَاعُ حَزْبِيٌّ عِلْمَاءُ يَاجْمَاعَتِ كَے لَئے جَمْعُ هُوَا۔

اجتماع سفیر یوزیر سفیر کی وزیر سے
ملاقات۔

اجتماع الطرفی چورہا۔ کونہ۔
عِلْمُ الْاِجْتِمَاعِ اِنْسَانِي عِلْمٌ مِثْلُ سَے اِيك عِلْمِ

جو انسانی معاشرہ کے معاملات ترقی اور ترقی پر

بحث کرتا ہے۔ هَيْئَةُ اِجْتِمَاعِيَّةٌ طَبَقَاتِ
اجتماعیہ انسانی جماعت یا معاشرہ کی اجتماعی
حالت معاشرتی طبقات۔

قَضَايَا اِجْتِمَاعِيَّةٌ: معاشرتی مسائل۔
اِصْلَاحَاتِ۔
اجتماعیہ معاشرتی اصلاحات۔

اِعَاثَةُ اِجْتِمَاعِيَّةٌ: معاشرتی مدد (مزدوروں کو
ریلیف دینا)۔ ضَمَانُ اِجْتِمَاعِيٌّ: بوشل
سیکورٹی۔

دِرَاسَةُ اِجْتِمَاعِيَّةٌ: معاشرتی تحقیق۔
الْاِنْسَانُ كَانِيْنٌ اِجْتِمَاعِيٌّ: انسان اجتماعی۔
نظام میں رہ کر زندگی گزارنے میں رغبت اور
انست رکھتا ہے۔

التَّجْمِيعُ بنانا۔ تَالِيفُ۔ فِي الصَّنَاعَةِ
(صنعت کاری میں) مختلف چیزوں کو جوڑ کر آلہ
یا مشین بنانا۔ تَجْمِيعُ السِّيَارَةِ كَارِ جَوْزَائِي:
(ٹنگ) تَجْمِيعُ التَّرَادِ: کولر ٹنگ۔

مَجْمُوعَةٌ تَمِّمُ بِلَاكٍ بِمِثْلِ كَرُوْبِ سِيْتِ۔
مَجْمُوعَةٌ طَوَابِعُ كَبُوْتُوْا كَاسِيْتِ۔
مَجْمُوعَةٌ بِنَابَاتِ: پلازہ۔ ”مَجْمُوعَةٌ
ذُوْلُ اَفْرِيْقِيَّةٌ“

الشَّرْقِيَّةُ: اَفْرِيْقِي شَرْقِي مَمَالِكِ كَ بِلَاكِ۔
الْمَجْمُوعَةُ الصَّنَاعِيَّةُ: صنعتی کارخانوں کا
بلاک۔

جند۔ الْجُنْدِيَّةُ: الشُّكْرُ۔ دَخَلَ الْجُنْدِيَّةُ:
فَوْجِ مِثْلِ شَامِلِ هُوَا۔ فَوْجِي كَ اَبِيْشِرِ۔

جنف۔ الْجَنْفُضُ اَوِ الْجَنْفِيضُ كِتَابَانِ كَ
بِنَا هُوَا كَرِ اَكْبَرًا۔

جهد۔ اِلْتِمَاعِيَّةٌ مَجْتَمَعِيَّةٌ كَرْنَا۔ كُوْشُشُ كَرْنَا۔
اِزْدَادُ اِجْتِمَاعِيَّةٌ مَجْتَمَعِيَّةٌ مِثْلِ زِيَادَةِ هُوَا۔

اِلْتِمَاعِيَّةٌ فِي الْعِلْمِ شَوْقٌ وَذَوْقٌ سَے پَرَحَاثِي
پَر تَوْجِهَ دِيَا۔ اِلْتِمَاعِيَّةٌ فِي الْفِقْهِ: فِقْهِ كِ
اصطلاح میں: عام احکام شرعی دلائل کے ساتھ

نکالنا یا پوری کوشش کرنا رائے کو حاصل کرنے
کے لئے شرعی حکم کے ساتھ۔
فِي الْقَضَايَا: عَدَلْتِي فَيُصَلُّوْا كَ اِمْجُوْعَةٍ۔ جِن

سے قواعد حاصل کیے جائیں تاکہ ان جیسے
مسائل کو حل کیا جائے۔

جهر۔ الْجَهْوَرُ: جِرَاتِ مَنَدِ اَكْءَ بَرُحْنِ
(بہادری) والا۔

جهز۔ التَّجْهِيْزُ تِيَارُ كَرْنَا سَامَانَ سَے لِيْسَ
كَرْنَا۔ سَامَانَ تِيَارُ كَرْنَا۔ فَنَنْكِ۔

تَجْهِيْزُ سَفِيْنَةٍ: کشتی فننگ۔ تَجْهِيْزُ بَيْتِ:
گھر کو سامان سے بھرنا۔ تَجْهِيْزُ عَرُوْسِ:
دلہن کو تیار۔ تَجْهِيْزُ الْمِيْتِ مِيْتِ كَ اَكْفَنِ
دَفْنِ كَرْنَا۔ لَشْكُرِ كُو سَامَانَ سَے تِيَارُ كَرْنَا۔

جهل۔ التَّجَاهُلُ بِنَاوِيْ جَاهِلِ بِنَا۔
فِي الْبَدِيْعِ عِلْمٌ بِدِيْعِ مِثْلِ: سَتَكَلَّمَ اِيْكِيْ كَبِيْرُ يُوْجِيْجِيْ
جس کو جانتا ہو تاکہ اید اور مبالغہ کے لئے۔

جو د۔ اَلْجُوْدُوْ جُوْدُوْ كَرْنَا۔ اِيْكِيْ وَرَرْشِ
جس کے ساتھ بلا ہتھیار جان کا دفاع ہو۔

جوز۔ التَّجَاوُزُ خَدُوْدِ سَے بَاہِرُ هُوَا۔ اِحْتِرَامِ
مِثْلِ اِفْرَاطِ كَرْنَا كَرْنَا۔ مَعَاْفِ كَرْنَا۔ دَرْ كَرْنَا۔

فِي الْقَانُوْنِ: ”تَجَاوُزُ الصَّلَاحِيَّاتِ غَطَاءُ
كِرْدَرِ رَعَايَتِ سَے كَرْنَا جَانًا۔
فِي السِّيَرِ (تَرْيِكِ قَانُوْنِ مِثْلِ) كَ اَزِيْ كَ اَدِيْ كَرْنَا۔

جوي۔ التَّجْوِيْزُ بِنَا جَزَاءُ جِسْمِ كَارِيْزِهِ رِيْزِهِ هُوَا۔
حتم۔ التَّحْتَمِيَّةُ: اَبْتِدَائِيْ فُلْفُفِي نَظَرِيَّةُ كَ ہر
ایک مظہر کے لئے سبب ہے اور مظاہر کے لئے
پختہ قوانین ہیں۔

حذر۔ التَّحْذِيْرُ: ذَرَانَا خَبَرْدَارُ كَرْنَا۔ فِي
النَّحْوِ: (عِلْمِ نَحْوِ مِثْلِ) مَخَاطَبِ كُو نَا پَسِنْدِ سَے
بِجَانِے كَے لَئے لَفْظِ اِيَاكُ فَعْلِي كَ جَلْدِ ذِكْرِ كِيَا
جَاتَا ہے۔ اِسْ كَے بَعْدِ ”وَ“ كَے سَاتِهَ مَفْعُوْلِ

ہے منسوب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اِيَاكُ
وَ الظَّلْمِ: ظَلْمِ سَے بَجُو۔

حر۔ اَلْحَرِيْبَةُ: اِيْكِ كَرَامِ پَانِي كُو كَرْمِ كَرْنَا
كَے لَئے سُوْدَرِ كَرْمِي كَرْنَا مَقْدَارِ۔

المُحَوَّرُ: اَزَادِ كَرْنَا وَ اِلَّا۔ مَحَوَّرُوْ وَطَنِ:
وَطَنِ كُو نُو اَبَادِي نِظَامِ سَے بِنَانِ وَ اِلَّا۔
مَحَوَّرُ شَعْبِ: عَوَامِ كُو غَيْرِ كِي غَلَا مِ سَے
نُكَلَاے وَ اِلَّا۔

منصوبہ جاری کرنا۔ تحقیق اُمیۃ: آرزو پوری کرنا۔

تحقیق اُرْبَاح: منافع جمع کرنا۔ قام بتحقیق دَقِیق: باریک چھان بین کرنا۔ تحقیق صُحْفِی: صحافت اور ٹی وی کے ذریعے زندہ معلومات۔

تحقیق اِخْصَائِی: سیاسی، معاشرتی اور مالی مسائل پر ریسرچ دلائل اور آراء کے ساتھ۔

تحقیق القَوْلِ أَوْ الظَّنِّ: بات یا خیال کی تصدیق کرنا۔ فی الْأَصْطِلَاح: مسائل دلائل سے ثابت کرنا۔ فی الفلسفة: کسی چیز کی ذاتیت ثابت کرنا۔

فی القراءۃ: ہر حرف کو ادائیگی میں حق دینا۔

فی الإِذَارَة وَالْفِصَاءِ: جواب طلب کرنا۔ گواہی اور دلیل پوچھنا اس کے علاوہ جرم اور تہمت (الزائم) کے بارے میں معلوم کرنا۔

قاصیٰ التحقیق: اثبات جرائم کا فیصلہ کرنے والا۔

الْمُحَقِّق: تحقیق کرنے والا۔

حکیم - الْحَاكِمِيَّة: حاکم کی صفت - حاکم ہونا - منصب حاکم۔

حل - الاِحْتِلَال: کسی جگہ جانا اور مصروف کرنا۔

کسی ملک پر قبضہ کرنا۔ فی القانون الدَّوْلِي: کسی دوسرے ملک کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا۔

الاِحْتِلَال العسکری: قابض فوج۔

حمض - التَّحْمِیْض: کسی چیز کو کھانا بنانا۔

حمل - الْحَمْلَة: مریض یا زخمی کو منتقل کرنے کے لئے چارپائی۔ اس کو النقالۃ بھی بولتے ہیں۔

الاِحْتِمَال: اٹھانا۔ کسی امر کو صبر سے برداشت کرنا۔ معاف کرنا۔ درگزر کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔ ترجیح دینا۔

فی المنطق: غیر لازمی اور غیر مستعدہ دو قضیوں کے درمیان تعلق۔ فی الفلسفة: یونانی نظریہ جس میں یقین اور معرفت کا انکار ہوتا ہے اور احتمال پر معرفت کی بنیاد ہوتی ہے۔

العقلی: وہ نفی اور اثبات کے درمیان ہوتی ہے۔ عدد یا تو فرد طاق ہو گا یا زوج (جفت)

(۲) الحصر الوقوعی: وہ جس کا وقوع کلام کے نتیجے اور استفاء کے ساتھ ہو جیسے الْكَلِمَة اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ۔

(۳) الْحَصْر الجعلی: بنانے والے کے بنانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے الْمَرْحِيَّة خَمْسَةٌ۔

الْحَصْر عِنْد الْعَامَة (عوام الناس کے ہاں) بمعنی غم۔

حضر - الْمُحَضَّر: لیبارٹری میں پروفیسر ٹیچر کے لئے سامان سامنس حاضر کرنے والا (L-A)

حفر - الْحَفْرَة: گڑھا کھودنے کا آلہ حفظ - الْمُحَافَظَة: کسی کام پر تیشگی کرنا۔

الْمُحَافَظَة عَلَى الصَّلَاة: ہمیشہ نماز پڑھنا۔ المحافظه على القانون: قانون کا خیال کرنا۔

الْمُحَافَظَة عَلَى النِّظَافَة: صفائی کا اہتمام کرنا۔

الْمُحَافَظَة عَلَى النَفْس: جان کو تکلیف اور ہلاک ہونے سے بچانا۔ الْمُحَافَظَة فِي تَقْسِيم الْبِلَاد (الاداری)۔ (دفتری تقسیم میں) ضلع جس کی گمرالی ڈپٹی کمشنر کرتا ہے۔

اس کے نیچے کئی تحصیل ہوتی ہیں۔

حق - الْحَقُوق: حق کی جمع تمام اقسام و انواع کے قوانین۔

مَعْهَد الْحَقُوق: حقوق سکھانے کا ادارہ۔

طَالِبُ حَقُوق: قوانین سیکھنے والا۔

الْاِسْتِحْقَاق: سزاوار ہونا۔

اِسْتِحْقَاق الْعِقَاب: سزا کا مستحق ہونا۔

الاسْتِهْطَال وَالْاِهْلِيَّة: انعام اور تمغہ کا حق دار ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ عَنِ اِسْتِحْقَاق: یعنی لیاقت اور حق داری سے۔ اِسْتِحْقَاقُ الذِّين: قرض ادائیگی کا وقت ہونا۔ اِسْتِحْقَاقُ السِّنْد: سند ملنے کا وقت ہونا۔

التَّحْقِيقُ: تاکید۔ تَحْقِيقُ مَشْرُوع:

مُحَرَّرٌ رِسَالَة: کاتب۔ اذیئر۔ رائٹر۔ مُحَرَّرٌ الْمَوْلِد: اولاد کو دین پر نذر کرنے والا۔

حرج - التَّخْرِیْج: درختوں کے پودوں کو لاکن پر لگانا تاکہ ان کا مرتب جھنڈ بن جائے۔

حرم - الْحَرَامُ ج حَرَامَاتٌ وَأَحْرِمَةٌ: گرم چادر۔ کبیل۔

حس - الْحَسَّاسِيَّة: زندہ جسم کی خاصیت کہ اندرونی اور بیرونی چیزوں کو محسوس کرے۔

مثلاً حَسَّاسِيَّة الْبَرْد: ٹھنڈک کا احساس۔

مرض الحَسَّاسِيَّة: جسم کا عوامل اور بے نقصان ادویات سے متاثر ہونا۔

حسم - الْحَسْمُ: حَسْمُ الْخِلَافِ وَاِشْر: اختلاف اور شرارت کو بڑے اکھیرنا۔

حَسْمُ الذَّوَابِ: بیماری کو دوآئی کے ساتھ ختم کرنا۔

حَسْمُ الْعُرُق: رگ کا داغ کر خون بند کرنا۔

حس - الْحَسَّاشُونَ: خفیہ اسماعیلی فرقہ حس کی بنیاد حسن بن الصباح نے رکھی تھی۔ یہ فرقہ منظم تنظیم اور مخالفوں کو ورغلا کر قتل کرنے میں مشہور تھا۔

حصد - الْحَاصِدَةُ: الْحَصَادَةُ: گندم کاٹنے کا آلہ۔ درانتی۔

حصر - الْحَصْر: گھیراؤ اور تیشگی ڈالنا۔ پورا لینا۔ شمار کرنا۔

”لا حَصْرَ لَہ“: اس کا کوئی شمار نہیں۔ یَتَوَقَّ الْحَصْرُ: شمار سے زیادہ ہے۔ حَصْرُ الْبُول: پیشاب بند ہونا۔

فی البلاغة: علم بلاغة میں: اس کا نام القصر ہے۔ ایک شے کو دوسری کے ساتھ خاص کرنا ذہن میں معنی کو ثابت کرنے کے لئے۔ ادوات قصور ج ذیل ہیں: ما، لا، (نفی)۔

غیر الا (استثنائی) لا، بل (حروف عطف) اور اِنَّ مثال: لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

القصر فی المنطق: کسی چیز کو عدد معین پر وارد کرنا۔ حصر کی چند اقسام ہیں: (۱) الحصر

الإحتمال فی اللأهوت: وہ نظریہ جس میں کام کو اخلاقی طور پر محتمل امر کی جھٹ دی جاتی ہے۔ المَحْمَل ج مَحَامِل: کعبہ کی طرف جانے والے وہ تخائف جن کو ایسے اونٹ پر رکھا جاتا ہے جس پر کوئی سواری نہ کرے اور پیدل چل کر اونٹ چلائے۔

حمی-الْحَمِيَاءُ: لوگوں سے کوئی چیز روکنا۔ بچانا۔ مگرانی کرنا۔

فی السِّيَاسَةِ: شہروں کو دوسرے ملک کے قبضہ میں دینا۔ قانون الحمايَة: (فی الاقتصاد): بیرونی سامان کو فروخت کرنے سے مختلف تدابیر کے ساتھ روکنا تاکہ ملکی سامان کو ملک کے اندر رکھ پایا جاسکے۔

الْمُحْمِيَّةُ: کچھ ممالک غیر ممالک تسلط کے تحت ہوں تاکہ اندرونی اور بیرونی تحفظ مل سکے۔

حوز-الْإِنْجِيَاذُ: کسی سے بچرانا۔ ہٹ جانا۔ مائل ہونا۔

فی السِّيَاسَةِ: دو مخالف فریقوں میں سے ایک کی طرف جھکاؤ رکھنا۔ سِيَاسَة عَدَمُ الْإِنْجِيَاذُ: مخالف دھڑوں سے الگ (غیر جانبدار) ہونا۔

الْإِحْتِيَاظُ: مرض سے بچاؤ کرنا۔ ہوش و حواس سے کام لینا۔ بچاؤ کرنا۔ کس چیز کی محافظت کرنا۔ گہری تیز نگاہ سے دیکھنا۔ وہ قوت جس کے ساتھ غیر متوقع حادثات سے مقابلہ کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے فی الاحْتِيَاظُ: وہ احتیاط میں ہے۔ سپاہی کی حالت جس میں اس نے ٹریننگ حاصل کر لی ہو یا اجباری خدمت جس کے لئے ضرورت کے وقت بلایا جاسکے مائل الاحْتِيَاظُ: وہ مال جو بجٹ میں زائد برآمدات کی وجہ سے اضافہ کا سبب بنے اور کمزوری بجٹ کو کم کرنے میں استعمال ہو یا اضافی قرضوں کو کم کرائے۔

حوظ-الْإِحَالَةُ: قرض دوسرے کے حوالے کرنا۔

ملازم کو خدمت سے ہٹا کر فارغ بٹھانا۔ فیصلہ

کرنے کی درخواست کرنا۔

قَاضِيُ الْإِحَالَةِ: وہ جج جس کی طرف الزام شدہ لوگ بھیج دیئے جائیں تاکہ وہ ان کے کیس کو سن کر یا تو جیل بھیج دے یا ان کی ضمانت لی جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ (بری کر دیا جائے)

قانونی کمیٹی کے سامنے قانون کا مواد پیش کرنا تاکہ اس کی ریسرچ کریں فی الادارة: ایک ادارہ سے دوسرے ادارہ کی طرف معاملہ منتقل کرنا۔

فی الطبعية: کسی چیز کی کیفیت بدل جانا جیسے گرم کرنا۔ ٹھنڈا کرنا۔

الْإِسْتِحَالَةُ: ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنا۔ جیسے شراب سے سرکہ بننا۔ کام سے روکنا اور معذور ہونا فی عِلْمِ الطبعية: کیفیت بدلنا نوع کے باقی ہونے کے ساتھ جیسے اجسام میں گری سردی۔

حوي-المحتوى: مضمون۔ محتوی الخزانة: سئور میں جمع شدہ اشیاء۔

مَحْتَوِيَاتُ كِتَابٍ أَوْ عَدَدٍ مَجْلَدٍ: کتاب یا صحیفہ کے موضوعات۔

حيث-الْحَيْثِيَّاتُ: فی القرارات والاحكام: قوانین و احکام میں وہ اسباب جن کی وجہ سے فرد جرم لگی ہو۔

وہ اسباب جو بحیثیت کفلاً کے الفاظ سے شروع کیے جاتے ہیں۔

حيد-الْحَيْادُ: کسی سے بچرانا۔ دو مخالف دھڑوں میں سے کسی کی طرف جھکاؤ نہ کرنا (غیر جانبدار ہونا)

الْحَيْادُ الْإِنْجِيَابِيُّ: غیر جانبدار تحریک جس کے تحت بڑے مخالف ممالک سے الگ ہونا۔

حمي-الْحَمِي: صحت بخش زندگی بخش۔

الْوَطَائِفُ الْحَمِيَّةُ: صحت بخش کامل قُوَّةُ الْحَمِيَّةُ: توانائی، طاقت، تازگی، مُورِدَةُ حَيَوِيَّةُ: زندگی گزارنے کے لئے ضروری چیز۔ اہمیت والے کام۔ میدان زندگی۔

فی الجغرافية الطبعية و السِّيَاسِيَّة:

زمین اور سمندری راستے جن کے ذریعے انسانی ترقی ہو سکتی ہے۔

الْحَيَوِيَّةُ: مستعدی الحیوی کی صفت۔

خبير-الْإِسْتِخْبَارُ: چیزوں کی معلومات لینا اور سوال کرنا۔

الْإِسْتِخْبَارَاتُ: گورنمنٹ کے معلوماتی ذرائع جن کے ساتھ داخلی و خارجی امن کے متعلق کنٹرول کر سکے۔

ختر-السَّخْرُ: دودھ کا جم جانا۔ خون کا جم جانا۔

خدر-الْتَّخْدِيرُ: سن کرنا بے ہوش کرنا۔

مجازًا: غفلت اور لا پرواہی کرنا۔

الْمُخَدَّرَاتُ: نشہ آور چیزیں جن کے ساتھ جسم میں کمزوری، عقل میں لاشعوری اور ذہن میں خمول ہوتا ہے۔

خروج-الْإِخْرَاجُ: نکالنا (فی القضاء) دو فریقوں میں سے ایک کو فیصلہ میں جھکڑا سے لا تعلق قرار دینا۔

الْإِخْرَاجُ فِي عِلْمِ الْإِحْيَاءِ: جسم کو نقصان دینے والے مادوں کو نکالنا۔ جیسے پینہ کاربن گیس وغیرہ۔

فی الْمَسْرُوحِ وَالسِّيْمَانَا: قصہ یا ڈرامہ کو سکرین یا ڈرامہ روم میں پیش کرنا۔

فی الْآدَبِ وَالطَّبَاعَةِ: ادبی اور فنی جوہر ظاہر کرنا۔

خروس-الْخُرُوسَانَةُ: سینٹ، بگری اور ریت کو ملانے والی مشین۔ اس کی لپیٹوں بھی کہتے ہیں۔

خروط-الْخُرُوطَةُ: کارتوس۔ اس کو القشکہ بھی بولتے ہیں۔

اخص-الْإِخْتِصَاصُ: کسی ایک میں مہارت حاصل کرنا۔ کسی ایک کام کے لئے فارغ ہونا۔

(فی القضاء) إِخْتِصَاصُ مُحْكَمَةٌ: فیصلہ کرنے کی مکمل صلاحیت ہونا۔

فی النحو: نحو میں، ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد اسم ظاہر عرفہ ذکر کیا جاتا ہے وہ فعل اخص کے ساتھ منسوب ہوتا ہے جس کو

تذیب المُنزِل: وہ علم اور فن جن کے ذریعے گھر کو صفائی، صحت اور معاشی اعتبار سے مرتب کرنا۔ اور یہ کام عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

التدبیر ج تدابیر: وہ کارروائیاں جن کو حکومت نافذ کرتی ہے۔

تذیب صحیحی: صحت بخش اعمال۔

ذبلج - ذبلج: قلم کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ و فی المسرح (تھیٹر میں) ایک اداکار کی جگہ دوسرا اداکار لانا۔

ذجن - ذجن: جنگلی جانور کو مانوس کرنا۔

ذخویۃ: سامان تجارت پر داخلہ ٹیکس۔

ذرب - المذرب: ٹریننگ دینے کا انچارج۔ پیشہ ور ٹریننگ دینے والا۔ المذرب الرياضي: کھیلنے والوں کو اصول کھیل اور ورزش سکھانے والا اور نگرانی والا۔ جو مقابلہ کرنے والی کھیل ٹیم کو بیچ کی تیاری کے لئے بیچ کی مشق کرائے۔ المذرب ملائیم: باسنگ کھیل کوچ۔

مذرب فریق کرة قدم: فٹ بال ٹیم کا کوچ۔ جو باقاعدہ فوجیوں اور رضاکاروں فوجیوں کو لڑائی کے طرق سکھائے۔

و فی الادارة: مشاغل عامہ کی وزارت میں ملازمت۔ اس ملازمت کو دینے والا۔

ذرج - المذرج: کسی کام کی طرف رفتہ رفتہ بڑھنا۔

مذرج الحوارة: گرمی کا رفتہ رفتہ آنا۔

مذرج بطنی: ست روی سے چلنا۔ ملازمت میں آہستہ آہستہ ترقی کرنا۔

فی بعض المہن الحرة: (آزاد پیشوں میں) کسی قدم پیشہ ور کی نگرانی مہارت اور چستی حاصل کرنے کے لئے کام کی مشق کرنا۔

اسی سے یہ لفظ ہے۔

المذرج فی المحاماة: وکالت کی پریکٹس کرنا۔

درس - المذرسية: الفلسفة

خل - المخلل: اجار۔

خلص - التخلیص: نجات دینا۔ چیز کو صاف کرنا۔ آمیزش سے پاک کرنا۔ سامان اور نرخ نکالنے کی بات کرنا۔

المخالصة: معاملہ میں صفائی برتنا۔ خالص دوستی کرنا۔ مقروض کو قرض ادائیگی سے بری قرار دینا۔

خلو - الاخلاء: مکان کو خالی کرنا۔ جیسے ہال کو لوگوں سے خالی کرنا۔ برتن کو خالی کرنا۔

فی القانون: زمین کو چھوٹا کر مالک کو واپس کرنا۔

خمر - الخمریات: وہ تصانیف جن میں شراب پینے والوں کے احوال وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ گذشتہ ادوار میں ادب عربی میں اس کو اشعلفناہیہ میں تشکیل دی گئی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور خمریات ابی نواس ہیں۔

خیر - التخییر: کسی کام کو فضیلت دینا۔ دو کاموں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دینا۔

ذب - ذب: ہتھیار تیز کرنا۔ مسلح کرنا۔

ذبح - الذبیح: نقش کرنا۔ مزین کرنا۔ ریشمی کپڑا لگا کر زینت دینا۔ توجیح مقال: خوبصورت گفتگو۔ خوبصورت لکھائی کرنا۔ الذبیح فی البدیع: کلام میں تکنیکی طور پر کی صورت میں خوبصورت انداز اختیار کرنا۔ جیسے قول:

لقرش الایض للیوم الاسود: سفید سکہ سیاہ دن کے لئے ہوتا ہے یعنی پیسہ مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔

ذبر - التذبر: امور کو منظم کرنا۔ تدبیر مکیدہ کسی چال کو تیار کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

تدبیر مؤامرة سازش کی سوچ و بچار کرنا۔

تذبر خطبة: اسیم بنانا۔ تذبر عذر: بہانہ گھڑنا۔ تذبر مواجهة: کسی چیز کی تنہید۔

فیصلہ کرنا اور کارروائی کرنا۔

المصرا فی تفکیر واللہ فی تذبر: انسان سوچ میں ہے اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔

وجوباً محذوف کہا جاتا ہے۔ اسم ظاہر کو المخصوص کا نام دیا جاتا ہے۔

التخصیص کسی علمی شعبہ کا ماہر ہونا۔ منفرد ہونا۔

البحث العلمی یتطلب التخصص: کسی خاص موضوع پر علمی مقالہ جس کے ذریعے اس موضوع پر مہارت حاصل کی جاتی ہے۔

حصب - الاحصاب: کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔ سرسبز کرنا۔ علم الاحیاء: زرخیز کا مادہ مونت غلیہ میں مل جانا۔

خضر - الخصور: نباتات کا سرسبز مادہ۔ التخطيط: لیکچر کی تیار کرنا۔

خط - التخطيط ملعب کرة قدم: فٹ بال میدان کی حدود پر نشان لگانا۔ المساحة: مخصوص ہیئت میں نشانات لگانا۔ جگہ کو تقسیم کرنے کے لئے۔

علم التخطيط: وہ علم جو معاشیات کے لئے اہداف متعین کرنا پروگرام دیتا ہے اور مال لگانے اور اس میں احکام نافذ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ المخطوط: ہاتھ سے لکھا ہوا۔

کتاب مخطوط: ہاتھ سے لکھی گئی کتاب۔ غیر مصبوعہ تالیف مخطوط صحیح: مؤلف کا لکھا ہوا اصلی نسخہ جو طبعات کے لئے تیار ہوا۔

رسالة مخطوطة: ہاتھ سے لکھا گیا خط۔ مخطوطة مصرية: مصری ہاتھ سے لکھی گئی غیر مطبوعہ کتاب۔ مؤلف کا نسخہ جو ہاتھ سے لکھا گیا۔

خطب - الخطابة: پر اثر تقریر کرنے کا فن۔

حفظ - التخصیص: کمیشن، قیمت میں خاص کی رعایت، کم کرنا۔

تخصیص الاسعار: نرخوں میں کمی کرنا۔

تخصیص الاجور: مزدوری میں کمی کرنا۔

تخصیص الحوارة: گرمی میں کمی کرنا۔

تخصیص الاعباء: بوجھ (مشقت) میں کمی کرنا۔

المدرسية: قرون وسطی میں طرز تعلیم خاص کر فلسفہ اور اس کی اساس قیاس میں۔ اس کے مشہور اساتذہ راج ذیل ہیں۔

انسلموس: ایٹار دوس پطرس لومباردوس۔ البرتوس الکبیر۔ توما الاکویتی۔ بناو نشورا۔ روجہ باکون۔

درع۔ درع الرناسة: سفید اون کا قمیص جس کو عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم (پوپ) عیسائی بپاوری اور عیسائی نمائندہ حضرات کو اس لئے عطاء کرتا ہے تاکہ ان کے گرجوں میں وردی ثابت ہو۔ لاطینی اس کو پاپیوم اور یونانی موفوریم کا نام دیتے ہیں۔

دری۔ الأذرية: دینی فلسفی مذہب جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات و اسماء کی پوری معرفت کا نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کو الضنوصیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ضد: الإنکاریة یا اللہ اذریة ہے۔

دعو۔ الأذعاء: حق یا باطل کا دعویٰ کرنا۔ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونا۔ کسی چیز کے متعلق دعویٰ کہ یہ میری ہے۔ تمنا کرنا فی الجدل والمناظرة: بحث و مناظرہ میں دلیل دینا۔ فی القضاء دعویٰ دائر کرنا۔ الاستدعاء: کسی کو طلب کرنا۔ فی القضاء والادارة: عدالت یا دفتر میں کتاب شکایت یا کتاب طلبی۔

المدعی: اس چیز کا اظہار کرنے والا جو اس میں نہ ہو۔

اپنے باپ یا قوم کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرنے والا۔ کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والا۔ فی القضاء: عدالت میں دعویٰ دائر کرنے والا۔

المدیر العام او النائب العام: کسٹریاڈپٹی کسٹری:

دفع۔ الدفع دور کرنا۔ ہٹانا۔

دفع اللہ الناس بعضهم ببعض: اللہ تعالیٰ کالوگوں کو روکنا ایک دوسرے کے ساتھ۔

دفع العربیة: گاڑی چلانا۔ الدفع نقداً: مال

دینا۔

دفع الدين: قرض ادا کرنا۔ الدفع ج دفعو: اپنے آپ پر محکمہ کی طرف سے جاری حکم کو اپیل کے ذریعہ روکنا۔

دکت۔ دکتورة: ڈاکٹر بننا۔ ڈاکٹری۔ سب سے بڑی یونیورسٹی کی اعلیٰ سند جو اعلیٰ تعلیم کے دی جاتی ہے۔ جیسے آداب میں دکتورة۔ "الدکتورة الفخریة": اعزازی سند ڈاکٹری جو سیاسی علمی اور دیگر امور کی وجہ سے تنظیمی دی جاتی ہے۔

دل۔ الاستدلال: کسی کام کی طرف رہنمائی لینا سبب: دلیل پکڑنا۔ نتیجہ اور خلاصہ نکالنا کہا جاتا ہے یمكن الاستدلال من ذلك ان..... اس سے فلاں نتیجہ لیا جاسکتا ہے۔

فی المنطق "منطق میں" ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف ایسے فعل کے ساتھ منتقل ہونا جو ان دونوں کو ملاتا ہے۔

ایک عقلی منظم بحث معلوم حقائق کے ذریعے نامعلوم حقائق تک پہنچنے کے لئے۔

دلت۔ دلنا یونانی حروف تہجی میں سے چوتھا حرف۔ علم جغرافیہ میں: نہر کی دو یا زیادہ شاخوں کے درمیان ایک قطعہ۔ دریائے نیل کا نچلا حصہ الدلتونیة: آنکھ کی مرض جس میں رنگوں کی پہچان خاص کر سرخ اور سبز کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو "عمی الالوان" کہا جاتا ہے۔

دمج۔ الإدماج: داخل کرنا۔ ملانا۔ فی الشعر: کلمتہ کو صدر بیت اور اول بحر کے درمیان داخل کرنا۔ الإدماج: داخل ہونا۔ مستحکم ہونا۔ مل جانا۔ متحد ہونا۔ ادماج ملاحظہ فی نص: شرح کالنص میں داخل ہونا۔ ادماج خزنین: دو غموں کا مل جانا۔ ادماج اقلیة فی مجموعة: اقلیت کا سب میں متحد ہو جانا۔

ایک اقتصادی کمپنی کا دوسری کمپنی سے متحد ہونا یا اتحاد کرنا فی اصطلاح الحكماء: طبع میں متحد اجزاء کا باہم اس قدر قریب ہونا کہ

ان سے غیر متعلقہ جسم نکل جائے۔ جیسے لیٹی ہوئی روٹی دھننے کے بعد۔

دمغ۔ الدماغ اللاکٹرونی: العقل الالکترونی: البکیران: مشین جس میں آلات ہوتے ہیں۔ وہ انسانی دماغ کی طرح حسابی اعمال کرتے ہیں۔

دور۔ المدیریة: مدیر کا منصب۔ اس منصب کی مدت۔ ایک ادارہ جو مدیر کے زیر حکم ہو۔ مدیریة الدفاع: دفاعی ادارہ۔

مدیريۃ الهاتف: ٹیلی فون کا ادارہ۔ بعض ممالک میں: ایک جس کا سربراہ مدیر (گورنر) ہوتا ہے۔

المستبد: دائرہ کی شکل والا۔ گول جسم۔ منشار مستدین: گول آراء۔ طاولة مستديرة: گول میز۔ مؤتر المائدة المستديرة: گول میز کانفرنس۔ المستديرة: کئی سڑکوں کے درمیان گول چکر۔

دول۔ دول: لکھنا۔ المدینة: کسی شہر کو کئی ممالک کے درمیان مشترکہ (آزاد) شہر قرار دینا۔ الارض: زمین کو قومی ملکیت میں لینا۔ القصبة: فیصلہ کو ملکی سطح پر کرنا۔

المداولة: مشورہ کرنا۔ بات چیت کرنا۔ فی القضاء: فیصلہ ہونے سے پہلے معاملہ رائے قائم کرنا۔ کے بعد دیکر فیصلہ کرنا۔

دوم۔ الدوام: تیشگی۔ باقی رہنا۔ الدوام الرسمى: کام کا وقت اور اس کی مدت جو نظام اور قانون کے ساتھ ہو۔

دواما علی الدوام: بغیر وقفہ جاری کام۔ دوی۔ الدایة: خادمہ بچہ کو پالنے والی۔ دیم۔ الدیمقراطیة: وہ سیاسی نظام جس میں عوام کی حکومت عوام پر ہوتی ہے۔ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔

قوام الدیمقراطیة الحریة والمساواة: جمہوریت کو درست رکھنے والی چیزیں۔ آزادی اور مساوات ہے۔

حریة الصحافة وجہ من وجوه

الدِّمَقْرَاطِيَّة: آزادی صحافت جمہوریت کا ایک حصہ ہے۔

ذبح- الذَّبْحَةُ: دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کا سبب سانس کی تنگی یا خون کی نالیوں کی بندش ہے۔ اس وجہ سے سینہ میں درد اور اختناق ہوتا ہے اَلْمَذْبَحَةُ: انسانوں کا قتل عام جس میں وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں۔

ذَكَر- التَّذْكَارُ او التَّذْكَارُ: کسی شے کو یاد کرنا۔ کسی چیز کو حفظ کرنا۔ وَطِيفَ بِحَيْضِهِ السُّبْحَةُ تَذْكَارُ الْحَجِّ: یہ تہنّج کا وظیفہ ہے۔ وہ تحفہ جو یاد دہانی کے لئے پیش کیا جائے۔ بِحَيْضِ هَذِهِ الْجَوْهَرَةِ كَيْدُكَارٍ: یہ گوہر یاد دہانی کے لئے قبول کیجئے۔

تَذْكَارُ الْمَوْتِي: مردوں کی تعریف جلے کی صورت میں خَذْكَارُ اللَّهِ: اللہ کی مدح و ثنا کرنا۔

راء- الرَّائِيَّةُ: ہر وہ قصیدہ جو راء کے ساتھ روایت کیا گیا ہو۔ ان میں سے مشہور قصائد رائیہ درج ذیل ہیں:

رائیہ ابن عبدون: رائیہ ابن بواب الخطاط- رائیہ ابن الحسن التھامی۔

رأس- الرَّأْسَمَالُ: تمام ملکیتی مال قطع نظر اس کی پیداوار سے جَسْمَانِيَّةٌ مِنْ رَأْسَمَالِهِ: وہ اپنے سرمایہ سے خرچ کرتا ہے۔

بِحَيْضِ الْمَالِ الْمَشْرُوعِ: منسوبہ کے لئے سرمایہ لگانا۔

قِيَمَةُ الْمَالِ مَوْضُوعُ الدِّينِ: مال کی شان قرض کے موضوع میں ہے۔ یہ القاعدہ کے متضاد ہے۔

الرَّأْسَمَالُ وَالْعَمَلُ: پیداوار اور اصحاب مال سے جمع شدہ تمام مال۔

مجازاً: رَأْسَمَالُهُ عِلْمُهُ: آدمی کا سرمایہ اس کا علم ہے۔

الرَّأْسَمَالِيَّةُ: وہ اقتصادی نظام جس میں وسائل پیداوار جاری مال والوں کے لئے ہوں۔ سرمایہ دار لوگوں کی جماعت۔ سرمایہ دار ممالک۔

رأي- الرَّأْيُ: اصحاب الرَّأْيِ وَالْقِيَّاسُ: وہ فقہاء جو قرآن و حدیث سے احکام فتویٰ نکالتے ہیں اپنی ذاتی رائے استعمال کرتے ہوئے، قرآن و حدیث سے بڑا قیاس لیتے ہیں اور امور کے واقعات سے چھوڑا قیاس۔

ربخ- الرَّابُوحُ ج الروابيح: کلری رنگتے کارچر۔

ربط- الرَّبْطُ: ملانا اور جمع کرنا اَلرَّبْطُ بَيْنَ الْأَلْوَانِ: رنگوں کو ملانا خفی الفلسفہ: کسی وجہ سے ذہن مل جانے کی بنا پر دو معلوم چیزوں کے درمیان تعلق جو رُتَابَةُ الرَّبْطَةِ: ربط سے مرہ ہے۔

رَبْطَةٌ مَعْكَرُوتَةٌ: گھوڑے۔ جس کے ساتھ کسی چیز کو بند کیا جائے۔ جیسے لفاظہ اور پگڑی۔ رَبْطَةُ السَّاقِ: جو راب باندھنے کا تسمہ۔

وسام ربطة الساق: سب سے پرانا اور بڑا انگریزی تمغہ اچھی گھوڑسواری پر سب سے پہلے اس تمغہ کے بانی بادشاہ ایڈورڈ (۱۳۳۸ء) تھے رَبْطَةُ الْعُنُقِ: گردن کے ارد گرد لپٹا ہوا کپڑا جس کا ایک حصہ سینہ پر ڈالا جائے۔

الرَّابِطُ: تعلق اور جوڑنے کا ربط بَيْنَ أَقْسَامِ مَوْضُوعٍ: اقسام موضوع کے درمیان جوڑ۔

فی الفلسفہ: فلسفہ میں دو معلوم چیزوں کے درمیان تعلق کا قیام کسی وجہ سے ذہن میں ان کے مل جانے کے سبب وَ فِي الْمَنْطِقِ: ایک سلسلہ کے افراد کے درمیان جامع تعلق۔

ربع- الرَّبَاعُ فِي الرَّيَاضَةِ: ورزش میں طاقت کا امتحان دینے کی خاطر ویٹ اٹھانے والا۔

الرَّبَاعِيَّاتُ: چار چار اشعار کے مقاطعات۔

بِحَيْضِ بَاعِيَّاتِ الْخِيَامِ: ربو- الرَّبْيِيُّ: غذائیت دینا اور پرورش کرنا۔ بچوں اور چھٹیوں کو پالنا۔

تَرْبِيَةُ الشَّبَابِ: نوجوانوں کی تہذیب و اصلاح۔ اَلتَّرْبِيَّةُ: انسان کے روحانی، عقلی اور بدنی طبعی

رجحان سے نکالنا اور مخصوص حالت و معین معاشرہ کے ساتھ ڈھلنے کی طاقت پہچانا۔ جیسے "تَلَقَى تَرْبِيَةَ حَسَنَةً" اچھی تربیت لینا۔ "أَسَالِبُ فِي التَّرْبِيْبِ": وہ علم و فن جو انسان کو مذکور معنی کی تربیت دے اور اصول تعلیم سکھائے۔

رتب- الرَّتْبُ: ترتیب دیا گیا موضوع۔ جس کی ترتیب لگ چکی ہو۔ ماہانہ تنخواہ۔

رجاء- الرَّجْوَةُ: علم کلام میں گفتگو کرنے والے فرقہ کا نام جو صلح پسند لوگ تھے اور خلافت کے متعلق اختلاف کو اللہ کے سپرد کرتے تھے کہ وہ قیامت والے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔

رجح- الرَّجْحَانِيَّةُ فِي الْفَلْسَفَةِ: ان لوگوں کا نظریہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنا محال ہے۔ ایک احتمال ہی ہے۔ اس واسطے ان کو احتمال کہا جاتا ہے۔

رجع- الرَّجْعِيُّ: الرَّجْعِيَّةُ: کی طرف منسوب۔

افکار رجعية: رجعی افکار سَحَابَاتِ رَجْعِيَّةٍ: رجعی کاتب۔ پہلے پھل کے ختم ہونے کے بعد درخت اسی سال دوسرا پھل لائے۔ وہ قانون جو زمانہ ماضی یا سابقہ وقت کی باتوں پر مشتمل ہو۔

الرَّجْعِيَّةُ: قدامت پسندی۔ وہ تحریک جو انقلاب کے سیاسی اور معاشرتی اصولوں کی ترقی کی مخالفت کرے۔ بلکہ روایتی اصول کو پکڑے اور گذشتہ تنظیموں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔

الرَّجْعِيَّةُ: اس شخص کا جو زمانہ کے تقاضوں کے نہ چلے اور پرانے بوسیدہ نظریہ پر ثابت قدم رہے۔

رخی- الرَّخَاوُ الرَّخْوُ: نرم ڈھیلا حروف۔ اخوة درج ذیل ہیں۔ تا حافادال را س ش ص ظ انطا ہیں الفالسطریں۔

رد- الرَّاسْتِرْدَادُ: کسی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرنا۔

حراست ہے۔
الرَّقَابَةُ عَلِي سَكُوكِ فُلَانٍ: فلاں کے گردار پر لڑی نگاہ ہے الرَّقَابَةُ عَلِي الْأَسْعَارِ: چیزوں کے نرخ کے متعلق حکومت کے نمائندہ حضرات کو خبردار و آگاہ کرنا اور احتیاطی تدابیر کرنا۔

في الاقتصاد السياسي: حکومت اور مرکزی بینک (سٹیٹ بینک) کا سکہ کی قیمت پر کنٹرول کرنا۔ اس کا نام رَقَابَةُ الصَّرْفِ ہے۔ الرَّقَابَةُ الصُّحْفِيَّةُ: حکومت کے نمائندوں کا اخبارات و مجلّات کی نگرانی کرنا تقسیم و توزیع سے پہلے۔

حَقُّ الرَّقَابَةِ: نگرانی کا حق
الرَّقَابَةُ: حفاظت کرنا اور خبردار کرنا۔
مِرَاقِبَةُ الحُرَّاسِ: چوکیداروں کی نگرانی میں حفاظت۔

مِرَاقِبَةُ الأشغال: کاموں کو دیکھنا۔
مِرَاقِبَةُ العَمَلِيَّاتِ الْإِنشَائِيَّةِ: انتخابی کارروائیوں کی نگرانی کرنا اور انتظامی امور کرنا۔
مِرَاقِبَةُ المَطْبُوعَاتِ: طبع ہونے والی کتب کو چیک کرنا تقسیم سے پہلے۔ سنسیر شپ۔

مِرَاقِبَةُ الاسعار: چیزوں کے نرخ کنٹرول کرنے کے معلومات حاصل کرنا اور اصلاح کے لئے تدابیر کرنا۔

مِرَاقِبَةُ فِي المَطَارِ: ایئر پورٹ ناؤر۔ کنٹرول روم۔

مِرَاقِبَةُ الرِّاقِصَةِ: پیشہ ورانہ چنے والی۔
مِرَاقِبَةُ ج مِرَاقِبُص: ناپنے کی جگہ۔

مِرَاقِبَةُ التَّرْفِيعِ: سون پکڑے کو بیوند لگانا۔ جوڑ لگانا۔ (طب) جلے یا کئے ہوئے مقام پر اپریشن کے ذریعے دوسری جگہ سے کاٹ کر گوشت کا ٹکڑا بیوند کرنا۔

مِرَاقِبَةُ التَّرْفِيمِ: حروف پر نقطے لگانا۔ نمبرنگ کرنا۔ نمبر لگانا اور تکرار: نیک لگانا۔ حکومت پر قابض ہونا۔

مِرَاقِبَةُ الارْتِكَازِ: کرین کا مرکز انتقال۔ کام کرنے کا قاعدہ۔ کہا جاتا ہے مِرَاقِبَةُ الحَيْشِ

والا۔
فِي التَّصَوُّفِ: وہ نیک انسان جو عابد کو دین حق میں رہنمائی کرے۔
المُرْشِدُ التَّرْبَوِيُّ: جو اساتذہ کو اپنی نگرانی میں تدریس کرائے اور جو پڑھانے کے طرق بتائے۔

الرَّصْدُ: انتظار کرنا۔ گھات لگانا۔ مَآيَا: کام یا منصوبے کو مکمل کرنے کے لئے معین مال مخصوص کرنا الرَّصْدُ الجَوِي ج الرِّصَادُ: موسیٰ حالات کو معلوم کرنے کے لئے فضائی حالات پر نگاہ رکھنا۔ وہ تمام کام جو اس کی ریسرچ (تحقیق) کے لئے کئے جائیں۔

رِصَادُ الحِسابِ: حساب چیک کرنا۔
رِصَادُ مَبْلَغٍ مِنَ المَالِ لِكَذَا: مال تیار کرنا اور کسی کام کے لئے اس کو خاص کرنا۔

الرِّصَاعُ: التَّرْصِيعُ: بار پڑنا۔ ہیرے موتی جوڑنا۔

رِعْبٌ - أَرْعَبٌ: کسی کو ڈرانا۔
رِعْمِيٌّ - الرِّعَايَةُ: سون مویشی چرانا جانوروں کی حفاظت کرنا۔ چرواہے کا پیشہ۔ عوام پر حکومت

کرنا رِعَايَةُ الحَقُوقِ: حقوق کی حفاظت کرنا۔ بچوں کی نگرانی کرنا۔ سربراہی کرنا۔
جَوْرَتِ الحَفَلَةِ بِرِعَايَةِ فُلَانٍ: فلاں کی سربراہی میں جلسہ منعقد ہوا۔ کہا جاتا ہے:

مِعَامَلَةُ الدُّوَلِ الْإِكْثَرِ رِعَايَةً: ممالک کا معاملہ زیادہ شان پر ہیج ہوتا ہے۔

رِفْعٌ - الرِّمَافَةُ: وکیل عوام یا وکیل سرکار کا عدالت میں کیس کرنا یا دفاع کرنا۔ عدالتوں میں دفاع کا فن فَنَ الوُقُوفِ المُرَافَعَاتِ المُنَدِيَّةِ: سول عدالتوں کے اصول۔

رِفْقٌ - الرِّمْفَقُ: اپنے علاوہ کے ساتھ جوڑا گیا یا ملایا گیا۔

مُسْتَنْدَاتٌ مَرْفُوعَةٌ بِهٖ: اس کے ساتھ سندیں کف ہیں۔ یعنی شہادتیں۔

الرِّفْقُ الْأَبْيَضُ: سفید جس غلام۔

رِقْبٌ - الرِّقَابَةُ: چوکیداری اور خبردار کرنا۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ تَحْتَ الرِّقَابَةِ: فلاں زپر

استرداد المصبيح: فروخت کی گئی چیز کا واپس کرنے کا مطالبہ کرنا۔

دَعْوَى الاستِرْدَادِ فِي قَانُونِ المُرَافَعَاتِ: ایپل قانون کے ذریعے چھینا ہوا ملکیتی سامان واپس لینے کا مطالبہ کرنا۔

رِدْفٌ - المُرَادِفَاتُ: وہ الفاظ جن کے الفاظ مختلف ہوں اور معنی ایک ہو۔

رِسْتٌ - الرِّسْتُ: موسیقی کے اصلی ابتدائی سات مقامات۔

رِسْلٌ - الارسال: چھوڑنا۔ پیغام بھیجنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کتاب وغیرہ بھیجنا۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے کلام اور تصویر دکھانا۔

الرِّسَالِيَّةُ: دینی و مذہبی جماعت جو لوگوں کو مذہب کی دعوت دے اور بشارت دے۔

التَّجَارَةُ: وہ سامان جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے المُرَاسِلُ: خط و کتابت کرنے والا۔ صحافی جو اخبار یا خبر ایجنسی کو خبریں اور

معلومات بھیج دے۔ رِسْمٌ سُمِّيَ: رسم کی طرف منسوب۔ یعنی حکومتی، ملکی، اللباس

الوَرْدِي: گورنمنٹ وردی۔
رِسْمٌ - الرِّسْمِيُّ عِنْدَ العَامَةِ: عوام الناس کے نزدیک: سنجیدہ آدمی۔ اس کی ضد المَارِحُ یعنی مذاق کرنے والا الرَّسْمِيُّونُ: حکم نافذ کرنے والے۔

الرِّسْمِيَّاتُ: وہ اصول و قواعد جن کو اصطلاحاً معاشرے میں بولا جاتا ہے۔

الرِّسْمِيَّةُ بِالرِّسْمِيَّاتِ: قوانین کی پابندی کرنا۔ بِالرِّسْمِيَّةِ: حکومتی اجازت کے بغیر۔

رِشْدٌ - الرِّشْدُ: سن تمیز و شعور کو پہنچنے والا۔ جس پر حق قانون نافذ ہو۔ دین حق پر سخت پابندی کے ساتھ قائم ہونے والا۔ اسی سے لفظ خُلَفَاءُ الرِّاشِدُونَ یعنی وہ صحابہ رسول جنہوں نے حکومت وقت اسلام کے مطابق نافذ کی المُرْشِدُ: دین حق کی طرف صحیح رہنمائی کرنے والا۔

”مُرْشِدٌ سَاحِلِيٌّ“ ”مُرْشِدُ المِينَاءِ“ بندر گاہ پر جہازوں کی آمد و رفت پر کنٹرول کرنے

هذه المدينة نقطة ارتكاز: لکھنے اس شہر کو مورچہ بنالیا۔

الْمَرْكُزِيَّةُ: وفاقی ادارہ جو تمام حکومتی اداروں پر حکم چلائے اور ان کو متحد کرے جس کا ہیڈ کوارٹر دارالخلافہ ہوتا ہے۔ فی الدُّوَلِ الْاِتِّحَادِيَّةِ: وہ سیاسی نظام جس کے تحت وفاقی حکومت اپنی اتحادی ریاستوں کی اصلاحات کے لئے کام کرے۔

الْاَلْمَرْكُزِيَّةُ: وہ نظام جس میں کچھ وفاقی اداروں کے لئے اصلاحات کر دی جائیں اور باقی اداروں کے لئے یہ اصلاحات نہ ہوں۔ وَ فِي الدُّوَلِ الْاِتِّحَادِيَّةِ: متحدہ ریاستوں کا مرکزی حکومت سے کچھ اصلاحات اور قوانین عدلیہ میں خود مختار ہونا۔

(حی) ایک آلہ کے جزیں گول حرکت کو اسی کے دوسرے جزیں لمبی حرکت میں بدلنا۔ رَم- اَلْتَّرْمِيْمُ: پرانی عمارت کو درست تعمیر دینا۔ کسی کام کی اصلاح کرنا۔

رَمِي- اَلرَّمَايَةُ: تیر اندازی کرنا۔ نشانہ پر کار توں گولی لگانا۔ نشانہ بازی کا کھیل۔ تیر اندازی کا پیشہ۔ نشانہ بازی کی تربیت دینے کے لئے معین جگہ۔

رَهَب- اَلرَّهَابُ: خوف زدہ کرنا۔ اَعْمَالُ الْاِرْهَابِ: دھمکی، قتل اور دھماکہ کر کے خوف زدہ کرنا۔

رَوْت- اَلرَّوْتِيَّةُ: کسی کام کو بار بار معمول کے مطابق کرنا تاکہ اس کی عادت ہی بن جائے۔

فِي عَمَلِ الْمُؤَطَّفِ رُوْتِيَّةٌ قَاتِلَةٌ: ملازم کے کام میں روٹیں اس نوبت تک آجائے کہ اس کو ہلاک کر دے۔ لَا يَزَالُ عَلِيٌّ وَتِيَّةٌ: وہ اپنی روٹیں پر ہمیشہ سے ہے۔

رُوح- اَلرُّوْحِيَّةُ: وہ فلسفی مذہب جو روح کے وجود کو بھری سمجھتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اَلْمَادِيَّةُ ہیں اَلْاِسْتِرَاحَةُ: آرام کی خاطر کام سے رکنا۔ وقفہ کرنا۔ تَفْرِغُ نَائِمٌ- ذَخْنٌ سَبِيحَارَةٌ خَلَالَ الْاِسْتِرَاحَةِ: اس نے

تفریح نائم میں سگریٹ نوشی کی۔ مسافروں اور سیاحوں کے آرام کھانے سونے اور خوشحالی کے لئے عمارت۔

رَوْد- اَلرَّادَةُ: کسی چیز کے کرنے پر چاہت اور قدرت۔ فَرَضُ اِرَادَتِهِ: ارادہ لازم کرنا۔ بَارَادَةُ اللّٰهِ: اللہ کے حکم کے ساتھ۔ قُوَّةُ الْاِرَادَةِ: کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا عزم۔ رَغْبَتٌ اور مَقْصُودُ الْاِرَادَةِ الْحَسَنَةُ: کسی ایسے کام کو کرنے کی صلاحیت۔

اَلْمُرِيْدُ فِي التَّصَوُّفِ: اپنے ارادہ کو ترک کر کے اپنے شیخ کے حکم کو ماننا اور ریاضت و مجاہدہ میں اس کے تابع ہونا۔ یا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اللہ کی طرف تعلق جوڑے۔

رَوْض- اَلْمُرْوَضُ: جانوروں کو کھیل تماشہ کی ٹریننگ دینے والا۔

رُوق- اَلرُّوْقِيَّةُ: ایک فلسفی مذہب جس کی بنیاد چوتھی صدی قبل مسیح زیتون رواقی نے رکھی۔

یہ مذہب حلویہ اور مادیہ کی ایک شکل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وجود مادہ اور مادہ کو چلانے والی قوت سے مرکب ہے۔ اور اخلاق کی بنیاد عقل پر ہے جو کہ طبعی قوانین سے لیتی ہے نہ کہ خواہشات اور مصالح جو کہ ان کے مخالف ہیں۔

رُوي- اَلرُّوَايَةُ: کسی حقیقی یا خیالی واقعہ کو بیان کرنا۔

”وَصَلُّ الشُّعْرَ الْجَاهِلِيَّ اِلَى مُدَوَّنِيَّةٍ عَنِ طَرِيقِ الرُّوَايَةِ“ زمانہ جاہلیت کے شعروں کو یاد کر کے آئندہ نس تک پہنچانا۔

”اَبْطَالُ الرُّوَايَةِ“ ناول و افسانہ نگار جس میں خیالی تصورات اور اخصاص کو حقیقی تصورات اور اخصاص کی طرح پیش کرتے ہیں اور ان کے درمیان گفتگو، عادات، طبائع، خواہشات اور جذبات کو ذکر کرتے ہیں۔

تَمَثُّلُ رُوَايَةٍ: ڈرامائی شاعری۔ رُوَايَةُ هَزْلِيَّةٌ: مزاحیہ کلام کا بیان۔ هَزْلَةٌ رُوَايَةٌ: من گھڑت خبر، خبر گھڑنا۔ گھڑا ہوا

قصہ۔

رُوَايَةُ نُوْلِيْسِيَّةٍ: خطرناک کام اور جاننازی کے واقعات بیان کرنا۔ یا وہ کہانی جس میں جرائم کی تحقیق کا نظریہ ہو۔

زَبَل- اَلزَّبَالُ: خاکروب۔ زَرْد- اَلزَّرْدَةُ: ذرہ کا کڑا زنجیر کا کڑا۔ زَرَكَش- زَرَكَشْ: منقش کرنا۔ طبع کرنا۔ مزین کرنا۔

زَل- اَلزَّلْزَالُ وَالزَّلْزَالُ: زلزلہ۔ زَلْجٌ پَر حَرَكَتِ اَنَا جَوْ مَخْصُوصٍ كَمَهْرٍ اِي اَوْر مَعِيْنِ مَقَامٌ سَع شَرُوعٌ هُوْتِي هے۔

زَهْل- اَلزَّهْلَةُ: کام، پڑھائی اور پیشہ میں ہم جماعت ہونا۔ سادھی ہونے کی بنا پر ایسے تعلقات۔

زَهْر- اَلزَّهْرِيَّةُ: پھولوں کے لئے گلخانہ۔ اس کو اَلْمُظَهَّرِيَّةُ بھی کہا جاتا ہے۔ زَهْرِيَّاتٌ کا واحد۔ انگوروں کی قسم جس کا پھول ظاہر ہو۔ اَلزَّهْرِيَّاتُ: موسم ربیع کی میں قصائد ان میں سے زیادہ مشہور زہریہ بدیع الزمان الہمدانی اور زہریہ صفی الدین اعلیٰ ہیں۔

زَوْج- اَلزَّوْجُ اَلْاَجِبَةُ: شادی شدہ کی حالت یا صفت۔ مختلف طبیعتوں کے دو عناصر کا ملنا۔ وَ فِي الْحَكْمِ: دو حکومتوں کا کسی ہر میں غیر قانونی طریقہ پر شریک ہونا جب کہ یہ حکم کے عیوب میں سے ہے۔

زَيْد- اَلزَّيْدِيَّةُ: شیعوں کے ایک فرقہ کا نام جنہوں نے اپنا نام جناب زید بن علی بن الحسین کو بنایا۔ ان کی اکثریت ایران اور یمن میں آباد ہے۔

سَار- اَلسَّارُ وَ اَلْوَقِيمُ: فرشتوں کی صفوں میں پہلے آسمان پر روحانیوں کے نام۔

سَأَل- اَلسُّوَالُ ج اسئلہ: صدقہ طلب کرنا۔

حدیث میں ہے: آپ نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا۔ کسی مخاطب سے پوچھنا۔ علم حاصل کرنا۔ یا معلومات کے متعلق وضاحت لینا۔

اس کا الٹ: جواب ہے۔ طالب علم سے امتحان لینے کے لئے جواب پوچھنا۔	الحساب: ریاضی کے موضوع میں مقابلہ طلباء۔ کھائی ٹرائینگ وغیرہ میں مقابلہ۔	سعر: اتسعیرو: سرخ مقرر کرنا۔ کسی ملک کی طرف سے اشیاء کے سرخ مقرر کرنا جس سے زائد قیمت پر فروخت کرنا منع ہوتا ہے۔	المُسْبِقُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
المَسْئُولُ ذمہ دار۔ کسی جماعت میں قیادت کے ذمہ دالات مسؤل عن المخالفة: تم مخالفت کے متعلق ذمہ دار ہو۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
حکومت کا نمائندہ:	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
عَلَيْكَ مُرَاجَعَةُ الْمَسْئُولِينَ: آپ حکومتی نمائندوں سے رابطہ رکھیں۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
سبأ۔ السَّبِيئَةُ: غالی شیعہ میں سے ایک جو کہ عبد اللہ بن سبا کی طرف تھی۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
سبت: ستمبر: میاں دای مہینوں سے نواں ماہ ہے۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
السَّبِيئَاتُ: رومیوں کی عیدیں جو کہ معبود ساتور توس کی عزت کے لئے منائی جاتی تھیں۔ ہر مزاحیہ جلسوں کے نام سے مشہور تھیں۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
السَّبِيئَاتُ: تیرا کلساخة علی الظہر: پیٹھ کے بل تیرا کی۔ بدنی ورزش جس میں کس بیچ ہوتے ہیں اور فوائد ہوتے ہیں۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
مُبَارَاتُ السَّبَاخَةِ فِي الْأَلْعَابِ الْأُولَمبية: اولمپکس کھیلوں میں تیرا کی بیچ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
المُسْبِحُ ج الْمَسَابِيح: تیرا کی کی جگہ۔ تیرا کی کو تحفظ دینے کے لیے تیرا کی گئیں عمارت۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
سبع۔ السَّبْعِيْنَةُ: عہد قدیم کا یونانی ترجمہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کام کو یہود نے مصر میں سر انجام دیا تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بطليموس نے تیسری صدی قبل مسیح ستر (۷۰) تراجم کروائے جو کہ ہمیشہ سے یونانی گرجوں اور ان کی برانچوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
سبِق۔ الْأَسْبِقِيَّةُ: سبق کی طرف نسبت۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
أَسْبِقِيَّةُ حَادِثٍ: کسی واقعہ کا سب سے پہلے ہونا۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
وزمانا: سب سے زیادہ قدیم۔ عزت و آبرو کا ایک لقب ہے۔ سب سے زیادہ حق۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔
المُسَابِقَةُ: مقابلہ۔ الْمُسَابِقَةُ فِي	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔	التسعیرة: سامان کی قیمت مقررہ۔	المُسْتَقْبَلُ: آگے نکل جانے والا گھوڑا یا انسان۔ پہلے کیا گیا وعدہ پیشگی رقم۔

بجاء اور حفاظتی اقدامات۔

السَّيِّئَةُ: منفی کی صفت اور حالت۔ فلسفی اخلاق مذہب جو ہر عقیدہ اور ہر ثابت شدیہ حقیقت کا انکار کرتا ہے۔

سَلْحٌ - السَّلِيحَةُ: لوہے کا ڈھانچہ جس پر عمارت قائم ہو یا بنائے ہوئے اوزار ہوں۔

تَسْلِيحَةُ الْاِسْمَنْتِ: سینٹ بھر اہو الوہا۔

سلسل - التَّسْلُسُ: زنجیر کی شکل میں پرونا۔ تشبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے۔

تَسْلُسُ الْمَاءِ: پانی جاری ہونا۔

تَسْلُسُ الْاِحْدَاثِ: بے درپے حادثات کا ہونا۔

تَسْلُسُ الْاِفْكَارِ: نظریات کا باہمی تعلق ہونا۔

التَّسْلُسُ الْاِدَارِي: وہ نظام جو مظلوم کو حاکم کے ساتھ ملا دے خواہ وہ ملازم ہو یا ادارہ ہو۔

اس کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک ملازم کا دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا یا ایک ادارہ کا

دوسرے ادارہ کے ساتھ معاملہ جاری ہونا۔

سلف - التَّسْلِيْفُ: قرض دینا۔ تسلیف علی ذہن: گروہی چیز پر قرض دینا۔ تسلیف دینا۔ تسلیف علی وثیقة الناس: ضمانت کے اعتماد پر قرض دینا۔ مال مطلوب کا ایک حصہ دینا۔

التَّسْلِيْفُ عَلٰی بَضَاعَةٍ: سامان تجارت پر قرض دینا۔

بَنْكُ التَّسْلِيْفِ: صنعت، تجارت اور زراعت میں ترقی کے لیے قرض دینا۔

سَلَكٌ - السَّلُوْكُ: کسی کام میں تصرف کرنا۔

تصرف کا طریقہ۔

لَا مَعْنٰی عَلٰی سَلُوْكِهِ: کسی کے کردار پر ملامت کرنا۔

انسان کی سیرت و لکن اِنَّهٗ حُسْنُ السَّلُوْكِ: بیشک وہ نیک سیرت ہے۔

فی علم النَّفْسِ: آراء و احوال میں کائنات کے تصرف کا سبق۔

فی التَّصَوُّفِ: معرفت الہیہ میں ریاضت کا

طریقہ۔

سَلِمٌ - الْمُسَلِّمَاتُ: بنیادی ابتدائی معلومات جن کو بغیر دلیل قبول کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے دوسرے تفسیر پر دلیل ہو سکے۔ وہ امور جن کے تسلیم کرنے کے خلاف کوئی رائے نہ ہو۔ کہا جاتا ہے هَذَا مِنَ الْمُسَلِّمَاتِ: یہ تسلیم شدہ چیزوں سے ہے۔

سَمٌ - الْمَسَامُ: چھوٹے سوراخ۔ حَجْرٌ ذُو مَسَامٍ: سوراخ دار پتھر۔

مَسَامُ الْجِلْدِ: چروے کے اندر سوراخ جن سے پینہ آتا ہے۔

سَمْحٌ - السَّمْحَةُ: جو دو کرم میں اہل السَّمْحَةِ: فلاں سخی لوگوں سے ہے۔ نری کرنا۔

سَمَاحَةُ الدِّينِ: دین کی نری۔ اسلامی القاب میں سے لقب جیسے: سَمَاحَةُ الْمُفْتِي: "سَمَاحَةُ الْاِمَامِ": محترم مفتی محترم امام۔

سَمْرٌ - الْمَسْمَارِيَّةُ: مساریہ کتابت۔ یہ کتابت نہرین کے مابین ممالک میں شروع ہوئی۔

اس کے ابتدائی آثار قبل المسیح چوتھے ہزار سال میں معلوم ہوئے۔

سَمْعٌ - سَمْعِيٌّ بَصْرِيٌّ: وہ چیز جو سمع و بصر کو جمع کرے لِلطَّرِيقَةِ السَّمْعِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ: وہ طریقہ تعلیم جس میں بچوں کے حواس پر زور دیا جاتا ہے اور ان کو بیک وقت سمع و بصر کے استعمال پر مجبور کیا جاتا ہے مثلاً تصویر دکھانا اور اس کے متعلق باتیں سنانا۔ جیسے ٹی۔ وی کا استعمال۔

سَمُوٌ - السَّمُوُ: بلندی و شان۔ جسے سَمُوُ الْبَصْرِ: آنکھ کی بلندی۔

مَجَازًا: اعلیٰ و ارفع ہونا جیسے اعلیٰ اخلاق و ارفع شعور۔ عزت و احترام کا لقب۔ جیسے "سَمُوُ الْاَمِيْر" محترم امیر۔

سَمْسٌ - السَّمْسُكِيَّةُ: اس کا معنی: مہذب زبان۔ یہ ہندوستان والوں کی قدیم ترین زبان ہے جس میں ان کی قدیم کتب تحریر و تالیف کی

گیں۔

سَهْلٌ - التَّسْهِيلُ: نری و آسانی کرنا۔ تَسْهِيلُ الْأُمُورِ: امور کو آسان کرنا۔ و عند القراء: قراء کے ہاں: ہمزہ کو ہمزہ اور ہاء کے درمیان پڑھنا۔

عند الصرْفِيْنَ: صرفیوں کے ہاں: ہمزہ کو اس کے اور ما قبل کی حرکت کے حرف کے درمیان پڑھنا جیسے الْخَطِيْبَةُ الْاَلْخَطِيْبَةُ: پڑھنا۔

سَهْمٌ - الْمَسَاهِمُ: حصہ دار۔ ایک یا ایک سے زیادہ حصوں کا مالک کسی کمپنی میں۔

ذَعْوَةُ الْمُسَاهِمِيْنَ: اِلَى الْاِجْتِمَاعِ: کسی کام میں شریک کار افراد کو اجتماع میں شرکت کی دعوت۔

الْمُسَاهِمَةُ: کسی کام میں شریک کار ہونا۔

الْمُسَاهِمَةُ فِي النِّفَقَاتِ: خرچہ جات میں حصہ دار ہونا۔

سَوْلٌ - السَّوْلُ: کسی چیز کو پتھر پن سے مانگنا۔ گداگری کرنا۔

مَنْعُ السَّوْلِ فِي اَحْيَاءِ مِنَ الْعَاصِمَةِ: دار الخلافہ کے محلوں میں گداگری کا منع ہونا۔

گداگری سے بچانا۔

سَوِيٌّ - الْاِسْتَوَانِيٌّ: خط استواء کی طرف نسبت۔

الْمِنْطَقَةُ الْاِسْتَوَانِيَّةُ: خط استواء والا علاقہ۔ الْمَنَاحُ الْاِسْتَوَانِيٌّ: وہ فضا جس میں بلند حرارت، کثرت بارش ہو اور موسم نہ ہوں۔

التَّسْوِيَّةُ: تمہید۔ ایک چیز کو دوسری کے برابر کرنا۔ جیسے تَسْوِيَةُ الْاَرْضِ: زمین کو برابر کرنا۔

علاقائی منجیت کے ہاتھ پر صلح کرنا۔ بذریعہ قانون صلح ہونا۔ وضع کو قوانین کے مطابق ڈھالنا۔

الْمُسَاوَاةُ: ہم مثل اور برابر ہونا۔ الْمُسَاوَاةُ السِّيَاسِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ: بنیادی نظریہ جس کے تحت تمام لوگوں کو سیاسی اور معاشرتی حقوق دیئے جائیں۔

وَفِي الْبِلَاغَةِ: لفظ معنی کی مقدار کے برابر

سے اس کو ایک قانونی حیثیت اور وجود مل جائے۔

التَّشْخِصُ: نشانوں اور علامتوں کی وجہ سے کسی شخص کی پہچان۔

تَشْخِصُ الْمَوْتِ: کسی شخص کی زندگی کے متعلق تحقیق کرنا۔ (فی الطب) کسی مریض کی مرض کا تعین کرنا۔

التَّشْخِصُ الرَّوَّانِي: ڈرامہ کرنا۔

شرح- شَرْحُ الْجَنَّةِ: موت کی وجہ معلوم کرنے کے لئے یا علمی تحقیق کے لئے پوسٹ مارٹم کرنا۔

الْمَشْرَحَةُ: پوسٹ مارٹم کا تختہ۔ پوسٹ مارٹم کا تختہ۔

شروع- الشَّرْعِيَّةُ: شرعی ہونا (شرعی کی صفت یا اس کا حال)

شَرْعِيَّةٌ عَقْدٌ: عقد کا جواز۔ شَرْعِيَّةٌ اجراء: قانونی کارروائی۔

التَّشْرِيعُ: قوانین جاری کرنا۔ سُلْطَةُ التَّشْرِيعِ: قوانین جاری کرنے کی اتھارٹی۔

تشريع العمل: "التشريع المالي" کسی زرعی زمین کے متعلق مجموعہ قوانین۔

التَّشْرِيعِي: تشریح کی طرف نسبت۔ عَمَلٌ تَشْرِيعِي: قوانین سازی کا کام۔

التَّخَايَاتُ تَشْرِيعِيَّةٌ: قانون ساز جماعت کے ایکشن۔

الْمَجْلِسُ التَّشْرِيعِي: او السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ: وہ کمیٹی جو قوانین کو جاری کرنے کا نظم بناتی ہے۔

الْمَشْرُوعِيَّةُ: قانونی ہونا۔ جائز ہونا۔ مشروعیة حق: درست پلاننگ۔

شرف- التَّشْرِيفَاتُ: استقبال اور حکومتی جلسوں میں اصول و قواعد جن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے (پروٹوکول) ان کو مراسم بھی کہا جاتا ہے۔

تَشْرِيفَاتُ: زائرین کا رجسٹر جس میں وہ اپنی آراء اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ (وزیٹنگ رجسٹر)

شرف- الاشراق: اشراق الشمس:

شرف- الاشراق: اشراق الشمس:

دھڑکن کو پپ کے ساتھ مشابہت دینا۔ وَ فِي الْيَابَانِ: علم بیان میں: ایک چیز کو دوسری کے ساتھ وصف میں اوقات کے ذریعے ملانا۔

شبي- الشَّيْبَةُ: سرپائی کلمہ ہے جس کا معنی: الأَشْبُوْعِيَّةُ: یعنی ہفتہ کے دنوں میں نماز کی کتاب۔ یہ کتاب کرشنر رومایں ۷۲ سے ۷۴ کو طبع ہوئی۔ پھر عربی میں اس کی طباعت نئے سرے سے ہوئی۔

شحم- التَّشْحِيمُ: کراؤ کے مقامات میں آلات کے اندر چربی لگانا۔

الْمَشْحَمَةُ: ج مشاحم: رگڑ کا مقام جہاں گریں لگائی جاتی ہے۔ مشاحم سیارۃ: گاڑی کے اندر گریں لگانے کے مقامات۔

الْمَشْحَمَةُ: گریں لگانے کا آلہ۔ التَّشْحِيصُ: شخص کے ساتھ خاص۔ رَأْيٌ شَخْصِيٌّ: ذاتی رائے۔

أَمِيْعَةٌ شَخْصِيَّةٌ: ذاتی سامان۔ شَخْصِيَّةٌ: بذات خود۔ الأحوال الشخصية: وہ قوانین جو افراد کے احوال اور ان کی اہلیت کے متعلق ہوں۔

قانون سازی جو ایسے مسائل پر مشتمل ہو جو دینی احکام کے متعلق ہوں جیسے شادی اور اولاد کے مسائل۔

الشَّخْصِيَّةُ: جو ایک شخص کو دوسرے سے نمایاں کر دے۔ جیسے وَكَانَ قُوِيَّ الشَّخْصِيَّةُ: وہ طاقتور شخصیت والا ہے۔

شَخْصِيَّةٌ لَهٌ: اس کی کوئی شخصیت نہیں۔ شَخْصِيَّةٌ مُعْتَدٌ: وہ اوصاف جن کے ذریعے کوئی آدمی خود بخود پہچانا جاسکے۔

شَخْصِيَّةٌ بَارِزَةٌ: وہ مشہور آدمی جو اپنی ملازمت، اثر و رسوخ اور اجتماعی مرکز کی وجہ سے معروف ہو۔

حَضَرَتْ شَخْصِيَّاتٌ عَدِيْدَةٌ حَفْلَةَ التَّنْذِيْنِ: بڑے بڑے لوگ جلسہ افتتاح میں شریک ہوئے۔

وَ فِي الْقَانُوْنِ: وہ حق داری جس کا اعتراف کسی جماعت کے حق میں ہو جائے جس کی وجہ

دوسری جماعت کے برابر ہونے والا۔ بچھایا گیا۔ "فُسْحَةٌ مُسْتَوِيَّةٌ" برابر سطح۔ اسطَحُ الْمُسْتَوِي: برابر سطح جس پر دونوں خط برابر ہوں۔

سبح- اسْبَحَارَةٌ: سجائر و سجائر: سگریٹ۔ اس کو اسبَحَارَةٌ بھی کہا جاتا ہے۔ التَّسْبِيْرُ: کسی کی طرف حرکت کرنا۔ حرکت دینا۔ گھمانا۔ تَسْبِيْرُ الآلَةِ: آلہ گھمانا۔

عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ وَالْفَلَسَافَةِ: جبریہ ہیں۔ سبیل- السُّؤْلَةُ: بننے والا ہونا۔ سبُوْلَةُ الْمَاءِ: پانی بہنا۔

سین- السِّيمَانِي: سینما کا ماہر۔ أَلْفَنُ السِّيمَانِي: سینما کا فن۔ سینما کے کاموں میں کام کرنے والا اور حصہ دار۔

شبع- الاشباع: پیٹ بھر کر کھانا۔ "إشباع الجائع" بھوکے کو کھانا۔ اشباع الثوب: کپڑے کو رنگ کرنا۔

راضی کرنا۔ (ك): جسم کو مرکبات سے کفایت کرنا۔

عند النحاة: حرکت کو کھینچنا کہ اس سے حرف پیدا ہونے لگے۔ جسے دراهم کے کسرہ کو دراهیم پڑھنا۔

شبك- الشبَاكَةُ: کاغذ میں سوراخ کرنے کا آلہ۔

الشَّبَكِيَّةُ: مریض کی آنکھ کو پردہ میں رکھنے کے لیے پٹی۔

الاشبَاك: ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا۔

اشبَاك اسلاك حديدية: لوہے کی تاروں کا آپس میں مل جانا۔

اشبَاك بالاندي اشبَاك مسلخ: ہاتھوں سے اور ہتھیاروں سے لڑائی کرنا۔ عدم الاشتباك في القتال: لڑائی میں داخل نہ ہونا۔

شبه- التَّشْبِيْهُ: ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دینا۔

تشبية دور القلب بمضخة: دل کی

سورج کو طلوع کرنا۔ سورج کا چمکنا۔ اشراق
الوجد چمیرے کا خوشی سے چمکنا۔ چمیرے کا
خوبصورت ہونا۔ افلاطون کا جدید فلسفی نظریہ
کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ سے ایسے نکلتا ہے جیسے
روشنی سورج سے نکلتی ہے۔

الاشراقیون اس کا واحد: الاشراقی اس
فلسفی مذہب کے پیروکار جو کہ مشرقی حکمت
کے قائل ہیں۔ ان کا ہدف یہ ہے کہ یونانی
فلسفہ جو افلاطون سے حاصل ہوا ہے اور ایرانی و
دیگر فلسفہ جات میں مطابقت پیدا کی جائے۔

شرك۔ الاشتراك: حصہ، شرکت۔
الاشترک فی الحدیث بات چیت میں
حصہ۔ الاشتراك فی الاضراب حصوں
میں شرکت۔

الاشترک فی الارباح منافع میں شرکت۔
الاشترک فی الجریده: رسالہ میں
منجمری۔

دفع الاشتراك بیکسٹ یا قط وادائیگی۔
اشع۔ الاشعاع روشنی کی کرنیں پھیلانا۔
فی المجاز فکری اور تمدنی انتشار ہونا۔

الاشعاع الذری ذرات کا اڑنا اور فضا میں
پھیلنا۔

شعب۔ الشعبی عوامی "اعتقاد شعبی"
عوامی عقیدہ۔

مظاہرۃ شعبیۃ عوامی جلوس۔ حکومت
شعبیۃ عوامی حکومت۔

اجراء شعبی عوام پسند کارروائی۔
حیی شعبی غریب خاندان۔

لغة شعبیۃ عوامی لغت (غیر فصیح لغت)
الرقص الشعبی عوام کے رسوم و عادات

کے مطابق نام (لوک ناچ) زعمیم شعبی:
عوام پسند قائد۔

الشعبیۃ عوامی مقبولیت۔ عوامیت۔
تمتع بشعبیۃ کبیرۃ بڑی عوامی مقبولیت

سے فائدہ اٹھاؤ۔ تضاء لت لشعبیۃ شعبیۃ
اُغنیۃ عوام میں انتشار۔

شعر۔ الشُعور عوام کے ساتھ معلوم

کرنا۔

الشُعور بالبرد بھنڈک محسوس کرنا۔
اندرونی احساس جیسے خوشی محسوس کرنا۔

رَقیق الشُعور جذبہ۔ فی علم النفس۔
بیداری کی حالت میں انسان کی عقل حالت جو

کہ معرفت و وجدان خوف اور ارادہ پر قائم ہو۔
غاب عن الشُعور بشعور سے بے خبر ہونا۔

الاشعار اطلاع۔

الاشعار بالامر حکم کی اطلاع۔ وارثک۔
تَلَقَّى اشعاراً فارثک دی گئی۔ وہ تعلیمات جو

خصوصی طور پر تحریر اور بواسطہ اعلان دی گئی
ہوں۔

اشعارٌ بالاستسلام و صولی کارڈ۔

الاشعریۃ ابو الحسن علی کی طرف منسوب
کلامیہ فرقہ جو کہ معتزلہ سے الگ ہوئے۔

اصحاب نص و اصحاب عقل کے درمیان علم
کلام میں مسلک اختیار کیا اور دعویٰ کیا کہ عقل

کے ذریعے نص کو سمجھا جائے اس واسطے کہ
عقل شریعت کی خدام ہے۔

شعور۔ الشُعورۃ خفیہ تحریر۔ خفیہ تحریر کا
قاعدہ۔

بَرْقِیۃ مُرْسَلۃ یا شُعْرۃ خفیہ قاعدہ کے
ساتھ بھیجی تار۔

شک۔ الشکاکین فلاسفہ کا ایک فرقہ جو
دعویٰ کرتا ہے کہ عقل دلیل اثبات و نفی قائم

کرنے سے عاجز ہے۔ اسلامی فلسفہ میں ان کو
لاادبۃ کے نام کے ساتھ موسوم کیا جاتا

ہے۔
شککش۔ الشاکوش ج شواکیش:
چھوڑا، تھوڑا۔

شکل۔ التشکیلات: تشکیلات کی جمع:
فوجی دستے۔

و فی الادار قلازمین کا تبادلہ کرنا۔

شمع۔ الشمعۃ: ج الشمع وہ ستون جن
پر کسی چیز کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ شمعۃ من

رخام پتھر کے ٹکڑوں کا ستون۔
شہق۔ الشہاق والشاہوق بلند آواز۔

چیچ۔ کھانسی۔

شہو۔ الشہیۃ بھاننے کی چاہت۔ قابلیت۔
شہور۔ الاستسارۃ: مشہورہ طلب کرنا۔

عدالتی قانون میں وکیل سے رائے معلوم کرنا۔
طیب سے جسمانی صحت کے متعلق رائے

معلوم کرنا۔ طیب سے جسمانی صحت کے
متعلق رائے معلوم کرنا۔

الاستسارۃ فی الذیمقراطی پارلیمنٹ
نظام میں حاکم ملک اور ارکان پارلیمنٹ میں

حکومت بنانے اور وزارتوں کی تقسیم کے
بارے میں بحث۔

المنستشار: جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔
عدلیہ میں ایک عہدہ۔ وہ علمی شخص جس کی

رائے فنی، سائنسی اور دفتری امور میں تسلیم کی
جائے۔

متحدہ جرمنی کے سربراہ کا لقب۔

شوک۔ الشوک: شوک کی طرف نسبت۔
کائے والا۔ الحبل اشوکی بڑبڑھ کی ہڈی۔

الشوایہ گوشت بھوننے کا آلہ۔ کڑا ہی۔ سیخ۔
الشاعۃ: غیر یقینی مشہور خبر۔ راجت

الشائعات: بے یقینی خبریں مشہور ہونا۔
شیع۔ الاشاعۃ: مشہور ہونے والی غیر یقینی

خبر۔
صال۔ الصالۃ: استقبال روم۔ بڑا بال روم

جس میں لپیچر بنے جاتے اور نمائش لگائی جاتی
اور فلمیں بنائی جاتی ہیں۔

صبن۔ صوبن: صابن کے ساتھ دھونا۔

صحرا۔ الصحراوی: جنگل والا۔

نبینۃ صحراویۃ: جنگل کی انگری۔

المناسخ الصحراوی: جنگل کی فضا جو دن کو
اور موسم گرما میں سخت گرم ہوتی ہے اور رات

کو اور موسم سرما میں سخت سرد ہوتی ہے۔
ضلدر۔ الصادرات زرمی و صنعتی وغیرہ کی

برآمدات۔

صدر الاسلام: اسلامی تاریخ کا ابتدائی دور
جس کی تحریر پرانے مورخین نے نہیں کی۔

کچھ لوگوں نے اس کو نبی حضرت ابو بکر اور

حضرت عمر کے دور تک کیا ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وقت خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے عہد حکومت تک ہے۔

المُضَادَّةُ: بچھا پانا۔ ضبط کرنا۔

مُضَادَّةٌ كِتَابٌ مَمْنُوعٌ مِنْ تَلْمِيذِهِ: شاگرد سے منع شدہ کتاب ضبط کرنا۔

و فِي الْقَانُونِ: قانونی اور عدالتی فیصلہ کے مطابق جائیداد ضبط کرنا۔ "مُضَادَّةُ السِّلَاحِ" الحظ ضبط کرنا۔

مُضَادَّةُ الْأَمْلَاقِ: جائیدادیں ضبط کرنا۔

صَدَقَ - الْمُضَدَّقَةُ: تصدیق شدہ۔

الْمُضَدَّقَةُ: تصدیق کے لئے سند۔

صَدَمَ - الْأَصْطِدَامُ: دو چیزوں کا آپس میں ٹکرا کرنا۔ اصطلدَامُ سَيَّارَتَيْنِ: دو گاڑیوں کا ٹکراؤ۔ (ایکسٹنٹ)

التَّصْرِیحُ ج: تصریحات: اظہار، پرہیز بیان، اجازت نامہ۔ صاف لفظوں میں کہنا۔ لائسنس۔

صَرَعَ - الْمُصَارَعَةُ: پہلوان۔ کشتی لڑنے والا۔

الْمُصَارَعَةُ: گرانے کی کوشش کرنا۔ کشتی لڑنا۔ بچھاؤ۔

الْمُصَارَعَةُ النُّحْرَةُ: المصارعة الرومانية: آزاد کشتی، انگریزی کشتی (فری سٹائل)

صَرَفَ - الْمَصْرَفُ ج مصارف: وہ مالی ادارہ جو قرض کا لین دین کرے، امانت سنبھالنے اور ان پر نفع دے۔ اس کو بَنک کا بھی دیا جاتا ہے۔

الْمَصْرَفُ المركزي: مرکزی بَنک (سٹیٹ بَنک) جو کہ نقدی جاری کرتا ہے اور اس کے تحفظات کا انتظام کرتا ہے۔

صَعَدَ - التَّصَاعُدِي: بلندی۔ حُرُوكَةُ تَصَاعُدِيَّةٌ: عظیم ترقی۔ فائدة تَصَاعُدِيَّةٌ: اعلیٰ نامہ۔

الضَّرْبِيَّةُ التَّصَاعُدِيَّةُ: زیادہ مبلغ کی وجہ سے

زیادہ نکس۔

صَغُرَ - التَّصْغِيرُ: نَصْرٌ فِي الصَّرْفِ: وہ کلمہ جس کے دوسرے حرف کے بعد یا ہ ساکنہ لگائی جائے پہلے حرف پر ضمہ اور دوسرے پر فتح لگایا جائے تاکہ تقلیل اور تحقیر پر دلالت کرے۔ اور کبھی تعجب پر بھی دلالت کرتا ہے۔

صَفُوَ - التَّصْفِيَةُ: کسی چیز کو صاف کرنا۔ "تَصْفِيَةُ شُرَابٍ" مشروب صاف کرنا۔ تَصْفِيَةُ مَعْلَىٰ اَعْشَابٍ: چھلنی سے صاف کرنا۔

تَصْفِيَةُ الْخِلَافِ: اختلاف ختم کرنا۔ تَصْفِيَةُ الدِّينِ: قرض ادا کرنا۔ سامان کو کم قیمت و کم نرخ پر زیادہ فروخت کرنا (میل لگانا)۔

تَصْفِيَةُ الْحِسَابِ: حساب صاف کرنا۔ تَصْفِيَةُ الشَّرِكَةِ: کمپنی کا حساب و کتاب مکمل کرنا۔

الصَّلْبُ - الْمَصْلِيَّةُ: راستوں کو صلیب کی طرز پر بنانا۔ الصَّلَاحِيَّةُ: کام کرنے کے لیے تیار کرنا۔ کام کرنے کی اہلیت۔

حکومت کرنے کی وہ مدت جو قانون کسی کو حکومت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صلاحِيَّةُ مُدِيرِ الشَّرْطَةِ: چیف پولیس کی مدت ملازمت۔

عدالتی تھرائی اہلیت جو دعویٰ میں غور و فکر کرنے اس کو پڑھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت رکھتی ہو۔ اس کو اختصاص بھی کہا جاتا ہے۔

أَعْتَرَضَ عَلَيَّ صَلَاحِيَّةُ الْمَحْكَمَةِ: عدالت کی اہلیت پر اعتراض کرنا۔

صَمٌّ - الصَّمَامُ: (گیس فلٹنگ مشین) گیس اور مائع چیزوں کو ان کے برتنوں میں بھرنے کا آلہ۔

صِمَامُ الْأَمَانِ: برتنوں پر ڈاٹ۔

صَنَعَ - الصَّنَاعِي: صنعت کار۔ بہر مند۔ الاصطناعِي: مصنوعی چیز (غیر طبعی)۔ جیسے "حَوْبِرٌ اصطناعِي" مصنوعی ریشم۔

زُهْرٌ اصطناعِي: مصنوعی پھول۔ مَطَاطٌ

اصطناعِي: مصنوعی رپڑ۔

تَصَنُّعٌ: خلاف حقیقت فعل کرنا۔ تَصَنُّعُ الْقِتَالِ: بناوٹی لڑائی کرنا یا تکلیف کلام کرنا۔ بناوٹی لباس پہننا۔

فِي النِّقْدِ الادبِي: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ اور تکلف کر کے طبعی اور سادگی سے نکالنا۔

تَصْنِيْعٌ: صنعت کاری۔ تَصْنِيْعٌ مَبْنُوعٌ وَ بِلَادٌ عِلَاقَةٌ وَ شَهْرٌ لَوْ كُو صِنْتِي بِنَانَا۔

اقتصادی وسائل کے ساتھ امت کو صنعت کار بنانا اور صنعتی سامان کی طرف تبدیل کرنا۔

تَصْنِيْعُ النِّقْطِ: پٹرول کی صنعت کاری۔ تَصْنِيْعُ الْفَوَاحِشِ: بھولوں کی صنعت کاری۔

فِي النِّقْدِ الادبِي: کلام کو آراستہ و جعلی بنانا۔ صَوَّبَ - الْاِصَابَةُ: جسم کو تکلیف اور زخم لگانا۔

اِصَابَةٌ مُبِيْتَةٌ: موت آور زخم یا تکلیف۔ متعدی امراض لگ جانا۔ جسے اِصَابَةٌ لِشَلِيلِ الْاِطْفَالِ: بچوں کے ہاتھ خرابی کی بیماری لگ جانا۔

آفت اور اچانک حادثہ جو مالی یا جسمانی نقصان کرے۔

اِصَابَةُ الْعَمَلِ بِكَامٍ كَالنِّقْصَانِ فِي الرِّيَاضَةِ: کھیل میں وہ نشان جو کھیل والی ٹیم لگائے۔

صَوْرٌ - الصُّوْرِي: ظاہری، غیر حقیقی۔ اِحْتِجَاجٌ صُوْرِيٌّ: دکھاوے کا احتجاج۔

خلاف حقیقت کام۔ مَعْرُوكَةٌ صُوْرِيَّةٌ: جعلی مرکہ۔ التَّصَوُّرُ: خیال کرنا، وہم کرنا۔

"لَيْسَ ذَلِكَ سِوَى تَصَوُّرَاتٍ" یہ خیالات کے سوا کچھ نہیں۔

و فِي الْفَلْسَفَةِ: تمام معانی کو سمجھنا اور معلوم کرنا جیسے لفظ درخت سے اس کا مکمل معنی سمجھنا۔

اس کا ضد: جو اس کے ساتھ معلوم کرنا۔ التَّصَوُّرِيَّةُ: فِي الْفَلْسَفَةِ: وہ مذہب جن کا

خیال یہ ہے کہ کلیات صرف ذہن میں پائی جاتی ہیں۔
المَصْرُورَةُ كَثِيرَةٌ۔

صوف۔ الصُّوفِيُّ: صوف کی طرف منسوب۔ نَسِيحٌ صُوفِيٌّ: صوفی لباس۔ التَّصَوُّفُ اون پہننا۔

وہ راستہ اپنانا جس پر عبادت گزار صوفیاء کرام چلے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سخت زندگی گزارنا۔ لذات سے دور ہونا برائیوں سے بچنا فضائل سے مزین ہونا تاکہ نفس کو پاک کریں اور روح کو بلند کریں۔

صون۔ الصَّيَانَةُ بجاؤ اور حفاظت کرنا۔ صِيَانَةُ المَحَاصِلِ: محصولات کی حفاظت کرنا۔ تنصیبات "عمارات اور شوارع پر نگرانی رکھنا ان کی اصلاح کے لئے تیاریاں کرنا اور ان سے اچھی خدمت لینے کے لئے عہد رکھنا۔

ضبط۔ الضَّابِطَةُ: پولیس۔ عند العلماء: کلی حکم جو اپنی جزئیات پر منطبق ہو۔ الضَّابِطَةُ الجَمْرِيَّةُ: کسٹم ڈیوٹی آفیسر جو غیر قانونی درآمد شدہ یا برآمد شدہ مال کو ضبط کرے۔ دفاع کرنے والی جماعت۔

فی الالیات گاڑی کی ریس۔ المُنضِبَةُ: ج مضابط: وہ رجسٹر جس میں قومی جسوں کا ریکارڈ لکھا جائے۔

ضخم۔ التَّضَخُّمُ: بڑا ہونا۔ ہماری بھر کم ہونا۔ بڑے سا بڑا ہونا۔ زیادہ ہونا۔ افراط۔ "تَضَخُّمُ الصُّوْبِ" آواز زیادہ ہونا۔ تضخیم عدد الموظفين: ملازمین کی تعداد بڑھ جانا۔

(فی علم الطب) عوارض کی وجہ سے دل کا بڑھ جانا۔ چیزوں کی کمی کی وجہ سے رخ بڑھ جانا۔

تَضَخُّمُ القَدْرِ: کسی کی افراط۔

صو۔ الصُّورِيَّاتُ: ضروریات۔ ضروریات الحیاة زندگی کی حاجات جن کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔

ضرب۔ المَضَارِبَةُ: مزاحمت کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

المَضَارِبَةُ الجَمْرِيَّةُ تجارتي شرکت۔

ضعف۔ التَّضْعِيفُ: (گنا کرنا) و فی الحسب (حساب میں) ایک عدد اس جیسی میں جمع کرنا۔ جیسے ۳+۴=۸

فی الصرف: علم صرف میں: ایک حرف پر دوسرے حرف کا اضافہ کر کے دونوں ہم جنس میں سے اصل کو زائد میں لاعام کرنا۔ جیسے: قَدَّمَ اِحْمَرَ كَمَا

ضغط۔ الضَّاعِطَةُ: کپیریسر (گیس دبانے کا آلہ) روئی دبانے کا آلہ۔

الضَّغْطُ: نچوڑنا۔ دباؤ بانا سختی کرنا۔

الضَّغْطُ عَلَى اليَدِ: ہاتھ دبانا۔ تحت الضَّغْطِ: پریشر کرنا۔ مجبور کرنا۔ عوامی رائے کے دباؤ میں آنا۔ انسانی جسم کے اجزاء کو جمع کرنے اور اعضاء بدن میں سے کچھ چھوٹا کرنے کا ذریعہ۔

ضغط الدم بئذ پریشر۔ ضيف۔ الإضافة: ملانا۔ شامل کرنا۔ زائد کرنا۔

أَدْخِلْ إِضَافَاتٍ عَلَي نَصِّ زَائِدٍ عِبَارَتِي نَصِّ پَر شَامِلِ كَرْنَا۔

و فی النحو: ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت پوشیدہ حرف جر کے معنی پر۔

اول اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے كِتَابُ المَعْلَمِ: استاد کی کتاب فی المنطق: اسطو کے مقولات میں سے جو تھا مقولہ۔ وہ یہ کہ دو چیزوں کی آپس کی نسبت کہ ان میں سے ایک کو تہ سمجھا جاتا ہے جب دوسری چیز ہو۔ جیسے الأَبُوَّةُ وَ البَنُوَّةُ: باپ ہونا بیٹا ہونا۔ اضافی: بڑا کرنا۔

مَادَّةٌ إِضَافِيَّةٌ: زاہد پرید۔ جو دوسرے کے پیچھے لگایا جائے۔ جو دوسرے کے ساتھ ملحق ہو۔ جو اصل سے زائد ہو۔ نَفَقَاتٌ إِضَافِيَّةٌ: آمدن سے زائد نفقات۔

ساعاتٌ إِضَافِيَّةٌ: مقرر اوقات سے عمل کے

زائد اوقات۔

ضيق۔ الضَّائِقَةُ: تنگی اور تنگ حالی ضَائِقَةُ العَيْشِ: تنگ روزگار۔ الضَّائِقَةُ المَالِيَّةُ نَالِ: تنگی۔

الطَّبَاوِرُ ج طوباير: فوج کی ایک جماعت۔ ہسپانوی لوگوں کی خانہ جنگی کے بعد سریوں کی مددگار جماعت۔

طبع۔ الطَّبْعَةُ: پرنٹ شدہ حروف و کلمات۔ ایڈیشن۔ الطَّبِيعَةُ: معاشرتی تنظیم جو لوگوں کو طبقات پر تقسیم کرے۔ المَطَابَقَةُ: مماثلت اور ہم شکل ہونا۔ ایک دوسرے کے موافق ہونا۔

المطابقة بين شئينين: دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل کرنا۔ و فی البديع المعنوی: دو مخالف کلمات کو ان دونوں کی برابری کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اس طرح کہ فعل کے مقابل فعل آئے اور اسم کے مقابل اسم آئے۔ جیسے يَضْحَكُ وَ يَبْكِي. يَوْمَ عَلَيْنَا وَ يَوْمَ لَنَا۔ وہ ہنستا ہے اور روتا ہے۔ ایک دن ہم پر اور ایک دن ہمارے لئے۔

طربش۔ الطَّرْبُوشُ ج طرابش: گول سرخ ٹوپی۔

طرح۔ الطَّرْحُ: پھینکنا۔ پیش کرنا۔ طَرَحَ السُّوَالُ: سوال پیش کرنا۔ مقالہ پیش کرنا۔ مسئلہ پیش کرنا۔

(علم الحساب): بڑی عدد سے چھوٹی عدد نکالنا۔

یعنی نفی کرنا۔ طرح الجبین: ناکمل پیٹ کا بچہ ضائع۔ گرانہ۔

طرد۔ الطَّرْدُ: واپس کرنا دور کرنا بطور سزا نکالنا۔

طردُ خادِمٍ: نوکر سزا دیکر نکالنا۔ طَرْدُ تَلْمِيذٍ: شاگرد کو سزا کی وجہ سے نکالنا۔ ترقی کا رجحان مسئلہ کے متعلق تمام لحاظ سے بحث کرنا۔

طردُ ج طُرُوْدٌ: بذریعہ ڈاک بھیجا گیا سامان۔

طرق۔ الطَّوَارِقُ: اس کا معنی: ملبشوں میں

التَّطَوُّرِيَّةُ: فلسفی یا علمی نظریہ جس میں ترقی کا ذکر اور تشریح ہے۔

طوع - الْمُطَاوَعَةُ: طاقتور کی تاثیر سے لمبائی حجم اور شکل جسم میں تبدیلی اور جب یہ قوی زائل ہو جائیں تو سابقہ حالت میں واپس نہیں آسکتے۔

طوف - الطَّائِفِيُّ: دینی فرقہ کی طرف منسوب - مذہب دین کا ماہر۔

مَدْرَسَةُ طَائِفِيَّةٍ: گروہی مدرسہ۔
خِلَافُ طَائِفِيٍّ: گروہی اختلاف - اپنے گروہ اور دین کے لئے متعصب - الطَّائِفِيَّةُ: معاشرتی اور سیاسی نظام بنانا جس کی بنیاد گروہ بندی پر ہو۔

نَبَذَ الطَّائِفِيَّةَ: گروہ بندی نظام کو ختم کرنا۔
طوي - مَطْوَاةٌ: جھنجی چاقو۔

ظہر - النِّظَاهَرُ: باطن کالٹ ظاہر کرنا۔
النِّظَاهَرُ بِالْفَرْحِ: ظاہری طور پر خوشی ظاہر کرنا۔

النِّظَاهَرُ جَ تَطَاهَرَاتٍ: مظاہرہ جلوس۔
النِّظَاهَرَةُ: کسی انفرادی یا اجتماعی مطالبہ کے لئے جلوس نکالنا۔

عبر - الإِعْتِبَارُ: معنی نصیحت حاصل کرنا اور عبرت لینا۔ رعایت اور نظر کرنا۔ صفت اور وصف۔

باعتبارہم أَكْبَرُهم سَبَأًا: ان میں سے بڑی عمر کا خیال کرتے ہوئے۔ فرض اور انداز بیان۔
هَذَا الأَمْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى الإِعْتِبَارِ: یہ امر فرض پر مبنی ہے۔

بمعنی: احترام جیسے سَبَأًا عَلَى الإِعْتِبَارِ: وہ احترام کا مستحق ہے۔

شہری حقوق بحال کرنے یا سزا ختم کرنے کے ساتھ عزت واپسی۔

التَّعْيِيرُ: ما فی الضَّمير کا اظہار کرنا۔ کسی بات کو واضح کرنا۔ التَّعْيِيرُ عَنِ الفَرْحِ: خوشی کا اظہار کرنا۔ التَّعْيِيرُ عَنِ الرَّأْيِ: اپنی رائے کا قدا فرط سے دور شخص افراط نہ کرنے والا اظہار کرنا۔ تَعْيِيرُ الاحْتِلامِ: خوابوں کی وضاحت کرنا۔

طلع - الْمُطْلَعَةُ: علم واطلاع کے لئے پڑھنا۔
المُطْلَعَةُ لِدَّةٌ و فائدةٌ: پڑھنا لذت بھی اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فی اصطلاح الحاکم: (عدلیہ کی اصطلاح میں): قانونی ریسرچ۔

طلق - الْمُطْلَقِيَّةُ: سیاسی نظام جس میں حاکم تمام اختیارات رکھتا ہو۔

طنب - الأَطَابُ: مبالغہ کرنا۔ غلو کرنا۔
الأَطَابُ فِي المَدْحِ: تعریف میں مبالغہ کرنا۔ کلام میں ہی گفتگو کرنا۔

إِطْنَابٌ نَائِسٌ: نثر لکھنے والے کا لمبا کلام۔
فِي البَيَانِ: (علم بیان میں): زیادہ الفاظ جو تھوڑے معنی پر دلالت کریں۔

طہر - التَّطْهِيرُ: صفائی کرنا۔ تَطْهِيرُ المِيَاهِ: پانی صفائی کرنا۔ نَسْ كُو مِيل سے پاک کرنا۔
مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق: نَفْتٌ: بگڑنا۔

(فِي الطب): تَطْهِيرُ الجُرحِ: ادویات کے ساتھ جراثیم کو ختم کر کے زخم کو صاف کرنا۔

فِي السِّيَاسَةِ والإِدَارَةِ: فساد کے اسباب کو ختم کر کے فساد پر قابو پانا۔

طوب - الطُّوبَى: کیتھوک گر جا جس شخص یا چیز کے محترم ہونے کا اعتراف تعزیم کے اعلان کے بغیر کرے۔

طور - طَوْرًا النِّسِي: ایک ہیئت سے دوسری ہیئت کی طرف لے جانا۔ ایک حال سے اچھے حال کی طرف ترقی دینا۔ طَوْرًا المَجْتَمَعِ: معاشرہ کو ترقی دینا۔

تَطَوَّرَ: ایک ہیئت سے دوسری ہیئت کی طرف بدلنا۔ ایک حال سے دوسرے کی طرف ترقی پانا۔ تَطَوَّرَ المَرَضُ: مرض میں درستی آنا۔

النِّطْوَرُ: ایک حال سے دوسرے کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہونا۔

تَطَوَّرَ الوَرْمُ: ورم کا بدلنا۔
تَطَوَّرَ الأَحْدَاثُ: واقعات میں تبدیلی۔

النِّطْوَرُ الإِجْتِمَاعِي: معاشرتی۔ تَطَوَّرَ الجِرَاحَةُ: فنِ جراحی کی ترقی۔ فی عِلْمِ الاحْيَاءِ: تاریخی ادوار میں زندہ کائنات میں تبدیلی اور ترقی۔

دیکھو۔
ظعن - الظَّعْنُ: شگ کرنا۔ الظَّعْنُ بِالرُّمْحِ: نیزہ مارنا۔ جرح کرنا اور گالی دینا۔ الظَّعْنُ فِي العُرْضِ: عزت پر حملہ کرنا۔ رِسَالَةُ ظَعْنٍ: حکومت اداروں دین اور بڑی شخصیات کی طرف سے سختی کا حملہ۔

الظَّعْنُ ج ظُعُونٌ: کسی چیز پر اعتراض۔
لُجْنَةُ الظُّعُونِ النِّيَابِيَّةُ: انتخابی کاموں پر اعتراض کو دور کرنے والی کمیٹی۔

مدعی علیہ جس پر فیصلہ ہو جائے گا اعلیٰ عدلیہ کی طرف اپیل کرنا تاکہ اس کے خلاف فیصلہ ختم کیا جائے۔

طفح - الطَّفْحُ ج طُفُوحٌ: چھنی۔
طقم - الطَّقْمُ ج طُقُومٌ: طُقُومَةٌ: جیکٹ واسکت۔ یونیفارم سوٹ۔ خاص بیماریوں کی دوائیوں کو کورس۔

طَقْمٌ و الإِسْنَانُ: مصنوعی دانتوں کی پلٹ۔
طَقْمُ الفُرْسِ: گھوڑے کا سامان۔

طلب - الطَّلَبُ: ایک یا ایک سے زائد اشخاص کو اپنی چاہت کے متعلق اطلاع دینا۔ رَغْبَتٌ یا آرزو کے متعلق اظہار کرنا۔

طَلَبُ المَعُونَةِ: مدد مانگنا۔ طَلَبُ الإِسْتِخْدَامِ: خدمت گاری کی چاہت کرنا۔
ذِمَانَةٌ: درخواست۔ فَرْمَانٌ۔

بدفع عند الطلب: مطالبہ پر ادائیگی کرنا۔
سَجَلُ الطَّلِبَاتِ: ضروریات اور شکایات پیش کرنے کے لئے رجسٹر۔

النِّصَاعَةُ المَطْلُونَةُ: طلب کیا گیا سامان۔
سَلَّمَ العَلْبُ: آڈر وصول پانا۔

العُرْضُ و الطَّلَبُ: نمائش اور آڈر۔
جلد انشائیہ کی ایک قسم جیسے امر اور تمثیلی۔

طَلَبُ المَحَالِ: ناممکن کی تلاش۔
الطَّلَبَاتُ فِي قَانُونِ المُرَافَعَاتِ: اپیل کے قانون میں وہ اپیلیں جو مخالف پر حکم نافذ کرنے کے متعلق ہوں۔

الطَّلَبِيَّةُ: سامان بھیجے کا حکم دینا۔
سَلَّمَ الطَّلَبِيَّةُ: سامان کو کسی کے سپرد کرنا۔

التَّعْبِيرُ ج التَّعَابِيرُ عِبَارَاتُ الْفِطْرِ كَلَامٌ -
تَعْبِيرٌ مُوقِفٌ كَامِيَابُ كَلَامٍ - تَعْبِيرٌ مَجَازِيٌّ:
مَجَازِيٌّ كَلَامٌ -

عَتَبَ - الْعَتَابُ: جَلِيَّ شَعْرٍ كِي قَتَمَ - وَهُوَ آوَاظُ
جَسَّ كَسَاثِهِ يَهْدِي الشَّعْرَ بُولِي جَائِي -
عَتَمَ - الْعَتِيمُ: زَوْشِيَا بِنْدُ كَرْنَا - وَشَمْنُ كُو
دَهْوَكُ دِيْنِي اَوْر صَحْحُ نَشَانُ لِكَا نِي سِي بِيَانِي
كِي لِي رُو شِيَا بِنْدُ كَرْنَا -

عَجَنَ - الْمَعْجُونُ: ج مَعَاجِينُ بِخْتَلَفِ
بِيْرُو سِي آْنِي كِي طَرَحُ بِنَايَا كِي مَرَكَبُ -
مَعْجُونُ يَهْدِي رُوَاوِي خُو بِيْرُو تِي اَوْر صَنَعْتُ كَارِي
كِي لِي اِسْتِعْمَالُ هُو تِي هِي - مَعْجُونُ
الْاِسْنَانُ: اِسْمُ تُو تُو كِي صِفَاتِي كِي لِي كِي يَانِي
بُوْرُ -

عَدَ - الْاَعْدَادُ: يَتَارِي وَاوِي بِيْرُ - پَرَا اَمْرِي اَوْر
تَانُو كِي دَر مِيَا نِ تَعْلِيمُ كَا مَرَحَلُ - التَّعْدَادُ:
گِنَا اَوْر شَار كَرْنَا -

تَعْدَادُ الْاَصْنَافِ: اِسْتِمَا كُو شَار كَرْنَا -
تَعْدَادُ اِسْكَانِ مَرَدُمِ شَارِي كَرْنَا -
الْمُعَدَّاتُ: اَلَاتُ سَامَانِ اَسْبَابِ
مُعَدَّاتُ حَرِيْبِيَّةٌ: حِكْمِي اَلَاتُ -

عَدَلُ - التَّعْدِيلُ: كِسِي بِيْرُ كِي طَبِيْعَتِي اَوْر اِس كَا
جُو بَر تَبْدِيلُ كِي بَعِيْر اِس مِي تَبْدِيلِي كَرْنَا -
تَعْدِيلُ مَشْرُوْعُ اَمْنِ تَبْدِيلُ كَرْنَا -
اُدْجَلُ تَعْدِيْلَاتُ عَلِيَّ نَصُّ نَصِّ پَر كِي
تَبْدِيْلِيَا دَاخِلُ كِي گَبِي -

تَعْدِيلُ حُكْمِ قَضَائِي: صَحْحُ فَيْصَلُ كِي سَاثِهِ
عَدَالْتِي حَكْمُ كُو تَبْدِيلُ كَرْنَا -

تعديل القانون واللدستور: قانون يادستور
كو قانون سازتھارتي كے ذریعے تبدیل كرنے -
تعديل الوزارة: بعض افراد كو
تبدیل كرنے یا نئے سرے سے وزارت كو مرتب
كرنا - الْمُعْتَدِلُ: وَهْ حَالُو كِي دَر مِيَا نِ حَالُ -
كِي بَا جَاتَا بِي -

قَامَةُ مَعْتَدِلَةٌ: دَر مِيَا نِ قَدِ اِفْرَا طُ سِي دُورِ شَخْصِ
اِفْرَا طُ نِي كَرْنِي وَا لاسِرِ مَعْتَدِلُ دَر مِيَا نِ نَرُخُ -
الْمُنْطَقَةُ الْمُعْتَدِلَةُ فِي الْجُغْرَافِيَّةِ: وَهْ

موسمی فضا و علاقہ جہاں نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ
زیادہ سردی ہو۔ مجموعی مقداروں سے حاصل
ہونے والا عدد۔ معروف قیمت سے نسبت
معتینہ:

عَدَمٌ - الْاِعْدَامُ: قَتْلُ كَرْنَا - مَوْتُ -
حُكْمٌ عَلِيَّ الْمَجْرَمِ بِالْاِعْدَامِ: مَجْرَمُ كُو
قَتْلُ كَرْنِي كَا حَكْمُ - مَوْتُ كَا حَكْمُ نَاثِرُ كَرْنَا -
جَرِي الْاِعْدَادُ فِي سَاحَةِ السَّجْنِ: جِيلُ
كِي ہَالُ مِي سَزَائِي مَوْتُ دِيْنَا - قَاضِي كِي
طَرَفُ سِي مَجْرَمُ كُو بِطُورِ قِصَاصِ قَتْلُ كَرْنِي كَا
حَكْمُ -

عَرَبٌ - الْعَرَبِيَّةُ: عَرَبِيٌّ زَبَانُ مِي سَاخِصِ
تَعْبِيرُ - عَرَبِيٌّ تَرَكِيْبُ - اِس كِي مِثَالِي "ابن
اِسْبِيْلُ" مُسَا فِرُ - "دَارُتُ عَلِيْهِ الدَّوَانِيُو"
اِس پَر مِصَابِ نَاظِلُ هُو تِي - بِنْتُ الشَّفَقَةِ:
بِنْتِي كَلْمُ -

العروبة: عرب - دنيا العروبة: دنیائے
عرب - عرب لوگوں کی خصوصیات اور
خوبیاں - عربی کی صفت - عربی قومیت اور اس
کا شعور -

كَانَ التَّحْسُّنُ شَدِيدًا لِفِكْرَةِ الْعَرُوبِيَّةِ:
عَرَبِيٌّ قَوْمِيَّتُ كِي نَظَرِيَّةُ كِي لِي پَر جُوشُ هُو تَا -
التَّعْرِيْبُ: تَقْرِيْبُ كَرْنَا - عَرَبِيٌّ بَنَانَا - تَعْرِيْبُ
الْاِدَارَةِ: اِدَارَةُ كُو عَرَبِيٌّ مِي بَدَلْنَا -
تَعْرِيْبُ التَّعْلِيمِ: تَعْلِيمُ كُو عَرَبِيًّا بَنَانَا - اِجْنَبِي
زَبَانُ كَا عَرَبِيٌّ مِي تَرَجْمُ كَرْنَا -

تَعْرِيْبُ نَصِّ فَرَنْسِي: فَرَنْسِيْسِي عِبَارَاتُ كَا
عَرَبِيٌّ مِي تَرَجْمُ كَرْنَا -

عروس - العروسة: دلہن -
عرض - العرضی: جوہر کی حالت ذات شی
اور اس کے جوہر میں داخل نہ ہو -
الْلَوْنُ خَاصِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ عَرُوبِيَّةٌ فِي
الْحَجَرِ: پتھر میں رنگ کی خاصیت عرضی
ہے -

جوہر کی شکل میں ہو - لِقَاءُ عَرُوبِيٌّ اِتِّفَاقِي
مِلَاقَاتُ -
الْحَطِيْبَةُ الْعَرُوبِيَّةُ فِي الدِّيْنِ

الکاتولیکی (کیتھولک مسلک میں) عرضی
غلطی وہ ہے جو حالت نعت ختم نہ کرے اس کی
جسامت نہ ہونے کو دیکھتے ہوئے -

الاعتراض: بتا دینا کہ باطل کرنے کے لئے
مسز دکرنا - پیش کش کو رد کرنا - ممانعت - "لا
اعتراض علی ذلك" اس پر کوئی ممانعت
نہیں - وہ حجت جس کے ساتھ تاکید کی مخالفت
کی جائے - دلائل کامل جانا - احتجاج -

"الاعتراض علی تدبیر": تدبیر پر
احتجاج -

فی المناظرة: بحث میں مخالف کی دلیل پر
دلیل پیش کرنا - فی القضاء: فیصلہ کو ختم
کرنے یا اس پر عمل کو روکنے کا مطالبہ کرنا - ملزم
کی غیر حاضری پر فیصلہ عدالت کو پیش کرنا -

الاعتراض علی تناول سند: سند کی
حصولی کو پیش کرنا -

الاستعراض: فوجی یا بیچ میلہ میں حاضری -
استعراض الجيش فی العيد الوطني:
عید وطن میں لشکر کی حاضری -

تاج گانے کی محفل - اس سے کہا جاتا ہے:
فَلَمَّا اسْتَعْرَضْنِي تَاجُ كَانَا لِي فَلَمُ -

المُعَارَضَةُ: مخالفت - مُعَارَضَةُ اقْوَالِ
فُلَانٍ: فُلَانُ كِي مَخَالَفَتُ - مِقَابَلَةُ
كَرْنَا -

لَمْ يَلْقَ اِذْنِي مُعَارَضَةً: وَهْ مَعْمُولُ مِقَابَلَتِهِ كَرْنَا
ہے -

وہی المناظرة: مخالف کی دلیل کے خلاف
دلیل قائم کرنا -

وہی الشعر (اشعار میں) ایک قصیدہ کے
وزن موضوع اور قافیہ کے مطابق دوسرے
قصیدہ کو بنانا - جیسے احمد شوقی کا قصیدہ "قصیدہ بڑوہ
للہبیری کے وزن پر - وہی القضاء: ملزم
کی غیر حاضری میں فیصلہ کو عدلیہ میں پیش کرنا
اور فیصلہ کا عدم کرنے یا درست کرنے کا
مطالبہ -

عرف - العرفی: عرف کی طرف نسبت -
القانون العرفی: وہ خاص قانون جس کو

”تعلیق المصباح“ چراغ لٹکانا۔ ایک چیز کو دوسری پر رکھنا۔

تعلیق الوسام علی صدر فلان“ تمغہ کو سینہ پر لٹکانا۔ عارضی طور پر رکھنا۔

تعلیق الاضراب: ہڑتال موقوف کرنا۔ عارضی طور پر عمل کرنے سے روکنا۔ معطل کرنا۔

تعلیق الدستور: آئین کو عارضی طور پر معطل کرنا۔

کسی چیز کو مؤخر کرنا۔ تعلیق الحکم: حکم مؤخر کرنا۔ کسی چیز کی تعریف کرنا۔ اہمیت والی قرار دینا۔ کسی واقعہ پر نوٹ دینا۔

التعلیق عربی خط کی قسم۔ التعلیق فی النحو: علم نحو میں تعلیق کا مطلب۔

انفعال قلوب کو لفظی عمل سے وجوہاً روکنا۔ جیسے علمت ازید قائم ام عمرو۔

التعلیق: ج تعلیقات: کسی کتاب کی اصل عبارت پر حاشیہ یا نوٹ۔ کسی معین موضوع پر مقالہ یا مباحثہ۔ تعلیق علی الابناء: خبروں پر تبصرہ۔

علم۔ العلمانیۃ: سیاسی اور معاشرتی نظریہ جس کا مطالبہ یہ ہے کہ دین کو ملک سے الگ کیا جائے اور اس کی تعلیمات مدارس (درس گاہوں) میں نہ دی جائیں۔

الاستعلامات: کسی کمپنی یا ایجنسی کا دفتر جو مطلوبہ معلومات کے متعلق آگاہ کرے۔

التعلیم: سبق سکھانا۔ معرفت دینا۔ تعلیم الناشئة: ترقی کی تعلیم۔ استاد کا پیشہ۔

طلبہ کو علوم و فنون اور معلومات سے آگاہ کرنا۔ التعلیم الابتدائی: ابتدائی تعلیم۔ التعلیم الثانوی: سینڈری تعلیم۔ تعلیم اخلاقی:

اعلیٰ سلوک و کردار کی تعلیم۔ التعلیمات: ہدایات، ارشادات۔ احکامات۔ المعلمۃ: انسائیکلو پیڈیا۔ ذائیرۃ المعارف المعلمی:

معدہ کی طرف نسبت۔ المعلم: مستقل استاد۔ فی الصناعات: کسی ایک فن میں مستقل کام کرنے والا۔

تعاقب الفصول: موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا۔

تعاقب الملوک: بادشاہوں کا ایک دوسرے کے بعد حاکم بننا۔ کسی کا نائب بننا۔

العیاقبۃ: عیسائیوں کا ایک جو یعقوب البردئی کے تابعدار ہیں۔ یعقوب البردئی انطاکیہ شہر میں چھٹی صدی عیسوی میں پادری تھا۔ یہ لوگ ایک طبیعت میں مستقل ہونے کی وجہ سے معروف تھے۔

عقل۔ عقلن: عقل اور منطق کے تابع کرنا۔ عقلن معقداً: معتقدات کو عقل کے تابع کرنا۔

العقلانی عقلائی نظریہ۔ عقلائی نظریہ کے مددگاروں میں سے۔ العقلانیۃ: وہ فلسفی مذہب جو عقل کو ہر معرفت کا مصدر خیال کرتے ہیں اور اس میں تجربہ کے انکاری ہیں۔ وہ مذہب جو عقلی حکومت کے علاوہ ہر حکومت کو مسترد کر دے۔ الاعتقال: کسی شخص کو گرفتار کرنا اور جیل میں ڈالنا۔ اعتقال متہم: الزام میں گرفتاری۔

مُعسکو الاعتقال: لڑائی کے وقت جمع ہونے کی جگہ۔ کسی ملک میں غیر قانونی داخل ہونے والے۔ نظر بند سیاسی لیڈر۔ المعتقل جیل۔ حوالات نظر بند ہونے کی جگہ۔

عقم۔ التعمیم: انسان یا جانور کو بانجھ بنانا۔ خصی کرنا۔

تعقیم الحلیب: دودھ سے بیمار جراثیم ختم کرنا۔

المُعقم: وہ چیز جس کے اندر سے گندے جراثیم ختم کر دیئے جائیں۔ العاکس کڑی کی بنیادیں بارپک بیت۔

عقب۔ التعلیب: ڈبے بھر کر بیک کرنا۔ سبزیاں اور پھل وغیرہ کو ڈبوں میں بھر کر بیک کرنے کی صفت۔

المُعلبات: کچے ہوئے کھانے جو ڈبوں میں محفوظ کئے گئے ہوں۔

علق۔ التعلیق: کسی چیز کو باندھ کر لٹکانا۔ جیسے

عادیت نے مقرر کیا ہو۔ العقد العرفی: غیر حکومتی معاہدہ۔ وہ معاہدہ جو عادل کا تب کے پاس رجسٹر نہ ہو۔

الحکم العرفی: وہ حکم جو امن کے تقاضوں کی وجہ سے عام قانون کے قواعد پر جاری نہ ہو۔ المحكمة العرفیۃ: وہ فوجی محکمہ جو ایمر جنسی حالات میں فوجی نوجوانوں، رضا کار بھرتی کرے۔

التعریفۃ: محصول یا ٹیکس کا چارٹ۔ نرخ نامہ۔ التعریفۃ الجمرکیۃ: قسم محصول کا چارٹ۔

زاد تعریفۃ البرید: ڈاک نرخ زیادہ کرنا۔ عرقل۔ العرقلۃ: رکاوٹ۔ اڑچکا۔ عرقلۃ ممبر خریدک میں رکاوٹ۔ الجھانا۔ پیچیدہ بنانا۔

عرقلۃ الأمور: کاموں کا الجھانا۔ عرقلۃ المساعی: کوششیں پیچیدہ بنانا۔ عرقلۃ السیارات: گاڑیوں کے روکاوٹ۔

العرقلۃ ج عراقل: نافع گھائی۔ عذب۔ العزبۃ: ج عذب: بعض ممالک میں وہ کھیت جس میں مالک کا گھر اور بعض مزارع حضرات کے گھر ہوتے ہیں۔

عزل۔ الاعتزال: زندگی کے راستے سے عمل سے اور پیشہ سے الگ ہونا۔

اعتزال العالم: جہاں سے الگ ہوتا۔ اعتزال الخدمۃ: خدمت سے الگ ہونا۔

عزم۔ التعزیم: دم کرنا۔ بڑی ارواح (جنات) کو دور کرنا۔

التعسکر: چھاؤنی یا میدان تزیئنگ میں فوج کا جمع ہونا۔

عصب۔ العصاب: نفس یا عقلی اضطراب۔ العصابی: مصائب کی طرف منسوب۔ زود رخ انسان۔ عقل زدہ انسان۔

عصر۔ العصارۃ: رستی یا بجلی والی جو سر۔ عطو۔ المبعطیات: بتاریخ۔ حقائق۔

معلومات۔ عقب۔ التعاقب: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔

الْمَعْلُومَاتُ: معارف - اطلاع - واسع
المَعْلُومَاتُ: زیادہ اطلاع والا - کسی قصہ یا
مسئلہ کے متعلق تمام متعلقہ چیزیں -

أَدْلَى بِمَا لَدَيْهِ مِنْ مَعْلُومَاتٍ: اپنے پاس
معلومات کو بکھیر دینا -

عَم - الْعَامِيَّةُ: عام لوگوں کی لغت غیر فصیح
زبان -

فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ الْعَرَبِيَّةِ (بعض عرب
ممالک میں) عوامی تحریک جو بعض نمائندوں
کے خلاف تھی -

التَّعْمِيمُ: کسی چیز کو عام کرنا - تَعْمِيمُ
التَّعْلِيمِ: تعلیم عام کرنا - کسی حکم کو تمام افراد یا
اشیاء پر نافذ کرنا -

تَعْمِيمٌ تَدْبِيرِي: تجویز عام کرنا - کسی چیز کو
معروف و مشہور کرنا - مخصوص حالات کے
پیش نظر کسی حکم کو عام کرنا - فی الادارة: وہ
خط جس کو حاکم اپنے حکموں کی طرف لکھے اور
ان کو سمجھا جائے -

عمد - الإِعْتِمَادُ: اعتماد 'ساتھ' بھروسہ
کریٹ 'قرض' - الإِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ:
خود اعتمادی -

الاعتماد ج اعتمادات: کسی منصوبہ کے
لئے مختصر رقم (نقد)

إِعْتِمَادٌ وَارِدٌ فِي الْمِيزَانِيَةِ: بحث میں
منظور شدہ نقد - إِعْتِمَادَاتٌ أَضَافِيَّةٌ: اضافی
نقد - فَتْحُ الإِعْتِمَادِ: بنک کی گمرانی میں رقم
لگانے کی منظوری - (بنک قرضہ) - أَوْزَانُ
الإِعْتِمَادِ: ملکی نمائندہ (سفارت کار) کے
کاغذات جو سربراہ مملکت کو بطور اسناد پیش
کرتے -

الْمُعْتَمَدُ: جس پر اعتماد کیا جائے - "مِنْ
مَصْدَرٍ مُعْتَمَدٍ" باعتبار ذریعہ سے - جس کو
استعمال کیا جائے اور نافذ کیا جائے - التَّوْقِيفُ
الصِّفِيُّ مُعْتَمَدٌ فِي بُلْدَانٍ كَثِيرَةٍ: موسم
گرمایں متعین اوقات اکثر ممالک میں مستعمل
ہیں - جس کو قبول کیا جائے اور اس کی موافقت
ہو -

خَيْرٌ مُعْتَمَدٌ لَدَى اللَّهِ: نیکم عدلیہ میں
باجر پر اعتماد ہوتا ہے - الْمُعْتَمَدُ التِّجَارِيُّ:
تجارتی کاموں میں وکیل -

عمر - الْمَعْمُورَةُ: جہاں - فِي كُلِّ
الْمَعْمُورَةِ: جہاں کے اطراف میں -

عمص - الْعُمَاصُ: آنکھ کا کچھڑا - اس کو عربی
میں الرمص اور الفمص بھی کہا جاتا ہے -

عمل - الْعَمَلِيَّةُ: مکمل کام جو نتیجہ آور ہو -
عَمَلِيَّةٌ مَالِيَّةٌ: مالی کاروائی - عَمَلِيَّةٌ
عَسْكَرِيَّةٌ: فوجی کاروائی - الْعَمَلِيَّةُ
الْحِرَاحِيَّةُ: اپریشن والا کام - جراحی کاروائی -

عملق - الْعَمَلِاقُ ج عمالققة: بلو قامت -
مَجَازًا: غیر معمولی قابلیت والا شخص - إِنَّهُ
عَمَلِاقٌ: فِي السِّيَاسَةِ: وہ سیاست میں بہت
قابلیت والا -

عنی - الْعَمْعُونِيَّةُ: مورل - حوصلہ -
مَعْنَوِيَّاتُ الْحُنُودِ: فوجوں کا مورن -

عهد - التَّعَهُدُ: گمرانی کرنا - ذمہ داری لینا -
وعده لینا - التَّعَهُدُ بِرَدِّ الْمَالِ: مال واپس کی
عهد کرنا - تُحْشِكُ لِيْنَا - التَّعَهُدَاتُ الطَّرِيقِ:
شوارع کا ٹھیکہ لینا - الْمُعَاهَدَةُ: دو یا دو سے
زیادہ افراد کا کسی ذاتی تجارتی یا سیاسی کاموں پر
اتفاق کرنا -

عنی - الْعَمْعُونِيَّةُ: مورل - حوصلہ -
مَعْنَوِيَّاتُ الْحُنُودِ: فوجوں کا مورن -

عهد - التَّعَهُدُ: گمرانی کرنا - ذمہ داری لینا -
وعده لینا - التَّعَهُدُ بِرَدِّ الْمَالِ: مال واپس کی
عهد کرنا - تُحْشِكُ لِيْنَا - التَّعَهُدَاتُ الطَّرِيقِ:
شوارع کا ٹھیکہ لینا - الْمُعَاهَدَةُ: دو یا دو سے
زیادہ افراد کا کسی ذاتی تجارتی یا سیاسی کاموں پر
اتفاق کرنا -

عہد کرنا - تُحْشِكُ لِيْنَا - التَّعَهُدَاتُ الطَّرِيقِ:
شوارع کا ٹھیکہ لینا - الْمُعَاهَدَةُ: دو یا دو سے
زیادہ افراد کا کسی ذاتی تجارتی یا سیاسی کاموں پر
اتفاق کرنا -

اتفاق کرنا -

الْمُتَّعَهُدُ: ٹھیکیدار - ذمہ دار -
عہل - الْعَاهِلِيَّةُ: قابلیت -

عود - الْعَادِيَّاتُ آثارِ قَدِيمَةٍ: تاجرو
عَادِيَّاتٍ: آجہر قدیمہ کا تاجر - الْعِيَادَةُ:
ملاقات - بیماری

کی بیماری - ڈاکٹر کا کلینک -

عوض - التَّعْوِيضُ: نقصان کا معاوضہ دینا -
التعويض ج تعويضات: ملازم کو کلام
چھوڑنے یا رہناڑ ہونے پر الاؤنس - یا پنشن یا
گر بیوٹی -

تعويضات الصَّرْفِ: اضافی کام یا اضافی
اخراجات پر اضافی خرچہ یا اضافی تنخواہ - جیسے
تفويض اِنْتِقَالٍ: تبادلہ پر سفر خرچ -
التَّعْوِيضُ الْعَالَمِيُّ: خاندانی الاؤنس -

عوق - الْمِعْوَاقُ: جسبانی یا عقلی آفت کی وجہ
سے ناکارہ شخص -

عوم - الْعَوَامَةُ: ہنسی کی ڈوری کی وہ لکڑی
وغیرہ جو پانی پر تیرتی ہے جس کی حرکت سے
اندازہ ہوتا ہے کہ چھلی چھنٹ گئی ہے - ایسے ہی
اس کے ساتھ سمندر میں پتھر والا مقام یا ساحل
کا اندازہ ہوتا ہے -

عَوَامَةُ الْإِنْقَاذِ: پانی پر تیرنے والا طوق جو
غرق ہونے سے بچاتا ہے -

الْعَوَامَاتُ: بطیوں کی ایک قسم -

عون - الْإِعَانَةُ: مدد کرنا - إِعَانَةُ الْفَقِيرِ:
فقیر کی مدد کرنا -

الإِعَانَةُ ج إِعَانَاتٌ: وہ گرانٹ جو افراد
اجنبیوں اور ضعیفی یا زرعی اداروں کو دی جاتی
ہے -

إِعَانَةُ مَرِضِيَّةٍ: اچھی مدد - تَوَزِيْعُ
الإِعَانَاتِ: مدد کی تقسیم - الإِعَانَاتُ: مالی یا غیر
مالی امداد جو ضرورت مندوں اور مصیبت زدہ
لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں - الْمُعَاوَنُ: جو
دوسرے سے ہاتھ بٹائے اور اس کے ماتحت کام
کرتے - اسٹنٹ "مُعَاوَنُ جَوَاحٍ" اپریشن
کرنے والے کا اسٹنٹ - وہ ملازم جو سربراہ سے
اس کے کام میں شریک کار ہو -

"مُعَاوَنُ نَائِبِ الرَّئِيسِ" نائب سربراہ سے
ہاتھ بٹانے والا -

عیش - الْإِعَاشَةُ: حالات جنگ اور آفت زدہ
علاقوں میں آبادی کو ایسے طریقہ پر غذائی مواد
پہنچانا جس سے لوگوں کو آسانی سے غذا مل
جائے - مُصْلِحَةُ الإِعَاشَةِ: غذائی مواد بچنے کا
مناسب طریقہ - فرد اور خاندان کے لئے
غذائیت کا ایک مقرر حصہ -

التَّعَايُشُ: پیار و محبت کے ساتھ زندگی
گزارنا - فِي الْإِصْطِلَاحِ السِّيَاسِيِّ: مختلف
دین مذہب اور ممالک کے لوگوں کو باہم مل کر
مناسب زندگی گزارنا -

غروب - الْمَغْرِبِيَّةُ أَوْ الْمَغْرِبِيَّةُ: آٹا گھی
گوشت چھنے اور پیاز سے بنایا گیا کھانا -

کرنا۔ عدالتی تحقیق کے دوران حقیقت حال معلوم کرنا۔

تفتیشِ الشَّرْطَةِ فِي مَنْزِلِ مُتَّهِمٍ: مشکوک جگہ پولیس کی تلاشی۔

وَفِي الْإِدَارَةِ فَنزَى كَامُونِ كِ تَغْرَانِي كَرْنِي: قوانین اور نظاموں کو نافذ کرنے کے لئے رات کی بیداری کرنے والے اہل قاتاری۔

التَّفْتِيشُ الْمَالِي: مالی چیکنگ (آڈٹ کرنا) تحقیق کرنے والا عملہ۔

فَتْنٌ - الْفَتْنَةُ: منظرِ درخت کی ایک قسم جس کے پھول زرد خوشبودار ہوتے ہیں۔

فَتْوٌ - الْإِسْتِفْتَاءُ: فقہی فتویٰ یا قانونی سوال کرنا، اِسْتِفْتَاءُ دَسْتُورِي: ریفرنڈم کرنا۔

عوام سے پرائیویٹ انداز میں رائے معلوم کرنا۔

اِسْتِفْتَاءُ قُرَآءِ صَحِيفَةٍ: اخبار کو پڑھنے والے حضرات سے رائے معلوم کرنا۔

فَجْرٌ - الْمُنْفَجِرَاتُ: حادثیاً گرمی کی وجہ سے پھٹ جانے والی چیزیں۔

فَحْمٌ - الْفَحَامَةُ: بڑے جسم اور بڑے نرغ والی چیز۔ تکبر۔ بڑائی۔ فَحَامَةُ الْاُيُنَةِ الْوُؤْمَانِيَةِ: زدی عمارت کی شان۔

فَحَامَةُ قَصْرِ: محل کی شان۔ جمہوری ملک کے سربراہ کا لقب۔

فَرَجٌ - الْمُنْفَرَجَةُ: یہ زاویہ زاویہ قائمہ سے بڑا ہوتا ہے۔

فَرَزٌ - الْمَفْرُزُ: ج مفارز چند افراد جن سے خاص مشن میں کام کرنے کا عہد لیا جاتا ہے۔

مَفْرُزَةٌ: تنظیم المرور: ٹریفک جماعت مشن۔ لمفرزة الصّحية: ہیلتھ مشن۔

فُرْسٌ - الْفُرَاسَةُ: آدمی کی صفات و اخلاق اس کی شکل و شایہ سے سمجھنا۔ الْفُرُوسِيَّةُ: گھوڑ سواری کا فن۔ تَعَلَّمَ الْفُرُوسِيَّةَ: فن گھوڑ

سواری سیکھو۔ سوار کی صفات اور اس کا رتبہ۔

شاہ سوار کی صفات، شجاعت، عظمت اور مضبوطی۔ هَذَا عَمَلٌ مِنْ اَعْمَالِ الْفُرُوسِيَّةِ: شاہ سواروں کے کارناموں سے

جاتی ہے۔

غَوْغٌ - الْغَوْغَانِيَّةُ: عوام الناس کو درغا کران کے جذبات اپنے حق میں کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا۔

الْمُرَشْحُونَ لِلانتخاب: يجأون إلى الغوغائية: انتخابات کے امیدوار عوام کو بھراکانے کی طرف پناہ لیتے ہیں۔ وہ سیاسی حالت جس میں حکومت عوام کے قبضہ میں ہوتی ہے۔

الغوغائية اسوء عدو للديمقراطية: عوامی اضطراب جمہوریت کا بڑا دشمن ہے۔

غَيْبٌ - الْغَيْبُ: غیب کو جاننے والا۔

غَيْبٌ مفسرين کی اصطلاح میں وہ ہے جس کو حواس اور عقل براہ راست معلوم نہ کر سکیں بلکہ انبیاء کی رسالت سے معلوم کیا جاتا ہے۔

اس کا ضد: "عَالِمُ الشَّهَادَةِ" ہے۔

غَيْرٌ - الْغَيْرُ: ایک چیز کو دوسرے کی جگہ پر رکھنا۔ وہ چیز جو دوسری چیز کو بدلنے کے لیے تیار کی جائے۔

قَطْعُ الْغِيَارِ لِلْاَلَاتِ: الگ الگ ٹکڑے جن کو جوڑ کر ناکارہ ٹکڑوں کی جگہ لگایا جائے۔ ان کو قَطْعُ التَّيْدِيلِ کہا جاتا ہے۔

فَاشٌ - الْفَاشِيَّةُ: او الْفَاشِيَّةُ: وہ تحریک جو جمہوریت کی جگہ یک جماعتی ظالمانہ نظام کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس نظام کی بنیاد

موسولین نے ۱۹۲۲ تا ۱۹۳۵ء کے درمیان رکھی۔ وہ ایک جماعت کا ڈکٹیٹر قومی ہوس والی تنظیم کا سربراہ تھا۔

فَتْحٌ - الْفَتْحَةُ: ٹین ڈبہ کھولنے کا آرز۔

فَتَشٌ - التَّفْتِيشُ: کسی چیز یا شخص کے لئے کوشش کرنا۔ اس کو تلاش کرنا۔ گم شدہ چیز کو تلاش کرنا۔ قاموس میں کبھی کلمہ کو تلاش کرنا۔

نگرانی اور تحقیق کے قصد سے اہتمام کے ساتھ چیک کرنا۔

تفتیشِ مَدْرَسَةِ: سکول کی تلاش کرنا۔

تفتیشِ امتعة نساہان کی تلاش کرنا۔ حکومت کے لوگوں (پولیس) کا کسی مکان میں تلاش

غرو۔ الْاِغْرَاءُ: کسی کو خوبصورتی اور خواہشات کے اظہار کے ساتھ چیز پر ابھارنا۔

اِنْقَاذُ الْاِغْرَاءِ: اللذّة خواہشات کا لذت کے تابع ہونا۔ وہ رغبت جس کا مقابلہ نہ ہو سکے۔

واجب کی ادائیگی میں کوتاہی پر اس واسطے ابھارنا کہ مادی نفع دیا جاسکے۔ جیسے: اِغْرَاءُ الشُّهُودِ: گواہوں کو گمراہی پر لانا۔

وَفِي النِّحْوِ: کسی کو اچھے کام کرنے پر رغبت دینا۔ جیسے اِخْلَاكُ اَخْلَاكِ:

غلب۔ الْاَغْلَابِيَّةُ: اکثریت۔

غَلِيٌّ - الْغَلِيَابَةُ: تیر جو بہت دور فاصلے پر مارا جائے۔

غَمْرٌ - الْمَغَامَرَةُ: بستی سے حرکت کرنا۔

يُحِبُّ الْمَغَامَرَاتِ: وہ حرکت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ہر نئی چیز کے پیچھے کوشش کرنا۔

غَيْرِ مَانُوسٍ اور نہ حاصل ہونے والی چیز۔

رُوحُ الْمَغَامَرَةِ: غیر مانوس روح۔

اچانک پیش آنے والا معاملہ۔ دہشت میں ڈانے والا غیر معمولی شخص۔ مَغَامِرَاتٌ

بَطْلٌ: پہلوان کا غیر معمولی کام۔ فِلْمٌ مَغَامِرَاتِ: خوف و ہراس پیدا کرنے والی فلم۔

غَصْنٌ - الْغُنُوصِيَّةُ: او الْاُدْرِيَّةُ: وہ مذہبی دینی فلسفی جماعت جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء کو خوب اور صحیح جانتے

ہیں۔

غَسِيٌّ - الْغَسَانِيَّةُ: گانے گانا۔ ادبی اور فنی نظریہ جو وجدانی حالات کی تعبیر پر قائم ہوتا ہے۔

جیسے غَسَانِيَّةُ الشُّعْرِ: عربی شعروں کو وجدانی کیفیت پر پڑھنا۔

غوث۔ الْاِسْتِفْتَاءُ: مدد و نصرت طلب کرنا۔

اِشَارَةُ الْاِسْتِغَاثَةِ: فریاد کی اشارہ۔

وَفِي النِّحْوِ: کسی دوسرے کی مدد کے لئے فریاد رسی اور مدد طلبی کرنا۔ جیسے يالْتَّوْبِيْدِ لِلْمَظْلُومِ:

مغور۔ الْمَغَاوِرُ: وہ لوگ جن کو لڑائی کرنے،

سپاہ ہونے اور خطرناک کاموں پر تربیت دی

سے روکنے اس کو مسترد کرنا (ویٹو کرنا)
الْفَيْرُوسُ: چھوٹے باریک جراثیم جو عام
دنوں میں دور بین سے نظر نہیں آتے۔ بعض
بیماریوں (چچک اور بادلا پن) کو پیدا کرتے
ہیں۔

فَيْضُ - الْفَائِضُ: زائد چیز - خَيْرٌ وَافٍ وَافِرٌ
بَالٌ کافی مقدار سے زائد - مَحْضُولٌ
فَائِضٌ: فائض: زائد محصول - معینہ: کیت
سے زائد - ضرورت سے زائد - مبلغ سے
زائد -

بَاعَ الْفَائِضُ مِنَ الْإِنْتِاجِ: زائد آمدن
فروخت کرنا - فائض الميزانية: زائد -
بجٹ -

الْفَائِضُ: ح فوائض: وہ فائدہ جو سو دکھانے
والے اپنے اصل مال پر لیتے ہیں -

الْفَيْضَانُ: نہر کا پانی بھر کر سیلاب بنا -

فَيْضَانُ التَّيْلِ: تیل سے سیلاب آنے سے دریا
بھرنا - پانی بارشیں اور سیلاب جو کسی علاقہ کو
ڈبو دے - الْفَيْضَانَاتُ: سیلابی نقصانات -

مَجَازًا: پیداوار یا زرخ کام ہونا -

قَب - الْقَبَّةُ: گریبان (قمیص کا گریبان)

قَبط - الْقَبْطَانُ: کپتان - جہاز کا کپتان -

قَبيل - الْقَبَائِلُ: قبیلہ کا نام -

الْمُقْبِلُ: (طب) کھانے کی چاہت پیدا کرنے
والی چیز -

الْمُقْبِلَاتُ: کھانے سے پہلے پیش کردہ
چیزیں - مرغوبات اشیاء جسے تینوں - موبی -

الْمُسْتَعْبَلِيَّةُ: اٹلی میں ادبی اور فنی مدرسہ جو کہ

۱۹۰۹ء تا ۱۹۱۵ء میں جاری ہوا - اس میں سرمایہ

داری کو بھارا گیا - اور زندگی کی ہر قسم کی ترقی کو

پیش کیا گیا جو مستقبل میں دنیا کو ترقی یافتہ

بنائے -

قَدَم - الْقَدَامُ: کسی چیز پر زیادہ وقت گزارنا -
پرانی ہونا -

قَدَمُ الْقَانُونِ: وہ مدت معینہ جس کے
گذرنے کے بعد حق کا مطالبہ یا حکم کا جاری کرنا
ختم ہو جاتا ہے -

الْتَقْدِيمِي: فارورڈ - ترقی پسند - عصر

تَقْدِيمِي: ترقی پسند دور -

سَيَرُ الْعِلْمِ التَّقْدِيمِي: علم کی تیز ترقی -

الْتَقْدِيمِيَّةُ: ترقی پسند ہونا - فارورڈ ہونا - وہ

سیاسی معاشرتی اور معاشی نظریہ جو فرد اور نظم

میں آزادی کی اصلاحات والی کر معاشرہ کو ترقی

دینے کا ہدف رکھتا ہے -

قَر - الْقَارِي: قارہ کی طرف منسوب ہے -

حزب قَارِي: علاقائی جماعت -

الْمَسَاحُ الْقَارِي: قارات میں سے سب سے

درمیانی فضا گری اور سردی میں درجہ حرارت

کے بڑے فرق اور موسم گرما میں کثرت باراں

کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے -

الْتَقْرِيرُ: اقرار لینا - اعتراف کرنا - قرار داد

پاس کرنا - کام کرنے کا قطعی فیصلہ کرنا -

الْتَقْرِيرُ مِنْ حَقِّ الْوَيْسِ: کسی کام کے

کرنے کا فیصلہ کرنا سربراہ کا حق ہے -

تَقْرِيرُ الْمَصِيرِ: کسی ملک یا عوام کو نظام نظام

چلانے کا حق بغیر بیرونی مداخلت کے دینا -

تَقْرِيرُ ج تَقَارِيرُ: کسی واقعہ یا مسئلہ کے متعلق

رپورٹ - تَقْرِيرُ طَبِيٍّ: طبی رپورٹ

تَقْرِيرُ لُجْبَةِ بَيَانِيَّةٍ: مقرر کردہ کمیٹی کی

رپورٹ -

تَقْرِيرُ الْخَبِيرِ: ماہر انسان کی رپورٹ -

قَرَح - الْإِقْتِرَاحُ: تجویز - اقترتاح: حل: حل

کی تجویز -

في الادارة: رائے یا تدبیر پیش کرنا انتظامیہ

انتظامیہ کو تاکہ اس کو لے کر عمل کیا جائے -

في التشريع: (قانون سازی میں) قانون ساز

ادارے میں رائے پیش کرنا جس کو قبول یا مسترد

کیا جاتا ہے -

طَرِيحُ الْإِقْتِرَاحِ عَلَى النُّصُوبِ فَسْقَطُ:

دو حکم کے ذریعے رائے پیش کرنا اور ناقابل

ہونا -

قرطس - الْقُرْطَاسِيَّةُ: کھانے کے لوازمات -

قَرَح - الْقَرَاغُ: جلد کی متعدی مرض جو بالوں

کو کراتا ہے -

الْإِقْتِرَاعُ: قرعہ اندازی کرنا - قسمت معلوم

کرنا - ووٹ دینا - الْإِقْتِرَاعُ السَّرِي: پوشیدہ

ووٹنگ کرنا - کسی تنظیم یا سیاسی جماعت سے کسی

قرار داد پر یا کسی مسئلہ پر رائے لینا - انتخابات

کے تمام کام جس میں پرچی ڈالنا اور نتائج کا

اعلان کرنا -

جَوِيّ الْإِقْتِرَاعِ الْاَوَّلِ: پہلے انتخابات کا

اجراء -

قَر - الْقَرِيَّاتُ: ریشمی کپڑوں کی قسمیں -

الْقَرِيَّةُ: لوت کار ریشمی کپڑا -

قَرَب - الْقَادِبُ: پانی اور خشکی دونوں جگہوں

میں رہنے والا جانور -

قَسَط - الْقَسِيْطُ: قسطوں پر چیزیں فروخت

کرنا - فِي الزَّرَاعَةِ: برابر لائنوں پر پودے

لگانا -

قَشِر - الْمَقْشُورَةُ ج مَقَاشِرُ: پھل اور سبزی

چھیلنے کی پتھری یا آلہ -

قَشَف - الْقَشْفُ: نعمتوں سے دور زندگی -

خشک زندگی گزارنا - دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر

زاہدانہ زندگی گزارنا - تَقَشُّفُ الصُّوفِي:

صوفی کا زاہدانہ زندگی گزارنا - اقتصاديا:

ضروریات زندگی ہی کا لیتا کرنا -

سِيَاسَةُ التَّقَشُّفِ: وہ سیاسی گروپ جو حقیقتات

کو کم کرنے اور طریقہ زندگی کو مفید کرنے کا

نظریہ رکھتے ہیں -

قَص - الْمُقَاصَةُ فِي الْقَانُونِ: وہ طریقہ

جس میں باہمی لازم متبادل قوانین کو درست کیا

جائے -

وفي التجارة: تجارت میں: دو ملکوں کا آپس

میں قرض پر تجارت کرنا - قرض دھندہ برآمد

کرتا ہے اور قرض خواہ درآمد کرتا ہے اور

دونوں ملک ملکی سکوں کو برابری میں فروخت

کرتے ہیں -

قَصْد - الْإِقْتِصَادُ: درمیانہ خرچ کرنا -

رُوحُ الْإِقْتِصَادِ عِنْدَهُ: اِحسانانہ الجھل:

معتدل خرچ اس کے ہاں جھل کے قریب کر دیتا

ہے - بچت کرنا -

وہ تمام کو ششیں جن کا تعلق پیداوار دولت کی تقسیم اور ان کا معاشرے کی کیت سے تعلق ہو۔

تیزدانت جو عام طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ وہ چار اوپر والے جڑے اور چار نیچے جڑے پر ہوتے ہیں۔

رنگ الگ رکھتی ہو وہ ایسے معاشرے میں رہتی ہو۔ جن کی تعداد اکثریت میں ہو اور ان سے خوبیوں اور خصیلتوں میں جدا ہو۔

الإِقْتِصَادُ الْوَطَنِي: وطنی معیشت۔
الإِقْتِصَادُ الْحَرِي: آزاد معیشت۔
الْإِقْتِصَادُ السِّيَاسِي: وہ علم جو افراد کی ضروریات پیداوار کے وسائل ان کو منظم کرنے دولت حاصل کرنے اور تقسیم چیزوں کے نزع و نقد و قرض پر دینے اور ملکی لین دین پر بحث کرے۔
مَحَازَا: وقت کو معتدل استعمال کرنا۔ وقت بچانا۔
الإِقْتِصَادِي: اقتصاد کی طرف منسوب۔ نشاط اقتصادی: معاشی سرگرمی عالم اقتصادی: ماہر معاشیات۔

الإِقْطَاعُ: سیاسی اور معاشرتی نظام جو مختلف ممالک میں مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پہلے لوگ بعد والے لوگوں کو ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے زمینی ایکڑ تقسیم کریں جو ان کی حق ملکیت ہوں گے۔
الإِقْطَاعِي: جاگیر داری دارانہ نظام والا۔
الْقِطَاعِي: جاگیر داری محل۔
العهد الإِقْطَاعِي: جاگیر داری دور۔
الْتَقَاطُ: باہمی تعلقات خراب ہونا۔ ایک دوسرے سے دور ہونا۔ دو حصوں کا ملنا۔ یا ان کے ملنے کی جگہ۔

حُقُوفُ الْاِقْلِيَاتِ: اقلیتوں کے حقوق۔
قَلْبُ-الْاِنْقِلَابُ: کسی چیز کا بدل جانا۔ الٹ ہو جانا۔

اِنْقِلَابُ الشِّتَا وَ اِنْقِلَابُ الصَّيْفِ: گرمی اور سردی کا آنا جانا۔

فِي السِّيَاسَةِ: ظالم غیر قانونی قابض حکومت کو قوت کے ذریعے مٹانا۔

اِنْقِلَابٌ عَسْكَرِي: فوجی انقلاب

مَجَازًا: جرأت مند کام جو پروگراموں میں درست تبدیلی لائے۔
هَذَا اِنْقِلَابٌ فِي سِيَاسَةِ الدَّوْلَةِ: یہ ملک کی سیاست میں تبدیلی ہے۔

قَلْبِقُ-اِنْقَلَبَ ج قَلَابِقُ: کپ کی مانند خیرہ جو چڑے کا بنا ہوتا ہے۔

قَلَمُ-اَقْلَمَ الْحَيَوَانَ اَوْ النَّبَاتِ: جانور یا پودہ کا نئی نضا کا عادی ہونا۔ یا عادی بنانا۔

تَاقَلَمُ: جانور یا پودے کا نئی نضا کے مطابق ہونا۔ کسی علاقہ کا عادی ہونا۔

قَلْبِي-اَلْقَلْوِي: قلوبیات کے ساتھ خاص ہے۔

قَلْوِي نَمَكُ: قَلْوِي كَانِيں اَلْقَلْوِي: پوناس اور سوڈا جیسے وہ مواد جو پانی میں جلدی پھل جاتا ہے اس کی معدن اور آئینہ میں۔

اَلْقَلْبِي: گندی رنگ والا۔

قِن-قَنَّ: قانون وضع کرنا۔
الشِّيْءُ: کسی چیز کو مخصوص مقدار میں خاص قانون کے مطابق خرچ کرنا۔

قَنَّ الْحَبْرُ: روٹی کی کھیت کرنا۔

اَلْقَنَّيْنِ: قوانین بنانا۔ وہ کارروائیاں جو حکومت نافذ کرتی ہے تاکہ سامان اور پیداوار کی کھیت ملک میں محمود مقدار میں ہو۔

قَوْر-اَلْمَقْوَرَةُ ج مَقَاوِرُ: بیگن وغیرہ کو وسط میں گول کاٹنے کا آلہ۔

قَوْل-قَاوَلٌ قَلَانَا عَلَي الْعَمَلِ: کسی سے

الاقتصادی سستا۔ کم خرچ والا۔ مالی بوجھ والا۔
وَسِيْلَةٌ نَقْلٌ اِقْتِصَادِيَّةٌ: نقل کے ذرائع مالی بوجھ والے ہیں۔
الاقتصادی: علم معاشیات میں اسپیشلسٹ (ماہر معاشیات) الاقتصادی: بچت پسند کرنے والا۔ بچت وصول کرنے والا۔
درمیانے خرچ والا۔
قَصْدَر-قَصْدَرٌ: برتن پر قلعی ملنا۔ قلعی کے ساتھ سفید کرنا۔
قَصْدَرٌ اَنْبِيَةٌ نَحَاسِيَّةٌ: تابنا کے برتن قلعی کرنا۔

قَفْر-اَلْقَفْرُ: کوونا۔
اَلْقَفْرُ فِي الْهَوَا: ہوا میں کوونا۔
اِتْرَانَا اَلْقَفْرُ بِالْمِطْلَةِ: پیراشوٹ کے ذریعے اترنا۔

فِي الْاَلْعَابِ الرِّيَاضِيَةِ: ورزش کے کھیلوں میں: بلند جگہ سے گزرنے یا دو جگہ تک پہنچنے کے لئے جسم کو حرکت دے کر بلندی کی طرف جانا۔

اَلْقَفْرُ بِالْعَصَا: لاشی کے ذریعے کودنا۔
اَلْقَفْرُ الطَّوِيلُ: لمبی چھلانگ۔

قَفْص-اَلْقَفَاصُ: بچرے بنانے والا۔
قَفْط-اَلْقَفَاطُ: ریش یا روٹی کا لمبا کھلا کپڑا جو سامنے کھولا گیا ہو اور تسمہ کے ساتھ بند کیا جائے۔

قَل-اَلْاَقْلِيَّةُ: لوگوں کی تھوڑی جماعت۔
اَلْاَقْلِيَّةُ الرِّبَايِيَّةُ: کم ووٹ پانے والی پارلیمانی پارٹی۔ وہ جماعت جو اپنا دین نسل اور

قَصْف-اَلْقَاصِفَةُ: بمبار طیارہ: جنگی طیارہ۔

اَلْقَضَا: ولادت کے وقت بچے کے چہرہ پر باریک جھلی۔ (باریک چہرہ)

قَضِي-اَلْاِسْتِعْطَابُ: جس پر روشنی شعاعیں جمع ہوتی ہیں منکسر اور منکسر ہونے کے بعد تقسیم شدہ حرکتوں کی نقل میں نمایاں تبدیلی کی

وَجْهٌ-قَطْر-اَلْقَطَارَةُ: دوئی قطرہ قطرہ پکانے کی چھوٹی بوتل۔
اَلْتَقْطِيرُ: پانی وغیرہ قطرہ قطرہ بہانا۔

تَنْقِيهِ-صَنْعَاتِي عَرَقُ كَشِي-اَلْاِسْتِعْطَاظُ: عرق کشی کے ذریعے پھولوں اور پھولوں کا مشروب حاصل کرنا۔

قَطْع-اَلْقَوَاطِعُ: مہاجر پرندے جو ایک جگہ گرمی یا سردی قیام نہ کریں۔ منہ میں سامنے کے

کام کرنے کا معاہدہ لینا۔

المُقَاوَل: جو کام کرنے کا معاہدہ دے۔

قوم-القَانِمَقَامِيَّة: قائم مقام کے طور پر ایک

عہد جو عام دفتروں میں ہوتا ہے۔ یعنی سربراہ

کی غیر موجودگی میں نائب مَسْمُوقُ الْقَانِمَقَام:

قائم مقام (نائب) کا مرکز۔

المُقَاوَمَةُ: طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرنا۔

حملہ آور کے سامنے ڈٹ جانا۔ کسی شخص کے

ارادہ پر اعتراض کرنا۔ کسی کے مقاصد تسلیم نہ

کرنا۔

مُقَاوَمَةُ الرَّئِيس: سربراہ سے مخالفت کرنا۔

عدل کے خلاف اور آزادی پامال کرنے والی

چیزوں پر اعتراض کرنا۔

حکومت کے خالانہ کاموں کی مخالفت کرنا۔

المُقَاوَمَةُ: کسی چیز پر صبر کرنا۔ برداشت کی

قوت۔

مُقَاوَمَةُ التَّعَب: تھکاوٹ برداشت کرنا۔ کسی

کی طاقت کو ختم کرنے یا کم کرنے پر قدرت

رکھنا۔

مُقَاوَمَةُ الانصَاف: دباؤ کا مقابلہ کرنا۔

مُقَاوَمَةُ البَحْر: کھچاؤ کا مقابلہ کرنا۔

المُقَاوَمَةُ: کسی خطرناک یا بدخلق کی اشتعال

انگریزی کے تابع نہ ہونا۔

عوام الناس کا قابض دشمن کے خلاف مسلح

تحریک چلانا۔

اتَّسَع نطَاق القَاوَمَةِ: مسلح تحریک کا دائرہ

دب سب ہونا۔ اپنے آپ تحریک چلانے والے۔

المُقَاوَمَةُ الكَهْرَبَانِيَّة: بجلی کی لہروں کے

وقت مشکلات۔ معدنی پلیٹ یا تار جو قوت بجلی

کو حرارت میں تبدیل کرتی ہے۔

قَيَصْر- قَيَصْرُج قَيَاصِر: رومی جرمنی اور

رومی سربراہان مملکت کے القاب۔

القَيَصْرِيَّة: بچہ کی طبعی پیدائش نہ ہونے کے

وقت اس کو آپریشن کے ذریعے سے نکالنا۔

كَبَح-الْمَكَابِحَةُ: ایک میلیر۔

كَبْر-التَّكْبِيرُ: کسی چیز کو بڑا بنانا۔ کسی چیز کو

دب سب کرنا۔

تَكْبِيرُ بَيْت: گھر کو بڑا بنانا۔ کسی چیز کی طاقت و

قوت زیادہ ہونا کسی چیز کو ضخیم کرنا۔ تَكْبِيرُ

الصَّوْت: آواز بلند کرنا۔ اللہ اکبر کا لفظ بولنا۔

کسی چیز کو عظیم قرار دینا اور مبالغہ کرنا۔

تَكْبِيرُ المَصِيبَةِ: مصیبت کو بڑا سمجھنا۔

چیزوں کا حجم بڑا بنانا۔

التَّكْبِيرُ بِوِاسِطَةِ المَجْهَرِ: دوربین کے

ذریعہ بڑا بنانا۔

كَبَس-الْكَبَاسُ: روٹی اور کاغذ دبانے کا

آلہ۔ چیزوں کو دبانے یا منتقل کرنے کے لیے

کریں۔ ہر چیز یا اس کا جز جس کو دبانے کے لیے

استعمال کیا جاسکے۔

كَتَب-تَكَاتَفَ القَوْمُ: مدد اور تعاون کرنا۔

كَثْر-الْأَكْثَرِيَّةُ: لوگوں کی بڑی تعداد۔

انتخاب یا قرعہ اندازی میں زیادہ لوگوں کے

ووٹ۔ "نَالِ الْأَكْثَرِيَّةُ":

زیادہ ووٹ حاصل کرنا۔ وہ جماعت یا گروپ جو

زیادہ ووٹ حاصل کرے یا ارکان زیادہ لے

لے۔

نَوَّابُ الْأَكْثَرِيَّةِ: اکثریت میں ممبران

پارلیمنٹ۔

الْأَكْثَرِيَّةُ المَطْلَقَةُ فِي اِنتِخَاب

أَوْ اِنتِخَابِ: آدھے حاضرین پر ایک زائد

ووٹ۔

الْأَكْثَرِيَّةُ النِّسْبِيَّةُ: ووٹ میں منتخب افراد میں

سے ایک زائد منتخب فرد لیکن اکثریت مطلقہ کو

نہ پہنچے۔

كَشَف-الْكَشَافَةُ: گھٹاپن۔ شدت۔ کثرت

کسی چیز کے جسم اور نفس چیز کے درمیان حجم۔

كثَافَةُ السُّكَّانِ: کثرت آبادی۔ آبادی میں

اضافہ۔ كَثَافَةُ الحَشْوِ: توپ کے اندر بھرا

بارود اور بیرل توپ کے درمیان نسبت۔

الْمَكْشَافُ: مائع چیزوں کا وزن معلوم کرنے کا

آلہ یا کاش۔

كَشَلِك-كَاثُولِيكُوسُ: ارمنی گرجا گھر کے

تین بڑے پادریوں کے القاب۔

كَحَل-الْكَحَالُ: سر نہ ساتھ علاج کرنے

والا۔

كَبْر-التَّكْبِيرُ: ایک سے زیادہ دہرانا۔

تکریر یا سوال: سوال کو دہرانا۔ التَّكْبِيرُ

فِي البَلَاغَةِ: سامع کے ذہن میں معنی کو

مضبوط کرنے کے لئے عبارت کو بار بار بولنا یا

لکھنا۔ عَيْفَانُ مَعَ العَسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ

العَسْرِ يُسْرًا: کسی چیز کا تعقیب یا تہقیر عجیب یا

نقصان دہ مواد کو الگ کرنے کے ساتھ۔ جیسے

تَكْبِيرُ السُّكَّرِ: چینی کو صاف کرنا۔ تَكْبِيرُ

النَّفْطِ: خام پٹرول کو رومی مواد سے صاف

کرنا۔

كِرْدَان-الْكِرْدَانُ: ہار۔ عربی موسیقی میں

آٹھواں مقام۔

كِرْم-الْإِكْرَامِيَّةُ: نیک بدلہ دینا۔ بخشش

(جرم پر تھم)

التَّكْرِيمُ: عزت و احترام سے پیش آنا۔ تَكْرِيمُ

العُلَمَاءِ: علماء کی عزت کرنا۔

حَفْلَةُ التَّكْرِيمِ: اعزازی جلسہ (کسی شخصیت

کی علمی مالی خدمات پر اعتراف کے لئے جلسہ)

كُوو-الْكُرِيَّةُ: چھوٹا گیند۔ خون کا خلیہ جو کہ

سرخ و سفید ہوتا ہے۔

كَسْر-كَسْرُ الامْوَاجِ: موجوں کو روکنے کا

بند۔ الْكَسْرَةُ: پھلوں کے سخت چھلکوں کو

توڑنے کا آلہ۔ پتھروں کو توڑنے کا آلہ جو

مختلف شکلوں اور قسموں میں پایا جاتا ہے۔

الْمَكْسَرَاتُ: 'اخروت' بادام اور بندوق

(پھل) وغیرہ ہے۔

كَشَف-الْاِسْتِكْشَافُ: نامعلوم چیز کی

معرفت طلب کرنا۔ زمین کی ریسرچ کے لئے

اس کا سروے کرنا۔ دشمن کی حرکات و

پروگراموں کے متعلق معلومات اکٹھی کر کے

جاسوسی کرنا۔

كَعْب-التَّكْوِينِيَّةُ: آرٹ جدید کی طرف

متوجہ ہونا جس کے ذریعے سے اشکال کے ساتھ

دوسروں کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔

كَفْح-الْمُكَافِحَةُ: جدوجہد کرنا۔ مقابلہ

کرنا۔ لڑائی کرنا۔

کفئی - الإکتفاء: تھوڑے پر مبر کرنا اور اس کے ساتھ بے نیاز ہو جانا۔ زیادہ یا اچھے کا مطالبہ نہ کرنا۔ فی البلاغہ: کلام کا کچھ حصہ اس واسطے حذف کرنا کہ اس سے پہلے لفظ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ سب اربیل تفلیم الحروف: ای یعنی والبرود: نظام الإکتفاء الذاتی: کسی ملک کا نظام خود کفالت۔

الاستکفاء الإقتصادی: کسی ملک کی اقتصادی حالت جو خود کفالت حاصل کر چکا ہو۔

کلب - الکلیبۃ: وہ فلسفی مذہب جو طبیعت کو جاری رکھنے اور عرف کی پروا نہ کرنے پر قائم ہے۔

الکلیبات: کتوں جیسے جانوروں کی قسمیں جیسے کتا، بھیڑیا، لومڑ اور گیدڑ۔

الکلیبون: اس کا واحد الکلبی: فلاسفہ یونان کی جماعت جس کی بنیاد ایتھینس شاگرد سقراط نے رکھی۔ اس کے مشہور لیڈروں میں سے دیو جنیس ہے۔ ان کا لقب گلیمیں اس واسطے پڑا کیوں کہ وہ لوگوں کے معاشرتی رسم و رواج ختم کر دیتے اور لوگوں کی اس بارے میں مذمت کرتے تھے۔

کلس - التکلیس: چونا لگانا۔ آگ کے ذریعے سے چونا سے بدلنا۔

کلف - التکلف: کسی کام میں صعوبت اٹھانا۔ تکلف کرنا۔ کسی آدمی کا غیر حقیقت والا قول و فعل کا اظہار کرنا۔ التکلیف: کسی کو مامور کرنا۔ پابند بنانا۔ التکلیف بتالیف الوزارة: وزارت بنانے کا حکم دینا۔ تکلیس اور فیس فرض کرنا۔

و عند العاقبة: خوش معاملہ سے جوڑ آنا اور رسومات کا خیال رکھنا۔

التکالیف: مال پر آنے والے خرچے۔ جیسے ((تکالیف المعیشت)) معیشت پر خرچہ جات۔

کلیش - الکلیشیۃ فی فن الطباعۃ: معدن وغیرہ کی پیٹ جس پر وہ کند کیا جاتا ہے

جو طبع کرنا ہو۔ اس کو اور سم بھی کہا جاتا ہے۔
اکمل - التکملیات: زیب و زینت کا سامان۔ اس کا الٹ الضروریات ہے۔
الإکمال: کسی چیز کو مکمل کرنا۔ بنانا۔ تالیف کرنا۔

اکمّال المبلغ: رقم مکمل کرنا۔ اکمّال المجموعۃ: مجموعہ کو مکمل کرنا۔ اکمّال: ایک یا ایک سے زیادہ موضوعات میں طالب علم کی کامیابی کے لئے امتحان لینا۔

التکمیلی: پورا کیا گیا۔ جس کے ساتھ چیز مکمل ہو۔

انتخاب تکمیلی: مکمل دو ٹک - التعلیم التکمیلی فی بعض البلدان العربیۃ: بعض عرب ممالک میں بدل تعلیم جو ثانوی اور ابتدائی کے درمیان ہوتی ہے۔

کلب - الکلبۃ: لوگوں کے بیٹھنے کے لئے بچھا۔

کنس - الکانسۃ: کانسہ الالغام: سمندری بارودی سرنگ کو صاف کرنے والی کشتی۔ اس کو کانسحۃ الالغام بھی کہا جاتا ہے۔

کنف - الکنفانی: جھاڑو بنانے والا اور فروخت کرنے والا۔

کولخ - الکوّلخور: اشراکی (کیونٹ) ممالک میں زرعی تعاون جس میں زمین کی ملکیت حکومت کے پاس اور وسائل پیداوار قوم میں مشترک۔

کولس - الکوّلیس: ج کو الیس: تھیز کا پچھلا مقام۔ پردہ کے پیچھے پوشیدہ جگہ میں۔

کیو - الکیووسین: پٹرول سے حاصل کردہ تیل جو ہوائی جہازوں کا ایندھن بنتا ہے۔

کیف - الکیفیۃ: کیفیت والا۔ ایک ہی ارادہ پر قائم رہنے والا شخص جب کہ وہ توابع و اصول کے لحاظ سے منسلک نہ ہوتا ہو۔

الکیفی: میلانی اور خواہش کی پیداوار۔
التکلیف: حالات کے ساتھ موافق و وفادار ہونا۔

التکلیف و فنی البینۃ الاجتماعیۃ: معاشرتی حالات کے مطابق فٹ ہونا۔ انسان کے میلان، سلوک اور طبیعت کی ماڈل کے مطابق ڈھلنا۔

تکلیف التعلیم: تعلیم کا طلباء کی حیثیت کے مطابق ہونا۔

التکلیف: ایک چیز میں تبدیلی کر کے دوسری کے موافق بنانا۔ تکلیف الحیاۃ للبینۃ: زندگی کو ماحول کے مطابق بنانا۔

تکلیف قضیۃ للبینۃ: ستوری کو ستاروں میں فٹ کرنا۔ میلان، طبیعت اور سلوک کو دوسرے کے مطابق ڈھلانا۔ تکلیف شخص ذوقہ و فہم صحیفہ: دوست کے مطابق اپنے ذوق کو بنالینا۔

تکلیف التعمم: تعلیم میں تبدیلیاں کر کے بچوں کے معیار کے مطابق بنانا۔
تکلیف بالہواء: ایئر کنڈیشن بنانا۔ تکلیف الہواء: ایئر کنڈیشن۔ الکیمانی: کیما والا۔
غضصر کیمانی: کیما والا غضصر۔ طاقتہ کیمانیۃ: کیما والی طاقت۔
کیما - الکیمانی: علم کیما کا ماہر۔

لبک - التلبک: خلط ملط ہونا۔ التلبک المعنوی: بد تمیزی ہونا۔
لبن - لبین لسنۃ: کسی کو لبنانی بنانا یا اس کی صفات لبنانی کسی پر ڈالنا۔

لشم - الملتشمون او الطوارق: شمالی افریقا میں بربری قوم جن کے مرد منہ پر گھونٹ ڈالتے تھے اور خواتین بغیر گھونٹ برہنہ منہ چلتی تھیں۔

لحظ - الملاحظہ: مگرانی کرنا۔ ملاحظۃ سیر المملوک: ستاروں کی رفتار کی مگرانی کرنا۔
زیر حراست کرنا۔

وضع تحت الملاحظہ: زیر حراست رکھا گیا۔ کسی کتاب پر نوٹ یا حاشیہ لکھنا۔
الملاحظہ: خوبیاں و خامیاں برسانے رکھ کر ریاکس دینا۔ لی علی ذلك بعض الملاحظات: مجھے اس پر کچھ وضاحت کرنا

ہے۔

رُوحُ الْمَلَاخِطَةِ: علمی گرفت و مہارت۔
الْمُلْدَحُوطَةُ: کتاب سے خارج حاشیہ یا شرح۔

لحق۔ الاستلحاق فی الامتحانات:
پاس ہونے کے لئے اوسط نمبر کے حصول کے لئے ایک یا ایک سے زیادہ علامات۔ یہ یا تو کچھ طلباء کے لئے ہوتا ہے یا سب کے لئے جنہوں نے مطلوب اوسط نمبر حاصل نہ کیے ہوں۔
الْمُلْحَاقَةُ: پیچھا کرنا۔ تلاش کرنا۔ کسی شخص سے رابطہ کرنے کے لئے اس کے پیچھے جانا۔
مُلاحِقَةُ نَجْمَةِ سِينَمَايَةِ: سینما ہیرو عورت کی تلاش کرنا۔

فی القانون: کسی شخص کو عدالت میں طلب کرنا۔ کسی کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کرنا۔ ملاحقہ مَدِينِ اَمَامِ الْقَضَاءِ: مقروض کو عدالت میں طلب کرنا۔ کسی شخص کے خلاف عدالتی کارروائی کرنا۔

بِاشْرَ الْمَلَاخِطَاتِ: براہ راست عدالتی کارروائی کرنا۔ الْاِلْتِحَامُ: جزا۔ الْنِحَامُ: اجزاء کو جزا۔ الْاِلْتِحَامُ: چپکانا۔ النحام معدنیین: دو معدن کا چپکانا۔ النحام عظیمین: دو ہڈیوں کا چپکانا۔ النحام الجرح: زخم بھرنے۔

لحم۔ الْاِلْتِحَامُ: لڑائی ٹھن جانا۔ النحام جیشین: دو لشکروں کا لڑنا۔

فی علم الاحیاء: مختلف قسموں کے اعضاء کا متحد ہونا خاص کر پھولوں میں۔

الْمُلْتَحِمَةُ: آنکھ کی پلک کا پردہ۔

لزمہ لزم: ٹھیکہ دینا۔

لزم طریقاً: روڈ کا ٹھیکہ دینا۔

الْاَلْزَمَةُ فِي الْمُنْطَقِ: ایک قضیہ جو دوسرے قضیہ سے نکلے۔ تھوڑی اہمیت والا یا کم شمولیت والا قضیہ جو بڑے قضیہ سے حاصل کیا جائے۔

نظریہ جس پر دلیل پیش کی گئی ہو اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہر دفعہ کے بعد حاصل ہونے والا آواز یا کلام اَللُّوْا زِمٌ: صفت، مشین اور کام کے لئے اوزار اور ضروری اجزاء۔ جیسے

لَوَا زِمُ الْبِنَاءِ: تعمیر کے اوزار۔

لَوَا زِمُ السَّيَارَاتِ: گاڑیوں کے ضروری پارٹس۔

اللُّوْا زِمُ الْمَدْرَسِيَّةِ: طالب علم کی پڑھائی کا ضروری سامان جیسے کاغذ، کاپی، قلم، پیمانہ وغیرہ۔ الْاِلْتِزَامُ: اپنے آپ پر کام کو فرض کرنا۔ کسی چیز کا عہد کرنا۔ هَذَا الْاِلْتِزَامُ عَلَيَّ: یہ مجھ پر فرض ہے۔ معین برف بنانا اور اس تک پہنچنے کے لیے کام کرنا۔ الْاِلْتِزَامُ سِيَاسِيٌّ: سیاسی وابستگی۔

الْاِلْتِزَامُ فِي الْحُقُوقِ: وہ قانونی رابطہ جس کی رو سے کسی شخص کو مجبور کرنا تاکہ فلاں چیز دے یا معین کام کرے یا فلاں کام سے رک جائے۔ ہر ذمہ داری جس کو قانون لازم کرے یا عہد وغیرہ۔ الْاِلْتِزَامُ بِالْفِقْهَةِ: خرچہ دینے کا پابند کرنا۔

وَفِي بِالْاِلْتِزَامِيَّةِ: اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا۔ وَفِي عَالَمِ الْاَعْمَالِ: سڑک بنانے، مکانات تعمیر کرنے اور کارخانہ جات لگانے کا معاہدہ (ٹھیکہ) خاص شرطوں مخصوص وقت میں خاص مال کے ساتھ فی الادب والفن: خط توجہی یا خط عقائد کی اتباع کرنا۔

الْمُلْتَزِمُ: ٹھیکہ دینے والا۔ معاہدہ کرنے والا۔ لَعُوْا - الْاِلْتِغَاءُ: منسوخ کرنا۔ کینسل کرنا۔ الْاَلْغَاءُ عَقُوبَةُ الْاِغْدَامِ: سزائے موت ختم کرنا۔ الْاَلْغَاءُ وَظِيْفَةٌ: ملازمت ختم کرنا۔

فِي النِّحْوِ: عامل کے عمل کلفظاً اوصحلاً منسوخ کرنا جیسو نِيَذُ ظَنَنْتُ قَائِمٌ. مَا كَانَ اِحْسَنَ زَيْدًا: ان مثالوں میں ظن اور کان کا عمل لغو ہو گیا۔

لَفْتٌ - الْاِلْتِفَافُ: جمع ہونا اور اکٹھا ہونا۔ الْاِلْتِفَافُ حَوْلَ شَخْصِيَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ: سیاسی شخصیت کے ارد گرد جمع ہونا۔

الْاِلْتِفَافُ: گھراؤ کرنے کا ایک طریقہ۔ الْاِلْتِفَافُ الزُّهْرِي فِي عِلْمِ الْاِحْيَاءِ: پتوں کے نکلنے سے پہلے جمع ہونے کی ایک حالت۔

تَفَتٌ - الْاَلْفَاةُ: اشتہار یا اعلان کے لئے بورڈ یا اشتہار جو شارع عام پر لٹکا جائے۔

لِقَطٌ - الْاَلْفَقَطَةُ: قلم کے مناظر میں سے ایک منظر۔

لِقْنٌ - الْمُلْقِنُ: تھیمڑ میں خفیہ جگہ میں بیٹھ کر اداکار کو ہدایت دینے والا۔

لِكْمٌ - الْمُلَاكِمُ: باسکریٹ یا باسکریٹ بازی۔

لِمْحٌ - التَّلْمِيْحُ: کسی لفظ یا جملہ یا بیان کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا واضح طور پر کلام کرنا۔

كَانَ ذَلِكَ تَلْمِيْحًا اِلَى اَضْرَابِ الْعَمَالِ: یہ ملازمین کی ہڑتال کی طرف اشارہ ہے۔ کسی چیز کو سنانے یا سمجھانے کا بلند طریقہ جس میں صراحت تعمیر نہ ہو سہی البدیع: فوجی الکلام میں کسی قصہ یا شعر یا مشہور مثال کی طرف اشارہ کرنا ایسے لفظ کے ساتھ جس میں اس کا معمولی ذکر ہو۔ جیسے اَحْكُمُ كَحْكُمِ فَتَاةُ الْحَيِّ اِذَا نَظَرَتْ: اس عبارت میں روز قیامت کی طرف اشارہ ہے۔

لِمَسٌ - الْاِلْتِمَاسُ: درخواست۔ فرمائش۔ اِتِّجِلْ۔

الْتِمَاسُ: اِعَادَةُ النَّظَرِ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ: عدالتی فیصلہ پر نظر ثانی کرنے کی درخواست۔

لِهَبٌ - الْاِلْتِهَابُ: شعلہ پکڑنے والا۔ جلدی جلتے والا۔

الْبَتْرِيْنُ لِهْوَبٌ: پٹرول جلدی آگے پکڑنے والا ہے۔

الْلِهْوَبِيَّةُ: آگ پکڑنے کی صلاحیت۔

لِهْوَبِيَّةُ الْفَسْفُورِ: فاسفور کا جلدی آگ پکڑنا۔

لِهْوٌ - الْمَلْهَاءُ ج مَلَاهٌ: نثر یا نظم کی صورت میں مزاحیہ جگہ (تھیمڑ)

لِوَطٌ - الْاِلْوَاطُ: مذکر سے بد فعلی کرنا۔ الْاِلْوَاطِيَّةُ: بے عمل لواط۔

لِوَنٌ - الْمُلُوْنُوْنُ: کئی قوموں کے لوگ جیسے

سیاہ و سفید ہندو وغیرہ۔

اللیاقۃ: مناسب بات یا کام متعین حالات میں۔ اجماعاً ذوق۔ اجماعاً تصرف۔ من اللیاقۃ ان توحہ الیہ رسالۃ شکر: کسی کی طرف شکر یہ کا خط لکھنا اچھے ذوق سے ہے۔ اللیاقۃ:

ادب و احترام سے بھرا سلوک۔

هذا مُخْلِجٌ بِاللِّیَاقَةِ: یہ احترام والے سلوک کو خراب کرتا ہے۔

مارك- المار كسبیتۃ: کارل مارکس اور اس کے پیروکاروں کا فلسفہ اور معاشرہ میں نظریہ۔

یہ نظریہ مثالی اصول کی مخالفت کرتا ہے اور مادی بحث پر قائم ہے۔ اس نظریہ میں مادہ فکر سے نکلا ہے اور فکر ہی ترقی یافتہ محفوظ مادہ ہے۔

یہ نظریہ کیونٹ ازم کے طریقہ پر اپنے فرضی اصول وضع کرتا ہے۔

ماس- الماسوئی: ماسونی مذہب والا۔ اجتماع ماسوئی: ماسونی معاشرہ۔

الماسوئیۃ: تمام دنیا میں پھیلی ہوئی خفیہ تنظیم جو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور رموز سے تعارف کرتے ہیں۔

ان کو البناؤن الاحرار بھی کہا جاتا ہے۔ مثل- التمثیلیۃ: ڈراما۔ الممثل: کسی کی طرف سے نمائندہ۔ جماعت یا تنظیم کا

طرف سے با اختیار نمائندہ۔ ممثل دبلو ماسی: حکومت کی طرف سے

سفیر۔ ڈیپلومی نمائندہ۔ ممثلوا الامۃ: پارلیمنٹ کا ممبر۔ ممثل تجاری: تجارتی نمائندہ۔

ممثل هنلی: اداکار۔ ہیرو۔ و فی المعنی التهنکی: جو شخص اپنے باطن کا الٹ ظاہر

کرتے۔ یعنی اخلاقی ڈرامہ باز۔ یالہ من ممثل: کس قدر دھوکہ دہی کرنے

والا ہے۔ میجد- المجدلۃ: المجدلۃ کا لفظ بولنا۔

مد- الامتدادات: میدان جنگ میں فوجیوں کی ہالی جانی اور خرچہ کی امداد۔

التمذد: جسم کا بڑھنا۔ مانع جنم کا جم یا مسافت

میں پھیلنا جیسے دھواں یا گیہوں کا پھیلنا۔ کسی جسم کا حجم زیادہ ہونا گرمی کی تاثیر سے جیسے معدن کا زیادہ ہونا۔

مدح- المذح: تعریف کرنا۔ لا یؤنرفیہ المذح: اس پر تعریف اثر نہیں کرتی۔ مدح

غنائی اشعار کی غرض ہے اس کے ذریعہ سے مدوح کی ثنا کرنا۔ شکر یہ ادا کرنا۔ اس کے

احترام میں اور تعجب خیز باتیں بیان کرنا۔ مدن- المذنی: المدینۃ کی طرف منسوب

بمعنی شہری۔ النقل والمذنی شہر کی طرف منتقلی۔

المركز المذنی: شہری مرکز۔ المذنی: ہم وطن آدمی۔ ہم وطن کے ساتھ۔

المذنی: سول غیر فوجی۔ اللباس المذنی: سول لباس۔

الظیران المذنی: سول ہوا بازی۔ المذنی: لادینی۔ الزواج المذنی: لادینی

شادی۔ المذنی: عوامی القانون المذنی: عوامی قانون۔ محکمۃ

مدنیۃ: سول عدالت۔ المذنیۃ: ترقی یافتہ معاشرہ میں تہذیب و تمدن

کے مناظر۔ مر- المورود: گذرنا اور عبور کرنا۔ حق المورود: نریٹک کا قانون۔

مورود قطار: ریل گاڑی کا گذرنا۔ المورود: آہستہ آہستہ زائل ہونا۔ ختم ہونا۔

تجارۃ المورود: سامان تجارت کا ایک ملک سے دوسرے ملک بغیر محمول ادا کرنے کے

جانا۔ مورود الزمن فی القانون: قانونی طور پر مدت معینہ کے ختم ہونے کے بعد کسی کا حق یا

معاشر ختم کرنا۔ الاموران: غربت و بڑھاپا۔

مرض- التمریض: تیار داری کرنا۔ نرسنگ المورونۃ: آسانی نری، لچک۔

مرون- مورونۃ شغرة فولاد: فولاد کی چھری کا نرم ہونا۔ اس کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا

ہے جس کے اعضاء آسانی سے بے حد حرکت (لچک) پیدا کر سکتے ہیں۔ اس جسم کی صفت تبدیل ہونے کے دوبارہ پہلی حالت پر آجاتی ہے۔ جیسے مورونۃ المطاط زبردستی لچک۔

المورونۃ: حالات کے مطابق ڈھلنا۔ مورونۃ لہج: طبیعت کا ڈھل جانا۔ المورونۃ نری ہونا۔

التمرونۃ تربیت حاصل کرنے والا۔ المتمعون علی الرمی: تیر اندازی کی تربیت حاصل کرنے والا۔

وہ شخص جو کسی فن میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے لئے تربیت میں عرصہ گزارے۔

مُحَام متمعون ناہر وکیل۔ مسك- الامساکیۃ: ماہ رمضان میں روزہ

افطار کرنے اور نمازوں کے اوقات۔ مشی- المشایۃ: گھر میں عام طور پر پینے کی

سلیپر (جوٹی) مص- المصاصۃ: مشروبات (بوتل وغیرہ

میں) پینے کے لئے موم کی نالی۔ مصص- مصص: کسی کو مصصری بنانا۔ کسی پر

مصصری چھاپ لگانا۔ مصص شریکۃ: کسی کہنی کو مصصری ادارہ کے

حوالہ کر کے غیر ملکی اثر و رسوخ ختم کرنا۔ مصص الامصار: شہروں یا جگہوں کو تعمیر کرنا۔

مکن- مکن: النسی: مشین بنانا۔ والأعمال: مشینوں کو انسان کی جگہ استعمال

کرنا۔ الاماکنۃ المقدسة عند المسیحین: عیسائیوں کے نزدیک مقدس مقامات۔ ان میں

سے دو زیادہ مشہور ہیں اور شلم اور قدس شریف ہیں۔ ان کے علاوہ تم اور ناصرہ ہیں۔

الامکان: کسی کام کے کرنے کی طاقت، وسعت، قدرت۔ کسی چیز کے واقع ہونے کا

تصور۔ احتمال فی الفلسفہ: کسی امر کے وجود یا عدم وجود کا جائز ہونا۔ الامکانیات:

امکانیہ کی جمع، امکان صلاحیت۔ استطاعت۔ وہ وسائل جو کسی کے تصرف میں ہوں یا وہ

طاقتیں جن سے استفادہ کرتا ممکن ہو۔ جس چیز کا حصول ہو سکتا ہو۔ اَلْمُمْكِنُ: جس کا حصول ہو سکتا ہے۔ احتمالی چیز۔ اَلْمُمْكِنُ: جس کا حصول ہو سکتا ہے۔ دور یا قریب والی حد۔ استطاعت والی چیز۔ فی الفلسفہ: وجود یا عدم وجود کا جائز ہونا۔

ملك - اَلْمَلِكِيَّةُ: مالک ہونا یا مالک بنانا۔ کسی شخص کا کسی چیز کو استعمال کرنے اور تصرف کرنے کا اختیار ہونا۔

التملك: تاقق کسی چیز قبضہ کرنا۔ شرعی طوڑ پر کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنا۔

ملي - اَلْمَلِيْشِيَا: فوج یا پولیس کی مدد کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ فورس۔

مهن - اَلْمَهْنِي پيشہ والی التعليم المهنی: پيشہ ور تعليم جو طالب علم کو دستکاری، تجارت اور صنعت کاری کی صلاحیت دیتی ہے۔ الضمير المهنی: پيشہ کے متعلق واجبات کو ادا کرنے کا لایح 'مخت' اہتمام و انتظام۔

موج - مَوْج النيج: زرخشی کی لہریں بنانا۔ موصل - اَلْمُوْصِلِيْنَ: موصل (عراق) کا بنا ہوا شفاف پتھر۔

مول - اَلْمُوْلُ: سرمایہ لگانے والا۔ مَمُوْلُ مَشْرُوْع: منصوبہ پر سرمایہ لگانے والا۔ اَلْتَمُوِيْنَ: ضروری سامان کی سپلائی خاص کر غذاء کی۔

موان - تَمُوِيْنَ السوْق: مارکیٹ سپلائی۔ مَخْزَن التَمُوِيْنَ: سپلائی سٹور۔ اَلْتَمُوِيْنَ: لشکر، بحری بیڑے، شہر یا جگہ میں مدد پہنچانا۔

مركز التموين: سپلائی مرکز۔ اَلْتَمُوِيْنَ: بعض حالات میں عوام کے لئے ضروریات زندگی کی حفاظت کرنا۔

وزارة التموين: وزارت سپلائی وزارت خزانہ۔

تَمُوِيْن طابرة بالوقود: ہوائی جہاز میں ایجنڈہ زائد ڈالنا۔

موہ - اَلْتَمُوِيَّةُ: ملع سازی کرنا۔ کسی چیز پر

سوسنے یا چاندی کا پانی چڑھانا۔ گمراہ کرنا اور حقیقت پر پردہ ڈالنا۔

تَمُوِيَّةُ الاخير: خبریں چھپانا۔ سامان لڑائی یا فوج کو دشمن سے مختلف طریقوں سے چھپانا تاکہ اس سے اپنے کام کو مخفی رکھا جائے یا اس پر اچانک حملہ کیا جائے۔

تَمُوِيَّةُ مَدْرَعَات: جنگی جہازوں کو چھپانا۔ ميگك - اَلْمِيْكَادُو: جاپانی شہنشاہ کا لقب۔ جاپانی شہنشاہ کا محل۔

نيد - اَلْمَنِيْبُوْدُوْن: ہندوستان میں یہ لفظ ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو چار طبقات معاشرہ میں سے نہ ہوں اور معاشرہ سے الگ زندگی گذاریں۔

نبيہ - اَقْنَبِيْہ: نیند یا غفلت سے بیدار کرنا۔ ڈرانا۔

وفي الادارة: ادب و احترام سکھانے والی سزا۔

والتبنيہ في قانون السير: بلند آواز ہارن بجا کر راستہ دینے کے متعلق آگاہ کرنا۔ محویوں کے نزدیک حروف تشبیہ یہ ہیں۔

اما' الا اورھا۔ اما اور الا جملہ پر داخل ہوتے ہیں۔

اورھا: اسم اشارہ پر داخل ہوتا ہے جیسے ہذا اور ضمیر مرفوع محضل پر جیسے ہا اَنْتُمْ اور اَنْتِ پر۔ منادی میں جیسے "اَيْهَا الرَّجُلُ الْمُنِيَّةُ" ڈرانے اور خوفزدہ کرنے والا۔ خطرہ کی طرف توجہ دلانے والا۔

اَلْمُنِيَّةُ: جسم کو چست و جلاک کرنے والا کھانا پینا جیسے قہوہ یا کولا۔ الارن گھڑی۔

نتيج - اَلْاِنْتَاْجُ: نلہ دینا۔ معاشی دولت کی پیداوار پیدا کرنا۔ پیداوار کی ہوئی۔ محصول صنعت کاری سے پیداوار۔ و فی الاقتصاد:

صنعت زراعت اور تجارت وغیرہ سے آمدن حاصل کرنا۔ و فی السینما: سینما کے اندر کاموں پر سرمایہ لگانا۔ اور اس کی نگرانی کے لئے کام کرنا۔ بذات خود قلم۔

مجازاً: تالیف۔

اَلاِنْتَاْجُ اَلْاَدَبِي: ادبی تالیف۔ اَلْمُنْتَجُ: پیداوار دینے والا۔ منافع دینے والا۔

فی السینما: فلم میں سرمایہ لگانے والا اور اس کی تحقیق پر نگرانی کرنے والا (پروڈیوسر)

نجل - اَلْمُنْتَجَلَةُ ج مَنَاجِلُ: کمپاس۔ سروطا: (ایک آلہ جس کے دو جڑے ہوتے ہیں ایک متحرک دوسرا غیر متحرک شکل اور کنگ کے کام آتا ہے اس کو ہانک بھی کہا جاتا ہے۔

نخت - اَلْمُنْتَحَتْ ج مَنَاحِتُ: سنگ تراشی کرنے والا۔ آرٹسٹ۔

نحس - اَلْتَنْخِيْسُ: معدنی چادر چڑھانا۔ تانے کو قلعی کرنا۔

نحل - اَلنَّحَالَةُ: شہد کی کھیاں پالنا۔ اَلنَّحَالُ: کھیاں پالنے والا۔

نخب - اَلْاِنْتِخَابُ: پسند کرنا۔ انتخاب تلامذہ۔ لِمُبَارَاةٍ: گیم کے لئے طلباء کو چننا۔

دو ننگ کے ذریعے سے کسی جماعت کا اپنے نمائندے چننا۔ فی - اَلسِّيَاسَةُ: عوامی نمائندوں اور سربراہوں کو دو ننگ کے ذریعے منتخب کرنا۔ بذات خود دو ننگ۔

اَلاِنْتِخَابُ الطَّبْعِي فِي عِلْمِ اَلْاِحْيَاءُ: جانوروں کے متعلق ڈارون کا نظریہ کہ جانوروں اور نباتات کی اقسام نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس واسطے کہ ان میں ماحول کے مطابق

فٹ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جانوروں اور نباتات میں اعلیٰ مذکر و مؤنث کا انتخاب کر کے اعلیٰ قسم کی نسل تیار کریں۔

ندب - اَلنَّادِبَةُ: میت پر نوحہ کرنے والی پیشہ کے طور پر۔ اَلاِنْتِذَابُ: عارضی طور پر حکومت قائم کرنے کا اختیار۔ وہ نظام جس کو اقوام متحدہ نے ان ممالک پر جاری کیا جو ترکی

خلافت اور جرمنی سے چھین لئے گئے۔ اول عالمی جنگ کے بعد اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک ان ممالک کی ترقی میں مدد کریں گے۔ اور آزادی کے لئے باہم مدد ملے گی۔ ان ممالک کو عارضی طور پر اقوام متحدہ کے

کریں۔ وہ شرب کے باشندے جنہوں نے حضرت نبی محمد ﷺ کی ہجرت کے بعد مدد کی۔ اس کا الٹ مہاجرین ہے۔

نضد - المُنْضَدُّ کبیر۔

نطح - نَاطِحَةُ السَّحَابِ بلند و بالا عمارت جس کی عام طور پر دس منزلیں ہوتی ہیں۔

المستنطق وہ قاضی جو لزم حضرات کو طلب کرے اور گواہوں سے گواہی طلب کرے اور دلائل شہادت مرتب کرے۔

نظر - المُنَاطَرَةُ انشاء پر دمازی کا ایک فن جس میں دو مخالف ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ جیسے جاظح کا "مُنَاطَرَةُ الرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ" عوام الناس کے سامنے ادبی، سیاسی اور علمی وغیرہ موضوع پر دو شخصوں کا باہمی مباحثہ۔

نظف - التَّنْظِيفُ آراستگی کپڑوں کو صاف کرنا اور ڈرائی کرنا۔ مصلحة التَّنْظِيفَاتِ: کارپوریشن کی طرف صفائی کا اہتمام۔

نفت - النِّفَاتِ - مُحْرَكُ نِفَاتِ كَهْلِي كِي ریس تیز کر کے دھواں نکالنے والا تاکہ گاڑی آگے چلے۔

طائرة نفازة دھواں چھوڑنے والا طیارہ۔

نفذ - النُّفُذُ کسی چیز میں داخل ہونا۔ دوسرے پر اثر ڈالنا اور حکومت کرنا۔ دوسروں سے اپنی رائے منوانا۔ کسی بڑے ملک کا چھوٹے ممالک پر غلبہ یا اثر ہونا۔

مناطق النفوذ: بڑی طاقت کے زیر اثر ممالک۔ الانتفاضة: کچی۔

نفض - انتفاضة: بود: بھندک سے کچی۔ انتفاضة: حمی بخار کی کچی۔ سیاسی یا اجتماعی تحریک جس میں تیزی سے قوت اور بے چینی ہوتی ہے۔

انتفاضة الشعب: عوامی تحریک یا عوامی بے چینی۔

نفق - الانفاق: خرچ کرنا۔ وہ کام جس پر ملک کا سرمایہ خرچ ہو۔

خرق الانفاق: خرچ کرنے کے راستے۔

دوسری حرکت کی جگہ بعد والے حرف کی موافقت کے لئے جیسے کتابتے کتابی نیاء کی مناسبت کی خاطر (ب) پر ضمہ کے بجائے کسرہ دینا۔ المناسبات اجتماعات، عرس، تہنم اور جیسے۔ ادب المناسبات: جو خطبات و قصائد مناسبات پر مبارکباد کے لئے مدح کے لیے اور تعزیت کے لئے پیش کیے جاتے ہیں۔

نسق - التنسيق: ترتیب کاموں کو منظم کرنا کسی ادارے یا کارخانے میں ایسے طریقے پر جس سے کام اچھا ہو اور کام کرنے والوں میں اتفاق ہو۔

التنسيق في البديع مدح یا ذم میں ایک سیاق میں پے در پے بغیر حرف عطف کے صفات ذکر کرنا۔

جیسے وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لَمَّا يَرِيدُ: هُوَ الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ الْعَلِينُ السَّارِقُ

نشأ - النشوء: ابتدا ہونا، وجود میں آنا۔ ابتدا و ارتقاء کا نظریہ۔

الإنشاء: پیدا کرنا۔ تائیس - ایجاد - انشاء نگاری۔

فن کتابت - مقالہ نویسی۔ وہ علم جس کے ساتھ معانی استنباط کرنے اور ان کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ حال کے مطابق بولنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

فی علم الادب: وہ کلام جو چھاپا جھوٹا ہونے کا احتمال نہ رکھتی ہو۔ جیسے رَحِمَهُ اللَّهُ: اس کا الٹ خبر ہے۔ المُنْشَى: وہ کاتب جو اچھے معانی کا انتخاب کر کے فصیح و بلیغ کلام تحریر کرے۔

الْمُنْشَأَةُ: فرم: سطور۔ الناشر: کتابیں نشر کرنے والا اور فروخت کرنے والا۔

نشف - النشاف: سیاہی چوس۔

نصب - التَّنْصِيبُ پانچ من: تَنْصِيبُ الْمَلِكِ نَادِي شَاهِ مَقْرَرٌ هُوَا۔

نصر - الانصار: مددگار اس کا مفرد نصير ہے۔ غیر مقرر لشکر جو کہ جماعتوں کی مدد

زیر نگرانی ان ممالک کو عارضی طور پر رکھا جائے گا۔

الْمُنْدُوبُ اہم کام کرنے کے لئے نمائندہ جیسے خط لانے والا یا نمائندہ اخبار۔

نذر - الإنداز: ذرا۔ کسی شخص یا جماعت کو طاقت کے استعمال سے پہلے احکام کو ماننے کی دعوت۔ عوام کو بھگینے کے لئے ڈرانا۔

وفی القانون احکام کو نہ ماننے کی صورت میں عدالتی کارروائیوں کے واقع ہونے سے آگاہ کرنا۔

جیسے اجر کا مزدور کو وارننگ دینا۔

الانذار التہائی فی السیاسة کسی ملک کو جنگ سے آخری وارننگ دینا۔

نرجس - النرجسية: اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اس میں مبتلا ہونا۔ جہمی شد و ذہ جس میں اپنے آپ سے ہی محبت کرنا۔

نورف - النرفانا فی البوذية: گو تم بدھ نظریہ میں: انسان کا دنیا کے کاموں سے عقلی و شعوری طور پر آزاد ہونا اور روحانی کاموں میں لگے رہنا۔

نزع - التنازع: باہم □ تانی۔ آپس میں جھگڑا اور اختلاف۔ فی القانون: وعدہ التوتوں کا کسی معاملہ میں حق داری پر اختلاف کرنا۔ دو ملکوں کا حقوق و فوائد۔

معجاز: آراء، مصالح اور جذبات میں جھگڑا کرنا۔

فی النحو: نو یا زیادہ عاملوں کا ایک معمول میں مشترک ہونا۔ تنازع البقاء: مختلف جانوروں نباتات میں وجود بقاء کا جھگڑا۔ لیکن داروں کے نظریہ میں غلبہ افضل کو ہوتا ہے۔

نسب - علم الانساب: خاندانوں اور قبائل کا علم جس کے ساتھ فروغ نسل کو اصول کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔

نسب کے مشہور علماء ابن الکھی، ابن تیمیہ، ابو حمزہ الاصہبانی اور ابو الفتح اشہرستانی ہیں۔

المناسبة: موافقت، تعلق، موقع، تقریب۔

حرکة المناسبة فی النحو: ایک حرکت

پھوں کا تخت ہونا۔ ثمن۔ تَوَزَّرَ الدَّهْنُ: ذہن کا سچاؤ۔ ایک چیز یا موضوع کے متعلق سوچ۔ تَوَزَّرَ العلاقات بعلقات کشیدہ ہونا۔ فی المیکانیک: دو طرفوں سے باندھے ہوئے جسم کی بد حالی والی تاثیر۔

وثن۔ اَلْوَيْثَةُ ہٹوں کی پوجا کرنا۔ وجب۔ اَلْإِيْحَابُ: فرض کرنا۔ لازم کرنا۔ تاکید اور اثبات۔

اَلْإِيْحَابُ لازم کام۔ تاکید کی کام۔ اَلْحِيَادُ اَلْإِيْحَابُ مثبت نا اہستگی۔

وجز۔ اَلْإِيْحَابُ: مختصر کلام کرنا۔ کم الفاظ زیادہ معانی والی کلام ہونا۔ اس کے مقابلہ میں الاطباب ہے۔

وجه۔ اَلتَّوْجِيْهِةُ: بعض عرب ممالک میں ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سند۔

وحد۔ اَلْوَأْحِدِيَّةُ: وہ فلسفی مذہب جو جہاں کی پیدائش کا ذریعہ ایک ہی چیز کو قرار دیتے ہیں۔ جیسے مادہ یا روح یا عقل۔

اَلْمُوْحَدَّةُ: شام میں ثانوی تعلیم کی سند۔

ودع۔ اَلْإِيْدَاعُ: برقم جمع کرنا۔ امانت رکھنا۔ فی التَّجَارَةِ: در آمد شدہ۔ سامان محکمہ کے سنور میں جمع کرنا۔ کسی شخص یا کھنی کی طرف سے سامان فروخت کرنے کے لئے نمائش لگانا۔

فی القانون الممدنی جب قرض خواہ قرض قبول کرنے سے کسی وجہ سے انکار ہو تو مقروض کی طرف سے محکمہ یا ادارہ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنا۔

فی قانون اَلْإِيْحَابَاتِ: اجر محکمہ یا ادارہ ڈاک میں رقم مردود کے واسطے جمع کرادے جب وہ وصول کرنے سے انکاری ہو۔

فی اَلْإِيْدَارَةِ: افراد کی طرف سے بطور ضمانت ادارہ میں رقم جمع کرنا تاکہ ان کے ذمہ کام جاری کیا جاسکے۔

اِيْدَاعُ الْمُعَامَلَةِ: دائرہ کذا: معاملہ کو فلاں طبقہ میں پہچانا۔ اور اس کو رجسٹر کرنا۔ اَلْإِسْتِيْدَاعُ: سامان کو عارضی طرز پر سنور میں

رکھنا۔ کسی ادارہ کی طرف سے اپنے ملازم کی ملازمت کو وقت کے اندر کی کرنا۔ افسر کی ملازمت کو وقت سے پہلے واپس لینا۔

ورد۔ اَلتَّوْأَرُذُ: ایک دوسرے کے بعد حاضر ہونا۔

تَوَازَرُذُ: اَلْأَفْكَارُ: وَ تَدَاعِيْهَا: اَلْأَفْكَارُ وَ تَقْوِصَاتِهَا: کا ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے کو دعوت دینا۔

ورن۔ اَلْوَرْنِيْشُ: ورنش تیل کی ایک قسم جو چیزوں کو ہوا کی تاثیر سے محفوظ رکھتی ہے۔

وزع۔ اَلتَّوْزِيْعُ: تقسیم کرنا۔ ہر شخص کو اس کا حصہ دینا۔ مختلف منافع مختلف مقامات پر دینا۔

پیداوار کنندہ کی طرف سے بالواسطہ صارف کو یا تاجر کو پہچانا۔ جیسے فلموں کی تقسیم۔

تَوْزِيْعُ اَلْبَرِيْدِ: محکمہ ڈاک کی طرف سے بذریعہ ڈاک یا تقسیم کرنا۔ توزیع الجوائز: مستحق حضرات کو انعامات دینا۔

توزیع اَلْمَنْشُورَاتِ: طبع شدہ کتابیں تقسیم کرنا۔

اَلْمُوْزُوعُ: تقسیم کنندہ جیسے اخبار تقسیم کرنے والا۔ ڈاک تقسیم کرنے والا۔

وزن۔ اَلتَّوْأَرُذُ: جسم کا سیدھا ستون کی طرح کھڑا ہونا۔ طاقتور جسم کی تاثیر میں آکر کسی جسم کا پر سکون حالت میں ہونا۔ جیسے کتب کے ڈھیر کا توازن۔

مَمَّازَجٌ: مخالف فریقوں کا موافق ہو کر ملکی ماحول کو پر امن بنانا۔ مختلف محکموں اور اداروں میں ان کے حقوق و فرائض مقرر کرنا جن کی

وجہ سے وہ ایک دوسرے کی حدود سے باہر نہ ہوں۔ جیسے مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان توازن۔

تَوَازُنُ اَلْجِيْزَانِيَّةِ: بجٹ میں توازن۔ یعنی آمدن و خرچ میں مساوات ہو۔

اَلتَّوْأَرُذُ: اَلْإِقْتِسَادِيَّةُ: چیزوں کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لئے ان کی کئی بیشی کے سبب کو درست رکھنا اور ان پر کنٹرول کرنا۔

اَلتَّوْأَرُذُ: جسم میں توازن ہونا۔ طاقتور جسم کی

تاثیر میں آکر پر سکون ہونا۔ مجازاً: خبرچر میں درمیان پہلنا۔ عقلی ملکات میں موافقت ہونا۔

اَلْمُوَازَنَةُ: وزن میں برابری۔ و فی النقد اَلْأَدْبِيّ: دو ادیبوں کے درمیان تنقیدی مقابلہ۔ جیسے ابی تمام اور ابی نضر کی درمیان موازنہ۔

موازنة سَعْرِ الصَّرْفِ فِي اَلْاِقْتِسَادِ: بیٹکوں کا غیر ملکی کرنسی خرید و فروخت کرنا۔

اَلْمِيْزَانِيَّةُ: سالانہ آمدن و خرچ کا رجسٹر۔ سالانہ بجٹ۔

وسع۔ اَلْمُوْسُوْعَةُ: دائرہ المعارف۔ (انسائیکلو پیڈیا)

اَلْمُوْسُوْعِيُّ: موسوعہ کے متعلق۔ تمام معارف کو شامل۔ قَامُوشٌ مُوسُوْعِيٌّ: موسوعہ کے متعلق۔ تمام معارف والی کو شامل لغت۔

اَلْمُوْسُوْعِيُّونَ: موسوعہ کے مؤلف۔ وہ شخص جس کی معلومات انسائیکلو پیڈیا جیسی ہوں جیسے جاظ۔

وسق۔ اَلْإِتْسَافُ: یکجہتی۔ یکسانیت۔ فی البلاغۃ: الفاظ و معانی کا مناسب ہونا۔

وصف۔ اَلْوُصْفُ: کسی شخص یا چیز کی صفات کا ذکر کرنا۔ کسی چیز کی تصویر و منظر کشی مختصر طور پر تحریر یا تقریری انداز میں بیان کرنا۔

اَلْوُصْفُ فِي اَلْأَدْبِ: ادبی، شعری اور نثری فن جو طبیعت کو نقل کرے اور اس کی منظر کشی کرے جیسا کہ ادیب اپنے حواس کے اندر آنے والی چیزوں کو اپنی قلم و زبان سے تعبیر کرتا ہے۔

اَلْوُصْفَةُ: ڈاکٹر یا طبیب کا تجویز کردہ نسخہ۔ وہ کاغذ جس پر نسخہ جات لکھے جاتے ہیں۔

وصل۔ اَلْإِيْصَالُ: وصولی رسید۔ لَدَيْ اَلْإِيْصَالِ: میرے پاس تیری طرف سے وصولی رسید ہے۔

اَلْمُوْصَلَاتُ: بری بحری فضائی، بجلی اور ٹیلی فون کے ساتھ ذرائع رابطہ۔

اَلْمُوْصَلُجُ: مُوْصَلَاتُ: بجلی لہریا حرارت کو منتقل کرنے والا جسم۔

وضع- اَلْوَضْعِيَّةُ او المذهب الوضعي:
وہ مذہب جو داعی کو اس بات کی طرف لگتا ہے
کہ معرفت کو واقعت اور تجربہ علیہ پر قائم کیا
جائے نہ کہ اشیاء کے جوہر پر۔
اَلْمَوْضُوعِيَّةُ: اصول پسندی
اَلْمَوْضُوعِيَّةُ فِي الْفَلْسَفَةِ: وہ مذہب فلسفی
جو کہ حقیقت موضوعیہ کے متعلق بات
کرتا ہے۔
وَطَا- اَلتَّوَطُّنَةُ فِي الشُّعْرِ: تافہ کو لفظ اور
معنی دہرائی اَللشاعو التالیف: مقالہ یا
کتاب لکھنے میں مشغول ہونا۔
وَطَن- اَلْوَطْنِي: وطن والا۔ اَلنَّشِيدُ
اَلْوَطْنِي: وطن کا ترانہ وطن کی محبت کی بات
کرنے والا۔ جو پورے وطن کی بات کرے
مخصوص علاقہ کی بات نہ کرے۔
اَلتَّرْبِيَّةُ اَلْوَطْنِيَّةُ: وطن دہائی تربیت۔
اَلْوَطْنِيَّةُ: وطن کی محبت اور اس کے متعلق
جان نثاری۔
اَلْمُوَاطِنِيَّةُ: مواطن کی صفت۔
وِظْف- تَوَظَّف: کسی حکومتی یا ذاتی ادارے
میں ملازمت کرنا۔ اَلْمُوَظَّف: کسی ادارے یا کمپنی
وغیرہ میں ملازم۔
وَفَق- اَلْاِتِّفَاقُ: افکار و نظریات و رغبات میں
یکجہتی کسی امر پر افراد کی مخالفت ہونا۔ آرام اور
مقاصد تک پہنچنا۔
اَلْاِتِّفَاقُ عَلٰی بَرْنَامَجٍ اَوْ حُطْبَةٍ: کسی ایجنڈا یا

سکیم پر اتفاق اَلْاِتِّفَاقُ: کسی چیز کا ایک پیش
آنا۔ دو یا دو سے زیادہ ممالک کا کسی مسئلہ پر
مجاہدہ۔
اَلْاِتِّفَاقِيَّةُ: دو یا دو سے زیادہ ملکوں کا بعض
کاموں (تجارت ڈاک وغیرہ)
اِتِّفَاقِيَّةُ الْعَمَلِ: ایک دوسرے کے افراد کو
کام کرنے کی تربیت کرنا۔
اَلتَّوَافِقُ: افکار، رغبات، طبائع اور میلان کا
موافق ہونا۔ فِی اَلْمُوسِيقِي: موسیقی کا
نغموں کے مطابق ہونا۔
فِی عِلْمِ اَلنَّفْسِ: وہ حالت جو شخص سے
تقاضی کرتی ہے کہ وہ اپنی عادات و خیالات کو
بدل دے۔
وَقْت- اَلتَّوَقِيْتُ: وقت متعین کرنا۔
اوقات کی تعین کرنا۔ سورج کے گرد زمین کو
گردش کا لحاظ کرتے ہوئے اوقات متعین کرنا
جو کہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں۔
وَفِی اَلنَّحْوِ: وہ تابع جو متبوع کے ثبوت کو
پختہ کرنے کے لئے لایا جاتا ہے جیسے صَوْرَتُ
اَلْمَالِ مُكَلَّمَةُ:
وَلِي- اَلْمُؤَالَاةُ: کسی کا ساتھ دینا۔ مدد کرنا۔
فِی اَلسِّيَاسَةِ: حکومت کی تائید کرنا۔
وَهَم- اَلتَّوَهُمُ: کسی کام کا خیال۔ غلط عقیدہ۔
بلا دلیل۔ عجیب و غریب سوچ جس کا خارج میں
وجود نہ ہو۔
وَيْس- اَلْوَيْسِيَّةُ: مذہب بنائی گئی مشروب۔

باق- اَلْبَاقِيَّةُ: تو خوشہ گچھا۔
يَيْس- اَلْيَيْسِيَّةُ: بر زمین اس کے مقابلہ میں
پانی اور بحر (سندر) ہیں۔
يَيْسُو- اَلْيَيْسَارِي: جانب۔ بائیں طرف۔ فِی
اَلسِّيَاسَةِ: بلیاں گروپ جو لوگ ترقی یافتہ افکار
کا پرچار کریں حقیقت حال کا خیال کیے بغیر
معاشرہ میں تبدیلی کی دعوت دیتے ہیں۔
يَيْسُو- يَنْبِيئُو: جنوری کانون ثانی کا نام بعض عرب
ممالک میں۔
يُوب- اَلْيُوبِيَّةُ: ہر پچاس سال بعد یہودیوں
کا بڑا مذہبی اجتماع اس وقت میں قرضوں سے
بری ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ غلام حضرات کو
آزاد کرنا ہوتا تھا۔
عند اَلکَاتُولِيكُ: پوپ کی طرف سے لوگوں
کو معافی و بخشش جو کہ بڑے جلسوں میں ہوتی
تھی۔ کسی واقعہ کا ذکر واقعات میں سے جیسے
شادی اور پیشہ کا تجربہ۔ اس کی کئی اقسام
اَلْفَضِي (چاند والی) (۲۵ سال) اَلذَّهَبِي:
سونے والا۔ ۵۰ سال۔
اَلْاَلْمَاسِي: (کانسی)
يُوس- اَلْيُوسُفِي اَلْيُوسُفِ اَلهِنْدِي: ہانڈا
کی قسم سے ایک پھل دار درخت۔ یوسف
آفندی کے نام سے مشہور ہے۔
يُول- يُولِيُو: جولائی۔

عربی کی ضرب الامثال

- گا۔
- یہ مثل ہر صورت میں قطع تعلق والوں کے لئے ہے۔
- لَا اتِيكَ سِنَّ الْحَسَلِ:
- گوہ کے دانت ٹوٹنے تک تیرے پاس نہ آؤں گا۔
- یعنی میرے آنے کی توقع نہ رکھنا۔
- كَلُّ ابْتِ قَرِيبٍ:
- ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔
- یعنی کسی آنے والی چیز کو دور نہ سمجھا جائے۔
- ذَاكَ اَحَدُ الْاَحْدَيْنِ:
- یہ دو منفرد میں سے ایک ہے۔
- یعنی بے نظیر شخص ہے۔
- اَخَذَهُ بِرُمْتِهِ:
- اس کو اس نے رومی سمیت لے لیا۔
- یعنی اصل کے ساتھ متعلقہ چیزیں بھی مفت مل جاتا۔
- قَدْ يُوْخَذُ الْجَارُ بِذَنْبِ الْجَارِ:
- کبھی پڑوسی کے جرم میں پڑوسی گرفتار ہو جاتا ہے۔
- خُذْ مِنَ الرَّصْفَةِ مَا عَلَيْهَا:
- چتر پر جو لگا ہے لے لو۔ یعنی کتھوس سے جو مل جائے غنیمت سمجھو۔
- خُذِ الْاَمْرَ بِقَوَائِمِهِ:
- معاملہ کو اس کی پیش آمدہ چیزوں میں لو۔
- یعنی کسی چیز کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو۔
- خُذْ مِنَ الدَّهْرِ مَا صَفَى وَ مِنَ الْعَيْشِ مَا كَفَى:
- زمانہ سے صاف ستھری چیز لو اور روزی کفایت والی لو۔
- خُذْ مَا طَفَّ لَكَ:
- قریب والی چیز کو پکڑو۔
- لَا تُوْخَرْ عَمَلُ الْيَوْمِ لِعَمَلِ:
- آج کے کام کل تک مت لیت کرو۔
- آخِرُ الدَّاءِ الْاَلْكِيُّ:

- اِبْلَى لَمْ اَبِعْ وَ لَمْ اَهْب:
- میں نے اپنا اونٹ نہ فروخت کیا نہ تھمہ میں دیا۔
- نہ حق جھگڑا کرنے والے ظالم سے یہ مثل بنائی گئی ہے۔
- يَا اِبْلَى عُوْدِي الْي مَبَارِك:
- اے میرے اونٹ اپنے جگہ واپس لوٹ جا۔
- یہ مثل اس شخص کے لئے ہے جو نفع مند کام چھوڑ کر جانا چاہے۔
- اَتَى عَلَيْهِمْ ذُوْا اَتَى:
- ان پر اسی طرح مصیبت آئی جیسا کہ آیا کرتی ہے۔
- یعنی انسانوں پر ملی جلی تکالیف آتی رہتی ہیں۔
- اَتَاكَ رِيَانٌ بَلْبِيَه:
- دودھ سے پیراب ہو کر تیرے پاس لایا۔
- یعنی بچا کھچا کھانا پینا تھمہ نہیں ہو کرتا۔
- اَتَتْكَ بِخَانِيْنَ رَجُلَاَه:
- خان کے قدموں نے اس کو تیرے پاس حاضر کر دیا۔
- یعنی انسان کی غلطی اس کو برا انجام دکھا دیتی ہے۔
- اَتَتْكُمْ قَالِيَه الْاَفَاعِي:
- تمہارے پاس سانپوں کا کیرا آچکا ہے۔
- یعنی بڑی مصیبت کی انتظار کے لئے چھوٹی مصیبت آنا۔
- يَا تَيْبِكَ كَلُّ غَدٍ بَمَا فِيه:
- کل آئندہ تیرے پاس اپنے اندر والا لائے گی۔
- یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نفع یا نقصان آتا ہی ہے۔
- وَ يَا تَيْبِكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُوْزِد:
- اور تیرے پاس وہ خبریں لائے گا جس کو تو نے راہ خرچ نہیں دیا۔
- یعنی توقع کے بغیر معلومات آجاتی ہیں۔
- لَا اتِيكَ حَتَّى يَتُوْبَ الْقَارِضَان:
- بچوں کو توڑنے والا دودھ آدمیوں کے آنے تک میں تیرے پاس نہیں آؤں

ہے۔

مرض کا آخری علاج داغ دینا ہے۔
یعنی اگر کسی کو داغ دینے سے فائدہ نہ ہو تو موت آچکی ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ لِلْحَوَارِ الْكُرْبُمِ مَنَادِحُ:
زمین میں ان لوگوں کی عزت دار کے لئے ذرائع آمدن بہت ہیں۔

آخِ الْأَكْفَاءِ وَذَاهِنِ الْأَعْدَاءِ:
ساتھیوں کا بھائی بنو اور دشمنوں سے ظاہری اطلاق پیش کرو۔

لَا أَصِلُ لَهُ وَلَا فَضْلُ:
اس کے پاس نہ تو خاندانی عزت ہے اور نہ حسن کلام۔
اصل کا اطلاق حسب و نسبت پر ہوتا ہے۔ اور فصل کا قوت زبان پر۔

أَخْوَلُكَ أَمِ الدُّنْبُ:
وہ تیرا بھائی ہے یا بھیڑیا۔
یعنی تیرا خیر خواہ ہے یا بھوکے بھیڑیے کی طرح ظلم کرتا ہے۔

الْأَصِيلُ يَجُودُ:
حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا: باعزت انسان ہی اپنی جان و مال قربان کرتا ہے۔

أَخْوَلُكَ مِنْ صِدْقِكَ:
تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے خالص محبت کرے۔

الْأَصِيلُ يَعْمَلُ بِأَصْلِهِ:
شریف انفس انسان اپنی خرافت کے مطابق کام کرتا ہے۔

أَخْوَلُكَ مِنْ وَاسِكَ بِنْتِ لَامٍ وَاسِكَ بِنَسَبِ:
تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے ماں کے ساتھ ہمردی کرے اور قربات داری کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ یعنی مالی تعاون کرنا بھائی چارہ ہے اور قربت کا ذکر کرنا دوسرے بھائی کے لئے سود مند نہیں۔

أَقْفَةُ الْعِلْمِ النَّسِيَانُ:
بھول جانا علم پر آفت ہے۔

إِنَّ أَخَا الْهَيْبِ جَاءَ مَنْ يَسْمَعُ مَعَكَ:
بیشک لڑائی والا وہ ہے جو تیرے ساتھ مل کر دوڑے۔

أَكَلُ عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَ شَرِبَ:
زمانے نے اس پر کھایا ہے۔
یعنی لمبی عمر یا عمر رسیدہ نے دنیا میں سب کچھ دیکھ لیا۔

إِنَّ أَخَاكَ مِنْ أَسَاكَ:
تیرا بھائی وہ ہے جو تیری مدد کرے۔

أَكَلْتُمْ تَمْرِي وَرَعَصْتُمْ أَمْرِي:
تم نے میری بھجوریں کھائیں اور میری ہی نافرمانی کی۔
یہ مثل بے قدرے انسان کے لئے ہے۔

لَا خِيَلِكَ عَلَيْكَ مِثْلَ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ:
تیرے بھائی کا تجھ پر اسی طرح حق ہے جس طرح تیرا اس پر۔

أَكَلُ لَحْمِي وَلَا أَدْعُهُ لِأَكْلِ:
میں اپنا گوشت خود کھاؤں اور دوسرے کھانے والے کے لئے نہ چھوڑوں گا۔ یہ مثل اپنا فائدہ سوچنے والے کے لئے ہے۔

رُبَّ أَخٍ لَمْ تَلِدْهُ وَالِدَةٌ:
کئی بھائی ایسے جو ماں نے جنم نہیں۔
سچے دوست کے لئے مثل ہے جو حقیقی بھائی سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔

يَأْكُلُ التَّمْرَ وَالرَّجْمَ بِالتَّمْرِ:
مکھجوریں وہ کھاتا ہے اور پتھریاں مجھے ماری جارہی ہیں یہ مثل اس پر ہے جو نفع خود لے اور بلو جھ دوسرے پر ڈالے۔

أَذَبَ الْمَرْءُ خَيْرٌ مِنْ ذَهَبٍ:
آدمی کا علم اس کو اس کے سونے سے زیادہ سود مند ہوتا ہے۔

يَأْكُلُنِي نَسْعٌ وَلَا يَأْكُلُنِي كَلْبٌ:
مجھے ایک درندہ کھاتا ہے کتا نہیں کھاتا۔

الْأَذَبُ مَالٌ وَاسْتِعْمَالُهُ كَمَالٌ:
علم ایک دولت ہے اور اس سے کام لینے میں کمال ہے۔

يَأْكُلُهُمْ بَعْضُ سٍ وَ يَنْظُوهُ بَظْلَفٍ:
ان کو داڑھیوں سے کھاتا ہے اور سمن سے روٹتا ہے۔
محسن کے ساتھ برائی سے پیش آنے پر مثل ہے۔

نِعْمَ الْمَوْدُ ذُبُ الدَّهْرِ:
زمانہ سب سے اچھا لوب کھانے والا ہے۔

يَأْكُلُ بِالضَّرْسِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْهُنَّ:
وہ اس ڈاڑھ کے ساتھ کھاتا ہے جو اسے پیدا نہیں ہوئی۔
بغیر نیکی تعریف سننے والے پر مثل ہے۔

مَارَاتِنَةُ لِأَحْفَاوَةِ:
کام کی وجہ سے عزت ہے نہ کہ پیار کی وجہ سے۔

غَيْرِي يَأْكُلُ الدَّجَاحَ وَ أَنَا أَقْفُ فَمِ السَّجَاحِ:
دوسرے مرغیاں کھاتے رہیں اور میں جھالکی میں پڑا ہوں۔

لِلْأَرْضِ الْوَاطِنَةُ تَشْرَبُ مَاءَهَا وَ مَاءَ غَيْرِهَا:
زمین کی زمین اپنے حصہ کا پانی اور غیر کے حصہ کا پانی جذب کر جاتی ہے۔

بِالْأَرْضِ وَ لَدُنْكَ أُمَّكَ:
زمین پر ہی مجھ کو میری ماں نے جتا ہے۔
یہ مثل غرور سے روکنے اور درمیان روی اختیار کرنے کے لئے ہے۔

أَكَلُ وَحَمْدُ خَيْرٌ مِنْ أَكْلِ وَصَمْتٍ:
کھانا اور تعریف کرنا کھانے اور خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ محسن کی۔

لِلْأَرْضِ مِنَ الْكِرَامِ نَصِيبٌ:
سختاوت کرنے والوں کی طرف سے ان کے پیالے میں زمین حصہ لیتی

- تعریف پر رغبت دینا مقصود ہے۔
- اَكْلًا وَ دَمًا:
- کھانا اور دم مت کرنا۔ یہ اس پر مثل ہے جو نفع اٹھائے اور اس کو برابر بولے۔
- رَبُّ اَكْلَةٍ تَمْتَعُ مِنَ اَكْلَاتٍ:
- کبھی ایک لقمہ کئی لقموں سے روک دیتا ہے۔ یعنی غلط لقمہ بے پیار ہو کر کھانے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔
- اَكْلٌ مِنْ خُبُوتٍ:
- مچھلی سے زیادہ خوراک والا۔
- اَكْلٌ مِنَ الرَّجْحَى:
- چکی سے زیادہ کھانے والا۔
- اَكْلٌ مِنَ السُّوسِ:
- گھن سے زیادہ کھانے والا۔
- اَكْلٌ مِنْ ضُرْسٍ:
- داڑھ سے بھی زیادہ کھانے والا۔
- اَكْلٌ مِنَ النَّارِ:
- آگ سے بھی زیادہ کھانے والا۔
- حَتَّى يُولَفَ بَيْنَ الضَّبِّ وَالنُّونِ:
- یہاں تک کہ گوہ اور مچھلی اکٹھی ہو جائیں۔
- دونوں متضاد الطبع ہیں ایک پالی سے گریز کرے اور دوسری (مچھلی) پانی میں زندہ رہے۔
- اَلْفٌ مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ:
- مکہ کے کبوتر سے زیادہ مانوس۔ مکہ میں پرندوں کا شکار حرام ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کے قریب ہے۔
- اَلْفٌ مِنَ الْحُمَى:
- بخار سے زیادہ مانوس۔
- کچھ وقفہ کے بعد بھی بخار لوٹ آتا ہے۔
- اَلْفٌ مِنْ كَلْبٍ:
- کتے سے زیادہ مانوس۔
- کتا اپنے وطن کو ترک کر کے مالک کے ساتھ جاتا ہے۔
- اُمُّ فَرَشْتٍ فَاَنَامَتْ:
- ماں نے بستر بچھا اور سلا دیا۔
- ماں کی طرح مشفق سربراہ کی تعریف میں مثل ہے۔
- اُمُّ الْاِخْرَسِ تَعْرِفُ بِلُغَاتِ الْخُرَّسَانِ:
- گونگے کی ماں گونگے کی رمز جانتی ہے۔
- اُمُّ سَقْنَتِكَ الْعَيْلِ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ:
- ماں نے تجھے حمل کا دودھ بغیر حمل کے پلایا۔
- اس پر مثل ہے جو پہلے کسی کو مقرب بنا لے پھر بغیر وجہ کے نکال دے۔
- اِلَى اُمِّهِ يَلْتَهِفُ اللَّهْفَانُ:
- مصیبت زدہ اپنی ماں سے التجا کرتا ہے۔
- اَلْاَمْرُ بِعُرْضِ دُوْنِهِ الْاَمْرُ:
- ایک کام کے سامنے دوسرا کام روک دیتا ہے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- یعنی انسانی زندگی میں مشکلات کے بعد دیگرے ہیں۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- رلانے والی باتوں پر غور کرو ہنسانے والی باتوں پر توجہ نہ دو۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- یعنی جو برائیوں سے آگاہ کرے اس کی سنو اور جو بے خوف کرے اس کی نہ سنو۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- کسی سازش کے لئے تعمیر نے اپنی ناک کاٹی۔ یہ زباہ کا مقولہ ہے۔ اس شخص کے لئے جو اپنے کام کو پورا کرنے کے لئے حیلہ سوچے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- جو سردار بنتا ہے تو اپنے حق کی بناء پر بنتا ہے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- لیس للامور بصاحب من لم ينظر في العواقب:
- جو شخص انجام پر نگاہ نہ رکھے وہ معاملات کو نہیں سمجھا سکتا۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- امیر وہ ہے جو دوسرے کو امیر نہ سمجھے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- يا حَيْدًا اِلا مَارَةً وَلَوْ عَلَيَّ الْحِجَارَةُ:
- حکومت کس قدر بھلی ہے اگرچہ پتھروں پر۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- تَأْمَلِ الْعَيْبَ عَيْبٌ:
- عیب تلاش کرنا بھی ایک عیب ہے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- مَنْ اَمِنَ الزَّمَانَ خَانَةً:
- جس نے زمانہ کو امانت دی اس کی اس نے خیانت کی۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- یعنی زمانہ پر بے خوف مت ہو۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- اَمْنٌ مِنَ حَمَامٍ مَلَّةَ:
- مکہ کے کبوتر سے بھی زیادہ بے خوف۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- کبوتر کو مکہ میں نہ شکار کیا جاتا ہے اور نہ پریشان کیا جاتا ہے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- اَمْنٌ مِنَ الْاَرْضِ:
- زمین سے زیادہ امن۔ کیونکہ زمین میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہی اگتا ہے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- اَلْمُؤْمِنُ مِنْ بَشَرِهِ فِي وَجْهِهِ وَ حَزْنُهُ فِي قَلْبِهِ:
- مؤمن کی خوشی چہرے پر عیاں ہوتی ہے اور غم دل میں مخفی ہوتا ہے۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- الْاِنْسَانُ قَبْلَ الْاِنْسَانِ:
- مانوس کرنا دودھ دوہنے سے پہلے ہے۔ یعنی کسی سے کام لینا مقصود ہو تو نرم رویہ اختیار کرنا ہوگا۔
- اَمْرٌ مَبْكِيَا تِكْ لَا اَمْرٌ مُصْحِحَا تِكْ:
- لَيْسَ عَلَيَّ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَا مَلَكَ:

- انسان پر وہ چیز فرض ہے جو اس کے قبضہ میں ہے۔
- الْإِنْسَانُ عَبْدٌ لِأِحْسَانٍ:
انسان احسان کا غلام ہے۔
- الْإِنْسَانُ ابْنُ يَوْمِهِ:
انسان وقت کا بندہ ہے۔
- الْإِنْسَانُ بِالتَّفَكُّيرِ وَاللَّهُ بِالتَّذَبُّورِ:
انسان سوچ میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔
- كُلُّ إِنْسَانٍ وَهْمَةٌ:
ہر انسان اپنے غم میں ہے۔
- أَنْفٌ فِي الْمَاءِ وَأَسْتٌ فِي السَّمَاءِ:
ناک پانی میں اور در آسمان میں ہے۔
- یعنی کم مرتبہ انسان بلند دعویٰ کرتا ہے۔
- أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَدْنَى:
تیری تیری ہی ہے اگرچہ وہ پانی بہانی ہو۔
- یعنی تیری قوم کے کمزور لوگ تیری مدد کے مستحق ہیں۔
- أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعُ:
تیری تیری ہی ہے اگرچہ مٹی ہوئی ہو۔
- یعنی تیرا تعلق دارا اگرچہ تجھ سے ناراض ہو مگر تجھ سے وابستہ ہے۔
- الْإِنَامُ قِرَانِسُ الْإَيَّامِ:
مخلوق حوادث کا شکار ہے۔
- یعنی سب نے فنا ہونا ہے۔
- مَنِ تَأْتَى أَدْرَكَ مَا تَمَنَّى:
جس نے کسی سے کام کیا اس نے اپنی آرزو پائی۔
- كُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَرْتَشِحُ:
ہر برتن اپنے اندر کی چیز سے ٹپکتا ہے۔
- عَلَى أَهْلِهَا تَجْنِسُ الْبَرَقِشُ:
براقش (کتیا) اپنے ہی مالکوں کو تباہ کر دیتی ہے۔
- یعنی آدمی کا عمل اس کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے۔
- آفَةُ الْمُرُوءَةِ خُلْفُ الرُّعْدِ:
مردوت پر مصیبت وعدہ غلطی ہے۔
- آفَةُ الْجُودِ الْإِسْرَافُ:
سخاوت پر آفت فضول خرچی ہے۔
- آفَةُ الْحَدِيثِ الْكُذْبُ:
بات پر مصیبت جھوٹ بولنا ہے۔
- آفَةُ الْعِلْمِ النَّسْيَانُ:
علم کی آفت بھول جانا ہے۔
- أَوَّلُ الْعَضْبِ جُنُونٌ وَآخِرُ نَدَمٌ:
غضب کی ابتدا جنون اور انتہا پشیمانی ہے۔
- أَوَّلُ الْغَيْثِ قَطْرٌ:
بارش ایک قطرہ سے شروع ہوتی ہے۔
- أَوَّلُ الشَّجَرَةِ النَّوَاةُ:
درخت کی ابتدا ٹھکی سے ہوتی ہے۔
- لَيْسَتْ أَوَّلُ مَنْ غَوَّهَ السَّرَابُ:
تو پہلا شخص نہیں جس کو سراب (میدان میں چمکتی ریت پانی دکھائی دے) نے دھوکہ دیا ہے۔
- أَيُّوَانُ كِسْرَى:
نو شیروان محل۔
- یہ مثل عجیب و غریب قیمتی عمارت پر بولی جاتی ہے۔
- یہ محل میں سال میں تعمیر ہوا تھا۔

ب

- الْبَيْرُ ابْقَى مِنَ الرِّثَاءِ:
کنواں رسی سے زیادہ باقی رہتا ہے۔
- كَالْبَاحِثِ عَنْ حَتْفِهِ بظَلْفِهِ:
اپنی کھر کے ساتھ اپنی موت کریدنے والے کی طرح۔ یعنی اپنا نقصان خود کرنے والا۔
- كَالْبَاحِثِ عَنِ الْمُدْيَةِ:
چھری کھودنے والے کی طرح۔
- پنی ہلاکت خود تلاش کرنے والے کی مثال۔
- أَبْخَرُ مِنْ أَسَدٍ:
شیر سے منہ کی بدبو والا۔
- أَبْخَرُ مِنْ صَقْرٍ:
شکرہ سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔
- أَبْخَرُ مِنْ فُهَيْدٍ:
چھپتے سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔
- بَخْرُ الْقَمِ:
منہ سے بدبو کا ہونا۔
- أَبْخَلُ مِنْ مَادِرٍ:
فلاں مادر سے بھی زیادہ گنجوس ہے۔
- هَذِهِ بَيْتُكَ وَالْبَادِي أظْلَمُ:
یہ (سزا) اس (محل) کے بدلے ہے اور برائی کی ابتدا کرنے والا زیادہ ظالم ہے۔
- أَبْدَى الصَّرِيحِ عَنِ الرِّغْوَةِ:
خالص دودھ جھاگ سے الگ ہو گیا۔

- یامہ کی زر قاء سے زیادہ تیز نظر۔
- زَرْقَاءُ تین یوم کی مسافت سے دیکھ سکتی تھی۔
- لَا يَبْطِئُ حَجْرُهُ:
- اس کے پتھر (دل) کو پسینہ (اثر) نہیں آتا۔
- یعنی شدید کتبوس سے خیر کی توقع نہیں۔
- أَبْطَأُ مِنْ غُرَابِ نُوحٍ:
- نوح کی کوئے سے بھی زیادہ دیر گرنے والا۔
- حضرت نوح نے کوئے کو پانی اترنے کی خبر لینے کے لئے بھیجا مگر وہ واپس نہ آیا۔
- أَبْطَشُ مِنْ دَوْسَرٍ:
- نعمان بن منذر کے لشکر دوسرے سے زیادہ تیز حملے والا۔
- بَطْنِي عَطْرِي وَسَيَانِي دَرِي:
- میرے پیٹ کو خوشبو لگاؤ اور باقی حصہ بدن کو چھوڑ دو۔
- اہم کو کرنے اور غیر اہم چھوڑنے کے لیے یہ ضرب مثل ہے۔
- أَلْبَطْنَةُ تَأْمِنُ الْقَطْنَةَ:
- زیادہ کھانا سمجھ کو ختم کرتا ہے۔
- مَا أَبْعَدَ مَافَاتٍ وَمَا أَقْرَبَ مَا يَأْتِي:
- جو فوت ہو گیا وہ دور گیا اور جو آئے گا بہت قریب ہے۔
- أَبْعَدُ مِنَ النَّجْمِ:
- ثریا ستارے سے زیادہ دور۔
- أَبْعَدُ مِنْ بَيْضِ الْأَنْوَقِ:
- عقاب کے انڈوں سے بھی زیادہ دور
- یعنی نا حاصل ہونے والی چیز۔
- أَبْعَدُ مِنْ بِنَاطِ الثَّرَيَا:
- ثریا پر لگی ہوئی چیز سے زیادہ دور۔
- أَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ الْعَيُوقِ:
- عیوق ستارے کے ساتھ لگی ہوئی چیز سے زیادہ دور۔
- أَلْبُعْدُ جَفَاءً:
- دوری ایک ظلم ہے۔ دور رہنے سے محبت میں کمی ہوتی ہے۔
- رَبِّ بَعِيدِ أَنْفَعُ مِنْ قَرِيبِ:
- کئی دفعہ دور والا نزدیک والے سے زیادہ فائدہ میں ہوتا ہے۔
- إِنَّ الْبُعَاثَ بَارِضِنَا يَسْتَنْسِرُ:
- ہمارے علاقہ میں بعثات (سبزی ماں سفید رنگ پرندہ) گدھ بن جاتا ہے
- یعنی ہماری حمایت کے ساتھ ذلیل عزیز بن جاتا ہے۔
- إِنَّ تَبِعَ عَلَيْكَ قَوْمُكَ لَا يَبِغُ عَلَيْكَ الْقَمَرُ:
- اگر تیری قوم تجھ پر ظلم کرتی ہے تو چاند تجھ پر ظلم نہ کرے گا۔
- یہ مثل ایک بات سمجھانے سے پہلے دوسری پیش کرنے پر دی گئی ہے۔

- كَلَّ مَيْدُولٌ مَمْلُولٌ:
- زیادہ استعمال کی گئی چیز سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔
- بِالْأَثَرِ يُسْتَعْبَدُ الْحُرُّ:
- اچھے سلوک سے آزاد آدمی کو غلام بنایا جاسکتا ہے۔
- بَرْنَتْ قَانِيَةَ مِنْ قُوبٍ:
- انڈہ چوزہ سے لا تعلق ہو گیا۔
- یعنی بات بہت دور چلی گئی۔
- بَرْدُغَاةٌ عَرَّ عَبْدًا مِنْ ظَمًا:
- صبح کی ٹھنڈک نے آدمی کو پیاس کے متعلق دھوکہ دیا۔
- أَرْدُ مِنْ غَبِّ الْمَطَرِ:
- بارش کے آئندہ دن سے زیادہ ٹھنڈاؤں۔
- أَرْدُ مِنْ عَضْرَسٍ:
- اولے سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔
- أَرْدُ مِنْ فَلْحَسٍ:
- فلحس سے بھی زیادہ حق طلب کرنے والا۔
- بَرَضٌ مِنْ عَدٍّ:
- بڑے خزانے سے ٹھوڑا۔
- إِنَّمَا هُوَ كَبْرَقُ الْخُلْبِ:
- وہ تو دھوکہ دینے والی بجلی کی طرح ہے۔
- یعنی بادل آتا ہے مگر برساتا نہیں۔
- مَا كُلُّ بَارِقَةٍ تَجُودُ بِمَانِيهَا:
- ہر چمکتا بادل اپنا پانی نہیں برساتا۔
- عَسَى الْبَارِقَةُ لَا تَخْلِفُ:
- امید ہے کہ چمکتا بادل وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔
- احسان کی امید پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
- الَّذِي لَا يُبْصِرُ مِنَ الضَّرْبِ نَالٌ يَكُونُ أَعْمَى:
- جو شخص چھلنی میں سے نہیں دیکھ سکا اندھا ہوتا ہے۔
- أَبْصَرَ وَ سَمَّ قَلْعَكَ:
- دیکھو اور اپنے لائری والے تیر پر نشان لگا۔
- مخاطب کو نفع یا نقصان کی طرف توجہ دلانا۔
- أَبْصَرَ مِنْ عَقَابٍ:
- عقاب سے زیادہ تیز نظر۔
- أَبْصَرَ مِنْ نَسِيرٍ:
- گدھ سے زیادہ تیز نظر۔
- أَبْصَرَ مِنَ الْوَطْوَاطِ فِي اللَّيْلِ:
- رات میں چمکاڑے سے بھی زیادہ تیز نظر۔
- أَبْصَرَ مِنْ زَرْقَاءِ الْيَمَامَةِ:

- اس کا ایک ہاتھ دوسرے کو تر نہیں کرتا۔
- یعنی کجوس اپنے آپ کو بھی نفع نہیں دیتا۔
- بَلِّغْ مِنْهُ الْمُحْتَقُّ:
- وانتہائی سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔
- مراد اس سے موت کو پہنچ چکا ہے۔
- بَلِّغِ الْخِرَامَ الطَّيِّبِ:
- تک پستان تک پہنچ گیا۔
- مراد معاملہ انتہاء کو پہنچ چکا۔
- بَلِّغِ اسْتَبْلُ الزُّبِّي:
- سیلاب ٹیلوں تک پہنچ گیا۔
- مراد لوگ حد سے گذر چکے۔
- بَلِّغِ السَّلْبَيْنِ الْعَظْمِ:
- چھری ہڈی تک پہنچ گئی۔
- مراد معاملہ خرابی تک چلا۔
- بَلِّغِ الدَّمَاءَ الثَّنَنِ:
- خون چویاؤں کے ٹخنوں تک پہنچ گیا۔
- شر کے پھیل جانے کے لئے مثل ہے۔
- لَوْ بَلِّغِ الرِّزْقِ قَاةَ لَوْلَاهُ قَفَاهُ:
- اگر رزق اس کے منہ تک پہنچ تو پھر بھی منہ پھیر لے گا۔ محروم کے لیے مثل ہے۔
- مَا عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَ عَصَ السَّمَلِ:
- امید ہے کہ وہ چوٹی کے کانٹے کے برابر بھی نہ پہنچے گا۔
- اس کے لئے مثل ہے جس کے دھسکی کا اثر نہ ہو۔
- أَبْلُغْ مِنْ قَسِّ:
- قس بن ساعدہ سے بھی زیادہ لیٹ ہے۔ قس دنیا عرب میں سب سے اول
- أَمَا بَعْدُ أَوِ الْبَيْتَةِ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ انْكَرَ بَوْلُهُ
- والا ہے۔
- أَبْلَهُ مِنَ الْحَبَارِيِّ:
- حباری سے بھی زیادہ بے سمجھ۔ یہ پرندہ اپنے انڈے بھول کر دوسرے پرندوں کے انڈوں پر جا بیٹھتا ہے۔
- إِنَّ الْبَلَاءَ مُؤَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ:
- مصیبت بولنے پر لگائی گئی ہے۔
- أَلْبَلَا يَا عَلِيُّ الْحَوَايَا:
- آفات حوایا (اونٹ کی کوبان پرندہ) پر بھی آتی ہیں۔
- یعنی تقدیر کے سامنے کسی کا زور نہیں۔
- بِنَانٍ كَفَّتْ لَيْسَ فِيهَا سَاعِدٌ:
- ہاتھ یا انگلیاں موجود ہیں اس میں کلائی نہیں۔ یعنی طاقت موجود مگر ہمت

- مِنْ ابْتِغَاءِ الْخَيْرِ اتِّقَاءُ الشَّرِّ:
- برائی سے بچنا بھی بھلائی تلاش کرنا ہے۔
- عَلَى الْبِغَايِ تَدْوُرُ الدَّوَابُّ:
- ظالم پر ہی مصائب (آفات) گرتی ہیں۔
- كَمْتَبَعِي الصَّيْدِ فِي عَرِيْسَةِ الْأَسَدِ:
- شیر کی رہائش میں شکار تلاش کرنے والے کی طرح۔
- غیر محل میں یا محال چیز کو تلاش کرنے والے کے لئے مثل ہے۔
- بَقْبَعَةٌ فِي زَفْرَقَةٍ:
- ہنسی میں شور و غل۔ یعنی لالچ اور فضول کپ سے بولنا۔
- بَقْلٌ شَهْرٌ وَ شَوْكٌ ذَهْرٌ:
- ایک ماہ کا ساگ اور کاٹنا ہمیشہ کا۔
- یعنی کم خیر اور زیادہ شر والا آدمی۔
- مَا اسْتَبْتَاكَ مِنْ عَرَضِكَ لِلْأَسَدِ:
- جس نے تجھے شیر کے سامنے ڈال دیا اس نے تجھ کو زندہ نہ چھوڑا۔ اس کے لئے مثل ہے جو تم کو برے انجام والے کام پر ابھارے۔
- لَا يَبْقَى شَيْءٌ عَلَى حَالِهِ:
- کسی چیز کی ایک حالت نہیں ہوتی۔
- بَقٌّ نَعْلَيْكَ وَ ابْدُلْ قَدَمَيْكَ:
- اپنے جوتے محفوظ رکھو اور اپنے قدم مصروف رکھو۔
- یعنی محنت کرو اور مال بچاؤ تاکہ حالات درست ہوں۔
- أَبْقَى مِنْ وَحْيِ لِي حَجْرٍ:
- پتھر پر لکھی ہوئی دانائی سے بھی زیادہ باقی رہنے والا۔
- أَبْقَى مِنَ الْعَصْرَيْنِ:
- صبح و شام سے زیادہ باقی رہنے والا۔
- یعنی صبح اور شام میں تبدیلی نہیں آتی۔
- أَبْقَى مِنَ النَّسْرَيْنِ:
- نسر طائر اور نسر و اراج دو ستاروں سے زیادہ باقی رہنے والا۔
- أَبْقَى مِنَ الدَّهْرِ:
- زمانہ سے زیادہ رہائی رہنے والا۔
- أَبْقَى مِنَ الْحَجَرِ:
- پتھر سے زیادہ باقی رہنے والا۔
- بَاكِرٌ تَسْعَدُ:
- جلدی صبح اٹھا کر ونیک نصیب ہو جاوے گا۔
- أَتَكَرَّرُ مِنَ الْغُرَابِ:
- کوئے سے بھی زیادہ جلدی صبح اٹھنے والا۔
- کو اسب پرندوں سے پہلے بیدار ہوتا ہے۔
- مَا تَبَلُّ إِحْدَى يَدَيْهِ الْأُخْرَى:

• ذُونَهُ بَيْضُ الْأَنْوَقِ:

اس کے آگے عقاب کا انڈہ ہے۔ نایاب چیز کے لئے یہ مثل ہے۔

• مَا كُلُّ بَيْضَاءِ شَحْمَةٍ وَلَا كُلُّ سَوْذَاءِ تَمْرَةٍ:

ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی اور نہ ہر سیاہ چیز کھجور ہوتی ہے۔

• مِنْ بَاعَ لِعِرْضِهِ الْفَقْرَ:

جو شخص اپنی عزت فروخت کرے گا وہ اس کی قیمت پالے گا یعنی کسی کو برا

کہنے سے خود برائے گا۔

• بَعْتُ جَارِي وَ لَمْ أَبِعْ دَارِي:

میں نے اپنا پردہ ہی فروخت کیا ہے گھر نہیں فروخت کیا۔

• لَا تَبِعْ نَقْدًا بَدِينِ:

نقد کو ادھار کے بدلے میں نہ فروخت کر۔

• قَدْ بَيَّنَّ الصُّبْحُ لَذَى عَيْنَيْنِ:

آنکھوں والوں کے صبح روشن ہو گئی۔

• أَبِينُ مِنْ فَلَاقِ الصُّبْحِ أَوْ فَرَقِ الصُّبْحِ:

صبح کی روشنی سے زیادہ روشن۔

• إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لِسِحْرًا:

بعض بیان جادو اور والے ہیں۔

ت

• أَنَاتَيْقُ وَأَنْتَ مَيْقُ فَكَيْفَ تَنْفِقُ:

میں غصے والا ہوں اور تم گھبرانے والے ہو ہم میں کیسے اتفاق ہو گا۔ دو

مختلف عادات لوگوں کے لئے ہے۔

• اتَّبِعِ الْفَرَسَ لِجَامِهَا وَ النَّاقَةَ زَمَامِهَا

گھوڑے کے ساتھ لگام اور اونٹنی کے ساتھ ٹکیل بھی دو۔ یعنی مکمل

احسان کے لئے اصل کے ساتھ متعلق اصل بھی دو۔

• اتَّبِعِ الدَّلْوُ بِالرِّشَاءِ:

ڈول کے ساتھ رسی بھی دو۔

• اتَّبِعِ مِنَ الظِّلِّ:

سایہ سے بھی زیادہ پیچھا کرنے والا۔

• لَوْ اتَّجَرْتُ بِأَلَا كُفَّانٍ مَامَاتٍ أَحَدٌ:

اگر تو کفن کی تجارت کرتا تو کوئی نہ مارتا۔

• لَا تَبْجَارَةَ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ:

نیک کام جیسی تجارت نہیں ہو سکتی۔

• تَرَكْتُ طَلْبِي ظِلَّةً:

ہرن نے اپنا سایہ چھوڑ دیا۔

وہ شخص جو آرام چھوڑ کر تنگی میں چلا جائے۔

• تَرَكْتُهُ عَلَى الْفَقْرِ مِنَ الرَّاحَةِ:

مفقور۔

• أَنَا ابْنُ جَلَا:

میں مشہور و معروف ہوں۔

• أَنَا ابْنُ جَلَا وَ طَلَّاعُ اشْنَايَا. مَتَى أَصْعُ الْعِمَامَةَ

تعر فوننی

میں جلا کا بیٹا ہوں گھائیوں پر چڑھ جانے والا۔ جب عمامہ اتاروں گا تو تم

مجھے پہچان لو گے۔

• رَبُّ ابْنِ عَمِّ لَيْسَ بِابْنِ عَمِّ:

کئی بچا زاد بھائی بچا زاد نہیں ہوتے۔ یعنی جو نفع نہ دے وہ کہاں کا بھائی ہے۔

• بِنْتُ صَفَا تَقُولُ عَنْ سَمَاعٍ:

بنت صفا (بازگشت) ہر آواز کا جواب دیتی ہے۔

ہر دعوت قبول کرنے والے کے لئے مثل ہے۔

• بَيْتِي قَصْرًا وَ يَهْدِي مِصْرًا:

محل بنا تا ہے اور شہر گراتا ہے۔

یعنی کم خیر اور زیادہ شر والا آدمی۔

• أَبْهَى مِنَ الْقَمَرَيْنِ:

چاند سورج سے زیادہ خوبصورت۔

• بَالُ حِمَارٍ فَاسْتَبَالَ أَحْمِرَةَ:

ایک گدھے نے پیشاب کر کے بانی گدھوں کو پیشاب کروادیا۔

اس قوم کے لئے مثال جو برے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔

• بَالَتْ بَيْنَهُمُ التَّعَالُبُ:

ان کے درمیان لومڑی نے پیشاب کر دیا۔

اس قوم کے لئے مثل جن میں فساد و اختلاف ہو جائے۔

• لَوْ كَانَ فِي الْبُؤْمَةِ خَيْرٌ مَا تَرَكَهَا الصَّبَاؤُ:

اومیں کوئی نفع ہو تا تو اس کو شکاری نہ چھوڑتا۔

• بَيْتِي يَسْخَلُ لِأَنَا

میرا گھر کجی کرتا ہے میں نہیں۔

یعنی گھر خالی ہے۔

• أَبَادَ اللَّهُ خَضْرَاءَ هُمْ:

اللہ تعالیٰ ان کی سرسبزی برباد کرے۔

بددعا ہے۔

• كَانَتْ بَيْضَةَ الدَّنِيكِ:

وہ مرغ کا انڈہ تھی۔ یعنی عرب عقیدہ کے مطابق مرغ ایک دفعہ انڈہ دیتا

ہے۔ اب وہ چیز نایاب ہو گئی۔

• بَيْضَةُ الْيَوْمِ خَيْرٌ مِنْ دَجَاحَةِ الْغَدِ:

آج کا انڈہ اکل آئندہ کی مرغی سے زیادہ قیمتی ہے۔

بَيْضَةُ الْيَلْبُدِ: شہر کا بڑا آدمی

• اتبہ من قوم موسیٰ:
• قوم موسیٰ سے زیادہ حیران۔

ث

• ثاطقة مذذب بماء:
• ستری بدبو دار پھر پانی کے ساتھ ملادی گئی۔

• اثبت فحجر الذار من الجوار:
• گھر میں دیوار سے بھی حمار بیٹے والا۔

• اثبت من الوسم:
• گوندنے کے نشان سے بھی زیادہ پائیدار

• ماله ثاغية ولا راعية:
• اس کے پاس نہ بھینٹ ہے اور نہ اونٹنی۔

• انقل من رضوی:
• رضوی (مدینہ کے پہاڑ) سے ہماری۔

• انقل من تود:
• بڑے پہاڑ سے زیادہ ہماری۔

• نكلتک املك اى جرد ترفع:
• تیری تھک کو روئے تو کون سے کپڑے کو بیوند لگا رہا ہے یعنی بے نفع آد

• الثکلی فحبت الثکلی:
• گم شدہ بچے کی ماں گم شدہ بچے کی ماں کو پسند کرتی ہے۔

• لا یضمرو الشوک العنب:
• کانٹا گور کو چھل نہیں دیتا۔

• نيمره الحن لا ورح ولا خسر:
• بزدلی کا بیچہ نہ بچ نہ نقصان۔

• لکل ثوب لا یس:
• ہر کپڑے کو پہننے والا ہوتا ہے۔

• ثار حابلهم علی نابلهم:
• ان کے جال والے نے ان کو تیر والے پر غصہ کیا۔

• اثور یحییٰ انقه برؤقه:
• تیل بھی اٹنی تاک کی حفاظت اپنے سینگوں سے کرتا ہے۔

ج

• اجبن من نعامہ:
• شتر مرغ سے زیادہ بزدل۔

• اجبن من صافیر:
• صافر سے زیادہ بزدل۔

• ساری رات سیٹی بجانے والا بزدل پرندہ۔

• میں نے اس کو صاف ہتھیلی پر چھوڑا۔
• یعنی اچھی حالت میں نہیں چھوڑا۔

• ترکتہ علی مثل مشعر من الاسد:
• میں نے اس کو شیر کے ہونٹ کے پاس چھوڑا۔

• ترکتهم فی حیص بیص او حیص بیص:
• میں نے ان کو بھانے والا افراد میں پایا۔

• کسی خطرناک کام میں بھینے افراد کے لئے یہ مثل ہے۔

• ماترك الاون للاخر شینا:
• پہلے نے دوسرے کے لئے کچھ نہیں چھوڑا۔

• من ترك الشهبوات عاش حُرًا:
• جس نے خواہشات کو چھوڑا اس نے آزاد زندگی گزاری۔

• لو ترك القط لیلًا نلام:
• اگر رات میں چھوڑا جائے تو سو جائے۔
• یہ اس شخص کے لئے مثل جو مصیبت پر مجبور کیا جائے یا ظلم پر ابھارا وہ ظلم کرنے لگے۔

• لا یتزک الساق الا ممسکا ساقًا:
• وہ ایک تاج چھوڑے تو دوسرے کو پکڑتا ہے۔ مراد محتاط آدمی۔

• لا یتزک الطیسی طیلة:
• ہرن اپنا سایہ نہیں چھوڑتا۔ مراد: ناپائیدار چیز کو لازم رکھنا چاہئے۔

• اتزک الشریترک:
• تم شر (برائی) کو چھوڑو وہ (برائی) تجھے چھوڑے گی۔

• تزک الجواب علی الجاہل جواب:
• جاہل کو جواب دینا اس کو جواب ہے۔

• تزک ما لا یصلح اصلح:
• جو درست نہیں ہو سکا اس کو اس کے حال پر چھوڑنا بہت اچھا ہے۔

• اثارتم العقل نقص الکلام:
• جب عقل عمل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتی ہے۔

• تمام الربیع الصیف:
• موسم بہار کے پورے ہونے پر گرم شرود ہوتی ہے۔

• اتم من قمر التم:
• پورے چاند (بدر) سے بھی زیادہ پورا۔

• التمره والجمرة
(سجور اور انگارا) یعنی نفع اور نقصان

• الثائب من الذنب کمن لا ذنب له:
• گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ جیسا ہے۔

• تاج المروءة التواضع:
• عاجزی شرافت کا تاج ہے۔

- خارش کرنے کی ککڑی: اس سے مراد چھند آدمی کی درست رائے۔
- أَنَا بُذِلْتُهَا الْمُحَلَّلُ وَعَدَيْتُهَا الْمَرْجَبُ:
- میں ان کی خارش دور کرنے والی ککڑی اور چھوڑنے والا کھجور کا درخت ہوں۔
- كُلُّ يَجْرُ النَّارِ إِلَى فَرْصِهِ:
- ہر شخص اپنی نکیا کی طرف آگ کھینچتا ہے۔
- أَجْرًا مِنْ أَسَامَةِ:
- اسامہ (شیر کا نام) سے زیادہ بہادر ہے۔
- أَجْرًا مِنْ لَيْثٍ بِخَفَانَ:
- خفان (جھاڑی برائے شیر) کے شیروں سے زیادہ بہادر۔
- أَجْرًا مِنْ ذُنَابٍ:
- کبھی سے زیادہ جرات والا نہ کبھی ہر چھوٹے بڑے کے جسم پر بیٹھتی ہے۔
- أَجْرًا مِنْ صَلْعَةٍ:
- کبچے کے خالی بال سر سے بھی زیادہ تنگ۔
- أَجْرًا مِنْ صَخْرَةٍ:
- پتھر سے زیادہ صاف۔ اس واسطے کہ اس پر کوئی زراعت نہیں ہوتی۔
- كَجَوَادٍ لَا يَبْقَى وَلَا يَذُرُ:
- نڈی کی طرح جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔
- جَزَعٌ وَ أَوْشَالٌ:
- سیراب ہونا اور تھوڑا پانی۔
- كَلَفَاتِ شِعَارِيٍّ عَلَى رِجْلِ رَجُلٍ:
- کفایت شعاری پر رگبت کے لئے مثل ہے۔
- الْجَرُوحُ أَرْوَى وَالْوَشْيُفُ أَنْفَعُ:
- زیادہ پینا سیراب تو کرتا ہے اور لیکن چوسنا اور پینا زیادہ فرحت بخش ہے۔
- لَا جَرْمَ بَعْدَ التَّدَامَةِ:
- پشیمانی کے بعد کوئی جرم نہیں۔
- إِذَا جَرَى الْمُدَّحِي حَسَرَتْ عَنْهُ الْحُمُرُ:
- جب طاقتور گھوڑا چلتا ہے تو گدھے پیچھے رہ جاتے ہیں اصحاب خوبیوں کے لئے مثل ہے۔
- يَجْرِي بَلِيقٌ وَيَذْمُ:
- بلیق نامی گھوڑا دوڑتا ہے پھر بھی مذمت کیا جاتا ہے۔
- تَجْرِي الرِّيحُ بِمَالَا تَشْتَهِي السُّفُنُ:
- ہوائیں اس چیز کے ساتھ چلتی ہیں جس کو کشتی والے پسند نہیں کرتے۔
- أَجْرًا الْأُمُورَ عَلَى أَدْلَائِهَا:
- کاموں کو آسانی والے طریقوں پر چلا۔
- جَرَى الْمُدَّحِيَاتِ غَلَاءً:
- اچھے گھڑوں کی دوڑ میں لوگوں تک ہوتی ہے۔
- الْجَزَعُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مُصِيبَةٌ أُخْرَى:

- إِنَّ الْجَبَانَ حَتَفٌ مِنْ قَوْفِهِ:
- بزدل کی موت اوپر سے آتی ہے۔
- لَيْسَ تَامِرٌ وَأَنْسَانٌ يَمِي مَوْتٌ كَأَشْكَارٍ هَوَاتِي:
- بجھبھہ الصبر نفدی حافر الفرس:
- گدھے کی پیشانی گھوڑے کے کھر کے ذریعہ میں دی جاتی ہے۔
- أَنْحَجَشَ لَمَّا فَاتَكَ الْأَعْيَارُ:
- جب گدھے نہ ملیں تو ان کا بچہ حاصل کرو۔
- قَدْ جَدَّ أَشْيَاعُكُمْ فَجَدُّو:
- تمہارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے تم بھی کوشش کرو۔
- مَنْ جَدَّ وَجَدَّ:
- جس نے کوشش کی اس نے پائی۔
- جَدَّ لِأَمْرٍ يُجَدُّ لَكَ:
- تم کسی آدمی کے لئے کوشش کرو وہ تمہارے لئے کوشش کرے گا۔
- جَدُّكَ يَرْغَى نَعْمَكَ:
- تیری کوشش تیرے چوپایوں کو چراتی ہے۔
- جَدُّكَ لَا كَدُّكَ:
- تیری کوشش فائدہ مند ہے لیکن اصرار طلب فائدہ مند نہیں۔
- كُلُّ جَدَّةٍ سَتَلِيهَا عِدَّةٌ:
- ہر نئی چیز عن قریب اس کو مرد لیا بوسیدہ کر دیں گے۔
- نَعْمَ الْجُدُودُ وَلَكِنْ بِنَسِّ مَا خَلَقُوا:
- آباء و اجداد اچھے تھے مگر ان کی بعد والی نسل بری ثابت ہوئی۔
- لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلْقَ لَهُ:
- جس کے پاس پرانہ نہ ہو وہ نیا کہاں سے لائے گا۔
- جَدِيدَةٌ فِي لَعْنَةٍ:
- سجیدگی والی بات کھیل کے انداز میں۔
- مَنْ أَجْدَبَ انْتَجَعَ:
- جو قحط زدہ ہو جائے گھاس تلاش کرتا ہے۔
- وَبَعْضُ الْجَدْبِ أَمْرٌ لِلْهَزِيلِ:
- بعض قحط سالی لاغر کے بڑی موافق ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو
- مالداری کے بجائے غریبی سچ رہتی ہے۔
- جَدَّحُ جَوْنٍ مِنْ سَوِيْقٍ غَيْرِهِ:
- جوین نے اپنے غیر کا ستون گھولا ہے۔
- أَجْدَى مِنَ الْغَيْثِ فِي أَوَانِهِ:
- بروقت بارش سے زیادہ نفع مند۔
- جَدْبُ الزَّمَامِ يَرِيضُ الصَّعَابَ:
- لگام کھینچتا ہے سدھے کو سہا دیتا ہے۔
- جَدَلٌ حِكَاكٌ:

مصیبت کے وقت گھبراہٹ دوسری مصیبت ہے۔

• جزاء جزاء سخار:

اس کو سچا جیسی سزا دی، نعمان بن امری القیس نے اپنے معمار سخار اس کے بنائے محل سے گرا دیا تاکہ دوسرا محل نہ بنائے۔

• جَزَيْتُهُ كَيْفَ الْمِصَاعِ بِالْمِصَاعِ:

میں نے اس کو پیانہ کا بدلہ پیانہ سے دیا۔

• هَذَا جَزَاءُ مُجِيرٍ أُمَّ عَامِرٍ:

یہ بچو کو پیانہ دینے والے کا بدلہ ہے۔

• اعرابی نے بچو کو پیانہ دی جو نے اس کو قتل کر دیا۔

• الْجَزَاءُ مِنَ جِنْسِ الْعَمَلِ:

عمل کا بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے۔ جیسا کرنا ویسا بھرتا۔

• تَحَسُّا لِقَمَانٍ مِنْ غَيْرِ شَيْعٍ:

لقمان نے پیٹ بھرے بغیر ڈکاری۔

یعنی غریب ہو کر امیری ظاہر کرتا۔

• جَفَعَجَعَةً وَلَا أَرَى لَهَا طَحْنًا:

چکی کا شور مگر آنا نظر نہیں آتا۔

• مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْمًا أَكَلَتْهُ الْكِلَابُ:

جو اپنے آپ کو ہڈی بنا لے اس کو کتے کھاتے ہیں۔

• لَا تَجْعَلْهَا بَيْضَةَ الدِّيَكِ:

اس کو مرغے کا انڈا نہ بناؤ۔

مشہور ہے کہ زندگی میں مرغا ایک دفعہ انڈا دیتا ہے۔

• زَرَرْنَا مَرَّةً فِي الدَّهْرِ وَاحِدَةً نَسِيًّا وَلَا تَجْعَلْهَا بَيْضَةَ

الدِّيَكِ:

اے محبوبہ تم نے ہم سے ایک دفعہ ملاقات کی دوبارہ ملو اور اس کو مرغے کا

انڈا نہ بناؤ۔

• جَلْدُ الْخَنْزِيرِ لَا يَنْدَبُ:

خنزیر کے چمڑے کو رنگ نہیں ساگسا۔

یعنی اس شخص پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔

• أَحْفَى مِنَ الدَّهْرِ:

زمانہ سے زیادہ بے وفا۔

• تَحْتَ جِلْدِ الضَّانِ قَلْبُ الْأَدْوَابِ:

بھینڑ کی کھال کے نیچے بھینڑیے کا دل۔

• جَلِيْسُ الْمَرَأِ مِثْلُهُ:

آدمی کا ہم نشین اسی جیسا ہوتا ہے۔

• جَلِيٌّ مِثْلًا نَظَرُهُ:

دوست اس کی نظر نے ظاہر کر دیا۔

• لَا يُجْمَعُ سَيِّفَانِ فِي عَمْدٍ:

ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی۔

• مَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَرْوَى وَالنِّعَامِ:

پھاڑی بکر اور شتر مرغ جمع نہیں ہو سکتے۔

یعنی دو مخالف الطباع اکٹھے نہیں ہوتے۔

• أَجْمَعُ مِنَ نَمَلَةٍ:

چوٹی سے زیادہ جمع کرنے والا۔

• مِنْ أَجْمَلٍ قَلِيلاً سَمِعَ جَمِيلاً:

جو اچھی بات کرے گا اچھی سے گا۔

• الْجَمَلُ مِنَ جَوْفِهِ يَهْتَرُ:

اونٹ اپنے منہ سے جگالی کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے کب سے روزی کھاتا ہے۔

• الْجُنُونُ فُنُونٌ:

جنون کی کئی اقسام ہیں۔

• لِجَلِّ جَنْبِ مَضْجَعٍ:

ہر پہلو کے لئے سونے کی جگہ ہے۔

• لِجَلِّ جَنْبِ مَضْرَعٍ:

ہر پہلو کے لئے گرنے کی جگہ یعنی موت ہے۔

• جَنَّتْ عَلَيَّ أَهْلِيهَا بِرَأَقِشٍ:

براقش تیتا نے اپنے مالوں پر ہی ظلم کیا۔

• إِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشُّوْكَ الْعَنْبِ:

تم کانٹوں سے انگور نہ چنوں گے۔

• أَجْنَاءُ هَا أَيْنَا وَهَا:

جرم کرنے والے اسی کے معمار ہیں۔

بے سوچے سمجھے کام کو مٹانے پر یہ مثل دی جاتی ہے۔

• هَلْ يَجْهَلُ فَلَانًا إِلَّا مَنْ يَجْهَلُ الْقَمَرَ:

فلان سے ناواقف وہی ہو گا جو چاند سے ناواقف ہو۔

• الْجَهْلُ مِطْطَةٌ مَنْ رَكِبَهَا ذُقْ وَ مِنْ صَحْبِهَا ضَلَّ:

جہالت ایک سواری ہے جو اس پر سوار ہو گا ڈھیل ہو گا اور جو اس کے ساتھ رہے گا گمراہ ہو گا۔

• الْجَهْلُ بِشَرِّ الْأَصْحَابِ:

جہالت بدترین سامھی ہے۔

• أَجْهَلُ مِنْ عَقْرِب:

بچھو سے بھی زیادہ جاہل۔ پتھر پر ڈنگ مار کر اپنے جسم کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔

• أَجْهَلُ مِنْ فِرَاشَةٍ:

پروانہ سے زیادہ جاہل وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔

• عِنْدَ جَهَنَّمَ الْخَبْرُ الْبَقِيْنُ:

- دایہ نہیں بنتی۔
- اَجْعُ كَلْبَكَ يَبْعُكَ:
- اپنے کتے کو بھوکا رکھ تیرے پیچھے رہے گا۔
- اَجْوَعُ مِنْ ذُوَالَةِ (الذنب)
- بھیلڑیے سے بھیلڑیے زیادہ بھوک والا۔
- اَجْوَعُ مِنْ كَلْبَةِ حَوِيل:
- حویل کی کتیا سے زیادہ بھوکا۔
- اَجْوَعُ مِنْ فَرَاد:
- چچڑی سے زیادہ بھوکا۔
- مَنْ جَالَ نَالَ:
- جو کوشش کرتا ہے پالیتا ہے۔
- اَجُولُ مِنْ قَطْرَب:
- قطرب جانور سے زیادہ پھر لگانے والا۔
- جَوْلُهُ بِاطْلٍ سَاعَةً وَجَوْلُهُ الْحَقَّ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ:
- باطل کا زمانہ ایک گھڑی اور حق کا زمانہ قیامت تک ہے۔
- جَاءَ بِمُطْفِئَةِ الرَّضْف:
- وہ گرم پتھر کو مات کرنے والا لایا۔
- جَاءَهُ بِالطَّمِّ وَالرَّمِّ:
- وہ سمندر اور زمین کی تہہ کو لایا۔
- جَاءَ الصَّيَّانُ فَاوَلَى بِالْإِسْنِيد:
- مشاہدہ آیا اور اسنید کو لے گیا۔
- جَاءَ بِمَا صَاحَى وَصَمَّت:
- وہ بولنے والا اور خاموش مال لایا۔
- جَاءَ بِقَرْنِي حِمَارٍ:
- وہ گدھے کے دو سینگ لایا۔
- یعنی جھوٹ اور ناممکن۔
- جَاءَ بِذَاتِ الرَّعَاكِ وَالصَّلِيل:
- وہ گرجنے والا اور آواز دینے والا لایا۔
- جَاءَ نَاثِرًا أُذُنِيَه:
- اپنے کانوں کو پھیلا کر آیا۔
- جَاءَ نَافِثًا عَفْرِيَه:
- اپنی کلفتی کو پھیلا کر آیا۔
- جَاءَ وَعَلَى بَكْرَةَ الْبِهِم:
- وہ سارے کے سارے آگئے۔
- إِذَا جَاءَ الْحَيِّنَ حَارَتِ الْعُيُونُ:
- جب موت آئی تو آنکھیں حیران ہوں گی۔
- إِذَا جَاءَ الْقَدْرُ غَشِيَ الْبَصْرُ:

- تحمید کے پاس یقینی خبر ہے۔ حسین نامی شخص نے اپنے میزبان کو قتل کر دیا تو اس کے ساتھی نے اس کو قتل کر دیا تو یسوی نے حسین کے متعلق تو قاتل ساتھی یہ فقرہ بولا۔ معاملہ کی حقیقت معلوم ہونے پر بولا جاتا ہے۔
- اَجْوَدُ مِنْ حَاتِم:
- حاتم سے زیادہ سچی۔
- إِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَعْتَرُ:
- اصیل گھوڑا کبھی غلطی کر لیتا ہے۔
- یعنی تجربہ کار آدمی بھی کبھی لغزش کر لیتا ہے۔
- إِنَّ الْجَوَادَ عَيْنُهُ فِرَارَةٌ:
- اصیل کی آنکھ دانت دیکھنے سے مستغنی کر دیتی ہے۔
- لِكُلِّ جَوَادٍ كِبْرَةٌ:
- ہر اصل گھوڑے کو کبھی کبھی ٹھوکر لگتی ہے۔
- جَاوَزَ مِلْكًا أَوْ بَحْرًا:
- بادشاہ کا پڑوسی یا ہمسند رکا۔
- دولت اہل ثروت سے حاصل ہوتی ہے۔
- كَمْ جَبِيرٍ أُمَّ عَامِرٍ:
- بچو کو پناہ دینے والے کی طرح۔
- ایک اعرابی نے بچھو کو پناہ دی اور دودھ پلایا بچھو نے اعرابی کو قتل کر دیا۔
- مَنْ يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ مَعَ غَيْرِ أَهْلِهِ:
- یلاقی الذی لا قی مجیر اُم عامر:
- جو نال سے حسن سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ وہی ہو گا جو بچھو کو پناہ دینے والے کے ساتھ ہوئی۔
- الْمُسْتَجِيرُ بِعَمْرٍ وَعِنْدَ كُرْبَيْتِهِ كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْيِ:
- بالتَّار:
- مصیبت کے وقت عمر سے پناہ لینے والا جیسے نرم زمین سے بچ کر آگ کے پاس جانے والا۔
- الْحَارِ نَمِ الدَّارِ:
- پہلے پڑوس کو دیکھے پھر گھر کو۔
- الرَّفِيقُ قَبْلَ الطَّرِيقِ:
- راستہ سے پہلے ساتھی کو دیکھو۔
- جَارَكَ الْأَذْنَى لَا يَغْلُكَ الْأَقْصَى:
- اپنے قریب ترین پڑوسی کا خیال کرو تم پر بعید ترین غالب نہ آئے گا۔
- جَاوَزَ الْحَزَامَ الطَّلَبِينَ:
- تنگ پستان سے گذر گیا معاملہ بڑھ گیا۔
- تَجْوَعُ الْحَرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِنَدْبَيْهَا:
- آزاد عورت بھوک مرئی ہے لیکن اپنے پستان کی کماٹی نہیں کھاتی یعنی

جب تقدیر آجائے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔

• جاء و افضا قضيضا:
وہ سارے کے سارے آگئے۔

• جاء القوم قضيم و قضيمهم:
قوم اور ساری کی ساری آگئی۔

• حيفة لا تعكر بحرا:
ایک مردار سمندر کو گدلا نہیں کرتا۔

ح

• من احب شيئا اكثر ذكره:
جو کسی چیز سے پیار کرے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے۔

• لا احب ذمى فى طست ذهب:
میں اپنا خون سونے کے طست میں پسند نہیں کرتا۔

• حُبك الشىء يعينى و يبصم:
تمہاری کسی چیز سے محبت اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے۔
اس کا مفہوم درج ذیل شعر میں ہے۔

• و عين الرض عن كل عيب كليلية:
ولكن عين السخط تبدي المساويا:
پسند کی نگاہ عیب سے بند ہوتی لیکن ناراضگی کی آنکھ عیبوں کو ظاہر کرتی

ہے۔

• الحُب اعمى:
محبت اندھی ہوتی ہے۔

• ليس فى الحُب مشورة:
محبت میں مشورہ کی ضرورت نہیں۔

• احب شىء الى الانسان ما مبعأ:
سب سے محبوب چیز انسان کو وہ ہے جس سے روکا جائے۔

• زينت النفس تكرهه مالدبها. و تطلب كل مُنتع
عليها:
میں نے نفس کو دیکھا کہ اپنے پاس موجود چیز پر راضی نہیں ہوتا اور ممنوع

چیز کو طلب کرتا ہے۔

• من الحبة نشأ الشجرة:
دانہ ہی سے درخت پیدا ہوتا ہے۔

• كل حبة لها ليل:
ہر دانہ کو پیمانہ میں بھرنے والا ہے۔

• حبلك على غاربك:
تیری رسی تیرے کندھے پر ہے۔

یعنی تو اپنے کام میں آزاد ہے۔

• رُب حبيث مكثت:

بہت سے جلد بازیٹ ہونے والے ہیں۔

• مافى الحجر مبعى:

پتھر میں کوئی مطلوب چیز نہیں۔

• قلت خير كى لى بولا جاتا ہے۔

• المنحازة قبل المناجزة:

لڑائی سے پہلو لڑائی سے پہلے ہے۔

• ان الحديد بالحديد يفلح:

لوہا لہے سے کاٹا جاتا ہے۔

• و يحدث من بعض الامور امور:
باتوں سے باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

• حدث عن معن ولا حرج:
معن سے روایت کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن النجر ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن البخر ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

• حدث عن الحرج ولا حرج:
سمندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

خرافہ نامی آدمی پر جن ایک دن مسلط رہے۔ لوگوں نے اس کی بات تسلیم
نہ کی۔ ہر ناقابل تسلیم بات کو خرافہ کی بات کہا جاتا ہے۔

• الحديث ذو شجون:

بات کی مختلف شاخیں ہیں۔

• الحادى وليس له بصير:

ہانکنے والا اور اس کے لئے اونٹ نہیں۔

یعنی ناحق کی طرف منسوب کے لئے ہے۔

• الحذر أشد من الوقعة:

ڈر واقعہ میں مبتلا ہونے سے زیادہ سخت ہے۔

• ان الحذر لا يدفع المقدور:

احتیاط تقدیر کو نہیں روک سکتا۔

• احذر من قرلى:

قرلی پرندہ سے زیادہ ڈرنے والا۔

یہ پرندہ پائی اور فضا سے ڈرتے ڈرتے شکار پکڑتا۔

• احذر من غراب:

کوئے سے زیادہ محتاط۔

• احذر من ذئب:

بھیڑیے سے زیادہ چالاک۔

• كل الحذاء يحتمى الحافى الوقع:

نئے پاؤں دریاؤں والا ہر قسم کا جو تاج پھین لیتا ہے۔

• الْحَزُّ حُزْوَانٌ مَسَّهُ الضَّرُّ: عزت دار عزت دار بنی ہو تا ہے اگرچہ اس کو بھی ہو۔

• حِرَّةٌ تَحْتَ فِرَّةٍ: ٹھنڈک کے نیچے پیاس۔

• أَحْرُ مِنْ نَارِ الْقَضِ: عسلی لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم۔

• أَحْرُ مِنَ النَّارِ: آگ سے زیادہ گرم۔

• أَحْرُ مِنْ مَرْحَلٍ: ہنڈیا سے زیادہ گرم۔

• أَحْرُ مِنْ دَمْعِ الْمُقْلَاتِ: سو کو ارماں کے آسوؤں سے زیادہ گرم۔

• الْحَرَبُ خِدْعَةٌ: لڑائی دھوکہ ہے۔

• الْحَرَبُ سِجَالٌ: لڑائی میں رد و تحمل ہے۔

• الْحَرَبُ عَشْوَمٌ: لڑائی ظالم ہے۔

• أَحْرَزُ أَمْرًا أَجَلُهُ: موت نے آدمی کو ذخیرہ کر لیا۔

• أَحْرَسُ مِنْ كَلْبٍ: کتے سے زیادہ نگہبان۔

• الْحَرَضُ قَائِدُ الْحَرَمَانِ: لالچ و محرومی کی قائد ہے۔

• الْحَرِيضُ مَحْرُومٌ: لالچی محروم رہتا ہے۔

• أَحْرَضُ مِنْ تَمَلَّةٍ: چوٹی سے زیادہ لالچی۔

• لَيْسَ الْحَرِيضُ بِنَائِدٍ فِي رِزْقِهِ: لالچی اپنا رزق زیادہ نہیں کر سکتا۔

• إِنَّهُ لِيَحْرَقُ عَلَى الْأَدَمِ: وہ مجھ پر دانت پٹیتا ہے۔ یعنی غصہ کرتا ہے۔

• حَرَكْتُ لَهَا حَوَارَهَا تَحْتِي: اونٹنی کے بچے کو حرکت دے وہ بوسے لے گی۔

• الْحَرَكَةُ بِرَكَّةٍ: حرکت میں برکت ہے۔

• الْحَزْمُ حِفْظٌ مَا وُلِّيتَ وَ تَرْكٌ مَا كَفَيْتَ:

احتیاط قبضہ والی چیز کی حفاظت کرنا اور غیر ضروری چیز کو چھوڑنا ہے۔

• الْحَزْمُ ظَنٌّ بِالنَّاسِ: احتیاط لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔

• أَحْزَمُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ: گرمٹ سے زیادہ محتاط۔

• لَا يَحْزُنُكَ دَمٌ هَرَّاقَهُ أَهْلُهُ: تجھے وہ خون غم میں نہ ڈالے جس کو اس کے اہل نے بھایا ہو۔

• يَحْسِبُ الْمَطُورَ أَنَّ كَلَامًا مَطْرًا: بارش زدہ خیال کرتا ہے کہ ہر ایک پر بارش ہوئی ہے۔

• لِاحْسَبِ كَالْتَّوَّاضِعِ: تواضع جیسی شرافت نہیں۔

• حَسْبُكَ مِنْ غِنَى شَيْعٍ وَرَيْ: سیراب ہونا اور پیٹ بھرنا کافی مالداری ہے۔

• يَعْزِي قَاعَتِ كِرْوَادٍ سَخَاوَتِ كِرْوَادٍ: یعنی قاعت کر واد سخاوت کر واد۔

• حَسْبُكَ مِنْ شَرِّ لَيْتَانِي: تجھے شر کو سن لینا ہی ہے۔

• الْحَسَدُ مَطِيَّةُ النَّعْبِ: حسد تھکاوٹ کی سواری ہے۔

• مَنْ حَسَنَ ظَنَّهُ حَسَنَ عَيْشُهُ: جس کا گمان اچھا ہو گیا اس کی زندگی اچھی ہو گی۔

• حَسَنٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ مَا تَوَدُّ: ہر آنکھ میں وہی چیز اچھی ہے جس کو وہ پسند کرے۔

• حَسُنَ الظَّنُّ وَرَيْطَةُ: اچھا گمان ایک بھنور ہے۔ یعنی حسن ظن کی بناء پر دھوکہ ہوتا ہے۔

• لِكُلِّ حَسَنٍ عَائِبٌ: ہر نیک میں عیب والی چیز بھی ہوتی ہے۔

• الْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَاتِ: نیکی دو برا بھونکی کے درمیان ہوتی ہے۔

• يَعْزِي دَرَمِيَانِي رَاهِ نَيْكِي: یعنی درمیانی راہ نیکی ہے۔

• أَحْسَنُ مِنَ الدُّنْيَا الْمُقْبِلَةُ: آنے والی دنیا سے زیادہ اچھا۔

• أَحْسَنُ مِنَ النَّارِ: آگ سے زیادہ خوبصورت۔

• أَحْسَنُ مِنَ الطَّوَّاسِ: مور سے زیادہ خوبصورت۔

• أَحْسَنُ مِنَ الْبِرَامِكَةِ: برکی و زراہ کے زمانہ سے زیادہ خوبصورت۔

- جو برتن میں ہے اس کی حفاظت کر تمہ باندھنے سے۔
- أَحْفَظُ مِنَ الْأَرْضِ: زمین سے زیادہ حفاظت کرنے والا۔
 - الْأَحْفَظُ تُحَلِّلُ الْأَحْقَادَ: غیرت و عفتی کو ختم کر دیتی ہے۔
 - یعنی قومی حمایت آدمی کو اپنے عزیز سے ہمدردی دلاتی ہے۔
 - عِنْدَ الشَّدَائِدِ تَذْهَبُ الْأَحْقَادُ: سختیوں کے وقت مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔
 - حَقٌّ يَضُمُّ خَيْرٌ مِنْ بَاطِلٍ يَسُرُّ: تکلیف دہ حق خوش کن باطل سے بہتر ہے۔
 - الْحَقُّ خَيْرٌ مَّا يُقَالُ: حق اچھی چیز ہے جب تک کہا جائے۔
 - الْحَقُّ أَمْلَحُ وَالْبَاطِلُ الْجَلِيحُ: حق روشن ہے اور باطل خراب ہے۔
 - هَذَا حَقٌّ مَنَزَلُ بَتْرُوكَ: یہ مقام چھوٹے کے مقامات میں سے اچھا ہے۔
 - أَحَقُّدٌ مِنْ جَمَلٍ: اونٹ سے زیادہ کینہ والا۔
 - مِنْ حَقَرٍ حَزْمٌ: جس نے حقیر سمجھا وہ محروم رہا۔
 - أَحَقَرُ مِنَ التَّرَابِ: مٹی سے زیادہ حقیر۔
 - مَا حَاكَ جَلْدَكَ مِثْلَ ظَفَرِكَ: تیرے جسم کو تیرے ناخن کی طرح کوئی چیز نہ سنبھلائے گی
 - إِذَا حَكَمْتُ فِرَاحَةَ أَدْمِيئِهَا: میں نے جب کسی زخم کو کھجایا تو اس سے خون نکالا۔
 - یعنی جب بھی کام شروع کیا اس کو مکمل کیا۔
 - تَحَكَّكْتَ الْعَقْرَبُ بِالْأَفْعَى: بچھوسانپ سے کھڑکیا۔
 - یعنی اپنے سے زیادہ طاقت ور سے ٹکرا۔
 - أَحْكَمُ مِنَ لِقْمَانِ: لقمان سے زیادہ امانا۔
 - الْحِكْمَةُ صَالَةٌ الْمُؤْمِنِ: دانائی مؤمن کی کم شدہ چیز ہے۔
 - إِذَا حَلَّتِ الْمُقَادِيرُ بَطَلَتْ التَّدْبِيرُ: تقدیریں آئیں تو تدبیر بیکار ہو گی۔
 - أَحَلُّ مِنَ لَبَنِ الْأُمِّ: اچھل من لبن الام:

- أَحْسَنُ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: سورج اور چاند سے زیادہ خوبصورت۔
- الْإِحْسَانُ يَقْطَعُ اللِّسَانَ: احسان زبان کو بند کرتا ہے۔
- أَحْشَلُ وَتَرَوْتِي: میں تجھے گھاس کھلاتا ہوں اور تو مجھ پر گوبر گراتا ہے۔
- أَحْشَفًا وَسُوءَ كَيْلَةٍ: ایک تور دی مجھ اور دوسرا کم پیمانہ۔
- یعنی دو طرفہ ظلم۔
- الْأَحْصَاءُ مِنَ الْحَبْلِ: کنکری پہاڑ کا ایک جز ہے۔
- كَلٌّ يَحْتَضِبُ فِي حَبْلِهِ: ہر کوئی اپنی لکڑی میں رسی باندھتا ہے۔
- كَمَا حَاطَبُ لَيْلٍ: رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح۔
- حَظٌّ فِي السَّحَابِ وَعَقْلٌ فِي التَّرَابِ: نصیب آسمان پر اور عقل مٹی میں۔
- حَظٌّ جَزِيلٌ بَيْنَ شِدْقِي صَيْغَمٍ: بڑا حصہ شیر کی دو بیڑوں کے درمیان۔
- بڑی منفعت مگر شدید خطرات کے درمیان۔
- الْأَحْظَىةُ فَلَا أَيْةَ: صاحب نصیب نہیں تو کوتاہی کرنے والی بھی نہ بن۔
- اس مثل کی لاری عبارت یوں ہے۔
- إِنْ لَمْ تَكُونُوا حَظِيئَةً وَلَا تَكُونِي أَيْةً (مُقْصَرَةً) اس کا ترجمہ بالا نمبر میں تحریر ہو چکا۔
- مِنْ حَفَرٍ حَفْرَةٌ وَقَعَ فِيهَا: جس نے کسی کے لئے گڑھا خود دے گا اس میں گرے گا۔
- مِنْ حَفَرٍ حَفِيرًا لِأَخِيهِ كَانَ حَفْتَهُ فِيهِ: جس نے اپنے بھائی کے لئے گڑھا خود دیا اس کی موت اس میں واقع ہو گی۔
- تَحْفَظُ أَحَاكَ الْإِنِّ مِنْ نَفْسِهِ: اپنے بھائی کی حفاظت کر سکتا ہے مگر اس کی جان سے۔
- یعنی لوگوں کے شر سے بچا سکتا ہے اس کو خود کشی سے نہیں بچا سکتا۔
- حَفِظْتُ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنكَ أَشْيَاءُ: ایک چیز کو تو نے یاد کیا اور بھر چیزیں تجھ سے غائب ہو گئیں۔
- حَافِظٌ عَلَى الصَّدِيقِ وَلَوْ فِي الْحَرِيقِ: دوست کی حفاظت کر اگرچہ آگ میں۔
- إِحْفَظْ مَا فِي الْوِعَاءِ لِشَدِّ الْوِكَاءِ:

- ماں کے دودھ سے زیادہ حلال۔
- حَلْبُ الدَّهْرِ اَشْطَرُه: اس نے زمانے کے نبھوں کو دوبا ہے۔ یعنی خیر و شر کو آزمایا ہے۔
- اَحْمَقُ مِنْ دُغَةِ: دغہ سے زیادہ احمق۔
- حَلْبَتُهَا بِالسَّاعِدِ الْاَشَدُّ: میں نے اس کو طاقتور کھائی سے دوبا۔
- اَحْمَقُ مِنْ رَجُلَةٍ: رجلہ سے زیادہ بیوقوف۔
- اَحْمَقُ مِنْ عَجَلٍ: عجل سے زیادہ بیوقوف۔
- اَحْمَقُ مِنْ نَعَامَةٍ: شتر مرغ سے زیادہ بیوقوف۔
- اَحْمَقُ مِنْ هَبْنَقَةٍ: ہبنقہ سے بیوقوف۔ یہ شخص موٹی بکریوں کو خوب کھلاتا اور کمزور کو گھاس سے دور رکھتا۔
- اَحْمَقُ مِنْ مَاضِحِ الْمَاءِ: پانی چبانے والے سے زیادہ بیوقوف۔
- اَحْمَقُ مِنْ الْقَابِضِ عَلَي الْمَاءِ: پانی پکڑنے والے سے زیادہ احمق۔
- اَحْمَقُ مِنْ نَاطِحِ الْمَاءِ: پانی کو سیٹگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔
- اَحْمَقُ مِنْ لَاطِمِ الْاَرْضِ بِخَدَتِهِ: اپنے رخساروں کو زمین پر مارنے والے سے زیادہ احمق۔
- اَحْمَقُ مِنْ نَاطِحِ الصَّخْرِ: چٹان کو سیٹگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔
- يَحْمِلُ التَّمْرَ اِلَى الْبِضْرَةِ: بصرہ کی طرف بھجور لے جاتا ہے۔
- لَا يَحْمِلُ اللدَّ نَفْسًا غَيْرَ طَاقَتِهَا: اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
- لَمْ يَحْمِلْ خَاتَمِي مِثْلَ خَنْصَرِي: میری کن انگلی کی طرح کسی نے میری انگوٹھی کو برداشت نہ کیا۔
- اَنَّمَا يَحْمِلُ الْكُلَّ عَلَي اَهْلِ الْفَضْلِ: بوجھ اہل فضل پر ہی ڈالا جاتا ہے۔
- يَا حَامِلُ اَذْكُرْ حِلَاؤًا: اے بوجھ لانے والے کھولنے کے وقت کو یاد کر۔ یعنی کام کا انجام نہ بھونانا چاہئے۔
- اَحْمَلُ مِنَ الْاَرْضِ: زمین سے زیادہ بوجھ برداشت کرنے والے۔
- حِمِي فَجَاشِ مِرْجَلِهِ: وہ گرم ہوا اور اس کی ہانڈی جوش مارنے لگی۔
- يَحْمِي جَوَابِيَهُ نَفِيْقُ الضَّفْدِ ع: یعنی طاقتور تھا کمزور ہو گیا۔
- لَسْتُ مِنْ اَحْلَاسِهَا: تو اس کے ساتھیوں سے نہیں۔
- حَلَقْتُ بِه عُنْقَاءَ مَغْرَبٍ: عتقا مغرب نے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ یعنی ناپائیدار نے اس سے واسطہ ڈالا ہے۔
- هُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمَفْرُوعَةِ لَا يُدْرِي اَيْنَ طَرَفَاها: وہ ڈھلے ہوئے طلقے کی طرح ہیں معلوم نہیں اس کے دونوں سرے کہاں ہیں۔
- حَلْمِي اِحْمٌ وَاذْنِي غَيْرِ صَمَاءٍ: میرا علم بہرا اور میرے کان بہرے نہیں۔
- اِحْلَمُ مِنَ الْاِحْفِ: احف سے زیادہ حکیم۔
- الْحَكِيمُ مَطِيْبَةُ الْجَهْوَلِ: بردبار جاہل کی سواری ہے۔
- لَا تَكُنْ حَلْوًا فَتَسْتَرْطُ وَلَا مَرًا فَتُعْقَى: نہ میٹھا بن کہ نگل لیا جائے اور نہ کڑوا کہ اگل دیا جائے۔
- اِحْلَى مِنَ الْعَسَلِ: شہد سے زیادہ میٹھا۔
- اِحْلَى مِنَ نَبِيْلِ الْمَرَامِ: حصول مراد سے زیادہ میٹھا۔
- اِحْلَى مِنْ حَيَاةٍ مُعَاوَذَةٍ: دوبارہ زندگی سے زیادہ میٹھا۔
- الْحَمْدُ مَغْنَمٌ وَالْمَذْمَةُ مَقْرَمٌ: تعریف حاصل ہونا نعمت ہے اور مذمت ملنا تادان ہے۔
- كَانَ حِمَارًا فَاسْتَانَنَ: وگدھا تھا گدھی بن گیا۔
- یعنی طاقتور تھا کمزور ہو گیا۔

- چوزہ کو قتل کر کے انڈا کو باقی مت رکھ۔
یعنی بڑی چیز کو ضائع نہ کر۔
• حیاك من خلا فوه:
تجھے خالی منہ والے نے سلام کیا ہے۔
• لاحقى فبر حجي ولا ميت فينسى:
نہ زندہ کہ اس کی امید رکھی جائے اور نہ مردہ کہ اس کو بھولا جائے۔
• احيا من فناد:
نوجوان عورت سے زیادہ باحیا۔
• احيا من مخذرة:
پردہ نشین سے زیادہ باحیا۔
• احيا من هدى:
دلہن سے زیادہ باحیا۔
• احيا من صب:
گوہ سے زیادہ زندگی والا۔
• الاحياء من الايمان:
حیاء ایمان کا حصہ ہے۔

خ

- اما حيت و اما بزيت:
یا تیز دوڑ گئی یا بیٹھ گئی۔ بھلائی اور برائی میں تیز چلنے والا۔
• الحبر قد بعجری و نجری:
میں نے اس کو اپنے تمام رازوں کی خبر دے دی۔
• تخبر عن حبر نذ مرأته:
اس کا ظاہر منظر اس کے خفیہ کی خبر دے رہا ہے۔
• يخبرك اذنى الارض عن اقصاها:
زمین کا ابتدائی حصہ اس کے انتہائی حصہ کی خبر دے رہا ہے۔
• ليس الخبر كالمعاينة:
خبر آنکھوں کے دیکھنے کی طرح نہیں۔
• على الخبر سقطت:
چلنے والے کے پاس پتھے ہو۔
• يخبط خط عشواء:
اندھو امی کی طرح روند رہا ہے۔
• اخبط من حاطب الليل:
رات کو کلکریاں جمع کرنے والا سے زیادہ گڑبڑ کرنے والا۔
• اختل من الذنب:
بھیڑے سے زیادہ دھوکے باز۔
• من خذہ الرجال خدام:
جو لوگوں کو خدما کرتا ہے۔

- مینڈک کی ٹرٹرا اس کے تالاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔
• زب حاد لافند و هو جادغہ:
کئی اپنی ناک کی حفاظت کرنے کی صورت میں اس کو کاٹتے ہیں۔
• حمانك احمي لك:
تیرا گھرتیرا محافظ ہے۔
• احمي من انف الاسد:
شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ۔
• احمي من مخبر الجراد:
نڈی کو پناہ دینے والے سے زیادہ محافظ۔
• حانية مخصبة:
مہربان خضاب لگانے والی عورت۔
• الحاجة تنفق الحيلة:
ضرورت جیلہ کو پیدا کرتی ہے۔
• حال الجربيض ذون القربيض:
غم شمر کے آگے حائل ہو گیا۔ یعنی خوشی کے دن غمی آگئی۔
• حال الاجل ذون الامل:
اسید کے سامنے موت آئی۔
• ن حالت القوس فسهمي صائب:
اگر میری کمان ٹیزھی ہے تو میرا تیر نشانہ پر ہے۔
• دولت مند آدمی جس کی دولت ضائع ہوگی مگر کرم باقی ہے۔
• رب حال افصح من لسان:
کئی دفعہ حال زبان سے زیادہ صحیح ہوتا ہے۔
• احول من ابي قلمون:
ابو قلمون (کپڑے) سے زیادہ بدلنے والا۔
• احول من ابي براقش:
ابلی براقش (پرندے) سے زیادہ رنگ بدلنے والا۔
• الحاوی لا ینجو من الحيات:
سانپوں کے منتر والا سانپوں سے نجات نہیں پاتا۔
• احير من صب:
گوہ سے زیادہ حیران۔
• حيلة لاحيلة له الصبر:
جس شخص کے پاس کوئی حیلہ باقی نہ رہے وہ صبر کرے۔
• ما حيلة الرامي اذا انقطع الوحر:
جب تانت ٹوٹ جائے تو تیرا انداز کیا کرے۔
• اذا حان القضاء ضاق القضاء:
جب قضا (موت) آئے تو قضا تک ہو جاتی ہے۔
• لا نحي البيض و تقتل الفراخ:
چھوٹے کو بچاؤ اور بڑے کو مارو۔

- لکھل سُؤال جواب
ہر سوال کا جواب ہے۔
- ليس المخاطر و محمودا و لو سليمان:
خضرہ میں کود پڑنے والا قابل تعریف نہیں ہوتا اگرچہ سلامت ہو۔
 - خفت نعامتہم:
ان کا شتر مرغ اور جلد کوچ کر گیا۔
 - خفف طعامك تأمن سقامك:
ہلکا پھلکا کھاؤ تاکہ بیمار یوں سے محفوظ رہو۔
 - اخف حطما من عصفور:
چڑیا سے بھی زیادہ جلد طیش میں آجاتا۔
 - اخف من يراعة:
زراعت سے زیادہ ہلکا۔
 - اخف من ريشة:
پر سے زیادہ ہلکا۔
 - اخف من النسيم:
باد نسیم سے زیادہ ہلکا۔
 - اخف من الهباء:
غبار سے زیادہ ہلکا۔
 - وهل يخفي على الناس القمر:
کیا لوگوں پر چاند بھی مخفی رہتا ہے۔
 - ما عنده جمل ولا خمر:
نہ اس کے پاس سرکہ ہے نہ شراب۔
 - ما أنت بجمل ولا خمر:
تیرے پاس نہ تو سرکہ ہے نہ شراب۔
 - الخلاء تدعو الى السلة:
نقرچوری کی طرف بلا تا ہے۔
 - تخلصت قانية من قوب:
انڈھ چوڑے سے نجات پا چکا ہے یعنی اپنی ذمہ داری سے آدمی نکل چکا ہے۔
 - اختلط الهائل بالقابل:
جال والا تیر والے کے ساتھ مخلوط ہو گیا یعنی معاملہ بگڑ گیا۔
 - اختلط المرعى بالجمل:
چڑیا ہو اور اونٹ مخلوط ہو گئے۔
 - اختلط الجائر بالزباد:
گاڑھا دودھ خراب دودھ کے ساتھ مل گیا۔
 - خالف نفسك تسرح:
اپنے نفس کی مخالفت کرو تاکہ راحت پا جاؤ۔
 - خالف هواك ترشد:
خالف دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- جس نے لوگوں کی خدمت کی اس کی خدمت کی گئی۔
- الخادل اخو القاتل:
رسوا کرنے والا قاتل کا بھائی ہے۔
 - نخرج المقدحة ما في قعر البرمة:
چچو وہ نکالتا ہے جو ہنڈیا کے پیندے میں ہوتا ہے۔
 - قد يخرج من الصدف غير الدر:
کبھی سیپ سے موتی کے سوا کچھ اور بھی نکل آتا ہے۔
 - لا تخرج النفس من الامل حتى تدخل في الاجل:
نفس امیدوں کے پھندے سے نہیں نکلتا جب تک موت کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔
 - ذونه حوط الفتاد:
اس سے آسان تو قناد کے کانٹوں کو سوجھنا ہے۔
 - الخروف يتقلب على الصوف:
بھینر کا بچہ اون پر کروٹیں لیتا ہے۔
 - اخرف من فاكشة الغزل:
سوت توڑنے والی سے زیادہ احق۔
 - خرقاء ذات نيفة:
پھوہڑ چستر سھکو بننے والی (خرقاہ وہ عورت جو کام کو اچھی طرح کر نہیں سکتی ہے)
 - خرقاء عيابة:
خود نہیں جانتی مگر دوسرے کے کام میں عیب نکالتی ہے۔
 - اخر من القابض على الماء:
مٹھی سے پانی پکڑنے والے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔
 - من حنى الذئب اعد كلبيا:
جو شخص بھینرے سے ڈرے اس کو کتے تیار کرنا چاہئے۔
 - لا تخاصم من اذا قال فعلا:
اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کہے تو کر گزرے۔
 - اياكم و خضراء الدمن:
کوڑی پراگی ہوئی بزی سے بچو۔
 - الخطا زاد العجول (خطا جلد بازی کی راہ ہے)
زاد راہ کی طرح غلطیاں ساتھ لے کر چلنا۔
 - مع الخواطيء سهم صائب:
خطا کرنے والا تیروں کے ساتھ نشانہ پر بیٹھنے والا تیر بھی ہونا۔
 - من الحسناء يعطى مهرها:
جو کسی حسینہ کو منگنی کا پیغام بھیجے گا اس کا مہر بھی ادا کرے گا۔
 - اخطب من سبحان و انيل:
سبحان قبیلہ ہالہ کا نہایت بلند فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب تھا۔

- اپنی خواہش کے خلاف کرو تا کہ بدایت پاؤ۔
- خالِفٌ تَدُّكِرُ:
- مخالف کرو تا کہ زیادہ ذکر کیا جائے۔
- اخْلَفُ مِنْ عَرْقُوبٍ:
- غرقوب سے زیادہ عمدہ خلاف۔
- اخْلَفُ مِنْ نَارِ الْحِجَابِ:
- جگنو کی آگ سے زیادہ عمدہ خلاف جو نہ سلگتی ہے اور نہ روشنی دیتی ہے۔
- خَلَقَ اللَّهُ لِلْحَرْبِ رَجَالًا:
- اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے لیے مرد پیدا کئے ہیں۔
- خَلَالِكَ الْجَوْ فَيْضِي وَأَصْفُورِي:
- تیرے لیے میدان خالی ہو گیا ہے اب اندے دے اور چھپا۔
- لَا يَخْلُو الْمَرْءُ مِنْ وَذُوْدٍ يَمْدُحُ وَعَدُوٌّ يَنْدُحُ:
- کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو کسی تعریف کرنے والے دوست اور برائی کرنے والے دشمن سے خالی ہو۔
- خَلَّ مِنْ قَلِّ خَيْرُهُ لَكَ فِي النَّاسِ غَيْرِهِ:
- اس شخص کو چھوڑ جس میں بھلائی کم ہو یا نہ ہو لوگوں میں تجھے اس کے علاوہ مل جائیں گے۔
- خَلَّ الْحِسَابِ لِيَوْمِ الْحِسَابِ:
- حساب کو روز حساب کے لئے چھوڑ دو۔
- خَلَاءٌ وَكَ أَقْسَى لِحَيَاتِكَ:
- تنہائی تیری حیا کی زیادہ محافظ ہے۔
- مَنْ لَا يَخَافُ أَحَدًا لَا تَخَافُهُ أَحَدٌ:
- جو کسی سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔
- مَنْ خَانَ هَانَ:
- جس نے خیانت کی ذلیل ہوا۔
- يَا رَبِّمَا خَانَ النَّصِيحُ الْمُؤْتَمِنُ:
- کبھی امانت دار خیر خواہ بھی خیانت کر جاتا ہے۔
- أَخِيْبٌ مِنْ قَابِضٍ عَلَى الْمَاءِ:
- پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے سے زیادہ ناکام۔
- أَخِيْبٌ مِنْ حُنَيْنٍ:
- حنین سے زیادہ ناکام۔
- لَا خَيْرَ فِي خَيْرِ الْأُمُورِ إِلَّا فِي خَيْرِ الْأُمُورِ أَوْ سَاطِئِهَا:
- معاملات میں میانہ روی بہترین چیز ہے۔
- خَيْرُ الْأُمُورِ أَحْمَدُهَا مَعْتَبَةٌ:
- بہترین کام وہ ہے جس کے انجام میں تعریف کی جائے۔
- خَيْرُ إِنَاءٍ يَكُ تَكْفِيئِينَ:
- تو نے اپنے بہترین حالت ایسی ہے یعنی مستحق محروم اور غیر مستحق فیضیاب ہو رہے۔
- كَفَاءُ الْإِنَاءِ:
- برتن کو اماندھا کرنا۔
- خَيْرُ أَهْلِكَ مِنْ كَفَاكَ:
- تیرا بہترین رشتہ دار وہ ہے جو تیرے لیے کافی ہو جائے۔
- خَيْرُ الْبَيْعِ نَاجِزٌ بِنَاجِزٍ:
- بہترین خرید و فروخت نقد ہے۔
- خَيْرُ حَالِيكَ تَنْطَحِينَا:
- اپنے بہترین دوہنے والے کو سیگ مارتی ہے۔
- خَيْرُ الْحَلَالِ حِفْظُ اللِّسَانِ:
- بہترین حصلت زبان کی حفاظت کرنا۔
- حَيْرٌ سَلَّاحُ الْمَرْءِ مَا وَقَادَ:
- آدمی کا بہترین ہتھیار وہ ہے جو اس کو بچائے۔
- حَيْرٌ الْأَصْحَابِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْخَيْرِ:
- بہترین ساٹھی وہ ہے جو تیری تیر کی طرف رہنمائی کرے۔
- خَيْرٌ عَفْوٌ مَا كَانَ عِنْدَ الْقَدْرِ:
- بہترین معافی وہ ہے جو قدرت حاصل کرنے کے وقت دی جائے۔
- خَيْرُ الْعِلْمِ مَا حَضَرَكَ:
- بہتر علم وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے۔
- خَيْرُ الْغِنَى الْقُنُوعُ:
- بہترین مالدار کی قناعت ہے۔
- حَيْرٌ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَذَلَّ:
- بہترین کام وہ ہے جو مختصر اور مراد کو ظاہر کرنے والا ہو۔
- حَيْرٌ الْمَالِ مَا نَفَعَ:
- بہترین مال وہ ہے جو نفع دے۔
- حَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُهُ:
- اچھوں میں اچھا وہ ہے جو کام کرے۔
- حَيْرٌ النَّاسِ مِنْ فُرُوحِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ:
- بہترین وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سے خوش ہو۔
- حَيْرٌ الْوَعْدِ مَا دَعَا:
- بہترین وعظہ جو برائی سے ہٹائے۔
- الْخَيْرُ الْبَقِيُّ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ:
- خیر باقی ہوتی ہے اگرچہ اس پر وقت گزر جائے۔
- إِنْ خَيْرٌ الْفَقْهَ مَا حَضَرَكَ:
- بہترین علم وہ ہے جو تو وقت پر حاضر کر سکے۔

- خَيْرٌ الْبَيْعِ نَاجِزٌ بِنَاجِزٍ:
- بہترین خرید و فروخت نقد ہے۔
- خَيْرُ حَالِيكَ تَنْطَحِينَا:
- اپنے بہترین دوہنے والے کو سیگ مارتی ہے۔
- خَيْرُ الْحَلَالِ حِفْظُ اللِّسَانِ:
- بہترین حصلت زبان کی حفاظت کرنا۔
- حَيْرٌ سَلَّاحُ الْمَرْءِ مَا وَقَادَ:
- آدمی کا بہترین ہتھیار وہ ہے جو اس کو بچائے۔
- حَيْرٌ الْأَصْحَابِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْخَيْرِ:
- بہترین ساٹھی وہ ہے جو تیری تیر کی طرف رہنمائی کرے۔
- خَيْرٌ عَفْوٌ مَا كَانَ عِنْدَ الْقَدْرِ:
- بہترین معافی وہ ہے جو قدرت حاصل کرنے کے وقت دی جائے۔
- خَيْرُ الْعِلْمِ مَا حَضَرَكَ:
- بہتر علم وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے۔
- خَيْرُ الْغِنَى الْقُنُوعُ:
- بہترین مالدار کی قناعت ہے۔
- حَيْرٌ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَذَلَّ:
- بہترین کام وہ ہے جو مختصر اور مراد کو ظاہر کرنے والا ہو۔
- حَيْرٌ الْمَالِ مَا نَفَعَ:
- بہترین مال وہ ہے جو نفع دے۔
- حَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُهُ:
- اچھوں میں اچھا وہ ہے جو کام کرے۔
- حَيْرٌ النَّاسِ مِنْ فُرُوحِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ:
- بہترین وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سے خوش ہو۔
- حَيْرٌ الْوَعْدِ مَا دَعَا:
- بہترین وعظہ جو برائی سے ہٹائے۔
- الْخَيْرُ الْبَقِيُّ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ:
- خیر باقی ہوتی ہے اگرچہ اس پر وقت گزر جائے۔
- إِنْ خَيْرٌ الْفَقْهَ مَا حَضَرَكَ:
- بہترین علم وہ ہے جو تو وقت پر حاضر کر سکے۔

- ہر دودھ کا کوئی دوسنے والا بھی ہے۔
- اَدْرُهَا وَاِنْ اَبَتْ:
- اس کو دو لو خواہ وہ انکار کر دے۔ یعنی ضرورت کو باصرہ حاصل کر۔
- دُرُّ الْمَفَاسِدِ اُولٰٓئِیْ مِنْ جَلْبِ النَّعِیْمِ:
- مفاسد کو دفع کرنا نعمت حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔
- یَذْرُجُ فِی کُلِّ وَکْرٍ:
- ہر گھونسلے میں گھس جاتا ہے۔
- اَلذَّرَاهِمُ مَرَاهِمُ:
- روپے مرہم کا کام کرتے ہیں۔
- اَلذَّرَاهِمُ اَرْوَاحٌ تَسِیْلُ:
- روپے بہتی ہوئی روہیں ہیں۔
- مَنْ لَمْ یَدَارِ لِمَشْطِ یَنْتَفِ لِحِیْتِهٖ:
- جو شخص سنگھمی سے نرم نہ برتے گا وہ اپنی ہی داڑھی کے بال اکھاڑے گا۔
- لَا یُذْعَى لِلْحَلٰی اِلَّا اٰخُوْهَا:
- بڑے معاملے کے لئے اس کا مہربی بلایا جاتا ہے۔
- اُذْعِ اِلٰی طَعَانِكَ مِنْ تَدْعُوْهِ اِلٰی جَفَانِكَ:
- اپنی تیز بازئی کے لئے اسی کو بلاؤ جس کو اپنے پیانے پر دعوت دیتے ہو۔
- اَرْفَعِ الشَّرَّ بَعُوْدًا وَاَوْعُوْدًا:
- شر کو دفع کر دو خواہ لگڑی سے یا لوہے کی سلاخ سے۔
- اِدْقُ مِنَ الْهَبَاءِ:
- غبار سے زیادہ باریک۔
- اِدْقُ مِنَ الْكُحْلِ:
- سرمے سے زیادہ باریک۔
- اِدْقُ مِنَ الدَّقِیْقِ:
- آنے سے زیادہ باریک۔
- اِدْقُ مِنْ حَدِّ السَّیْفِ:
- تلوار کی دھار سے زیادہ باریک۔
- دَلَّ عَلٰی عَاقِلٍ اِخْتَارًا:
- عقل مند کی کا انتخاب عقل مند کی کو ظاہر کر دیتا۔
- اَلدَّلَالُ عَلٰی الْخَیْرِ كَمَا عَلِمَهُ:
- نیکی بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔
- ذَلِیْلٌ عَقْلُ الْمَرْءِ فَعَلُهُ وَ دَلِیْلٌ عِلْمُهُ قَوْلُهُ:
- آدمی کی عقل کی دلیل اس کا عمل ہے اور اس کے علم کی دلیل اس کا قول ہے۔
- لَیْسَ الدَّلُوْا اِلَّا بِالرِّشَاءِ:
- ذول رسی کے بغیر کچھ نہیں۔
- دَمَّتْ لِحْنٰتِكَ قَبْلَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا:

- لَاخِیْرَ فِی اَرْبِ الْفَاكِّ فِی لَهَبٍ:
- اس مقصد میں کوئی چیز نہیں جو تجھے شعاعوں میں ڈال دے۔
- لَاخِیْرَ فِی السَّرْفِ وَلَا سَرْفٌ فِی الْخَیْرِ:
- اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں۔
- لَاخِیْرَ فِی وَدِیْکُوْنٍ بِشَافِعٍ:
- ایسی محبت میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سفارش کرنے والے کا زریعہ ہو۔
- الْخِیْلُ تَجْرٰی عَلٰی مَسَاوِیْهَا:
- گھوڑا اپنے پیوں کے باوجود چلتا ہے۔ یعنی شریف آدمی تنگی کے باوجود سخاوت کرتا ہے۔
- الْخِیْلُ اَعْلَمُ بِفَرَسَانِیْهَا:
- گھوڑے اپنے سواروں کو خوب جانتے ہیں۔
- اِخِیْلٌ مِنْ غَرَابٍ:
- کوئے سے زیادہ اترانے والا۔
- اِخِیْلٌ مِنْ دِیْبٍ:
- مرغ سے زیادہ نازد کھانے والا۔

ل

- دَأْمَاءٌ لَا یَقْطَعُ بِالْاِمَارَاتِ:
- سمندر لگڑیوں کے بیڑے سے طے نہیں۔
- اَذْبِرْ غَرِیْرًا وَاَقْبِلْ لَعْرِیْرًا:
- اس کی اچھی عبادت نے پیچھے پھیر لی اور بد خلقی سامنے آگئی۔
- التَّدْبِیْرُ نِصْفُ الْمَعِیْشَةِ:
- تدبیر آدمی روزی ہے۔
- كِدَابِعُذٌ وَقَدْ حَلِمَ الْاَدِیْمُ:
- کھال رنگنے والی کی طرح جب کہ کھال فاسد ہو چکی۔
- حَلِمُ الْحَلْدُ:
- کھال خراب ہو گئی اس میں کیڑے پڑ کر سوراخ ہو گئے۔ یعنی اصلاح کے وقت اصلاح نہ ہوئی خرابی بسیار کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔
- دَخَلَ فُضُوْلٰی نَارَ فِقَالٍ حَطْبٍ رَطْبٌ:
- فضولی خواہ تجھ وہ دل دینے والا۔
- یَدْخُلُ شَعْبَانٌ فِی رَمَضَانَ:
- شعبان کو رمضان میں داخل کر رہا ہے۔ یعنی بے سرو پاپا تیس کرتا ہے۔
- لَا تَدْخُلُ بَیْنَ الْبِصْلَةِ وَقَشْرِهَا:
- پیاز اور اس جھلکے کے درمیان مت گھسو۔
- لَا تَدْخُلَنَّ بَیْنَ اللَّصَا وَلِحَائِهَا:
- ڈنڈے اور اس کی چھال کے درمیان ہرگز داخل نہ ہو۔
- لِحْلٌ ذُرٌّ حَالِبٌ:

لیٹ کر سونے سے پہلے اچھے پہلو کے لئے بستری نرم کر لو یعنی حادثات سے پہلے تیار ہو۔

• دمنعة من غوراء غنيمة باردة:
اندھی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکتا ہے۔

• ادنا من التسع:
تسے سے زیادہ خمیر۔

• كحل دني ذوبه دني:
ہر قریب سے دے کر کوئی قریب موجود ہوتا ہے۔

• ادني من جبل الوريد:
شرگ سے زیادہ قریب۔

• ذنيك ما انت فيه:
تیری دنیا وہ ہے جس میں تو موجود ہے۔

• الدهر يومان يوم لك و يوم عليك:
زمانہ کے دو دن ایک دن تیرے لئے اور دوسرا دن ضرر۔

• لكل دهر الرجال:
ہر زمانہ کے لئے آدمی ہوتے ہیں۔

• ما الدهر الا هكذا فاصبر له:
زمانہ ایسا ہی ہے لہذا صبر کرو۔

• يدهن من فارورة فارعة:
خالی شیشی سے تیل مل رہا ہے۔ یعنی وعدوں سے ہی خوش کرتا ہے۔

• به داء طبعي:
اس کو ہرن کی بیماری ہے۔ عرب کا خیال تھا کہ ہرن کبھی بیمار نہیں ہوتا۔

• لكل داء دواء:
ہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔

• بينهم داء الضائر:
ان کے درمیان سوکھوں کی بیماری ہے۔

• دواء الدهر الصبر عليه:
زمانہ کی سختیوں کا علاج صبر کرنا۔

• ان دواء الشق ان تحوصه:
پھٹنے کی دوا ناکھٹنا ہے۔

• نعم الدواء لشق ان تحف:
بہترین دوا اوپر ہیز ہے۔

• انا ذون هذا و فوق ما في نفسك:
میں اس سے تو کم ہوں مگر تیرے دل کی بات سے اوپر ہوں۔

• كما تدب تدان:
جیسا بدلہ دو گے ایسا بدلہ دیا جائے گا۔

• الدين النصيحة:

دین خیر خواہی کا نام ہے۔

• الذين ميسم الكرام:
مکافات و حزا اثر لیفوں کی علامت ہے۔

ذ

• ذنب استنمع:
بھڑیا بھڑیا بن گیا۔

• الذنب خاليا اسد:
بھڑیا خالی میدان میں شیر ہوتا ہے۔

• من لم يكن ذنبا اكلته الذباب:
جو بھڑیا نہ بنے گا اس کو بھڑیے کھا جائیں گے۔

• ما الذباب و ما مرقتہ:
کیا مکھی اور کیا اس کا شورا۔ یعنی معمولی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔

• الذبان يعرف وجه اللبان:
کھایاں دودھ والے کے چہرے کو پہچانتی ہے۔

• دخار الاح اولي من اد جدار الصال:
آدمیوں کا ذخیرہ کرنا مال کے ذخیرہ سے بہتر ہے۔

• دقه تغبط:
چکھ کر دیکھ تو غبط کرے گا۔

• ذمكتني الطعن و كنت ناسيا:
تو نے مجھے نیرہ یاد دلا یا بلکہ میں بھولا ہوا تھا۔

• ذكر النعمة القديمة عليك و انس النعمة الجديدة:
لنت

اپنے اوپر پرانی نعمت کو یاد رکھو اور اپنے لیے نئی نعمت کو بھول جاؤ یعنی پرانی نعمتوں پر شکر کرو اور نئی آسائش کی حرص نہ کرو۔

• اذكر مع كحل نعمة زوالها:
ہر نعمت کے ساتھ اس کے زوال کو بھی یاد کرو۔

• اذكر غائبا يقرب:
غائب کا ذکر کرو قریب ہو جائے گا۔

• و كمن ذكورا ادا كنت كذوبا:
جھوٹا بنے تو یاد بھی رکھ۔

• ذل من لا سيف له:
جس کے پاس تلوار نہیں وہ ذلیل ہو گیا۔

• لقد ذل من بالث عليه التعاليل:
وہ ذلیل ہو گیا جس پر لومڑیاں موت گئیں۔ یعنی بت کی پوجا زلت والی ہے۔

• ذل لو اجد ناصرا:

گرم ہو اپنی عادت کے مطابق چلی۔ یعنی آدمی عادت پر مجبور ہے۔

• اِنْ ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ:

ایک گوز نکل گیا تو ایک تو جال میں موجود ہے۔

• ذَهَبُوا تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ:

وہ ہر ستارے کے نیچے گئے۔

• ذَهَبُوا وَتَفَرَّقُوا يَدَى سَبَا أَوْ بِيَادَى سَبَا:

وہ اہل سہا کی طرح چلے گئے۔ یعنی سیلاب کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے۔

• بِدَهَبِ الْعُرْفِ بَيْنَ الْمَلِكِ وَالنَّاسِ:

احسان خدا اور بندے کے درمیان چلتا ہے۔

• مَنْ سَعَلَ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّهُ جَوَانِزَهُ:

جو احسان کرتا ہے اس کا احسان نہیں مٹتا۔

• اِذْهَبِ إِلَيَّ حَيْثُ الْفَتْ رَحَلَهَا أَمْ قَشَعِمَ:

وہاں جا جہاں ام قشعم نے اپنا کجاہہ ڈالا تھا۔

• وَمَنْ لَمْ يَذُذْ عَنِ حَوْصِهِ يَنْهَدِمَ:

یعنی جو شخص اپنے تالاب کی مدافعت نہیں کرتا وہ منہدم ہو جاتا ہے۔

• كُلُّ ذَاتِ ذَيْلٍ تَخْتَالُ:

ہر دامن والی ناز و ادا سے چلتی ہے۔

ر

• رَأْسُ الدِّينِ صِخْرَةُ اليَقِينِ:

اصل دین یقین کا صبح ہوتا۔

• كُنْ رَأْسٌ بِهْ صُدَّاعٌ:

ہر سر میں درد ہوتا ہے۔

• رَبُّ رَأْسِ حَصِيدٍ لِسَانٌ:

بہت سے سر زبان کی وجہ سے کاٹے جاتے ہیں۔

• كَمَا عَلَى رُؤْسِهِمُ الطَّيْرُ:

گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔

• رَأَى الْكُوكَبَ ظَهْرًا:

اس نے ظہر کے وقت ستارہ دیکھا۔

• إِذَا رَأَيْتَ الرِّيحَ عَاصِفَةً فَتَسْطَافِنِ:

جب آمدھی سخت دیکھو تو پست ہو جاؤ۔

• رَأَى الْبَصَادِرَ وَالْوَارِدَ:

اس کو ہر آنے جانے والے نے دیکھا۔

• أَرَبِيهَا السَّنْهَى تَرَبِيضِي الْقَمَرِ:

میں اس کو سہا دکھا رہا ہوں اور وہ مجھے چاندی دیکھا رہی ہے۔ ہر ایک باتوں

کو نہیں سمجھتی۔

• يَرَى الشَّاهِدَ مَا لَا يَرَى الْعَائِبُ:

بڑی ذلت ہے اگر مجھے مددگار مل جائے اس مہم کی مدد جستجو کو ذلت سمجھتا ہوں۔

• اِذْنٌ مِنْ بِيضَةِ الْبِلَدِ:

شتر مرغ کے چھوڑے انڈے سے زیادہ ذلیل۔

• اِذْنٌ مِنَ النَّقْدِ:

حقیر بکری سے زیادہ حقیر۔

• اِذْنٌ مِنْ وَتْدٍ:

میخ سے زیادہ ذلیل۔

• اِذْنٌ مِنَ النَّعْلِ:

جو سے زیادہ ذلیل۔

• اِذْنٌ مِنَ الشَّعْتِ:

تمہ سے زیادہ ذلیل۔

• اِذْلٌ مِنَ الْبَاسِطِ:

فرش سے زیادہ ذلیل۔

• اِذْلُ النَّاسِ مُعْتَدِرٌ إِلَيَّ لِنَسَمِ:

سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو کینہ سے معذرت طلب کرے۔

• اِنَّ الذَّلِيلَ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ عَضُدٌ:

ذلیل وہ ہے جس کا بازو نہ ہو۔

• اِنَّ الذَّلِيلَ مِنْ ذَلٍّ فِي سُلْطَانِهِ:

درحقیقت ذلیل وہ ہے جو اپنے اقتدار کی جگہ میں ذلیل ہو جائے۔

• لَا ذَنْبَ لِي قَدْ قُلْتُ لِلْقَوْمِ اسْتَفْوَا:

میرا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے قوم سے کہہ دیا کہ پانی لے لو۔

• مَا دَسَّيْ يَدَاكَ اَوْ كَتَلُو فَانْ نَفَحَ:

میرا کوئی قصور نہیں تیرے ہاتھوں نے اس کا منہ باندھا ہے اور تیرے منہ

کے پھینک بھری ہے۔ مکینزے میں کم چھوٹک بھرنے کی وجہ سے دریا

میں ڈوبنے والے کے لئے مثال ہے۔

• ذَهَبَ امْسُ بِمَافِيهِ:

کل اپنے حالات کے ساتھ گزر چکی۔

• ذَهَبَ الْجِمَارُ يَطْلُبُ قَرِينًا مَضْلُومًا الْاَذْنِي:

گدھا سنگ لینے گیا تھا کان کٹوا کے لوٹا۔

• ذَهَبَ دَمَهُ دَرَجَ الرِّيحِ اَوْ اَدْرَجَ الرِّيحِ:

اس کا خون ہوا کے رستے گیا۔

• ذَهَبَ بَيْنَ الصَّخْرَةِ وَالسَّنْكَرَةِ:

وہ ہوش اور مدہ ہوشی کے درمیان گیا۔

• ذَهَبَ فِي السَّمَى:

وہ فضا میں چلا گیا۔

• ذَهَبَتْ حَيْفٌ لِاَدْيَانِهَا:

- حاضرہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔
- وما ترانی یا جمیل اراک:
- جمیل جیسا تم مجھے جانتے ہو میں بھی تمہیں جانتا ہوں۔
- سوف ترای اذا انجلی الغبار افرس نحتک ام حمار:
- جب غبار چھٹ جائے گا تو عنقریب دیکھ لو گے تمہارے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا۔
- اراينها الثمرة اركها مطرة:
- تو مجھے دیکھا کہ وہ چتکبر ہے کہ میں تجھے دیکھا دوں گا کہ وہ برس رہا ہے۔
- رأتی الشیخ خیر من مشہد غلام:
- بوڑھے کی رائے لڑکے کی موجودگی سے بہتر ہے۔
- لا رأی لمن لا یطاع:
- اس شخص کی کوئی رائے نہیں جس کی اطاعت نہ کی جائے۔
- ان السراى لیس بالتظنی:
- رائے محض گمان ہی سے نہیں ہوتی۔
- ربك و صاحبك لا تکذب علیہما:
- اپنے آقا و دوست پر جھوٹ نہ لگاؤ۔
- کالربوط و المیرعی حصیب:
- بندھا ہو اور چراگاہ مر بنز۔
- ان الریئة تفشاء الغضب:
- دودھ غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یعنی ناراض کو تحفہ راضی کرتا ہے۔
- رجوع بخفی حنین:
- وہ حنین کے سوزے لے کر لوٹا یعنی دھوکہ کھانے والا انسان۔
- حتی یرجع الذرفی الصرع:
- یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں لوٹ جائے۔
- حتی یرجع السہم علی قوقہ:
- یہاں تک کہ تیر اپنے فوق پر لوٹ جائے۔
- الرجاء اربعة:
- آدمی چار ہی قسم کے ہیں۔
- هل یوتخی مطر من غیر سحاب:
- کیا بادل کے بغیر بارش کی امید کی جاتی ہے۔
- لا ترج خیر من لا یرجو خیرک:
- ایسے شخص پر خیر کی امید نہ رکھو جو تیری خیر کی امید نہیں رکھتا۔
- رجل بعض غاربا مجروحًا:
- کجاہ بھی زخمی کوبان کو کاٹنا ہے۔
- ارحم من دونک یرحمک من فوقک:
- اپنے سے نیچے پر رحم کرو تاکہ تم سے اوپر والے تم پر رحم کریں۔
- ارحص من التمر بالبصرة:

- بصرہ میں کھجور سے زیادہ سستا۔
- ارحص من تراب:
- مٹی سے بھی زیادہ سستا۔
- رد الحجر من حیث جاءک:
- پتھر جہاں سے آیا وہیں لوٹا دو۔
- من یرد السیل علی ادر اجہ:
- سیلاب کو اس کے بالائی راستوں کی طرف کون لوٹا سکتا ہے۔
- ادراج السیل:
- بلندی سے آتی ہوئی سیلاب گزر گائیں۔ ناممکن کے لئے کہا جاتا ہے۔
- ینس الرد لا بعد نعم:
- ہاں کے بعد نہیں بہت براتالی ہے۔
- اذا رزقک اللہ مغرفة فلا تحرق یدک:
- جب اللہ نے تجھے چھپچھپا دیا ہے تو اپنا ہاتھ مت جلا۔
- رزق اللہ لا کذک:
- اللہ کا دیار رزق بے تیری محنت نہیں۔
- رزمة ولا درة:
- اونٹنی کی آواز نہیں مگر دودھ نہیں۔
- اربسل حکیمًا ولا توصیہ:
- عقلمند کو قاصد بناؤ اور اس کو وصیت نہ کرو۔
- لارسل کالدرہم:
- روپیہ جیسا کوئی قاصد نہیں۔
- الرشف الفع:
- تھوڑا تھوڑا چھپنا زیادہ تیرا ب کرتا ہے۔
- رضیت من لغیمة بالایاب:
- میں واپس لوٹ آنے کی غیبت پر راضی ہوں۔
- رضیت من الرفاء باللقاء:
- میں تھوڑی سی وفاء پر راضی ہوں۔
- من رضی عن نفسه کفر السخاطین علیہ:
- جو اپنے نفس پر راضی ہو گیا اس نے اپنے پر ناراض ہونے والے زیادہ کر لیا۔
- اذا ترصیت احاک فلا احالک:
- جب تو نے محنت سے اپنے بھائی کی کوڑھی کیا گواہ وہ تیرا بھائی ہی نہیں۔
- رصنا الناس غایة لا تدرک:
- لوگوں کی رضامندی ایسا مقصد ہے۔ جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔
- لا تکن رطبًا فتعصر ولا یابسًا فتکسر:
- نہ اتنا تر ہو جائے کہ تجھے چھوڑ لیں اور اتنا خشک کہ مجھے توڑ دیں۔
- من استرعى الذئب ظلم:

جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا اس نے ظلم کیا۔

• مسرعی ولا اكلولة:

چراگاہ موجود ہے مگر کھانے والی بکریاں موجود نہیں۔ جو مالدار کی دولت کو کوئی کھانے والا نہ ہو۔

• تحت الرغوة الصريح

• جمگٹ کے نیچے خالص دودھ موجود ہے۔

• من الرفش الى العرش:

• بیلے کے کام سے تخت کے اوپر۔

• ترفض عند المحفظات الكتائف:

• غیرت انگیز موقعوں پر کینے متفرق ہو جاتے ہیں۔

• ارفع من السماء:

• آسمان سے زیادہ بلند۔

• الرفيق قبل الطريق:

• راستے سے پہلے ساتھی۔

• بالرفاء والبنين:

• موافقت اور بچوں کے ساتھ۔ شادی کرنے والے کے لئے دعاء ہے۔

• ارق من السيم:

• پادشہ سے زیادہ لطیف۔

• ارق من الماء:

• پانی سے زیادہ پتلا:

• ارق من فراق الشراب:

• شراب کی چمک سے زیادہ لطیف۔

• ارق من الذم الغمام:

• ابر کے آنسوؤں سے زیادہ پتلا۔

• ارقب البنان الرقيقة:

• گھر کے محافظ اس کے محافظ ہی سے کر۔

• كالراقم على الماء:

• پانی پر لکھنے والے کی طرح ہے وفا۔

• ارق على ظلمك:

• اپنے لنگڑے پن کا خیال رکھ کر چڑھو۔

• زكب جناحي النعام:

• وہ شتر مرغ کے بازوؤں پر سوار ہو گیا۔

• يركب الصعب من لا ذلول له:

• سرکش پر سوار وہ ہو جس کے پاس سدھایا ہوا نہ ہو۔

• من لم يركب الاحوال لم ينل الامال:

• جو ہولناک اشیاء پر سوار نہ ہو گا وہ امیدیں نہ کر سکے گا۔

• كراكب اثنين:

دو سواروں کا سوار۔

• رضى الكلام على عواهنه:

• اس نے کلام کو بھجور کی ٹہنیوں پر دے مارا۔

• رماة الله بليلة لا اخت لها:

• اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رات لائے جس کی بہن کوئی دوسری رات نہ ہو۔

• رماة الله من كل اكمة بعجور:

• اللہ تعالیٰ اس کو ہریلے سے پتھر مارے۔

• رماة باحقاف راسه:

• اس کے سر کی کھوپڑی دے مارا۔

• رماة الله بنالشة الاثافي:

• اللہ تعالیٰ اس کو چوہے کے تیسرے پتھر کے ساتھ مارے۔

• رماة بدا لذنب:

• اللہ تعالیٰ اس کو بھیڑیے کی مرض میں مبتلا کرے۔ یعنی بھوک کی بیماری

• جو کہ بھیڑیے کی مرض ہے۔

• رماة بنيلة الصائب:

• اس کو اپنے نشانے پر لگنے والے تیر سے مارا۔

• رمتني بدانها وانسلت:

• اپنی بیماری میری طرف منسوب کر دی اور کھسک گئی۔

• لا ترم سهمنا يعسر عليك رذة:

• وہ تیر مت پھینک جس کا لوٹانا تجھ پر مشکل ہو۔

• قبل الرمي يراش السهم:

• تیر پھینکنے سے پہلے اس کو پر لگا جاتا ہے۔

• تملاء الكنانين:

• تیر اندازی سے پہلے ترکش بھر لیے جاتے ہیں۔

• ما تكل رامي غرض نصيب:

• ہر نشانہ باز نشانہ پر مار نہیں سکتا۔

• قبل الرماة تملاء الكنانين:

• تیر اندازی سے پہلے ترکش بھر جاتا ہے۔

• رب رهيبة من غير واء:

• کبھی تیر اندازی وہ بھی کر لیتے جو تیر اندازی نہیں جانتا۔

• عند الرهان تعرف السوابق:

• گھوڑ دوڑ کے وقت آگے نکلنے والے گھوڑے پہچانے جاتے ہیں۔

• استراح من لاعقل له:

• جس کو عقل نہیں اس کے راحت پائی۔

• الراند لا يكدب اهله:

• پیش رو جاسوس اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں کہتا۔

• ازوغ من ثعلبة:

هذ الرزق العین:
وہ نیگیوں آنکھ والا ہے۔

لکل زغم خصم:
ہر گمان کے لئے کوئی مقابل ہے۔

فقد زق الحمامة فرحها:
اس کو چکا دیا جیسے کبوتری اپنے بچے کو چوکاتی ہے۔

ادان العالم زل بذلته عالم:
جب عالم پھسل جائے تو اس کے پھسلنے کی وجہ سے ایک جہاں پھسل جاتا ہے۔

وزلة الی ای تنسی زلة القدم:
رائے کا پھیلانا قدم کے پھسلنے کو بھلا دیتا ہے۔

لکل زمان رجال:
ہر زمانے کے لئے کچھ لوگ ہوتے۔

هما زندان فی وعاء:
وہ دونوں ایک ہی برتن میں آگ ساگانے والے ہیں۔

ارهی من وعل:
کوئے سے زیادہ سنگم۔

ارهی من طارؤس:
طاؤس سے زیادہ سنگم۔

غبا تزدحنا:
ایک دن چھوڑ کر زیارت کرتا کہ محبت زیادہ ہو۔

نیریت فی العجین لا یضع:
روغن آنے میں ضائع نہیں ہوتا۔

د فی الطیور نعمة:
اس نے طیور میں ایک نئے کا اضافہ کیا۔

زین فی عینی والذ ولذہ:
باپ کی نظر میں بیٹا خوبصورت ہوتا ہے۔

اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کو اچھا سمجھے۔

س

ان سأل الحف و ان سأل سوف:
اگر وہ سوال کرتا ہے تو لوٹ جاتا ہے اور آگ سے سوال کیا جاتا تھا دیتا ہے۔

سألنی أم الخیار جملا- یمشی رویدا و یكون ولا:
ام خیار مجھ سے ایسا اونٹ مانگتی جو آہستہ چلے اور اول ہو۔

سأل اللہ لا یخیب:
سائل اللہ لا یخیب:

لو مزی سے زیادہ چال باز۔

ارذ غانا یا تعال و قد علفت بالحوال:
کیا اب بھی حیلہ بازی کرنے کی اے لو مزی جب کہ تو چال میں پھنس چکی ہو۔

اروی من حیة:
سانپ سے زیادہ حیراب۔

اروی من صب:
گوسے زیادہ حیراب۔

الراویة احد الشاتمین:
نقل کرنے والی دو گالی دینے والی میں سے ایک ہے۔

رب ریث یعنف فواتا:
بسا اوقات دیر کرنا فوت کا نتیجہ ہے۔

ان کسرت ریحاً فقد لا قیت اغضارا:
اگر تو ہوا تھا تو بکولے سے مل گیا۔ اپنے سے زیادہ خطرناک مقابلہ کرنے والا۔

ان اردت المعاجزة فقبل المناجزة:
اگر آرزو کرنا چاہتا ہے لڑائی یافتا ہونے سے پہلے صلح کرنے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

ارید حواء و یرید قتلی:
میں اس کو عطیہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے (کرتا ہے)۔

اذا اراد اللہ ہلاک نسلۃ انبت لها جناحین:
جب چھوٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔

من لم یر ذک فلا ترو ذہ:
جو شخص تیرا ارادہ نہ کرے تو اس کا ارادہ نہ کر۔

کہ بین مرید و مراد:
ارادہ اور مراد میں بڑا فاصلہ ہے۔

ز

جعل الزح قدام السنات:
اس نے زح کرانی کے سامنے لگا لیا حالانکہ اس کی جگہ ان کے پیچھے ہے۔

ان لم تراحمہ لم یقع فی الخرج شیئی:
اگر تو مزاحمت نہ کرتا تو خرچہ میں پر کوئی چیز نہ پڑتی ہے۔

من یزرع الشوک لا یحصدہ العنبا:
جو کاشتے ہوئے گا اس سے انگور نہیں کاٹے گا۔

کما تزرع تحصد:
جیسا بونے گا ویسا کاٹے گا۔

- خدا سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔
- سبک من بلفغان السبأ
اسی نے تمہیں گالی دی جس نے تمہارے پاس گالی پہنچائی۔
- نسخا واصلق
مجھے گالی دو اگر کچھ ہو۔ کچھ بولنے پر رغبت کے لئے بولا جاتا ہے۔
- ماله سبد ولا لذ:
نداس کے بال ہیں نہ اون۔
- سبق سيله مطره:
اس کا سیلاب اس کی بارش سے بھی پہلے آگیا۔
- سبق السيف العذل:
تو اب ملاحت سے سبقت لے گئی۔
- سبق درتند غراره:
اس کے زیادہ دودھ کم دودھ سے سابق ہو گیا۔
- من سابق الدهر عثر:
جو زمانہ سے آگے بڑھے گا وہ پھل جائے گا۔
- ما استبر من قاد الجميل
جو اونٹ کو کھینچ کر لے جائے گا وہ چمپا نہیں رہے گا۔
- سحابه صف عن قليلا تقشع:
گرمی کی بدلی جلد ہی چمٹ جاتی ہے۔ کم ٹھہرنے والے کے لئے مثال ہے۔
- لهما اسند ساعده رمانى:
جب اس کی کلائی درست ہو گئی تو اس نے مجھے تیر مارا۔
- احسان کے بدلے زیادتی کرنے والے کے لئے مثال ہے۔
- السرمانه:
راز ایک امانت ہے۔
- سرك من دمن
تیر راز تیرے خون سے ہے۔
- ماله سار ح:
اس کے پاس نہ چرنے والے جانور ہیں نہ چر کر واپس آنے والے۔
- اسرع من البرق:
بجلی سے زیادہ تیز رفتار۔
- اسرع من البين:
جدائی سے زیادہ تیز رفتار۔
- اسرع من الطرف:
نگاہ سے زیادہ تیز رفتار۔
- اسرع من اللمع:
نظر سے زیادہ تیز رفتار۔

- اسرع من لمع البصر:
آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز رفتار۔
- اسرع من رجع الصدي:
آواز سے باگڈشت سے زیادہ تیز رفتار۔
- اسرع من اليد المي:
منہ کی طرف ہاتھ سے زیادہ تیز رفتار۔
- يسرف الكحل من العين:
آنکھ سے سرمہ چراتا ہے۔
- اسراى من الخيال
خیال سے زیادہ چلنے والا۔
- السعيذ من كفى
نیک بخت وہ ہے جس کو استغفار حاصل ہو گیا ہو۔
- بالساعده يبطش الكف:
کلائی کے ذریعہ ہاتھ مضبوط پکڑتا ہے۔
- ماله سعد ولا معذ:
نداس کے پاس تھوڑا کھانا ہے نہ زیادہ۔
- من سعى رعى:
جو دوڑا وہ چر گیا۔
- رب ساع لقاعد:
بعض آدمی تجھے ہوئے کے لئے دوڑتے ہیں۔
- يستف النواظ ولا يخفض لاجده:
خاک پھونکتا ہے مگر کسی کے دروازے پر نہیں جھکتا۔
- سفية له يحدو مسيفها:
سبک سر ہو قوف کسی گالی دینے والے سے واسطہ نہیں پڑتا۔
- حشما سقط لقط:
جہاں کسی جا پڑا وہیں سے کچھ اٹھالیا۔
- لکل ساقطة لاخط:
ہر گرنے والی چیز کو کوئی اٹھانے والی مل جاتی ہے۔
- يسقى من بئك يد يديكيس:
ہر ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیتا ہے۔
- ساقية لا نعد بحرا:
چھوٹی ہر سمندر کو گدلا نہیں کرتی۔
- سكت الفا ونطق بخلق:
ہزار لفظ خاموش رہا بولا تو لفظ بولا۔
- السكوت بئخو الوضات:
خاموشی رضامندی کی طرح ہے۔
- رب سكوت ابلغ من كلام:
زبان سکوت ابلغ من کلام۔

جب تو سنانہ کے تو اشارہ ہی کر دینا۔
• اسمع ولا تصدق:

سن لے خواہ تصدیق نہ کر۔
• سامعا دعوت:

تو نے سننے والے کو پکارا ہے۔
• بین سمع الارض و نصرها:

زمین کے کان اور آنکھ کے درمیان۔
• اسمع من قواد:

چچڑی سے زیادہ سننے والا۔
• قد استسمنت ذاورد:

تو نے درم والے کو موٹا سمجھ لیا۔
• سمنکم هريق في اربمکم:

تمہارا اگھی تمہاری کھال میں ہی اٹھیل دیا گیا ہے۔
• اسمن من یغر:

یغر سے زیادہ فریہ۔
• من لی بالسانع بعد النارج:

کون میرے لیے مبارک ہوگا منحوس کے بعد۔
• کان سندانافصار مضرقة:

وہ اہرن تھا پھر ہتھوڑا بن گیا۔
• اذا كنت سندانافصبر و اذا كنت مطرقة فارجع:

اگر تو اہرن ہے تو صبر کر اور اگر ہتھوڑا ہے تو درو پہنچا۔
• اسهر من النجم:

ستارے سے زیادہ چائگئے والا۔
• اسهر من قطرب:

قطرب منکھر سے زیادہ جائگئے والا۔
• سہم لك و سہم علك:

ایک حصہ تیرے موافق دوسرا تیرے مخالف۔
• اساء سمعا فاساء اجابة:

اس نے غلط سنا اور غلط جواب دیا۔
• اساء كارة ما عمل:

مجبور شخص نے برا کام کیا۔
• اساء رعيا فسقى:

اس نے بری طرح چرایا پھر پانی بھی پلا دیا۔
• سوء الظن من شدة الصن:

بدگمانی انتہائی دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
• سيد القوم اشمام:

قوم کا سردار سب سے بد بخت ہوتا ہے۔

بہت سی خاموشیاں کلام سے پہنچ ہوتی ہیں۔

• زبما تمان السکوت جوابا:

بسا اوقات خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔

• سلع الحباری سلاح:

سرخاب کا پیٹ کرنا ہی اس کا ہتھیار ہے۔

• سلاح الضعفاء الشکایة:

کمزور دل کا ہتھیار شکایت ہی ہے۔

• اسلح من الحباری:

سرخاب سے زیادہ پیٹ کرنے والا۔

• السلطان ظل الله في ارضه:

بادشاہ خدا کی سر زمین پر خدا کا سایہ ہے۔

• لاسلطان بلا رجال:

بغیر آدمیوں کے کوئی بادشاہ نہیں بنتا۔

• ليس لسلطان العلم زوال:

سلطان علم کو زوال نہیں۔

• من سلك الجد دامن العثار:

جو شخص ہموار زمین پر چلے گا وہ پھینکے سے محفوظ رہے گا۔

• ان سلمت من الاسد فلا تطمع في صيده:

اگر تو شیر سے بچ جائے تو اس کے شکار کا لالچ نہ کر۔

• من سلمت سريرته سلمت عيلانيته:

جس کی باطنی نصیحت درست ہوگی اس کا ظاہر بھی سالم ہوگا۔

• ان تسلم الجيلة فالنسب هدر:

اگر بڑے اونٹ بچ جائیں تو بوڑھی اونٹنیاں رائیگاں ہیں۔

• السلامة عيبتها:

سلامتی ایک غنیمت ہے۔

• ان السلامة منها ترك ما فيهلته:

اس کی سلامتی یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔

• اسمح من لاقظن:

پرندے سے زیادہ سچی جو اپنے پیٹ کا کھانا اپنے بچوں کا چگا دیتا ہے۔

• لقد اسمعت لوقاديت حيا:

اگر تو کسی زندہ پکارا تو اس کو سنا دیتا۔

• اسمع جفحة ولا اري طحنا:

چکی کی گڑ گراہٹ تو سنتا ہوں مگر آٹا کھائی نہیں دیتا۔

• ان تسمع بالمعیدی خير من ان تراه:

تیرا معیدی کو سنتا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ المعیدی ایک بد شکل پہلوان

تھا اس کو دیکھنا۔ اچھا نہ لگتا تھا۔

• اذا لم تسمع فالمع:

- من شئت علي خلق شاب عليه - جو اس کی فطرت پر کوئی جوان ہو اسی پر بوزھا ہوگا۔
- الشباب مطية الجهل - جوانی جاہلت کی سواری ہے۔
- الشبان نبت للجانح فيما يطينا - بچے بھر ابھو کے کے لئے آہستہ روٹی توڑتا ہے۔
- ان هذا الشبل من ذاك اللسان - یہ بچہ بھی اسی شیر کا ہے۔
- من اشبه اباه فما ظلم - جو اپنے باپ کی مشابہ ہو اس نے زیادتی نہیں کی۔
- اشبه من الماء بالماء - پراس سے زیادہ مشابہ جیسے پانی سے پانی۔
- انه لا شبه به من التمره بالتمرة - وہ یقیناً اس سے زیادہ مشابہ ہے جیسے ایک گجور دوسری سے۔
- ما اشبه حجل الخنثال بلوانه صخره - پہاڑوں کی چوکراس کی چٹانوں کے رنگ سے کتنی مشابہ ہوتی ہے۔
- ما اشبه الليلة بالبارحة - آج کی رات کل کی گذشتہ رات سے کس طرح مشابہ ہے۔
- الشبهة اخب الحرام - شبہ حرام کی بہن ہے۔
- يشبع مرقه و يابسواخري - کبھی زخمی کرتا ہے بھی عم خواری کرتا ہے۔
- اشجع من لث - شیر سے زیادہ بہادر۔
- اشجع من اسامه - شیر سے زیادہ بہادر۔
- الشجاع موتى - بہادر سے کترتے ہیں۔
- ان لم يكن شخه ففش - اگر چہ نہ ہو تو اون ہی سہی۔
- شخه في الانا و شخبا في الارض - دودھ ایک دھار برتن اور ایک زمین پر۔
- ولما اشده ساعده و ماني - جب اس کی کلائی مضبوط ہو گئی تو اس نے میرے ہی حیران۔
- اشده حزنا من الخنساء علي صخره - صخرہ پر غم کرنے والی سے خنساء سے بھی زیادہ۔
- للشدائد تدخر الرجال -

- ما كل سوداء تمره - ہریاہ چیز گجور نہیں ہوتی۔
- لو ذات سوار لطمنتي - کاش کہ کوئی نکلن والی عورت مجھے طہا نچ مارتی۔
- ما ساواك بنفسه ما ظلمك - جس نے تم کو اپنے نفس کے برابر رکھا اس نے تجھ پر ظلم نہیں کیا۔
- ساواك عبد غيرك - تیرے غیر کا غلام تیرے برابر ہے۔
- ان استوى فسكين و ان اعوج فمئجل - وہ اگر سیدھا ہو تو پھری ہے اور نیڑھا ہو تو دراتی ہے۔
- ستر و فمزلک - چلا جا چاند تیرے واسطے ہے۔
- سيرة المرأة تنبي عن سيرتها - آدمی کی عادت اس کی باطنی شرافت کی خبر دیتی ہے۔
- سيريس في خوزة - دو تھے ایک سوراخ ہیں۔
- ساء بهم السيل و جاش ساء الجر - ان کو سیلاب نے بہادیا اور ہم پر سمندر چڑھ آیا۔
- سيل به و هو لا يدري - اس کو بہادیا گیا مگر اسے خبر بھی نہیں۔

ش

- اشام من براقش - براقش سے زیادہ منخوس۔
- اشام من البسوس - بسوس سے زیادہ منخوس۔
- اشام من جفار - قبر کھودنے والے سے زیادہ منخوس۔
- اشام من داحس - داحس سے زیادہ منخوس۔
- اشام من رعيه الحولاء - حولاء کی روٹی سے زیادہ منخوس۔
- اشام طويس - طويس سے زیادہ منخوس۔
- اشام من عطر منشم - منشم کے عطر سے زیادہ منخوس۔
- اشام من غراب البين - جدائی کے کوئے سے زیادہ منخوس۔

مختیوں کے لئے آدمیوں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

• عند الشدائد تذهب الاحقاد
مصیبت کے وقت دشمنان زائل ہو جاتی ہیں۔

• عند الشدائد تعرف الاخوان
مختیوں کے وقت بھائی پہچانے جاتے ہیں۔

• شر ايام الدينك يوم تغسل رجلا
مرغ کے لئے بدترین دن وہ ہے جو بعد میں یاد آئے۔

• شر الراي الدبري
بدترین سختی وہ ہے جو بعد میں یاد آئے۔

• شر الشدائد مما يضلح
بدترین سختی وہ ہے جو ہنسائے والی ہو۔

• شر من الشرفا على
سو برائیوں کی ایک برائی برائی کرنے والا۔

• شر من الموت ما يمتسي معه الموت
موت سے بری وہ مصیبت ہے جس کے ہوتے ہی موت کی تمنا کی جائے۔

• شر الناس من نيقية الناس
بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ پرہیز کریں۔

• شر الناس من ذراة الناس بشر
بدترین آدمی وہ ہے جس کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو۔

• شر الناس من لا يبالي ان يراه الناس مستبعا
بدترین آدمی وہ ہے جو اس کے پروا نہ کرے کہ لوگ اس کو بدی کرتے

دیکھیں گے۔

• الشر احب ما اوعيت من زاد
برائی وہ سب سے زیادہ برا تو شہ ہے جس کا تم نے ذخیرہ کیا۔

• الشر قليله كثير
برائی تو تھوڑی بھی زیادہ ہے۔

• ان في الشر خيار
شر میں کچھ خیر بھی ہوتی ہے۔

• لكل شر باع
ہر شر کا کوئی اٹھانے والا ہے۔

• لا تشرب السم اذكالا على الترياق
ترياق پر بھروسہ کر کے ظاہر نہ ہو چوینا۔

• اشرب من الهم
پیا سے اونٹ سے بھی زیادہ پیئے والا۔

• اشرب من الرمل
ریت سے زیادہ پیئے والا۔

• اشرب من القمع
اشرب من القمع

قیف سے زیادہ سے پیئے والا۔

• اشترط املكك عليك ام لك
شرط زیادہ لازم ہے خواہ تیرے مخالف ہو یا موافق۔

• شرعتك ما بلغت المحل
تیری زور راہ ہے جو تجھے مقام تک پہنچا دے۔

• ان الشراك فذ من اديمه
تسمہ اپنی کھال سے ہی کاٹا گیا۔

• من اشترى الحمد له يغيب
جس نے تعریف خریدی اس نے خسارہ لے گیا۔

• من يشتري سني و هذا اثره
بیری تلوار کون خریدتا ہے اور یہ اس کا اثر ہے۔

• الامن يشتري سهرا بنوم
کیسا کوئی خریدتا ہے جو نیند کے بدلے بیداری کو خریدے۔

• اشتر بنفسك وللشوق
اپنے اور بازار کے لئے خریدو۔

• الشعير يوكل ويدم
جو کھلایا جاتا ہے پھر اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے۔

• شعاع الشمس لا يخفي ونور الحق لا يطفى
آفتاب کی شعاعیں کو چھپایا نہیں جا سکتا اور حق کے نور کو چھپایا نہیں

جا سکتا۔

• ان يكن الشغل جهدة فان الفراغ مفسدة
شغل اگر مشقت میں ڈالتا ہے تو بیکاری باعث فساد ہے۔

• ان الشنيق بسوء الظن مولع
یقیناً مہربان برے گمانوں کا حریف ہوتا ہے۔

• شفقت نفسي وجدعت نفى
میں نے اپنے نفس کو شفا دی مگر اپنی ناک کاٹ دی۔

• شقا فلان عص قومه
فلاں نے اپنی قوم کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔

• ما يشق غيابة
اس کا غبار چیرا نہیں جا سکتا۔

• شقشقة هدرت ثم قررت
اونٹ کے منہ کا لحمڑا ہے کہ پہلے آواز نکالی پھر ساکن ہو گیا۔

• ان الشقي تولى له اعلاما
بد بخت کی تمام علامتیں دیکھ لو گے۔

• ان الشقي وفد الراجم
بد بخت پر جم کا آنے والا بیشک بد بخت ہے۔

• لا يشكر الله من لا يشكر الناس
لا يشكر الله من لا يشكر الناس

وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں جو لوگوں کا شکر گزار نہیں۔

• اشکر من بزو قہ:

برق سے زیادہ شکر گزار۔

• تشکر الی غیر مصمت:

اس سے شکایت کر رہا ہے جو خاموش نہیں رہتا۔ یا خاموش نہیں کرتا۔

• الشماتۃ لوہ:

دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا کمینہ پن ہے۔

• لکل شمس مغرب

ہر سورج کو ڈوبتا ہے۔

• مالی بشمس لاندینی:

میرے سورج کو کیا ہوا کہ مجھے گرم نہیں کرتا۔

• ہو عندی بالشمس:

وہ میرے بائیں ہے۔

• رب شانۃ احنی من ام:

بہت سی دشمن مورتیں میں سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔

• شنۃ اغرفیہا من احم:

وہ خصلت ہے جو مجھے اہزم سے معلوم ہے۔

• شاہد لتعلب ذنبہ:

لوٹری کا گواہ اس کی دم ہے۔

• شاہد البغض النظر:

بغض گوہ غضب تا کہ نظر ہے۔

• شہادات الفعال خیر من شہادات الرجال:

کاموں کی شہادت لوگوں کی شہادت سے بہتر ہے۔

• اشہر من الشمس:

سورج سے زیادہ مشہور۔

• اشہر من خبیر:

چاند سے زیادہ مشہور۔

• اشہر من البدر:

کامل چاند سے زیادہ مشہور۔

• اشہر من الصبح:

صبح سے زیادہ مشہور۔

• اشہر من فلق الصبح:

ظہور صبح سے زیادہ مشہور۔

• اشہر من علم:

پہاڑیا جھنڈے سے زیادہ مشہور۔

• اشہر من نار علی علم:

پہاڑ پر آگ سے زیادہ مشہور۔

• اشہر من الابلق:

ابلق سے زیادہ مشہور۔

• اشتہی و تشکی:

کیا تو چاہتا ہے اور شکایت بھی کرتا ہے۔

• من شہوة النمر بمص النوی:

کھجور کی خواہش کے سبب گھٹلی کو چوستا ہے۔

• شب شوباً لك بعضہ:

وہ بناؤ جس کا کچھ حصہ تمہارے لئے ہو۔

• شاب يشوب شوباً:

بمعی مرکب کرنا ملانا۔

• ان شاورت العاقل حار عقله لك:

جب تو نے عقلمند سے مشورہ کیا تو اس کی عقل تمہاری ہوگی۔

• تشوف النفاس يظہر النحاسین:

تانے کو صاف کرنا تانے کو اچھی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔

• من الشوكة تخروج الوردة:

کانٹے ہی سے گلاب کا پھول نکلتا ہے۔

• الشاة مذبوحة لا یولمنا السلیخ:

ذبح شدہ بکری کی کھال اتارنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔

• کل شاة تناط برجلینہا:

ہر بکری کو اس کے پاؤں کے بل لٹکایا جاتا ہے۔

• لا یكون ذالك حتی یشیب الغراب:

ہر نہیں ہو سکتا جب تک مستفید نہ ہو جائے۔

• کل شیء و ثمنہ:

ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔

• بات یشوی القواح:

خالص پانی کو ہی بھونتا رہا۔

• شیک ناعیک:

تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کا خبر ہے۔

ص

• حبابتی تروی و لیست غیلا:

میرا تھمٹ سیراب کر دیتا ہے اتنا نہیں کہ زمین پر رہے۔

• عند الصباح یحمد القود السری:

صبح کے وقت قوم میں رات میں چلنے کی تعریف کرے گی۔

• من صبر ظفر:

جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا۔

• الصبر حیلۃ من لاجیلۃ لہ:

صبر اس کا حیلہ ہے جس کا کوئی حیلہ نہیں۔
• الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرْحِ:

صبر کشادگی کی کنجی ہے۔
• اصبر من الودت:

میخ سے زیادہ صابر۔
• اصبر من الارض:

زمین سے زیادہ صابر۔
• الصَّيْبُ اعْلَمُ بِمَضْجِ فِيهِ:

بچہ اپنے منہ چبانے کو خوب جانتا ہے۔
• وَ رُبَّمَا صَحَّتِ الْاجْسَامُ بِالْعِلَلِ:

کبھی جسم بیماریاں کے سبب سے تندرست بھی ہو جاتے ہیں۔
• صَاحِبُ الْحَاجَةِ اعْمَى:

ضرورت مند ہمیشہ اندھا ہوتا۔

• وَ صَاحِبُ الْبَيْتِ اِدْرِي بِالذِّي فِيهِ:
مکان والا زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ مکان میں ہے۔

• صَحِيفَةُ الْمُتَلَمِّسِ:

متلمس کا خط: خود فریبی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والا۔

• تَضَدُّ الْقُلُوبِ كَمَا يُضَدُّ الْحَدِيدُ:

دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہوتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے۔

• صَدْرُكَ اَوْ سَعِ لَسْرِكَ:

تیرا ہی سینہ تیرے راز کے لئے زیادہ ہے۔

• صَدُورُ الْاِحْرَارِ قُبُورُ الْاَسْرَارِ:

شریفوں کے سینے رازوں کی قبر ہوتے ہیں۔

• صَادِقٌ دَرَاءُ الشَّيْلِ دَرَاءُ يَضْدَعُهُ:

سیلاب کی ٹکرائی ٹکرتی ہے جو سیلاب کی ٹکرت کو توڑ دے گی۔

• مِنْ صَدَقَ اللَّهُ نَجَا:

جو اللہ کے ساتھ چارہاں سے نجات پائی۔

• الصَّدَقُ بِنِيءٍ عِنْدَكَ لَا الْوَعِيدُ:

عمل کی سچائی تمہاری خبر دے گی نہ دھمکی۔

• اَصْدَقُ مِنْ لَفْظٍ لِحَظٍ:

بات سے زیادہ سچی نگاہ ہے۔

• اَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا:

قطا سے زیادہ سچا۔

• صَرَاحُ الْمَضْضِ عَنِ الرَّيْدِ:

خالص چیز جھاگ سے الگ ہو گئی۔

• عِنْدَ التَّصْرِيحِ تَرْيِيحُ:

بات کہنے کے وقت تو راحت پائے گا۔
• الصَّرِيحُ تَحْتَ الرَّغْوَةِ:

صاف چیز جھاگ کے نیچے ہے۔

• مِنْ ضَاغِ الْحَقِّ صَرَغُهُ:

جو حق سے کشتی کرے گا حق اس کو بچاؤ دے گا۔

• لِكُلِّ صَارِمٍ بِنُورَةٍ لِكُلِّ حِوَارٍ كِتَابَةٌ لِكُلِّ عَالَمٍ هَفْوَةٌ:

ہر تلوار کبھی اچٹ جاتی ہے ہر گھوڑا کبھی ٹھوکر کھاتا ہے اور ہر عالم سے کبھی لغزش ہوتی ہے۔

• اَصْعَبُ مِنْ رَدِّ الشَّخَبِ فِي الْفُرْعِ:

دودھ کی دھار کو تھن میں لوٹا دینے سے زیادہ مشکل۔

• كَصَفِيحَةِ الْمَسْنِ تَشْجِدُو لَا تَقْطَعُ:

سان کے پتھر کی طرح دھار کو تیز کرتا ہے اور خود نہیں کاٹتا۔

• صَفْقَةُ لَمْ يَشْهَدْهَا حَاطِبٌ:

ایسا سو اچس میں حاطب موجود نہیں تھا۔

• اَصْفَى مِنَ الدَّمْعَةِ:

آنسو سے زیادہ صاف۔

• اَصْفَى مِنْ عَيْنِ الدَّيْكَ:

مرغ کی آنکھ سے زیادہ صاف۔

• اَصْفَى مِنْ جَنِي النَّحْلِ:

شہد سے زیادہ خالص۔

• اَصْلَحُ غَيْثٌ مَا اَفْسَدَ الْبَرْدُ:

بارش نے درست کر دیا جس کو سردی خراب کر دی۔

• وَهَلْ يَصْلِحُ الْعَطَارُ مَا اَفْسَدَ الدَّهْرُ:

کیا عطار اس کی اصلاح کرے گا جس کو زمانے نے فاسد کر دیا۔

• لَا يَصْلِحُ رَفِيقًا مَنْ لَمْ يَصْلِحْ دَيْفًا:

وہ شخص رفیق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو غصے کا تھوک نہ تگلے۔

• مَا لَا يَصْلِحُ نَزْكُهُ اَخْلَعُ:

جو درست نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دے۔

• اَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلِحْ لَكَ النَّاسُ:

اپنے آپ کو درست کر کے تمہارے لیے لوگ درست ہو جائیں۔

• رَبُّ صَلَفٍ تَحْتَ الرَّعْدَةِ:

گر بننے والے ابر کے نیچے بسا اوقات خالی بادل بھی ہوتے ہیں۔

• اَصْمُ عَمَّا سَاءَ دَسْمِيعُ:

ستارے مگر ان باتوں سے بہرہ ہے جو اس کو بری معلوم ہوتی۔

• صَمِصَامُهُ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ:

عمر و بن معدیکرب کی تلوار۔

• اَصْنَعُهُ صَنْعَةً مِنْ طَبِّ لَمَنْ حَبَّ:

- اِيَاكَ اَنْ يَضْرِبَ لِسَانَكَ عُنُقَكَ:
- اس بات سے بچو کہ تمہاری زبان تمہاری گردن مارے۔
- صَرَبٌ اَوْ جَعٌ:
- دوست کی مار کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔
- اِنهَا لَصَفْعٌ عَلٰى اِبَالَةٍ:
- وہ گٹھڑی پر ایک اور گٹھڑی ہے۔
- قَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَتْ الْعِمِيَانُ تَهْدِيْتُهُ:
- وہ کھویا گیا جس کی رہنمائی اندھے کرتے ہیں۔
- اَصْلٌ مِنْ ضَبٍّ:
- گوہ سے زیادہ گمراہ۔
- اِنَّمَا يَضُنُّ بِالضَّنِينِ:
- بخیل کے ساتھ بھل کیا جاتا ہے۔
- اَضِي لِيْ اَفْذَحٌ لَكَ:
- تو میرے لیے روشن کر میں تیرے لیے جفاک سے آگ نکالوں۔
- لَا يَضِيْعُ حَقٌّ وَّرَاءَ هُوَ طَالِبٌ:
- وہ حق ضائع نہیں ہوتا جس کے پیچھے طلبگار ہو۔
- لَمْ يَضَعْ مِنْ مَالِكَ مَا وَغَطَكَ:
- تیرے مال میں وہ حصہ ضائع نہیں جس نے تیری خیر خواہی کی۔
- اَضْيَعُ مِنْ مِرَاجٍ فِي شَمْسٍ:
- دھوپ میں چراغ سے زیادہ ضائع۔
- اَضْيَعُ مِنْ غَمَدٍ يَلْتَصِلُ:
- بغیر تلوار سے میان سے زیادہ بیکار۔
- اَضْيَعُ مِنْ قَمَرِ الشِّتَاءِ:
- جاڑوں کی چاندنی سے زیادہ بیکار۔
- اِذَا ضَافَكَ مَكْرُوهُ فَاقْرَهُ صَبْرًا:
- جب مصیبت مہمان ہو تو صبر سے اس کی نسیافت کرو۔
- اَضْيِقُ مِنْ ظِلِّ الرَّمْحِ:
- نیزے کے سائے سے زیادہ تنگ۔

ط

- تَطَاطَأَ لَهَا تَخْنِيْكُ:
- مصیبت کے سامنے سر جھکا لیا تاکہ تم نشانہ خطا کر کے گذر جائے۔
- طَبِيْبٌ يَدَاوِي الْبَنَاسَ وَ هُوَ مَرِيضٌ:
- وہ طبیب ہے جو لوگوں کا علاج کرتا ہے اور خود مریض ہے۔
- يَا طَبِيْبُ طَبِّ نَفْسِكَ:
- طبیب اپنا علاج کروائیں۔
- الطَّعْبُ اَغْلَبُ:

- اس کو ایسے بنا چیسے ایک تجربہ کار آدمی اپنے محبوب کے لئے بناتا ہے۔
- اصْنَعُ مِنَ النَّحْلِ:
- شہد کی مکھی سے زیادہ کارگر۔
- اصْنَعُ مِنَ ذُو الْقَفْزِ:
- ریشم کے کیڑے سے زیادہ کارگر۔
- اصَابَ تَمْرَةَ الْغُرَابِ:
- کوئے کو بہترین چیز مل گئی۔
- مَصَابِ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ:
- ایک قوم کے مصائب دوسری کے لئے فوائد ہوتے ہیں۔
- لَيْسَ بَصِيَاحُ الْغُرُبِ يَحِي الْمَطْرَ:
- کوئے کے پکارے بارش نہیں آسکتی۔
- هَذَا يَصِيْدُ وَ هَذَا يَأْكُلُ السَّمَكُ:
- یہ شکار کرتا ہے اور پھل کھاتا ہے۔
- صَيْدُكَ لَا تَحْرَمُهُ:
- اپنا شکار کرے اس سے محروم نہ رہ۔
- يَا صَيْدُكَ اِنْ لَمْ تَحْرَمُهُ:
- وہ تیرا شکار ہے اگر تو اس کو محروم نہ کرے۔
- كَلَّ الصَّيْدُ فِي جَوْفِ الْفِرَا:
- تمام شکار گور خر کے پیٹ میں ہیں۔
- فِي الصَّيْفِ صَيَّتِ اللَّبَنُ:
- تو نے دودھ کو گرمیوں ہی میں ضائع کر دیا۔

ض

- الصَّحْوُ تَحْلِبُ الْعُلْبَةَ:
- تنگ آتی ہوئی اونٹنی دودھ کا برتن بھر رہتی ہے۔
- اضْطَرَّ السَّبِيلُ اِلَى الْعَطَشِ:
- سیلاب نے اس کو پیاس سے مجبور کر دیا۔
- لَا يَضْرِبُ السَّحَابُ نَبْعَ الْكَلَابِ:
- کتوں کا بھونکنا پادل کو ضرر نہیں۔
- الضَّرَوْرَاتُ تَتَّبِعُ الْمَخْطُوْرَاتِ:
- ضرور تیں ممنوع چیزوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔
- ضَرْبُ اِحْمَاسًا لَا سِدَاسًا:
- اس نے پانچویں دن کی باری والے اونٹ کو چھٹے دن والے کی باری بنا دیا۔
- اِذَا ضَرَبْتَ فَاَوْجِعْ وَ اِذَا زَجَرْتَ فَاسْمِعْ:
- دار کرے تو بھر پور اور جھڑکے تو اچھی طرح سنا دے۔
- اِنَّكَ تَضْرِبُ فِي جَدِيْدٍ بَارِدٍ:
- تو ٹھنڈا الو با پیٹ رہا ہے۔

اشعب سے زیادہ حریم۔

طبیعت زیادہ غالب ہوتی ہے۔

• اَطْمَعُ مِنْ طُفِيلٍ:
طفیل سے زیادہ حریم بغیر دعوت کے طفیل نامی کوفہ کا باشندہ دعوتوں میں چلا جاتا تھا۔

• طَرَفُ الْفَتَى يُخَيِّرُ عَنْ جَنَانِهِ اَوْ عَنْ حَمِيرِهِ:
جو ان کی نگاہ اس کے دل کی جبر دیتی ہے یا اس کے ضمیر کی۔

• مَنْ اطَاعَ هَوَاهُ بَاعَ دِينَهُ بَدْنِيَاهُ:
جس نے اپنی خواہش کی اطاعت کی اس نے اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا۔

• رَبُّ طَرْفٍ اَفْصَحَ مِنْ لِسَانٍ:
بہت سی نگاہیں زبان سے صحیح ہوتی ہیں۔

• مَنْ اطَاعَ غَضَبَهُ اصْأَعَ اَذْيَهُ:
جس نے اپنے غصے کی اطاعت کی اس نے اپنا ادب ضائع کر دیا۔

• اَلطَّرِيفُ خَفِيفٌ وَالتَّلْبِذُ بَلِيدٌ:
نی چیز سبک اور لطیف ہوتی اور پرانی چیز گھس۔

• اَطْرَفَ كَرَامًا اِنَّ الْعَمَامَةَ فِي الْقُرَى:
(نظر جھکائے) گاؤں میں شتر مرغ موجود ہے۔ یعنی ذلیل بڑوں کے سامنے بڑی باتیں کرتا ہے۔

• بَيْنَ الْمِطْمَعِ وَبَيْنَ السُّدْبِ الْعَاصِي:
فرمان پر دار اور اوندھے نافرمان کے درمیان کر دیا۔

• لَا تَطْعَمُ الْعَبْدُ الْكُرْعَ قِطْمَعٍ بِالذَّرَاعِ:
غلام کو پا کھر مت کھلاؤ ورنہ وہ دست کی طرح کرے گا۔

• مَنْ يَطْدُ ذَيْلَهُ يَتَنَطَّقُ بِهِ:
جس کا دامن دراز ہوتا ہے وہ اس کا پچکا باندھتا ہے۔

• اَطْعَمِي مِنَ لَسَانِي:
سیلاب سے زیادہ مرش۔

• مَنْ طَلَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ سَيُذِرُ كُفَّهَا اِذَا شَبَابُ الْغُرَابِ:
جو بغیر مشقت اعلیٰ درجات حاصل کرتا ہے وہ اس وقت حاصل کرتا ہے جب کو استفید ہو جائے۔

• اَطْوَلُ مِنْ ظِلِّ الرُّمْحِ:
نیزہ کے سایہ سے زیادہ لمبا۔

• مَنْ طَلَبَ اَخَا بِلَا عَيْبٍ بَقِيَ بِلَا اَخٍ:
جو بے عیب بھائی تلاش کرے گا وہ بغیر بھائی کے ہی رہے گا۔

• اَطْوَلُ مِنَ شَهْرِ الصَّوْمِ:
روزہ کے مہینے سے زیادہ لمبا۔

• اَطْوَلُ صُحْبَةٍ مِنَ الْفِرْقَانِ:
فریقین سے بھی زیادہ طویل صحبت۔

• مَنْ طَلَبَ عَظِيمًا خَاطِرَ عَظِيمٍ:
جو کوئی بڑی مہم تلاش کرے گا وہ بڑے خطرہ کا شکار کرے گا۔

• مَا عِنْدَهُ طَائِلٌ وَلَا نَائِلٌ:
نا اس کے پاس علم فضل ہے نہ عطیہ۔

• طَوْبَتْهُ عَلَيَّ بِهَلَاكِهِ اَوْ عَلَيَّ بِهَلَاكِهِ:
میں نے اس کو اس کی کمی پر بھی کہتے ہیں۔

• مَنْ طَلَبَ شَيْئًا لَهٗ كَلْمَةٌ اَوْ بَعْضَةٌ:
جو کسی چیز کو طلب کرے گا وہ اس کے گل یا جز کو حاصل کرے گا۔

• الْكَلْبُ طَيْبٌ نَشْرًا:
بریت بھی کھلتا ہے۔

• تَطَلَّبُ اَثَرٍ بَعْدَ عَيْنٍ:
تواصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہا ہے۔

• اَطِيبُ مِنْ نَفْسِ الرَّبِيعِ:
موسم بہار کی ہوا سے زیادہ خوشگوار۔

• لَا اَطْلُبُ اَثَرَ بَعْدَ عَيْنٍ:
میں اصل کے بعد اثر طلب نہیں کرتا۔

• اَطِيبُ مِنَ الْحَيَاةِ:
زندگی سے زیادہ خوشگوار۔

• كُلُّهُمْ طَالِبٌ صَيْدٍ:
سب ایک ہی شکار کے طالب ہیں۔

• طَارَتْ بِهِمُ الْعَنْقَاءُ:
ان کو عنقا اڑائے گا۔

• رَبُّ طَلَبٍ جَرَّ اِلَيَّ حَرْبٍ:
بہت سی طلب لڑائی تک پہنچا دیتی ہے۔

• اَلطَّيْرُ بِالطَّيْرِ يُصَادُ:
ایک پرندہ دوسرے پرندے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔

• اِذَا طَلَعَ سُهَيْلٌ رُفِعَ كَيْلٌ وَوُضِعَ لَيْلٌ:
جب سہیل طلوع ہو گا تو ایک پیانہ اٹھ جائے گا دوسرا رکھا جائے گا۔

• اِنَّ الطُّيُورَ عَلَيَّ اَشْكَا لَهَا تَفْعُ:
پرندے اپنے ہم سنگوں پر پڑتے ہیں۔

• اِذَا طَلَعَ الْقَمَرُ طَابَ السُّهْرُ:
جب چاند نکلے گا تو بیداری خوش حالی ہو جائے گی۔

• اَطِيشٌ مِنْ قِبَلِ اَشْدَّ:
پروانہ سے زیادہ تیز گیل آنے والا۔

• اَطْمَعُ مِنَ الشَّعْبِ:
اشعب سے زیادہ حریم۔

• يُطَيِّنُ عَيْنَ الشَّمْسِ :
چشمہ آفتاب پر مٹی ڈالتا ہے۔

ظ

• ظُنِرَ رَوْومٌ خَيْرٌ مِنْ أُمَّ مَسْنُومٍ :
مہربان دایہ طول ماں سے بہتر ہے۔

• مِنَ الظَّرْفِ جُودُ المَهْدِيِّ بِالظَّرْفِ :
تحفہ دینے والے کی طرف سے برتن کی بھی سخاوت دلتائی کی بات ہے۔

• الظَّفَرُ بِالضَّعِيفِ هَزِيمَةٌ :
کمزور پر فتح پانا گلست ہے۔

• ظَلَّ السُّلْطَانُ سَرِيعَ الزَّوَالِ :
بادشاہ کا سایہ سریع الزوال ہوتا ہے۔

• ظِلَالٌ صَيْفٍ مَالِهَا قِطَارٌ :
گرمی کے بادل میں قطار پیش۔

• ظَلَمَ مَرءٌ يَبْصَرَ عَهْدَهُ :
آدمی کا ظلم ہی اس کو بچھا دیتا ہے۔

• الظُّلْمُ مَرْتَعَةٌ وَخَيْمٌ :
ظلم کی چراگاہ ناقص ہے۔

• أَظْلَمَ مِنْ حَيَّةٍ :
سانپ سے زیادہ ظالم۔

• أَظْلَمَ مِنْ أَعْيَى :
سیاہ سانپ سے زیادہ ظالم۔

• أَظْلَمَ مِنْ لَيْلٍ :
رات سے زیادہ سیاہ۔

• أَظْمَاءٌ مِنْ رَمَلٍ :
ریت سے زیادہ پیاسا۔

• يُصْبِحُ ظَلْمَانٌ وَفِي البَحْرِ قَمَهُ :
صبح ہوتی ہے گویا ساہو تاحالانکہ منہ سمندر میں ہے۔

• ظَنَّ العَاقِلُ خَيْرًا مِنْ يَقِينِ الجَاهِلِ :
عقل کا گمان جاہل کی یقین سے بہتر ہے۔

• مَا ظَنَنْتُكَ بِجَارِكَ قَالَ ظَنِّي بِنَفْسِي :
تیرا گمان اپنے پر دوسری کے متعلق کیا ہے کہادہ گمان جو اپنی ذات کے متعلق ہے۔

• أَكْثَرُ الظُّنُونِ مُبِينٌ :
اکثر گمان فریب ہوتے ہیں۔

• عَنْ ظَهْرِ هَاتِحِلٍ وَ قِرَا :
اپنی ہی کمر کا بوجھ کھوج رہی ہے۔

• ظَاهِرُ العِتَابِ خَيْرٌ مِنْ بَاطِنِ الحَقْدِ :
ظاہری عتاب باطنی کینہ سے بہتر ہے۔

• وَ بَيَقِي الوُدُّ مَا بَقِيَ العِتَابُ :
محبت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک عتاب باقی ہے۔

ع

• عَيْدٌ وَ جِلْبِيٌّ فِي يَدِيهِ :
غلام اور اس کے ہاتھوں میں زیور۔

• عَيْدٌ وَ سَوْمٌ :
غلام اور بے مہد۔

• عَيْدٌ غَيْرُكَ حُرٌّ مِثْلَكَ :
غیر کا غلام تمہاری آزادی ہے۔

• العَيْدُ يَقْرَعُ بِالْعَصَا وَ الحُرُّ تَكْفِيهِ الإِشَارَةُ :
غلام کو ڈنڈے سے کلکایا جاتا ہے آزاد کو اشارہ کر دیا جاتا ہے۔

• العَيْدُ مِنَ لَأَعْبُدُهُ :
غلام وہ بھی ہے جس کا کوئی غلام نہ ہو۔

• فِي الإِعْتِبَارِ غِنَى عَنِ الإِخْتِيَارِ :
عبرت حاصل کرنے میں امتحان سے بے نیازی ہے۔

• التَّعْبِيرُ نِصْفُ التَّجَارَةِ :
پرکھنا آدھی تجارت ہے۔

• مَنْ عَتَبَ عَلَيَّ الدَّهْرَ طَالَتْ مَعْتَبَتُهُ :
جس نے زمانہ پر عتاب کیا اس کا عتاب طویل ہو گیا۔

• العِتَابُ خَيْرٌ مِنْ مَكْتُومِ الحَقْدِ :
عتاب چھپے ہوئے کینہ سے بہتر ہے۔

• العِتَابُ قَيْدُ العِقَابِ :
سنبھرا سے پہلے عتاب کرو۔

• لَا عِتَابَ بَعْدَ المَوْتِ :
موت کے بعد کوئی عتاب نہیں۔

• مُعَاتِبَةُ الإِخْوَانِ خَيْرٌ مِنْ فُقْدَانِهِمْ :
بھائیوں کی ناراضگی ان کے نمانہ ہونے سے بہتر ہے۔

• وَ فِي العِتَابِ حَيَاةٌ بَيْنَ أَقْوَامٍ :
عتاب میں قوموں کی زندگی ہے۔

• رَبُّ عَنقِ شَرٍّ مِنْ رِقٍّ :
بعض آزادی غلامی سے بدتر ہے۔

• عَشْرَةُ القَدَمِ أَسْلَمٌ مِنْ عَشْرَةِ اللِّسَانِ :
قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے زیادہ محفوظ ہے۔

• مَا كَلَّ عَشْرَةَ تَقَالٍ وَلَا كَلَّ فُرْصَةَ تَنَالٍ :
بے لگامی سے زیادہ محفوظ ہے۔

- اَعْدِرْ مَنْ اَنْذَرَ
- اس نے عذر پیش کیا جس نے ڈرایا تھا۔
- المَعَاذِرُ مَكَاذِبٌ
- عذر اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔
- رِجَالَةٌ تَعْتَقِلُ الرَّمَاحَ
- پیدل ہے جو نیزوں کو گھوڑے پر نصب کیے ہوئے ہے۔
- عَرَضٌ لِلْكَرِيمِ وَلَا تَبَاحٌ
- شریف سے اشارہ کنایہ سے کہو صاف مت کہو۔
- اِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَسَدُوْحَةً عَنِ الْكُذْبِ
- کنایوں میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔
- عَرَفَ الْخَيْلُ فُرْسَانَهَا
- گھوڑوں نے اپنے سواروں کو پہچان لیا۔
- مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ
- جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔
- مَنْ عَرَفَ بَشِيئَةَ نَسَبِ الْيَدِ
- جو شخص کسی چیز کے ذریعے پہچانا گیا کسی کی طرف منسوب ہو گیا۔
- لَا يَعْرِفُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
- حق کو باطل سے ممتاز نہیں کر سکتا۔
- لَا يَعْرِفُ الْعَوْدُ كَالنَّاحِمِ
- لکڑی کو چبانے والے کی طرح کوئی دوسرا معلوم نہیں کر سکتا یعنی ماہر انسان ہی چیز کو معلوم کر سکتا ہے۔
- مَا يَعْرِفُ قَبِيْلًا مِنْ ذَبِيْرٍ
- آنے والے کو جاننے والا ممتاز نہیں کر سکتا۔
- لَا يَعْرِفُ الْكُوْعَ مِنَ الْبُوْعِ
- وہ ہاتھ کی ہڈی کو پاؤں کی ہڈی سے ممتاز نہیں کر سکتا۔
- لَا يَعْرِفُ الْكَاعَ مِنَ السَّاعِ
- وہ کتے کی ہڈی اور پھیلے ہوئے ہاتھوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔
- لَا يَعْرِفُ الْيَهْرَ مِنَ الْبَيْرِ
- وہ بلی اور چوہے میں فرق نہیں کرتا۔
- الْاِعْتِرَافُ يَهْدِمُ الْاِقْتِرَافَ
- اعتراف کر لینا نکتہ جرم کو ختم کرنا ہے۔
- مَنْ عَزَّزَ
- جو غالب آیا اس نے جھین لیا۔
- اِنْ عَزَّ اَخُوْكَ فَهَنْ
- جب تیرا بھائی عزت پائے تو تو نرم ہو جا۔
- عَزَّ الرَّجُلُ اسْتِعْنَاهُ عَنِ النَّاسِ
- آدمی کی عزت لوگوں سے ہو شمار ہو جانا ہے۔

- ہر لغزش واپس نہ لی جائے اور نہ موقع پھر ہاتھ آتا ہے۔
- لَا يُبْجُرُ الْقَوْمَ اِذَا تَعَاوَنُوا
- جب قوم میں باہم تعاون ہو تو وہ عاجز نہیں رہتی۔
- الْعَجْزُ رِيْبَةٌ
- عاجزی ٹھک کی بنا پر ہے۔
- الْعَجَلَةُ فَرْصَةٌ الْعَجْزَةِ
- جلدی عاجزوں کی فرصت ہے۔
- لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ سُرْعَةُ الْعَزْلِ
- جلدی ملامت کرنا انصاف کی بات نہیں۔
- يُعَدُّ لِكَلْبِ السُّوءِ كَلْبٌ يُعَادِلُهُ
- برے کتوں کی طرح اسی جیسا کتا تیار کرنا پڑا۔
- اَعْدَلُ مِنَ الْمِيْزَانِ
- ترازو سے زیادہ منصف۔
- لَا تَعْدُمُ الْحَسَنَاتُ دَائِمًا
- کوئی حسینہ عیب سے خالی نہیں۔
- لَا يُعْدِمُ الْخَوَارِ مِنْ اُمَّةٍ حَنَّةٌ
- کوئی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی شفقت نہیں کھوتا۔
- الْعَدِيْمُ مِنْ اِحْتِاجِ اِلَى لَيْئِمٍ
- مفلس وہ ہے جو کینے کا محتاج ہو جائے۔
- مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ صَنَاقَ مَذْهَبِهِ
- جس نے حق سے تجاوز کیا کہ اس کا راستہ ٹھک ہو گیا۔
- اَعْدَى مِنَ السُّلَيْكِ
- سلیک سے زیادہ دوڑنے والا۔
- اَعْدُ مِنَ السَّنْفَرِيِّ
- شفیری سے زیادہ دوڑنے والا۔
- اَعْدَى مِنَ الْعَقْرَبِ
- بچھو سے زیادہ دُشمن۔
- اَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ
- کھجلی سے زیادہ متعدی۔
- اِيَّاكَ وَمَا يُعْتَدِرُ مِنْهُ
- اس چیز سے بچو جس سے معذرت طلب کی جائے۔
- وَالْعُدْرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ
- معذرت شریف لوگوں کے یہاں مقبول ہوتی۔
- لِعَالَةِ عَدْرًا وَاَنْتُ تُلُوْمُ
- شاید اس کا عذر ہو اور تو اس کو ملامت کر رہا ہو۔
- تَأْتُ وَلَا تَعْبَلُ بِلَوْمِكَ صَاحِبًا
- اپنے دو تہیت کو ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو۔

- طلب کے پتھے بہت سی برادیاں ہیں۔
- لَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ :
عروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔
- بَيْنَهُمْ عِطْرٌ مُنْتَشِمٌ :
ان کے درمیان منشم کا عطر لگا ہوا ہے۔
- اَعْطَشُ مِنْ ثَعَالَةَ :
لومڑی سے زیادہ پیاسہ۔
- اَعْطَشُ مِنْ رَمَلٍ :
ریت سے زیادہ پیاسا۔
- اَعْطَشُ مِنْ قَمْعٍ :
قیف سے زیادہ پیاسا۔
- اَعْطَاهُ غَيْضًا مِنْ فَيْضٍ :
اس کو زیادہ پانی میں سے تھوڑا دیا۔
- اَعْطَى مَقُولًا وَعُدْمَ مَعْقُولٍ :
اس کو گفتگو کی طاقت عطا ہوئی مگر معقولیت معدوم کر دی گئی۔
- وَ اِنَّمَا نُعْطِي الَّذِي اَعْطَيْنَا :
جو ہمیں دیا گیا وہ ہم دیتے ہیں۔
- اَعْطِ اَخَاكَ تَصْرَةً فَانِ ابِي فَجَمْرَةَ :
اپنے بھائی کو کھجور دو انکار کرے تو انکارہ دو۔
- اَعْطِ الْقَوْسَ بَادِيَهَا :
کمان اس کے بنانے والے کو دے۔ یعنی تجربہ کار کو کام دو۔
- مِنْ عَظَمِ صِغَارِ الْمَصَابِ اِبْتِلَاءٌ يَكْبَارُهَا :
چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھا اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔
- الْعُقُوقُ تُكَلِّمُ مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ :
اولاد کی سرکشی ان لوگوں کے لیے اولاد کھو دینے کی ہی برابر ہے جنہوں نے اولاد نہیں کھوئی۔
- الْعُقُوبَةُ اَلْاُمُّ حَالَاتِ الْقَدَرَةِ :
سزا دینا قدرت کی حالتوں میں سب سے کھیا درجہ ہے۔
- يَا عَاقِدُ اَذْكُرْ حَالًا :
اے گرہ لگانے والے کھولنے کا وقت بھی یاد رکھ۔
- لِكُلِّ عَقْدٍ حَلٌّ :
ہر گرہ کھلتی ہے۔
- اَعْقَدُ مِنْ ذَنْبِ الضَّبِّ :
گوہ کی دم سے زیادہ گرہ دار۔
- اَعْقِلْ لِسَانَكَ الْاَفْيَ اَرْبِعَةَ :
اپنی زبان روکو مگر چار موقعوں پر۔ ۱۔ حق کی وضاحت۔ ۲۔ باطل کا اسیصال۔ ۳۔ اظہار حکمت و علم۔ ۴۔ ادائے شکر۔

- اَعَزُّ مِنْ كَلْبٍ وَاثِلٍ :
واٹل کے کتے سے زیادہ معزز۔
- اَعَزُّ مِنَ الزَّبَاءِ :
زباہ سے زیادہ معزز۔ زباہ عمالۃ کی باشجاعت عورت تھی۔
- اَعَزُّ مِنْ اَنْفِ الْاَسَدِ :
شیر کی ناک سے زیادہ معزز۔
- اَعَزُّ مِنْ جِهَةِ الْاَسَدِ :
شیر کی پیشانی سے زیادہ معزز۔
- اَعَزُّ مِنَ الْاَبْلَقِ الْجَوِّ :
فضا کی عقاب سے زیادہ معزز۔
- اَعَزُّ مِنَ الْاَبْلَقِ الْعُقُوقِ :
ابلق حاملہ گھوڑے سے زیادہ نایاب۔
- اَعَزُّ مِنْ بَيْضِ الْاُنُوقِ :
شکرہ کے انڈوں سے زیادہ نایاب۔
- اَعَزُّ مِنَ الْغَرَابِ الْاَعْصَمِ :
سفید پاؤں والے کوے سے زیادہ نایاب۔
- اَعَزُّ مِنَ الْكَبْرِئِ الْاَحْمَرِ :
سرخ گندھک سے زیادہ نایاب۔
- اَعَزُّ مِنْ عِنْقَاءِ مَغْرِبِ
عِنْقَاءِ مِنْ زِيَادَةِ نَابِابِ -
- اَعَزُّ مِنْ مِخِّ الْبَعُوضِ :
چمچھر کے مغز سے زیادہ نایاب۔
- اِنْ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا :
بتنی کے بعد یقینی فراخی ہے۔
- لَيْسَ هَذَا بَعُثْكَ فَاذْرُجِي :
یہ تیرا گھونسلہ نہیں چلے جا۔
- اَعْشَيْتُ فَاَنْزَلْتُ :
تو گھاس پر پہنچ گیا ہے تو اتر پڑ۔
- بَكَلٌ عَشَبٌ اَثَارٌ رَحْمِي :
ہر گھاس میں چرنے کے آثار موجود ہیں۔
- تَعَاشَرُوا كَالْاِخْوَانِ وَتَعَامَلُوا كَالْاِجْنَابِ :
بھائیوں کی طرح ہنس کر داورا جنیوں کی طرح معاملہ کرو۔
- اِنْ الْعَصَا مِنَ الْعَصِيَةِ :
لاٹھی چھڑی سے بتی ہے۔
- بَيْنَ الْعَصَا وَلَمَامِيهَا :
لاٹھی اور اس کی چھال کے درمیان۔
- رُبُّ عَطْبٍ تَحْتَ طَلْبٍ :

- جس کی ہمت بلند ہوگی اس کا فکر بھی طویل ہوگا۔
- الْعَقْلُ وَ زَيْرٌ نَاصِحٌ:
عقل خیر خواہ و زیر ہے۔
- عَقْلُ الْمَرْأَةِ فِي جَمَالِهَا وَ جَمَالِ الْمَرْءِ فِي عَقْلِهِ:
عورت کی عقل اس کی خوبصورتی میں ہے اور آدمی کی خوبصورتی اس کی عقل میں ہے۔
- أَعْقَلَ النَّاسِ أَعْدَزَهُمُ لِلنَّاسِ:
سب لوگوں میں زیادہ عقلمند وہ ہے جو لوگوں کو عذر قبول کرنے والا ہو۔
- بَعْلَةٌ زَرَعُ سُقَى الْقَرْعِ:
کھیتی کی وجہ سے کدو کو بھی پانی پلایا جاتا ہے۔
- بَعْلَةُ الْوَرِثَانِ يَأْكُلُ رَطْبَ الْمِثَانِ:
ورثان کے بہانے سے بھجوریں کھا رہا ہے۔ یعنی شکاری شکار کے بہانے سے بھجوریں۔
- أَعْلَقَ مِنْ فِرَادٍ:
چھڑی سے زیادہ چٹنے والا۔
- لَيْسَ الْمُتَعَلِّقُ كَالْمُتَأَنِّقِ:
تھوڑی چیز پر اتفکار کرنے والا پیٹ بھرے کی خوشی نہیں۔
- يُعْلَمُ مِنْ أَيْنِ (أَوْ مِنْ حَيْثُ) تَوَكَّلَ الْكَيْفُ:
وہ جانتا ہے کہ شانہ (دست) کو کہاں سے یا کس طرح کھا جاتا ہے۔
- مَا كُلُّ يُعْلَمُ يُقَالُ:
ہر وہ چیز جو معلوم ہوئی جانی ضروری نہیں۔
- لَا تُعْلَمُ الْبَيْتِيمُ الْبِكَاءِ:
یتیم کو روٹانہ سکھاتا۔
- عِلْمُ الشَّيْءِ وَلَا جَهْلُهُ:
کسی چیز کا علم بہتر ہے نہ کہ عدم علم۔
- الْعِلْمُ فِي الصُّدُورِ وَلَا فِي السُّطُورِ:
علم سینوں میں ہے نہ کہ سطور میں۔
- إِنَّهُ لِعَالِمٌ بِمَنَابِتِ الْقَصِيصِ:
وہ قصص کے اگنے کے مقامات کو جاننے والا ہے۔
- لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ:
ہر عالم کے لئے کوئی نہ کوئی لغزش ہے۔
- الْعُلَمَاءُ أَمْنَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ:
علماء مخلوق خدا پر خدا کے امین ہیں۔
- اعلم بها من غص بها:
اس کو وہی زیادہ جانتا ہے جس کو اس کا چھو لگا۔
- أَعْلَامُ أَرْضٍ جُعِلَتْ لَطَائِحًا:
زمین کے پہاڑ پست زمین بنا دیے گئے ہیں۔
- مَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ طَالَ هَمُّهُ:
جس کی ہمت بلند ہوگی اس کا فکر بھی طویل ہوگا۔
- عَمْرٌ مِنْ حَيَّةٍ:
سانپ سے زیادہ عمر والا۔
- عَمْرٌ مِنْ نَسْرٍ:
گدھ سے زیادہ عمر والا۔
- لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ وَ لِكُلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ:
ہر عمل کی جزا ہے اور ہر کلام کا جواب ہے۔
- الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا:
اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔
- الْأُمُورُ أَحْمَدُهَا مَغْبَةٌ:
بہترین کام وہ جو قابل تعریف انجام کا حامل ہو۔
- أَيَّاكَ أَمْنِي وَ سَمِعِي يَا جَارَةَ:
تجھے ہی مراد لیتا ہوں سن اسے لو ٹوڈی۔
- وَمِنْ الْعَنَاءِ رِيَاضَةُ الْهَرَمِ:
پڑھا پے میں ریاضت زحمت ہے۔
- عَادَا لِأَمْرِ الْي نِصَابِهِ:
معاملہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا۔
- عَادَتْ بَعَثُهَا لِمَيْسُ:
لمیس اپنی عادت کی طرف لوٹ گئی۔
- عَوْدَتْ كِنْدَةٌ عَادَةً فَاصْبِرْ لَهَا:
تو نے کندہ کو ایک مادت کا گور بنا دیا لہذا اب صبر کرو۔
- عَوْدِي إِلَى مَبَارِكِكَ:
اپنا ٹھکانہ تھان کی طرف لوٹ آؤ۔
- الْعُودُ أَحْمَدُ:
لوٹنا زیادہ قابل تعریف ہیں۔
- لِكُلِّ عَوْدٍ عَصَاةٌ:
ہر کزدی کا ایک بچور ہے۔ یعنی ہر ظاہر کا باطن ہے۔
- مَا كُنْتُ عَوْرًا قِيَصَابُ:
ہر چھپے ہوئے ظلم کا بیج پتہ نہیں لگ جاتا۔
- بِنَسِ الْعَوْضِ مِنْ جَمَدٍ قَيْدَةٌ:
اونٹ کے بدلے اس کے پاؤں کی رسی پورا بدلہ ہے۔ یعنی کھوئے ہوئے اونٹ کے بدلے اس کی کیا حیثیت ہے۔
- مَنْ أَعَانَكَ عَلَى الشَّرِّ ظَلَمَكَ:
جس نے شر میں تمہاری مدد کی اس نے تم پر ظلم کیا۔
- أَعْنِ أَمَّاكَ وَ لَمْ بِالصَّوْتِ:
اپنے بھائی کی مدد کر خواہ آواز سے بھی ہو۔
- أَعْنِي وَ خَلَاكَ ذَمُّ:
مجھے مدد دے اور خیر لے۔

میری مدد کر اور مدت تجھ سے دور ہو جائے گی۔

• مَا يَعْوَى وَلَا يَنْبُحُ:

نہ غیر آتا ہے نہ بھونکتا ہے۔

• لَا فِي الْعَيْرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ

نہ غیر میں اور نفیر میں یعنی قریش کے تجارتی قافلہ عمر میں اور لڑاکا قافلہ

نفیر میں شریک نہ ہونے پر طعن۔

• مَهْمَا يَعْشُ تَرَهُ:

جتنا تو زندہ رہے گا تو دیکھے گا۔

• عَيْشُ تَرَهُ مَا لَمْ تَرَهُ:

زندہ رہو دیکھے گا جو تو نے نہیں دیکھا۔

• عَيْشٌ رَجَبَاتٍ عَجَبًا:

رجب کے مہینے تک زندہ رہے عجائبات دیکھے گا۔

یعنی طلاق شدہ عورت کی عدت کے بغیر نکاح کر دے تو اس کے اخلاق کا

پتہ چل جائے گا۔

• عَيْشِي قَبْعًا تَكُنْ مَلِكًا:

قانع ہو کر زندگی بسر کر بادشاہ ہو جائے گا۔

• الْعَيْنُ نَجْعَةٌ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ:

زندگی روزگار کی طلب گاہ اور لڑائی ظاہر فریب تدبیر کا نام ہے۔

• أَنْتَ مَرْءٌ عَيْشٌ وَمَرْءٌ حَيْشٌ:

تو کبھی عیش ہے کبھی لکڑ۔ یعنی بھی خوشحالی اور کبھی تنگی۔

• عَيْنٌ عَرَفَتْ فَذَرَفَتْ:

آنکھ نے پہچان لیا اور بھر آئی۔

• عَيْنُ الْهَوَى لَا تَصْدُقُ:

خواہشات کی آنکھ نظر سچی نہیں ہوتی۔

• عَيْنُهُ قَرَارَةٌ:

اس کی نظریں دانت دیکھ لیتا ہے۔

• عَيْنُكَ عَيْرِي وَالْفَوَادِ فِي ذِي:

تیری آنکھ رونے والی ہے مگر وہ قلب و لب میں ہے۔

• رَبُّ عَيْنٍ أَمُّ مِنْ لِسَانٍ:

بہت سی آنکھیں زبان سے زیادہ چٹل خور ہوتی ہیں۔

• بَعِينٌ تَرَانِي يَا جَمِيلُ أَرَاكَ:

اے جمیل جس آنکھ سے جیسے تو دیکھا اسی آنکھ سے میں تجھے دیکھتا ہوں۔

• لَيْسَ لِعَيْنٍ مَارَأَتْ:

آنکھ کے لئے نہیں ہے جو اس نے دیکھ لیا۔

• الْعَيَانُ لَا يَتَحْتَاكُ الْيَابَانَ:

آنکھوں دیکھی چیز بیان کی محتاج نہیں ہے۔

• عَمِي صَامِتٌ خَيْرٌ مِنْ عَمِي نَاطِقٍ:

خاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے۔

• أَوَّلُ الْعَمَى الْإِفْلَاطُ:

غضب میں آنا عاجزی کی ابتلاء ہے۔

• أَعْيُنِي مِنْ بَاقِلٍ:

باقل سے بھی زیادہ اپنی مراد ظاہر کرنے سے عاجز۔

غ

• عَشْتُكَ خَيْرٌ مِنْ سَتَمِينِ غَيْرِكَ:

تمہارا اولاد غیر کے قریب سے بہتر ہے۔

• عَذْرَاكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْإِسَاءَةِ:

جس نے برائی کی طرف تمہاری رہنمائی کی اس نے تم سے عذاری کی۔

• أَعْدَرُ مِنْ غَدِيرٍ:

جو ہر وقت اپنے مالک کا پانی جذب کر رہتا ہے اور کچھ دن بعد خشک کر دیتا

ہے۔

• إِنَّ عَذَا لِنَاطِرِهِ قَرِيبٌ:

آنے والی کل اس کے دیکھنے والے کے قریب ہے۔

• عَسَى عَذْلُ لَغَيْرِكَ:

ممکن ہے کہ آئندہ کل تیرے غیر کے لئے ہو۔

• لِكُلِّ عَدِيدٍ طَعَامٌ:

ہر آئندہ کل کے لئے کھانا ہے۔

• أَعْرُ مِنْ سَرَابٍ:

سراب سے زیادہ دھوکا دینے والا۔

• أَعْرُ مِنَ الْأَمَالِي:

آرزوں سے زیادہ فریب دینے والا۔

• أَعْرُ مِنْ ظَلْمِي مُقْمِرٍ:

چاندنی میں ہر پھرنے والے ہرن سے زیادہ فریب کھایا ہوا۔

• وَكُلُّ غَرِيرٍ لِلْغَرِيبِ نَسِيبٌ:

مسافرا کا قریب ہوتا ہے۔

• مَنْ غَرِبَلِ النَّاسِ نَحْلُوهُ:

جو لوگوں کو چھانے کا لوگ اس کو چھان کر بھوسی نکال دیں گے۔

• غَرْنَانٌ فَارِبِكُوا لَهُ:

بھوکا ہے اس کے لئے کھانا تیار کرو۔ ایک آدمی سفر سے واپس آیا بھوک

لگی ہوئی تھی تو پیدا اٹس لڑکے کی خوشخبری نہ سنی تو یہ لفظ اس کے لئے بولا

گیا۔

• أَوَّلُ الْغَزْوِ أَحْمَقُ:

پہلی لڑائی نا تجربہ کا شکار ہوتی ہے۔

- اَغْبِرَةٌ وَجُنَا: کیا غیرت بھی اور نامردی بھی۔
- غَبِضٌ مِنْ فَبِضٍ: بہت میں سے تھوڑا۔
- عِنْدَ الْغَايَةِ يَعْرِفُ السَّبْقُ: انتہا کے وقت سبقت معلوم ہوگی۔

ف

- فَتَلَّ فِي الدُّوْرَةِ وَالْغَارِبِ: اس کے کوہان کے اوپر آگے بل دیا۔
- فَتَى وَلَا كَمَا لَكَ: جوان اور بھی ہیں لیکن مالک جیسے نہیں۔ متم نے اپنے مقتول بھائی مالک کی تعریف یہ قول کہا تھا۔
- اَيْ فَتَى قَتَلَهُ الدُّحَانُ: کون سا جوان ہے جس کو دھوئیں نے مارا ہے۔ دھوئیں کی وجہ سے مرنے والے کے لئے کسی عورت نے کہا تھا۔
- كُلُّ فَتَاةٍ بِاَبِيهَا مُعْجَبَةٌ: ہر دوشیزہ اپنے باپ کے ساتھ ناز کرتی ہے۔
- رَبُّ فَرْحَةٍ تَعُوذُ تَرْحَةً: بہت سی خوشیاں رنج بن جاتی ہیں۔
- لَيْسَ الْقَبْرُ سُبْحًا: گھوڑا اپنی جمل کی وجہ سے نہیں۔
- هَمَّا كَمَا قَرَسِي رَهَانَ: وہ دونوں ریس کے گھوڑوں کی طرح ہیں۔
- مَا كَلَّ فَرْصَةَ مُنَالٍ: ہر فرصت دوبارہ نہیں ملتی۔
- اَفْرَطَ فَاَسْقَطَ: وہ بولا اس نے غلطیاں کی بہت زیادہ۔
- تَفَرَّقَ الْقَوْمُ اَبْدَى سَبَا اَوْ اَبَادَى: قوم پر آگندہ ہو گئی سب کے لشکر کی طرح۔
- مِنْ فُسْدَاتٍ بَطَانَتُهُ، كَمَا كَمِنَ مَضْنُ بِالْمَاءِ: جس کے اہل عیال سے بگڑ جائیں وہ اس طرح ہے جس طرح پانی سے اچھو لگ جائے۔
- اَفْسَدَ مِنَ السُّوسِ: کھپڑا و کھنڈالے والا کپڑا سے زیادہ فساد ڈالنے والے۔
- اَفْسَدَ مِنَ الْجَرَادِ: ٹڈی سے زیادہ فساد کرنے والا۔

- اَعْشَمُ مِنَ السَّيْلِ: سیلاب سے زیادہ ظالم۔
- مَنْ غَضِبَ مِنْ لَأَشِيءٍ رَضِيَ مِنْ لَأَشِيءٍ: جو ادنیٰ چیز سے غضبناک ہو گا وہ ادنیٰ چیز سے راضی بھی ہو جائے گا۔
- غَضِبَ الْخَيْلُ عَلَى الْجُمِّ: گھوڑوں کا غصہ لگام پر ہے۔
- غَلَّ يَدَا مُطْلَقَهَا: ہاتھ میں اس کے آزاد کرنے والے نے طوق ڈال دیا ہے۔
- اِذَا لَمْ تَغْلَبْ فَاحْبِبْ: غالب نے اس کے توجہ تدریس سے کام کرے۔
- مَنْ غَالَبَ الْاَيَّامَ غَلِبَ: جو زمانہ پر غالب آنے کی کوشش کرے گا وہ مغلوب ہو گا۔
- يَغْلِبُ الْكِرَامَ وَ يَغْلِبُهُنَّ اللِّيَامُ: عورتیں شریفوں پر غالب آتی ہیں اور کینے مردان پر غالب آتے ہیں۔
- الْعَمْرَاتُ ثُمَّ يَنْجَلِينَ: اب سختیاں میں پھر خد اہو جائیں گی۔
- عَنَمٌ مِنْ سَلِيمٍ: جو بچ رہا وہ غنیمت رہا۔
- اَغْنَى الصَّبَاحُ عَنِ الْمَصْبَاحِ: صبح نے چراغ سے بے نیاز کر دیا۔
- اَغْنَى عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْاَقْرَعِ عَنِ الْمَشْطِ: کسی چیز سے اس سے بھی زیادہ بے نیاز جتنا گنجا کھسی سے۔
- وَ هَلْ يُعْنَى مِنَ الْحَدَثَانِ لَيْتَ: کیا کاش کہا حواث سے بے نیاز کر سکتا ہے۔
- مَنْ لَمْ يُعْنِهِ مَا يُلْعَبُهُ اَعْجَزَهُ مَا يُغْنِيهِ: جس چیز شخص کو کافی ہونے والی چیز نے بے نیاز نہ کیا اس کو بے نیاز کرنے والی چیز عاجز کر دے گی۔
- عَنِ النَّفْسِ اَفْضَلُ مِنْ عَنِ الْمَالِ: نفس کی بے نیازی مال کی بے نیازی کے بڑھ کر ہے۔
- اِنَّ الْعِنِي طَوِيلُ الذَّيْلِ مَيَّاسٌ: مالدار و امن دراز اور ناز سے چلنے والا ہے۔
- مَنْ غَابَ غَابَ نَصِيْبُهُ: جو غائب ہو گیا اس کا حصہ بھی غائب ہوا۔
- الْعَيْنَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ: پیٹھ پیچھے برائی کی عاجز کی طاقت ہے۔
- كَمَا الْمُسْتَعِيْبُ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ: اس شخص کی طرح جو سورج کی گرمی سے آگ کی طرف لے جاتے۔

- فوت شدہ پھر نہیں مل سکتا۔
- افوت من امس:
- کل گذشتہ سے زیادہ فوت شدہ۔
- مُفَوِّزٌ عَلِقَ شَسًا بَالِيَا:
- بیابان طے کرنے والا نے بوسیدہ مٹکیزہ لٹکایا ہے۔
- افق قبل ان يحضر ثراك:
- ہوش میں آ جا قبل اس کے کہ تیری قبر کھود دی جائے۔
- افواہها محاسها:
- ان کا منہ ان کے امتحان کی جگہ ہے۔

ق

- قُبَّةُ نَجْرَانَ:
- نجران کا قبہ۔ یہ قبہ مبارک سمجھا جاتا تھا۔
- كَالْقَابِسِ الْعَجَلَانَ:
- جلد باز آگ لینے والی کی طرح ہے۔
- كَالْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ:
- پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے کی طرح جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں جلدی کرے۔
- اِنَّهُ لَقَابِضَةٌ رَفِضَةٌ:
- وہ کبھی پڑکے والا اور کبھی چھوڑنے والا۔
- قَتَلْتُ اَرْضَ جَاهِلِيَّهَا:
- زمین نے اپنے سے شجر کو مار ڈالا ہے۔
- الْقَتْلُ انْفَى لِلْقَتْلِ:
- بعض قتل زیادہ روکنے والے ہیں قتل سے۔
- مَقْتُلُ الرَّجُلِ بَيْنَ فَكِّيهِ:
- آدمی کی قتل گاہ اس کے دونوں جیزوں کے درمیان ہے۔
- قَدَّتْ سَيُورُهُ مِنْ اَدِيمِك:
- اس کے تھے تیری کھال سے کاٹے گئے۔
- مِنْ يَقْدَرُ عَلَى رَدِّ امْسٍ اَوْ تَطْيِينِ عَيْنِ الشَّمْسِ:
- گذشتہ کل کے لوٹانے یا چشمہ آفتاب پر خاک ڈالنے کی قدرت کو ن رکھتا ہے۔
- اِنَّ الْمَقْدِرَةَ تَذْهَبُ الْحَفِيظَةَ:
- قدرت پانا غضب کو زائل کر دیتا ہے۔
- اِذَا قَدِمَ الْاِخَاءُ سُمِّحَ النَّاءُ:
- جب بھائی چارہ اپنا ہوا جاتا ہے تو تعریف بری معلوم ہوتی ہے۔
- يَفْقَدُ رَجُلًا وَّيُؤَخِّرُ اٰخَرِي:
- ایک قدم آگے بڑھاتا ہے دوسرا پیچھے ہٹاتا ہے۔

- اَفْسَدُ مِنْ اَرْحَبَةٍ:
- دیکھ سے زیادہ فساد کرنے والا۔
- فَسَا بَيْنَهُمُ الظَّرِيانُ:
- ان کے درمیان ظریان گوز مارویا
- افصح من سبحان وانل:
- سبحان داخل سے زیادہ فصیح۔
- فَضْلُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ مَكْرَمَةٌ:
- قول سے عمل کی زیادتی بزرگی ہے۔
- فَضْلُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ دَنَاءَةٌ:
- عمل پر قول کی زیادتی کینگی ہے۔
- الْفَضْلُ لِلْمَبْتَدِیِّ وَاِنْ اِحْسَنَ الْمُقْتَدِی:
- فضیلت ابتداء کرنے والے کے لئے ہے۔ خواہ پیروی کرنے والا اچھا کر دکھائے۔
- الْاَفْضَلُ الْمَعْرُوفُ اِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ:
- بہترین نیکی مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچانا ہے۔
- لَا اَفْعُلُ كَذَا مَا اِنْ السَّمَاءُ سَمَاءً وَلَا اَفْعَلُهُ مَا اِنْ فِی السَّمَاءِ نَجْمًا:
- میں ایسا نہیں کروں گا جب کہ آسمان آسمان ہے میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک آسمان پر کوئی ستارہ ہے۔
- فَكُنْتُ كَفَافِي عَيْنِيهِ عَمْدًا:
- میں اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالے۔
- خَيْرُ الْفَقِيهِ مَا حَاضَرَتْ بِهِ:
- بہترین علم وہ ہے جو ضرورت کے وقت جواب دے سکے۔
- لَا تَفَكَّرْ فَلَهَا مُدَبِّرٌ:
- نہ فکر کر اس کا تدبیر کرنے والا ہے۔
- لَا يَقْلُ الْحَدِيدَ اِلَّا الْحَدِيدُ:
- لوہے کو لوہا کند کرتا ہے۔
- فَمُ تَسْبِيحٌ وَّيَدٌ تَدْبِيحٌ:
- منہ تسبیح پڑھ رہا ہے ہاتھ قتل کر رہا ہے۔
- فِی فَيْسِي مَاءٌ وَّ هَلْ يَنْطِقُ مَنْ فِی فَيْهِ مَاءٌ؟
- میرے منہ میں پانی ہے اور کیا وہ شخص بولتا ہے جس کے منہ میں پانی ہو۔
- يَفْنَى مَا فِی الْقُدُورِ وَّ يَبْقَى مَا فِی الصُّدُورِ:
- جو ہانڈیوں میں ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو سینوں میں ہے باقی رہے گا یعنی مال فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا۔
- لَمْ يَفْتُ مَنْ لَمْ يَمُتْ:
- جو مرنا نہیں وہ فوت نہیں ہوا۔
- الْفَايِتُ لَا يَسْتَدْرِكُ:

- لَيْسَ الْفَوَادِمُ كَالْفَوَافِي.
- بڑے آخر بڑے ہیں بڑے چھوٹے کی طرح نہیں ہوتے۔
- لِكُلِّ قَدِيمٍ حَرَمَةٌ.
- ہر پرانی چیز کی ایک حرمت ہوتی ہے۔
- لَيْسَ بِمَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ تُبِينُ.
- جس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں۔
- أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
- شرگ سے زیادہ قریب۔
- لَا قُرْبَةَ كَحُسْنِ الْخَلْقِ.
- خوش اخلاقی ہے بہتر تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔
- إِذَا فَرَحَ الْجَنَانُ بَكَتِ الْعَيْنَانِ.
- جب دل زخمی ہوتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں۔
- إِذَا مَا التَّارِظُ الْغَزِي أْبَا.
- جب غزی قارظ کے بچے جھنڈے والا واپس آجائے۔
- فَلَانٌ لَا تَفْرَعُ الْعَصَا.
- فلاں کے لئے عصا نہیں کھسکا یا جاتا۔
- قَرِينُكَ سَهْنُكَ يُخَطِي وَ يُصِيبُ.
- تیرا ساتھی تیرا تیرا ہے جو کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی نشانے پر لگ جاتا ہے۔
- أَحْضَى مِنْ صَخْرٍ.
- چٹان سے زیادہ سنگدل۔
- قَشْرَتْ لَهُ الْعَصَا.
- میں نے اس کے واسطے عصا کو چھینا۔
- أَحْفَصِرْ لِمَا أَنْفَرِ.
- جب دیکھا تو باز رہ گیا۔
- مَا أَحْفَصِرُ لِلْمَيْلِ عَلَى الرَّاقِدِ.
- سونے والے پر رات کتنی چھوٹی ہوتی ہیں۔
- كُلُّ مُقْتَصِرٍ عَلَيْهِ كَانِ.
- جس چیز پر اکتفاء پر زیادہ کافی ہے۔
- لِكُلِّ قَضَاءٍ جَالِبٍ وَ كُلِّ دِرِّ حَالِبٍ.
- ہر حکم کا موجب ہوتا ہے اور ہر دودھ کا کوئی دوسنے والا۔
- قَطَعَتْ جُهَيْزَةَ قَوْلَ كُلِّ حَاطِبٍ.
- جہیزہ نے ہر بولنے والے کی بات کاٹ دی۔
- إِذْ أَقْطَعْنَا عَلِمًا بَدَأَ عَلِمٌ.
- جب ایک پہاڑ کو ہم نے طے کر لیا تو دوسرا پہاڑ ظاہر ہو گیا۔
- قَطَعَ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ الْمَطَامِعِ.
- لالچ لوگوں کی گردنیں کٹا دیتی ہے۔

- مِنْ قَلِّ ذَلٌّ وَ مِنْ أَمْرٍ قَلٌّ.
- جو شخص کم ہو وہ ذلیل ہو گیا اور جو ذلیل ہو گیا وہ کم کر دیا۔
- لَا قَلِيلَ مِنَ الْعُدَاةِ وَلَا عِنَ وَالْمَرْضِ.
- دشمنی کینہ اور مرض ذرا سی چیز کم نہیں۔
- لَا قَلِيلَ قَلْبٍ لَهُ ظَهْرُ الْمِجْنِ.
- اس کی طرف ڈھل کی پشت پھیر دی۔
- الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصْرِ.
- دل بینائی کی کتاب ہے۔
- مِنْ الْقَلْبِ إِلَى الْقَلْبِ.
- دل سے دل کی طرف۔
- فِي بَعْضِ الْقُلُوبِ عُيُونٌ.
- بعض دل میں آنکھیں ہوتی ہیں۔
- الْقُلُوبُ تُجَازِي الْقُلُوبَ.
- دل ہی دل کی مکافات کرتے ہیں۔
- أَفْلَحَ شَوْكَكَ بِيَدِكَ.
- اپنے کانٹے کو اپنے ہاتھ سے نکال۔
- فِي الْقَمَرِ ضِيَاءٌ وَالشَّمْسُ أَضْوَاءٌ مِنْهُ.
- چاند میں روشنی ہے لیکن سورج اس سے بھی زیادہ روشن ہے۔
- لَا تَقْتَنِ مِنْ كَلْبٍ سُوءَ جَرِّهِ.
- کتے کا پلاست ہاں۔
- كُنْ قَائِبٌ مِنْ قُوبٍ.
- ہر چوزہ انڈے سے نکلتا ہے۔
- مِنْ قَالَ مَا لَا يَسْمَعُ مَا لَا يَسْتَهْيِي.
- جو شخص نامناسب بات کہے گا وہ نامرغوب باتیں سنے گا۔
- لَهُ قُلْتُ تَمْرَةٌ لِقَالَ جَمْرَةٌ.
- اگر میں کھجور کہوں تو وہ انگارہ کہے گا۔
- قَدْ قِيلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًّا وَ إِنْ كَذِبًا.
- یہ بات کہی جا چکی ہے سچ ہو یا جھوٹ۔
- إِذَا قَالَتْ حِذَامٌ فَصَدَّ قُورُهَا فَإِنَّ التَّوَلَّ مَا قَالَتْ حِذَامٌ.
- جب حذام کوئی بات کہے تو اس کی تصدیق کرو کیونکہ قول وہی درست ہے جو حذام نے کہا۔
- الْقَوْلُ يَنْفَعُ مَا لَا تَنْفَعُ الْأَبْرُ.
- بات اس چیز میں بھی سوراخ کر دیتی ہے جس کو سونے نہیں چھینا سکتی۔
- مَا كُنْ قَوْلٌ لَهُ جَوَابٌ.
- ہر بات کا جواب نہیں۔
- رَبُّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ.
- بہت سی باتیں حملہ سے بھی زیادہ سخت ہیں۔

- قیدی سے زیادہ جھوٹ بولنے والا (روایت کرنے والا)
- اَكْذَبُ مِنَ الْاَخِيذِ:
قیدی سے زیادہ جھوٹا۔
- اَكْذَبُ مِنْ دَبِّ وَدَرَجِ:
زندوں اور مردوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹا۔
- اِنْ كُنْتَ كَذُوْبًا فَكُنْ ذُكُوْرًا:
اگر تو جھوٹا ہے تو یادرکھنے والا بھی بن۔
- كَانَ كِرَاعًا فَصَارَ ذِرَاعًا:
وہ کرا تھا پھر گدبن گیا۔
- حَتَّامٌ تَكْرَعُ وَلَا تَنْفَعُ:
تو کب تک پانی پیتا ہے گا۔
- مِنْ كَرَمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَيْئُوْتُهُ:
جس شخص کو اپنا نفس حریص ہو گا اس کو اپنی شہوت خفیر معلوم ہوگی۔
- اسْتَكْرَمَتْ فَا رَبَّطَ:
تو نے شریف الاصل کو پالیا لہذا باندھ۔
- اَكْرَمُ مِنْ حَاتِمِ طِي:
حاتم طائی سے زیادہ صاحب کرم۔
- اَلْكَرْمُ اِذَا رَمِيَ عَلَيِ الْعَصِمِ تَبَا:
شریف آدمی کو جب عظیم پر مائل کیا جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔
- مَكْرَةٌ اَخْوَاكُ لَا يَطْلُ:
تیرا بھائی مجبور کیا گیا پہلوان نہیں۔
- اَكْسَبُ مِنَ نَمَلِ:
چیونٹی سے زیادہ کمانے والا۔
- اَكْسَبُ مِنَ ذَنْبِ:
بھیڑیے سے زیادہ طلب کرنے والا۔
- اَكْسَبُوا وَاْمَسَاكًا:
کیا ترشرونی اور بچل دونوں۔
- اَكْسَبِي مِنْ بَصَلَةٍ:
پیاز سے زیادہ لباس پہننے والا۔
- عَصِيْبَةٌ نَجْرَانِ:
یمن کا قدیم ترین شہر جس میں ان کا کعبہ تھا جو ویران ہو گیا۔
- كَالْكَعْبَةِ تَبَارُو وَلَا تَبْرُو:
کعبہ کی طرح جس کی زیارت کی جاتی ہے۔
- هَذَا الْمَكْمَلُكَ مِنْ ذَاكَ الْعَجِيْنِ:
یہ ایک اسی آئے کا تو ہے۔
- اَلْكَفْرُ مَحِيْبَةٌ لِنَفْسِ الْمُنْعَمِ:
کفر ان نعمت کو حاسد نفس کرنے والا ہے۔

- وَبَعْضُ الْقَوْلِ يَذْهَبُ فِي الرِّيَاحِ:
بعض باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔
- اِذَا قَامَ بَكَ الشَّرُّ فَاَقْعُدُ:
جب شر تجھے کھڑا کرے تو بیٹھا رہے۔
- لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ:
ہر جگہ کی مناسب ایک گفتگو ہوتی ہے۔
- هَلْ يَسْتَقِيْمُ اَظْلٌ وَالْعُوْدُ اَعْوَجُ:
کیا سایہ سیدھا ہو سکتا ہے جب لکڑی ٹیڑھی ہو۔
- هِرْمِيْمٌ كُلُّ اِمْرٍ مَا يَحْسِبُهُ:
ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے اچھا بناتی ہے۔

ك

- اَكْثَرُ مِنَ لَبِيْدِ:
لبد سے زیادہ نعر۔
- اَكْتَمَ مِنَ الْاَرْضِ:
زمین سے زیادہ چھپانے والا۔
- مَنْ اَكْثَرَ اَهْجَرُ:
جو زیادہ بولے گا تو کبواس کرے گا۔
- تَكْثُرُ الْحَزَنُ وَتَنْحَطِبِي الْمَفْصَلِ:
تو بہت کاشتا ہے مگر جو زپر غلطی کھاتا ہے۔
- مِنْ كَثْرَةِ الْمَلَايِحِيْنَ غُرِقَتِ السَّفِيْنَةُ:
ملاحوں کی کثرت سے کئی ڈوب گئی۔
- اِنْ كَانَ لَكَ اَكْثَرِي فَتَجَافِ لِيْهِ مِنَ الْبِسْرِي:
میرا بہت تمہارے لیے وقف ہے تو میرے ٹھوڑے سے درگزر کر۔
- اَلْمَكْشَاءُ كَمَا طَبَّ لَيْلِ:
زیادہ بولنے والی بات کو لکڑیاں جھکنے والے کی طرح ہے۔
- اَكْذَحُ لِيْ اَكْذَحُ لَكَ:
تو میرے لیے سستی کر میں تیرے لیے سستی کروں گا۔
- اَكْذَبُ النَّفْسِ اِذَا حَدَّثَتْهَا:
جب اپنے دل سے باتیں کرو تو اس سے جھوٹی باتیں بنا۔
- اَلْكَذْبُ دَاءٌ وَالصَّدَقُ شِفَاءُ:
جھوٹ بیماری ہے اور سچ شفا ہے۔
- اِنْ كَذَبَ نَجْحِيْ فَصَلِّدُكَ اَخْلُقُ:
اگر جھوٹ نے نجات دے دی تو سچ بدرجہ اولیٰ نجات دینے والا ہے۔
- اَكْذَبُ مِنْ يَلْمَعِ:
سراب سے زیادہ جھوٹا۔
- اَكْذَبُ اَحْدُوْتُهُ مِنَ اَبِيْرِ:
اگر جھوٹا ہے تو اسے جھوٹا ہی کہتے ہیں۔

اگر مجھے بیماری کی وجہ سے داغ دیا جاتا تو میں نے ناگوار نہ جانتا۔

ل

- تلبیدی تصبیء
- زمین پر چٹ جاتا کہ تو شکار کرنے۔
- لبس له جلد النهر:
- اس نے جیسے کی کھال اوزہ لی۔ یعنی دشمن بن گیا۔
- بعد اللتیا والتی:
- اس اور اس کے بعد چھوٹی بڑی مصیبت کے بعد اس شخص کی مثال چھوٹے
- قد والی عورت سے شادی کے بعد بڑے قد والی سے بڑی تکالیف آئیں۔
- و من اللجاجة ما یضُر و ینفع:
- بعض جیتیں وہ ہیں جو ضرر پہنچاتی اور نفع بھی دیتی ہیں۔
- اللحظ احدق انباء من اللفظ:
- نگاہ الفاظ کی یہ نسبت زیادہ سچی خبر دیتی ہے۔
- لحظ اصدق من لفظ:
- نظر لفظ سے زیادہ سچی۔
- لا لحقن حواقنه بد و افد:
- میں اس کے معدہ کو ٹھوڑی سے ملا دوں گا۔
- اذا تلاححت الخصوم تسافهت الخلوم:
- جب دشمن گالی گلوچ پر اتر آئے تو برد بار بھی احمق بن جاتا ہے۔
- من لاحناك فقد عاداك:
- جس نے تجھے برا بھلا کہا اس نے تجھ سے دشمنی کی۔
- تلذغ العقرب و یصخ:
- بچھوڑنگ بھی مارتا ہے اور چیتا بھی ہے۔
- الذ من الغیمة الباردة:
- غنیمت بارہ سے زیادہ لذیذ۔
- الذ من المنی:
- آرزوں سے زیادہ لذیذ۔
- الزم للمرأة من ظله:
- سایہ سے بھی زیادہ آدمی کے ساتھ لازم رہنا۔
- الزم من الیمین للشمال:
- بائیں کے لئے داہنے سے بھی زیادہ لازم۔
- الزم من زر لعروہ:
- اس سے بھی زیادہ لازم جتنا کہ شبن کاج کے لئے لازم ہوتا ہے۔
- لسان الحال بین من لسان المقال:
- زبان حال زبان قال سے زیادہ واضح ہے۔
- لسان من رطب و ید من خشب:

• الكفالة مدامة:

• کفالت اور ضمانت موجب پشیمانی ہے۔

• كفى المرأة فضلاً أن تعدّ معانیه:

• آدمی کے فضل کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اس عیب کے شمار ہو جائیں۔

• یكفیک مما لا تری ما قد تری:

• تمہارے لیے دیکھی ہوئی چیزیں ان دیکھی ہوئی چیزوں کی طرف سے کافی ہیں۔

• من كان لك كلة كان عليك كلة:

• جو شخص پورا تمہارے لیے ہے۔ اس کا پورا بوجھ تم پر ہے۔

• والكل محمول على اذى الفضل:

• بوجھ اہل ثروت پر ہی ڈالا جاتا ہے۔

• كل كلب بابیه نباح:

• ہر کتابچہ دروازے پر بھونکنے والا ہے۔

• الكلب كلب لو طوفته ذهاباً:

• کتابچہ رہے گا خواہ اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈال دیں۔

• كلب عس خیر من اسد ریض:

• گھومنے اور تلاش کرنے والا شکار پر بیٹھے ہوئے شیر سے بہتر ہے۔

• كلفتنی منج البعوض:

• تو نے مجھے چمچہ کے مغز کی تکلیف دی ہے۔

• كلت الیک عرق القربة:

• میں نے تیری طرف آنے میں مکینزہ کے سینے کی تکلیف اٹھائی۔

• لبس مع التکلف تطرف:

• تکلف کے ساتھ طرفت نہیں ہوتی۔

• كلام للیل یمحوه النهار:

• رات کی بات کو دن مٹاتا ہے۔

• كلام كالغسل و فعل كالاسل:

• کلام شہد کی اور کام کبڑے کی طرح۔

• كلام لیّن و ظلم بین:

• کلام نرم اور ظلم کھلا۔

• كلامة ریح فی نفس:

• اس کا کلام بچہ میں ہوا کی طرح ہے۔

• لكل كلام جواب:

• ہر کلام کا جواب ہوتا۔

• رب كلمة سلب نعمة:

• بہت سے کلمے نعمت سلب کر دیتے ہیں۔

• لو کویت علی أداء لم اکره:

ہے۔

- ما كان ليلى عن صباح ينجلي:
- میری رات صبح کو ظاہر نہیں کرتی۔
- إِنَّه الليل و أخواج الوادي:
- رات ہے اور وادی کے پتھروں کے
- لَيْسَ الْكَلَامُ قَيْدَ الْقُلُوبِ:
- نرم بات دلوں کی بیڑی ہے۔



- مثل النعامه لأظير ولا جمل:
- شتر مرغ کی طرح ہے نہ پرندہ ہی ہے اور نہ ہی اونٹ۔
- مثل أئنة الجبل معما يقل تقل:
- صدائے بازگشت کی طرح کہ جب کوئی بولے تو بول اٹھے۔
- لمثل هذا كنت أحسبك الحسا:
- ایسے ہی وقت کے لئے میں تجھے حریرہ پلا تا تھا اسی وقت کے لیے پلا تا تھا۔
- بمثل يئكأ القرع:
- وہی مجھ جیسے شخص کے ہاتھ زخم کرید اجاتا ہے۔
- من محصنك مؤذنه فقد خولك فبهجة:
- جس نے اپنی محبت تیرے لیے خلوص کی اس نے جان کا تجھے مالک بنا دیا۔
- عند الامتحان يُكرم الرجل أو يُهان:
- امتحان کے وقت آدمی کی عزت ہوتی ہے یا بے عزتی۔
- مع المحض يبدو الزبد:
- بونے سے بھی مکھن نکلتا ہے۔
- قد كان ذلك مرة فاليوم لا:
- یہ کبھی تھا مگر اب نہیں ہے۔
- امر من العلقم:
- حظل اندر رائے سے زیادہ کڑوا۔
- امر من الحنظل:
- حظل اندر رائے سے زیادہ کڑوا۔
- المرأة باصفره:
- آدمی اپنے قلب و زبان کی وجہ سے ہی آدمی ہے۔
- المرأة تواق الى مالهم ينل:
- آدمی ان چیزوں کا شائق ہوتا ہے جو اسے حاصل نہیں ہوتی۔
- المرأة حيث يصنع نفسه:
- آدمی اس درجہ پر ہوتا ہے جہاں اپنے نفس کو رکھے۔
- المرأة بيحليله:
- آدمی اپنے دوست کے ساتھ شمار ہوتا۔

- زبان تر کجور ہے اور ہاتھ لکڑی کا ہے۔
- لسان المرء من خدام الفواد:
- مرد کی زبان دل کے خدام میں سے ہے۔
- اللسان مركب ذلول:
- زبان سیدھا ہوئی سواری ہے۔ یعنی اختیار میں ہے۔
- اللقم تورث النقم:
- بہت سے لقمے غصہ اور انتقام پیدا کرتے ہیں۔
- لو القمته عسلاً لعص صبي:
- اگر میں نے اسے شہد بھی چنایا تو وہ میری انگلی چبا ڈالے گا۔
- كأنما القمه الحجر:
- گویا کہ اس پتھر کو لٹکھوایا۔
- لقيت منه عرق التربة:
- میں نے اسے مشک کے پینے کی محنت و مشقت اٹھائی۔
- ما يلقي الشحي من الخلي:
- غمگین بے غم سے کیا پائے گا۔
- الق حبله على غاربه:
- اسی کی رسی اس کے کوہان پر ڈال دو۔
- الق في اذلاء ذلوك:
- ذولوں میں تم بھی پناؤں ڈال دو۔
- انى يلتقى والسهى سهيل والسعى:
- سہیل اور سہا کہاں مل سکتے ہیں۔
- من يلق ابطال الرجال يكلم:
- جو پہلوانوں سے دوچار ہو گا وہ زخمی ہو گا۔
- بغير اللهب ترتيق الفتوق:
- کھیل ہی میں شگاف پر نہیں ہو جاتے۔
- ليس يلام مارب من حنقة:
- اپنی موت سے بھاگنے والے سے ملامت نہیں کی جاتی۔
- رب لائم مليم:
- بہت سے ملامت کرنے والے خود ملامت ہوتے ہیں۔
- رب ملوم لا ذنب له:
- بہت سے ملامت کئے ہوئے لوگوں کا کوئی عذر نہیں۔
- رب ملوم لا عذر له:
- بہت سے ملامت کئے ہوئے لوگوں کا کوئی عذر نہیں۔
- الليل اخفى للويل:
- رات شر کو زیادہ چھپانے والی ہے۔
- الليل طويل وانت مقمير:
- رات لمبی ہے اور تو چاندنی میں ہے یعنی صبر کرو مراد پوری ہونے والی

- بارش میں بھیجا ہوا سمجھتا ہے کہ شخص بارش میں بھیگ گیا۔
- الْمُعِيدِي تَسْمَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ قَرَأَ: معیدی کو سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔
- قَدْ يُمْكِنُ الْمَضْرَبُ بَعْدَ مَا رَمَحَ: کبھی پتھر اسوار گرانے کے بعد اپنے اوپر قدرت دیتا ہے۔
- لَيْسَ لِمُلُوكٍ صِدْقٌ: ملوک کا کوئی دوست نہیں۔
- مَلِكٌ ذَا أَمْرٍ أَمْرَةٌ: کام کے لائق شخص ہی کو کام کا مالک بناؤ۔
- مَا أَمْلَكُ شِدًّا وَلَا إِرْحَاءَ: نہ میرے قبضے میں باندھنا ہے اور نہ ڈھیل دینا۔
- لَا يَمْلِكُ شَرُّوِي نَقْرٌ: وہ نقر جیسی چیز کا مالک نہیں۔
- أَلْمِنَةُ خَدِيمِ الْمَنِيْعَةِ: احسان چلانا نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔
- أَمْنَعُ الْجَمِيْعِ الْوَضِي الْجَمِيْعِ: سب نہ دینے والا سب نہ راضی کرنے والا۔
- أَمْنَعُ مِنْ أَنْفِ الْأَسَدِ: شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ۔
- أَمْنَعُ مِنْ عِقَابِ الْمَجْرُومِ: فضاء کے عقاب سے زیادہ محفوظ۔
- أَمْنَعُ مِنْ لَهَاءِ اللَّيْثِ: شیر کے تالو سے زیادہ محفوظ۔
- كُلُّ مَمْنُوعٍ مَتَّبِعٌ: ہر ممنوع چیز طلب کی جاتی ہے۔
- إِذَا تَمَنَيْتَ فَاسْتَكْبِرْ: جب تمنا کرے تو بہت زیادہ کر۔
- رَبُّ أُمْنِيَّةٍ جَلِيْتُ مَنِيَّةٍ: بہت سی تمناؤں موت کو کھینچ لاتی ہیں۔
- أَلْمَنِيَّةُ لَا ذَنِيَّةَ: موت بہتر ہے نہ ذلت۔
- تَمُوتُ الْحَيْرَةُ وَلَا تَأْكُلُ بِنْدِيهَا: شریف عورت مر جاتی ہے مگر اپنے پستانوں کے ذریعے نہیں کھاتی۔
- أَلْمَوْتُ أَهْوَنُ مَا بَعْدَهُ وَأَشَدُّ مَا قَبْلَهُ: موت کے بعد کی حالت سے موت آسان ہے اور پہلے کی حالت سے موت زیادہ شدید ہے۔
- هَذَا مَيِّتٌ لَا يَسَارِي هَذَا الْبِكَاءَ:

- أَلْمَرْءُ بِرَأَاةِ أَخِيهِ: آدمی اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔
- كُلُّ امْرِئٍ يَحْتَضِبُ بِخَبْلِهِ: ہر آدمی اپنی رسی میں باندھن جمع کرتا ہے۔
- كُلُّ امْرِئٍ فِي بَيْتِهِ صَبِيٌّ: ہر آدمی اپنے گھونچ ہوتا ہے۔
- كُلُّ امْرِئٍ فِي مَا يَوْمِي بِهِ: ہر شخص کوئی ایسی چیز ہے جس کا رس پر اتھام لگا جائے۔
- تَمْرَدٌ مَا رَادَ وَ عَزَّ الْأَبْلَقُ: بارونے سہرکشی کی اور ابلق سخت ہو گیا۔ حصول مقصد سخت ہو گیا۔
- مَنْ مَرَضَتْ سَرِيْرَتُهُ مَا شَتَّ عَلَانِيَتَهُ: جس کا باطن بیمار ہو گیا اس کا ظاہر مر جائے گا۔
- أَمْرَعَتِ الْعَجْزَاءُ: ریت کا ٹیلہ سر سبز ہو گیا۔
- أَمْرَعَتِ فَانَزِلُ: تو نے سر سبز زمین پالی یہیں اتر پڑ۔
- كَا الْمَتَمَرِّغِ فِي دَمِ الْفَعِيْدِ: مقتول کے خون میں لوٹنے والے کی طرح۔
- أَمْرَقٌ مِنْ سَهْمٍ: تیرے سے زیادہ پار ہو جانے والا۔
- أَلْمَرْأَحُ لِقَاحِ الضَّانِنِ: مذاق کینہ کا حامل ہے۔
- أَلْمَتْرَاحَةُ تَذْهَبُ الْمَهَابَةَ: مذاق رعب کو زائل کر دیتا ہے۔
- مَنْ يَمْشِ بِرِضٍ بِمَارِكَبٍ: جو شخص پیدل چلے لگاؤہ سواری پر رضامند ہو جائے گا۔
- أَمْضِي مِنَ الرَّيْحِ: ہوا سے زیادہ گزر جانے والا۔
- أَمْضِي مِنَ السَّيْفِ: تلوار سے زیادہ تیز گزر جانے والا۔
- أَمْضِي مِنَ السَّهْمِ: تیرے سے زیادہ تیز گزر جانے والا۔
- أَمْضِي مِنَ الْأَجَلِ: موت سے زیادہ نافذ ہونے والا۔
- أَمْضِي مِنَ الْقَدْرِ الْمَتَّاحِ: مقرر تقدیر سے زیادہ نافذ ہونے والا۔
- يَحْسَبُ الْمَمْطُورُ أَنْ كَلَامًا مَطْرًا:

یہ مردہ اتنے رونے کا مستحق نہیں ہے۔

دور کی عورت سے نکاح کرو نہ کہ اقارب کی عورتوں سے۔

مَا تَجْلِبُو الرِّيحَ تَأْخُذُهُ الرِّيحُ
وہ مال جس کو ہوا چھو کر لاتی ہے اس کو بکولے بکولیتے ہیں۔

نَزَلَتْ مِنْهُ بَوَادِعُ زُرْعٍ
تو اس کے پاس بغیر بھیگی کی وادی میں اترتا ہے۔

مَاءٌ وَلَا كَصِدَاءٍ
پانی ہے مگر صداء جیسا نہیں۔

إِذَا نَزَلَ بِكَ الشَّرُّ فَاقْعُدْ
جب تم پر شر نازل ہو تو بیٹھ جا۔

يَأْمَأُ لَوْ بَغِيرًا لَوْ غَضِمَتْ
اے پانی کاش تیرے سوا کسی چیز میرے پھندے لگتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ نَسِيحُهُ فَاسْتَجِيبْ وَخَيْرٌ
اس کا بننا تیرے ذمہ تو نہیں ہے لہذا سچ اور ٹھیک۔

إِنَّهُ نَسِيحٌ وَحَدَهُ
وہ ایک ہی بنا ہوا ہے۔

ن

أَنْأَى مِنَ الْكُؤُوبِ
ستارہ سے بھی زیادہ دور۔

إِنَّ النَّسَاءَ حَبَائِلَ الشَّيْطَانِ
عورتیں شیطان کا جال ہیں۔

لَا يُبْنِتُ الْبَقْلَةُ إِلَّا الْحَلْفَةَ
ساگ کو کھیت ہی اگا تا ہے۔

إِنَّ النَّسَاءَ شَقَائِقُ الْأَقْوَامِ
عورتیں مرد کا نصف حصہ ہیں۔

نَيْحُ الْكَلَابِ لَا يَضُرُّ بِالسَّحَابِ
کے کا بھولنا بادل کو ضرر نہیں دیتا۔

النَّشِيدُ مَعَ الْمُسْرَقَةِ
شعر خوانی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے۔

أَنْجَزَ حُرْمًا وَعَدَدًا
شریف نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔

أَنْشَطُ مِنْ ظُلْمِي مُقْمِرٌ
چاندنی رات والے ہرن سے زیادہ خوش۔

نَاجِرًا بِنَاجِرٍ
نقد افتد۔

إِذَا نَصَرَ الرَّأْيَ بَطَلَ الْبُهْوَى
جب عقل کی خواہش ہوتی ہے تو خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے۔

ذُو بَهَةِ الشَّجَمِ
اس سے بچنے ہی تو ستارہ ہے۔

نُضْرَةُ الْحَقِّ شَرْقِيَّةٌ
حق کی امداد امر تا شرافت و بزرگی ہے۔

مَنْ نَحَابَرُ أَبِيهِ فَقَدْ رَجَعَ
جو اپنا سر پچائے گا وہ لوٹ ہے۔

مُرْمَرٌ لَوْ أَنْصَفَ النَّاسُ لَأَبْتَرَا حِ الْفَاضِلِ
اگر لوگ انصاف سے کام لیتے تو مصحف کو آرام مل جاتا۔

مَا أَنْتَ نَجِيَّةٌ وَلَا سَيِّئَةٌ
نہ تو نجات یافتہ نہ عقید۔

لَا يُنْصَفُ حَلِيمٌ مِنْ جَهُولٍ
بردار بھیل سے انصاف نہیں لیتا۔

نَحْتُ أَثْلَيْتَهُ حَمَاؤُ كُوَيْمِلٍ دِيَا
اس نے انکے حماؤ کو چھیل دیا۔

نَصْفُ الْعَقْلِ مَدَارَةُ النَّاسِ
منساری آدمی عقل ہے۔

النَّدَمُ عَلَى السَّكُوتِ خَيْرٌ مِنَ النَّدَمِ عَلَى الْقَوْلِ
خاموشی پر ندامت بولنے پر ندامت سے بہتر ہے۔

أَنْصَحُ إِخْوَانِي كُنْتُ مَدَى
تیرے بھائی نے پکایا پھر راہ ملا دی۔

أَنْدَمُ مِنَ الْكُفْرِ
مسمی سے زیادہ نادم۔ مسمی نے اپنے تیر ضائع کر لیے اور کمان توڑ دی بعد میں افسوس زدہ ہوا۔

عِنْدَ النَّطَاحِ يُغْلَبُ الْكَبِيرُ الْأَكْبَرُ
سینگ ٹرانے کے وقت بے سینگ میٹھا مٹھا مغلوب ہو جائے گا۔

أَنْطِقُ مِنْ سَحَابٍ
سحاب سے زیادہ خطیب۔

كُلُّ النَّدَاءِ إِذَا نَادَيْتَ يَخْذُلِي إِلَّا النَّدَاءَ إِذَا نَادَيْتَ بَا
مالیہ جو میں دیتا ہوں۔ مجھے رسوا کرتی ہے بجز اس آواز کے کہ کہوں یا

مَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوَائِبِ
جو انجام پر نظر کرے گا حادثوں سے محفوظ رہے گا۔

مَالِي
مالی۔

جُو بَحِيرٌ مِنْ حَسَارٍ نَعِجَةٌ أَكَلَتْ الذَّنْبَ
جو بھیر بے گاں کو بھیر یا کھا جائے گا۔

الْقِرَانُ لَا الْقِرَانِ

• رَبِّ نَعْلٍ سَرٍّ مِنَ الْحَفَاءِ:

• بہت سے جوتے ننگے پاؤں ہونے سے زیادہ برے ہیں۔
• نَعْمَ كَلْبًا مِنْ بَوسِ اَهْلِهِ:

• کتابچے آقا کی سختی و فقر سے موٹا تازہ ہو گیا۔ یعنی جانور مرنے لگے تو

• مالک کے کتے ان کو کھا کر موٹے ہو گئے۔

• مَثَلُ الْعَامَةِ لَا طَيْرٍ وَالْأَحْمَلِ:

• شتر مرغ کی طرح نہ پرندہ ہے نہ اونٹ۔

• نَفِيحَتُ فِئِ غَيْرِ ضَرْمٍ:

• تو ایسی چیز میں پھونک دے رہا ہے۔

• مَا بَهَا نَافِعٌ ضَرْمَةٌ:

• مکان میں کوئی آگ پھونکنے والا بھی نہیں۔

• انْفَذَ مِنْ سِهَمٍ:

• تیر سے زیادہ سوراخ کرنے والا۔

• انْفَرَّ مِنْ ضَمِي:

• ہرن سے زیادہ بدکنے والا۔

• انْفَرَّ مِنْ نَعَامَةٍ:

• شتر مرغ سے زیادہ بدکنے والا۔

• انْفَرَّ مِنْ بَصِيرِ اَزْبٍ:

• گھنے بالوں والا اونٹ سے زیادہ بدکنے والا۔

• نَفْسٌ عَصَامٌ سَوَدَتْ عَصَامًا:

• عصام کے نفس نے عصام کو سردار بنا دیا یعنی زور بازو سے بادشاہ بن گیا۔

• النَفْسُ مَوْلَعَةٌ بِحَبِّ الْعَاجِلِ:

• نفس شیعا ہے جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھنے والا۔

• النَفْسُ تَعْلَمُ مِنْ اِخْوَاهَا النَّافِعِ:

• نفس جانتا ہے کہ اس کا نافع بھائی کون ہے۔

• مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْمًا اَكَلَتْهُ الْكِلَابُ:

• جو شخص اپنے آپ کو بڑی بنا لے گا۔ اس کو کتے کھا جائیں گے۔

• مَا يَنْفَعُ الْكَبِدَ يَضُرُّ الطَّحَالَ:

• جو چیز کبڈ کو نفع دیتی ہے وہ تلی کے لئے مضر ہے۔

• لَا يَنْفَعُ حَذْرٌ مِنْ قَدَرٍ:

• احتیاط تقدیر کے مقابلے میں نفع نہیں دیتی۔

• مَا تَنْفَعُ الشَّعْنَةَ فِي الْوَادِي الرَّغْبِ:

• خفیف بارش و سبج وادی کو نفع نہیں پہنچائی۔

• لَا يَنْفَعُكَ مِنْ جَارٍ سَوْءٍ بَوقٍ:

• برے پڑوسی سے بچنا بے فائدہ ہے۔

• وَ مَا نَفَعَ اَسْبِوْفٌ بِلَا رِجَالٍ:

• بغیر آدمیوں کے گھوڑے کی فائدہ۔

• التَّقْدُ عِنْدَ الْحَافِرَةِ:

• نقد سبقت کے وقت ہوتا ہے۔

• التَّقْدُ صَابِرُونَ الْقَلْبِ:

• نقد دل کا صابرون ہے۔

• مَا تَقْصُ مِنْ مَالِكَ مَا رَادَ فِي عَقْلِ:

• جس مال نے تیری عقل میں اضافہ کیا وہ کم نہیں ہوتا۔

• مَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ فَقَدْ نَقَلَ عَنْكَ:

• جس نے تیری طرف نقل کیا وہ تم سے نقل کرے گا۔

• انْقَلَبَ مِنْ فِئَةٍ:

• سایہ سے زیادہ منھل ہونے والا۔

• انْقَى مِنَ الذَّمِّعَةِ:

• آنسو سے زیادہ شفاف۔

• انْقَى مِنْ مَرَأَةِ الْغَرِيبَةِ:

• اجنبی عورت کے ششے سے صاف۔

• تَرَكْنَهُ عَلَيَّ مِنَ الرَّاحَةِ:

• میں نے اس کو ہتھیلی سے زیادہ صاف حالت میں چھوڑا۔

• انْكَرَ مِنْ شَيْءٍ:

• شئی سے زیادہ غیر معین۔

• انَّمْ مِنَ التَّرَابِ:

• مٹی سے زیادہ چغل خور۔

• انَّمْ مِنَ الصُّبْحِ:

• صبح سے زیادہ نماز۔

• مِنْ نَهَشْتِهِ الْحَيَّةُ حَذَرَ الرَّسِ:

• سانپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے۔

• هَلْ يَنْحَضُ الْبَازِيُّ بِلَا حَنَاحٍ:

• کیا شکر البغیر بازوں کے اڑ سکتا ہے۔

• لَا تَنْهَ عَنِ خَلْقٍ وَ تَاتِي مِثْلَهُ:

• کسی ایسی عادت سے لوگوں کو منع مت کرو جس کو تم خود کرتے ہو۔

• النَّاسُ مَجْرَبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ:

• لوگوں کو اپنے اعمال کی جزا ملے گی۔

• النَّاسُ اتِّبَاعٌ مِنْ غَلَبِ:

• لوگ غالب آدمی کے تابع ہوتے ہیں۔

• النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا:

• لوگ نہ معلوم چیز کے دشمن ہوتے ہیں۔

• النَّاسُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ:

• لوگ احسان کے غلام ہوتے ہیں۔

• لِكُلِّ انَّاسٍ فِي بَعِيرٍ هَمٌّ خَيْرٌ

لوگ اپنے اپنے اونٹوں کی خبر رکھتے ہیں۔

• استنوق الجمّل:

اونٹ ناقد بن گیا۔

• لاناقتی فی هذا ولا جملي:

نہ اس معاملے میں میرا اونٹ ہے نہ میری ناقد۔

• نام عصام ساعة الرحيل:

کوچ کے وقت عصام سو گیا۔

• النوى أول الشجرة:

کھلی درخت کی ابتدا ہے۔

۵

• يهبُّ مع كلِّ ربح:

ہر ہوا کے ہمراہ چل پڑتا ہے۔

• الهدى من القطا:

قطا سے زیادہ ہدایت یافتہ۔

• الهدى من البدالي الفم:

منہ کی طرف جانے والے ہاتھ سے زیادہ ہدایت یافتہ۔

• لا تهرّف بما لا تعرف:

جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کی تعریف میں مبالغہ مت کر۔

• هرق علي جمرک:

اپنی چنگاری پر پانی ڈالو۔

• اذا هلك غير فعيّر في الرباط:

اگر ایک گدا ہلاک ہو گیا تو اسی میں دوسرا موجود ہے۔

• اما هلك و اما ملك:

یا ہلاکت یا ملک۔

• اهلك من ترهات الساسب:

صحر اکی شاخ در شاخ راستوں سے زیادہ ہلاک کرنے والا۔

• كل هذا لي فرج:

ہر غم کٹاؤ گی کی طرف لے جاتا ہے۔

• هان على الاملس في الذب:

صاف پیٹھ والے اونٹ پر وہ چند آسان ہے جس سے زخمی پیٹھ والا دوچار ہے۔

• من هانت عليه نفسه فهو علي غير ه اهن:

جو اپنے آپ ہلاک سمجھے گا وہ دوسرے کے لئے اور بھی زیادہ ہلاک ہو گا۔

• من اهان ماله اكرم نفسه:

جو اپنے آپ کو ذلیل کرے گا وہ اپنے نفس کو معزز بنائے گا۔

• هوّن عليك ولا تولع باسحاق:

پروانہ کر اور کم ہونے سے خوف نہ کر۔

• اهنون من النباح على السحاب:

بادلوں پر بھونکنے سے زیادہ ہے۔

• اهنون من تعيس علي عمته:

اس سے بھی زیادہ بے قدر جتنا تعیس اپنی چھو بچی کے نزدیک تھا۔

• ما اهنون الحرب على النظارة:

تماشا دیکھنے والے کے نزدیک لڑائی کتنی آسان ہے۔

• ان الهوان للنسيم مرامنة:

کینے کے لیے بے سگری مہربانی ہے۔

• ان الهوى من النوى:

محبت دوری سے ہوتی ہے۔

• ان الهوى شريك العنى:

محبت اندھے پن کی طرح ہے۔

• ان الهوى الهوان:

محبت ذلت کا نام ہے۔

• من هاب خاب:

جو ڈرا ناکام ہوا۔

• من هاب الرجال تهيّبوا:

جو لوگوں سے ڈرے گا لوگ اس کو ڈرائیں گے۔

و

• لولا الونام لهلك الانام:

اگرچہ موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔

• زجع ساعة ولا كل ساعة:

ایک گھڑی کی تکلیف نہ کر ہر گھڑی کی۔

• لم اجد لسفرة محزط:

میں نے پھرے کے لئے کانٹے کی جگہ نہ پائی۔

• قد يوجد في النهار ما لا يوجد في البحر:

کبھی نہر میں وہ چیز مل جاتی ہے جو سمندر میں نہیں ملتی۔

• الوحدة خير من جليس السوء:

بڑے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے۔

• وحمى بلا حيل:

حمل کے بغیر مختلف اشیاء کی خواہش کرنے والی۔

• دع غنك نبات الطريق:

شاخ در شاخ راستوں کو چھوڑ کر۔

• دع الغوراء نخطاط:

بری چیز کو چھوڑ دو تم سے تجاوز کر جائے گی۔

- دع القطانيم و شريغير:
- قظا کو سوجانے دو اور شہر کو گذر جانے دو۔
داغ اللوم ان اللوم عن النواذب:
- ملا مت چھوڑو ملا مت کرتا مصائب کا معین مددگار ہوگا۔
و ذع مالا مودعه:
- مال کو اس کی ودیعت رکھنے والے نے ہی چھوڑ دیا۔
بکل واد بنو سعد:
- ہر وادی میں بنو سعد ہی ہیں۔
لکل واد من ثعلبة:
- ہر وادی میں بنو ثعلبہ کا اثر موجود ہے۔
وراک او بسع لک:
- تیرے پیچھے تیرے لیے زیادہ وسیع معاملہ ہے۔
ماوراک اوراک یا عصام:
- تیرے پیچھے کیا ہے اے عصام یعنی نعمان کا کیا حال ہے جس نے مجھے اپنے پاس داخل ہونے سے روک دیا ہے یہ نابغہ عناصر کا قول ہے۔
اور ذک ما لم تصدیر:
- تو نے وہ چیز اتاری ہے جس کو واپس نہیں کر سکتا۔
حتى یرد الضب:
- یہاں تک کہ گویا پانی پیئے۔
ما هکذا تورذ یا سعد الابل:
- اے سعد اس طرح اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔
هذا و لما تروذ نھامہ:
- یہ گھبراہٹ حالانکہ مکہ اچھی دور ہے۔
مورد الجھل و لی المنھل:
- جہالت کا گھاٹ ناخوشگوار پانی پینے کی جگہ۔
واسطۃ القلادۃ:
- بارشیں سب سے بڑا اونہ۔
او سعتلم سبوا و ذو بالابل:
- گھالیاں تو بہت کھل کر دیں حالانکہ وہ اونٹوں ہی لے گیا۔
اتسع الخرق علی الراتق:
- پھین جوڑنے والے رو وسیع ہو گئی۔
فی سعة الاخلاق کنوذ الارزاق:
- وسعت اخلاق میں رزق کے خزانے ہیں۔
کن وصی نفسک:
- اپنے نفس کا وصی بن کر۔
ان الموصلین بنو سھوان:
- وصیت کے لئے ہونے لوگ آدم کی اولاد ہیں۔
- این یضع المخنوق یدہ:
- گاٹھوٹا ہوا بنا تاجھ کہاں رکھے۔
صنع الفاس فی الراس:
- کلبلا کو سر میں رکھ دے۔
و عد الکرویم دین:
- تجی کا وعدہ قرض ہے۔
و عد بلا و فاء علاوة ملا سب:
- وعدہ پورا نہ کرنا بلا و فاء کی دشمنی مول لینا ہے۔
العدة عطیة:
- وعدہ عطیہ کی طرح ہے۔
مواعیذ عرفوب:
- عرقوب کے وعدے۔
واقش سنن طبقة او طففة:
- چڑے کا ظرف اپنے غلاف کا موافق بن گیا۔
ان لم یکن و فاق ففراق:
- موافقت نہ ہوتی تو جدائی بہتر ہے۔
اوفی من السمون:
- سہواں سے زیادہ فادار۔
لا تنفعن البحر الا سباحا:
- دریا میں اس وقت کود جب تیرنا جانتے ہو۔
وقف تحت المیزاب و فر من المطر:
- بارش سے بھاگا پر پالہ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔
اتق شر من احسنت الیہ:
- احسان کیا ہو اس کے شہر سے بھی بچو۔
سمن کلک یا کلک:
- اپنے کتے کو موٹا کرو وہ تمہیں کھائے گا۔
قد یتوتی السیف و هو مغمد:
- کبھی بیان میں ہوتے ہوئے بھی تلوار سے خوف کیا جاتا ہے۔
من اتکل علی زاد غیرہ طال جوعہ:
- جو کسی اور کے توشہ پر بھر وسہ کرے گا اس کی بھوک طویل ہوگی۔
لا تلذ الذئب الا ذنبا:
- بھیڑن بھیڑیائی بنے گی۔
ھال تلذ الحیة الا الحیة:
- کیا سنا نہیں سانپ کے علاوہ کے علاوہ کو پچھ دے سکتی ہے۔
دل حارھا من تولی قارھا:
- معاملہ کا گرم حال کو بھی اس کے سپرد کرو جو سر و حال کا ماہر ہے۔
او من من بیت العنکبوت:

- کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس کے اوپر خدا کا ہاتھ نہ ہو۔
يَدُكَ مِنْكَ وَاِنْ كَانَتْ شَلَاءً:
- تیرا ہاتھ تیرا ہی ہے اگرچہ وہ بیکار ہو چکا ہے۔
بِيْدِي لَا يَبْدِيكَ عَمْرٍو:
- اپنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں نہیں اے عمرو۔
هَمْ عَلَيْهِ يَدٌ وَاِحْدَةٌ:
- وہ سب اس پر متفق ہیں۔
هُوَ عِنْدِي بِالْيَمِينِ:
- وہ میرے نزدیک مبارک اور شریف مرینہ۔
يَوْمَ السَّرْوَرِ قَصِيرٍ:
- خوشی کا دن چھوٹا ہوتا ہے۔
يَوْمَ خَمْرٍ وَاغْدًا أَمْرٍ:
- آج شراب سے توکل ایک اہم معاملہ۔
الْيَوْمَ سَلَامٌ وَاغْدًا كَلَامٌ:
- آج سلام کل کلام ہوگا۔
مَا يَوْمَ حَلِيمَةَ بَسْرٍ:
- یومِ حليمہ کوئی پوشیدہ نہیں۔
إِنَّ مِنْ الْيَوْمِ آخِرَهُ:
- یقیناً دن کا آخری حصہ اسی دن کا حصہ ہے۔
إِنَّ مَعَ الْيَوْمِ عَدَايَا مُسْعِدَةً:
- اے مسعدہ آج کے ساتھ آنے والی کل بھی ہے۔


- کڑی کے حالے سے زیادہ کمزور۔
عِنْدَكَ وَهِيَ فَاقِيْعِيْه:
- تیرے پاس بھی پھٹا ہوا ہے پہلے اس کو پوچھ لو گا۔
وَيْلٌ لِلْحَسِيْدِ مِنْ حَسَدِهِ:
- حاسد پر اس کے حسد کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے۔
وَيْلٌ لِلرَّاسِ مِنَ اللِّسَانِ:
- سر کی ہلاکت سے زبان کے سب سے ہوتی ہے۔
وَيْلٌ لِلشَّجِيِّ مِنَ الْخَلْقِ:
- غمگین کے لئے بے غم لوگوں کی وجہ سے مصیبت ہے۔
وَيْلٌ لِّلْعَالَمِ أَمْرٍ مِنْ جَاهِلِهِ:
- نہ جاننے والے کے مقابلے میں جاننے والے کی مصیبت ہے۔
وَيْلٌ أَهْوَى مِنْ وَيْلَيْنِ:
- ایک شہر دو شہروں سے زیادہ آسان ہے۔


ي

- ایاس من غريق:
- ڈوبنے والے سے زیادہ ناامید۔
يَدُ الْحَرِّ مِيزَانٌ:
- شریف کا ہاتھ ترازو۔
يَدُ تَشْحِجٍ وَاخْرَى مِنْكَ تَأْسُوْنِي:
- تیرا ایک ہاتھ زخمی کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ مرہم لگاتا ہے۔
وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا:




ریشہ - ریشہ







نواۓ - ہیرفاریقون











حديا

